


قرآن مجید
تیک کا اثر تفسیر


مقام اعلیٰ شریعتی مدرسہ اسلامیہ، مدرسہ اسلامیہ، مدرسہ اسلامیہ، مدرسہ اسلامیہ
اللہ تعالیٰ سزاوار شامانی حاصل کرے
مبیک کنڈر پبلشرز
پتہ: قسیم کراچی

إِنَّمَا تَزِدُّنَا الْإِسْرَافَ وَاللَّسْفَ فُتُونًا




خادم الحرمين الشريفين شاه سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بمحكمة سعودى
عركت بادشاه چور، بموكرتسه آن بجموده تفسير كرمها پاك كج سعادت حاصل .

كشوف بالامر بطساعة هكذا المصحف الشريف وترجمه معانيه
خالصه لخدمه بزرگه المملكه سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه




مجمع الملائكة في طبائع الصلوة الشريفة



ترجمہ و تفسیر
میر واعظ محمد یوسف شاہ

مجمع شاہ فہدبرائے طباعت قرآن مجید

وَقَفَّ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ
الْمَلِكِ نَيْيَامَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ سَعُودٍ
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ
شُورَعٌ مَعَانَا



خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سندہ طرفہ وقف
اللہ تعالیٰ سزورضامندی حاصل کرنے خیطرہ
امیگ کٹن چھنہ جائز
مفت تقسیم کرنے خیطرہ

قرآن مجید

ۛ

تمیک کا شُر تفسیر

مجمع شاه فہد برائے طباعت قرآن مجید

مدینہ منورہ مملکت سعودی عرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
المشرف العام على المجمع

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم:

﴿... قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد ﷺ، القائل:
«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

أما بعد:

فإنفاذاً لتوجيهات خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
حفظه الله، بالعبارة بكتاب الله، والعمل على تيسير نشره، وتوزيعه بين المسلمين، في مشارق
الأرض ومغاربها، وتفسيره، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم.

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية
السعودية، بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم، إلى جميع لغات العالم المهمة، تسهيلاً لفهمه على
المسلمين الناطقين بغير العربية، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً».

وخدمةً لإخواننا الناطقين باللغة الكشميرية، بطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف
الشريف بالمدينة المنورة، أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة الكشميرية، التي قام بها الشيخ
مير واعظ محمد يوسف شاه، رحمه الله، وراجعها من قبل المجمع كل من: الشيخ عبداللطيف
شيخ عبد الرشيد، والشيخ عبد اللطيف بت الكشميري.

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هذا العمل العظيم الذي نرجو أن يكون
خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الناس.

إننا لنذكر أن ترجمة معاني القرآن الكريم -مهما بلغت دقتها- ستكون قاصرة عن أداء
المعاني العظيمة التي يدل عليها النص القرآني المعجز، وأن المعاني التي تؤدها الترجمة إنما هي
حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم، وأنه يعترها ما يعترى عمل البشر
كله من خطأ ونقص.

ومن ثم نرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
الشريف بالمدينة النبوية، بما قد يجده فيها من خطأ أو نقص أو زيادة للإفادة من الاستدراكات
في الطباعات القادمة إن شاء الله.

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

ہم جناب عزت مآب فضیلۃ الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ وزیر برائے مذہبی امور،
او قاف، دعوتِ تہ ارشادِ تہ نگرانِ اعلیٰ مجمع
ساری تعریف شوقین اللہ تعالیٰ ہی، اُس کا نائیک رب ہٹھ، ہم ذاتن پند پاک کتاب (قرآن مجید س)
منز فرمو: ”توہودت اللہ تعالیٰ سہہ طرفہ نور تہ واضح کتاب۔“

یہ آکن درود تہ سلام ہر ذاتِ مقدس جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ساری پیغمبرن تہ مرسلینن کھو تہ
افضل تہ بر تر چھ، یہ ہند ارشاد گرامی ہٹھ، ”توہہ منز چھ بہتر سوانسان ہم قرآن مجید زون تہ لوکھ زائر آون۔“
آلہاد!

خادم الحرمين الشريفين شاه سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظ الله سند تعليمات چھ کہ قرآن شریح
خدمت، نشر و اشاعت، رُوے زیتکین مشرق تہ مغربہ کین مسلمانن منز آج تقسیم، تہ آج تفسیر، یہ دنیہ جن
مختلف زبانن منز گوکھ اک ترجمہ یکن کرنہ۔

یہ چھ مملکت سعودی عرب وزارت برائے مذہبی امور، او قاف، دعوتِ تہ ارشادِ ہم کتھ ہند یقین
تھاوان کہ قرآن مجید کین معانین ہند دنیہ جن مختلف زبانن منز ترجمہ کرن کوتاہ اہم چھ، تاکہ کمن مسلمانن
پیٹھ سپہ قرآنک ہم آسان ہم عربی زبان چھن ہیکان بوتھ، یہہ ہیٹھ سہہ تبلیغ حاصل سپد تھہ سمیوک حکم نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلمن ہندس ہٹھ ارشاد پاکس منز چھ آمت دنہ ”بلغوا معنی ولو آیتہ“ میانہ طرفہ واتاود لوکن تام
سواستن آکی آیتہ“

شاہ فہد سند مجمع برائے طباعت قرآن شریف اُس مدینہ منورس منز چھ، تھہ چھ پند نین کاشتر زبان
لون والین باین ہندہ خطیرہ قرآن مجید کہ یہ کاشتر ترجمہ پیش کرنہ سیتھ خوشی سپدان۔


یہ ترجمہ چھ جناب میر واعظ محمد یوسف شاہ صابن کورمت، تہ آتھ چھ جمجھہ طرفہ نظر ثانی جناب
عبد اللطیف شیخ عبدالرشید صابن تہ جناب عبداللطیف بہت کشمیری صابن کر مٹ۔

آس چھ اللہ تعالیٰ سند سیٹھاہ تعریف کران کہ تم و آسہ یہ عظیم کام مکمل کرنچ توفیق۔ آتھ منز چھ آس
یہ امید تھاوان کہ یہ آسہ خالص رب کریم سندہ رضا خطیرہ، یہہ چھ یہ امید کہ آسہ سیت ولتہ لوکن فاندہ۔

آسہ چھ ہر کتھ ہند احساس کہ ترجمہ قرآن کر اُس منز کاژاہ تہ دقت یہ تن مد نظر تھاوانہ، تو تہ چھو آسان
سو ترجمہ کمن عظیم معانین ہنز اوانگی لغہ قاصر، یکن پیٹھ قرآن کریمک مجزانہ آیات کر یہہ چھ دلالت
کران، یہہ یکن معانین یہ ترجمہ چھ ظاہر کران، یہہ چھو کتاب اللہ کس ہمس منز مترجم سند مبلغ ملک نتیجہ، آتھ
ترجمس منز یہہ کہ نہ غلطی، نقص پیش تھہ، بس غلطی بشرہ سزمنہ تہ کامہ منز چھ پیش یوان۔

لہذا چھ آس پر ہٹھ تمس شخص نشہ یہ امید تھاوان اُس یہ ترجمہ پرہ کہ اگر سویتھ ترجمس منز کا نہہ غلطی
نقص یا زیادتی لبہ، تمس پرہ مجمع الملک فہد برائے طباعت قرآن شریف مدینہ منورس آج خبر دن، تاکہ انہ
والین ایڈیشنن منز یہہ یکن ملاحظاتن نشہ استفادہ کرنہ۔ ان شاء اللہ

اللہ تعالیٰ چھ توفیق دنہ و دل، یہہ چھ سوی سینر و تھ ہاون و دل۔ دعا چھ لے اللہ ژہ کسانن یہہ کوشش
قبول۔ بے شک چھو کھ شئی سوری بوزہ و ن سوری زانہ و ن



سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ گوڈ پھس بو کران خدایہ سدہ تاوہ سیت ئس سیٹھاہ رحم کرہ ون پھ۔ ئس
سیٹھاہ مہربان پھ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ ساری تعریف تہ مدح تہ شان پزین تس ذات پاکس یسند ناؤ پھو اللہ۔ کیا زہ پریتھ چیزاہ تہ پریتھ
تعمتھاہ سپدہ کرہ ون تہ پھوسوی عطا کرہ ون تہ پھوسوی۔ لہذا شو من حمد و شاکس یوت۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ ئس
مالک تہ پرورش کرہ ون پھو ساری عالم ہند۔ مخلوق اتن ہند اکھ اکھ جنس پھو گنر نہ یوان اکھ اکھ عالم۔ مثلاً
عالم ملائکہ۔ عالم انسان۔ عالم جن۔ عالم جمادات۔ عالم نباتات۔ عالم وحوش و طیور۔ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ئس ساری رحم کرہ ون پھو دنیاہس اندر۔ ئس پن رحمت جاری تھاوہ ون پھو بالیمان پیٹھ آخر تس اندر
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ئس مالک تہ اختیار ہوول پھو جزاء کہہ ڈبک جزاء کہہ ڈوہ گو قیامتگ دوہ۔ سمہ دوہہ رن
پنہ نین عملن ہند بدلہ۔ سم پھو کورمت آہہ سونلہ تیوٹھ پھل اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ چانی یاژ
پھہ آس بندگی تہ پرستش کران بیہ نہ کانہہ ہنز، بیہ پھہ آس تری یوت یاری تہ مدد منگان بیہ نہ کانہہ۔ بیہ پھو
بندن ہندہ طر فہ خدایہ سزہ در گاہہ اندر التجا بیہ پھہ ناؤ اللہ تعالیٰ ان پن بندہ جہندس دربارس اندر کھ پانھ
گدھ حاضر سڈن۔ تھ پانھ گدھ سوال کرن۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بیہ ہاؤلسہ سیز و تھ دتج۔
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ و تھ تمن لوکن ہنز تمن تریہ نعو عطا کریتھ یعنی نبوتج نعمت رسالت
نعمت۔ صدیق نعمت بیہ شہادتج نعمت صلاح نعمت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تہنز و تھ
نہ تمن پیٹھ چان ژ کہ پھ۔ تمن پیٹھ ژہ ہیزار پھو کہ تہنز ہا فرمانی سبہ۔ بیہ نہ تہنز و تھ تم گمراہ سپد، و تہ نشہ
ڈل۔ تم گیے یہود و نصاریٰ۔ بیہ ساری باطل فرقہ تم افراط و تفریطس منز مبتلا سپد۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي ذَلِكِ الْكِتَابِ لِارِيبٍ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

سورہ بقرہ، جہو مدنی زہ ہت تہ شیعہ شیتھ آیہ کریمہ

التَّحْمِيمِ گے حروف مقطعات یمن ہند معنی زانہ پانہ پروردگار ذَلِكِ الْكِتَابِ یہ سب کتاب یعنی قرآن مجید نُس، جُہو لَارِيبٍ فِيهِ کا نہ شک، جہو نہ اتھ اندر۔ اِسْ کلام الہی آسَس اندر هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یہ جُہو بوڈ ہدایت خدائس کھوژہ ون ہندہ خیطرہ۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ تم خدائس کھوژہ ون بندہ گے تمے تم پڑھہ تہ یقین جھہ کران تمن چیزن تم نہ تمود تھمتی جھہ۔ یعنی یم چیز تھند یو حواسو تہ عقلہ نَشِر پُوشیدہ جھہ۔ صرف جھہ خداو پیغمبر خدایہ سندہ فرمانہ سیت تمن چیزن پڑھہ کران تہ تمن صحیح تہ درست مانان۔ تم چیز گے خدا۔ ملائک۔ قیامت۔ جنت تہ جہنم۔ یعنی یم لوکھ خدائس کھوژان جھہ تمن جُہو یہ قرآن مجیدو تھہ ہادان۔ کیا زہ نُس اکھاہ پنہ نس خدائس کھوژان آسہ تس جھہ فخر تہ تلاش آسان تمن کا یم ہنزیمہ کامہ خدائس ہند جھہ۔ یہ یمن کا یم پڑھہ سُو بیزار چھو تمن جھہ فکر آسان خدای سز طاعت کرہ نَج۔ تھندہ معصیت ونا فرمانی نَشہ پتھہ روزہ نَج۔ یمن نا فرمان ہندن و لن اندر خدایہ سُنَد خوف آسہ نہ تمن جُہو نہ طاعت و معصیتک کہنہ اندیشہ تہ فکر۔ امہ اندرہ سُد معلوم تم لوکھ یمن پُوشیدہ چیزن پڑھہ آسن نہ کران تم جھہ ہدایتہ نَشہ محروم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہ گے خدائس کھوژہ ون تم لوکھ تم برپا تہ قائم جھہ تھوان ہمیشہ نمازہ پانڑھہ۔ تمہہ کیو حقوقو تہ شرطو تہ آدابوسان۔ وتچہ پابندی سان وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ یہ گے خدائس کھوژہ ون تم لوکھ تم تمہ مالہ اندرہ نُس اسی تمن عطا کورمت چھو آسن خرچ کران۔ اہل و عیال تہ آشناون تہ ہمساین تہ مستحقن پڑھہ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ یہ گے خدائس کھوژہ ون تم لوکھ تم

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵﴾
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ
 أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷﴾ وَمِنَ النَّاسِ
 مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸﴾

پڑھ چھ کر ان تھے کتابہ یوسہ توہہ کن نازل آہیہ کرنہ۔ بیہ تمہن کتابن پیٹھیمہ توہہ بروٹھ نازل آہیہ
 کرنہ بروٹھمن پیٹھیرن پیٹھ۔ ایمان چھ ونان پوزگنز رنس۔ یمہ کتابہ اللہ تعالیٰ ان حضرات مرسلمین پیٹھ
 نازل کرہ مژہ چھ۔ توریت و انجیل وزبور و صحف تمہ سارے کتابہ چھ پڑہ۔ تمہن کتابن ہنز پڑھ آسن
 چھ شرط ایمان۔ چھ روز عمل کرن سوچھ صرف قرآن مجیدس پیٹھ کرن۔ کیاہہ تمہ سارے کتابہ
 چھ قرآن مجیدہ سیت منسوخ تہ ناقابل عمل قرار دنہ آمرہ۔ **وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ** بیہ تمہ آخرت تہ
 چھ پور پڑھ کر ان۔ یہ دُنیا چھو خم گڑھ دن۔ امہ پتہ چھو بیاکھ عالماہ۔ تھہ عالمس آخرت و نان چھ۔
 تھہ عالمس اندر کرہ اللہ تعالیٰ بدکارن، نافرمان عذابس تہ سزاس گرفتار۔ تھہ عالمس اندر آہیہ
 باایمان جنت تہ چلتے نمو عطا کرنہ۔ **أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ** تے لوک چھ پتہ نس پروردگار
 سزہ تھہ وتہ پیٹھ یوسہ تمہندہ طرفہ ہاندہ آہیہ **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** بیہ چھ تے لوکھ رستگارتہ
 کامیاب (تمہ نور آہیہ کریمہ چھ باایمان ہندس مدحس اندر بیان کرنہ آمت) سموزیوہ سیت تہ دلہ
 سیت قرآن مجیدس تہ دلمن اسلامس ایمان اون۔ امہ پتہ چھو بیان تمہن لوکن ہند سمبو بدل وزبان انکار
 کور **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا** بے شک سمبو لوکو انکار کور **سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ** برابر ہی چھو بیہندہ خیطرہ **أُنذِرْتَهُمْ** **أَمْ**
لَمْ تُنذِرْهُمْ **لَا يُؤْمِنُونَ** توہہ کر دیمن ہمیانہ کر یوکھ تمہ زمانہ ایمان اتن نہ کیاہہ **خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ**
قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ خداین چھ مہر کر مژہ ہندین دلمن بیہندین کنن پیٹھ **وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ**
 بیہ چھو تہزنن اچھن پیٹھ ٹھور تمہ کن چھندہ پڑہ کتھہ تمہن فکرہ تران۔ **وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ**

يُخِذُ عُونََ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخِذُ عُونََ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
 وَمَا يَشْعُرُونَ ۙ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۗ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ﴿١٠﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۙ ﴿١١﴾ وَإِذَا قِيلَ
 لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۙ ﴿١٢﴾
 إِلَّا أَنَّهُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۙ ﴿١٣﴾ وَإِذَا

تہندہ خیرہ چہو بوڈ عذاب۔ سو گونا جہنم۔ امہ پتہ چہو اللہ تعالیٰ فرماوان ترواہ آیات کریمہ منافقن
 ہندس مذقس اندر یمن ہند ظاہر اکھ آسہ باطن بیاکھ۔ تمن ہنز زیواکھ آسہ دل بیاکھ۔ کیاہہ تمن ہند شر
 چہو سیٹھاہ زیادہ بین ہندہ خوتہ ومن التائیس من یقول امنا باللہ وبالیوم الآخر۔ بیہ چھہ کینہہ لوکھ ایم
 زیوہ سیت ونان چھہ آسہ کر پڑھ خدایس بیہ پتمس دوہس یعنی قیاس و ماہم یؤمنین حالانکہ ہرگز
 چھہ تم پڑھ کرہ ون دلہ سیت خدایس نہ قیاس مکتس دوہس یخید عون اللہ والذین امنوا پتہ خیالہ چھہ
 تم دھو کہ بازی کران خدایس تہ با ایمان سیت و ما یخید عون الا انفسہم و ما یشعرون لیکن
 در حقیقت چھہ تم دھو کہ دو ان مگر پان پانس۔ مگر باسان تہ ثینان چھہ تم۔ امیک شعور چھہ تمن
 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً تہندن دن اندر چہو بڈ مرض۔ نفاق مرض۔ دین اسلامہ
 فیہ نفر تک مرض حسدک مرض بیہ عبادک مرض۔ تم مرض آس تمن برو نطھی۔ وون سپد
 قرآن مجید نازل۔ اسلامس دیت اللہ تعالیٰ ان عزت و شوکت۔ بیہ سپز روز بروز اہل اسلامن ترقی۔
 تم چیز و چھتھہ سپز تہندس مرض اندر زیادتی۔ پس کر کہ اللہ تعالیٰ ان زیادتی تھہ مرض اندر
 ولہم عذاب الیم بیہ چہو تہندی خیرہ آخرتس اندر کڈر عذاب کیماکانو ایکذ یون ای موکھ
 کہ تم آس اپزونان۔ بل ونان آمناب اللہ۔ واذ اقبل لہم لا تفسدوا فی الارض یلہ ونہ چہو یوان
 تمن فسادہ تلیو منافقت تہ تا فرمانی کر نہ سیت قالوا دبان چھہ تم کہہ انما نحن مصلحون اس چھہ
 مگر معاملتن سہالہ ون تہ اصلاح کرہ ون تھہ حالات در ست گڑھن۔ اللہ تعالیٰ چہو فرماوان الا انہم

قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنْتُمْ كَمَا اٰمَنَ
 السُّفَهَاءُ ۗ اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾
 وَاِذْ اَقْوَامٌ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ۗ وَاِذَا خَلُوْا اِلَى
 شَيْطٰنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۴﴾
 اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ وَيَبْدُ لَهُمْ فِى طٰغِيٰنِهِمْ يُعٰمَهُوْنَ ﴿۱۵﴾

هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وارہ بوزوای بوزوینو تھے چھہ فی الحقیقت بتاہی تہ فساد کرہون۔ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ لیکن تمہ چھنہ تمیک شعور۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ تھے پاٹھ یلہ ونہ چھہ یوان تمہ منافقن ایمان انو۔ پڑھ کر و خدا و پیغمبر خدا نئس تھے پاٹھ تھے پاٹھ ساروی لو کو ایمان اُون تہ پڑھ کر قَالُوْا اَنْتُمْ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ دپنہ چھہ لگان کہ سبہ اس انوہ ایمان تھے پاٹھ تھے پاٹھ سموبے عقلو ایمان اون۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ خبر دار روزوارہ بوزوای بوزہ دینو۔ پڑھاٹھ تھے چھہ فی الحقیقت بے عقل تہ بے وقوف۔ مگر تمہ چھنہ پن بے وقوفی زان تگان وَاِذْ اَقْوَامٌ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا بی یلہ تم منافق چھہ سمکھان، ملاقات کران با ایمان سیت تمہ چھہ ونان بل زیوہ سیت اسہ اُون ایمان۔ وَاِذَا خَلُوْا اِلَى شَيْطٰنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ تمہ پتہ یلہ واتان چھہ خلوتس اندر پنہ نین شیطان نش یعنی پنہ نین شریر سرداران تہ زٹھن نش تمہ چھہ وانان بیشک اس چھہ توہی سیت دلہ کن اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ اس چھنہ مگر با ایمان آمانونہ سیت اکھ ٹھٹھاہ تہ مخلوہ کران۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ وَيَبْدُ لَهُمْ فِى طٰغِيٰنِهِمْ يُعٰمَهُوْنَ اللہ تعالیٰ تہ چھہ تمہ ٹھٹھہ کران۔ تہ گواہی زہ ڈجر چھٹھہ تراوان۔ مہلت چھٹھہ دو ان تم چھہ پنہ سرکشی اندر انین ہند پاٹھ تھپہ دو ان۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الصَّلٰةَ بِاَلْهٰدٰى يَمِمْ گے تھے سمومل ہر گراہی ہدایتس۔ فَمَا رِيَبَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ پس کانہہ نفع تہ فائدہ دیت نہ تہند تجارتن۔ بیہ آس نہ تم و تھہ لبہ ون۔ ہزس گن آہی نہ تمہ کانہہ اتھاہ و تھاہ۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِيْ اسْتَوْقَدَ نَارًا

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ
 وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۷﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
 فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي
 ظُلْمٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۸﴾ ضَمُّ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۸﴾ أَوْ
 كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ
 أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ

تہنہ، مثال چھہ تہ شخصہ سزہش تم زول تہ پرزہ وواکھ نارہا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ اَدہ یلہ تم نارن
 روشن کور تہ یہ تہہ لہد پک اوس ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ ژہتہ کور اللہ تعالیٰ ان تہند نور تہ روشنی وَتَرَكَهُمْ
 فِي ظُلْمٍ لَا يُبْصِرُونَ بیہ تراون تم تم اس نارزالہ وئس سیت آس انہ گئں اندر کہ بوزنہ اوسکھ نہ
 یووان کہہنہ۔ تہہ پاٹھ یہ شخص بیہ یم تہ سیت آس روشنی حاصل سپد تہہ لہد گہ منر گر قمار سپد مت تہہ
 پاٹھ سپد مناق پوزواضح تہ روشن سپد نہ پتہ ضلالت وگمراہی ہنزہ تاریکی منر گر قمار۔ تہہ پاٹھ تہنہ اچھہ
 تہ کن تہ زیوبکار سپد۔ تہہ پاٹھ سزہ یمن مناقن ہنز حالت ضَمُّ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ زہ چھہ تم
 پوز بوزنہ نشہ۔ کل چھہ تم پزس اقرار کرنہ نشہ۔ ان چھہ تم پوزو چھنہ نشہ۔ پس پھیرن تہ رجوع کرن
 نہ تم سمواحتو نشہ اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ تہ چھہ کن مناقن ہنز مثال تمہ
 رودج ئس آسکھ طرفہ یوان آسہ۔ تہہ اندر آس انہ گہ تہ لگراہ تہ و زمکہ۔ تہہ رودس منز آسہ
 پکان لوکن ہنز اکھ جماعتہا يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ تہ لوکھ آس
 پنہ او گجہ زورہ واتاوان پنہ نین کنن اندر ترٹن ہندہ موکھ موکھ بیہ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ تم چھہ پنہ
 خیالہ موتہ نشہ چچہ تک تدبیر کران۔ مگر اللہ تعالیٰ گوت چھڈہ تم۔ اللہ تعالیٰ چچہ کافرن تہ نافرمان
 پر تہہ طرفہ احاطہ کر تہہ۔ تہ نشہ ہکن نہ تم کن گڑھتہہ۔ يَكَادُ الْبَرْقُ يُخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ وزہ ملکن
 تہنہ چھہ یہ حالت کہ خیال چچہ گڑھان تم و ز ملن ہندہ گاشہ سیت ماہیہ انبو تہنن انھن كَلِمًا

بِالْكَافِرِينَ ۝۱۹ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ
 مَشْوَاهُ فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ
 بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۲۰ يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۲۱ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۝

اَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَاهُ فِيهِ سیمہ سیمہ ساتہ وز لمن ہنز روشنی تمن پیٹھہ پیوان چھہ تم چھہ تمہ کس گاش
 منز پن ہوان۔ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا تو پتہ یلہ تمن پیٹھہ تاریکی تہ لہ گمہ چھہ سپان ودنہ چھہ
 روزتھہ گوشان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اللہ تعالیٰ ہر گاہ یٹھہ ہا کائن کرہ ہاتھندہ
 بوزنگ طاقت۔ بیہ وچھک طاقت نہ روزہ بچھہ کن کمنہ نہ روزہ بچھہ لہ چھہ کمنہ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ اس چھہ پریتھہ کمنہ چیزس پیٹھہ قدرت۔ سم لو کہ اتھہ رودہ کس کارس منز پکہ
 ون آس۔ یتھہ پاٹھہ گزہ پکان آس۔ گزہ روزتھہ گوشان آس۔ یتھہ پاٹھہ چھہ سم منافق اکہ ساتہ یلہ
 وچھان چھہ نور اسلامک ظہور روز بروز ترقی۔ تم چھہ لو کن مائل سپن یٹھان۔ تمہ ساتہ خود غرضین
 ہنز تاریکی حاصل سپان چھہ کمنہ۔ آتی چھہ کمنہ ٹھونٹھہ لگان پزس کن انہ نشہ چھہ ہتھہ ژلان۔ اوتان سپد
 ترشونی جماعتن ہند حال بیان۔ امہ پتہ چھو ساری لو کن خطاب کرتھہ بیان یوان کرنہ سو مضمون سیمہ
 خیطرہ ہیہ مقدس کتاب قرآن مجید نازل آو کرنہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہالو کو! عبادت تہ پرستش کرو پنہ نس نس پروردگار سنز سم ٹوہ پیدہ کزودہ۔ بیہ سم
 پیدہ کرتھہ ساری لو کہ سم توہہ بروٹھہ آس۔ یتھہ ٹوہ پچوتہ محفوظ روزو جھنمک عذابہ نش۔ سو گو سوی
 ہروردگار۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً یم تھندہ خیطرہ کور زمین وٹھناہ بیہ گرن
 آسمان امہ زینک پشاہ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً یمہ سم پروردگارن آسمانہ طرفہ تراو اتھہ زمینس پیٹھہ
 روداہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ تو پتہ کھارن امہ زینہ منزہ امہ آبہ سیت میوہ جات تھندہ

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۴﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا

کھینے خاطرہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پس مہ ٹھہرا او تو وہ اے لوگو معبود برحقس مقابل کئے قسمک شریک زانتھہ کرتھہ یعنی یہ کتھہ زانتھہ کہ سیمہ کامہ کرہ ون چہونہ کس وراى کانہہ تہ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ون ہر گاہ توہہ شک وشبہ چہوتھہ کتابہ اندر یوسہ اسہ نازل کتر پنہ کس بندہ خاص پٹھہ۔ یعنی حضرت محمد امیس پٹھہ۔ یہ ماچہو تمویپانے ٹھہر وومت فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ تملہ انتونہہ تہ کانہہ سورہ تیار کرتھہ تھسکی کانہہ شخص نشہ کس امی آسہ۔ سیم نہ کینہہ تہ پورمت آسہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ دی توتہہ نادرکن سارنی یم تہہ مددگاری خیطرہ سمہ نوہ یا معنوپنہ نین معبودان باطن معبود برحقس وراى۔ چھوے ٹوہ پوز ونہ ون تھہ تھہ اندر کہہ یہ کیاہ چہو کلام بشر فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا پس ہر گاہ تھہ بیگونہ اتھہ قرآن مجیدس ہیو کلامہ پیش کتر تھہ وَلَنْ تَفْعَلُوا بیگونہ زانہہ پیش کتر تھہ قیامس تام۔ از تام تہ از کہہ پٹھہ قیامس تام ہیو کہ نہ کانہہ اک اتھہ قرآن مجیدس ہیو فضاحت و بلاغس اندر اکھ یازہ آہہ تہ پیش کرتھہ۔ یوہے چہو بوڈ معجزہ قرآن مجیدک۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کس کھو ژوتہ بجا و ہن پان تمہہ نارہ نشہ سیمہ نارچہ ترشہ چھہ سمویسیت تھہ ژکھ دنہ خیطرہ تہ ریبہہ ہینہ خاطرہ چھہ کافر لوکھہ۔ بیہ تمہہ گنہ سمن کنن تیار کرتھہ تہ گرتھہ کافر پرستش چھہ کران۔ تے گنہ دزن نار چھنمسن اندر تھہ پاٹھہ گندک کنہ ریلہ ہندین انجن اندر دزان چھہ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سوی نار چہو تیار کرنہ امت تین کافرن

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ حَبْطًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كَلِمًا
رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا
نَوَقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا

ہندہ خیطرہ سم قرآن مجید سے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپر گزراں چھہ۔ یہ اوس
وعیدہ شدید منکر ہندہ خیطرہ امہ پتہ چھہ فرماوان بشارت بالیمان تسلیم سے اقرار کر وہ نین ہندہ خیطرہ
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِیہ فرماو و توبہ بشارت لے حضرت محمد ﷺ! تم لوکن سمو ایمان لون
تہ پڑھ کر خدا نئس بیہ تہندس پیغمبرس۔ بیہ قرآن مجیدس۔ بیہ کریکھہ رزہ عملہ اَنَّهُ لَمْ حَبْطًا تَجْرِي
بشارت کہ بیشک تہندی خیطرہ چھہ تم جنت تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سمو جتو منز مختلف جو یہ آسن
پکان۔ آب زلالچہ جو یہ، شراب طہورچہ جو یہ، صاف و شفاف مانچہ چہ جو یہ کَلِمًا رُزِقُوا یلہ یلہ عطا
کرنہ آسہ یوان تم منہا من ثَمَرَةٍ رِزْقًا امہ جنگ کانہ میواہ کھینہ خاطرہ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا
مِنْ قَبْلُ وَهِيَ تَمْرٌ یہ چھو سو ی میوہ نئس آسہ عطا کرنہ آوسمہ بروٹھہ۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا عطائہ آسہ کرنہ
آمت تم ن سو میوہ دو شون لئن نئس اکھ اگس ہیو صورت کن آسہ۔ مگر لذت کن تہ مزہ کن آسہ مختلف
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ بیہ چھہ تہندہ خیطرہ تم جتن اندر پاک و پاکیزہ زنانہ یمر دنیا چو آلائی شو تہ
ناپا کیونشہ محفوظ آسن وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بیہ روزن تم جنتی تم جتن اندر ہمیشہ۔ بعضی مخالفو کور
اعتراض کہ ہر گاہ یہ قرآن مجید کلام الہی آسہ اتلہ آسن نہ اتھ اندر حقیر و ذلیل جانورن۔ چھن۔
زلرین تہ مہن ہندناو۔ اتھ کور اللہ تعالیٰ اَن رَد۔ فرموون إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ
اللہ تعالیٰ چھنہ مند چھان سو کیاہ کرہ ہابیان کانہ مثالاہ بَعُوضَةٌ فَمَا نَوَقَهَا سُو آسن اودہ مہہ سنز
یا تمس کھوتہ کانہہ بڈس جانورہ سنز چھہ ہنزیارلر سنز فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ
 بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿۲۶﴾
 الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۲۷﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا

نہیں سمجھو لو کو ایمان اولن تہ پڑھے کہ تم چھہ یقینہ پاٹھہ زمانان کہ یمہ مثالہ چھہ بیان کرنہ آمرہ عین موقس
 پیٹھہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وون سمو
 لو کو کفر وانکار کور تمہ چھہ سنی وُن کہ یمہ حقیر مثالہ بیان کرنہ اندرہ کیاہ سنا چھہ مقصد خدایہ سُنَدُ يُضِلُّ
 بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ چھہوک فرماوان کہ گمراہ چھہ کران اللہ تعالیٰ یمہ مثالہ بیان کرنہ سیت وار یمن
 لوکن۔ یم نہ سکن مثالن اندر غور و تامل چھہ کران۔ تہ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا بیه چھہ سو ہدایت کران تہ
 و تھہ ہاوان پنہ فضلہ سیت وار یمن لوکن سم سکن مثالن اندر ستنہ تامل و تفکر چھہ کران وَمَا يُضِلُّ بِهِ
 إِلَّا الْفَاسِقِينَ گمراہ چھہونہ کران اللہ تعالیٰ امہ مثالہ سیت مگر بدکارن تہ نافرمانن سم عدول حکمی کران
 چھہ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ فاسق گئے تھے یم پھڑ اووان چھہ سو معاہدہ نہں سمو
 خدایس سیت کورمت چھہ سو عمد مضبوط کرنہ پتہ تہج ذکر اللہ تعالیٰ ان چھہ ہمیس آہ کرتمس اندر
 فرلامر۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سندہ پشتہ منزہ کڈ اللہ تعالیٰ ان تہن ساری ذریت تھے کہہ ناوان پنہ رُب
 آسک اقرار وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ بیه چھہو ژٹان سوجیز سمسمہ ملناونگ اللہ تعالیٰ ان حکم
 کور یعنی آشنائی۔ حکم خدا چھہو صلہ رحم گرن مگر تم چھہ تھہ بدل آشنائی ژٹان وَيُفْسِدُونَ فِي
 الْأَرْضِ بیه چھہ تھے فساد تہ تہای کران زمینس اندر اکھ اکس پیٹھہ ظلم کرنہ سیت، کفر کرنہ سیت۔
 حضرت رسول کریم ﷺ سیت حسد و عداوت تھاونہ سیت۔ مسلمانن سپرہ و تہ نشہ دین اسلامہ نشہ ڈالہ
 سیت۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ تھے لوک چھہ تاوان زدد نیاعس اندر تہ آخرتس اندر تہ۔ یمہ اللہ تعالیٰ

فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۸﴾
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى
 السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
 أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

سُءْمَرَبِي آسَن۔ خالق تہ رزاق آسَن ثابت سُبْد كَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا لِلّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ
 يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اے لوگو تمہے کھپا پھٹہ چہوہ ادہ خدا یہ سببس معبود برحق
 آسنس انکار کران تمسید احسانات مشر او ان تمس وراى بين ہندس معبود آسنس اقرار کران۔ حالانکہ
 تہبہ آسوہ محض بے جان۔ پس کر نوہ تمی تہبہ زندہ بدن منزر رُوح واتا نوہ سیت۔ تو پتہ ماروہ سئی سمبہ
 ساتہ تہبزہ عمرہ ہند مدت ووبرہ تہ خم گڈبہ۔ تو پتہ کر وہ سئی تو ہبہ بیہ زندہ قیامتک دوہ۔ تو پتہ ایو تہبہ
 تس گن واپس انہ۔ یعنی قیامتک دوہ ایو محشر کس میدانس اندر حسابہ خیطرہ تہبند سی اجلاس اندر حاضر
 کرنہ۔ امہ پتہ چہو اللہ تعالیٰ پنہ نین نعمن ہنز ذکر کران هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُو گو
 سُوی پروردگار یم پیدہ گورتہ سوزی یہ یتھہ زمینس اندر موجود چہو تہبندہ فاندہ خیطرہ۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
 إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تو پتہ سُبْد سُو متوجہ آسمان گن۔ پس کران تم
 درست ستھہ آسمان۔ سُو چہو پر یتھہ چیز او پور زندون۔ اوتان آہ بیان کرنہ صوری نعمت۔ امہ پتہ چہو
 بیان کران اللہ تعالیٰ معنوی نعمت۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بیہ پاووسو
 وقت یادیلہ تہبند پروردگارن ارشاد فر موو ملائکن کہ مہ چہو پیدہ کرن یتھہ زمینس اندر پنن اکھ خلیفہ
 یعنی نایاہ۔ بس میان احکام شرعیہ نافذ کرہ تہ واتا وہ میانین بدنن قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
 وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ملائک لگ دہنہ کیاہ ڈہ کر ہنہ پیدہ اتھہ زمینس اندر سُو مخلوق بس قننہ تہ فساد کرہ جن
 ہندپاٹھہ اتھہ زمینس اندر بیہ کرہ واریاہ تہ ستھہ خونریزی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اس چہہ

بِحَمْدِكَ وَنَقَدِّسُ لَكَ قَالِ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ
 اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِي
 بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا
 اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ يَا اَدَمُ اَنْبِئْهُمْ

پاکي چان ياد کران۔ چان حمد و ثنا دپان۔ بيه چھتھه اس زانان منزہ تہ پاک ساروی عیبوتہ نقصانوشہ۔ لہذا ہر گاہ بيه کام اسی پشراونہ بيه ہا۔ اس کرہ ہویہ کام پورہ دل و جانہ سان تمَن اندر آسن اڈمُفید، اڈمُظالم تہ اڈمُ نافرمان۔ ساری نیک آسن نہ۔ یلہ محض کام کرہ ون موجود تہ تیار آسن نو مخلوق پیدہ کرنجی کیاہ ضرورت آس۔ بيه کورنہ ملائکو بطور اعتراض پیش۔ نہ۔ بيه کورتمو پُئن استحقاق پیش۔ قَالَ اللہ تعالیٰ ان فرمود کہ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیشک بوچہوس زانان تمہہ کتھہ سمہ نہ تہہ زانان چہوہ۔ کس چیز توہہ نش بنی آدم تہ انسان پیدہ کرہ نگ مانع چہوسوی چیز چہومہ نش پیدہ کرہ نگ سبب تہ باعث۔ یعنی تمہواندرہ بعضین ہند مُفید تہ خونریز آسن یوہے چہو باعث تمَن ہندہ پیدہ کرہ نگ۔ کیا زہ احکام بن تیلی جاری کرنہ یلہ مَنہ قسمہ بے اعتمادی واقع سپدہ انتظام بيه تل کرنہ یلہ کانہہ بد نظمی واقع سپدہ۔ توہہ فرمانبردارن ہندس جماعتس اندر بیکہ نہ بيه امر واقع زانہہ تہ سپدہ بہر حال آوا انسان امہ کامہ خیطرہ مخصوص کرنہ۔ آوپیدہ کرنہ حضرت آدم علیہ السلام وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا توپتہ زانرو پچھو، واللہ تعالیٰ ان آدم علیہ السلام تمام روی زمینہ کین چیزن ہندناو۔ بڈین چیزن ہندتہ لو کٹن چیزن ہندتہ۔ یعنی آدم علیہ السلام آوپچھہ ناونہ گوڈی علم لغت۔ یعنی پرتھہ چیزک ناوتہ پرتھہ چیزک خاصیت تہ فاندہ۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ توپتہ تراون تم چیز ملائکن برو تھہ کن فَقَالَ اَنْبِئُوْنِي بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ پس فرمود اللہ تعالیٰ ان ملائکن اے ملائکو تہہ ونومہ تمَن چیزن ہندناوتہ خاصیت ہر گاہ تہہ پوزونہ ون چہوہ۔ تھہ اندر کہہ اس آس اصلاح طبائع تہ انتظام شرايع تہ تبلیغ احکامن ہنز خدمت انجام دنہ خاطرہ مستحق۔ خلیفہ خداوند کس گزہن سارنی چیزن ہندناوتہ خواص تہ فوائد معلوم آسن۔ ادہ بیکہ سو مقوضہ کام انجام دتھہ۔ تہہ ون تو کین چیزن ہندناوتہ خاصیت کیاہ کیاہ چہہ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ

يَا سَمَائِرِيْمُ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِرِيْمُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
 غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۱﴾
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طَابَ أَبِي وَ
 اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ
 وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

لَعَلَّكُمْ لَنَا اِلْمَامًا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ملائکو دوپ پروردگار اژده چھوک منزہ تہ پاک آس
 زانوی نہ کینہہ مگر تی یہ ژہ آس بچھناوتھہ۔ بیشک ژہ چھوکھ سوڑی زانہ ون۔ ژہ چھکھہ سیٹھاہ جمتہ وول
 قَالَ يَا آدَمُ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِرِيْمُ اللہ تعالیٰ ان فرمود حکم آدم علیہ السلام سُن اے آدم بچھ ناوکھ ژہ
 یم ملائک یمن چیزن ہنداؤ۔ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِرِيْمُ اودہ یلہ آدم علیہ السلامن تمن چیزن ہنداؤ
 ملائکن بیان کر قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ
 تعالیٰ ان فرمود ملائکن مہ فرماو یودہ نا توہہ کہ بہ چھس زانان تہ سوڑی یہ آسمان تہ زمین منز پوشیدہ
 چھو۔ بیہ چھس بوزانان تمہہ سارے کتھہ ییمہ ٹہہ ظاہر کران تہ نیر او ان چھوہ۔ بیہ تمہہ کتھہ تمہہ ٹہہ
 پوشیدہ تہ کتھتھہ تھوان آسوہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنِ اسْتَكْبَرَ
 وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ بیہ چھو سو وقت ژٹس پاونس قابلہ سمہہ وقتہ اسہ حکم کور سارنی ملائکن بیہ سم جنو
 اندرہ ملائکن سیت روزان آس سجدہ دیو آدم علیہ السلام تعظیمک سجدہ۔ پس دیت ساروی ملائکو
 سجدہ ایلئیس ورائے۔ سُو رود چھتھہ سجدہ دنہ نغیہ۔ تمہ زون پنن پان بوڈتہ مغرور سپد۔ اوس سُو ایلئیس خدایہ
 سندس علمس اندر کافر تہ نافرمانوی اندرہ۔ امہ ساتہ کرن عدول حکمی۔ خدایہ سندس خمس کورن نہ
 تعمیل وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ تَوْبَتہ کور اسہ حکم آدم علیہ السلام سُن اے آدم ٹہہ
 بسو پانہ بیہ پنن جورہ حوا علیہا السلام بیتھہ جنٹس اندرہ۔ یوسہ حوا اللہ تعالیٰ اَن آدم علیہ السلامہ سنزہ لرہ
 کاتہ بیٹھہ اکہ مادہ نغیہ پیدہ کر وَكَلَامِهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا تَوْبَتہ کھو ٹہہ دوشوے امہ جنتہ منزہ یڈ

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ فَآزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ
عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۶﴾ فَتَلَقَىٰ
آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

بر تھ۔ بتھ جا یہ خوش کروہ تھ جا یہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مگر چھ بڑہ نہ بتھ گلے یعنی ہمہ کلیک
پھل کھیہ زہ نہ۔ ہر گاہ امہ کلیک پھل کھیہ تہہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس سپد و تہہ دوشوے پانس
نقصان و اتو نیواندرہ۔ اللہ تعالیٰ سی چھو معلوم سو کیاہ کل اوس فَآزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا
مِمَّا كَانَا فِيهِ پس ڈال تم دوشوے شیطان امہ کلہ سیت۔ تو پتہ کڈن تم تمہ عیش و آرامہ منزہ بتھ
منز تم آس۔ یام تمہو تمہہ کلیک پھل کھیہ تام سپد تین حکم جتہ منزہ نیر نہرہ نگ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ تو پتہ وون اسہ تین سارنی بون و سولمہ جنتہ منزہ ز مینس پیٹھہ۔ بتھہ حاس اندر کہ
تہہ آسوا ڈاؤین ہند دشمن وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ و ن چھہ تہندہ خیطرہ ز مینس پیٹھہ
قرار کرہ نچ بیہ تم تہ فائدہ تلخ جائے۔ اکس ”وقس“ تام۔ یعنی ز مینس پیٹھہ چھونہ توہہ ہمیشہ روزن۔
کینہہ کالاہ گرہ ہتھہ چھو توہہ سو گرہ ہ تراؤن۔ تمہ گرہ منزہ ہہ انتقال گرن فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ
کرہ تک کینہہ کلمات۔ تو پتہ ہر تم کلمات ہہ کوزن توبہ۔ پس کور اللہ تعالیٰ ان تہند توبہ قبول بیشک
سو چھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ و ن سیٹھاہ رحم کرہ و ن۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا حکم فر موواسہ و سولمہ
جتہ منزہ تہہ ساری ز مینس پیٹھہ فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ پس ہر گاہ و اتہ توہہ نش میون حکم پیغمبر ہہ کتاب۔ پس بس اکھاہ پیروی کرہ ہہ پیچہ میانہ ہدایہ

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۳﴾
يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُونَ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا
بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ۖ وَآيَاتِي فَارْهَبُون ۗ ﴿۳۴﴾ وَآمِنُوا بِمَا
أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ كَانِ فِيهِمْ لَأَلْتَسْتَمِعُوا

موجب۔ پس چھٹے تس کا نہ خوفانہ۔ نہ سپن تم پیروی کرہون غمگین۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وون سمبولوگو انکار کورہیہ زانجھہ لہر سان آیات تم لوکھ چھہ
نارس اندروانہ ون۔ تھہ نارس اندرروزن ہمیشہ دزان۔ یوتان آیہ بیان کرنہ نعمت معنویہ۔ یتھہ منز
بیان آؤ کرنہ آدم علیہ السلامہ سزہ پیدائشہ ہند قصہ۔ وون چھہ یوان بیان کرنہ خاص نعمتک یوسہ عطا
آیہ کرنہ بنی اسرائیلن حسب ونسب وغیرہ سمہ سیت تین امتیازی شان حاصل آس۔ یتھہ تہندہ ایمان
انہ سیت تمام لوکن پیٹھہ اثر پیہہ یَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُونَ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اے یعقوب علیہ
السلامہ سند یو فرزندو! اسرائیل گو عبد اللہ۔ یواوس حضرت یعقوبہ سندا۔ بنی اسرائیل گے حضرت
یعقوبہ سندا اولاد تمنی چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اے حضرت یعقوبہ سندا یوا اولادوژ تس پاوونہہ تمہ نعرہ سمہ
مہ توہہ عطا کرہ وہ۔ یتھہ نعمتین ہند حق او اگر ن توہہ آسان سپہہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي بیہ کرو تہہ وفا
میانس تھہ عمدس بس توہہ مہ سیت کورہہ حضرت محمد بنی آخر الزمانس متعلق اُوفٍ بِعَهْدِكُمْ بوہ
کرہ وفا تہندس عمدس بس میہ کورمت چھو توہہ سیت وَآيَاتِي فَارْهَبُون بیہہ کھو ژوے یوت عمد
چھٹراونس اندر۔ پنہ نین عوام معتقد نین مہ کھو ژو کہ تین ماروہ نہ سون اعتقاد۔ تم یوسہ نذروہ نیازہ
سیت خدمت کران چھہ سوا گدھہ بند۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ كَانِ فِيهِمْ
بیہ کرو پڑھ تھہ کتابہ یوسہ میہ نازل کر۔ یعنی قرآن مجیدس۔ توہہ پڑہ نہ تمہ سیت وحشت گدھن۔
کیازہ سو کتاب کر میہ نازل در حالیکہ سو چھہ تصدیق کرہون تھہ کتابہ یوسہ توہہ سیت چھہ یعنی
توراتس۔ بیہ مہ سپد و تہہ گوڈنک مکر امہ قرآن مجیدک۔ یعنی تہہ یلہ مکر سپد و تہہیہ و چھتھہ کرن باقی

بِآيَاتِي ثَمَّنَا قَلِيلًا وَإِيَّاي فَاتَّقُونِ ﴿۴۱﴾ وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۴۳﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۴﴾ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

لَوْ كَهْتُمْ انکار تم ساری ذمہ دار سپرد و تمہہ قیاس تان۔ تم انکار کرن تہند وبال بیہ تمہد س نامہ اعمالس
لیکنہ وَلَا تَلْسُوا بِآيَاتِي ثَمَّنَا قَلِيلًا بیہ مہ رٹو میانین آیاتن بدل حقیرتہ کم معاوضہ وَإِيَّاي فَاتَّقُونِ
بیہ کھوڑو مے یوت ہن احکام پس پشت تراوتھہ یا تمن تغیر و تبدیل کر تھہ۔ یا تم کھنٹھہ تہ پوشیدہ تھاوتھہ
مہ کرو عام لو کن نشہ مال دُنیا س حقیر و ذلیل چھو، حاصل وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ بیہ مہ ملہ ناو و پوز ا پز سیت۔ بیہ مہ تھاو و پوز پوشیدہ تہ کھنٹھہ زانتھہ کمر تھہ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ بیہ تھاو و ٹوہہ نماز برپا۔ بیہ گیہ عبادت بدنی۔ بیہ دیو ماج زکوٰۃ
۔ بیہ گیہ عبادت مالی۔ بیہ آسو نماز خدایس بروٹھہ کنہ بِن نمن والین سیت۔ یعنی نماز آسو پران
باجماعت۔ اسلامہ بروٹھہ چھنہ بیہ کمنہ دیس اندر نماز باجماعت آسمہ۔ بیہ باجماعت نماز پران چھہ
اسلامہ کیو خصوصیا تو منزہ۔ رکوع کرن تہ چھو اسلامہ کیو خصوصیا تو اندرہ۔ یہودن ہنزہ نمازہ منزواس
نہ رکوع کرہ نگ حکم۔ خلاصہ چھو ای زہ تم امور بیان آئی کرنہ یعنی یوت اندر چھنہ نجات۔ بلکہ
گوہن ساری اصول و فروع بجا ان حضرت پیغمبر آخر الزمانہ سزہ پیروی اندر نماز تہ گزھہ تہندی
طریقہ پران باجماعت رکوعہ سان۔ بعضے علماء یہود آس لو کن ونان کہہ بیہ دین اسلام چھو پوز دین۔ رُت
دین مگر پانہ آس نہ مسلمان سپان کینہہ تمنی چھو اللہ تعالیٰ فرماوان۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ
وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیاہ تہہ چھوہ بین لو کن حکم کران نیکی تہ رتھہ
کامہ کرہ نگ۔ یعنی رسول مقبول پیغمبر آخر الزمانس ایمان انہ نگ۔ ہن پان چھو کھہ مشراوان تہ نظر
انداز کران حالانکہ تہہ چھوہ ہن کتاب تورات پران۔ تھہ منز چھوہ تہہ پران کہ عالم بے عملس نسبت

وَالصَّلَاةِ وَرِثَةِ الْكَبِيرَةِ إِلَّا عَلَى الْحَشِيئِينَ ۝۵۰ الَّذِينَ يَظُنُّونَ
 أَنَّهُمْ مُلْقَوَاتِ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝۵۱ يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ
 اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝۵۲
 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ
 مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ۝۵۳ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝۵۴

کاثرہ مذمت پجھہ کرنہ آمر۔ لہذا کونہ چھوہ تہہ عقل کران کیا زہ چھوہ تہہ تم نذ متن ہند مصداق بنان
 امہ اندرہ سپد ثابت کہ واعظ نُس آسہ تمسند گڑھنہ بے عمل آسُن بلکہ گڑھہ تہنز تمہ موجب گوڈہ پانہ تہ
 عمل کرن یہ سولو کن پران آسہ **وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** بیہ ژھانڈو مدد صبر کرنہ سیت بیہ نماز ادا
 کرنہ سیت۔ صبرہ سیت گڑھوہ حُب مال کم۔ نمازہ سیت گڑھوہ حُب جاہ کم تہ زہ چیز چھوہ توہہ ایمان انہ
 نس تہ پڑھ کرنس مانع سپدان **وَرِثَةِ الْكَبِيرَةِ إِلَّا عَلَى الْحَشِيئِينَ** بیشک یہ نماز چھہ دشوار مگر چھنہ دشوار
 تم ن لوکن پیٹھہ یم خدایس کھوژون چھہ **الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوَاتِ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** تم ن
 یقین تہ پور پڑھ پجھہ کہ تم چھہ ملاقات کرہ ون پنہ نس پروردگار سیت بیہ چھہ تم پڑ پٹھہ تس گُن
 وانہ ون تہ رجوع کرہ ون **يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ** اے یعقوب علیہ السلام
 سند یو فرزندو ژیتس پاووسو نعمت یوسہ میہ توہہ عطا کر موہ پیٹھہ تہہ شکر گذاری تہ اطاعت و
 فرمانبرداری کرو **وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ** بیہ پاووژ تس یہ کتھہ تہ کہ میہ دیت وہ توہہ یعنی تہندین آباؤ
 اجدادن فضیلت تمہ وقتہ کین سارنی لوکن پیٹھہ لہذا پڑہ ہا توہہ مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرن
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ بیہ کھوژو تہہ تھہ دوہس بیہ
 دوہہ نہ کانہہ کفایتاہ کرہ کانہہ شخصاہ کانہہ شخص یعنی کانہہ اکھاہ کانہہ آگس کئہ چیزہ سیت نہ بیہ قبول
 کرنہ کانہہ اکسہہ طرفہ کانہہ شفاعت تہ سفارش، یوتان نہ تس شخص اندر ایمان آسہ نہ لیس شفاعت یا
 سفارش کران آسہ **وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** بیہ بیہ نہ رخنہ کانہہ ہندہ طرفہ کانہہ بدلہ

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۴۹﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَافَاجِيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ
فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۰﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۵۱﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا

تہ کا نہ عوضا نہ بیہ تم ن یاری کرنے کیا زہ تمہہ دوہہ بیچہ نہ کا نہ یاری کرتھ نہ بیچہ تمہہ دوہہ کا نہ
ہنز طرفداری چلتھ۔ امہ پتہ ہٹھو بیان یوان کرنے بین نقن ہند سمہ بنی اسرائیلن عطا کرنے آیہ وَإِذْ
نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اے بنی اسرائیلویہ پاوژس یلہ اسہ توہہ نجات
دیت فرعونہ سندہ قومہ نشہ یم توہہ واتاوان آس سخت عذاب تم ن صرف فکر آس توہہ تکلیف تہ ایذا
واتاوانچ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ یم کھش کران آس تھندین نچوین وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ زندہ آس تھاوان
کورین تھنزن ہٹھہ تمہہ جد واتنہ پتہ تم ن خدس بکارین وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اتھہ اندر
آس تھنز بد آزمائش تہ امتحان تھندس پروردگار سندہ طرفہ۔ کتان شخصن آس فرعونس نش پیشن گوئی
کر مرث کہ بنی اسرائیلن اندر سپدہ پیدہ اکھ لو کٹاہ سمندہ سبہ چان سلطنت تہ پادشاہت ختم سپدہ۔ تمہہ
موکھ ہت تم بنی اسرائیلن لوکٹ زیوہ ونوی مارن کورین ہند اوس نہ امہ قسمک کا نہ خطرہ۔ تمی موکھ
اوس کورین زندہ تھاوان تم ن اوس نہ مارن کینہیہ بیہہ اوس کورین اندر یہ فائدہ کہ تم ن اوس بالغ سپدہ
خدس لاگان وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَافَاجِيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بیہ ہٹھو سو واقعہ تہ
یاد کرنس قابل یلہ جد اکوراسہ تھندہ سیت دریای قلمزم۔ یلہ تمہہ ثلاثن آسوہ فرعونس نشہ ہٹھہ آو توہہ
دریایے قلمزم۔ یلہ دیت اسہ توہہ نجات۔ دریاوس سپدہ تھندہ خیطرہ باہ کوچہ۔ تھہ و تھوہ سمعی
کوچن اندر۔ تو پتہ واتوہ تھہ اُپور۔ فرعون تہ فرعونہ سنز لشکر یم توہہ پتہ دوران آس رنہ خیطرہ

عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذْ اتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۳﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
يَقَوْمِ إِنَّمَا ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا
إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ
بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۴﴾ وَإِذْ

تم تہ و تھہ یعنی کوچین اندر۔ یا متھ تھندہ پتم پارہ پٹھہ کھوت فرعونین ہندہ تم شخص دریاوس اندر دوتھہ۔
آبس سپد حکم پھہ۔ تمی سیت کر اسہ غرق اتھہ دریاوس اندر ساری فرعونی۔ تہہ آسوہ پارہ پھس پٹھہ
تہندہ پھٹک تہ غرق سپد تک تماشہ و چھان۔ **وَإِذْ وَعدْنَا مُوسَىٰ أَنْبِئِنَّا لَيَلَّةٌ** بیہ پاو و تلس یلہ اسہ اورہ
وعدہ کور موسیٰ علیہ السلامس سیت اسہ کور وعدہ تلس سیت توریت عطا کرہ نگ۔ تم کور وعدہ اسہ سیت
کوہ طورس پٹھہ ینک۔ تو پتہ ژ تچھن ۴۰ راتن تہ دوہن کوہ طورس پٹھہ روز نگ بطور اعتکاف **ثُمَّ**
اتَّخَذْنَا الْعِجْلَ مِّنْ بَعْدِهَا تو پتہ بنو دن توہہ سونہ سوند و تھہ۔ تسزنی بیڑوہ توہہ پر سٹش گرن
موسیٰ علیہ السلامس پتہ۔ تم آس کوہ طورس پٹھہ اعتکاف کران **وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ** تہہ آسوہ معبود
برحقس و رای پانے تیار کر متس تہ گر متس و تھہ سنز عبادت تہ پر سٹش کرنہ سیت صریح ظلم کرہ دن۔
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو پتہ تہ کور اسہ اتھہ بڈس جرمس عفو تہ در گذر تھندہ
توہہ کرنہ پتہ پٹھہ تہہ شکر گذاری کرہ۔ پانس پٹھہ مانوسون بوڈ احسان **وَإِذْ اتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ**
وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بیہ پاو و تلس یلہ اسہ عطا کر موسیٰ علیہ السلامس کتاب سمیک اسہ تمس
سیت وعدہ کور مت اوس یعنی توریت۔ بیہ تم معجزہ یومو سیت پزس تہ اپزس منز فریق سپدان آس پٹھہ
توہہ و تھہ بیہ راہ راستس گن **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ** **يَقَوْمِ إِنَّمَا ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ**
فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ بیہ پاو و تلس یلہ موسیٰ علیہ السلامن فرموو پنے نس قومس اے قوم توہہ کور وہ
ظلم پان پانس کیا زہ توہہ کور دن مقرر بے جان و تھہاہ پنن معبود۔ کس کر و تھہ توہہ تہ رجوع پنے نس

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ
 اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۰﴾ وَاذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى
 لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
 تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومَهَا وَعَدْسَهَا وَ
 بَصِلَهَا قَالَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ

بیہ پاوڑتس یلہ موسیٰ کلیم اللہن طلب باران کورینہ قومہ خیطرہ آب موکھکھ اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ
 چھو فرماوان **فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ** پس فرموا سہ موسیٰ کلیم اللہس ژنڈ دیو پنہ لورہ سیت
 ہتھ کنہ یوسہ توبہ بروٹھ کنہ چھ **فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا** پس جاری سپد تمہ کنہ منزہ باہ ناگہ
 راد تمین بنی اسرا ئیلن ہندن قبیلن ہنزہ گرگز۔ حضرت یعقوب علیہ السلامس آس باہ فرزند آس آس
 فرزندہ سند اولاد آسواکھ آکھ قبیلہ۔ تمنی قبیلن ہندہ تعدادہ ۲۰ شمارہ موجب درای تمہ کنہ منزہ باہ
 ناگ **قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ** چنانچہ معلوم سپد پر ہتھ آس شخصس پنہ پنہ آب چنچ ۲۰ آب
 حاصل کرنچ جائے چنانچہ ونہ آکھ **كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ** اے
 بنی اسرا ئیلو کھنویہ من وسلوئی بیہ چپو تمکن چشمن ہند آب۔ بیہ مہ پھیروز مینس اندر فسادہ ۲۰ فتنہ ٹھلان
 یعنی میانین احکا من ہنزہ نافرمانی کران **وَاذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ** بیہ پاوڑتس
 اے بنی اسرا ئیلو بیہ توبہ درخواست کورہ حضرت موسیٰ علیہ السلامس کہ اے موسیٰ آس حض بیہ کونہ
 صبرہ برداشت کرتھہ اکی قسمہ کی کھینہ چیزس پیٹھہ اس آے پر ہتھہ دو بہ من وسلوئی کھیوان کھیوان سخت
 عاجز **فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومَهَا وَعَدْسَهَا وَبَصِلَهَا**
 پس منگو حض سانہ خیطرہ پنہ نس خدا یس کہ سوکھارہ سانہ خیطرہ تم تم چیز تم زمینہ منزہ کھسان چھہ تجہ
 ترکارہ ہشہ۔ لار تمکب بیہ کھتھہ تمک۔ بیہ روہن تمیک بیہ۔ مڑ تمیک۔ بیہ پران تمیک **قَالَ**

خَيْرٌ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَآسَا لَنْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
 الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَبِعَضِبِ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
 كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ
 بَغْيٍ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَا كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

اَسْتَبْدَلُوْنَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ حضرت موسیٰ ان فرمود کہ کیا ہنہ چھوہ ژھانڈان
 تم چیز یم پست تہ بونمہ درجک چھہ تھہ چیز س بدل لیس اعلیٰ درجک چیز چھو یعنی من وسلویٰ اس بدل
 لیس توبہ محنت ومشقتہ وراى حاصل سپدان چھو۔ کاژاہ چھہ تھنہ۔ عقل تہ ہمت پست اِهْبِطُوا مِصْرًا
 فَاِنَّ لَكُمْ مَآسَا لَنْتُمْ یلہ توبہ عز تکس رُوذ لیس سیت کھر چھہ ادہ اژوتھہ شہر واندرہ ٹنہ شہر س اندر سیتہ
 بن توبہ تم چیز تم تھہ منگان چھوہ۔ زمین کرد حاصل۔ توپتہ لاگو سو۔ تھہ منز ووسم سم چیز تہ کھیو
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ یڑھے یڑھے گستاخی کرنہ خیطرہ آہہ تراونہ تمن پٹھہ ذلت تہ
 خواری تہ پستی لوکن ہنزہ نظرہ اندر روزنہ تمن کانہہ وقعت تہ کانہہ قدر۔ نہ رُوذ ہندین طبعتن اندر
 عنہ قسمہ اولوالعزمی تہ بلند ہمتی باقی وَبَاءَ وَبِعَضِبِ مِّنَ اللّٰهِ بیہ سپد تم مستحق خداہہ سزہہ بیزاریہ
 ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَغْيٍ الْحَقِّ اتھہ ذلت و
 خواری و بیزاری گئے تم گرفتاری موکھہ کہ تم آس انکار تہ نافرمانی کران پروردگارہ سندین احکامن بیہ
 آس پیغمبرن قتل کران تہ ماران ناحق تہ بے گناہ ٹنہ قسمہ جرمہ وراى ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَا كَانُوْا
 يَعْتَدُوْنَ اتھہ ذلت و خواری گئے تم گرفتاری موکھہ کہ تم آس انکار تہ نافرمانی کران پروردگارہ
 سندین احکامن تمن بہودن ہندیہ حال بیان کرتھہ اوس ممکن کانہہ شخصس ماگڑھہ یاخیال کہ ہر گاہ کانہہ
 شخصہہ یسودواندرہ یاہیو لوکو اندرہ توبہ واستغفار کرتھہ ایمان لہہ تس ماکرہ نہ اللہ تعالیٰ بخشائیش تھند ایمان تہ
 توبہ واستغفار ماکرہ نہ قبول۔ سوخیال دور کرنہ خیطرہ فرمود اللہ تعالیٰ ان لمہ پتہ عام اکھ قانوناہ تہ قاعدہ
 کلیاہہ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصْرٰى وَالصَّبِيْنَ بیشک بالایمان بیہ یسود بیہ نصاریٰ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرِي وَالصَّبِيْنَ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۲﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا
 مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ
 اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۴﴾

بہ صابین یعنی سو فرقیہ یمن نہ مستقل کانہہ دیناہ چھو۔ پریتھہ دینہ منزہ چھو تمہو حسب خواہش اکھ اکھ
 چیزہ اختیار کورمت یوساروی فرتواندرہ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لیس شخصہہ پڑھہ تہ یقین کرہ معبود برحقہ سندس
 ذات پاکس تہ تہندین صفاتن بہ کرہ پڑھہ پتہس دوہس یعنی قیامتس بہ کرہ رتہ عملہ تمہہ شریعت
 محمد لیس موافق آسن تہمین لوکن ہندہ خیطرہ چھہ مزور تہنز تہندس پروردگار نشہ یوسہ تمن عطا کرنہ
 بہ تش نش واتھہ بہ آسہ نہ تمن کانہہ خوفاہ بہ سپدن نہ تم عملگین تہ پریشان بہ قانون بیان کر تھہ چھو
 بہ بیان سپدان بنی اسرا ایلین ہند حالات و معاملات اسہ کیاہور توو تمن سیت تمو کیاہ معاملہ کوراسہ سیت
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بہہ پاووژ تش اے بنی اسرا ایلویلہ اسہ تہہ عمدہ کرناویوہ۔ توہہ
 نشہ روٹ اسہ قول و قرار تورتس پیٹھہ عمل کرنہ خیطرہ تل اسہ کوہ طورک اکھ حصاہ توہہ پیٹھہ تروانہ
 خیطرہ۔ فرموواسہ توہہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہہ ساتہ فرموواسہ
 تہہہ کرو قبول سو کتاب یوسہ اسہ توہہ عطا کر پورہ طاقتہ تہ مضبوطی سیت نہ تراووہ آس بہ کوہ تہندین
 کلن پیٹھہ وارہ تھاوویاد تم احکام یم اتھہ کتابہ منز چھہ۔ دیوہ تہہ متقی تہ پرہیز گار بنو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ اسہ قول و قرارہ پتہ تہ پھیروہ تہہ پوت یعنی اتھہ عمدس پیٹھہ رودونہ تہہ قائم فَلَوْلَا فَضْلُ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس ہر گاہ نے توہہ پیٹھہ خدا بہ سند فضل و رحمت آسما سہ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
 كُفُّوا أَعْيُنَكُمْ عَنْ حَسِبِينَ ۖ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَايِنٍ يَدِيهَا
 وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۖ ۱۶ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۗ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا

عہد شکنی سبب آسہو ہتھہ ہلاک تہ برباد سپد و نیواندرہ و لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
 قُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا أَعْيُنَكُمْ عَنْ حَسِبِينَ بیہ چھوہ توہہ معلومی تمہن لوکن ہند حال تم توہہ اندرہ حدہ ڈل بیہ
 وارہ ہندس معاملس اندر اسہ اوس تمہن منع کورمت بیہ وارہ دوہ گاڈہ شکار کرنہ نشہ مگر تمہو کراتھہ خمس
 مخالفت پس فر مواسہ تمہن ذلیل و اندر بنہو۔ چنانچہ بنے بیہ تمہن و اندرن ہنز شکل مسخ صورت سید کہ
 فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَايِنٍ يَدِيهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ بیہ کوراسہ بیہ واقعہ اکھ عبرتھہ تمہن
 لوکن ہندہ خیطرہ تمہن تم وقتہ موجود آس بیہ تمہن لوکن ہندہ خیطرہ تمہن تمہن پتہ آئے۔ بیہ کوراسہ بیہ
 واقعہ بوڈو وعظ تہ نصیحت خدایس کھوڑہ و مین ہندہ خیطرہ۔ بنی اسرائیلن منز اوس اکھ شخصہہ تس اوس ناو
 عامیل۔ تس آس گور۔ بیا کہ شخصہہ تم کرامس کورہ ہندس مالس خواستگاری اس کورہ سیت نکاح کرنہ
 خیطرہ مگر تم کور تمس یہ گوردنہ نش انکار تمس سید افسد انکار کرن سیتھہ ناگواریم موکہ تم کور سو شخص
 پوشیدہ پاٹھہ قتل تو پتہ تروون اکس جایہ۔ لو کویلہ سوتھہ جایہ مارنہ آمت وچہ۔ تم لگ دریافت کرنہ
 کہ یہ شخص کم سنا چھو مورمت تم آے حضرت موسیٰ کلیم اللہس نش عرض کورہ بھجہ اسہ حض گوڑہ
 معلوم سپدن تمس شخصہہ سند قاتل گس چھو تمہو فر موو بھجہ بحکم خدائہ تھہ ماریون اکھ گاواہ تمسندی کنہ
 تانہ سیت دیو اس مقتولس ژنڈ سو سپدہ زندہ سوونہ پانے میون قاتل گس چھو۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ
 یوہے قصہ بیان فرماوان وَاذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۗ بیہ پاو سو وقت
 ژتس یلہ حضرت موسیٰ علیہ السلامن پنہ نس تو مس فر موو۔ یلہ تمہو گس مقتول شخصہہ سند قاتل تمہن
 نشہ دریافت کرن ہیوت کہ پڑ پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو توہہ حکم کران کہ تھہ کرو ذبح اکس گاواہ تمسندہ تھہ تانہ

قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۷۸﴾ قَالُوْا اَدْعُ لَنَا
 رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا
 قَارِضٌ وَلَا يَكْرُمُوْنَ اَبِيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ ﴿۷۹﴾
 قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا لَوْ نَهَا قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ
 اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُوْا لَوْ نَهَا تَسْرُ الْظُرِيْنَ ﴿۸۰﴾
 قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا هِيَ ؕ اِنَّ الْبَقْرَةَ شَبَهَ عَلَيْنَا

سیت دیوامس مقتولس ژنڈ سو سپدہ عمہ ژنجہ سیت زندہ سوونہ پانے پتہ نس قاتلہ سُنْدَاو۔ قَالُوْا
 اَتَسْتَعِيْنُ تَاهٰرُوْا تَم لَب دپنہر کیا حض تہہ ہجھوہ اسہ مسخرہ بناوان اسہ سیت ٹھٹھہ کران۔ تہہ کتہ حض
 ہجھو یوزمت از تال کہ گاوہ ہندہ تہہ سیت ژنڈ دنہ سیت کیاسپدہ مردہ زندہ قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ
 مِنَ الْجٰهِلِيْنَ موسیٰ علیہ السلام فر موو کہ بہ ہجھس اللہ تعالیٰ اس پناہ منگان کہ بہ کیاہ ہنہ جابلو
 اندرہ۔ احکام خداوندین منز تمسخر کرن ہجھہ جابلن ہنز کوم قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا هِيَ تَمبو
 دوپ حضرت موسیٰ اس تہہہ کروحض سانہ خیطرہ پنے نس پروردگارس عرض کہ سُوکِرہ بیان کہ اس
 گاوہ ہند صفت کم کم گڑھن آسن قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا قَارِضٌ وَلَا يَكْرُمُوْنَ اَبِيْنَ ذٰلِكَ
 فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ تَمبو فر موو کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہجھو فرماوان سبوگا گڑھنہ آسن بڈہ نہ گڑھہہ آسن
 بالکل لوکت و ژھر ہش بلکہ گڑھہہ آسن یمن دون حالن در میان۔ وؤن مہ کتر و زیادہ پر ژھہہ پر ژھہہ۔
 وؤن گڑو سوکام سمیک توہہ حکم کرنہ یوان ہجھو۔ قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا لَوْ نَهَا تَم لَب دپنہ
 تہہہہ پر ژھو حض سانہ خیطرہ پنے نس پروردگارس سُوکِرہ بیان اسہ تمس گاوہ ہند رنگ کیاہ گڑھہہ آسن۔
 قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُوْا لَوْ نَهَا تَسْرُ الْظُرِيْنَ حضرت موسیٰ ان فر موو کہ بیشک
 اللہ تعالیٰ ہجھوہ فرماوان تمس گاوہ ہند رنگ گڑھہہ زرد آسن سوی گڑھہہ آسن شوخ زرد نیس دل پھولرا وہ
 و ہجھہ و نین۔ یعنی نس و ہجھہ و نین فرحت و سرور بخشہ قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقْرَةَ شَبَهَ

وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَكَاهِنُونَ ﴿۴۰﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا
 ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا
 قَالُوا لَنْ نَجِدَ بِالْحَقِّ قَدْ بَعُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۱﴾ وَ
 إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مِمَّا كُنْتُمْ
 تَكْتُمُونَ ﴿۴۲﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى

عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَكَاهِنُونَ دینہ لگ بیہ پر تھو حض پنہ نس پروردگار سانه خیرہ کہ سُوکرہ
 بیان سانه خیرہ وارہ وضاحتہ سان سوگاؤ کر تھہ گڑھہ آسن تھمندہ خاص علامت تہ نشانہ چھا کینہہ۔ بیشک
 سوگاؤ سمندہ سیت امہ قاتلہ سُنڈ پتہ لجم سوچھ امہ نشہ مشتبہ۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ نتر او تھہ بیان فرماوہ تھہ
 صورتس اندر لجم امہ ضرور پتاہ یو تھہ خداین قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ
 وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا موسیٰ علیہ السلامن فرموؤ کہ اللہ تعالیٰ چھوہ فرماوان سوگاؤ
 گڑھہ آسن محنت کش یوسہ الہ بانہ سیت زمین تلوہ ون آسہ۔ بیہ آسہ نہ اربٹس لائتھہ زمینس زر اتس
 سگ دوہ ون سالم آسہ عیبونشہ۔ کانہہ داغاہ آسہ نہ تس۔ بیاکھہ رنگاہ آسینس نہ یعنی ٹیچہ ہار آسہ نہ بلکہ
 آسہ اکی رنگہ قَالُوا لَنْ نَجِدَ بِالْحَقِّ یہ یوز تھہ دوپ تمبو موسیٰ علیہ السلامس دون کیا حض آوہ تھہ
 صاف وشتہ تھہ بیتھہ۔ امہ پتہ کور تموتلاش اس گاوہ ہند۔ توپتہ لجمہ امہ قیچ گاؤ اکس جوانس نش بس
 پنہ ماجہ ہند اوس سخت فرما نبردار۔ تمسی نشہ ہنیر کھہ یہ گاؤ مل تیتس سونس سیمہ سونہ سیت تھمندہ مسلمہ
 تہ دالہ برنہ بیہ ہا قَدْ بَعُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ پس کور تموتس گاوہ کھش۔ در حالیتھہ آس نہ یم یہ کام
 کرہ ون یہ تھند یوسوالا تو سیت ظاہر سپدان اوس مگر چارہ لوگھہ نہ کینہہ تہ۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ
 فرماوان تھہ قصس متعلق مزید بیان وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا بِیہ پادو تھہ ژ تس سُو وقت یلہ
 توہہ اندرہ کتام شخصن موراکھ شخصاہ توپتہ ہو توہ توہہ اندرہ پریتھہ اک پنن پان بری ہاونہ خیرہ اکھہ
 اکس ہانڑھہ لاگن یعنی چھاؤن داس ہنڑوہ کرن وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ اس اوس

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۴۳﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِّنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
 لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَنْسَقِقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
 الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

نر او ان منظور تہ یہ تہہ کھٹان تہ پوشیدہ تھاوان آسوہ۔ تمی موکھہ یلہ اسم توبہ گاؤن بحکرہ نک حکم کور
 قَعَلْنَا صُرُوبًا بَعْضُهَا پس فر موواسہ دیوژنڈ اس مردس اسس مقتول شخصس اسس مذ بوحہ گاوہ ہندہ
 کمنہ تانہ سیت توپتہ دژتمو اسس گاوہ ہندہ زیوہ سیت یارانہ سیت ژنڈ اسس مقتولس۔ چنانچہ سو مقتول
 گوزندہ۔ تم دون پنہ نس قاتلہ سُنْدَاؤ۔ سُواوس پنہ نیو دیو پترو بابو یابا پتھر و مالکہ طمعه یا پتھر نہ دنہ
 موکو مورمت۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان امہ پتہ قیامتہ کین مکران سم مر نہ پتہ ہیہ زندہ گڑھہ نس انکار
 چھہ کران کَذَلِكَ يُعِی اللہ الْمَوْتِیٰ پتھہ پاتھہ کیاہ کرہ اللہ تعالیٰ قیامتک دوہ مردن ہیہ زندہ پتھہ پاتھہ ہیہ
 مقتول ہیہ زندہ کورن وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ تعالیٰ چھوہ تمہ پنہ قدر تک نشانہ ہاوان پنہ
 قدرتہ سیت دیوہ تہہ عقلہ کام ہیہ پتھہ تہہ امہ سیت زانو کہ نس خدا یس ہیہ اکھ مردہ توگ زندہ کرن تس
 نغیر کیاہ عجائب چھو ساری مردہ قیامتک دوہ ہیہ زندہ کرن۔ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ ہر گاہ بنی
 اسرائیل پر ژھہ پر ژھہ کرہ ہن نہ گوڈنی مار ہن کانہہ گاواہ مقصد سپد ہکھہ حاصل امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ
 فرماوان کہ تمکن بنی اسرائیل سپد نہ سم واقعات و چھتھہ کانہہ اثر اہ۔ ہیہند دل سپد سٹھاہ سخت ثُمَّ قَسَتْ
 قُلُوبَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً سمو تھید واقعاتو پتہ گڑھہ تھند دل نرم گڑھہ
 خدا یہ سندہ قدر تک بڈ نشانہ و چھتھہ مگر تھہ بدل سپد تھند دل سٹھاہ سخت پس سپد تھند دل کنہ ہشہ۔
 بلکہ چھہ تھند دل کینو خوتہ تہ زیادہ سخت سمہ وجہہ کہه وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ بیشک
 کینو اندرہ چھہ بعضہ کنہ سمو اندرہ دریا چھہ جاری سپدان وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَنْسَقِقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
 بیشک ہیہ چھہ کینو اندرہ بعضہ کنہ سمہ پھٹان چھہ نس چھو تموا اندرہ تہ آب جاری سپدان وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۹﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ
 مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ وَإِذْ الْقَوَّالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
 آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا آمَنَّا تَوْنُهُمْ بِمَا
 فَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَجْزِيَكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۱﴾

یہوڈوں میں خشیت اللہ بیشک بیکہ بعضے نے سمجھ کر تہزہ پیٹھ بون و ستھہ بیوان نہ ذلہ گڑھان چھہ خدایہ
 سندہ خوفہ سیت مگر تہندین دلن پھہندہ نہ قسمہ اثر گڑھان تہند دل چھہ قساوتن ولت تھی قساوتہ سببہ
 چھوہ تہہ یمہ یمہ پھہ کامہ کران۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ چھہ تہزہ و تمو پھہ کامیو
 نشہ بے خبر۔ سوڈیہ توہہ جلدی تمیک سزا۔ یہودن ہندیم حالات بیان کرتہ پھو اللہ تعالیٰ امہ پتہ تم
 مسلمانن تم کوشش کران چھہ یم یہود گڑھہ ایمان ان تھی خیطرہ پھہ تم غم کھیوان فرماوان کہ
 أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ اے مسلمانو! کیاہ تم ایت قصہ بوزتہ چھوہ تہہ توقع کہ تہزہ کوششہ
 سیت کیا ان تم یہود ایمان حالانکہ تمو ساروی قصو علاوہ پھہ بہزہ بیاکھ اکھ عجیب کتھہ کہ وَقَدْ كَانَ
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ پڑھا پھہ یمواندرہ
 پھہ اکھ جماعتہ گذر تمو تم بوزان آس خدلیہ سُد کلام توپتہ آس تھہ تغیر و تبدیل کران تحریف
 لفظی تہ کران تحریف معنوی تہ کران زانتہہ کرتہ دیدہ ودانتہ۔ بیہ آس تم زنانہ یہ کتھ کہ آس چھہ یہ
 پھہ کام کران۔ مگر اغراض نفسانی آکھہ یہ پھہ کام کرنس پیٹھہ آمادہ کران وَإِذْ الْقَوَّالَّذِينَ آمَنُوا
 قَالُوا آمَنَّا یہ یمہ تم منافق یہود مسلمان سیت ملاقات آس کران تم آس و نان اسہ تہ اون ایمان
 وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا آمَنَّا تَوْنُهُمْ بِمَا فَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَجْزِيَكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
 تمہ پتہ یمہ تمو منافق یہود واندرہ بعضے بین خالص یہودن نش و اتان آس تم آس دپان آس چھہ توہی
 سیت متفق تم خالص یہود آسکھ و نان ادہ کیا زہ چھوہ تہہ یمن مسلمانن تمہ کتھہ باوان تمہہ تمس مفید

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۴۷﴾
 مِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
 يَظُنُّونَ ﴿۴۸﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ
 لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۴۹﴾ وَقَالُوا

مطلب چہ آسان یمہ کہہ اللہ تعالیٰ ان توہمہ نغمہ ظاہر تہ منکشف چہہ کر مرہہ تور اتس اندر۔ اس چہہ
 تمہ کہہ مصلحتا پوشیدہ تھاوان تہہ چہہوہ تمہہ کہہ نتر او ان۔ انیک نتیجہ چہو کہ لگاہ قیامتک دودہ خدا بس
 برو تہہ کنہہ کر نوہ تم توہہ لاجواب یہ کہہ چہنا توہہ فکرہ تران۔ اَوَّلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ
 وَمَا يُعْلِنُونَ کیاہ تم ن چہنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ چہو تہ سوڑی زانان یہ تم پوشیدہ تھاوان چہہ۔ بیہ تہ
 سوڑی یہ تم نز او ان چہہ سو چہو با ایمان تہنزہ سمہ سارے کہہ باوان۔ امہ پتہ چہو اللہ تعالیٰ عام بھودن
 ہند حال ظاہر کر ان وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ سمو یہود و اندر
 چہہ اکثر ناخواندہ تہ ان پد۔ تمن چہہ خبری تور اتس منز کیاہ چہو لیکتہہ۔ مگر زان تم و اس خوش کرہ
 ونہ کینہہ اپزہ کہتہ یمہ تمو بو زمزہ چہہ پنہ نین غیر متدین عالمن نغمہ۔ مثلاً جنتس منز واتن نہ بھودن
 ورا کی کا نہہ تہ بیہ گرہ ناوان تہند مال ہدبب تمن ساری گو نمن بخشائیش۔ تم آس تہند خیالات باکل
 بے دلیل تہ بے سند۔ تم چہہ فی الحقیقت کینہہ تہ زانان بل چہہ تم خیالی پلاؤر نان۔ عوامن ہنزہ امہ تو تم
 پرستی ہند سبب چہو تہندین علماء ن ہنز خیانت قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لہذا چہہ ہدہ خرابی تہ بربادی ویل تہ انوس تمن
 عالمن ہندہ خیرہ یم لیکھان چہہ کتاب یعنی توریت اوڑک یور تہ اول بدل کر تہہ۔ بیہ چہس ملہ ناوان
 پنہ طرفہ تہ یہ خوش چہہہ کر ان تہ تو پتہ چہہ ونان لوکن یہ چہو خدا یہ سندہ طرفہ چہہ سمہ سیت تم
 حاصل کر ن تہ زین تمن نغمہ مولاہ تہ قیمتاہ سٹاہ کم قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذُ تُمَّ عِنْدَ
 اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۰﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۱﴾ وَالَّذِينَ

يَكْفُرُونَ کسب گنہوں کا یہی معنی ہے کہ جو تمہارے خلاف ہو اور وہی ہے افسوس تمہیں سبب یہ تمہیں لو کہہ پنے نیوا تھو تغیر و تبدیل کر تھو۔
 یہی معنی ہے کہ تمہاری خاطر ہو ویل ہے افسوس تمہیں موکہ یہ تم امہ سیت زینان ہے حاصل کران آس۔ یہود آس
 دعویٰ کران کہ دین موسوی چھو نہ منسوخ نہ دین عیسوی سیت نہ دین اسلامہ سیت لہذا چھہ تم
 بدستور مومن حضرت عیسیٰ سندس نبوتس یا حضرت محمد ﷺ سندس نبوتس انکار کرنے سیت۔ تم کافر
 چھہ دون ہر گاہ تم بعضی گنہوں سبب جہنم منسوخ نہ آسے کم کینہہ مدتہ خاطرہ۔ تو پتہ بین تم تمہ منزه
 کڈنہ یہ اوس یہودوں ہند خیال۔ اٹھ خیالس تہندس چھو اللہ تعالیٰ رد کران وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا
 أَيَّامًا مَعْدُودَةً ونان آس یہود پنے خیالہ کہ اسہ لگہ نہ نار جہنم اٹھ ہے مگر کینہہ نے دوہن زیادہ خوتہ
 زیادہ تین دوہن اتین دوہن تہندس آباؤ اجداد و گوسالہ پرستی یعنی وژہ سنز عبادتھہ کر مڑ چھہ
 قُلْ أَتَّخَذُ تُمَّ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تہہ فرماؤ کہ
 حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یہودو تہہ چھو اٹھ متعلق اللہ تعالیٰ اس نشہ کا نہہ تہہ
 عمدہ روٹتہ ہے حاصل کورمت تہہ نہ سو خلاف ہیچہ کرتھہ۔ کنہ تہہ چھو خدا سیت سو تھہ لاگان
 تہہ نہ توہہ نش کا نہہ دیلاہ تہہ ثبوتہ چھو۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اٹھ ضابطہ اکہ سیمہ سیت یم
 لو کہ نارس اندر ابدالآباد روزہ ون آس بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ تھہ چھہ ہرگز صحیح یہ تہہ ونان چھوہ بلکہ چھو اسہ نشہ نارس اندر ہمیشہ
 روزنہ خاطرہ اکہ ضابطہ تہہ قاعدہ کلیہ مقررہ۔ سو گواوی زہ تہہ شخصہ گناہ کرہ تو پتہ بین ولنہ تس ہن گناہ
 پر تھہ طرفہ۔ کا نہہ طرفہ آسین نہ خالی گنہوں نشہ تا اینکہ دل آسین خالی ایمانہ تہہ تصدیقہ نشہ یعنی بے

امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۶﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ
 لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ تَوْبًا لِّوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي
 الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَقَوْلُوا لِلنَّاسِ
 حُسْنًا وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ
 تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۸۷﴾

ایمان نہ کافر اسے جس تمہی قسمک لوکھ چھ نار جنہنس اندروانہ ون۔ تم روزن تمہ منز ہمیشہ لہذا الآباد
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وون سمو لو کو پڑھ کر
 خدایس بیہ تہندس بیغمبرس بیہ کر کیکہ تہندی حکمہ موجب رزہ رزہ کامہ امی قسمک لوکھ چھ جلتی تے
 روزن اتھ منز ہمیشہ لہذا الآباد۔ لہذا امہ قاعدہ کلیہ سیت سپردہ یہودن ہندس باطل دعوی اس یس تمو
 کریاو۔ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ بیہ پاوڑتس سو وقت یلہ مہ
 تورا تس اندر بنی اسرائیلن نشہ عمد و بیان روٹ۔ تھہ تھہ پیٹھہ کہ عبادت تہ بندگی کر زنہ معبود برحقس
 وراکی کانہہ ہنز۔ کیا زہ سنی یوت و تھو عبادتس سزاوار ویا الوالدين احسانا و ذی القربى
 وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَقَوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا بیہ کرہ نا و تم اسہ عمد اس ماجہ کر زہ آشناون
 تہ رشتہ وارن نسبت احسان بیہ کر زہ مسکینن غریبن محتاجن نسبت احسان بیہ آسزہ عام لوکن سیت
 زت پاٹھ خوش خلقی سان تھہ کران وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ بیہ تھاو نماز برپا۔
 پابندی سان آسو نماز ادا کران۔ بیہہ آسو ماچ زکوٰۃ ووان شُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ
 وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ تو پتہ پھیر وہ تھہ امہ عمدہ نشہ عمد شکنی کردہ تو بہہ کینٹرن لوکن ورا ی تم گئے
 تے یمو تورا تس پیٹھہ پورا پابند روز تھہ شریعت محمدیہ قبول کور۔ اے یہود و تہند عادتے تھو عمد شکنی

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ
 أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۸۶﴾
 ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ
 مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

کرن۔ اقرار کرتے ہوئے پھر اِن وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ سے پاؤں سو وقت سے زلتیں بلکہ اسے توہمہ نشینہ عمد روٹ سے کہتے ہند کہ یہ تھنہ تہہ خانہ جنگی کرتے تھے اگہ اک سُنْدُ حُونُ ہارو۔ یہ تھنہ کڈیو کھ پن پان یعنی پانہ وان لو کھ پنہ نیو شہر واندرہ تو پتہ کور وہ توہہ اتھ پیٹھ پورا قرار ضمنی اقرار نہ بلکہ صریح اقرار زن تہہ حج شہادت سے گواہی دو ان چھوہ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ پانہ وان چھوہ قتل و قتال کر ان یہ چھون پن اتھ جماعت تہند یو شہر واندرہ غیر کڈان ترک و طن کر نس پیٹھ چھو کھ تم مجبور کر ان یہ طریقہ کہ تہندین مخالفین گناہہ سیت سے ظلمہ سیت۔ اتھ متعلق آس تمن پیٹھ ترہ حکم واجب سپد مت اتھ حکم اوسکھ پانہ وان مہ آسو قتل و قتال کر ان بیا کھ حکم اوسکھ لو کھ مہ آسیو کھ شہرہ منزہ غیر کڈان جلاء و طن کر ان ترم حکم اوسکھ کہ ہر گاہ تہہ پنہ قوم منزہ کانہہ شخصہ بین نشہ گرفتار کرنہ آمت و چھون سو آنزرن ہارہ دتھ موکلاوتھ انان۔ سہموتریو حکمو منزہ آس نہ تم دون کھن پیٹھ کانہہ عمل کر ان صرف آس ترمیس کھس پیٹھ عمل کر ان۔ حج صورتھ آس بیتھ پاٹھ کہ مدینہ شریفنس منزہ آس کافرن ہند زہ قبیلہ اتھ اوس سے بیا کھ خذرج سکن دون اوس سخت عداوت کئیدہ وقتہ آس سکن جنگ و جدال و قتل و قتل نوبت واتان۔ مدینہ شریفنس لئد پک آس بہودن ہند زہ قوم بسان بنی قریظ و بنی نصیر۔ اوس سے بنی قریظ آس پانہ وان دوست۔ تھے پاٹھ آس خذرج سے بنی الثیر پانہ وان اتھ اکسندہ دوست۔ یلہ کافرن ہندین دون قبیلن

يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَجَهُمْ
أَفْتَوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ

اوس نے خزر جن پانہ وان لڑائی دو تھان آس یسودن ہندزہ قبیلہ بنی قریظہ سے بنی النخیر آس تمہہ ساتہ پنہ
نین پنہ نین دوستن مدد کران۔ بنی قریظہ آس قبیلہ اوس مدد کران بنی النخیر آس قبیلہ خزر جس مدد
کران۔ یہ کتھہ پتھہ ظاہر کہ بنی قریظہ قتل و اخراج کران پیوان بنی النخیر سے پیٹھہ۔ بنی النخیر کہ قتل
و اخراج اثر اوس پیوان بنی قریظہ سے پیٹھہ۔ البتہ ہر گاہ یسودن ہند یوسم دو شوی جماعتو اندرہ کانہ
شخصہہ جنگس اندر گرفتار سپدہ ہاتمہ ساتہ آس یہود پنہ نین دوستن مال و تھہ راضی کران تس گرفتار۔
سپد تس شخص آس موکلاو تھہ انان۔ ہر گاہ کانہ شخصہہ تمن تھہ متعلق اعتراض کرہ ہاتس آس وانان
کہ اسہ پیٹھہ پتھو قیدی رہا کرہ ناؤن واجب۔ ہر گاہ کانہ شخصہہ اعتراض اوس تمن کران کہ قتل و
اخراج تے توبہ ناجائز اوس تہہ کیازہ چھوہ یمن دون چیزن اندر پہلو تھی کران دپان آس اسہ پتھو پنہ
نین دوستن اعانت و مدد کرنس پیٹھہ عاریوان۔ اللہ تعالیٰ پتھو یمن یسودن ہنزاچی شکایت کران۔ پنہ
نین لوکن مقابلہ تہندین دشمن مدد کرنہ آندرہ پتھو مراد قبیلہ اوس و خزر جن۔ اللہ تعالیٰ ان فرمود گناہ و
ظلمہ سیت آس تمن امداد کران۔ امہ آندرہ پتھو مراد کہ تم آس امہ سیت زہ حق ضائع کران۔ اکھ خدایہ
سند حق۔ کیازہ تہندس حکمس آس نہ تعمیل کران۔ بیہ اوس حق العبادتہ ضائع کران۔ کیازہ بین آزار
وانہ ناوان۔ تی پتھو فرماوان اللہ تعالیٰ **وَإِنْ يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَجَهُمْ**
بیہ ہر گتہ تمو لو کو آندرہ کینہہہ لوکھہ لڑایہ اندر گرفتار سپد تھہ توبہیہ نش و اتان چھہ تم پتھو کھہ مال و فدیہ دتھہ
موکلاوان حالانکہ تم پنہ وطنہ منزہ کڈن تے اوس توبہ پیٹھہ حرام۔ تھے پاتھہ تم قتل کرن تے اوس تہہ
پیٹھہ حرام مگر تمن دون کتھن ہند پتھنہ کانہ پرواہ کران ترسمہ کتھہ ہند یعنی فدیہ دتھہ قید موکلاو تھہ انہ
نک چھوہ خیال کران **أَفْتَوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ** امہ آندرہ پتھو ننان کہ تہہ چھوہ
توراتہ کین اڈین حکمن پتھہ کران اڈین حکمن انکار کران۔ **فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِزِي**
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا پس و نتو تھی کہ کس شخص توبہ اندر امہ کج کام کرہ تس ماشوہہ سزاؤنیاچہ خواری تے
رسوائی و رای کتبہ تے۔ چنانچہ تی آوہمل بنی قریظہ آس قتل کرنہ۔ بنی النخیر آسے کمال خواری جلاء وطن

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
 الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَسَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
 فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۸۶﴾ وَ
 لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ز

کر نہ مسلمان ہندہ ذریعہ ویوم القیامۃ یردون الی اسد العذاب امہ علاوہ گوکھہ کہ تھے بن قیامتہ دوہہ
 بیہ تراوند سخت عذاب اندر وما للہ بغافل عما تعملون اللہ تعالیٰ جھنہ کینہہ بیخبر تہنز و پجھہ کامیو
 نغہ اولیک الذین اشتروا الحیوۃ الدنیآ بالآخیرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون
 امہ سزاگ وجہ پجھوای زہ سم گوکھہ جھہ تھے سمو سائین حکمن ہنز مخالفت کر تھہ مول ہنزہ دنیاچ حقیر
 زندگی آخرتچہ پائیدار زندگی بدل سمیک ذریعہ اطاعت وفرمانبرداری اوس۔ پس بیہ نہ کم کر نہ تہندس
 عذابس اندر۔ نہ بیہ تمن کانسہ وکیلہ سندہ طرفہ یادوست رشتہ دارہ سندہ طرفہ عنہ قسمہ مددتہ یاری کر نہ
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ بیہ کراسہ اے بنی اسرائیلو تہندہ ہدایتہ
 خیطرہ بروٹھہ پیٹھے ہنڈ ہڈ سامانہ مہیا۔ ساروی بروٹھہ کراسہ موسیٰ علیہ السلام کتاب توریت عطا۔
 تمن پتہ سوزاسہ اکھ اگس پتہ بیہ پیغمبر۔ تم گئے حضرت یوشع علیہ السلام حضرت شمویل علیہ السلام۔
 حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت ارینا
 علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔
 حضرت الیسع علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ
 السلام۔ ہم ساری پیغمبر آس لوکن نادووان دین موسولیس کن وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
 وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ امہ خاندانہ کس انیرس کوراسہ عطا حضرت عیسیٰ ابن مریمس نبوتچہ واضح
 دلیلہ انجیل تہ بے بے معجزات۔ بیہ کوراسہ تمن تائید پاک روح یعنی جبریل امینہ سندہ سیت۔ سو

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط
 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ
 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿۸۵﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط
 بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾

جبریل امین اوس پر تھہ وقتہ تمن سیت سیت آسان باوجود آل رُودوہ تہہ سرکشی کران **أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ** کیا یہ بھٹنا بیچ تھہ کہ یلہ یلہ کانہہ پیغمبرہ توبہہ نشہ آو تم احکام پیٹھہ تم نہ تھند دل یرھان آس تمی کوروہ توبہہ تمن پیغمبرن ہنز اطاعت قبول کرنہ نشہ تکبر کران شروع **فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ** توے آسوہ تمو پیغمبر واندرہ اڈین پیغمبرن نعوذ باللہ ایزیر زانان۔ اڈ پیغمبر کروو کھہ شہید۔ رُوح القدس پھوونہ آمت قرآن وحدیث شریفن منزا کثر جبریل امینس۔ جبریل امینہ سُنڈ موید آسن حضرت عیسیٰ علیہ السلامن چھووار یسوطریقہ۔ اول ولادتکہ وقتہ یمہ سیت تمن شیطانہ سندہ اتھہ لاگنہ نشہ حفاظت سپز۔ دوتم دیت جبریل امینن حضرت مرتس پھوکھہ۔ تمی سیت سید استقرار حمل عیسوی تھندس شکم مبارکس اندر تو پتہ آس یسود بکثرت تھند دُشمن۔ جبریل امین اوس تمن سیت سیت حفاظتہ خیطرہ چنانچہ بالآخر آمی تم آسانس پیٹھہ کھارنہ بذریعہ جبریل امین یسود وکور حضرت عیسیٰ سدس نبوتس انکار۔ بیہ کر کھہ حضرت سمی بیہ حضرت ذکر یا شہید **وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ** بیہ تھہ ونان یسود تھکنہ پاٹھہ کہ سان دل بھہ تھہ محفوظ کہ تمن پیٹھہ بھکنہ مخالف کانہہ دین اثری کمر تھہ۔ یعنی آس بھہ پنہ نس دینس پیٹھہ پختہ تہ مضبوط۔ اللہ تعالیٰ بھو تھندس بیہ تھہ ونہ نس رد کران۔ فرماوان بھو بیہ بہنز پوختہ گی دینس پیٹھہ بھکنہ۔ بلکہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تمن لعنت کر مژ تھندہ کفرہ سببہ تمی بھہ تم دین حقہ اسلامہ نشہ دور ژلان تہ منسوخ دینس پیٹھہ قائم روزان پس سیٹھہ کم بھو تھند ایمان سؤ کم ایمان قابل قبول بھکنہ آتھہ لہذا چھہ تم بدستور کافر **وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ**

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا
جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۸۵﴾
بِسْمِهَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا
أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

توپتہ یلہ تم نیش سو کتاب واثر خدا یہ سبہ طرفہ یوسہ کتاب تھہ کتابہ تہ آس تصدیق کران یوسہ
بروٹھے تم نیش آس یعنی تورايت وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا حالہجہ تم آس
امہ بروٹھے فتح و نصرت منگان خدا یس کافرن تہ عربہ کین مثر کین پوٹھے۔ یلہ تم یمن پوٹھے غالب
سپدان آس۔ چنانچہ تمہ وقتہ آس دُعا کران اَللّٰهُمَّ اَبْعَثْ هَذَا النَّبِيَّ الَّذِي نَجِدُهُ مَكْتُوبًا فِي التَّوْرَةِ
عِنْدَنَا حَتَّى نُعَذِّبَ الْمُشْرِكِينَ وَنُقَاتِلَهُمْ یعنی یا اللہ سوز تن یہ پیغمبر یسند نعت تہ صفت چہہ آس
پران توراتس اندر۔ تاکہ تم نیش سیت اتفاق کر تھہ کرہ ہو آس یکہ وٹہ کافرن سیت جنگ۔ اللہ تعالیٰ چھو
فرماوان فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ پس یلہ آو تم نیش سُو صاحب یس تم پرزہ ناوان آس
صفتو سیت تس صاحبس کو رکھ انکار عمد او قصد اکیازہ آھہ اوس تم نیش پیغمبرن انکار گرن عاد تھی۔ دو سم
اوس تم نیش گمانہ کہ پیغمبر آخر الزمان آسہ بنی اسرائیل قومہ منزہ۔ خدا یمن کو رہندس خیالس بدل۔ تمی
گو یمن آس پیغمبر برحقہ سُنَد حسد تہ عناد فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پس لعنت بوین یمن کافرن یعنی
یہودن پوٹھے سمو پوزس انکار کو ردیدہ ودانستہ بِسْمِهَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا
أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ سُو حالت چھہ سیٹھاہ خراب تہ تھہ یوسہ سمو
اختیار کمر تھہ پنہ گمانہ پنہ نین پان تم آخر کجہ عذابہ نشہ موکلاون یژھاہان چھو۔ سہ حالت گجہ کفر و انکار
کران تھہ چیزس یس اللہ تعالیٰ ان آس پیغمبر برحقس پوٹھے نازل فرمو یعنی قرآن مجید۔ سُو انکار تہ
چھہ کران تم محض سر کشی تہ ضد کر کجہ سبہ کہ اللہ تعالیٰ کیاہ چھو نازل کران پن فضل پنہ نیو بندو

فَبَاءٌ وَبِعَصَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۹﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ

اندرہ ہنس بندس پیٹھے یڑھان پٹھو۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امہ حسد و سرکشی سببہ فَبَاءٌ وَبِعَصَبٍ عَلَى غَضَبٍ پس آے ز پیٹھے یم یہود اکس بیزاری پیٹھے بیا کہ بیزاری۔ انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرنے سببہ اکھ بیزاری۔ انکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سببہ بیا کہ بیزاری یا کفرہ سببہ اکھ بیزاری حسدہ سببہ بیا کہ بیزاری وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ میں کافر ان آسہ آخرتس اندر سومی عذاب تہہ اندر ذلت تہ خواری آسہ۔ امہ پتہ پٹھو اللہ تعالیٰ فرماوان میں یہودن ہندہ کفر حسد چ دلیل۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۗ یلہ تممن یہودن ونہ پٹھو یوان کہ تہہ انو ایمان تممن ساری کتابن پیٹھے یمہ کتابہ اللہ تعالیٰ ان نازل کرہ وار میں پیغمبرن پیٹھے تمہہ ساتھ چہہہ دپان اس کرو پڑھہ تہہ کتابہ یوسہ اسہ پیٹھے بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل کرنے آہہ یعنی توراہت تمہہ علاوہ، سمہ کتابہ چہہہ تممن چہہہ کران انکار۔ یعنی انجیلس تہ قرآن مجیدس۔ تممن دو شون چہہہ کران تم انکار و ہُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ حالانکہ تمہہ کتابہ تہ چہہہ در ذات خود پڑہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر مرہہ۔ تمہہ علاوہ چہہہ تمہہ دو شویے کتابہ تصدیق کران تہہ کتابہ یوسہ تممن نشہہ چہہہ یعنی توراہتس قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تہہہ فرماویو کہ یارسول اللہ تہہہ کیا زہ آسہ کہ تہہہ قتل کران خدایہ سند پیغمبر از کہ برو تہہہ ہر گاہ تہہہ توراہتس ایمان آنہ ون تہہہ پڑہ کرہ ون آسہ۔ لہذا چہہہ تہہہ سندس کافر آسہ اندر شکھی کانہہ۔ تمہہ علاوہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ

مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ
ظَالِمُونَ ﴿۹۲﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا ۗ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
ۗ قُلْ بِسْمَايَا مُّرْكَبَةٍ أَيَّمَاكُمُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۹۳﴾

بَعْدَهُ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بے آو بیشک توہم نش حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید و رسالت پر صاف صاف
دلایل پیشہ۔ سو گو عصا۔ يد بیضا۔ دریاوس شیق کر تھے اپور ترن۔ تم معجزات آس تہندس نبی برحق
آسنس پیشہ دلالت کران۔ مگر توتہ زئون توہم گوسالہ یعنی دوڑھے سونہ سندن پین معبود حضرت موسیٰ
سندہ کوہ طورس پیشہ گھنہ پتہ آسوہ ہتہ دوڑھے معبود تجویز کرنس اندر ظلم و ستم کرہون تہہ چھوہ دعویٰ
کران توراتس پیشہ ایمانک مگر یہ کام چھہ صرت شکر سمہ سیت لازم چھوہ یوان بصراحت حضرت
موسیٰ اس تکذیب کرن۔ لہذا آتھہ پاٹھہ ہکن تم باایمان آتھہ وَاِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
فَوْقَكُمُ الطُّورَ بے چھوہ سو وقت تہ تہیتس پاونس لایق یلہ اسہ توہم نشہ عمد و پیمان رتھہ کوہ طور
تجووسیٰ تھاد یواسہ تہندس کلن پیشہ ہکن۔ توپتہ فرما دیواسہ توہم حکم۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ جلد
کتر و قبول توراتک تم احکام تم اسہ توہم دت عمل کر نہ خیطرہ ہمت و چنگلی سان تہ تراو و آس یہ کوہ
طور توہم پیشہ وَاسْمِعُوا بے بوز و احکام وارہ و لوسیت۔ تمہ پتہ کور تمبو کوہ طورہ پیشہ پنہ کہ خوفہ قَالُوا
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا دوپچھہ بوزاسہ قبول کورنہ اسہ۔ بوزاسہ کوسیت مگر عملا کرو آس نافرمانی۔ اسہ
تہزہ بد عملی ہند و جواس کہ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ تہند دل آس چاونہ آمت و تھہ سندن
تہ و تھس پرستش کرنک محبت بکفرہم تہندہ برد تھہم کفرہ سبہ۔ یلہ تمودریادہ نشہ عبور کر تھہ پور
واتھہ اکھ بت پرست قوم و چھتھہ درخواست کور حضرت موسیٰ اس اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُ الْمَاءُ
سانہ خیطرہ کریون حض مقرر اکھ تجم معبودہ اتھہ یاٹھہ یمن لوکن چھہ قُلْ بِسْمَايَا مُّرْكَبَةٍ

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۷﴾ وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۸﴾ وَ لَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

ایماناً کہ ان کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تہہ فرما دو سمن یہودن سمن ایمانک دعویٰ ہٹو اے یہود و چھو تہہ تہند ایمان کہ کہ کفر چہ کامہ چھوہ تہہ کرہ ناومت ستمہ کامہ کا تہہ چھہ چھہ۔ سمن کالمین ہند تجوز توبہ کورمت ہٹو تہند ایمان اگر تہہ پنہ خیالہ بالیمان چھوہ۔ بعض یہود آس دعویٰ کران زہ آخر تجہ نعمہ چھہ خالص سانی خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرمود تہند یہ دعوے ہٹو باطل۔ فرمودن قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے پیغمبر برحق تہہ فرما دو سمن یہودن ہر گاہ تہند ہونہ موجب عالم آخرت محض تہندی خیطرہ خاص ہٹو بیولوگو و رای پس کر تو تہہ موٹک تمنا چھوے پزیرا تہہ دعویٰ اس اندر۔ اس چھہ سیتی و نان کہ وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ تم یہ دعویٰ کرہ و ن یہود کرن نہ ہر گز موٹک تمنا کیا زہ تم چھہ خبری تم چھہ کالمین ہند سزا چھو تم ضرور کھیون۔ لہذا تہہ پانٹہ کرن تم موٹک تمنا۔ اللہ تعالیٰ اس چھہ پور خبر تم ن ظالمین ہندین حالاتن ہنز وَ لَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ تہہ لو کہ کیاہ کرن موٹک تمنا البتہ لیبو کہ تم ساروی لو کو اندرہ یڑ حر یص زندگی پٹھہ و مَنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بیہ لیبو کہ تہہ تم مخر کن ہندہ کھوتہ زیادہ طامع تہہ حر یص زندگی ہند یَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ آرزوتہ خواہش چھو کران تمواندرہ پری تہہ اکھاہ ہر گے تس و انس تہہ عمریہ ہس دنہ اکھ ساس ورہ تہہ سیت پچہ ہاسو عذابہ نشہ و مَا هُوَ بِمَرْحُومٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ حالانکہ تس بیحہ نہ عذاب نشہ دور تھاوتہہ تہہ پچاوتہہ زٹھہ عمر حاصل سپدن وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِّمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ

وَمَا هُوَ بِمَرْجُوحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعْتَرَفَ وَاللَّهُ بِصِيرَتِهِمَا
 يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ
 عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
 وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۷﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ
 رُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾

چھو پورو چھن دول تہزہ سارے پیچھ کامہ تمَن پٹھہ تمن عذاب کرنہ پیہ۔ یہود آس و نان کہ جبریل
 امین چھو وحی پتھہ یوان بنی کر تمس نسیہ صلی اللہ علیہ وسلم سو چھو سون دشمن ہر گاہ آس ورا کی بیہ کانہ
 ملکھاہ وحی پتھہ یوان آسہ ہاتلہ آنہ ہواس تہ ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھو تمن
 رد کران فرماوان چھو قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فرماو وحض یمن یار رسول اللہ نس اکھاہ جبریل
 امین سُنَد دشمن آسہ آستن۔ اتھہ تھہ چھنہ کانہ دخل قرآن مجید نہ مانہ نس سیت کیاہہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى
 قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ پس بیشک جبریل امین دول یہ قرآن مجید تہ واتوون تھندس دلس اندر خدایہ
 سندی حکمہ۔ اتھہ منز چھنہ جبریل امینہ سُنَد کانہ دخل۔ تمہ علاوہ چھو یہ قرآن مجید مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
 يَدَيْهِ تصدیق کران تمن آسانی کتابن تمہ امہ برو تھہ نازل سپز مژہ چھہ۔ اتھہ ونس گن کیاہ چھو
 وچھن پانہ قرآن مجید س گن بزود چھن تج حقیقت چھہ کہ سو چھو وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
 رہنمائی کرہ ون ضروری مصحفن گن سموسیت خیر دارین حاصل سپہ بیہ چھو سو خوشخبری دودہ ون
 بالیمان۔ آسانی کتابن ہنز چھہ شان بیہ آسان۔ بہر حال یہ قرآن مجید چھہ آسانی کتاب قابل اتباع و
 پیروی جبریل امینہ سُنَدہ عداوتہ سبہ یہ قرآن مجید نہ مان گیہ سخت حماقت پس رود جبریل امینہ سُنَدہ
 عداوتک مسئلہ تھہ متعلق چھو قانون کہ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ
 فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ نس شخصہ دشمن آسہ خدایہ سُنَد بیہ تہندین ملائکین ہند بیہ تہندین
 پیغمبرن ہند بیہ جبریل امینہ سُنَد بیہ میکا نلہ سُنَد اده آستن پس پڑاٹھ اللہ تعالیٰ تہ چھو دشمن تھن کل فرن

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
 الْفَاسِقُونَ ﴿۹۹﴾ أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَعَهْدًا بَيِّنَةً فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
 بَلَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ
 اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَيِّنَاتٍ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

ہند تم ہندین سخن خاص ہند ہند دشمن آسن یہود آس و ناس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم توہم پٹھہ کونہ ہتھہ ترشہ کانہہ واضح دلیلہ نازل سپدان تیج آسہ کانہہ زان پچھان آسہ ہا تمکسی
 جو اہل اندر پٹھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ اہمہ دلیلہ ہنز کیاہ کھسی ہتھہ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا
 يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ بیشک آسہ کرہ نازل توہم پٹھہ یار رسول اللہ واریاہ واضح دلیلہ یمن دلیلن
 ہنز یمن یہودن پور خبر چھہ۔ مگر تم چھنہ تم دلیلن انکار کران بے خبری سببہ۔ بلکہ چھہ ہم انکار کران
 عدول کھمی ہند عادت آسہ سببہ کیاہزہ قاعدہ گلیہ پٹھو کہ انکار چھونہ کران واضح دلیلن مگر سوی یس
 عدول کھمی ہند عادت آسہ تیج گئے فاسق۔ بعضے یہودن یلہ سو عمد ڈٹس آوپاوندہ یس عمد تمن نشیہ
 ہینہ اوس آمت توراٹس اندر پیغمبر آخر الزمانس پٹھہ ایمان انہ نس تہ پڑھ کرہ نس متعلق۔ تمو کرو تھہ
 عمدہ سی کلیدہ انکار۔ امہ پتہ پٹھو اللہ تعالیٰ اتھہ متعلق ارشاد فرماوان أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَعَهْدًا بَيِّنَةً
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کیاہ یہ عمد ہینس چھا تمن انکار۔ تہنز حالت چھہ یس تیج
 کہ تمو پٹھونہ تسلیم کرنہ آمت عمد زاہ تہ پورہ کورمت۔ بلکہ یلہ یلہ عمد ہینس متعلق کانہہ عمد کورمت
 پٹھو سو پٹھو ضرور تمو آندرہ اک جماعتن پٹھہ رودمت۔ بلکہ تعمیل و ایفای عمد نہ کرہ و آندرہ نیر اکثر تیج
 یمن نہ تمہہ عمد ک یقینی پٹھو تعمیل و ایفای عمد نہ گرن اوس فسقی۔ مگر تھہ عمدس کلہ پٹھہ انکار گرن
 گو صریح کفر یتس فر موؤ کہ کہ اکی جماعتن یہود و آندرہ پٹھہ رو سو عمد۔ کیاہزہ بعضے یہود روود قائم تھہ
 عمدس پٹھہ بدستور۔ چنانچہ تمو اوان ایمان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امہ پتہ پٹھو اللہ
 تعالیٰ فرماوان تہدہ اہمہ خاص عمد شکنی ہنز ذکر وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

الْكِتَابِ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾
 وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا
 كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
 السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

بَدَأَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بے یلہ آؤ تم
 کُن اکہ عظیم الشان تہ جلیل القدر پیغمبر اہ خدایہ سندہ طرفہ یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
 اُس صاحب پیغمبر برحق آستہ تصدیق تہ کران اوس تھہ کتابہ یوسہ تم نش موجود آس یعنی توراتس
 کیا زہ تھہ کتابہ منز آس تہندہ بیوتج خبر۔ تھہ کُن نظر کر تھہ اوس تم نسبت ایمان اُن تہ پڑھ کرن عین
 توراتس پٹھہ عمل کرن۔ توراہیمہ کتاب اللہ آس تم تہ پڑھ کران۔ تھہ آس تم خدایہ سنز
 کتاب مانان تہ تسلیم کران مگر باوجود اکل تر و اہل بتائو یعنی یہود و اندرہ اک جماعتن یہ کتاب اللہ یعنی
 توراہت پس پُشت تہ پٹھہ پٹھہ کہ زن نہ تمن امہ کتاب اللہ آج خبری آس تمہ بدل کوڑکہ بیاکھ چیزاہ
 اختیار و اتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينُ كَفَرُوا
 يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سمہ آیہ کر سمکہ ترجمہ و تشریح بیان کرنہ بروٹھہ یوزو تہہ یہ کتھہ کہ
 بروٹھہ وقتہ اوس دنیا س اندر خاص کر تھہ شہر بابلس اندر سحرک تہ جاؤیک سیٹھاہ زور و شور تہ چرچہ
 جادک تہ سحرک عجائبات و چھتھہ اوس جاہل لوکن اشتباہ تہ تردُد سپد مت کہ حضرت انبیائُن ہندین
 معجزاتن ہنز حقیقت تہ ما آسہ امی کسج چنانچہ بعضی ساحرن آس لوکھ مقدس نظرہ و چھتھہ واجب
 الاتباع زانان بے آس بعضی لوکھ سحرس رتکام زانتھہ سو پچھہ کسج کوشش کر تھہ تھہ پٹھہ عمل کرن
 یرٹھان۔ اللہ تعالیٰ ان یوڑھ یہ غلط خیال گڑھہ لوکن نغہہ دور سپدن۔ تم سو ز شہر بابلس اندر زہ ملک
 آگس اوس ناوہاروت میں اوس ناماروت کی کامہ خیطرہ کہ تم تارن لوکن فخرہ سحرچ حقیقت تا ایچہ تم
 روزن سحرس پٹھہ عمل کرنہ نغہہ پٹھہ بے گزن نہ ساحرن ہنز پیر وی تہ متابعت اللہ تعالیٰ پٹھو فرماوان

وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا

کہ یہ چھ یہود تمہے بے عقل کہ تمہو کہ نہ خدا یہ سزہ کتابہ ہنز متابعت بلکہ کر تمہو متابعت تمہہ سحر جیمیک چرچہ کران آس شیطان یعنی خبیث جن حضرت سلیمانہ سندس عمد حکومتس اندر یہہ آس بعضے بیوقوف حضرت سلیمانس پیٹھہ سحر زانہ نگ خیال کران اُس محض غلطی لغو اوس کیا زہ سحرک اعتقاد تھاوان یا تمہہ پیٹھہ عمل کرن چھو بالکل کفر حضرت سلیمان علیہ السلامن چھنہ زانہ نہ ٹھوڈ باللہ کفر ج کا نہہ کوماہ کر مژ لیکن شیطان یعنی خبیث جن آس بے شک کفر چہ تمہہ، کفر چہ کامہ یعنی سحر کران۔ پانہ سو کومہ کر تمہہ آس لوکن نہ سحر چھہ ناوان سوی سحر ووت از تام۔ کی سحر ج چھہ تم یہود پیروی کران وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَلُوتَ۔ بیہ چھہ تم یہود تمہہ سحر ج پیروی کران اُس سحر دون ملکن پیٹھہ نازل کرنہ آؤا کہ خاص حمیتہ موکہ یم شہر بابلس اندر روزان آس یمین دون ملکن ناوانس ہاروت وماروت وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ تم زہ ملک آس نہ سو سحر چھہ ناوان کانہہ اُس یوت تان نہ احتیاطا گوڈہ تس ونان آس سون وجود نہ چھو مخلوقن ہندہ خاطرہ آزمائش نہ امتحان خدایہ سندہ طرفہ تمہہ لوکن متعلق سانہ ذریعہ سحرس پیٹھہ مطلع سہدت ظاہر سہدہ کہ تمہہ چھو تمہہ اندر پھسٹھہ گمراہ سہدان۔ تمہہ چھو پن پان، بچاوان۔ لہذا تمہہ نہ سحرس پیٹھہ مطلع سہدت کہ کافر سہد کہ یعنی سحرس اندر پھسٹھہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ پس آس بعضی لوکہ پھکان تمن ملکن نشہ تمہہ قسمک سحر یمہ سیت تم دون باژن اندر جدائی کران آس وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یم ساجر آسنہ ہیکان کانہہ اُس سُنہ قسمہ ضرر و اتناو تمہہ امہ سحرہ سیت مگر خدایہ سندی حکم تقدیرہ سیت۔ یعنی سمسندہ حقہ تم کانہہ ضرر تکلیفہ

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ تَبَوَّأَتْهُ
 مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ
 آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا
 يَعْلَمُونَ ﴿۱۲۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ

یڑھمت آسہ ہا۔ وَيَعْلَمُونَ مَا يَصْنَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ بیہ آس پنچھان تم تمہ قسمک سحر ئس تمن
 گناہ آسنہ موکھ مفراوس۔ بیہ اوسنہ تہندہ خیطرہ کانہہ خاص نفع و اتناوہ ون چیزاہ۔ تم یہود چھہ تھہ
 سحرس متابعت کر تھہ سخت نقصانس تہ ضررس اندر گر قرار۔ یہ تھہ چھنہ آسی یوت دنان۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا
 لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ بلکہ یہ تحقیق تم یہود تہ چھہ یہ تھہ ضرور زمان کہ لیس
 شخص کتاب اللہس بدل بحر چھو اختیار کران تس شخصس چھونہ آخر تس اندر کانہہ حصہ باقی روزان
 وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بیہ کوتاہ پنچھہ چھو سو چیز یعنی سحر تہ کفر تھہ تمبو
 کن تہ فروخت کر ہن پان کاش تے زمان آسنن وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
 خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بیہ ہر گاہ تم لو کہ کفرہ تہ سحرہ بدل ایمان نہ ہن۔ پر ہیز گاری تہ تقویٰ
 اختیار کرہ ہن تھہ صورتس اندر اوس خدایہ سندا جرتہ ثواب تہ معاوضہ سیٹھا بہترامہ کفرہ تہ سحرہ نشہ
 کاش تے کینہہ زمان آسنن۔ بعضی یہود و کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزہ مجلسہ اندر
 محض شرارتہ کن لفظ راعنا دُن شروع۔ یہ لفظ چھو عربی تہ عبرانی تہ۔ عربی لفظ آتھہ چھو امیک معنی
 سون کر توحض رعایت۔ یعنی یہ مضمون ئس تہہ بیان آسوہ کران سو فرماو تو حض بیہ دوبارہ۔ اسہ حض
 تورنہ یہ وارہ فکرہ عبرانی لفظ آتھہ چھو امیک معنی پنچھہ تہ خراب۔ تم یہود آس تمی معنیہ تمن بروٹھہ
 کنہ یہ لفظ استعمال کران عبرانی پاتھہ چھو امہ لفظک معنی اے احمق۔ عرب دان صحابہ صیب آس نہ اتھہ
 یہودون ہندس شرارتس واقف سپد مت تم تہ آس یہ لفظ امیک رت معنی بوزت استعمال کران۔
 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمس کن خطاب کر تھہ یہ لفظ استعمال کران تمہہ سیت آس تمن

قُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴﴾
 مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
 أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
 بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۵﴾

شرارت کرہ نچ بیه ہن گنجائش تہ موقعہ حاصل سپدان اللہ تعالیٰ ان تھاد نہ تمن ان گنجائش تہ قسمہ
 باقی۔ تمو فرمو مسلمانن یہ لفظ استعمال کرنہ نعبہ ممانعت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا**
وَقُولُوا انظُرْنَا اے باایمانو تہہ مہ آسہ انظرنانا لفظ راعنا بلکہ آسہ و نانا یلہ توہہ امہ قسمک
 مطلب ظاہر کرنچ ضرورت پیوان آسہ انظرنانا امہ لفظک معنی تہ چھو سانس حاس کن کر توہن نظر۔
 اسہ نہ حض تور نہ پورہ پاٹھ فخرہ تہند کلام شریف **وَاسْمَعُوا** بوزوای باایمانو وارہ یہ حکم یاد تھادو کہ
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ یمن کافرن ہندہ خیطرہ چھو کڈر عذاب۔ پیغبر برحق نسبت امہ کسچ
 گستاخی گرن اکھ پانہ بیه کرہ ناون دو بھہ دتھہ بین لوکن اتھہ تہ امہ کسچ گستاخی نہنہہ چالاکی سیت۔ بعضی
 یہودی آس بعضے مسلمانن قسم ہاو تھہ ونان کہ اس چھہ تہند دلی خیرہ خواہ۔ بیه چھہ آس یرٹھان کہ
 توہہ گڑھہ دینی احکام خدایہ سندہ طرفہ سانہ خوتہ رت عنایت سپدن تم احکام آس تہ قبول کر ہو۔ مگر کیاہ
 بنہ تہند دینی احکام چھنہ سانیو دینی احکامو خوتہ زیادہ رت کینہہ تہ اللہ تعالیٰ چھو بیہندس اتھہ خیر خواہی
 ہندس دعویٰ آس تردید و تکذیب کران فرماوان چھو **مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا**
الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَّبِّكُمْ ہرگز چھو نہ پسند کران کافر لوکھ ادہ تم اہل کتابو
 اندرہ آستن یا مشرکو اندرہ آستن ہتھہ تھہ کہ تہندس پروردگار سندہ طرفہ کیاہ سپدہ توہہ پیٹھہ نازل
 کانہہ رٹکٹھہ۔ یعنی تم چھنہ ہیکان رتھے توہہ کانہہ خیر و آئن حسد و عداوتہ کن بل چھوہ تم زیوہ سیت
 ظاہر کران۔ دل چھکھہ تہندہ حسدہ سیت برتھہ۔ مگر تہندہ امہ حسدہ سیت بنہ نہ کینہہ **وَاللَّهُ يَخْتَصُّ**
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ کیاہ اللہ تعالیٰ چھو پنہ رحمت و عنایت سیت خاص کران کس یرٹھان چھو تس

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۶﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّالِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۷﴾ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ چھو بڑ فضل عطا کر ن وول۔ یہود و کربو و اعتراض قبلک حکم بدلنس پیٹھ۔ تھے پاٹھ کربو بعضے مشرکونہ اعتراض حکمن ہندس منسوخ سپنس پیٹھ۔ تھے اعتراض پیٹھ اللہ تعالیٰ رد فرماوان **مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا** اسے کئی آیہ کریمک حکم منسوخ کران چھہ۔ یا چھن سو آیہ کریم ذہنوشیہ مشروان یہ چھنہ اعتراض کرہ نچ کانہہ محل کیا زہ تھے بدل چھہ اس تمہ خوتہ رت یا تھے ہو بیا کہ حکماہ جاری کران۔ اتھہ منزرتہ چھہ آسان بجیہ حموتہ مصلحتہ۔ اے اعتراض کرہ ونہ شخصہ **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** کیا زہ چھوی نامعلوم کہ اللہ تعالیٰ چھو پر تھے چیزس پیٹھ قدرتہ وول۔ **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** بیہ چھوی نا زہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ اسی چھہ خاص سلطنت آسماننہ زمین ہنزتس چھہ کلی اختیارات سارنی کا مین ہندیلہ نہ تھہ قدرتہ و سلطنتس منز کانہہ اکھاہ شریک نہ حصہ دار چھو۔ لہذا تم مصلحتن ہند رعایت کر تھہ دو تم حکم جاری کرنس اندر کس اکھاہ بیجہ تھہ مزاحمت نہ گا نگل کتر تھہ تھہ چھونہ دو تم حکم جاری کرنس اندر کانہہ تھہ رٹ ون۔ نہ چھوس کو ڈنیک حکم برقرار تھا ونہ نشیہ کانہہ اکھاہ تھہ رٹ ون۔ یہ تھہ نہ بوز تھہ وارہ کہ **وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَدِيرٍ وَلَا نَصِيرٍ** بیہ چھونہ کانہہ اکھاہ اللہ تعالیٰ اس ورا ی تھہ نہ دوست نہ یار مددگار وون یلہ سوی تھہ یار چھو سو کربا کانہہ کو مہ مصلحتہ ورا ی۔ بیہ یلہ سو تھہ مددگار چھو تھہ یلہ تھہ دن حکمن پیٹھ عمل کرو۔ سور چھہ تو بہ مخالفن ہندہ مزاحمتہ شرہ نشیہ۔ حکم ثانی بہتر یا تھے ہیو آسن ہیکہ باعتبار ثواب نہ آتھہ۔ کئیہ ہیکہ باعتبار آسانی نہ آتھہ یعنی دو تم حکم آسہ گو ڈیہ حمہ خوتہ آسان۔ بیہ ہیکہ بتھہ کہ دو تم حکم آسہ گو ڈیہ کچی معانی ہند حکم۔ دو تم حکم

سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۰۸ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا مِّحْسَدًا مِّنْ عِنْدِ
أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا

جاری کرنس اندر چھہ سمہ تھہ ضروری کہ سو دو سم حکم جاری کرنس اندر چھہ ضرور کہہ نہتہ کانہہ
مصلحت بیہ چھو سو حکم قادر مطلق۔ بیہ چھو حاکم محکوم ہند خیر خواہ۔ ہر گہ کانہ اکھاہ محکو من ہنز
مزاحمت کرہ سو چھو تم محکو من مدد کران۔ بعضی چھو قانون بدلاونہ یوان۔ سمہ وجہہ کہ قانون
ہناون والس چھہ کتہہ کانہہ غلطی آسان تھہ منز گمہ۔ امہ قسح تبدیلی یا نسخ چھو احکام ایمین منز محال کیا زہ
اللہ تعالیٰ چھو غلطی کرہ نہ نش منزہ تہ پاک۔ بعضی چھہ حکم بدلاونہ یوان محکو من ہنز حالت بدل سپد نہ
خیطرہ تھہ پاٹھہ مریضہ سز حالت بدل نہ موکھ چھو نسخہ تہ علاج بدلاونہ یوان۔ تھہ ہیو نسخ چھو جائز تھہ
منز چھونہ کانہہ اشکال عقلی یا نقلی۔ بعضی یہود و کور عناد اعرض در خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کہ تھہ پاٹہ ہر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھہ توریت نازل سپد یکہ وٹہ۔ تھہ پاٹھہ ہر گوڑھہ قرآن
مجید تہ توہہ پیٹھہ نازل سپدن۔ اتھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوان **أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ**
كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ اے یہود و کیاہ تہہ چھوہ ہر شاہان پنہ نس موجودہ پیغمبرس تہہ قسمک
سوال کرن تہ در خواست کرن سمہ قسمک در خواست ٹھہندین ہالین تہ بدین ہندہ ذریعہ چھہ اکتہ بروٹھہ
حضرت موسیٰ اس کرنہ آمت۔ مثلاً امہ ہاویون حض اللہ تعالیٰ وارہ کارہ ن پاٹھہ۔ لمہ قسمک در خواست
سمہ منزہ صرف پیغمبرس پیٹھہ اعتراض کرن تہہ خدایہ سز **مصلحتن** ہنز مزاحمت کرن مقصود آہہ تہ پتہ
آسنہ ایمان آنہ نگ تہ پڑھہ کرہ نگ کانہہ ارادہ یمہ گنیہ صریح کفر چہ تھہ **وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ**
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ایں شخص ایمان انہ بدل کفر چہ تھہ کرہ پس پڑاٹھہ سو شخص ڈول سیزہ و تہ
نش امہ قسمک سوال تہ در خواست کرن اس سمہ موکھ لغو تہ بے کار کہ خدایہ سز سارنی کا مین اندر

وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۱۰

چھ مجھ حکمہ کا نہ بندس چھونہ حق چون و چرا کر نک۔ بعضے یہود آس شب و روز یہی کوشش کر ان کہ کنبہ پاتھ گڑھہ مسلمان اسلامہ نشہ پھیرن دوستی لاکھہ خیر خواہی ظاہر کرتھہ۔ پرنتھہ کتھہ قسمک تدبیر بعمل آتھہ آس باوجود ناکامی پرنتھہ وقتہ آتھہ خیالس آسان۔ اللہ تعالیٰ ان کر با ایمان خبر دار یہندہ امہ خیالہ سیت۔ فرمون وَاكثُرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لِيُؤْذُوْكُمْ وَمِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا اهل كتاب یعنی یہود و اندرہ چھہ اکثر لوکھ یشھان کہ توبہ پھرہ ہن تم ایمان اتھہ بیہ کھر س کن تہ ہند یشھن چھونہ تہزہ خیر خواہی پیٹھہ مئی یہ تم ظاہر کر ان آس بلکہ حسدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ محض تہندہ حسد کہ وجہہ نُس حسد تہندین دین منز پھٹ پھٹ نیر ان چھو۔ بیہ نہ سمہ وجہہ کہ یمن نش کیاہ چھو پوز کھٹھہ بلکہ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ تمن نشہ پرورہ ظاہر سپندہ پتہ۔ وون اوس ممکن یہ تہنز خباث بوز تھہ سپدن مسلمان تمن پیٹھہ غضبناک۔ اللہ تعالیٰ ان فرموؤکھ فَاحْفَظُوا وَاَصْفَحُوا اے مسلمانو تہہ کرو تمن معاف۔ تہہ کرو تھندس اتھہ شرارتس در گذر حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ یوت تان اللہ تعالیٰ یتھہ معاملس متعلق پن حکم نو قانون جاری فرماوہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ چھو بیشک پرنتھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ وول۔ یوتان جماؤک عالمس اندر امن و امان قاسم تھاو نک حکم تہ دشمنان اسلامن سیت قتل و قتلک حکم نافذ کرنہ بیہہ توتان روز و تہہ تہندین بین حکمن پیٹھہ مستقیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تہہ ہر و سردست نمازہ پابندی سان بیہ یمن پیٹھہ زکوٰۃ فرض چھہ تم دیوز کوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ بیہ یوسہ رزکوٰۃہ پنہ بہتری خیطرہ تہہ سوژو بروٹھہ کن سولبو تہہ ضرور پورہ پورہ اللہ تعالیٰ اس نشہ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کیاہہ اللہ تعالیٰ چھو تہزہ

أَوْ نَصْرِي تِلْكَ أَمَانِيهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ

سارے کامیہ و چھان نہ ڈر ژان۔ تمو کامیواندرہ گڑھہ نہ آکس ذرس برابرہ تہنہز کانہ کوماہ ضائع وَقَالُوا لَنْ نَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِنْ لَمْ نَكُنْ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ یہودیتہ نصاریٰ چھہ دنان جنٹس اندراژن نہ مگر تہے سمیہ یودی آسن یہ آس دنان یہودیہ سم نصاریٰ آسن یہ آس دنان نصاریٰ اللہ تعالیٰ چھو تہن دو شونی رڈ کران فرماوان ہجھک تِلْكَ أَمَانِيهِمْ سم چھہ تہمد خام خیالات دِکس تسلی دنہ چہ تھہ یمن ہنہز حقیقت نہ کیئہی چھہ سمہ ہجھہ تمن رایہ گڑھان قُلْ تہہ فرماو وحض یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے یہود و تہہ کروا تھہ پیٹھہ پن دلیل گر تہہ آتھہ دعویٰ اس اندر پوزونہ ون چھوہ۔ سو دلیل ہیکن نہ تم پیشی کر تھہ کیاہہ تمن نشہ چھنہ اچھہ کانہہ دلیل اتھہ بدل چھہ اس فرماوان کہ بلی کہ ضرور واتن جنٹس منز مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سو شخص نیس پن تھہ نومراوہ معبود برحقس یعنی فرمانبرداری کرہ عقائدن تہ عملن اندر بکمال اخلاص۔ دلہ کن آسہ فرمانبرداری مصلحتہ و رای تہ نینہ ظاہر داری و رای تھس شخصہ سندہ خیطرہ چھوامہ فرمانبرداری ہند عوض تہ مزور تہندس پروردگارس نشیہ حاصل سپدہ ون تہن لوکن آسہ نہ قیامتگ دوہ کانہہ خوفناک واقعہ پیش بیک خوفانہ آسین تم لوکھہ تہہ دہہ غمگین سپدہ ون کیاہہ ملائک آسن تمن بشار ژبوزہ ناوتھہ بے فکر تھاوان منسوخ سپد قس حکمس پیٹھہ عمل کرہ و نس و نینہ عنہ صورتس اندر فرمانبرداری۔ لہذا چھہ یہود نصاریٰ فرمانبرداری آسینس سزاوار بلکہ حکم ثانی یعنی دو حکمس حکمس پیٹھہ عمل کرہ و نی یں شمار کرنہ فرمانبرداری تہ مطیع۔ یہ شان چھو نہ مسلمان و رای بیہ کانہہ ہند کیاہہ تمو کور نبوت و شریعت محمدیہ قبول اتھہ کن نظر کمر تھہ سپد ثابت کہ تھہ چھہ جنٹس منز

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهِ

واتس سزاوار وهو محسن یعنی مخلص آواتھ شرط تھاوندہ یتھ امہ سیت منافق الگ سپن کیاہہ تم
 چھ کافر ناس سزاوار کہ پھرہ سمیای کینہہ یہود تہ نصاریٰ تموی ہیوت پانہ وان مذہبی بحث گرن۔
 یہودہ چھ پتہ اعتقادہ موجب نصاریٰ ان ہندس ونیس باطل زانان تم چھہ حضرت عیسیٰ علیہ السلامہ
 سندس رسالتس تہ انجیلہ کس کتاب اللہ آسٹس پڑھ کران۔ نصاریٰ تہ چھہ یہودیتس منسوخ زاتھہ
 باطل قرار دو ان تم تہ چھہ حضرت موسیٰ علیہ السلامہ سندس پیغمبر آسٹس انکار کران۔ یہہ چھہ تم
 توریتس کتاب اللہ مانان دوشوے فریق چھہ کمال تعصب کن اکھ آکس انکار کران ہی چھو اللہ تعالیٰ بیان
 فرماوان وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ يَهُود لگ
 ونہ نصاریٰ ان ہند مذہب چھونہ کئہ بنیادس پیٹھ قائم یعنی سوچھو بے بنیاد تہ غلط مذہباہ۔ تھہ پاٹھ چھہ
 ونان نصاریٰ کہ یہودن ہند مذہب چھو بے بنیاد تہ غلط مذہب وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم
 دوشوے فریق چھہ پن پن آسمانی کتاب پران یعنی یہود چھہ توریت پران نصاریٰ چھہ انجیل پران تہ
 وچھان دوشون کتابن اندر چھو دوشون پیغمبرون تہ دوشون کتابن ہند تصدیق موجود یوسہ دوشون
 مذہبن ہنز بنیاد چھہ اگرچہ قرآن مجید نازل سپنہ موکھہ چھہ تم روزہ مرثہ قابل عمل بلکہ چھہ تم
 دوشوے کتابہ منسوخ سپر مرثہ یہودو نصاریٰ آس یہ چھاؤن داسی کرانی تہ مشرکن تہ بت پرستن تہ آد
 جوش كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تھہ پاٹھ تم لو کہ تم محض بے علم چھہ یعنی مشرک
 تہ بت پرست لگ امی قسکہ تھہ ونہ۔ تودو پ یہودن نصاریٰ ان ہند مذہب چھو بے بنیاد آس چھہ
 پس پیٹھ۔ تم گرن اکھ آکس اہار كَاللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پس

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳۳﴾ وَبِاللَّهِ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ قَائِمًا تَوَكُّوْا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ

اللہ تعالیٰ کرہ پانہ قیامتہ دوہہ یمن سارنی معاملن تہ مُقد من منز فیصلہ تمن منز تم لوکھ پانہ وان
اختلاف آسن کران تحقیقسن اندر چھہ تم ترشوی فریق یض ظالم اے مخاطب ژہ ونتہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ مَتَّعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا وون کبہ اکھاہ چھہ یض ظالم تس
شخصہ سندھ خوتہ بس منع تہ بندش کمرہ خدایہ سزن مسجدن اندر ذکر و عبادت کرنہ نشہ۔ تہندنا وپہیہ
نہیہ۔ بیہ کرہ کوشش تمن مسجدن ہنزہ ویرانی اندر۔ بیہ کام چھہ کر مژہ تمو ترشوی فریقو۔ بہودو کر قبلک
حکم بدل سپندہ کس موقس پٹھہ لوکن اندر تمہہ قسمک شحہہ تہ شہمات پیش یسویت لوکھ انکار رسالت
کر تھہ ترک صلوة یعنی نماز تراوس پٹھہ آمادہ سپد ہن۔ نمازہ تراوند سیت سپد ہن مسجدہ غیر آباد کیاہہ
مسجدن ہنز آبادی چھہ نمازہ سیتی گویا بہودو کرے بیہ سٹھاہ کوشش مسجد نبولیس اندر گوژھنہ کانہہ تہ نماز
پر نہ اٹن نصاریٰ اواندرہ بعضے روک پادشاہ تمن پٹھہ یلہ بہودو چڑائی کر تھہ بیت المقدس پٹھہ حملہ
کور۔ بعضے جاہل نصرانین ہندہ اتھہ واژ سخت بے حرمتی مسجد اقصیٰ اس بد امنی ہندہ وجہہ آیہ نہ تھہ
منزہ نمازی ہندہ کبھس کالس۔ امہ اعتبارہ سپد نصاریٰ تہ مر تکب اتھہ بجز مس جناب سرور کائنات صلی
اللہ علیہ وسلم تمو یلہ فتح مکہ کرنہ بروٹھہ بارادہ عمرہ مکہ شریفسن کن تشریف انیو۔ مشرکین مکودت نہ
تمن مکہ شریفسن اندر اٹنگ عمرہ کرنگ اجازت۔ چنانچہ تمن پیو تمہہ ورہہ واپس تشریف ٹن۔ امہ
اعتبارہ سپد مشرک تہ مر تکب امہ بجز مکہ لہذا چھہ تم ترشوی فریق بد ظالم أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ
يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ یم لوکھ گئے تھے یمن نہ تمن مسجدن اندر لٹھہ لدن تہ پزہ ہاخوف وہیتہ وراکی
تڑھہ آسہ بیہ مسجدہ با عظمت و حرمت یعنی مسجدن بے حرمتی کرن لوکن نہ یمن مسجدن اندر اٹنہ
دیون یاد خداتہ عبادت کرنہ خیطرہ اتھہ برابر چھونہ کانہہ ظلم لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی لوکن ہندہ خیطرہ چھو دنیاس اندر بڈ رسوائی بیہ چھو یعنی ہندہ خیطرہ دگ تہ دود
تلہ و ن عذاب یڑھہ یڑھہ بچھہ کامہ کر تھہ چھو تمن خیال پزس پٹھہ آسنک بیہ جنس و اتنک دعویٰ۔

عَلِيمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قٰنِطُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط
اِذَا قَضٰى اٰمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ

یہود و کریوہ تحویل قبلہ سپد نس پیٹھ اعتراض کہ مسلمان کیا زہ پھیر اکہ جہتہ نشہ میں جہتس کن اللہ تعالیٰ ان فرمودن جو اب وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ معبود بر حقہ سندی چھ ساری طرف تہ جہت مشرق تہ مغرب تہ پریتھہ طرفاہ چھو ہندی مملوک تہ مخلوق نہ طرفس چھو نہ تہند مکان سو چھو مکان آسنہ نشہ منزہ تہ پاک۔ سو یلہ پریتھہ طرفک مالک چھو۔ لہذا تھہ طرفس سو قبلہ یثہہ تھہ طرفس کرہ مقرر۔ کیا زہ قبلہ مقرر کر نس اندر چھہ بیجے حکمت کہ عبادت کرہ و نین بدن، نماز گذارن سپدہ امہ سیت اتفاق تہ اجتماع خاطر حاصل۔ یعنی دل روز کیہ ڈجہ۔ یلہ یہ حقیقت چھہ قٰیئَمَا تُوَلُّوْا فَاِنَّ وُجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاَسْمَعُ عَلَیْہُمْ پس تھہ طرف کن تہہ پھیروتھہ طرفس کن چھو معبود بر حقہ سندہ ذات پاک رُخ۔ پزپاٹھ اللہ تعالیٰ چھو سارنی طرفن احاطہ کرہ ون۔ لیکن باوجود آل کور تم جہت عبادت یعنی عبادتک طرف معین کیا زہ سو چھو سٹھاہ زانن وول تس چھو معلوم تھہ چیزس اندر کیاہ کیاہ مصلحت چھہ چونکہ تہندس علس اندر آس قبلہ معین کر نس اندر مصلحت۔ لہذا گورن قبلہ معین۔ بعض یہود چھہ حضرت عزیر علیہ السلا مس خدایہ سُنْدِچُو و نان۔ بیہ آس نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلا مس خدایہ سُنْدِچُو و نان۔ مشرک آس ملائکن خدایہ سزہ کورہ و نان۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ سمن بہنزن سارنی لغو تھن رد کران تہ فرماوان چھو وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بیہ چھہ و نان ہم یہود تہ نصاریٰ تہ مشرک خدائس چھہ اولاد گبر تہ کورہ۔ کیواہ لغو تہ مہمل چھہ بیہ تھہ۔ سو چھو سَمُو کتھو نشہ منزہ تہ پاک بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بلکہ چھو تس معبود بر حقہ سندوی تہ ساروی بیہ آسمانن تہ زمین اندر چھو۔ موجود اتواندرہ كُلٌّ لَّهُ قٰنِطُوْنَ تم ساری چھہ خدایہ سندہ مملوک آسحہ علاوہ تسند محکوم تہ فرمانبردار۔ بحیا زہ تہندن تصرفات قدر تن نشہ چھنہ کانہ اکھاہ تمو اندرہ کلہ ہکان پھرت تم گئے مازن۔ پیدہ کرن۔ بیمارپاون۔ بلراون بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سو چھو آسمانن تہ زمین ہند موجد تہ گوڈہ پیدہ کرہ ون تہمسز قدرت چھہ تھہہ عجیب کہ وَاِذَا قَضٰى

لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ
 قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ
 قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۸﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

أَمْرًا قَاتِلًا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يلبہ سو کانہہ کوماہ کرن یرٹھان پھو۔ مثلاً کانہہ چیزاہ پیدہ کرن یرٹھان پھو سو چھونہ کینہہ تہہ کرن۔ فقط پھو تھہ چیز س کن حکم کران کہ سپد۔ اتی چھو سپدان، بنان از عدم بوجود یوان تس چھو نہ سو چیز پیدہ کرنہ خیطرہ آلاتن تہ اوزاران تہ سامانن ہنز ضرورت یوان وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ بیہ چھہ بعض جاہل تہ نادان ہبود تہ نصاریٰ بیہ مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابل یہ تھہ ونان کہ اللہ تعالیٰ کونہ پھو پائے اسہ سیت تھہ کران ملائکن ہندہ وساطتہ وراہی تھہ پاٹھ سو ملائکن سیت تھہ کران پھو۔ یا ملائکن ہندہ واسطہ۔ یا تھہ پاٹھ ملائیک پیغمبرن سیت بطور وحی اللہ تعالیٰ کلام پھو کران۔ تھہ کلامس منز کونہ پھو اسہ ہنن احکام بیان فرماوان۔ تاکہ اسہ روزہ ہانہ نہیں کانہہ پیغمبرہ سنز ضرورتھی۔ یا کونہ پھو اسہ کم از کم یہیے تھہ پانہ فرماوان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھو بیشک سون پیغمبر۔ تاہیکہ اس کرہ ہوتمن پڑھ کر تھہ ہنز اطاعت و فرمانبرداری۔ یا ہر گاہ کلام فرماونہ توتہ کونہ پھو کانہہ دلیلاہ اسہ کن سوزان تہندس پیغمبر آسنس پیٹھ۔ اللہ تعالیٰ پھو بہنزن تھن رد کران گوڈنی پھو فرماوان کہ سمہ تھہ بہنزہ چھہ جاہلانہ تھہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ یڑھے تھہ آس ونان تم جاہل لوکھ تم سمکن بروٹھ گذر سمیت چھہ۔ تم تہ آس بہنترے ہشہ جاہلانہ تھہ ونان۔ معلوم سپد کہ سمہ تھہ چھنہ کنہی تہ وقعت تھوادان بلکہ چھہ سم محض بروٹھنن جاہلن ہنز پیروی کران امیک وجہ پھو کہ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ سمکن پھنن بروٹھنن جاہلن ہند دل چھہ کج فنی اندر۔ اکھ اکس ہو۔ تمی موکھ چھہ بہند یودلو اندرہ اکی قسمیہ تھہ نیران۔ چوبیہ امہ قسمہ جاہلانہ تھہ چھہ بالکل باطل لہذا آونہ سمکن جاہلانہ تھن ہندہ جو ابک کانہہ خیال کرنہ۔ پس روزیہ تھہ کہ اسہ نشہ کونہ چھہ واتان کانہہ تڑھہ دلیلاہ سمہ سیت ثابت سپدہ ہارسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھہ متعلق پھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اکہ دلیلہ ہنز کیاہ چھہ کنہی اسہ کرہ واریاہ دلیلہ بیان وضاحتہ سان سمہ نافع تہ کافی چھہ تمکن لوکن ہندہ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۹﴾
 وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
 قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
 الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۲۰﴾

خطرہ یم یقین تہ اطمینان حاصل کرن یرشان چھہ۔ پتھہ رُوِدِ اعترض کرہ ون لوکھ تمن ہند مقصد
 ہٹھو خواہ مخواہ ضد کرن۔ تمن تسلی سپد نگ ہیچہ نہ کانہہ ذمہ دار سپد تھہ۔ یتس اوس ممکن کہ یہود و
 نصاریٰ ان ہندہ امہہ جمالہ و عنادہ سیت ماسپدہ ہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند دل مبارک
 آزدہ۔ بیہ سپد ہن تم غمگین۔ تم دپہ ہن تہندہ اسلام نہ سچ کوسہ صورتھہ ہیچہ پادہ سپد تھہ۔ اللہ تعالیٰ
 ان کور۔ بیان امہہ پتہ آیہ کر تمس منز تمن تسلی اِنَّا اَدْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
 وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ای پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیشک اسہ حض سوزوہ تہہ
 پوزدین پتھہ لکن گن۔ پڑھہ کرہ و نین ہندہ خیطرہ خوشخبری بوزہ ناوہ ون بیہ نہ مانہ و نین ہندہ خیطرہ سزاو
 عذابک یم کرہ ون۔ توہہ نہز بیہ نہ باز پرس کر نہ تمن لوکن ہند تم نار جہنم اندرو اتہ ون آسن کہ
 تمو کونہ کور دین اسلام قبول۔ تم کیا زہ وات نار جہنم۔ تہہ روز و نین کوم کر ان۔ کانہہ ہندہ مانہ نگ
 یانہ مانہ نگ مہ ہو غم نہ مہ کھیو فکر وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ بیہ
 ہیکن نہ ہرگز یہود تہ نصاریٰ زانہہ تہ خوش گوہ تھہ توہہ نیشہ یوت تام نہ تہہ تہندہ مذبح پورہ پیروی کرو۔
 بیہ تھہ چھہ حال۔ لہذا چھو تہندہ توہہ نیشہ راضی سپدن تہ محال۔ لہذا ہر گہ گنتہ وقتہ تہندہ زبان امہہ قسمہ
 کانہہ کتھہ بوزو یا کانہہ اشارہ ہو قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ تہندہ گڑھہ تمن صاف فرماون کہ سمہ
 کتھہ تراوو۔ حقیقتس اندر چھو ہدایت سنی تھہ اللہ تعالیٰ ان ہدایت فرمووو۔ سو ہدایت گو اسلام۔ تی چھو
 ثابت بچو لیلو سیت وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
 تہندہ تہندہ مذہبک پیروئن چھو محال تہ ناممکن سمہ موکھہ کہ امہہ سیت چھو لازم یوان اکھہ حال تہ ناممکن

الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ
 بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۲۱﴾ يٰبَنِي إِسْرٰءِيلَ
 اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اٰنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿۱۲۲﴾
 وَاَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

کتابہ کیازہ ہر گاہ تہہ پیروی کرنہ لگو تہندس غلط ملط مذہبس بس محض تہندین خواہشاتن ہند اکھہ مجموعاہ
 چھو۔ تی کردہ جہہ (نعوذ باللہ) توہہ نشہ علم قطعى واتتہ پتہ۔ اتھہ صورتس اندر ہیجہ نہ توہہ پچاوتھ اللہ
 تعالیٰ اس نش کانہہ دوستانہ کانہہ مددگارہ بلکہ پیہہ لازم کہ تہہ سپد و خلیہ سندس پنجہ قہرس اندر گرفتار
 تہ ماخوذ۔ چوہجہ یہ چھو محال کیازہ دلائل قطعویہ سیت چھو ثابت کہ اللہ تعالیٰ چھو توہہ نشہ ہمیشہ راضی۔
 پس تہند غضبناک سپدن توہہ پیٹھہ لہہ چھو محال۔ لہذا پیروی کرن تہندس باطل مذہبس تہہ چھو محال۔
 لہذا تمہن یہود و نصارے ان ہند توہہ نشہ خوش سپدن تہہ محال لہذا چھہ تہندہ اسلام انہ نچ صورتھی
 کانہہ۔ لہذا کریون دل مبارک پن امہ فخرہ نشہ خالی۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تمہن اہل کتابن ہند
 تذکرہ سمو قرآن مجیدس پڑھ کر۔ الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ یمن یہود و نصاریٰ ان
 اسہ عطا کر تہب یعنی تورايت و انجیل تھے آسن تھتہ کتابہ تھتہ پاٹھہ پران تھتہ پاٹھہ ہر ان شوہہ یعنی تمک
 مضامین وارہ فخرہ تاران۔ پر نس پیروی کرہ نگ پورہ ارادہ کران اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ تھتھی لو کہ چھہ
 پیشک تھتہ دین حقس ایمان اتان تہ پڑھہ کران۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ سم لو کہ اتھہ
 دین حقس انکار کرن تمہن چھو تمیک نقصان تہ تاوان پنہ نس پانس۔ تم سپدن ایمانہ کیو فائدوتہ منافعو
 نشہ خردم۔ يٰبَنِي إِسْرٰءِيلَ اے حضرت یعقوبہ سند یونہو یو اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اٰنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ
 ژتس پاود میانہ تمہہ نعمشہ سمہ میہ توہہ عطا کر موہ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ بیہ دتموہ فضیلت توہہ
 وار سمہن لوکن پیٹھہ وار سمہن کھن اندر۔ دوبارہ آویان کرنہ وارہ تاکیدہ خیطرہ وَاَتَّقُوا يَوْمًا کھو ژوتہ چو
 تمہہ دوہہ کہ عذابہ نشہ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا سمہہ دوہہ نہ کانہہ کھایت ہیجہ کر تھہ کانہہ اکھہ

عَدَا وَلَا تَنْفَعَهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَإِذِ ابْتَلَىٰ
 إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
 ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۴﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا
 الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا
 إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ

کانسہ اکس منہ چیز ک۔ کانہ اکھاہیہ نہ کانسہ اکس بکار وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَاٌ وَلَا تَنْفَعَهَا شَفَاعَةٌ
 نہ دیر کانہ فاندہ نہ نفع کانسہ اکس کانسہ اکس شفاعت نہ سفارش۔ تمن صاحبن درای تمن اللہ تعالیٰ
 شفاعت کرہ نگ اجازت دیر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ بیہ تمن یاری نہ مدد کر نہ کانہ نہ بجاوہ نہ تمن پنہ
 نیوزورویت۔ وَلَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ۖ ثلث پاوویلہ آزمایش کر حضرت ابراہیمس پن پروردگارن
 بِكَلِمَاتٍ پنہ نیواحکامواندرہ کنیو و حکومت کاتتہنن پس ان بجاتم تم حکم وارہ پاٹھ۔ قَالَ إِنِّي
 جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ تعالیٰ ان فرموس تمہ ساتہ راضی گوتہتھہ بہ کر تھہ ژہ اتھہ بدل نبوت نہ
 بیخبر عطا کر تھہ لوکن ہندامام نہ پیشوا قَالَ حضرت ابراہیمن دوپ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي پروردگار امیانہ
 ذریئہ منزہ نہ کرتہ کانسہ یہ مہربانی عطا۔ قَالَ اللہ تعالیٰ ان فرموس لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
 شامل سپدہ نہ میاہ طرفہ یہ عمدہ نبوت چاند ذریئہ منزہ ظالمین۔ یعنی ہم مشرک آسن تمواندرہ تمن
 بیخبر نہ یہ مہربانی حاصل سپد تھہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا سووقت نہ چھٹنا قابل ذکر سمہ
 وقتہ اسمہ خانہ کعبہ کورلوکن ہندہ کنج، جمع سپدنجیہ انج جائے وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
 کوراسہ حکم بالیمان۔ اے با ایمانو مقام ابراہیم بناویون عنہ عنہ وقتہ نماز پر نچ جائے کنج
 برکت حاصل کر نہ خیرہ۔ مقام ابراہیم گنیہ سوکن ہتھہ پیٹھ وودنہ روز تھہ حضرت
 ابراہیم خانہ گعبک دیوار آس بنا کران۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بیہ کوراسہ حکم حضرت
 ابراہیمس نہ حضرت اسمعیلس أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ سیٹھاہ پاک تھادیون یہ میون گھرہ لِلطَّائِفِينَ

السُّجُودِ ۱۲۵) وَادُّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ
 أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ
 كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۱۲۶)
 وَادْرِفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۱۲۷) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

وَالْعَافِينَ وَالْوَكِيمِ السُّجُودِ طواف کر وہ نین ہندہ خیرہ۔ بیہ اعتکاف کر وہ نین ہندہ خیرہ۔ یا اتھ
 شہرس منزسہ و نین ہندہ خیرہ یا تمبر میں لوکن ہندہ خیرہ۔ بیہ نمازہ پرہ و نین ہندہ خیرہ۔ وَادُّ قَالَ
 إِبْرَاهِيمُ بیہ پاوڈرٹس سیمہ وقتہ حضرت ابراہیم دعا کور رَبِّ اجْعَلْ هَذَا دوہن اے میانہ پروردگار
 کُرَن یہ علاقہ بیہ منزاسہ بَلَدًا آمِنًا شہراہ امن و وہ و ن یا محفوظ پر بیہ کچو آفتوہ بلا یونشہ وَارْزُقْ
 أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ بیہ کر عطا لہ کین لوکن میوہ تہ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لہ کیو لو کو آندرہ
 تمنی سکو ایمان اُون معبود بر حقس بیہ پختس دوہس یعنی قیامنس قَالَ اللہ تعالیٰ فرمو و مَنْ كَفَرَ
 کافر تہ کرہ بہ عطارزق میوہ جا تو سیت کیاہ زہ رزقک معاملہ چھو عام کافر تہ مسلمان فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
 ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وون نُس کافر ی روزہ پس تمتع تلہ نا و ن سو کم کہینہ کاس۔ توپتہ و اتان سو
 مجبور سپد تھ نارہ کس عذابس منز یعنی ناچار و اتہ سو تھ منز۔ کیاہہ بیہ آسہ نہ تس سزوار کا نہہ جایاہ۔
 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کا زاہ پچھہ جای چھہ سونا رہنم۔ بیہہ منز تم و اتن وَادْرِفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
 بیہ پاوڈرٹس بلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ لہ تہ دیوار کھاران آس وَإِسْمَاعِيلُ سیت آسبھہ حضرت
 اسمعیل فرزند بن تعمیر چہ کامہ منز یا آسبھہ تم کتہ تہ رب پلہ ناوان تہ تم آس پانہ تمو کیو سیت دیوار
 بلند کران۔ یہ کوم کران کران آس منگان یا بلہ امہ تعمیر چہ کامہ نیشہ دو شوہے صاحب فارغ سپد اتی
 لگبہ دعا کر نہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے سانہ پروردگار بیہ کر قبول تہ یہ خدمت
 سان۔ پر پانھہ ثی چھکھہ بوزہ و ن سون دُعَا ثی پچھہ پورہ خبر سانس نین مقاصدن تہ ارادن ہنز رَبَّنَا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَإِرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
 مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
 يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۹﴾ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ
 إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ اے سانسہ پروردگار بیہ کراسہ دوشون بین زیادہ زیادہ تابعدارتہ فرمانبردار
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ بیہ گرن سانیو اولادو اندرہ تہ اکھ جماعتھاہ پنہ نین فرمانبرارن ہنز
 وَإِرْنَا مَنَاسِكَنَا بیہ ہاواسہ تم ساری چیز تموسیت اسہ چان عبادت چھہ گرن۔ احکام حج وغیرہ وَتُبْ
 عَلَيْنَا بیہ کراسہ گن توجہ۔ توجہ سون کر قبول إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پڑھاہہ ژہ چھو کھ فی الحقیقت
 اسہ گن توجہ کرہ ون سیٹھاہ توجہ قبول کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ اے سانسہ
 پروردگار بیہ سوز تم ن ساین اولاد ن گن یلہ تھند تعداد بڈہ تہ بکثرت سپدہ۔ رَسُولًا مِنْهُمْ پیغراہ
 عظیم الشان تموی اندرہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ لیس پران اسہ تم ن پیٹھ لیس بوزہ نادان اسہ تم ن چان
 آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بیہ آسکھ، پچھناوان سو کتاب یوسہ تم ن پیٹھ نازل بیہ کر نہ وَالْحِكْمَةَ بیہ
 آسکھ پچھہ نادان تمہہ کتابہ ہند مقاصد وَيُزَكِّيهِمْ بیہ اسہ تھند نفوس پاک کران لَأَنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ پڑھاہہ ژہ چھو کھ طاقتہ دول، چانی قدرت چھہ غالب۔ ژہ چھو کھ حکمتہ دول۔ وَمَنْ
 يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ بیہ گس کرہ روگردانی حضرت ابراہیمہ سندہ ملتہ لغیرہ
 مگر کرہ سنی لیس ذاتی نادان تہ احمق اسہ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا پڑھاہہ ژور اسہ سو حضرت
 ابراہیم دنیا ہس اندر عمدہ رسالتہ خیرہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ بیہ چھو سو پڑھاہہ آخر

قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾ وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنِيهِ وَ
 يَعْقُوبَ بَيْنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
 وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
 الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ
 إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

تس اندر نیکو کاری قابل شخصاً آندره بهنده خیطره سوزی کہنه چھو۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت
 لرب العالمين يله فرمود تس بين پروردگارن اسلام ان، فرمانبرداري مطيعيد، عرض کورن اسلام
 اولن مه فرمانبرداري ته اطاعت کرمه اختيار عالمن هندس پروردگارہ سنز۔ ووضي بها ابراهيم بينيه
 اى آتھ ہنز وصيت کمر حضرت ابراہيمن پنہ نين فرزندن و يعقوب بيه اچي وصيت حضرت يعقوبن
 پنہ نين فرزندن، فرمودتھ يبنين ان الله اصطفى لكم الدين اى ميانيو فرزندو پز پائھہ اللہ تعالیٰ ان
 کور برگزیدہ تہندہ خیطره بيه دين اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون بس تھنہ منر و تھہ سمہ
 دين وراي تھہ دينس پيٹھہ۔ مرنس تان روز زيوہ تھہ آتھہ دينس پيٹھہ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ
 يَعْقُوبَ الْمَوْتَ كياہ تھہ آسوہ موجود سمہ وقتہ ووت حضرت يعقوبس مرنگ تہ يمه عالمہ گوہنک
 وقت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يمه ساتہ تم ہر تھہ پنہ نين پنچوين تھہ کمسنز عبادت کرميه
 پتہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق تمودوپ عبادت کرو اس چانس خدایہ
 سنز يہ چانين بزرگ مالين هندس خدایہ سنز۔ تم گے حضرت ابراہيم۔ حضرت اسماعيل، حضرت
 اسحاق۔ الہا و اجدل بس خدائني چھو لا شريك و نحن له مسلمون اس ساری چھہ تس گردن دارہ
 دن یعنی تہندی مطيع تہ فرمانبردار تيلك امة قد خلت يہ آس جماعتھہ (يعني حضرت ابراہيم تہ

وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۷﴾
 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۸﴾ قُولُوا الْمَثَابَةُ لَإِنَّ
 إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ
 الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
 رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۹﴾ فَإِنْ

تہند فرزند حضرت یعقوب سے تہند فرزند) بیشک یوسہ گذرے یہ۔ لَهَا مَا كَسَبْتُمْ تہندہ نفعہ خاطرہ
 چھوٹے یہ تم کو یعنی تمہیں بکارتے یہ تم کو اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تہندہ خیرہ چھوٹے یہ تمہے کرم یعنی
 توہم یہ بکارتے یہ تمہے کرم وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ توہم یہ نہ پڑھتے تہ، تہنہزہ عملہ مند بکارتے
 چھٹے کھی۔ معلوم سپہ بزرگن سے محبوبان الہین کن خالی نسبت گرن تہنز متابعت کرنے وای اتھہ چھوٹہ
 کانہہ فائدہ سے نفع وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ونان چھہ یہود اہل اسلام۔ تہہ بنو یہود۔
 نصاری چھہ ونان تہہ بنو نصاری تھی سیت لبو تہہ سنز و تھہ۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا تہہ فر مو
 یو کہ ہر گز بنو نہ اس یہود سے نصاری بلکہ کمر اسہ اختیار حضرت ابراہیم علیہ السلامہ سنز و تھہ یوسہ
 سنز و تھہ چھہ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اوس نہ حضرت ابراہیم ہر گز مشرک اوندہ قُولُوا الْمَثَابَةُ لَإِنَّ
 اے مسلمانو ونو تہہ تفصیلاً یہ ایمان اون اسہ کنس خدا اس وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ یہ اوائین تھہ کتابہ یوسہ لہ کن یہ سوزنہ تھہ کتابہ یوسہ حضرت ابراہیم علیہ
 السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تہندین اولاد کن یہ سوزنہ
 وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ یہ یوسہ کتاب عطا کرنے آہ حضرت موسی اس حضرت عیسی اس وَمَا
 أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ یہ یہ کتابہ عطا کرنے آہ بین پیغمبرن پنہ نس پروردگار سندہ طرفہ۔
 لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اس چھہ بنو اوندہ کانہہ اس منز فرق کران وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اس

اٰمَنُوۡا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنۡتُمْ بِهٖ فَقَدِ اٰهْتَدَوۡا ۗ وَاِنْ تَوَلَّوۡا فَاِنۡمَا
 هُمۡ فِیۡ شِقَاقٍ ؕ فَسَيَكۡفِيكُمُ اللّٰهُ ۗ وَهُوَ السَّمِیۡعُ الْعَلِیۡمُ ﴿۱۷۲﴾
 صِبۡغَةَ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِمَّنۡ اللّٰهُ صِبۡغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهٗ
 عِبۡدُوۡنَ ﴿۱۷۳﴾ قُلۡ اَتَحَابُّوۡنَا فِی اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡ ۗ وَاِنَّا
 اَعۡمَالُنَا وَلكُمۡ اَعۡمَالُكُمۡ وَنَحْنُ لَهٗ مُخۡلَصُوۡنَ ﴿۱۷۴﴾ اَمْ تَقُوۡلُوۡنَ
 اِنَّ اِبۡرٰهٖمَ وَاِسۡمٰعِیۡلَ وَاِسۡحٰقَ وَیَعۡقُوۡبَ وَاَلۡاَسۡبَاطَ کَانُوۡا

چھ تہندی فرمانبردار فَاِن اٰمَنُوۡا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنۡتُمْ بِهٖ پس ہر گاہ تمو یہودوۡتہ نصاریٰ او پڑھ کر پڑھ پاٹھ
 توہم پڑھ کر وہ فَقَدِ اٰهْتَدَوۡا پس تھتق وتھ لبب تمو وَاِن تَوَلَّوۡا فَاِنۡمَا ہُمۡ فِیۡ شِقَاقٍ ہر گاہ تم
 اعراضی کرن توہم سیت ، یمن کھن اندر موافقت کرن نہ۔ پس چھنہ تم مگر چھہ نئس مخالفس پیٹھ۔
 مگر تہہ مہ بزد تہندہ مخالفک کا نہہ پروا۔ فَسَيَكۡفِيكُمُ اللّٰهُ تہہ چھو بس اللہ تعالیٰ سو کرہ پانے
 عنقریب توہم نغمہ تہند شردور وَهُوَ السَّمِیۡعُ الْعَلِیۡمُ سنی چھو سوری بوزہ دن سورے زانہ دن تہنزہ
 کتھ۔ تہ تہنزہ کتھ چھو بوزان۔ تہند حال چھو پوزانان۔ سو انزراوہ نیالے پائے۔ تہہ مہ بزد کا نہہ فخر۔
 اے مسلمانو تہہ دپو اس روز دینہ کس تھہ حالتس پیٹھ مضبوط پس حالتس پیٹھ اس اللہ تعالیٰ اَن رِغْمَتِ
 چھہ صِبۡغَةَ اللّٰهِ اس چھہ رخنہ آمت خدایہ سہہ رنگ سیت بس نہ زانہ ڈلہ تہ تغیر سپہ۔ وَمَنْ
 اَحْسَنُ مِمَّنۡ اللّٰهُ صِبۡغَةً خدایہ سہہ خوتہ کس بیکہ رت رنگ دتھ۔ وَنَحْنُ لَهٗ عِبۡدُوۡنَ اس چھہ
 تہنزی یا تہندگی کران قُلۡ اَتَحَابُّوۡنَا فِی اللّٰهِ فرما دپو کھ تہہ یار رسول اللہ اے یہودوۡتہ نصاریٰ او تہہ
 چھوہ اسہ سیت خدایہ سندس معاملس اندر ہر کران وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡ حالانچہ سو چھو سون پروردگار تہہ
 تہند پروردگار تہہ وَاِنَّا اَعۡمَالُنَا وَلكُمۡ اَعۡمَالُكُمۡ اسہ بن بکار پینہ عملہ۔ توہم بن بکار پینہ عملہ۔ ہری کتھ
 پیٹھ چھہ لاکن وَنَحْنُ لَهٗ مُخۡلَصُوۡنَ اس چھہ تہندی رضا خیطرہ سارے عملہ کران۔ اسہ منز چھو
 اخلاص اعتقاد تہ اخلاص عمل تہ۔ اَمْ تَقُوۡلُوۡنَ اِنَّ اِبۡرٰهٖمَ وَاِسۡمٰعِیۡلَ وَاِسۡحٰقَ وَیَعۡقُوۡبَ وَاَلۡاَسۡبَاطَ

هُودًا أَوْ نَصْرًا قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۶﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ
 مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۷﴾
 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ
 الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

کَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا کیا ہے چھوہ و نان کہ حضرت ابراہیمؑ سے حضرت اسمعیلؑ۔ حضرت اسحاقؑ سے
 حضرت یعقوبؑ سے تہمید اولاد تم کیا آس یہودیانصری قُلْ فرماؤ کہ تہمہ یارسول اللہ مختصر پانچ
 ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ اکی یہودو ن نصری اوتوہم چھوہ خبر زیادہ کنہ اللہ تعالیٰ اس۔ یہ چھہ ظاہر تہہ کہ
 زیادہ خبر چھہ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ان فرمودہ کہ تم حضرات انبیاء آس ملت اسلامس پیٹھہ توہہ
 تہ چھوہ اچ خبر مگر تہہ چھوہ سو خبر کھان وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ یہ کس
 اکھاہ چھوہ یژ ظالم تس شخصہ سندہ کھوتہ یم کھٹ سو حقیقت حال یوسہ تس خدایہ سندہ طرفہ معلوم سہز
 مژ آس وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ توپتہ چھوہ نہ اللہ تعالیٰ تہمہ یو کر تُو تُو نشہ بے خبر تِلْكَ
 أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ آس بزرگن ہنزا کہ جماعتھاہ یوسہ گذرے یہ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ
 تمہن یہ بکارتہ یہ تمہو کور توہہ یہ بکارتہ یہ توہہ کورہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ توہہ
 یہ نہ پڑھنہ تہ تمیک یہ تم کران آس۔ سمہ آہ کریمہ سیت سپد معلوم کہ تم لو کہ بن بیان منسوب
 کرن کنہ تھدس خاندانس کُن مگر اعمال و افعال آسکھ نہ تھہ خاندانس موافق تہ مناسب تمہن دیہ نہ
 کانہہ فائدہ سو ظاہری نسبت۔ کنعانس دیت نہ کانہی فائدہ پیغمبر زادہ آسنن۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ
 مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا وون و ن ضرور بے وقوف لکھ کم چیزن پھر تم
 مُسْلِمَانِ تَمَّ قِبَلَهُ نَشْرٌ مِّنْكُمْ تَمَّ وَكُفَّامِ آس نماز پران یعنی بیت المقدس۔ قُلْ لِلّٰهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۲﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي
 كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ
 ۖ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ
 لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ ﴿۱۳۳﴾ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ
 وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

فرماؤ گھڑہے یارسول اللہ خدایہ سنووی چھو مشرق تہ مغرب تہ پریتھہ طرفاہ سووی چھو سارنی طرفن ہند
 مالک۔ کانسہ آگس چھونہ حق واتان چون وچرا کرنگ۔ یوہے اعتقاد آسن شریعتین حکمن متعلق گوراہ
 راست یہدی من یشاءہ الی صراط مستقیم سو چھو تھہ ہاوان لیس یڑھان چھو تہ تس اتھہ سیزہ وتہ
 گن۔ یعنی سو چھونہ ونان احکام اسلامن اندر، ہو کیا زہ تہ یہ کونہ وکذالک۔ یتھہ پاٹھہ قبلہ شہد کوراسہ
 بہتر قبلہ یتھہ پاٹھہ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کرہ اسہ تہہ جماعتہاہ در میانہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ یتھہ
 بیو تہہ گواہ حضرات انبیاء ان ہندہ خیطرہ تہندین اُمتن یتھہ ویکون الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بیہ سپدن
 پیغمبر برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہند گواہ صفائی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا بیہ کورنہ
 اسہ مقرر سو طرف قبلہ۔ یتھہ گن تہہ وکلتام نماز پران آسہہ یعنی بیت المقدس إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
 الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ مگر یہے تھہ نراونہ خیطرہ کہ گس اکھاہ کرہ متابعت تہ پیروی پیغمبر کریمہ
 سنز۔ بیہ گس پھیر تھہ متابعت نشہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً پڑ پاٹھہ یہ قبلہ بدلاون گذریو سیٹھاہ دشوار
 ضیعف الايمان لکن یتھہ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر تمہن لوکن نہ یمن ہدایت کور، وتھہ ہاواللہ تعالیٰ
 ان۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللہ تعالیٰ چھونہ یتھہ سو کیاہ کرہ تہند ایمان یعنی نماز ضائع۔ یوسہ
 تہہہ بیت المقدس گن تھہ کبر تھہ پرہہ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ لَرَوْوَتْ رَحِيمٌ پڑ پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو تھہ
 لوکن ہندہ خیطرہ سیٹھاہ شفیق تہ مہربان۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ پڑ پاٹھہ اس چھہ وچھان تہند

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِئِن آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلِئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ

پھر پھر وچھن آسانس کن تحویل قبلک حکم کر سنا سپدہ نازل فَلتَوَلَّيْتَك قِبْلَةً تَرْضَعَهَا پس پھر وہ آسہ
 نہ تھے قبلس کن ئیس توہمہ پسند چھو قَوْلٍ وَحَمَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وئن چھم حکم کران آس توہمہ کہ
 پھر وبتھ پئن نماز پر چھم وقتہ مسجد حراس کن۔ یعنی کعبہ شریف کن۔ یہ واقعہ تحویل قبلہ چھو سپد مت
 ژند رووارہ دومہ در میان ماہ رجب ہجر چھم دو سہمہ و رہمہ در مسجد نبوی۔ خانہ کعبہ کن آسہ دگر نماز پر نہ
 (بخاری و مسلم) امہ تحویلہ قیلح خبر سہمہ ساعتہ بنی سلمہ چہ مسجد والن واثر تم آس دگر نماز ہنز دویمہ
 رکوعہ منزاک صاحبین فرماؤ بہ چھس گواہی دون کہ میہ پئر نماز بنی کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم سیت مکہ
 ہس کن۔ یم صحابہ صیب سپد خانہ کعبہ کن نماز منزی متوجہ توی پیو اتھ مسجد مسجد قبلتین ناو
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ یہ چھونہ توبی یوت حکم خصوصی بیہ چھو یہ حکم توہمہ تہ تہندین
 امتین تہ۔ نہہ ساری تہ آسوپر تہہ جایہ کمر و پئن تہہ نمازہ اندر مسجد حراس کن۔ ئیس مسجد احرام کعبہ
 شریفس آسہ تہ چھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ پڑاٹھ اہل کتاب چھم یقیناً
 زانان کہ یہ حکم چھو پوز حکم تہندس خدا یہ سندی طرفہ کیاہہ تمو چھو پورمت توراتس اندر کہ پیغمبر
 آخر الزمان پرہ نماز دون قبلن کن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ بیہ چھونہ اللہ تعالیٰ بے خبر بہودن
 ہنز و کامیونہ سم انکار قبلہ کران چھم وَلِئِن آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ قسم
 ہاوت چھوس بو فرماوان کہ ہر گاہ نہہ سم بہودن اہل کتابن سارے دلیلہ فرماو یوت تہ کرن نہ سم
 تہندس قبلس خانہ کعبہ قبول۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ نہہ تہ ہیكونہ اختیار تہ قبول کمر تھ تہندس

إِذِ الْبَنَ ظَالِمِينَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِينَ اتَّبَعَهُمُ الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
 أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۵۶﴾
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۵۷﴾ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ
 مُوَلِّئُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۵۸﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

قبلس وَمَا بَعْضُهُمْ بِآيَةٍ قِيلَةَ بَعْضٍ تمن چھو تو پتہ پانہ وان نہ اختلاف یہودیتہ چھنہ کران تسلیم نصاران
 ہندس قبلس ئس مشرقس گن چھو۔ نصاریٰ چھنہ کران تسلیم یہودن ہندس قبلس ئس مغربس گن
 چھو۔ تمن دون جمع سپدن چھو سیٹھاہ دشوار ولین اتبعت آھوآءھم من بعد ما جاءك من العلم اگر
 و سن تہہ تہ تہندین یمن نفسانی خواہش نہ خیالاتن اختیار کرو۔ توہہ بشر علم قطعی وحی الہی واتتھہ لانک
 إِذِ الْبَنَ ظَالِمِينَ یقیناً آیوتھہ صورتس اندر توہہ تہ شمار کرنہ حکم عدولی کرو نیواندرہ سمہ اندرہ چھو
 مطلب اتس وئن۔ اگرچہ خطاب آو کرنہ بنی کر تمس گن الَّذِينَ اتَّبَعَهُمُ الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
 أَبْنَاءَهُمْ تم لوکھ یمن اسہ عطا کر کتاب یعنی تورایت وانجیل تم چھہ پرزہ ناوان اسس پیغمبر برحقس
 تھہ پاتھہ تھہ پاتھہ پرزہ ناوان چھہ پنہ نین پچوین تموبشار تو موجب سمہ بیان آمزہ چھہ کرنہ تہنر
 کتابن اندر وَلَٰنَ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ باوجود آل چھہ تمواندرہ آکھ جماعتھاہ ضرور
 پوزکھٹان زانت کترتھہ۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ یہ پوز حکم تحویل قبلس متعلق چھو
 تہندس پروردگار سیدہ طرف۔ پس مہ آہو تردد کروہ و نیواندرہ۔ یمن امورن ہند پوز آسن چھو ثابت
 تہندس پروردگار سیدہ طرف۔ لہذا چھو پرت آگس و تنہ یوان کہ ہرگز مہ آس شک وشبہ کرہ و نیواندرہ۔
 وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّئُهَا پرستھہ آگس دیدازس چھو او سمت آکھ آکھ طرفاہ قبلہ خیطرہ تھہ گن سو
 پھیران اوس۔ دین محمدی تہ چھو آکھ مستقل دیناہ۔ اتھہ تہ کور اللہ تعالیٰ ان مستقل آکھ قبلہ مقرر۔
 مقصد چھو عبادت تہ رزہ کامہ کرنہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس کمر و تہہ اے مسلمانو تمکین منز برنٹھہ گونج

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿۱۹۹﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي قَوْلًا تَمَّ
نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۲۰۰﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ

کوش کیا زہ۔ آئین ماں کو تو ایات بکرم اللہ جیباً تہمتہ آہوتہ تہمتہ، ساری لہ وہ سو نبرت اکہ وہ اللہ
تعالیٰ بن فیصلہ بوزنانہ خطیرہ قیامتہ دوہہ نیکو کارن دیہ رت جزا بدکارن دیہ سخت سزا اِن اللہ علی
کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ لیس پزیاٹ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ دول وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلًا
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مگر چھو بیہ ونہ یوان سمہ طرفہ تہہ نیر و سفرس مغربہ طرفہ یا مشرقہ
کہ طرفہ یا شمالہ کہ طرفہ یا جنوبہ طرفہ۔ پر ہتھہ جایہ پیٹھہ گزہ نمازہ منزہ ہتھہ گرن مسجد حرامس یعنی
کعبہ شریفس کن وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بیشک یہ حکم چھو پزیاٹ تہندس پروردگار سدہ طرفہ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھو نہ اللہ تعالیٰ بے خبر تہنز و کامیونشہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلًا وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بیہ چھو بیہ حکم بیان یوان کرنہ کہ یمہ طرفہ تہہ نیر و سفرس، پر ہتھہ جایہ پیٹھہ گزہ
نمازہ منزہ تہہ گرن مسجد حرامس یعنی کعبہ شریفس کن۔ یہ حکم چھو تہوی یوت بلکہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اے لکو تہہ تہ تہ آہوتہ پیٹھہ کمر و تہہ پن ہتھہ آتھہ مسجد حرامس کن یہ حکم چھو
بوفردان لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ہتھہ گنہ قسمہ تھہ کر تک اعتراض کرنک موقہ روزوہ لوکن
یعنی یہودن تہ مشرکن إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوای تہن لوکن سموپان پانس ظلم کمر تہواندرہ تہہند
بغض تہ عناد تہوانہ سیت۔ تم کرہ نی طعنہ زنی بہر حال مگر فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي تہن مہ کھوژو
تہنز پان ہندمہ بزوکانہہ پرواء کھوژوان آہو میانس کھمس خلاف کرنس وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي تہن مہ کھوژو
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بیہ چھو بسو بیہ حکم فرماوان ہتھہ پورا کمر و پن نعمت تہہ پیٹھہ بیہ تہہ تہہ دینہ کین

يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَا
 لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۱﴾ فَأَذْكُرُوْنِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿۱۵۲﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۳﴾
 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا
 تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۴﴾ وَانْبَلُواكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ

احکام من گن و تھ لبو اسلامس پیٹھ مضبوطی سان قائم رُوڑو۔ چونکہ قبلک معاملہ اوس نہایت مہتمم
 بالشان مخالفو اوس اتھ پیٹھ سبٹھاہ شور تلمت بیہ اوس امہ کین بعضی جزئیاتن اندر ترد و سپدنگ احتمال
 لہذا آویہ حکم مکرر بیان کرنہ امیہ کین سارنی پہلو و ن ہند لحاظ تھاوت امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کعبہ
 شریفہ کہ مقبولیتنگ و عاکور اسہ قبول۔ سو بنو واسہ اہل اسلامن ہند قبلہ بیتھ پاٹ اسہ حضرت ابراہیمہ
 سند بیاکھ و عادر حق بعثت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قبول کور کما اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ
 کعبہ شریف بنو واسہ اہل اسلامن ہندہ خیطرہ قبلہ بیتھ پاٹھ اسہ سوز توہیہ گن عظیم الشان پیغمبرہ توہی
 منزہ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا کس سان آیات پتر پتر توہہ بوزہ ناوان چھو وَيُزَكِّيكُمْ بیہ چھوہ توہہ پاک
 و صاف کران شرکچہ تہ گو نمن ہنزہ نا پاک نشہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بیہ چھو توہیہ چکھناوان قرآن مجید
 گانہ جارچہ تھہ تہ طریق عمل وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بیہ چھوہ چکھناوان تم علوم تہ تم اسرار تم نہ تہہ
 گنہ چکھہ ہو۔ امہ امہ قسچہ نعموہ کرہ موہ میہ عطا۔ فَأَذْكُرُوْنِي أَذْكُرْكُمْ کتر و تہہ میون یاد۔ بو کرہ تہند یاد
 وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوْنِ میان نعمن ہنز شکر گذاری کتر و میان حکم مانہ سیت۔ کفران نعمت مہ کتر و
 میان تا فرمانی کرنہ سیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے باایمانو اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یاری تہ مدد ڈھاہڈ
 واکھ صبر کرنہ سیت کیا زہ صبر چھو پر بیتھ کامیابی ہنز کونز بیہ نمازہ پر نہ سیت کیا زہ نماز چھہ افضل
 عبادات إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو صبر کرو نین سیت۔ نماز پرہ و نین سیت گو آتھی وَلَا
 تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بیہ مہ و تو تہن لو کون تہم مارنہ یں تہ شہیدین کرنہ خدا لہ سزہ و تہ

الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَائِبِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِينَ إِذَا
 أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۵۶﴾
 وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۱۵۷﴾
 إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أُوَاعْتَصَرَ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ

اندر یعنی دینہ خیطرہ تم چھ مردہ بَلْ أَحْيَاةٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ بلکہ چھ تم امہ مخصوص حیاتہ سیت
 زندے۔ مگر تہہ بیخونہ تنہز زندگی محسوس کمر تہہ کیاہ سو چھ سمہ زندگی خوتہ تنہز زندگی وَلَنَبَلِّغَنَّكُمْ
 بِرَبِّي مِنَ الْغُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقِصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَائِبِ بیہ آزماوہ اس تہہ ضرور۔ کنیوہاہ
 خوفہ سیت بیہ بو چھ سیت۔ بیہ مال و جان تہ میون ہندہ نقصانہ سیت۔ وچھو صبر کم کرن تہ بے صبری کم
 کرن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت فرماو یو تہہ صبر کرہ و نین یم بڈین مصیبتین پیٹھہ تہ صبر کرن لو کٹین
 مصیبتین پیٹھہ تہ صبر کرن۔ یہند عادت چھو الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ تَمَنَّوْا لَوْ كَانَتْهُمُ مِثْلَ مَا
 أَصَابَتْكُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمہ ساتہ چہ تم دیان اس چھ مال و جانہ تہ اولادن سان خدایہ
 سندی ملک۔ بیہ چھ اس تس کن پتولا کہ رجوع کرہ دن اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ تہ
 لو کہ تم تکالیف و مصیبتین پیٹھہ صبر کرہ دن تہ مصیبتہ کہ وقتہ آیہ استرجاع یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پرہ
 دن آسن تمنی پیٹھہ چھ خدایہ سندہ طرفہ بیشمار مہربانی بیہ بڈ رحمت اُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ بیہ چھ تہ
 لو کہ تم پزناٹ راہ راست لوب۔ برو ظہین آیات کریمن منز آس ذکر خانہ کعبہ کہ سو چھو قبولو اندرہ
 بہتر قبلہ عباد تو اندرہ بہتر عبادتس یعنی نمازہ اندر کمر و بٹھہ پئن اتھ خانہ کعبس کن و سن چھہ اللہ تعالیٰ فرماون
 اتھ متعلق بیہ لمحہ بڈہ عبادت حج ذکر سو گنیہ عبادت حج اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ پزناٹ صفاروہ
 یم زہ کوہ بیہ یمن منز سح یعنی دورہ دور کرن چھ پروردگارہ سندہ دینہ کیو یادگاروتہ نشاواندرہ فَمَنْ
 حَبَّ الْبَيْتَ أُوَاعْتَصَرَ پس تم شخصن حج ادا کر نہ خیطرہ احرام گوئد مت آسہ یا عمرہ کر نہ خیطرہ فَلَا

شَاكِرٌ عَلَيْهِ ۝۱۵۸ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ
 مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ
 يَلْعَنُهُمُ الْعَالَمُونَ ۝۱۵۹ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا
 فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝۱۶۰ إِنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

جَنَانِ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّقَ بِهَا لَسَّ جَهَنَّمَ كَانَهُ حَرْجٌ نَهْ غَنَاهُ أَلْغَرُ سُوَيْمِينَ دُونَ كُوَيْهِنٍ دَرْمِيَانِ دَوْرَهُ دَوْرُ كَرِهٍ
 سِتْرَهُ بَجْرَهُ هَيْتَهُ سَعَى وَنَانَ جَهْدَهُ وَمَنْ تَطَّوَّقَ خَيْرًا بِهِ لَيْسَ أَكْهَاهُ بَيْنَهُ خَوْشَى سَيْتِ كَانَهُ رِثْكَامَاهُ كَرِهٍ۔ فَإِنَّ
 اللَّهُ شَاكِرٌ عَلَيْهِ پس پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو نیکیں ہنز قدر کرہ دن سوڑی زانہ دن کم کوسہ کام کمہ نیتہ
 کتر ان الذین بیشک تم لو کہ یکتُمُونَ ہم پوشیدہ چھہ تھاوان مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ یہ کیوہا سہ
 نازل کرنیو دلیو آندرہ تہ ہدایتہ اندرہ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ وارہ پاٹھہ لوکن ہندہ خیطرہ
 تورات وانجیلس منز وضاحتہ سان بیان کرنہ پتہ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ الْعَالَمُونَ امانی لوکن
 پیٹھہ چھو اللہ تعالیٰ لعنت کران پزکھنہ خیطرہ ہیہ چھہ امانی بیہ لعنت کرہ ون تہ لعنت کران۔ کیا زہ ہندہ
 پزکھنہ سیت نہ خدایہ سُنْدُ نُوْرُ لُوْکُنْ نَعْمَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا مگر تیم لو کہ توبہ کرن
 تیمو کامیونشہ پھیرن۔ بیہ سنبھالن پندہ کلمہ دین اسلام قبول کرنہ سیت ہیہ کرن وضاحت تمکن کھن ہنز
 تیمہ پوشیدہ تہ کھٹت تھاوان آسِ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ پس تیم لو کہ تیم چھہ تیمن ہند توبہ کرہ بو
 قبول وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بوی چھوس سیٹھاہ توبہ قبول کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ کانہ توبہ کرہ
 وانہ گزٹھہ آسنِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا پزپاٹھہ تیم گھر سی پیٹھہ رُوْدِ تیمو یودو آندرہ
 بیہ مُؤَدِّفَرِ سی پیٹھہ۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ تمکن لوکن پیٹھہ چھہ بدستور
 خدایہ سزہ لعنت۔ بیہ ملائکین ہنز لعنت۔ بیہ سارنی لوکن ہنز لعنت خُلْدِيْدِيْنَ فِيْهَا تَتَّهَرُ لَعْنَتْسُ مَنْزَرُوْزَانِ
 ہمیشہ۔ سو گونار جہنم لیس لعنتک گھرہ چھو لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ لو ژراندہ تہ کم ہیہ نہ کرن تمکن نشہ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۶۱﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
 وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۱۶۲﴾ وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
 الرَّحِيمُ ﴿۱۶۳﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
 وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ

عذاب وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ نہ یہی تمہیں مہلت دینے وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا بیہ چھو معبود تہند کئی معبود
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کا نہ معبود چھو نہ تس وراہی۔ کا نہ چیز چھو نہ سزاوار عبادتس، تس اگس ذاتس وراہی
 کیا زہ تہند صفت چھو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ عام رحمتہ وول، خاص رحمتہ وول۔ لیس منزیم زہ صفت آسن
 سوی چھو معبود آسن سزاوار۔ بلہ یہ آہ کریمہ وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا نازل سپد۔ کافر لگ ونہ آج دلیل
 کیا چھہ اتی سپد نازل إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پزپاٹ آسمان ہندس تہ زمین ہندس پیدہ کرنس
 اندر وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ را تہ کس تہ دوہہ کس انس تہ گزہ ہنس اندر۔ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بیہ
 تمہن ناؤن تہ جہازن اندر تمہن سمدرن تہ دریاون اندر پکان چھہ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ تم چیز تہ سامانہ ہیبت
 سمہ سبت لوکن نفع تہ فائدہ و اتان چھو۔ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ بیہ تہہ آسن منزیم
 اللہ تعالیٰ چھو آسانچہ طرفہ ابرہ منزہ نازل کران فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لیس چھو تمی سبت
 مردہ زمینس زندہ کران وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ بیہ چھو چھکر اوان اتہہ زمینس اندر پریتہہ
 قسمک جاندار وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ بیہ اوان ہندس اورہ یور کرنس اندر وَالسَّحَابِ الْمُسْتَعْرَبِينَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ بیہ تہہ ابرس منزیم رام تابع تہ فرمانبردار چھو لیس الوند چھو آسانس تہ زمینس در میان
 لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يَعْتَلُونَ پزپاٹ بڈ بڈ نشانہ چھہ یمن ستن چیزن اندر عقلہ والین ہندہ خیرہ۔ پریتہہ
 چیزہ چھو دلالت کران تہندس خالق مطلق تہ معبود برحق آسن پٹہہ وَوَنَ النَّاسِ مِنْ يَتَّخِذُونَ

الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۴۶﴾
 وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ
 اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ
 يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۴۷﴾
 إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ

دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا بے چہرہ لو کو اندرہ بعضے لو کہ یم ٹھہراوان چہرہ خدا لیس ورا کی بین خدایہ سندہ ہم پلہ تہ
 برابر يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ تہندی محبت چہرہ تھوان خدایہ سُندہ ہو محبت۔ تمنی چہرہ عبادتس اندر،
 اطاعتس اندر خدایہ سند شریک تھوان۔ خیال چہرہ کہ یم چہرہ ذریعہ تہ واسطہ، سفارش کرہون خدا لیس نشہ
 یکن تہ چہرہ اندرونی طاقت قدرتس اندر یا کانہ دخلہ خدایہ سزنا کا میں اندر وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
 مگر ہمہ لو کو پڑھ کتر خدایہ سندس گن آسٹس تمن چہرہ ساری ہندہ خوتہ خدایہ سندوی سخت محبت کیا زہ
 تمن چہرہ یقین کہ سوی چہرہ سوڑی عطا کرہون تہ بے نہ کانہ۔ تم چہرہ منگان تس ورا کی بے کانہ۔ تم
 چہرہ کھوڑان تس ورا کی بے کانہ سوی چہرہ ساری نفعک تہ نقصانک مالک بے نہ کانہ۔ تمن چہرہ محبت
 چہرہ خدایہ سُند تہ چہرہ نہ بے کانہ ہند خدایہ سندی رضا خیطرہ چہرہ تم خدایہ سندین رتین بدن۔
 انبیاءن تہ اولیاءن ہند محبت تھوان۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ہر گاہ زانہ ہن تم ظالم ہمہ خدا لیس
 شریک ٹھہراو سوتھہ یوسہ زانہ سچہ تمن تمہ ساتہ إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ ہمہ ساتہ تم عذاب وچھن سونگنیہ
 بے سچہ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ پڑاٹھہ سوڑی قوت چہرہ خدایہ سی بوت وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ
 بے چہرہ اللہ تعالیٰ کڈر عذاب کرہون۔ تلہ ٹھہراو ہن نہ خدا لیس شریک إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ
 الَّذِينَ اتَّبَعُوا یلہ لوب بین تہ بے تعلقی ظاہر کرن آخرتس اندر تم لو کہہ ہنہز متابعت تہ پیروی کرنہ
 یوان آس، تمن لو کن نشہ یم پیروی کران آسچہ وَرَأَوْا الْعَذَابَ بے وچھن دو شوے عذاب ننیو آچھو
 وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ژھین تمن برو ٹھہم ساری تعلقات وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا
 فَنَتَّبِعَ آيَاتِهِمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
 حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿۳۷﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا
 مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۳۸﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِن

بیہ و ن تمہ وقتہ تم لو کہہ یم پیروی کران آس ہر گاہ اسہ دوبارہ بیہ اکہ لہہ دنیا ہس کن گوہنک موقعہ بہہ ہا
 فَتَبَرَّأْ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا اُس تہ روزہ ہو تمن نشہ الگ پتھہ پاٹھہ تم اسہ نشہ لوب تہ الگ رُود
 كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ پتھہ پاٹھہ کیا ہا وہ اللہ تعالیٰ تمن پتھہ عملہ سمہ تمہو خدا ہس
 وراکی بین ہندہ خیرہ کرہ مژہ آس نہ امت تہ پیشمانی وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ بیہ آس نہ تم نار جہنمہ
 منزہ نیرہ ون بلکہ چھو تمن تھہ منز ہمیشہ روزن۔ مشرکن عرب آس پوتلین ہندن ناون پیٹھہ بعضہ
 جانورن نامزد کتر تھہ تھاوان۔ تمہ پتہ آس تم تمن جانورن سیٹھاہ تعظیم و تکریم کران۔ تمن جانورن
 نَشْرَ آس نہ کانہہ نفع تہ فائدہ تھان۔ خیال آس کران یہ چھو حکم خدا۔ امہ سیت سپدہ اسہ نشہ
 خدا راضی۔ امہ سیت کرہ سوا سہ بن قرب عطا۔ اللہ تعالیٰ چھو تھہ تھندس خیالس رد کران۔ فرماوان
 چھو يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے لو کو كَلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا کھنیو تم چیزیم ز مینس اندر شرعہ موجب
 حلال تہ پاک چھہ۔ پانے مہ کتر و پانس پیٹھہ کانہہ چیز حرام۔ حلال گو تہ یہ خداین حلال کور حرام گو تہ یہ
 خداین حرام کور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ پتہ مہ چھو شیطان سندین پدین یعنی تہنز متابعت مہ
 کتر۔ یوکن سو پکناوہ و توکن مہ پکو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ کیا زہ پڑپاٹھہ سو چھو تھند نون دشمن
 إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ سو چھو نہ توہمہ امر کران مگر گو نہن
 ہند۔ بیہ پتھہ کا میں ہند۔ بیہ امحوی کہ تھہ نور اوو خدایس پیٹھہ تے تھہ یمہ نہ توہمہ معلوم چھہ۔ حرام
 کتر و حلال چیز۔ حلال زانو حرام چیز وَاذْ قِيلَ لَهُمْ يٰلَهُ وَنَنه یوان چھو تمن مشرکن تم شیطان سنز پیروی

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۹﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ
 آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۷۰﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّوا بِكُمْ
 عُمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۷۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ
 مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ رَائِيَاءَ تَعْبُدُونَ ﴿۱۷۲﴾

کران چھہ اَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ اے لو کو تمہ حمہ موجب کیوں نازل کور اللہ تعالیٰ ان پیغمبر برحقس
 پڑھے یعنی قرآن۔ مجید قَالُوا جواب چھہ تم دیان بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا بلکہ کیوں اَس تھہ
 طریقس پڑھے تھہ طریقس پڑھے لب اسہ بن مال تہ بدبب اُولُو كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
 يَهْتَدُونَ کیاہ تم لوکھہ کرنہ پنہ نین مالین ہنز پیروی ہر حالتس اندر۔ تلہ تہ بلہ نہ تم کنہ تہ زانان
 آسن بیہ نہ کنہ صحیح و تہ پڑھے آسن۔ یہ گنیہ تلہ کمال بے وقونی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي
 يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ میں کافر ن ہنز مثال چھہ تس جانور سنز مثال اُس نہ مضمون کلام بوزان چھو
 اِلَادُعَاءً وَنِدَاءً مگر ناداہ تہ اَلُوا صُمُّوا بِكُمْ عُمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سم کافر چھہ زر کل اَن۔ اُس چھہ
 تم زانان کنہ تہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا با ایمانو سمو پڑھ کمر وہ کنس خدا اُس بیہ تہ ہندس پیغمبرس
 كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھو تم پاک چیز سم اسہ توہہ عطا کمر مت چھہ۔ تلو تم چیزن ہند متھہ
 دنیاچہ زندگی منز۔ پانے مہ آہو میہ ور لے کانہ ہندہ خیرہ پانس پڑھے کانہہ نعمت حرام کران تہ ترا
 وان وَاشْكُرُوا لِلَّهِ شکر دیو تس خدا ایس سم بے شمار نعمہ عطا کردہ اِنْ كُنْتُمْ رَائِيَاءَ تَعْبُدُونَ چھوے
 تس یوت معبود زابت عبادت کران اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ تم کور نہ توہہ پڑھے کنہ تہ حرام مگر کرن
 سو جانور اُس پانے مو مت آسہ وَاللَّحْمَ بِه کرون حرام خون وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ بیہ کرن حرام سورہ ماز

إِنسَاخَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
 لِغَيْرِ اللَّهِ فَمِنَ اضْطَرَّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ
 يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
 النَّارَ وَلَا يَكْلَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿۱۴۸﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابُ

وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بے کورن حرام بے کبڑہاہ خدا بے وراکی بے کانسہ ہند قرب تہ رضا حاصل کرنہ
 خیطرہ کانسہ ہندہ ناوہ تھاوند آمت آسہ فَمِنَ اضْطَرَّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ بے کانسہ شخصہ
 لاچار تہ مضطر سیدہ کانسہ چیزہ ہمیش نہ ہمو چیز ووراکے۔ سوی ہمو چیز واندردہ نافرمانی کرنہ وراکی، لذت
 ژھانڈنہ وراکی تہ حدہ نغمہ ڈالندہ وراکی کہنہ کھیہ تس چھونہ کانسہ گوناہ۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پز پانچہ
 اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کروون، سیٹھاہ رحم کروون، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ
 بیشک ہم لوکھ کھٹان چھہ تم مضمون تمہہ کتابہ ہند یوسہ نازل کمر اللہ تعالیٰ ان ویشترون بہ ثَمَنًا قَلِيلًا
 بے چھہ حاصل کران تمہہ بدل قیمتھاہ سیٹھاہ کم اُولَٰئِكَ ہم لوکھ ہم کھٹان چھہ پزہ تمہہ تبدل چھہ ہارہ
 تہ دیار حاصل کمرت کھیوان تہ چیوان مَآيَا كُلُوْنَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ چھہ تم کھیہ کھیہ بیڈن منز
 واتاوان مگر نارہ تیونگل۔ وَلَا يَكْلَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ کرنہ یمن سیت قیامتہ دوہہ تمہہ تہ۔
 وَلَا يُزَكِّيهِمْ بے کریجھہ نہ پاک گناہ معاف کرنہ سیت وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بے چھو تہدی خیطرہ
 دگ تہ دود تلہ ون عذاب اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰى ہم لوکھ گئے تہ ہمو گمر ای منزل
 ہنوز ہدایتس وَالْعَذَابُ بِالْمُغْفَرَةِ بے ہمو تمہہ عذاب مل مغفرتس فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ کاتیاہ ژید کرہ
 ون چھہ ہم نارس پیٹھہ یعنی بے پروائی سان چھہ کامہ کران ہمو سیت نازس گرفتار سپدن ذٰلِكَ يٰۤاَنَّا
 اللَّهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بے سوڑی چھو تمہن ہمہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ ان کمر نازل پن کتاب پز

بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۱۷۵﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ
 بَعِيدٍ ﴿۱۷۶﴾ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ
 الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
 وَالْكِتَابِ وَالرِّسَالِ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

ہیئت۔ سمو کورتھہ منز اختلاف۔ اؤس کر کہ پڑھ۔ اؤس کو رکھ انکار۔ اوڈ تھو دکھ کھٹھہ اوڈنتر وکھ۔
 وَلَئِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ پڑپاٹھہ سمو اختلاف کور اتھہ کتابہ اندر یعنی توراتس
 اندر اؤس پڑھتہ اؤس انکار کرنہ سیت تم چھہ زٹھس اختلافس اندر سمیت پٹھنہ زانہہ واٹھہ لیکھہ۔
 یلہ بروٹھن آیتس اندر پنہ نہ پٹھہ کامہ نہ تمن ہندسز ابوزکھ یہودتہ نصاریٰ لگ ونہ اسہ کیازہ آسہ
 ہایہ سز اسے چھہ نمازہ اندر پنہ نس پنہ نس قبلس گن پٹھہ کتر تھہ نماز پران۔ اللہ تعالیٰ ان کو رکھ تھہ
 خیالس رد لیس البر ان تولوا ووجوهکم قبل المشرق والمغرب نیکی چھنہ ایشی یاژ کہ تہہ
 پھرو نمازہ اندر پٹھہ مشرقس گن اے نصار او یا مغربس گن اے یہودو وَلَئِنَّ الْبِرَّ لیکن نیوکار گے
 گوڈہ تے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سمو ایمان اون۔ پڑھ کتر کہ اگس خدا نیس بیہ تھندس گن آسئس
 بیہ قیامکس دوہس وَالْمَلَائِكَةِ بیہ ملائکس ہندس وجودس وَالْكِتَابِ بیہ سارنی آسمانی کتابس وَالرِّسَالِ
 بیہ سارنی پیغمبرن وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ توپنہ دن مال پٹن خدا یہ سندی محبتہ سوما لٹوٹھہ آتھہ
 ذَوِي الْقُرْبَىٰ پنہ نین محتاج آشناون وَالْيَتَامَىٰ بیہ نادار یتیمن یمن مول مودمت آسہ
 وَالسَّبِيلِ بیہ عام مسکینن نہ محتاجن وَابْنِ السَّبِيلِ بیہ بے خرچ مسافرن وَالسَّائِلِينَ بیہ معہ و نین
 - وَفِي الرِّقَابِ بیہ گردنہ آزاد کرنس اندر۔ مقروضن نہ غلامن ہنزہ گردنہ آزاد کرنس اندر
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ بیہ تھاون بریا نماز وَآتَى الزَّكَاةَ بیہ آسں او اکران ماج زکوٰۃ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَيْعَاتِ وَالضَّرَّاءَ وَحِينَ
 الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ
 بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
 شَيْءٌ فَأْتِبَاغُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ

عَهْدُوا یہ آسن پنہ نس عمدس وفا کرہون یلہ پانہ وان معاہدہ کران آسن وَالصَّادِقِينَ یہ آسن صبر
 کرہون فِي الْبَيْعَاتِ وَالضَّرَّاءَ وَحِينَ الْبَأْسِ یہ سختی اندر، تکلیفیں اندر یہ لڑائیہ اندر کافرن
 سیت جبکہ وقتہ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ لوکھ کیاہ گے پزبار۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ لوکھ
 کیاہ گے پر ہزگار خدا بس کھوڑہون۔ مھتھو فرما دکمالات انسانی۔ اگرچہ تم چھ واریہ چیز مگر اجمالاً چھہ تم
 منحصر ترین چیزن اندر صحت اعتقاد، حسن معاشرت۔ تہذیب نفس۔ صحت اعتقاد گو پڑہ کرن معبود
 برحقس یہ پڑہ کرن تمہن چیزن تمہن پڑہ کرن لازم چھہ۔ حسن معاشرت گو پرت حقدار س پن حق
 واتانوں۔ تہذیب نفس گو نماز پرن، زکوٰۃ دن عمدس وفا کرن تہ صبر کرن۔ تم ساری چیز چھہ جمع
 ہتھہ آئیہ کرتمس اندر۔ یہ آئیہ کریمہ چھو انسانی کمالاتن جمع کرہون تہجے گے اصول بر۔ یعنی نیکین
 ہند اصول۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماون فروع بر یعنی نیکن ہند شاخ تہ اقسام۔ گوڈنیک قسم گو قانون
 قصاص يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے باایمانو كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ مقرر آو کرنہ تو یہ پٹھہ
 قانون قصاص یعنی مساوات مقتولن ہندہ حقہ الْحُرُّ بِالْحُرِّ آزاد شخصس یہ قتل کرنہ آزاد شخصس
 بَدَلُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ غلامس یہ قتل کرنہ غلامس بَدَلُ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ زنانہس یہ قتل کرنہ زنانہ بَدَلُ یعنی
 شریف تہ کمینہ آنجیادولت مند تہ فقیر آنج چھہ کانہ فرق فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ بس قاتلس
 عفو آو کرنہ پنہ نس بائیہ سندہ طرفہ کانہ چیزاہ یعنی مقتولہ سند یو وار تواندرہ ہر گاہ کانہ اکھاہ عفو تہ

رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمِنَ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷۹﴾
لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوَةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۰﴾
كُتِبَ عَلَيْكُمُ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّوَصِيَّةٍ
لِّوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلٰى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۸۱﴾ فَمِنَ
بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَبَعَهُ فَاَتَمَّ اٰتْمُهُ عَلٰى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۸۲﴾ فَمِنَ خَافَ مِنْ مُّوَسٍ جَنَفًا وَّ اٰتْمًا

در گذر کره **فَاتَمَّ بِالْمَعْرُوفِ** پس شوبه باقی وارثن دینک مطالبه کرن سختی وراکی **وَاَذَا لِّلّٰهِ يٰۤاِحْسٰنِ**
بیه شوبه قاتلس سودیت ادا کرن مقتوله سندن وارثن گن تارته درگی کرنه وراکی **ذٰلِكَ تَعْنِيْتُ مِنْ**
رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةً یہ قانون دیت و عفو چھو بڈ آسانی بڈ رحمت تھندس پروردگارہ سنده طرفہ **فَمِنَ اعْتَدٰى**
بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ کس کس اکھاہ حدہ ڈلہ امہ عفو کرنہ پتہ یعنی دیتس پیٹھہ تصفیہ سپد بچہ باوجود
کرہ مقتوله سند یو وارثا نواندرہ کانہ قاتلن نغہ انتقام تہ قصاص پچ کوشش۔ سنده خیطرہ چھو آخرتس اندر
دودوہ و ن عذاب۔ **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوَةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ** تھندہ خیطرہ چھہ قصاصہ
کس کس اندر بڈ زندگی اے عقلہ و ایو کیازہ یلہ کانہہ اک سنده قتل کرن ارادہ کرن وول یہ زانہ کہ
میہ بیہ امیک قصاص ہینہ سوروزہ پانے قتلہ نشہ پتھہ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ** چھہ تھہ قتلہ نشہ پتہ روزو قصاصہ
کہ بیمہ **كُتِبَ عَلَيْكُمُ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** فرض آو کرنہ توبہ پیٹھہ ای باایمانو یلہ حاضر آسہ سپدان
توبہ اندر کانہہ موت یعنی مر تک وقت آسہ واتان موتک علامت آسن ظاہر سپدان **اِنْ تَرَكَ خَيْرًا**
ہرگاہ ہے سورتا وہ پتھہ گن کانہہ مالہ **لِّوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ** وصیت کرن اتھہ ماس اندر ماس ماجہ ہندہ
خیطرہ **وَالْاَقْرَبِيْنَ** بیہ آشناون ہندہ خیطرہ **بِالْمَعْرُوْفِ** انصافہ موجب تہ حسب دستور **حَقًّا عَلٰى**
الْمُتَّقِيْنَ یہ چھو لازم پرہیزگارن ہندہ خیطرہ **فَمِنَ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَبَعَهُ** پس ایم اک تبدیل کور
اتھہ وصیتس بوزنہ تہ معلوم سپدنہ پتہ **فَاَتَمَّ اٰتْمُهُ عَلٰى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ** پس چھونہ امیک گناہ مگر

فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا تَمْرَعُوا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸۲﴾ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى
 الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
 فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴿۱۸۴﴾ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۵﴾

تمخی پیٹھ تم اتھ تبدیل کرن اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جو سوزی بوزہ ون سوزی زانہ ون یہ
 حکم اوس ابتدائی اسلامس اندر پتہ سپدیہ حکم منسوخ آہ میراث سیت فَمَنْ حَافٍ مِنْ مَوَاطِنَ جُنَاحًا أَوْ
 اِثْمًا پَسْ لَسْ کھوڑہ وصیت کرہ ون سندہ طرف نہ کہہ قسمہ بے انصافی یا حق تلفی فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ پَس کرہ
 وارثن منزاتھ وصیتس کینہہ اصلاح فَلَا تَمْرَعُوا عَلَيْهِ تَسْ جھونہ کانہہ گناہ اِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ بیشک
 اللہ تعالیٰ جو مغفرت کرہ ون رحم کرہ ون آیَاتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے باایمانو کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
 فرض آہ کر نہ توہہ پیٹھ روزہ داری کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جتھ پاٹھ فرض آمرش آس
 کر نہ تمن لوکن پیٹھ یم توہہ بروٹھ آس لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جتھ تہہ متقی تہہ پرہیز گار بنو۔ اَيَّامًا
 مَعْدُودَاتٍ کینون دوہن تم دوہ گزرنہ آمت چھہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
 أَيَّامٍ أُخَرَ تمہہ پتے توہہ اندرہ کانہہ بیمار پیہ یا سفرس نیرہ تمن دوہن اندر تمنس جھو اجازت تمن
 دوہن اظہار کتر تھہ تم دوہ پورہ کرن ہلکتھ یا سفرہ نشہ واپس بیتھ۔ بیاکھ آسانی چھہ وَعَلَى الَّذِينَ
 يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ بیہ گڑھہ تمن لوکن ہند بین طاقت آسہ روزہ دار روز نک مگر روزن
 نہ۔ فدیہ دیون اگس محتاجس اکہ دوہن بدل دون وقتن برابر کھین دیون یہ حکم چھہ آمت منسوخ کر نہ
 فمن شهد منكم الشهر فليصمه سیت مریض تہ مسافرن چھہ استثناء فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ پَس
 لَسْ نیکی کرہ یعنی محتاجس زیادہ پن دیہ تہ جھو تہندہ خیطرہ بہتر وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ توپتے توہہ روزی داری ہند ثواب تہ فضیلت معلوم آسہ ہاتلہ اوس تہندہ خیطرہ روزہ دار

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
 بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
 فَلْيُصِمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾ وَإِذَا
 سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

روزنوی بہتر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ماہ رمضان گو سوریتہ تہتہ ریتس منز پورہ قرآن
 مجید نازل آؤ کر نہ لوح محفوظ پیٹھہ بیت المعمور سُنْ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
 وَالْفُرْقَانِ لیس قرآن مجید بوڈ ہدایت چھو لوکن ہندہ خیرہ تہتہ منز ہدایت تہتہ دلیلہ چھہ سہمہ دلیلہ
 بزس تہ لہزس منز فرق کرہ ونہ چھہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصِمْهُ لیس لیس اکھاہ توبہ اندرہ اتھہ
 تیس لہ سوروزن اتھہ ریتس روزہ دار وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ بیہ لیس توبہ اندرہ تمہ قسمہ بیمار
 آسہ تہتہ روزہ درتھہ مضرسپد لیس یا مسافر آسہ اتھہ ریتس اندر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تلمہ چھہ تمس تم
 یاری ہندوہ یا مسافر تک دوہ بین دوہن اندر ذرن لازم يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللَّهُ
 لعالی چھو یشھان تہندہ خیرہ آسانی۔ سو چھونہ یشھن تہندہ خیرہ سختی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ بیہ
 چھو یشھان اللہ تعالیٰ کہ پورہ سحر و تہہ روزہ داری ہندوہ تہتہ ثوابس اندر کی روزہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ بیہ
 تہتہ تہہ اللہ تعالیٰ بزرگ تہ بوڈ زانیون۔ بوڈ زانیون آسہ تہندہ یاد کران۔ پر ان آسہ اللہ اکبر علیٰ مَا
 هَدَاكُمْ تہتہ تہتہ کہ اللہ تعالیٰ ان کیاہ کورہ توبہ ہدایت، تم کیاہ ہادوہ توبہ و تہہ رتہ کامہ کرنس سُنْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یو تہ تہہ پروردگار سزنا مہربانین پیٹھہ شکر گذاری کترو۔ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نشہ آسہ اکھہ جماعتھاہ، تموی ہر تہہ یارسول اللہ خدا چھا اسمہ نغہ نزدیک تلمہ منگہ ہوس لو تہ
 تہ تہتہ سو چھو ڈور تلمہ منگہ ہوس بڈہ بڈہ۔ اتی سپڈ نازل بیہ آسہ کریمہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي

دَعَانِ فَلَيْسَتْ جَبِيًّا إِلَىٰ وَلِيَوْمِنَا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۶﴾
 أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ
 لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
 تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ
 بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ

قَوِيْبٌ۔ بے یلہ تو بہہ پر ژھن میان بندہ کہ بو چھوسہ تمن نزدیک نہ دور فرماؤ کہ میانہ طرفہ کہ بو
 چھوسکھ نزدیک اِحْبِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا دَعَانِ اجابت تہ قبول چھوس کران پر ہتھہ معہ ون
 سدس معہ نس۔ پر ہتھہ در خواست کرہ ون سدس در خواست کرنس یلہ سو آسہ مناسب تہ قابل
 قبول یلہ سو عاجزی سان مے یوت معہ تہ مے یوت زانہ حاجت روا فَلَيْسَتْ جَبِيًّا إِلَىٰ پس مان تم تہ
 میان حکم۔ میہ نشہ کرن طلب اجابت وَلِيَوْمِنَا بِي بے کمرن پڑھ میہ میانہ نزدیک آسک تھاون
 یقین لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ہتھہ تمن تمہ سیت میہ نشہ واتج و تھہ بے اِحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ
 اِلَىٰ نِسَائِكُمْ حلال آہ کر نہ تھندہ خیطرہ اے با ایمانوروزن ہنزن راتن اندر پنہ نین منکوہ
 زمانن نشہ شج خواہش پورہ کر نہ خیطرہ نزدیک سپدن هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
 تمہہ چھہ تھند لباس۔ تھہ چھوہ تھند لباس آکھہ اک سدس بدنس سیت متصل ملیتھہ لباسک
 پاٹھہ یا آکھہ اک سدس سرس سر پوش تہ ستر۔ ہتھہ پاٹھہ لباس چھوہ بدنس سنز کران بدنک عیب پوشیدہ
 تھوان عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ اللہ تعالیٰ اس آس خبرے کہ تھہ کمر و خیانت
 پنہ نین پانن یعنی خدایہ سدس کھس مخالفت کر نہ سیت کر یو کہ گنہگار پن پان۔ تو پنہ سپد و نادم تہ پشیمان۔
 پن معذرت کمر و پیش۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس اللہ تعالیٰ ان کو توبہ تھند، معذرت تھنر قبول وَعَفَا
 عَنْكُمْ تھندین گو نھن کو رن عفو فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ پس دوون کمر و نزدیک پنہ نین زمانن سیت ماہ
 رمضانہ چن راتن اندر بلاترود وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ژھانڈو تہ حاصل کمر و تہ بے اللہ تعالیٰ ان از لہ

يَتَّبِعَنَّ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
 ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتِّهِمُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۹﴾

تہمدہ خیرہ لیو کھمت آسہ یعنی اولاد۔ امہ اندرہ در او کہ زنان نشہ نزدیکی کرنہ اندرہ گروہہ آسن قصد بقائی نسک محض۔ نفع خواہش پورہ کرنی یوت نہ ای چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہ وقتہ بن امتہ تم دعا پیکہ ناؤ مرثتم اتہ مقصدس مناسب چہہ بسم اللہ۔ اللہم حَبِّنَا الشَّيْطَانَ وَحَبَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔ متفق علیہ اللہم لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنَا نَصِيبًا (مصنف عبدالرزاق بحوالہ فتح الباری)۔ امیوک معنی گو پروردگار اسہ دوشون باژن تھاوشیطانس نشہ دور۔ بیہ یہ ثیہ اسہ عطا کرت اولاد تس تشہ تھاوان شیطان دور۔ پروردگار ایہ ثیہ اسہ عطا کور تہ یعنی اولاد۔ تہہ منزہ تھاوشیطانہ سدا کا نہ حصہ۔ **وَكُلُوا وَاشْرَبُوا** بیہ کھیوتہ چہوماہ رمضانہ کین شمن اندر **حَتَّى يَكْبِتَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ** توتان یوتان مشرقہ کہ طرفہ ظاہر آسہ سپدان توبہ صبح صادق سفید دھاوہ کرہنہ دھاوہ نشہ یعنی شبہ چہ تاریکی نشہ آسہ صبح صادق سفیدی ننان **ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ** توتہ آسوروزہ داری پورہ کران شامس تان بس ابتدا ہی شب چھو **وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ** بیہ مہ آسوپنہ نین زنان نزدیک سپدان نفع خواہش پورہ کرنہ خیرہ ہاشوت معانقہ کران۔ تھس ژپنہ ہیوان یا مونہ میٹھہ کران یلہ تہ مجدہ اندر اعکافس روزان آسوادہ سوا اعتکاف ماہ رمضانس اندر آستن یا بین رتین اندر آستن **تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ** تہم چہہ نشانہ خدایہ سدا مقرر کر مت **فَلَا تَقْرُبُوهَا** بس مہ سپدو یمن نشانہ حدن نزدیک۔ **مَوْجِدُو** نشہ دلچ چہہ کہتہ **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتِّهِمُ لِلنَّاسِ** تہہ پاٹھہ چھو اللہ تعالیٰ نر اتھہ بیان کران آیات پن لوکن ہمدہ اصلاح خیرہ **لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ** تہہ تم خدایہ سنزونا فرمایو نشہ کچن۔ تہ پتھہ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٤﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ

روزن۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ یہ مہ کھینچو مال کھہ اسدناحق تہ حرام طریقہ
ثور، خیانت، غصب کرنہ سیت زارگندہ سیت یا عقود فاسدہ کرنہ سیت یعنی تم معاملہ کرنہ سیت تم
شر عس اندر ناجاز چھہ۔ تم گے پھلیہ اندرے ٹھیکہ کرن ہی چیز۔ پیدہ سپدہ نہ بروٹھے خریدو فروخت
کرن ہیو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ یہ مہ آسو آپز مقدمہ نوان حاکم نشہ لِنَاكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ہتھہ حاکم نشہ مقدمہ زینت لوکن ہندمال کھیوان آسو بظلم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
زارتھہ کمرتھہ یعنی توہہ آسہ خبری ہندہ لہزہ دعویٰ آج۔ تہ لہزہ مقدمہ
پرژھان چھہ توہہ لوکھ ہلالن ہندتم کیا زہ چھہ یک آسان توپتہ بڈان بڈان زون سپدان توپتہ یہ پتہ نپس
حالس پٹھہ واتان۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ہتھہ فرماؤ کہ توہہ کیاہ پٹھو یمن تھن
سیت۔ ہتھہ بوڑو سوکھتھہ ہتھہ سیت توہہ تعلق پٹھو۔ یم ہلال چھہ نشانہ لوکن ہندین معاملاتن ہندہ
خیطرہ۔ مثلاً مزورن ہنزہ مزورہ۔ زنانن ہندہ عدتک حساب مدت حملک حساب۔ مدت رضاع و فصال
یعنی دود چھنک تہ ژٹنک حساب۔ روزہ داری۔ زکوٰۃ بیہ جگ وقت معلوم سپدہ خیطرہ نون تہ صاف
حساب قمری حساب ہلالو سیت معلوم سپدان پٹھو۔ کفار مکہ آس احرام گڈت گزن اندر کتھہ ضرورتکہ
وقتہ دروازو کن اژن گناہ زنانن لہذا آس گزن ہند یو پٹھو کن دیوار ژٹھتھہ یاد یوار کن گرن منز اثران۔ اتھہ کور
اللہ تعالیٰ ان ردِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا یہ چھنہ نیکی تہہ کیاہ ایو گرن
منز گرن ہند یو پٹھو کن بلکہ چھہ یہ زمانہ جالپتج طریق وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ بلکہ نیو کار گو سوی نپس

وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۸۹﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۹۰﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ

خدا ایس کھوڑہ وَاَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا بلکہ ایو گرن منز گرن ہند یو دروازو کن۔ پانے پنے خیالہ کانہہ کتھاہ گوناہ زانن یہ پھو خلاف اسلام۔ نیکی گنیہ سوی سمیک حکم خداین تہ پیغمبر خداین کورمت آسہ بدی گنیہ سوی سمہ نشہ تمبو ممانعت کمر مژ آسہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کھوڑو خدا ایس تمی سیت سپد وچہہ رستگار تہ کامیاب دون عالمن منز وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جگ کرو جگ تیری کمر و خدا یہ سزہ وتہ منز تہند دین بلند کرنے خیطرہ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ تہن سیت تم سیت توبہہ سیت جگ کران چہہ، جگ تیری کران چہہہ وَلَا تَعْتَدُوا وَادُو کانہہ پٹھہ مہ کمر و زیادتی، لوکت، زنانہ تہ بدہ مہ ماریو کہ قصد سبزل مہ ژئیو کہ، زراعت مہ کمر وتاہ تہ بر باد عمد شکنی مہ کمر و اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ پسند کران حدہ ڈلہ و نینن وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ہر گاہ توبہہ تہن سیت کانہہ عمد و بیان آسہ نہ تلہ یتنس تہہ تم لیوکھہ تہنس ماریوکھہ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ نیبر کڈیوکھہ تم تہمہ شہرہ اندرہ بیمہ شہرہ منزہ تمبو تہہ نیبر کڈہوہ پروامہہ بروکھنہ کیاہہ تم چہہہ فتنہ و فساد کران۔ کنس خدا ایس شریک ٹھراوان وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ تہنہ فساد تہ شرک چھو قتلہ خونہ زیادہ مشکل وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ تہہ مہ کرو جگ تہن سیت مسجد حرامس نزدیک یوتان نہ تہہ تورہ جگ

فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ قَاتِلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ
 الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹۱﴾ فَإِنْ اٰنْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۲﴾
 وَقَتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ
 لِلّٰهِ فَإِنْ اٰنْتَهَوْا فَلَا عُدُوَانَ اِلَّا عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹۳﴾
 الشّٰهُرُ الْحَرَامُ بِالشّٰهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ
 اَعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

کرنس ابتدا کرن مسجد حرامس منز **فَإِنْ قَتَلْتُمْ قَاتِلُوهُمْ** ہر گاہ جنگ کرنس اندر تموی شروع کور
فَاقْتُلُوهُمْ تیلہ مار یوکھ تہہ تہ تہے **كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ** کیا زہ یو ہے چھو سزا کافرن ہند۔
فَإِنْ اٰنْتَهَوْا ہر گاہ تم لمہ پتہ شرک و کفر ہ نشہ ہتھ روزتھ مسلمان سپدن تہ توبہ کرن **فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ**
 پس بخشہ اللہ تعالیٰ تم کیازہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ بخشہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون **وَقَتِلُوْهُمْ حَتّٰى**
لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ بیہ کرو تم سیت جنگ تو تاتان کہ فتنہ تہ فساد روزہ نہ کمنہ۔ شرک سپدہ معدوم
وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ پرستش تہ اطاعت بیہ کرنہ خدایہ سزای یاثر **فَإِنْ اٰنْتَهَوْا فَلَا عُدُوَانَ**
اِلَّا عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ پس اگر تم ہتھہ روزن شرکہ نشہ فتنہ و فسادہ نشہ۔ پس چھنہ زیادتی کرن جائز
 ظالمن ورائی کانسہ بیٹھہ۔ **الشّٰهُرُ الْحَرَامُ بِالشّٰهُرِ الْحَرَامِ** تعظیمک رت چھو مقابل تعظیمکس رتس
وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ تعظیمک چیز چھہ اولہ بدلہ۔ یعنی بروٹھمہ ورہہ یلہ تہہ آئے وہ عمرہ کرنہ خیطرہ
 ماہ ذی القعدس اندر ممو کافر و رتوہ تہہ ہتھہ عمرہ کرنہ نشہ۔ خدیبیہ نشہ ڈیت ہوہ نہ بروٹھمہ پخنہ۔ ہتھہ
 موقس پیٹھہ اوہ صلح خدیبیہ سپد۔ پتہ آوہ تہہ دو سمنہ ورہہ عمرہ القضا کرنہ خیطرہ اتھہ ماہ ذی القعدس
 اندر مگر تہہ چھوہ اندیشہ کرن ماہ ذی القعدس اندر جنگ کرنس اندر۔ ہتھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ احکام
 فرماوان۔ ہر گاہ تم توبہ تعظیم کین ریتن اندر تعظیم کین جاین اندر اوہ مقابلہ کرنہ خیطرہ کین تہہ
 مہ برو کانسہ پروا۔ تمہ تہ کرو تم سیت خوب مقابلہ **فَمَنْ اَعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدٰى**

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۴﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۵﴾ وَاتَّبُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ

عَلَيْكُمْ نَسْ نَسْ حده ڈلہ توبہ پیٹھ نَسْ تہہ تہ ڈلو حده تس پیٹھ تہہ ہن ایشہن سوحده ڈولمت آسہ
وَاتَّقُوا اللَّهَ تہہ کھو ڈو خدا نَسْ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ یقین زانو کہ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ چھو کھو تہہ
وین سیت یاری تہ مد کرنہ خیطرہ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ کرو خرچ مال پن خدایہ سزہ دتہ
اندر دشمن سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ ہیو منل جنگ سامان۔ تھر وے اتھومہ آسو جہاد کرنہ نیران۔ سو
گوپان پن پائے ہلاکتس منز تراون وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ مہ آسو پن پان پنہ نیو اتھو
ہلاکتس منز تراوان مال خرچ نہ کرنہ سیت۔ ماس اندر تھین موقعن پیٹھ نخل کر تک انجام چھو ہلاکت
تہ تباہی وَأَحْسِنُوا کام آسو عتہ تہ مضبوط کران إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ اس
چھہ پندر ژ کام تہ پختہ کام کرہون وَاتَّبُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ پورہ کروچ تہ عمرہ خدایہ سندہ خیطرہ
یعنی بلہ حج یا عمرک احرام گذان آسو سو آسو با تمام و اتناوان منزے مہ آسو احرامہ نشہ نیران بلا وجہ
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ہر گاہ تہ بند ایو کرنہ، پتھہ ایو رٹنہ، کانہہ دشمن یا بیماری رٹہ توبہ پتھہ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ پس چھو لازم توبہ قربانک جانور نَسْ توبہ میسر سپدہ ذبح کرنہ خیطرہ سوزن وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ بیہ مہ کاسو کلن مس یعنی احرامہ منزہ مہ نیر و توتان یوت تان نہ
قربانک جانور پنہ چاہیہ وائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا پس اگر توبہ منزہ کانہہ بیمار آسہ اَوْ بِهِ أَذًى مِّن
رَّأْسِهِ یا آسپس کس کینہہ تکلیف یہ سبہ مس پَسْ کاسن سو کاسن مس تہ دین فدیہ فِدْيَةٌ مِّن

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي السَّجْدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا

صیامِ اَوْصَدَاقَةِ اَوْسُكِ پس جھوٹس پیٹھہ فدیہ دین، ترین دوہن روزہ دار روزان یا صدقہ کرن شین مسکین کھین دین یا ٹھہ یا ژھاول ذبح کرن **وَإِذَا أَمِنْتُمْ** پس یلہ توہمہ تمو چیز ونشہ امن وامن سپدہ **فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ** پس لیس اکھاہ عمرہ چو کا میونشہ فارغ سپدت حجک احرام کنڈہ یعنی تیج کرہ **فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ** پس جھوٹس پیٹھہ لازم ذبح کرن پس جانور میتر سپدیس **فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ** پس لیس اس نہ جانور میتر سپدہ تس جھومطہ ترین دوہن روزہ دار روزان حجہ کین دوہن اندر **وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ** بیہ ستن دوہن حجہ پتہ یلہ واپس ہیومن **تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ** تے گے پورہ دہ دوہ۔ **ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي السَّجْدِ الْحَرَامِ** بیہ حکم گو تمن یم نہ کی آسن بلکہ آسن آفاتی **وَاتَّقُوا اللَّهَ** بیہ کھو ژو خدا لیس بیٹھہ نہ تھدین کمن خلاف کرو **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** بیہ زانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جھو سخت عذاب کرہ ون احکامن ہنز مخالفت کرہ ونین **الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ** حجک موقعہ جھو کبھنہ ریتھہ تم مقرر چھہ شوال ذی قعدہ تہ ذی الحجک دہ دوہ **فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ** پس لیس اکھاہ یمن رتین حج کر نہ خیطرہ احرام کنڈہ **فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ** پس گڑھہ نہ زنانن سیت نزدیکی کرن یا تھہ متعلق تھہ باتھہ کرن نہ گڑھہ بدکاری تہ خلاف شرع کا نہ کام کرن۔ نہ گڑھہ پانہ وان ہرہ ہر تہ لایہ لای کرن اتھہ حجہ کس زمانس اندر۔ **وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ** یوسہ خیر حج کا ماہہ کران جھوہ بدنی عبادتو اندرہ یا مالی عبادتو اندرہ تہ سوڑی

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿۱۹۲﴾
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ
 فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ
 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ
 كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿۱۹۳﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِمَّنْ
 حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلنَّاسِ ۖ إِنَّ اللَّهَ

چھوڑانان اللہ تعالیٰ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ بہ آسووتہ خرچ تانان سیت۔ پچھان پچھان
 مہ آسوج کرنہ نیران۔ بیشک رت و تہ خرچ گو تقویٰ لیس بیس اتھہ دارنہ نشہ بچاؤہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ
 الْأَلْبَابِ مے یوت کھوڑوای عقلہ والیومہ کرو میانین حکمن ہنز مخالفت لیسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
 تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ توبہ چھونہ کانہہ گوناہ ہر گاہے ہتہ ججس موقع پیٹھہ کسب گرتھہ، مزدور
 محنت کرتھہ یا تجارت تہ کاروبار کرتھہ تلاش کرو معاش پُئن پنہ نس پروردگارہ سندہ فضلہ اندرہ۔ عام
 خیال نیس لوکن ہند چھو کہ سفر جس اندر گھونہ منہ قسمہ کسب و کاریا تجارت تہ کاروبار کرن اتھہ خیال
 چھو اللہ تعالیٰ صریح طور رڈ کران فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ
 الْحَرَامِ ادہ یلہ ہتہ میدان عرفاتہ نشہ واپس پیویئن نیس کرو خدلیہ سندیاد میدان مزدلفس نزدیک
 تھہ راتس یعنی عید ہندس شمس روزو میدان مزدلفس اندر خدلیہ سندیاد کران (مشعر حرام چھو میدان
 مزدلفس اندس پیٹھہ اکہ کوہک ناو) وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ خدلیہ سندیاد کرو ہتھہ پاٹھہ تم بیان
 کورنو یعنی لیک لیک پرولالہ اللہ پرود عاکرو۔ یا گو معنی خدلیہ سندیاد کرو کیازہ تم کورودہ ہدایت،
 تم ہادوہ و تھہ ججمن احکامن کن وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ورنہ آسوناتوہ تسمندو تھہ
 ہاونہ بروٹھہ گمراہو اندرہ، و تہ ڈلتیو اندرہ۔ یا گو معنی پزپاٹھہ آسو ہتہ اس رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم سندہ تشریف انہ بروٹھہ و تہ ڈلتیو اندرہ ثُمَّ أَفِيضُوا مِمَّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ تو پتہ بیو

عَفُورٌ سَرَّحِيمٌ ﴿۹۹﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
 فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا فِىنَ
 النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا
 لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلٰقٍ ﴿۱۰۰﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ
 رَبَّنَا اتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

واپس تمی جایہ پیٹھے سیمہ جایہ پیٹھے ساری کوکھ واپس آئے یعنی میدان عرفات پیٹھے، قریش ہند پانچ ماہ
 آسو عرفاتس منز سارنی لوکن سیت سمن توپتہ تتی پیٹھے سارنی لوکن سیت واپس سمن عازنانان۔ تم
 قریش آس پن پان تھوز انتھہ مزدلفہ پیٹھے واپس یوان۔ تمہہ نشہ فرماواللہ تعالیٰ ان ممانعت۔
 وَاسْتَعْفُرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ سَرَّحِيمٌ ججین حکمن اندر جالبیتکین رسمن پیٹھے عمل کرنس
 پیٹھے منگو خداپس مغفرت پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون فَاِذَا
 قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ادہ یلہ تہہ موکلاوان آسونینہ جہہ کاتہ یعنی وڈر ہندکتہ پھل تراوتھہ،
 مس کاتھہ، طواف زیارت کرت آسو موکلاوان فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا پس
 آسو خدایہ سندیاد کران۔ تھہ پانچ ہتہ مالین بڈین ہندیاد کران آسوہ بلکہ تمہہ خوتہ زیادہ آسو خدایہ سندوی یاد
 کران۔ اتھہ موقس پیٹھے چھونہ کانسہ ہندیاد کرن لازم خدایہ سندہ یادہ وراہی۔ مالین بڈین ہندہ سیت فخر
 کرن چھو بے سودتہ بے فائیدہ۔ پدرم سلطان بودونہ نک جواب چھو ٹراچہ۔ قبرہ منزہ لیہ نہ پڑھنہ
 پدرت کیست۔ تھتہ پیہ پڑھنہ عملت جیست فِىنَ النَّاسِ پس چھہ لوکواندرہ بعضے مَنْ يَقُولُ
 رَبَّنَا اتِنَا فِى الدُّنْيَا سم دنان چھہ ای سانہ پروردگارہ اسہ کر عطاد نیاس اندر رتوی تم چھہ
 ژھانڈان فقط دنیا کوئی مطلب وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلٰقٍ ہندہ خیطرہ چھونہ آخرتس اندر
 کانسہ حصاہ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ لوکواندرہ چھہ بایمان سم دپان چھہ، منگان چھہ رَبَّنَا اتِنَا فِى
 الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ای سانہ پروردگارہ اسہ کر عطاد نیاس اندر رتہ رتوی آخرتس

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۶۱﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
 وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۶۲﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي
 أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ
 عَلَيْهِ ۖ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ
 الشَّقِيُّ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۶۳﴾

اندر تیر تو می و قِنَا عَذَابَ النَّارِ به بجا و اسه عذابہ نشہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تمن نشہ
 چھو نقل کرنے آمت کہ تمو فرمود حسنه دنیا گیمہ نیک زانہ حسنه آخرت گیمہ حور عین۔ عذاب نار گو
 خراب زانہ۔ بد خوی۔ بد شکل و صورت تیز کلام کرہ و ن اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا یے لوکھ
 گے تم تمین ہندہ خیطرہ بوڈ حصہ چھو تمن نیکن ہند سمہ تمو حاصل کرہ تمنی نیکن ہند ثواب کریمہ
 عطا ذرہ حساب بوز تمہ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ و ن۔
 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ بیہ کرو اللہ تعالیٰ سُنْدِیاد گمز ارانہ آستین دوہن اندر۔ تمو
 اندرہ چھہ مراد ایام تشریق قربان کر تک دوہ۔ تمن دوہن اندر آسو تکبیرات پران اللہ اکبر اللہ اکبر
 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد، فرض نمازہ پتہ بیہ تمنہ و رای تہ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
 یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ یس اکھاہ جلدی گرہ منی منزہ و ایس یس اندر۔ دوئی دوہ بیہ و ایس تس چھو
 نہ کانہ تصور وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ یس برابر ترین دوہن منی اس منز روزت تر سمہ
 ڈہک کنہ پھل تہ تراو تمہ و ایس بیہ تس تہ نہ کانہ تصور لِمَنِ الشَّقِيُّ یہ گو تس یس خدا یس کھو ڈہ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ کھو ڈہ ہمیشہ ای مسلمانو اللہ تعالیٰ اس یقین تھاو کہ
 بیشک نہہ ساری ایو تس نشہ جمع کرنے تہ سو مرانہ قیامتہ دوہہ محشر کس میدانس اندر و مِمن النَّاسِ مَنْ
 يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لو کو اندرہ چھو تر سم قسم یمن ہند ظاہر چھو اکھہ باطن چھو بیاکہ زیو چھ
 اکھ دل چھو بیاکہ۔ برو نکھ کنہ چھہ اکھ ہتھ پتہ کنہ چھہ بیہ ہتھ۔ اکھ قسم گو لو کن ہند سم دنیا تر ہانڈان،

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
 اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۲۴﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى
 فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ
 لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۲۵﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
 الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْيَهَادُ ﴿۲۶﴾ وَمِنَ

آخر حج چھکنہ کا نہ فکر۔ بیکہ قسم گوتم دنیا تہ چھہ ژھانڈان آخرت تہ چھہ ژھانڈان ترسم قسم گوتم
 ظاہرہ پاٹھ چھہ نر او ان دنیا نشہ بیزاری تہ آخر تک خیال۔ بہنرہ چھہ تھہ توہ یار رسول اللہ عجائب چھہ
 بوژنہ یوان دنیا چہ زندگی متعلق۔ چنانچہ اخس بن شریق ثقفی منافق اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نشہ یوان تو پتہ چھہ تہ مدرہ تھہ کر کر تہن پن سچائی بہناونچ کوشش کران **وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ**
 خدا ایس اوس گواہ پیش کران پنہ دلہ کس حاکس پیٹھ۔ اللہ تعالیٰ اس اس خبرے جہند حال کیاہ چھو۔ سو چھو
 فرماوان **وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ** حقیقت چھہ یہ کہ سو چھو تھہند سخت دشمن۔ تھہندین پیرون ہند سخت دشمن۔
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ امہ پتہ یلہ توہہ نشہ نیران چھو،
 کوشش چھو کران شہرس منز فساد کرنچ۔ یہ تباہ کران زراعت تہ چارواں لوکن ہند۔ چنانچہ یوہے منافق
 اخس بن شریق یلہ اکہ دوہنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ کبہنہ کالاہ تھہ کرت دراؤ۔ نیہر نیرتھہ
 دین نار غریب مسلمان ہندس زراعتس بیہ مارن جہند چارواں تہ گین **وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ** اللہ
 تعالیٰ اس چھو نہ پسند فساد **وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ** تو پتہ یلہ تہس و نہ چھو یوان خدا ایس کھوژ لوکن مہ
 واتاوا نقصان **أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ** آمادہ چھو تہس کران سبخر تہ نخوت زیادہ گناہ کرنس پیٹھ
فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ تسدہ حقہ چھو بس نار جہنم تھہ منزواتھہ ہمہ تہس سو سبخر تہ عر و رک نار **وَلَبِئْسَ**
الْيَهَادُ کاژاہ چھہ جای آراج چھہ سو جہنم **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشِيرِي نَفْسَهُ** بیہ چھو لوکو اندرہ
 ژورسم قسم یم پن پان کنان چھہ **ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ** خدا یہ سدر رضا ژھانڈنہ خیرہ **وَاللَّهُ**

التَّاسِ مَنْ كَثُرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ
 اللَّهُ رَأُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۹۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۹۳﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ

رَأُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ چھو تھیں بندن پیٹھے سیٹھاہ مہربان
 فِي السَّلَامِ كَافَّةً اے باایمانو داخل سپدو اسلامس اندر پور پور۔ اسلامک ساری حکم ابو بجاؤ حکم
 مانہ تہ اڈین حکم پیٹھے نہ عمل کرن یہ چھہ یسودن ہنز طریق مسلمان گو سوی ٹیس سارنی حکمن گردن
 دارہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ پتہ پتہ مہ چکو شیطانہ سنڈین پدین دورنگی تہ نفاق تراود۔
 اسلامہ کین حکمن سیت مہ ملہ ناو پندہ خیالہ یا شیطانہ سندہ وسوسہ سیت بدل احکام إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
 مُبِينٌ پزپاٹ شیطان چھو تہند نون دشمن۔ ہتھہ آہیہ کر سمس منز چھو اللہ تعالیٰ بدعتہ چین کا میں رد
 کران پتھس آہیہ کر سمس اندر آس مخلص بندن ہنز تعریف۔ بعضہ وقت چھو مخلص بندہ تہ افراطس
 گرفتار سپدان۔ سو چھو پندہ خیالہ کانہہ رژکاماہ کران مگر سو چھہ شریعتس تہ سنتس موافق آسان۔ یوسہ
 کام نہ سنتس موافق آسہ تھہ چھہ ونان بدعت۔ یودی دینس منز آس بڑ وار اٹھہ تعظیمک دوہا۔ چنانچہ
 حضرت عبداللہ بن سلام تم یسودن ہندیو عالمہ اندرہ آس تم آس اسلام اتھہ تہ اتھہ دوہس تعظیم چہ
 نظرہ وچھان۔ بیہ اوس یسودتیس منز وونہہ ماز حرام تہ حضرت عبداللہ بن سلام آس نہ اسلام اتھہ تہ
 وونہہ ماز کھیوان اتھہ منز آس زانان پندہ خیالہ خدلیہ سز اطاعت۔ اللہ تعالیٰ ان کور اتھہ خیالس اصلاح
 فرموان اے باایمانو اسلامک ساری احکام ابو بجا۔ سمہ آہیہ کر سمسک معنی تہ تفسیرہ سیت چھو ظاہر
 سپدان کہ بدعتہ چین تہ خلاف شرع کا میں اتھہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ مذمت تہ رد فرماوان حدیث شریفن
 منز چھو وضاحتہ سان بدعتہ چین، خلاف شرع تہ خلاف سنت کا میں ہنز مذمت بیان کرتھہ سخت وعید
 بیان کرنہ اُمت حقیقتس اندر چھو بدعت سیٹھاہ مذموم چیز۔ کیا زہ بدعت گو غیر شریعتس شریعت

بَعْدَ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ ﴿۹۹﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي
 ظُلْمٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۱۰۰﴾ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ

بنوان۔ شریعت گوئی یہ خدایہ سیدہ طرف آسہ۔ یہ حضرت شارح اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدایہ
 سیدہ طرفہ اوئمت آسہ۔ دونوں کس شخصہ پنے طرفہ کانہہ چیزہ نور اوہ کس نہ شر عس تہ شمس منز آمت
 آسہ تہ گو خدایس پیٹھہ افتراء کرن اپز نور اون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کس خدایس
 پیٹھہ اپز نور اوہ تس برابر چھو نہ ظالم کانہہ۔ زیادہ مشکل چھو یہ کہ اس بد عیج کام کرہ و کس چھو نہ توبہ
 کرنک توفیق تہ بنان کیازہ اس چھو نہ امہ کامہ ہندہ گناہ آسک احسای سپدان زانہ سو چھو زانان
 بو چھوس یہ کام رثا کران۔ حالانکہ یہ چھہ سر اسر نافرمانی تہ گناچ کام قَانِ زَلَلْتُمْ پس ہر گاہ تہند قدم
 ڈلہ تہ ثابت رودنہ اسلامس پیٹھہ یعنی تہہ کزونہ اسلامہ کین ساری احکاسن پیٹھہ عمل و سِنَ بَعْدَ مَا
 جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ توبہ اسلامہ مذہب حق آسچہ نہ دلیلہ واتنہ پتہ ادہ تمبوک نقصان چھو نہ کانہہ
 اس دمو خلاف اسلام کامہ کرہ و نین ضرور سزا فاعلموا ان الله عزيز حكيمة تہند گڑھہ زانن وارہ
 پاٹھہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو زبردست حکمت و ول هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْمٍ مِّنَ
 الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ چھہہ پراران تم مگر اتھہ تھہ کہ اللہ تعالیٰ تہ تہند ملائیک گڑھہ واتن تم نشہ
 سفید ابرہ کین سائبانن منز تم سزاد نہ خیطرہ وَقُضِيَ الْأَمْرُ بِیہ گوٹھہ قصی ختم سن کرنہ۔ یعنی
 جزاء و سزا ک قصہ کس قیامتہ وہہ طے کرنہ پتہ۔ سو گڑھہ دنیا ساری منز طے کرنہ سن۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
 الْأُمُورُ اللہ تعالیٰ س کسین سارے کامہ واتاونہ۔ ساری مقدمات پیش کرنہ۔ سو ی گڑھہ پائے ساری
 امرن ہند فیصلہ بانبران کیازہ چھہہ یم۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ اتَيْنَهُمُ مِنَ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ
 پر تھو تہہ بنی اسرائیلن اسہ کاژاہ نہہ دلیلہ کرہ تم پیش ہدلیتہ چہ، سمہ تہندہ خیطرہ جہ نعمو آسہ مگر

اتَيْنُهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾
 زِينِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
 مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَدْ

تموزان نہ تمن نعمن ہنز قدر تموبدلاوہ تمہ نعمو کفرس سیت وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ وَنَسِ الْكُفْرَ الَّذِي كَفَرَ بِهِ سَمِعَ اللَّهُ نِدَائِهِمْ وَأَعْتَفَ
 عَنْهُمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اده اللہ تعالیٰ تہ چھو سخت عذاب کرہ ون تس سوسزایہ دنہ تس
 دنیا سی اندر یا آخر تس اندر زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دنیا ج زندگی چھ کافرن
 مزین تہ خوبصورت بوزنہ یوان وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا توے چھہ تم مسکین تہ فقیر
 باایمان تسنہ کران تہ ٹھہہ کران وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حالانکہ سم لوکھہ
 خدائیس کھوژ تہ شرکہ نشہ ہتھہ رُود تم آسن قیامتہ دوہہ تمن پوٹھہ کنہ سیٹھاہ تھدین مرتبن اندر
 اعلیٰ علیس اندر۔ انسانس پزہ نہ مال و دولتہ سیت مغرور سپدن کیا زہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ
 حِسَابٍ اللہ تعالیٰ چھورزق عطا کران یمن یشھان چھو حسابہ روستوی۔ امیک دار و مدار چھو
 قسمتس پوٹھہ۔ امیک دار و مدار چھونہ کماکس تہ مقبولیتس پوٹھہ۔ یعنی یہ چھونہ ضروری کہ کس مال و
 دولتس اندر بوڈ آسہ سوی چھو اللہ تعالیٰ اس نشہ مقبول تہ مقررے۔ بدکتھہ چھہ خدائیس نشہ
 مقبول آسن تھہ چھونہ مالس سیت تعلق کنہہ تہ سو چھوٹنہ وقتہ فقیرس مالدار بناوان تہ کنہ وقتہ
 مالدارس فقیر تہ محتاج بناوان۔ چنانچہ یے فقیر صحابہ صیب یمن سم کافر مالدار ٹھہہ کران
 آس بناو اللہ تعالیٰ ان بنی قریظہ تہ بنی نضیر کہ مال و دولتک، سیہ روم تہ فارسین یمن یمن سلطنت
 ہند مالکِ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اکھ زماناہ اوس ساری لوکھہ آس اکسی دینس پوٹھہ۔

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا
فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۱﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ

کیا زہ گوڈنی آے دنیاں منز حضرت آدم بیہ تہند باثر حضرت حوایین سم اولاد زائے تمن آس
حضرت آدم علیہ السلام دین حق تعلیم دوان تم آس تمہہ تعلیمہ موجب عمل کران، اکس مدتس
تال رودیہ سلسلہ تھے پاٹھے پکان تو پتہ پیو طبعی متن منز اختلاف تمہہ سیت پیو اغراض اندر تہ اختلاف
تو پتہ پیو کہنہ کالاہ گڑھتھہ عملن تہ اعتقادن منز تہ اختلاف فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ سوا اختلاف دور کرنہ خیطرہ سوز اللہ تعالیٰ ان تمن کن پیغمبر بشارت ودہ ون پڑتھہ
مانہ ونین تیم کرہ ون پڑس انکار کرہ ورنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بیہ سوزہ تم تمن سیت پنہ
کتاہہ یمن منز پوز اوس لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ تھہ سو تمن کتابن تہ پیغمبرن
ہندہ ذریعہ فیصلہ کرہ تمن معاملن ہند یمن منز یمن لوکن اختلاف اوس وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
أُوتُوهُ اختلاف پوونہ تھہ اندر مگر تموی یمن سو کتاب دنہ آس امرُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ نن تہ واضح احکام تمن نشہ واتنہ پتہ بَغْيًا بَيْنَهُمْ پانہ وان اکھ اکس پیٹھہ سر کشی کر نکہ
سبہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا پس کور ہدایت اللہ تعالیٰ ان باایمان لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
بِإِذْنِهِ تھہ پڑہ تھہ کن تھہ منز تمن اختلاف اوس پنہ حکمتہ سیت وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ اللہ تعالیٰ جھووتھہ ہوان یمن یڑھان چھو سیزہ وتہ کن۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَ
لَتَأْيَأَنَّكُمْ مِثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ای مسلمانو کیاہ توہہ جھوہ گمانہ تہہ کیا اثر و جنس

وَلَمَّا يَا تِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ
 الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَرُبِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ
 قَرِيبٌ ﴿۲۱۳﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ
 خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۱۴﴾

مختہ وراى۔ حالانکہ وہ وات نہ توہہ تہہ تکلیف تہہ تکلیف برو تھمین مسلمانن واتمت چہہ
 مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ رُت تگی تہ فقرن بیماریوتہ سختی۔ وَرُبِلُوا بِبَلَايُوتہ مصیبتوسیت آى
 تم دونوتہ الراونہ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يوت پٹھہ واتر نوبت کہ تمہ
 و تھک پیغمبرتہ بیہ تم تمن سیت با ایمان آس ساری لگ و نہ۔ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ کرسنا واتہ مدد خدا
 سمیک اسیہ وعدہ چھو امنت کرنہ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ جواب آھ دنہ خبر دار روزویاری تہ
 مدد خدا چھو نزدیک واتہ و ن یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ پر ژھان چھہ توہہ یار سول اللہ با ایمان خرچ
 کیاہ کرو کوتاہ کرو۔ کس پٹھہ کرو قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فرما یو کھہ یہ کینہ ہا ہنہ خرچ کرو مالہ اندرہ
 کم یا زیادہ فَلِلَّوَالِدَيْنِ پس گڑھہ گوڈہ وین ماس ماجہ یلہ تم محتاج آسن وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ بیہ آشناون بیہ تیمن تمن نہ مول آسہ بیہ مسکین بیہ مسافرن و مِمَّا
 تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ توپتہ یوسہ نیکیاہ کرو تہہ پس بیشک اللہ تعالیٰ آس چھہ سچ
 پورہ خبر کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ اے مسلمانو فرض آو کرنہ توہہ پٹھہ جماد ہمیشہ خیطرہ۔
 اگرچہ سو چھو توہہ ناپسندی مگر توہہ چھہ چیزن ہزنن یہ حقن پٹھہ نظر وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ
 خَيْرٌ لَكُمْ بَسَاوَات بنہ توہہ بس چیز ناپسند آسہ سو آسہ تہندہ خیطرہ رُت تہ بہتر وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا
 شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ و تہ بنہ توہہ آسہ کانہہ چیز پسند مگر سو آسہ تہندہ خیطرہ چھہ، خراب تہ مضر

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا شِئًا
 وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شِئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٧﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
 قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ
 كُفْرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ

والله يعلم وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ ای چھو سو زوی زانان جہہ چھوہ نہ زانان۔ جماد کرنس اندر اگرچہ توہمہ آستن ناپسندی، چھو پر ہتھہ حالس اندر فائدے فائدہ۔ کامیابی۔ مال غنیمت یا شہادت نہ بڈمزور۔ جماد نہ کرنس اندر اگرچہ توہمہ آستن پسندی چھہ بچہ خرابیہ اکھہ ذلت نہ فقرہ بچہ ثوابہ نشہ محرومی۔ جمادس اندر چھہ کلمہ اسلاج بلندی۔ مسلمان ہند عزت نہ سطوت۔ لہذا آسو خدایہ سدس خمس تقیل کرنس اندر جلدی کران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوزاکھہ لوکٹ لشکرہ جماد کرنہ خیطرہ۔ تمیگ امیر لشکر کوزکھہ حضرت عبداللہ بن نجش پٹن پو پھتر برادر تموکور مشرکن سیت جماد ہتھہ منز مور تمو عمر بن عبداللہ حضرمی اکھہ کافرہ۔ ماہ جمادی الثانی کہ ہتمہ دوہہ ہتھہ منز احتمال اوس ماہ رجبکہ غرہ آسک۔ اکھہ پٹھہ کور کافر و اعتراض کہ مسلمان چھہ تعظیم کین رتین منز نہ جماد جاری تھوان۔ مسلمان سپد تردد پیدہ تمو پر ژھہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ۔ ائی سپدیہ آسہ کریمہ نازل یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ پر ژھان چھہ توہمہ باایمان تعظیم کس رتیس اندر جنگ کرنس متعلق قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ نہہ فرماو یوکھہ واقعی تعظیم کس رتیس اندر جنگ کرن چھو بوڈ گوناہ بیلہ قصد ازاتھہ کرت واقع سپدہ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مگر لوکھہ خدایہ سنزہ و تہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ ہتھہ رٹن۔ خدایہ سدس گن آسس انکار کرن مسجد حرامس منز گھر نہ شرک جاری تھاون تہہ پوتل تھاون تہن ہنز پر ستش کرن بیہ تنک لوکھہ جلا، وطن کرن تمہ شہرہ منزہ کڈن یہ چھو زیادہ

اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ
 حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ
 مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٦٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

بوڈ گناہ خدا میں نشہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ زیادہ بوڈ گناہ گودین حقس اندر با ایمان ہندین دلن
 اندر شبہ ترلو تھے تم لمہ دینہ نشہ پھرن۔ بیہ تمس پٹھہ ظلم و تشدد کرن۔ بیہ کنس خدا میں شریک
 ٹھہر لون۔ یہ ہجو زیادہ مشکل کانہہ شخص مارنہ خوتہ تعظیم کین رتین اندر وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ
 حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا بیہ ہجو لومہ خوتہ مشکل کہ تم مشرک چھہ ہمیشہ توہہ
 سیت جنگ کرنگ ارادہ تھوان پنہ گمانہ۔ توتان یوتان توہہ واپس پھرہ نوہ دین اسلامہ نشہ بس دین
 توہہ اختیار کورمت ہتھوہ۔ کفر س کن، ہر گاہ یکن پلہ ہا۔ ون یلہ یہند ارادہ امہ قسمک چھہ لہذا ہجو
 توہہ لازم سارنی رتین اندر یکن سیت جہادہ خیطرہ تیار روزن۔ تعظیمک ریٹھہ آسک نہ کانہہ
 پرواہ کرن۔ لہ گھہ وارہ ہتھند خیال کرن کہ۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ لیس اکھہ توہہ اندرہ
 کافرن ہنزہ کوششہ سیت امہ پنہ دینہ، دین اسلامہ نشہ پھیرہ تمہ منزہ نیرہ یعنی مرتد سپدہ العیاذ باللہ
 فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ توپتہ مرہ کفری پٹھہ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لیس
 تم لوکھہ تم چھہ تہنزہ سارے عملہ گزھن ضائع دنیا و آخرتس اندر وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ سیکے آسن نارس منزواتن والیواندر ریٹھہ نارس اندر تم ہمیشہ روزن دزان ہاں ہر گاہ
 کانہہ مرتد سپدہ دوبارہ مسلمان سپدہ آسند اسلام ہجو قبول۔ تخر رثہ عملہ تہ دین دوبارہ اسلام
 اتھہ قبول کرنہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیشک سمولو کو

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱۸﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

ایمان بخدا الٰہ بیاہ سمو ہجرت کر بیہ سمو جہاد خدایہ سنزہ و تہ اندر کرز اولیک یرجون رحمت اللہ تم لوگھہ چھہ امیدوار پروردگارہ سندس رحمتس واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ تہ چھو تہندہ حقہ مغفرت کرہ ون رحم کرہ ون۔ یو صحابہ صیو اتھہ مذکورہ جہادس اندر شمولیت کر مرثاس تمن اوس ترزد کہ خبر چھالاسہ ما آسہ گناہ کھو حتمت تظلمہ کس رحمتس اندر جہاد کر نہ سیت۔ سو ترزد کوزکھہ اللہ تعالیٰ ان سمہ آیہ کریمہ سیت دور یسئلونک عن الخمر والمیسر پر ژھان چھہ توبہ یار رسول اللہ با ایمان شرابس تہ زارس متعلق قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس بہہ فرماویو کھہ یمن منز چھو بو ڈگناہ اگرچہ نفع تہ چھو کینہہ یمن منز لوکن ہندہ خیطرہ واثمہما اکبر من نفعیہما مگر گناہ تمن ہندوی چھو زیادہ یمن ہندہ نفعہ خوتہ۔ یہ چھو گوڈنیک آیہ کریمہ نئس شرابس تہ زارس متعلق نازل کر نہ آو۔ ہتھہ منز بیان کر نہ آو کہ سمو دو یو چیز ویعنی شرابہ تہ زارہ سیت چھو شخص وار یمن گو نمن منز گر فاقر سپدان۔ کیا زہ شراب چینہ سیت چھنہ عقل ڈنجہ روزان۔ یوسہ عقل انسان گنہہ کر نہ نشہ ہتھہ رٹان چھہ۔ یلہ عقلہ اندر فتور یوان چھو، انسان چھو گنہن تہ نافرمانین منز دروؤ دوان۔ عقل چھہ ونان تھہ رزہ یمہ سیت چار وای سنزن زنگن گنڈ (ڈنگ) چھو کر نہ یوان ادہ چھونہ سوما لکس نشہ ژلتھہ ہیکان۔ ہتھہ ڈنگ ونان چھہ۔ ہتھہ پاٹھہ چھہ عقل انسانس گنہو تہ نافرمانیو نشہ ہتھہ رٹان۔ زارہ سیت چھو مال و دولتک حرص تہ طمع پیدہ سپدان سمہ حرصہ تہ طمعہ موکھہ چھو شخص تھہ دوان تہ زورہ کران۔ لوکن ہندس حقس پٹھہ ناجائز طریقہ پاٹھہ قبضہ کران۔ امی طریقہ چھو سوار یمن گنہن گر فاقر سپدان۔ یمن دون چیزن شرابک تہ زارک نفع تہ فایدہ چھو عارضی لذتہ حاصل سپدن کم کینہہ و قس تان۔ بیہ مال حاصل سپدن زار گندت۔ سو تہ چھو عارضی پاٹھی آسان۔ کیا زہ سو چھو بے برکت جلدی ختم گدھان۔ لہذا چھو نہ یمن دوشون چیزن ہند نفع تہ فائدہ یمن ہندس نقصانس تہ ضررس مقابل کنی۔ لہذا یوت یمن منز نقصان چھو تیوت چھو نہ نفع تہ فائدہ۔ نفع تمن دون چیزن ہند چھو عارضی تہ وقتی۔ ذاتی تہ انفرادی۔ مگر ضرر یمن دون ہند چھو دائمی متعدی تہ عام۔ بعضہ صحابہ صیو تر و شراب چون تہ زار گنڈن فور امی آیہ کریمہ کہ نازل سپدنہ سیت۔ مگر بعضی روادیمہ کیو مضر تو نفعہ چنہ خاطرہ احتیاطی

قُلْ فِيهَا آتٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهَا أَكْبَرُ

تدابیر اختیار کرتے بدستور استعمال کران۔ پتہ یلہ سپد بیاکھہ آیہ کریم لیس سورہ مایدس منز چھو نازل۔ یکدم رُودساری صحابہ صیب شراب چہنہ نشہ تہ زار گندہ نشہ ہتھ۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ائِى بِالْأَيْمَانِو شراب چون، زار گندن، پوتلین پرستش کرن تہ تیرو سیت ماز تقسیم کرن تم ٹروشوے چیز چھ مردار نجس تہ ناپاک۔ تمہو چیز و نشہ روز و ہتھہ لائما یرید الشیطن ان یوقع بینکُم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلوة فهل انتم تفتہون شیطانہ چھونہ یرشان مگر توہہ منز عدوات تہ دشمنی تراوان۔ شراب چنیہ سیت تہ زار گندناونہ سیت۔ بیہ چھو شیطانہ سند غرض تمہو دو یو چیز و سیت ہتھہ رٹن خدایہ سندہ یادہ نشہ۔ خصوصاً نماز پر نہ نشہ۔ کیا زہ شراب چیتھہ چھو شخص بیہوش تہ مست سپدان۔ اتھہ حاکس منز کتھہ پاٹھہ ہیگہ خدایہ سند یاد کرت۔ یا نماز ہرت۔ زار گندہ تھہ چھو زینہ ون شخص خوش سپدان۔ اتھہ خوشی منز چھونہ تس خداتھ تیس پوان۔ لیس شخص ہاران چھو سو چھو غمگین تہ آزردہ سپدان۔ تمہ علاوہ چھو سو اتھہ فکرہ آسان کہ بیس بازس منز کتھہ پاٹھہ زینہ بو۔ امہ فکرہ سببہ چھنہ تس خدایہ سنزیاد کرنس گن یا نماز پر نس گن اتھہ وتھہ یوان۔ شیطانہ سنز چھہ کام بنان۔ اصل مقصود اوس ہتھہ آیہ کریمس منز شراب تہ زار حرام آسن بیان کرن۔ مگر سیت آی بیان کرنہ بیہ زہ چیز۔ ازالام تہ انصاب۔ ازالام چھو زارہ کیوی قسمواندرہ اکھہ قسم۔ ہتھہ پاٹھہ کہ پانزھہ شہ زن آس سمت چندہ کرت مول ہوان وونھاہ یا کانہ جانورہ تو پتہ آس تس کھش کران تہ ماران تو پتہ آسنہ رقمہ موجب تسدس مازس تقسیم کران، تم ہیوت رقم کوڈمت آسہاتس دہن تیوت حصہ نہ بلکہ آس کہنہ تیرانان یمن تیرن علامات تہ نشانہ آس آسان تھاوانہ آستے تیر آس اکس تھیلکس منز تراوان تو پتہ تھیلہ منزہ اکھہ تیراہ کڈان۔ تمی موجب اکس زنس مازدوان امہ سیت اوس اکس کم تہ اکس زیادہ حصہ واتان۔ انصاب گیہ بت پرستی۔ امہ اندرہ چھو مطلب شراب چینج تہ زار گندنج پور مذمت کرن۔ یا فرماو کھہ شراب چون تہ زار گندن چھو اتھہ سزاوار کہ تم گزہ هن بت پرستی سیت ذکر کرنہ بن کیا زہ تم زہ چیز چھہ خدایہ سندہ یادہ نشہ خصوصاً نمازہ نشہ (یوسہ نماز اسلامہ کیو تہ ایمانہ کیو شعائیر و تہ نشانواندرہ بوڈ نشانہ چھو) ہتھہ رٹان یلہ امہ موجب ایمانہ نش شخص دور پیدویمہ طرفہ چھو اس گفس تہ بت پرستی سیت واٹھہ

مِنْ تَفْعِيهَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوَ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ
 لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
 مِنَ الْمَصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۲﴾

لگان۔ امی مناسبتہ آو شراب چینس، زارگندس تہ بت پرستی منع کرنہ۔ وارہ گشہہ عقلہ والین ہند غور
 کرن کہ کوتاہ پچھہ جھو شراب چون تہ زارگند۔ اسلامس اندر جھو شرابک ناؤأم الخبائث بیہ راس
 الاثام یعنی سارنی پچھہ کامین ہنز موج تہ سارنی گنہن ہند منع تہ اصل جھو شراب چون **وَيَسْأَلُونَكَ**
مَاذَا يُنْفِقُونَ بیہ پچھہ تم پر ژھان توہہ کیا کرن خرچ کوتاہ کرن خرچ **قُلِ الْعَفْوَ** تہہ فرما یو کہہ
 بیہ پنہ نیوتہ پنہ عمیالہ کیو ذالی اخر اجا تو لغہہ بچان آسہہ **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ**
تَتَفَكَّرُونَ * **فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** کیاہ جھو اللہ تعالیٰ واضح کران تہ نہ راوان تہندہ خیطرہ پن احکام تہہ
 تہہ وارہ فکر کران آسود نیوا آخر تہ کین معاملتہ اندر **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى** بیہ جھو تم پر ژھان
 توہہ یتیم تعلق **قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ** تہہ فرما یو کہہ پر تہہ کاماہ تہنز سنبھال تہ درست کرن
 پچھہ بہتر **وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ** ہر گاہ تہہ تم پانس سیت تھینس چینس اندر، تجارتس اندر ملہ
 نا یو کہہ کانہہ حرج چھونہ۔ پن جھوہہ **بِأَيِّ جُحُودٍ** **وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ** مگر اللہ تعالیٰ جھو زانان
 توہہ اندرہ بدنیت گس جھو۔ نیک نیت تہ کوم سنبھالہ **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ** ہر گاہ اللہ
 تعالیٰ یژھہ ہا سخت تہ دشوار احکام نازل کرت کرہ ہیوہ مشفقس گرفتار مگر تم یو تہ نہ تہ **إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ**
حَكِيمٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ جھو زبردست حکمتہ وول۔ صحابہ صیوہ اندرہ کہہ صاحبہ یمن ناواوس مرشد
 بن ابی مرشد۔ تمہن آس خواہش اکس مشرک زنانہ سیت نکاح کرنج بروٹھہ پیٹھے۔ تہہ متعلق آیوہ
 سو صاحب اجازت پنہ نبی کر تہمس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان کور نازلہ یہ آیہ کریمہ

وَلَا تَتَكْفُرُوا بِالْمُشْرِكِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۖ وَآيَةٌ مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَتَكْفُرُوا بِالْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
 وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
 يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

وَلَا تَتَكْفُرُوا بِالْمُشْرِكِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ اے باایمانو نکاح مہ کرو مشرک زنان سیت یوتان نہ تمہہ ایمان
 ان و آئمہ مؤمنہ خیر من مشرکہ ولو اعجبتمکم پڑیاک مسلمان باایمان کینری چھہ بہتر مشرک آزاد
 زنانہ ہندہ خوتہ اگرچہ سو آستن حسن وجمالکہ لحاظ توہمہ پسندی وَلَا تَتَكْفُرُوا بِالْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
 مسلمان باایمان زنان مہ کرو نکاح مشرک مردن سیت یوتان نہ تمہہ ایمان ان و لعبد مؤمن
 خیر من مشرک ولو اعجبکم پڑیاک باایمان غلامی چھو بہتر مشرک آزاد مردہ سیدہ خوتہ اگرچہ
 سو آستن بیہ کمنہ اعتبارہ پسندی اُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ کیا زہ تم مشرک چھہ نادوان
 نارس کن وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ اللہ تعالیٰ چھو نادوان بواسطہ حضرات
 انبیاء علیہم السلام جنتس تہ مغفرتس کن پنتہ حکمہ سیت وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
 بیہ چھو اللہ تعالیٰ پنن احکام نراوت بیان کران لوکن۔ بیٹھہ تم نصیحت حاصل کرن و يَسْأَلُونَكَ عَنِ
 الْمَحِيضِ بیہ چھہ پڑتھان توہمہ لوکھہ حیض متعلق۔ یلہ زنان سو وقت یوان آسہ تھس حالتس
 منز چھا تمن نزدیک گدھن جائز نہ۔ قُلْ هُوَ أَذَىٰ جہہ فرماو یوکھہ سو چھہ ناکی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
 الْمَحِيضِ پس آسوا لگ روزان زنان نشہ حیضہ کس حالتس اندر۔ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ تمن
 نزدیک مہ آسوسپدان نفع خواہش پورہ کرنہ خیطرہ توتان یوتان نہ تمہہ پاک آسن سپدان۔ بلکہ
 گدھنہ مردہ سہ حیضہ کین دوہن اندر تونہ پٹھہ کوٹھہ آٹھن تان، نہ اتھہ لاگن نہ توکن نظر دن۔

الْمَحِيضَ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
 مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
 الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۳۳﴾ نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْ سَلِمْتُمْ

ہر گاہ کا نسہ شخص صحن حیضہ کین دوہن اندری نزدیکی کرت نفع خواہش پورہ کرتس پڑہ توبہ کرون، استغفار پدن کیا زہ یہ سڈ سخت گنہس گرفتار۔ امہ علاوہ چھو امس مردس جرمانہ تہ دنن سو گو کہنہہ رقم گڑھہ خیرات کرون فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ یلہ تمہہ پاک آسن سپدان۔ بس آسو تمن نزدیک یوان نفع خواہش پورہ کرنہ خیطرہ۔ مگر تمی جایہ کن تمہہ جایہ کن یک تجویز اللہ تعالیٰ ان کوروہ۔ سوگیہ سوی جای تمہہ نشہ دور روزنگ حکم کورنوہ حیضہ کین دوہن اندر۔ سوگیہ برو تمہہہ طرح جائے۔ امہ جایہ نشہ گڑھہ نہ ڈکن زاہ تہ بیس جایہ کن تہ چھو حرام تہ ناجائز ہمیشہ ہتھہ پاٹھہ حیضکن دوہن اندر برو تمہہہ طرح جای استعمال کرن حرام تہ ناجائز چھو۔ کیا زہ یمن دوہن چھہ آسان سو جای ملوث تہ ناپاک حیضک خون جاری آسنہ موکھہ۔ پتہ چھہ سو جای حیضک دوہ ختم گڑھہ تھہ پاک سپدان۔ مگر بیاگھہ تھہ پتمہ طرح فیوسہ چھہ سو چھہ ہمیشہ آسان ناپاکھے۔ مردن ہنز تہ زنانن ہنز تہ لہذا گڑھہ ہمیشہ تمہہ جایہ نشہ دور روزن۔ بیہ چھو حیضکن حالتس اندر نفع خواہش پورہ کرنہ خیطرہ زنانہ نشہ گڑھہ منزیہ خطرہ کہ مردس چھو ستر چہ جایہ تمہہ سیت ورم کھسان تہ نار گندان۔ زنانہ چھو پچہ دانہ اندر نتیقہ قصور پیدہ سپدان تمہہ سیت سہ ہاٹھہ تہ بے اولاد چھہ سپدان إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ بیشک اللہ تعالیٰ اس چھہ ٹاٹھہ توبہ کرہ ون بندہ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ بیہ چھس ٹاٹھہ صاف و پاک پاٹھہ روزن وال بندہ۔ یہود آس ونان یلہ زنانہ نشہ مردیہ برو تمہی جائے استعمال کرنہ خیطرہ مگر پشتہ کہ طرفہ تیلہ چھو اولاد یعنی شر دولہ اچھہ کرتھہ زیوان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یہودن ہند یہ خیال چھو بالکل غلط نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْ سَلِمْتُمْ زنانہ تمہزہ چھہ زراعت تہند۔ بس بیوزراعتس پنہ نس یہ پار خوش کردہ مگر جای گڑھہ آسن سوی ہتھہ منزیبول تراوٹھہ کل کھسہ۔ ادہ سہ جای ہتھہ پاٹھہ استعمال بیجو کرتھہ ہتھہ پاٹھہ۔ ذقن کرتو۔ پشتہ کن کرتو۔ لہ روزتھہ کرتو۔ بہتھہ کرتو۔ وتھہ ونہ کرتو تمیم چھوہ توبہ اختیار۔ مگر جای گڑھہ آسن

وَقَدِّمُوا الْاَنْفُسُكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ و
بَشِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۱۳﴾ وَلَا تَجْعَلُوْا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاِيْمَانِكُمْ اَنْ
تَبْرُوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصَدِّقُوْا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۱۴﴾
لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللّٰهُ بِاللّٰغُوْبِ اِيْمَانِكُمْ وَّلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۱۵﴾ لِلَّذِيْنَ يُؤَلُّوْنَ

سوی یوسہ امہ خیطرہ مخصوص چھہ سوگیئہ بروٹھہ طرحُ جائے۔ وَقَدِّمُوا الْاَنْفُسُكُمْ بروٹھہ کُن
سوزو پختہ طرفہ کانہہ رث عملاہ۔ یعنی زنانہ نشہ نزدیک سپدنہ اندرہ آسویت تھوان اولاد حاصل
کر نچ محض نہ نفع خواہش پورہ کرنہ خیطرہ۔ بلکہ آسو امیدوار روزان کہ دیوہ اللہ تعالیٰ ونہ کنہ کی وقتہ
اسہ اولاد عطا کرہ۔ کیا زہ اولاد صالح تہ چہور رث عمل۔ باقیات الصالحاتہ اندرہ آھہ چیز وَاَتَّقُوا اللّٰهَ
بیہ کھوژو اللہ تعالیٰ اس تہدین حکم مخالفت کرنہ نشہ وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ بیہ تھاو یقین بیشک
چھوہ ہتہ خدائس بروٹھہ کُن واتہ ون تس سیت ملاقات کرہ ون۔ سارنی عملن ہند حساب دنہ خیطرہ
وَبَشِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بیہ دیو بشارت خدائس کھوژوہ ونین بالیمان صلح تہ دیدار ج وَلَا تَجْعَلُوْا اللّٰهَ
عُرْضَةً لِّاِيْمَانِكُمْ اے بالیمانومہ کرو خدایہ سُن نام پاک ٹھور پتہ نین قسمن منز رثہ کامہ کرنہ نشہ
یعنی خدایہ سُن قسم مہ آسو ہوان اَنْ تَبْرُوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصَدِّقُوْا بَيْنَ النَّاسِ نیکیو نشہ ہتہ روزنہ
خیطرہ۔ پر ہیز گاری نہ کرنہ خیطرہ۔ لو کن منز صلح نہ کرنہ خیطرہ۔ مثلاً کانہہ ہادہ ہاتم خدایہ سُن قسم
نماز نہ پرنس پیٹھہ۔ یا کانہہ رث کام نہ کرنس پیٹھہ۔ حکم چھو تمند گڑھہ سو قسم پھڑاون کچ کفارت
دن۔ سہ رث کام گڑھہ ضرور کرن وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اللّٰهُ تعالیٰ چھو سو رے بوزہ ون۔ سو رے زانہ
وَلَا يُؤَاخِذُكُمْ اللّٰهُ بِاللّٰغُوْبِ اِيْمَانِكُمْ اللّٰهُ تعالیٰ رثہ نہ توہمہ لغوتہ بیہودہ قسمن پیٹھہ وَّلٰكِنْ
يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ لیکن سو رٹوہ توہمہ تمن قسمن پیٹھہ یمن متعلق
دلہ سیت ایزونہ تک قصد کورمت آسوہ۔ اللّٰهُ تعالیٰ چھو مغفرت کرہ ون تمن تم ایزہ نشہ توہہ

مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ
 عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۳۸﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ﴿۲۳۹﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا
 يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
 يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

کرن۔ اللہ تعالیٰ چھو تحمل سے زیادہ کرہ و ان لیلین یقولون من نساءہم تمن لو کن ہندہ خیرہ چھو
 حکم ہم قسم ہاؤن زنانہ نزدیک گزھن پیٹھ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ بیان گزھہہہ ہندہ ژون ریتن
 فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ پس اگر یمن ژون ریتن اندر اندر تمومر دو قسم پھر طوات زنانہ
 نیشہ نزدیک کر پس اللہ تعالیٰ چھو رحم کرہ و ان مغفرت کرہ و ان تہندہ حقہ۔ تمن چھونہ کانہہ باز
 خواست وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ہر گاہ تموملہ اندرہ طلاقہ کوی قصد کور اتھہ مدتس اندر رجوع
 کور کھہ نہ زنانہ نزدیک سپد نہ سیت فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس چھو اللہ تعالیٰ سوڑی بوزہ و ان
 تہ سوڑی زانہ و ان۔ تلہ گو یسوی طلاق اداہ پزہ نہ مردس زنانہ نزدیک گزھن نوو نکاح کرنہ و رای۔
 ایجاب و قبول تہ فاتحہ خیر نوو پرنہ و رای وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ طلاق دنہ
 آمزہ زنانہ پیارہ ناو نپنہ نین پانن یعنی نکاح مہ کرن ترین عذر ن یعنی حیض تان وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ تمن طلاقہ واجین زنانہ چھو جائیز کہ تمہ کیاہ کھن تھہ یہ
 اللہ تعالیٰ ان آسہ پادہ کور مت تہندین رحمن چہہ دانین اندر اولاد یا خون حیض کیاہہ عدتک حساب
 چھوتی موجب کرنہ یوان إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہر گاہ تمن پور پڑھہ چھہ خدلیہ سزہ تہ
 کامل یقین چھو ک ہتمہ دو ہک۔ پتم دوہ گو قیامتک دوہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا یمن مطلقہ زنانہ ہند رین، خاوند چھہ زیادہ حقدار یمن کن رجوع کرنس تہ یمن بیہ
 واپس پنے نس نکاحس منز تھونس منز اتھہ انتظار کس مدتس اندر اندر نو نکاح کرنہ و رای۔ ہر گاہ تم

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ ﴿۲۸﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مِنْ قَامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

تھے اندر نیک نیتی ہند ارادہ تھاوان آسن۔ یہ لحم اصلاح آو بیان کرنے سمہ خیطرہ کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ زنان ہند تہ چھہ نفسی حق مردن پیٹھہ، تھے مردن ہند چھہ زنان پیٹھہ
 یعنی واجب آس منز چھہ برابر۔ مردہ سُد حق چھو زنانہ پیٹھہ فرمانبرداری کرن۔ مردہ سُد عزت
 رچھن۔ تمس دس چیزس تہ مال و متاعس رچھہ تہ حفاظت کرن۔ بیہ پنہ نس پانس رچھہ کرن و وپر
 مردن سیت تعلق تھاونہ نشہ۔ تمس سیت تھہ ہاتھہ کرنہ نشہ۔ زنان ہند حق چھو مردن پیٹھہ۔ تمس
 سیت رت سلوک کرن۔ تہند اخراجات پورہ کرن۔ تمہ دیک احکام کچھہ ناوان وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بیہ چھہ مردن پنہ بین خاندانین پیٹھہ فضیلت اللہ تعالیٰ چھو
 عزتہ وول تہ حمتہ وول تمس چھو اختیار یس فضیلت دیہ تہ تہ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طلاق تھے منزیہ
 رجعت کرن جائیز چھہ مردس سو چھو دون لئن تانن وَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
 تمہ پتہ چھونہ بیہ رجعت کر نک حق مردس یعنی دومہ طلاق پتہ۔ بلکہ چھہ زی صورتہ تمہ پتہ
 یاریس پانس نش باقاعدہ یا تراؤ نس بلکہ توتان یو تان عدت و بر یس پور حقوق ادا کرت۔ عدت و برت ہر گاہ
 تو پتہ مرد یٹھہ بیہ اس زنانہ سیت نکاح کرن۔ نو نکاح کرت نو ایجاب و قبول کرت سپہ
 سہ بیہ آسنز زنانہ۔ ہر گاہ ترسم طلاق تہ دُتینس تلہ گنیہ بیہ اس مردس نشہ تڑھہ جدانہ الگ۔ ادہ
 چھونہ اس زنانہ اس مردس سیت بیہ نکاح کرن توتان جائیز یوتان نہ سوزنانہ بیس مردس سیت گوڈہ
 نکاح کرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماوان برو تھمس آہیہ کر تھمس منز پانے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ جَائِزٌ تَوْبَهُ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۹۹﴾
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
 زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

اے مردو ان تَاخُذُوا مِمَّا اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اینکہ واپس کیا ہو تبہ تمہ مالہ منزہ کہنے نُس مال
 توہمہ یکن زنانہ دیوہمت آسوہ اِلَّا أَنْ يَخْفَاَ الْاَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ مگرے کھوژن سم باژہ کہہ
 قائمہ یکن نہ تھاوت سم پروردگارہ سند احکامہ تہ قانون یعنی تعلقات باہمیں متعلق فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ہر گاہ تبہ واقعی طور کھوژو۔ اسی خدایہ سند احکامہ تہ قانون قائم تھاونہ کیوزمہ
 داروکہ سم باژہ یکن نہ قائم تھوتھہ خدایہ سند احکامہ تہ قانون فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس چھونہ
 کانہہ حرج تہ گناہ تمن پٹھہ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تھہ اندرکہ زنانہ کیادیہ طلاق بدل یکہنہ مال
 مردس۔ اٹھہ چھہ ونان خلع یعنی زنانہ ہیہ مردس طلاق یکہنہ مال دت تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ سم احکام
 چھہ پروردگارہ سند قانون فَلَا تَعْتَدُوهَا پس مہ کھر و یکن قانونن ہنز خلاف ورزی وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نُس اکھاہ خلاف ورزی کرہ خدایہ سندین قانونن
 ہنز پس تہ لوکھہ چھہ پنہ نس پانس ظلم کرہ ون۔ آخرتس منز گرفتار عذاب کرنہ سیت فَإِنْ
 طَلَّقَهَا پس ہر گاہ مردن امس زنانہ بیاکھہ طلاق دیت دیو طلاقو پتہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ اودہ
 چھنہ سوزانہ حلال امس مردس پٹھہ۔ یعنی امس سیت نکاح کرن چھونہ جائیز حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ یوتان نہ سوزانہ پس شخصس سیت نکاح کرہ فَإِنْ طَلَّقَهَا پس اگر سُوْدو سم خاوند امس زنانہ
 طلاق دیہ۔ تو پتہ تہنز عدت تہ دو برس فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا پس چھونہ کانہہ
 گوناہ ہر گاہ ہم گوڈنک باژہ پانہ وان رجوع کر تھہ ہیہ نکاح کرن اِنْ طَلَّقَا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

يَتَرَاجَعَانِ ظَنًّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۲۳﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمْ
 النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
 لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
 وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

ہر گاہ یمن یقین آسہ اس کیا تھا و خود ایہ سند احکام سے قانون یعنی حقوق زوجیت قائم و تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ یعنی یہ حدود اللہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دگر ہر سند احکام سے قانون تھے چھو سو و ژہنا و ان
 زان و الین ہندہ خیطرہ و اذ اطلقتم النساء ای مرد و یلہ تمہہ طلاق دتوہ پنہ نین زنانن طلاق رجعی
 یعنی سو طلاق بیٹھہ منز مردس چھو اجازت نو نکاح کرنہ و رای رجوع کرن فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو
 پتہ واتن تمہہ زنانہ عدتک مدت و برنس قریب فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس چھو اختیار توہمہ
 عدت گرہنہ بروٹھہ رجعت کر تھہ ریوٹھہ تمہہ پانس ریشہ پنہ نس نکاحس تل باقاعدہ سے رتہ طریقہ
 اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا تراویکھہ یلہ رتہ طریقہ یوتان عدتک دوہ تمن پورہ پاٹھہ کز زن
 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا مہ آسبوکھہ تمہہ بند کران تمن تکلیف و اتاوانہ خیطرہ تمن پٹھہ
 ظلم کرنہ خیطرہ عدتک مدت زبٹھراونہ سیت وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ پس بس شخصہ امہ کج کوم
 کرہ یعنی ناحق کانہہ ظلم کرہ۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ سمو کورپان پانس ظلم کیا زہ آخرتس منز کھیہ
 سو ظلم کر نک سزا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا خدلیہ سد آیات سے احکام مہ آسوزانان ٹھٹھہ
 باشیہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بیہ پاو و ژ تیس خدلیہ سنزہ تمہہ نعمو سمہ توہمہ عطا
 کرہ نوہ و مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ خصوصاً کرو یادیہ بڈ نعمت کہ نازل
 کرن توہمہ پٹھہ یہ بڈ کتاب یعنی قرآن مجید بیہ حکمتہ تھہ یہ سیت اللہ تعالیٰ چھوہ توہمہ و عطا و نصیحت

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى

کران وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِهِ کھو ۱۷ و اللہ تعالیٰ اس یقین زانو یتک اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیز او پورہ زانوں وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بہ یلہ توہمہ طلاق و توہ پنہ نین زنانن تو پتہ و و بر یہ ہنز عدت فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس مہ رٹوکھ ہتھ ہتھ (ای رشتہ دارو) تمہہ زنانہ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ نکاح کرنہ ہنز پنہ نین مجوزہ خاوندن سیت اوہ آستن سُو یہوی طلاق و وہ و ن خاوندیا بہ کانہہ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ یلہ تمہہ پانہ وان راضی سہمت آسن قاعدہ موجب ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ سمو کھو سیت چھ نصیحت یوان کرنہ تس مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لُس آسہ توہمہ اندرہ پڑھہ کران معبود بر حق بہ ہتمس دوہس یعنی قیاس۔ تعمیل احکام خداوندی کرہ سُو شخص لیس خدایہ سنز پورہ پڑھہ آسہ بہ آسیس قیاس پڑھہ سمہ دوہہ خدایس برو نھ کنہ استادہ بہ کرنہ۔ لُس نہ تعمیل احکام کران چھو زن نہ تمس خدایہ سنز تہ قیاس پڑھہ چھہ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ یہ نصیحت قبول کرن چھو ہندہ خیطرہ زیادہ صفائی ہنز تہ زیادہ پاکی ہنز سمہہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ چھو زمانان سارے مصلو ہتھہ زانونہ کینہہ تہ۔ لہذا پڑہ توہمہ خدایہ سدہ فی حکم پیٹھہ عمل کرن۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ماجن ہند گڑھہ دودھہ دیکن پنہ نین اولادن پورن دون و ر بن اوہ تمہہ ماجہ نکاحس اندر آستن یا طلاق دنہ آمزہ آستن لَبِنَ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ یہ گوئہندہ خیطرہ لُس پورس

لَكُمْ وَ أَطَهَرُ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۲۲﴾
 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
 يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لِأَبْوَائِهِمَا وَ لِلدَّاءِ الْيُولَدِهَا وَ لِمَوْلُودِ
 لَهُ يُولَدُهَا وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ إِفْصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

مُدّ تس دودھ چاؤن بیترہہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس چھ سندس ماس پیٹھ
 چھوٹے اس ماجہ ہند کھین چین تہ پوشاک قاعدہ موجب لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا کانہہ شخص جھونہ
 خدایہ سیدہ طرفہ کانہہ حکماہ دنہ یوان مگر سبوی حکم نیس سوبرداشت بیجہ کمر تھ لہذا آؤزنانہ حکم کرنہ
 اس چھس دود و نک کیازہ تہندہ حقہ چھوتی سہل تہ آسان۔ مردس آؤ حکم کمر نہ تمس زنانہ ہند کھین
 چین تہ پوشاک و نک کیازہ تہندہ حق چھوتی سہل تہ آسان لِأَبْوَائِهِمَا وَ لِلدَّاءِ الْيُولَدِهَا وَ لِمَوْلُودِ لَهُ يُولَدُهَا
 ضرر تہ نقصان بیہ نہ و اتناونہ کانہہ ماجہ پنہ نیس بچہ سیدہ سیت نہ کانہہ ماس پنہ نیس چھ سیدہ سیت۔ یعنی
 چھ سندس ماس ماجہ ہند کمر ہہ نہ اکھ اکھ چھ سند و وجہ تکلیف و اتناون۔ مثلاً موج کرہ ہا اس چھس دود دنہ
 نغیر بلا وجہ انکار یا مول کرہ ہا جبراً اس چھس ماجہ نشہ جداتہ دور تو پتہ دیاوہ بیس کانہہ زنانہ اتھہ اس
 دود۔ یا کرہ اس ماجہ آہنزہ کھینہ چہنہ کن تہ اخراجا تو کن تنگ تہ کمر ہہ نہ کزان وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 وارثن پیٹھ تہ چھو یسوی حکم نیس ماس پیٹھ چھو فَإِنْ أَرَادَ إِفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس ہر گاہ سم دوشوے یعنی مول تہ موج پانہ و ان رضامندی تہ مشورہ سان دون
 ورنہ اندر اندر اس چھس دود تڑن یڑھن ادہ تمن پیٹھ چھنہ کانہہ گناہ وَلَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بیہ ہر گاہ تہہ یڑھو کہ چھ کیاہ چاودہ ناوون دود بیہ کانہہ زنانہ ہند کمنہ خاص وجہ
 موکھ۔ مثلاً پنہ ماجہ ہند دود آسہ تس چھس مضر یا آسہ ماجی کمنہ تکلیف و اتنک خطرہ تھہ تہ چھونہ کانہہ

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَسَلْتُمُوهُنَّ مِمَّا آتَيْتُمُ
 بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳﴾
 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لَا تَرَكْنَ بِلأنفُسِهِنَّ
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۴﴾
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَنْتُمُ

گناہ توہمہ بیٹھہ اِذَا اسَلْتُمُوهُنَّ مِمَّا آتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ یلہ تہہ دیو تمہن سومزوریوسہ توہمہ تمہن سیت مقرر
 کر مثر آہوہرت پاٹھہ تہ ضابطہ موجب وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کھوژو خدا یس
 بیہ تھاود یقین کہ پڑ پاٹھہ اللہ تعالیٰ جھو تہمزہ سارے کامہ وارہ وچھان وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
 أَزْوَاجًا بیہ ہم شخص توہمہ اندرہ مرن ہتھہ کُن تراوٹھہ زنانہ منکوہہ يَتَرَكْنَ بِلأنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 وَعَشْرًا تمہن زنانہ ہند گڑھہہ پیارن ژورن ریتن تہ دہن دوہن۔ بیہہ جھہ تہمز عدت اتیس کالس جھونہ
 جائز تمہن زنانہ پانس زینت گرن۔ مشک مٹھن۔ گرہ منزہ ٹیرن۔ بیہ گچہ عدت تس زنانہ ہمز تمس خاوند
 موٹت آسہ بچہ آسیس نہ شکس منز کنبہ تہ۔ ہمہ بروٹھہ گذرے بیہ عدت تس زنانہ ہمز نیس مردان
 طلاق آسہ ڈیٹت تمسز عدت جھہ تریہ حیض۔ بیاکھ گبیہ تس زنانہ ہمز عدت نیس خاوند موٹت
 آسہ۔ شکس منز آسیس بچہ۔ تمسز عدت گیہ توتان یوتان سو پرہسہ یعنی تمسز عدت جھہ بچہ زینس
 تان تمیک حکم بیہ بیان کرنہ سورہ طلاقس اندر فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ پس یلہ زنانہ پورہ کرن ہنن عدت پس جھونہ توہمہ کانہہ گناہ اے زنانہ ہندیو
 متعلقو تہ رشتہ دارو ہتھہ تھہ منز کنبہ تمہہ زنانہ کیاہ کرن پتہ جھہ دوہمہ نکاحک تلاش نیس شرعس موافق
 آسہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ جھو تہمز سارنی کاین ہمز پور خبر تھاوان وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَنْتُمُ فِي أَنْفُسِكُمْ بیہ جھونہ توہمہ کانہہ گناہ ای مردوہر گاہ تہہ کانہہ

فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْتُوا بِهِنَّ
 سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُزُوا عُقْدَةَ الْبَيْتِ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ع وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ^ع
 لَأَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ

اشاره کمر و امه قسمه چن زنان سیمه خاوند مرت عدتس منز آسن نکاحس پیغامس متعلق یا پوشیده تھا دور
 تمیک اراده پنہ نین دلن منز۔ علم الله انکم ستذکرونهن الله تعالی اس چھو معلوم کہ تمہہ کرو ضرور
 تمس زنان سیت نکاح کر تک تذکرہ خیر۔ اشارہ پیٹھ تذکرہ کرنس چھو نہ کانہہ حرج ولکن لا
 تواعدونهن سترًا لیکن نکاحس متعلق گزھنہ وعدہ قرار کرن پوشیدہ پاٹھہ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
 مَعْرُوفًا مگرے کانہہ کتھاہ کمر و ضابطہ موجب تہ گو اشارہ پاٹھہ نکاحس متعلق کتھاہ واتا دن
 وَلَا تَعْرُزُوا عُقْدَةَ الْبَيْتِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ بیہ مدہ کرو پوختہ ارادہ فوراً اس زنانہ سیت نیتھر
 کر تک یوتان نہ تس عدتک ایام خم کزھن۔ سیمہ عدتک حکم تہ تجویز الله تعالی ان پنہ کتابہ اندر
 فرمودہ و اعلموا ان الله يعلم ما فی انفسکم بیہ زانووارہ یقینہ سان کہ بیشک الله تعالی چھو زنانہ تہ
 سوزی بیہ تہندین دلن اندر چھو فَاَحْذَرُوهُ پس کھوڑو تس۔ ناجاز ارادہ مہ آسولن اندر تھاوان۔
 یعنی عدتس منزی مہ آسو نکاح کر تک ارادہ کران۔ کیا زہ عدتس منز نکاح کرن چھو حرام تہ ناجائز
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ بیہ زانووارہ یقینہ سان کہ الله تعالی چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ دن توبہ
 کرہ و نین بدن ہر گاہ کانہہ ناجاز کامہ ہند ارادہ کورمت آسہ تو پتہ پیہ جس نادم تہ پشیمان گزھت کرہ
 توبہ تس ہجہ امید مغفرت۔ الله تعالی چھو حلیم ہر گاہ توبہ نہ کرہ و نس جلدی سزادتن نہ تمہہ سیت گزھہ
 نہ دھو کہ کھین سو کیاہ مولکیو بلکہ چھو خطرہ نہ نہ عنہ وقتہ رٹیس لَأَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
 مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً توبہ پیٹھ چھو نہ کانہہ گناہ ای مردو ہر گاہ تمہہ طلاق دیو

تَفْرِضُوا لِهِنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۳۷﴾
 وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۳۸﴾

زنان تمّن اتمہ لاکنہ بروٹھ، کٹھس منز اژنہ بروٹھ۔ بیہ مہر مقرر کرنہ بروٹھ۔ اتمہ صورتس منز چھونہ توہہ تمّن زنانں مہر دین مٹہ کھسان وَمَتَّعُوهُنَّ تھہ صورتس اندرو اتا ووتہہ تمّن کانہہ فاندہ تہ نفعاہ یعنی تمّن دیوتہہ خرچاہہ سمیگ ادنی درجہ گوپاشاگک اکھ جورہ تہ اعلیٰ درجہ گو مہر ک نصف عَلَی الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ آسن والس پیٹھ تھہ تہ شوبہ۔ تنگد ستس پیٹھ تھہ تہ شوبہ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ خرچاہہ دستورہ تہ قاعدہ موجب حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ بیہ چھو لازم نیک معاملہ کرہ وین لوکن پیٹھ۔ پریتھ مسلمانس پڑہ رتوی معاملہ گرن۔ خوش معاملہ آسن بد معاملہ نہ لاگن وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ تھہ صورتس مہر دین مٹہ کھسان وَمَتَّعُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ہر گاہ تہہ طلاق دیو تمّن زنانں خلوت صحیحہ کرنہ بروٹھ در حالیکہ مہر اوس مقرر کرنہ آمت فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تہہ گڑھہ تمّن دین مقرر کرنہ آمتہ مہر ک نصف إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ مگرے زنانہ پنہ خواہشہ موجب سو نصف تہ معاف گرن اَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ تہہ سو شخص معاف کرہ بس اتمہ نکاح جاری تھا ونگک یا نہ تھا ونگک اختیار چھو۔ سو گو خاوند۔ یعنی خاوند پہ بودہہ سوڑی مہر پن حق کرنہ وصول وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ای حقداروتہند معاف گرن خوشموی چھو زیادہ قریب پرہیزگاری سیت وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مہ مٹھ اوپانہ وان اکھ اگس پیٹھ احسان گرن إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو تھہ سارسی بیہ تہہ کران چھوہ وارہ وچھان حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ راجھہ کروسارنی

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ
 قُنُوتَيْنِ ۖ ﴿۲۳۸﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا
 اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۗ ﴿۲۳۹﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ
 مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

نماز نہجھہ کا نہ نماز تھہ گوشوہ یا پینہ وقتہ لئشہ ڈلہ وہ۔ بیہ کرور لھجھہ منزموہ نمازہ۔ منزموہ نماز گبیہ وگر
 نماز۔ تہ چھویہ تہ تاکید سارنی نماز نہ ہدہ خاطرہ۔ کیا زہ پریٹھہ نماز چھہ پانژو نماز و اندرہ منزموہ نماز۔
 سارنی نماز نہ متعلق گوشہہ لازم تہ ضروری آسکے ہبوی خیال تھا لون **وَقَوْمُوا لِلَّهِ قُنُوتَيْنِ** و دھتھہ
 روز و خدا ئس برو تھہ گنہ عاجزی سان۔ تھہہ کا نہہ حرکتھہ مہ کرو نمازہ اندر سمہ سیت لبندہ بیہ بیہ چھونہ
 نماز پران۔ سو گو کھیون چون۔ تھہہ کرنہ تہ اورہ یور نظرہ دینہ۔ **فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا** پس ہر گاہ
 تھہ کھو ژو دشمنس یا بیہ کانسہ پس پرو نماز پتھر، وودنہ یا سوارین پیٹھہ بہتھہ **فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
 عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** ادہ یلہ امگ پورہ اطمینان سپدہ خونج حالت گوشہہ دور پس کمر و خدا لیہ سُد
 یاد یعنی ہر و نماز حسب دستور تھہ پاٹھہ اللہ تعالیٰ ان پٹھنا و وہ تھہ تہ پینہ تھہ زانہو۔ یعنی لڑا لیہ منز یاد شمنہ
 سدہ خوف کمر وقتہ وودنہ یا سوار ی پیٹھہ اشارہ سیت نماز پران چھوہ جائیز۔ مگر امن و امان یلہ حاصل سپدہ تلہ
 گوشہہ بیہ تھہ طریقہ نماز ادا کرن سمہ طریقہ خدا این حکم کور۔ سمہ آسہ کریمہ اندرہ چھو صاف ظاہر
 سپدان کہ نماز و قس پیٹھہ ادا کرن کوتاہ ضروری تہ لازمی چھو **وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
 أَزْوَاجًا** بیہ ہم تو بہہ اندرہ مرئس قریب آسن (اے مردو) تہ پتھہ گن تراؤن زنانہ تمن پزہ وصیت کرن
وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ وصیتا پنے نین زنانہ ہدہ خاطرہ **مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ** خرچ دنہ خیطرہ
 اکس و رہس تان۔ بیہ گوشہ نہ گھر و منزہ کڈنہ تمہہ زنانہ **فَإِنْ خَرَجْنَ** پس ہر گاہ تمہہ زنانہ پانے درایہ
 گھرہ اندرہ **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** پس چھونہ تو بہہ کا نہہ گناہ اے اس یٹہ سند یو وار تو فی ما قَعَلْنَ

فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۳۰﴾
 وَاللَّمْطَلَقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۲۳۱﴾
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۳۲﴾
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
 فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۳۳﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ

فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ تھہ اندریہ کیوہاہ تمہہ زنانہ کرن پنہ نس پانس منز کانہہ جائز کا ماہ۔ زینت یابیہ
 کینہہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو غالب حکمتہ وول۔ یہ حکم چھو منسوخ سپد مت وراشتہ کہ
 حکمہ سیت وَاللَّمْطَلَقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ۔ بیہ تمکن زنان طلاق دنہ آمت آسہ تمکن شو بہ خرج دین
 ضابطہ موجب حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ یہ چھو لازم پرہیز گارن پیٹھ۔ ساری مسلمان گے پرہیز گاری
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تھہ پاٹھہ چھو اللہ تعالیٰ وارہ بیان کران تہ ویرٹھ
 ناوان توبہہ پنہ آیات تہ احکام تھہ توبہہ فخرہ ترہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ
 الْمَوْتِ تھہ وچھونا تمکن لوکن کن سیم درای ثلثہ خیطرہ پنہ نیوگرو اندرہ (تم آس واریاہ ساس لوکھ)
 مرحبہ خوفہ۔ تھندس شہرس اندریلہ طاعون ووتھہ یاد شمن سیت مقابلہ کر نک تاب اونکھ نہ تہ توے
 ثل۔ تمو کور خیال ثلثہ سیت لبو آس مر نہ نشہ نجات۔ تقدیرس پیٹھ رُودنہ راضی۔ تمہ پتہ یلہ وات
 تم اکس میدانس منز فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا اتی فرموو کہ اللہ تعالیٰ ان مسرو۔ یکدم موو ساری
 ثُمَّ أَحْيَاهُمْ توبہہ گو کینہہ کالاہ (تھہ آٹھ دوہ تقریباً) اللہ تعالیٰ ان کمر تم بیہ زندہ تھہ تم امہ گنہہ نشہ توبہ
 كَرْنَ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھو فضل کرہ ون لوکن پیٹھ یکن پیٹھ تہ
 كُورُن پکن فضل۔ بیہ زندہ کمر تھہ دیتھہ توبہہ کر نک موقعہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ مگر اکثر لوکھ
 چھنہ خدایہ سنز شکر گذاری کران وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَلِيمٌ ای مسلمانو تھہ مہ

اللَّهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴿۲۳۷﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَيُرْجِعُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۳۸﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ لَهُمْ ائْتِنَا مِنْ سَمَوَاتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ

آسور نس کھوژان۔ تہہ آسوخدا یہ سزہ دتہ اندر خدایہ سندہ دینکہ تھزہ خیطرہ جہاد کران۔ جہاد کرنے خیطرہ تیار روزان۔ بیہ تھاو یقین اللہ تعالیٰ جھو سوڑی بوزہ ون سوڑی زانہ ون مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہہ اکھاہ جھوئیس ووڑم دیہ خدائیس وو زماہ رت یعنی تہنزن وتن اندر کرہ مال ہن خراج وژہہ وانجہ۔ اتھ تھو واللہ تعالیٰ ان ناو قرض مجازہ پاٹھ۔ امہ اندرہ جھو مطلب جتھ پاٹھہ قرضک عوض ضرور جھو دنیوان، تھہ پاٹھہ بیہ ضرور خدایہ سند جھمہ موجب رٹن وتن اندر مال خراج کر نک عوض عطا کرنے فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً لیس کرہ تم عطا اللہ تعالیٰ حج مزور واریاہ گن زیادہ۔ کسی دہہ گن تہ، ستہ گن تہ، ست بہت گن تہ، ستہ ساسہ گن تہ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ اللہ تعالیٰ ای جھورز قس اندر تنگی کران آزمانہ خیطرہ سوی جھورز قس اندر وسعت کران امتحانہ خیطرہ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تس گن بیہ نہ کانسہ گن ایو تہہ ساری واتانہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ تہہ وچھو ناشریفن ہنزہ لیس جماعوں مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ یٰم بنی اسرائیلو اندرہ آس مِنْ بَعْدِ مُوسَى حضرت موسیٰ سندہ وفاتہ پتہ إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ لَهُمْ ائْتِنَا مِنْ سَمَوَاتِكُمْ حضرت شویس ائتینا من سمواتک ائتینا من سماءک امیراہ اکھ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جتھ تہنزہ ماتحتی اندر اس خدایہ سندہ خیطرہ تہندس دشمنس جالوتس سیت جہاد کرو قَالَ تہم بیہنن فرموو کہ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا یہ ماسپدہ کہ اگر توہہ پٹھہ جہاد فرض آو کر نہ تہمہ پتہ گرونہ توہہ جہاد تمبو

دِيَارِنَا وَابْنَانَا فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا
 مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۲۳۶﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ
 قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ
 عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ
 قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ
 الْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳۷﴾

دو پ اسہ کیاہ گوا اس کرو نہ جہاد خدایہ سزہ و تہ اندر و قد اخرجنا من ديارنا و ابنائنا حالانکہ اسہ
 چھو تہندہ دستہ ذاتی تکلیف تہ و اتانہ نہ اُمّت اس چھہ جلا وطن کرنہ آمت، شر یو باژو و منزہ کڈنہ آمت
 فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ پس بلہ فرض کرنہ آو تہن پیٹھ جہاد تمہہ وقتہ ژل تھہ
 پھیر کھ۔ بز دل سپد۔ مگر نہ کیش و شخصو تمہواندرہ تم آس تریہ تہ تہ تہ ترواہ شخص وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
 اللہ تعالیٰ چھو پور زانہ ون ظالمین تہ تا فرمان و قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
 بیہ فر مو و تہن پیغمبرن ہن۔ پز پاٹ اللہ تعالیٰ ان کور مقرر طالوت تہندہ بادشاہ قَالُوا أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ
 الْمُلْكُ عَلَيْنَا دینہ لگ تہ تھہ پاٹھ چھو حق اسہ پیٹھ حکمرانی کرنک و نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اس
 چھہ پانہ حکومت کرنک حقدار تسنہ خوتہ۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ بیہ چھونہ تس وسعت مال د
 دو لتس اندر سانہ کھوتہ زیادہ کینہہ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ پیغمبرن فر مو و کھ پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ آن
 کور سو ی بر گزیدہ تو بہہ پیٹھہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ بیہ کرن تس زیادتی عطا کلس منزتہ تہ
 جسمس منزتہ اللہ تعالیٰ ان اوس تس علم سیاست علم تدبیر ملک علم حرب یعنی جنگ کرنک علم
 عطا کور مت بیہ اوس سو قد بلند تہ خوبصورت وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو عطا کران
 ملک ہن بس یڑھان چھو تہ تس۔ کانہہ چھونہ حق تس اعتراض کرنک وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ
 چھو سیٹھاہ آسن دول۔ سو کربہ تس تہ وسعت عطا۔ سو چھو سیٹھاہ زانن دول۔ تمسی چھہ خبر کہہ تھہ قابل

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ
 سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
 تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٣٨
 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ
 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۖ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ إِلَّا مَنِ

چھو۔ سمبو بنی اسرائیل و دوپ۔ سمیک کیاہ نشانہ تہ علامت چھو کہ اللہ تعالیٰ ان کیاہ چھو و قعی یسوی طالوت
 حکمرانی خیطرہ مقرر کورمت **وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ**
 فرموو کہ پن پیغمبرن بیشک آسندہ بادشاہی ہند نشانہ چھو یہ کہ توہم نش و لہ سہ صندوق چھو اندر خدایہ
 سندہ تہمدہ خیطرہ و لک قرار چھو **وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ** بیہ کیہہ بچے مت
 چیز تمبو چیز و اندرہ ہم چیز پتھ گن تراومت چھو حضرت موسیٰ ان تہ حضرت ہارون تھ تا بوتس و اتاون
 توہم نشہ ملایک یعنی حضرت موسیٰ سند نعلین۔ حضرت ہارونہ سند عمامہ بیہ کیہہ حصہ من وصولو انک
 بیہ تورا تچہ کیہہ چہ **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** بیشک اتھ منز چھو پور نشانہ تہمدہ خیطرہ
 چھوے تہہ پڑھ گروہن۔ اتی آئے ملائکہ سہ صندوق بہتہ توپتہ و اتوو کہ طالوتس نشہ بنی اسرائیل آس
 سو حال پانہ و چھان۔ اتی کور تمبو تسلیم تہندس پادشاہتس۔ توپتہ سپد ساری آمادہ اسندس قیادتس اندر
 جماد کرنس پیٹھ۔ **فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ** ادہ یلہ دراو طالوت بنی اسرائیلن ہنز لشکر ہت۔ بیہ
 اوس گر مگ موسم۔ فوجس لوج و تہ پکان سخت تریش۔ تمبو ژھونڈ آب **قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ**
 دو پکھ طالوتن ای لوکو معلوم چھونہ توہم اندرہ گس چھو مخلص تہ گس چھونہ مخلص۔ لہذا کرہ اللہ تعالیٰ
 توہم آزمائش برو تھ اکہ دریاہ سیت **فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي** پس بس اکھاہ تمہ دریاوک آب
 چہ سو چھونہ میون یعنی میانہ جماعتک **وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي** بس نہ سو آب ژہہ تہ سوی چھو
 میون **إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بَيْنَهُمَا** مگرے کازہ شاہ دو ژہہ سیت تہ تھ دامہ ہناچہ۔ اتی آو برو تھ دریاواہ

اعْتَرَفَ عُرْفَةَ بَيْدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا الْوَاقِعَةُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا بِاللَّهِ كَمَ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ
غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۲۴۷﴾ وَلَمَّا
بَرَزُوا لِلْجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۴۸﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

اکھ مگر یمن رُودنہ طالوتہ سند اتھ متعلق بیان کُرن یادے فَشَرِبُوا مِنْهُ یمن آس سخت تریش لُجْموہ
تموچوید برستھ آباہ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر نہ کم کئیو و تمبو اندرہ۔ تموکور صبری فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ
امْتُوا مَعَهُ پس یلہ طالوت بے تم بالیمان تم اتھ امتحان سنز کامیاب رود تمونہ آب چوویا تمبو اتھ
سیت تلتھ کم دامہ ہناہ چہ تم آس ترہ ہت نہ تراوہ تمے یلہ لمہ دریاوہ لشہ پور تر۔ پور تر ت وچھ
تمو دشمنہ سنز لشکر یعنی جالوتہ سنز قَالُوا الْوَاقِعَةُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ جالوتہ سنزیہ لشکر وچھت
کھوڑ پنے لگ اسہ کتہ چھو طات جالوتس نہ تہنزہ لشکرہ سیت جنگ کر تک قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
مُلْقُوا بِاللَّهِ مگر یمن یقین اوس پنے نس خدا یس سیت ملاقات کر نک تمو دو پکھ کم مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ
غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ پروامہ برو کینہ۔ کثیراہ کمی یہ جماعہ آسہ تے سپزہ غالب وار یمن جماعتن
پیٹھ خدایہ سندہ لحمہ سیت وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ چھو صبر کر وین سیت سیت
وَلَمَّا بَرَزُوا لِلْجَالُوتَ وَجُنُودِهِ تمہ پتہ یلہ طالوتہ سند فوج دراو جالوتس نہ تہندس فوجس سیت
مقابلہ کرنہ خیطرہ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دعا لگ
کرنہ اے سانہ پروردگارہ ژہ تراوہ پیٹھ صبر واستقلال بیہ در او قدم سان بیہ کریاری اسہ غلبہ وہ
کافرن ہندس قوس پیٹھ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پس دیت شکست طالوتہ سنزی لشکرہ ہتھ منز حضرت
داؤد اوس اکھ سپاہ جالوتس نہ تہنزہ لشکرہ خدایہ سندہ لحمہ سیت وَقَتَلَ دَاوُدُ الْجَالُوتَ وَكَانَ

وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَاتَّشَهُ اللَّهُ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا
 يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
 الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۱﴾ تِلْكَ
 آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۲﴾
 تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ
 مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَاتَّخَذْنَا عِيسَى ابْنَ

داوودن مور جالوت یلہ طالوتن لشکرہ منزاعلان کور کہ کوہ اکھاہ مارہ جالوتس۔ تس کرہ یونپنہ صاجزادہ
 سیت نکاح بیہ دمس نصف سلطنت حضرت داوود راو برو نٹھ گن دوہین بو کرہ یہ کوم۔ چنانچہ یان مقابلہ
 سپد حضرت داؤد آو جالوتس قتل کر تھ تو پتہ کور طالوتن وعدہ پن پور۔ دامادہ بناؤن بیہ تھوون
 سلطنتک شریک پانس سیت۔ پتہ یلہ طالوت بیٹس اگس لڑایہ اندر شہید سپد پتہ سپد ساری مملکتک
 پادشاہ حضرت داؤد وَاتَّشَهُ اللَّهُ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ اللہ تعالیٰ ان کور حضرت داؤدوس عطا پادشاہت تہ
 حمت وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ بیہ بچھناؤن تم تم چیز سم تس خوش کمر وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ نے اللہ تعالیٰ اڈیو لو کو سیت اڈین لو کن ہند شر دور کرہ ہاملک گڑھہ ہاتباہ تہ
 بر باد کفر وشر کہ سیت فتنو تہ فسادو سیت وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ مگر اللہ تعالیٰ چھو فضلہ وول
 مخلوقن بیٹھ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ سم قصہ برو نکھین لو کن
 ہند چھہ نن نشانہ پروردگارہ سہہ قدر تک ایم آس توہہ بیٹھ پر ان چھہ پزپاٹ تہ چھہ جدہ دلیلہ تھہ بیٹھ
 کہ تھہ چھوہ بیٹھ پیغمبر واندرہ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ تم پیغمبر یمن ہنز ذ کر تھہ سورہ شریفص منز آیہ
 کرنہ یا تہو پیغمبر واندرہ تہہ چھوہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فضیلت ڈیت اسہ تمواندرہ بعضی
 پیغمبرن بعضین بیٹھ۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ تہواندرہ چھہ بعضی تم سمین سیت اللہ تعالیٰ ان کھہ گڑہ
 بلا واسطہ مثل موسیٰ علیہ السلام وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ بعضین ہند درجہ کمرن بلند تم کمرن خاص تہو

مَرِيَمَ الْبَيْتِ وَأَيُّدُنُهُ بَرُوجِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ
الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْتُ وَلَكِنْ ائْتَفَقُوا
فِيهِمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا
شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ ۗ اللَّهُ لَإِلَهٌ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

خصوصاً تو سیت تم نہ بین آئی عطا کرنے۔ حضرت ابراہیمس خلت۔ حضرت داؤدس ملک تہ نبوت
حضرت سلیمانس تسخیر جن وانس و ہوا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت عامہ ختم
نبوت۔ معراج جسمانی۔ سیر ملک و ملکوت بیہ کمال قرب و ائینا عیسیٰ ابن مریم البیت بیہ
کرہ اسمہ عطا حضرت عیسیٰ اس نئس فرزند حضرت مریمہ سندھو، منہ دلیلہ، بڈ معجزات و ائیدنہ بروج
القُدس بیہ کور اسمہ تمن تائید جبریل امینہ سندہ سیت۔ سواوس تہمدہ حفاظتہ خیرہ تمن سیت سیت
آسان و لو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم تو پتہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یژہ ہاسارنی لوکن ہند ہدایت
تیلہ کرہ ہن نہ تم لو کہ تم پیغمبرن پتہ آئی پانہ وان اختلاف تہ قتل و قتال و خونریزی من بعد ما
جاءہم البیت نہ دلیلہ تمن نغمہ واتنہ پتہ و لكن ائتفقوا فیہم من امن و منهم من کفر مگر تمبو کور
اختلاف سمہ سببہ تمبو قتل و قتال تہ خونریزی تہ کمر۔ چنانچہ تمبو اندرہ رُوو بعضہ حقس تہ ایمانس پیٹھ
ثابت، بعضیو کور تمبو اندرہ کھر تہ انکار حقیقت کھر و لو شاء اللہ ما اقتتلوا ہر گاہ اللہ تعالیٰ یژہ
ہا تمن سارنی ہند ہدایت تم اختلاف تہ قتل و قتال و خونریزی کر ہن نہ و لكن اللہ یفعل ما یرید لیکن
اللہ تعالیٰ سند ارادہ اوس تنہ پٹھ۔ سو یہ یژہان چھونپنہ حکمتہ سیت تہ چھو کران پنہ قدر تہ سیت۔
یایہا الذین امنوا انفقوا مما رزقناکم اے بالیمانو خرچ کرو تمہ مالہ اندرہ نئس اسی عطا کور تو بہ۔
من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خیلۃ ولا شفاعۃ سو خوفناک دودہ ینہ برو نٹھ سمہ دودہ نہ ہیون

الْقِيَوْمَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

کُنن آسه نہ یار برادری آسه نہ سفارشہ ہند کانہہ سلسلہ آسه وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ کافر ی چھہ بڈ ظالم۔ سمو پنہ نس پانس ظلم کور کفر و شر کہ سیت۔ خدایہ سزہ نافرمانی سیت۔ تمنی نہ دیہ کانہہ ہنز دوستی فائدہ نہ کانہہ ہنز سفارش۔ ای با ایمانو تہہ مہہ ہو تم ہی اِنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اللہ تعالیٰ گو سوی کانہہ اکھاہ چھونہ عبادتس سزاوارتس و رای الْحَيُّ الْقَيُّومُ سوی چھو پانہ زندہ بین سارنی زندہ تھاوہ و ن لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ کھسان چھہ تس نہ پنک تہ نہ نندر۔ یعنی مغلوب چھہ تس کر ان نہ لوژ نندر تہ نہ گوب نندر لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تہندوی چھوتہ سوروی یہ آسمان اندر چھو بیہہ زمینس اندر چھو مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ کس اکسند طاقت تہ جرات چھو سو کیا کرہ کانہہ شخصس سفارش تس نشہ تہندہ حکمہ تہ اجازتہ وراے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سو چھو پانے زمانان مخلوقن ہند ساری حالات۔ سم تمن برو تھہ کُنہ چھہ بیہ سم تمن پتہ کُنہ چھہ یعنی پوشیدہ تہ ن حالات۔ حاضر و غائب حالات ظاہر و باطن حالات زندہ و ن چھو سوی لہذا سفارش کرہ و ن کیاہ چیز بیہہ تمہو حالاً تو علاوہ پیش کثرت وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ مخلوق بیہہ نہ احاطہ کثرت کُنہ چیزس تہندہ علمہ اندرہ مگر تیزوی ہنہ سیت ایڑن سویشہہ۔ حدیث شریفس اندر چھو کہ حوض کوثرس پیٹھ یں مہ پیش کر نہ کینہہ لوک۔ تہ یں پکانو نہ جہنمس کُن۔ بہ دپہ سم چھہ میان سم چھہ میان۔ سم کیا زہ نیو کھ جہنمس کُن۔ دپنہ اسم اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اَحَدٌ تُوَاعَدُكَ تُوہہ نہ حض چھو نہ پتہ سمو کیاہ نوو روو تُوہہ پتہ دینس اندر۔ ذلکو جماعتو اندرہ چھہ اکھ جماعتہہ معتزلہ۔ تم چھہ انکار کر ان شفاعتس۔ مگر اہل سنت و جماعتن ہند اعتقاد چھو اللہ تعالیٰ یمن شفاعت کر تک اختیار دیہ تم کرن ضرور شفاعت تہ تہند شفاعت کرہ اللہ تعالیٰ قبول۔ اللہ تعالیٰ ان چھو سانس رسول کر سمس ﷺ وعد کورمت شفاعتک۔ تم کرن پنہ نس اُتس ضرور شفاعت۔ تمو فر موو حدیث شریفس اندر شفاعتی لاهل الکبائر مِّنْ اُمَّتِي میون شفاعت چھو بڈین گنہ گارن ہندہ خیطرہ میانیاوتیو اندرہ۔ مگر تم تہ ہن گوڈہ

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَأَكْرَاهَا فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

اللہ تعالیٰ اس شفاعت کر تک اجازت۔ چنانچہ عرش مجیدس بروٹھ کنہ یتھہ دن تم دنیا کین ستن دوہن برابر کنوی سجدہ۔ تھہ سجدس منز پر ن تم تم حمد و ثنا پروردگارہ سجدہ۔ ہم نہ کانہہ پر مت آکن۔ سترہ دوہ فرما دیکھ اللہ تعالیٰ تلوحض تھو دسر مبارک سل نعط و اشفع نشفع مگو ہزیہ مگو تہ کردوہ عطا۔ بیہ کمر و شفاعت۔ تھہ شفاعت کرو اس قبول۔ امہ اجازتہ پتہ کرن تم ادہ شفاعت۔ مگر تیس چھہ وارہ اکھ کتھاہ سو چلس قابل۔ سو گنیہ بیہ تھہ کہ کانہہ اکھ گڑھہ نہ ناجیزتہ حرام چیز، ممنوع کام کرنس پیٹھہ یافرائیس تہ واجبات تراونس پیٹھہ آمادہ سپدن تہ جرأت کرن۔ شفاعتس پیٹھہ اعتماد تہ بھروسہ کرت یعنی کانہہ دیہ بہ کہہ تہنز مخالفت تہ نافرمانی تم کرنم شفاعت بیہ چھو عقلہ تہ انصافہ نشہ سیٹھاہ دور تمہ علاوہ چھویہ محض اکھ خیالہ باطل تہ بے بنیاد۔ اللہ تعالیٰ چھوپانہ فرماوان قرآن مجیدس اندر وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اُس اکھہ مخالفت کرہ سانس پیٹھہ سز احکام تس نش وارہ پاٹھہ وائتہ پتہ بیہ کرہ سو پیر دی بایمان ہنزو تہ ورا ی بیہ کنہ و تہ ہنز۔ پکا وون اس سو تھی و تہ یاسہ و تھہ تم اختیار کمر۔ بیہ و اتنا وون اس سو جھنٹس یوسہ سیٹھاہ پیٹھہ جای چھہ۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ویرا وہ گری ٹھہ پانس منز آسمانس تہ زمینس تیوت چھو بوڈ تہ کھول۔ حدیث شریفس منز چھو ست آسمان چھہ کر سیس منز تھھی پیٹھہ ست ہینسہ چھہ بڈس میدانس منز۔ عرش مقابلہ چھو کر سی تھوی پیٹھہ اکھ ہینسہ چھو بڈس میدانس منز۔ تہ گو معنی احاطہ کرت چھو ٹھہر علم آسمان تہ زمین وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا تھکر اوان چھو نہ تس یعنی دشواری تہ تکلیف منز چھنہ تراوان تس آسمان تہ زمین راجھہ تہ حفاظت کرن وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بیہ چھو سیٹھاہ عالی۔ تھندس علوس نما۔ تھہ چھنہ سو چھو سیٹھاہ بوڈ۔ تھندس۔ بجز نما۔ تھہ چھنہ۔ لَأَكْرَاهَا فِي الدِّينِ زور تہ زبردستی چھنہ دینس اندر قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ کیازہ ۶ پز پات وارہ نیو و بذات خود بیہ دلیلو سیت۔ ہدایت تہ گمراہی، ایمان تہ کفر حق تہ باطل پوز تہ اُپز فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ پس اُس

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۵۶﴾
 اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ
 إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۵۷﴾
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ
 الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْبُدُ قَالَ آتَاكَ

اکھاہ انکار کرہ باطل تہ ایزین معبودن شیطان وغیرن اقرار تہ پڑھ کرہ کنس معبود برحقس فَقَدْ اسْتَمَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ پس بیشک تمی کر تھپ محکم گندس رزہ ہندس۔ سو گو حدیث قال اللہ قال رسول
 اللہ۔ لَا انْفِصَامَ لَهَا تھہ نہ ڈبجر چھوٹنے قسمہ۔ یوسہ نہ مژراونہ بیہ زانہ تہ۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 اللہ تعالیٰ چھو سو زوی بوزہ ون سو زوی زانہ ون اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ چھو دوست تہ مددگار
 ایماندارن ہند تہ مو طاغوتن انکار کر تھ کنس خدائس پڑہ کر يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سو چھو
 تمن کھر چوتار کیو منزہ کڈت یا لوب رتھہ اسلامکس نورس اندرو اتاوان وَالَّذِينَ كَفَرُوا سو لو کو خدائس
 معبود برحقس انکار کور اُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ تہند دوست گے شیطان يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
 تم چھہ تمن اسلامکہ نورہ نشی کڈت یا لوب رتھہ کفر چن تاریکین اندرو اتاوان اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ تھے لو کہ چھہ نارہ وال تھہ منز تمن ہمیشہ روزن چھو خدائس گرفتار اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ
 إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ الْمَلِكُ تھہ وچھو ناے پیغمبر یا زیہ وچھو ناے وچھہ ونہ تس شخصس کن
 یس ناؤوس نمود۔ تیم بحث کرو حضرت ابراہیمس سیت تھندس پروردگرارہ ہندس وجودس متعلق کیاہ
 اللہ تعالیٰ ان اوس دتمت ملک تہ پادشاہت باوجود آل اوس خدایہ سندس وجودس مکر إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ
 الَّذِي يُعْبُدُ تہ بحث سپد تھہ وقتہ یلہ تم پر تھہ حضرت ابراہیمس علیہ السلام تھندس پروردگار سند
 شان کیاہ چھو۔ حضرت ابراہیمن فر مووس میون پروردگار گو سوی یس سارنی زندہ کران چھو بیہ ماران

أُحْيِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ
 الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۵﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ
 هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
 مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ
 قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ

چھو قَالَ آكَأُحْيِ وَأُمِيتُ نمرودن دوپ بہ تہ چھوس زندہ کران تہ ماران قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي
 بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فر موس حضرت ابراہیمن اللہ تعالیٰ سزہ بیا کہ کام چھہ
 سُو چھو آفالس کھاران پرستھ دوہہ مشرق کہ طرفہ ژہ کھارتن اکہ دوہہ مغربہ کہ طرفہ فَبُهِتَ الَّذِي
 كَفَرَ پس سپد بہ کافر نمرود حیران لاجواب تہ کینہہ پھورسنہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ
 تعالیٰ چھونہ و تھ ہاوان ظالمین۔ یہ دلیل آس ذات باری تعالیٰ سبوس وجودس پیٹھ۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ
 مرنہ پتہ زندہ کرنس پیٹھ زہ دلیلہ فرماوان أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ بیہ و چھتھناژیہ تس شخصس کن بس
 پوک اکہ شہرہ کن وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا سو شہر اوس منہدم تہ ویران سپد مت مکانن ہند پیش
 آس دبہ بیٹھمت تمہ کینن ژ کینن پیٹھ۔ سو پکہ ون اوس حضرت عزیز۔ شہر اوس بیت المقدس بس بخت
 نصران اوس ویران تہ تہاہ کورمت۔ امی ویران شہرہ کن یلہ حضرت عزیز پوک سیت اوس سوار ی ہند کھر
 بیہ توشہ دالس منز کینہہ چینک چیز قَالَ دینہ لوگ پان پانس سیت أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا
 کتھہ سنا پٹھہ کرہ اللہ تعالیٰ تھہ شہرس آباد (بیہ) اکہ ویرانی پتہ۔ یہ وون نہ تمونامکن زانتھ بلکہ ونوکھہ مہ
 گڑھہ کج کیفیت معلوم سپدن فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ پس کر اللہ تعالیٰ ان تہنز زندگی زایل یعنی ماتم اللہ
 تعالیٰ ان آس بس و رہس ثُمَّ بَعَثَهُ توپتہ کرن اکہ ہتہ و ہر بیہ زندہ توپتہ تلن تھود قَالَ پر ژھنس پانہ یا
 ملکہ سندہ ذریعہ کج لَبِثْتُ ژہ کیتس کالس ٹھہر پوک کیتس قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ بو ٹھہر یوس

عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٗ وَانظُرْ
إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ
الْعُظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا الْحَمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۸۱﴾
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ
تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً

غالباً دوس یا دوہہ خویہ کم کاس اؤس دوسہ قَالَ بَلْ لَيْسَتْ مِائَةَ عَامٍ اللہ تعالیٰ ان فرموس نہ بلکہ گویا وہ تیس تھہرت اکھ ہت وری قانظر الی طعمک وشرابک لم يتسنه وچہ دن سان قدرت۔ ملاحظہ کرینہ نس کہین چینس کن۔ یوت کال گرتہت پچھنہ سوکنہ قسمہ ڈولکت تہ متغیر سپد مت و انظر الی حمارک بیہ وچہ ژہ پنہ نس کھر س کن تمس کیاہ چھو بیومت اؤجہ تان پھس دودر سمرہہ و لنجعلک آیة للناس بیہ چھوسون مقصد ژہ کرو تھہ اس لوکن ہندہ اعتمادہ خیطرہ پنہ قدرت تک اکھ نشانہ و انظر الی العظام دون وچہ ژہ بین کھرہ سزنن اؤجن کن کيف نشرہا کتھہ پاٹھہ ملہ ناو کہ اس تمہ اؤجہ ثم نكسوها لحمًا توپتہ کتھہ پاٹھہ ولو اس تمن پیٹھہ مازہ بیہ چھو و چھانی یکدم سپد کھر زندہ توپتہ دو تھہ تھو دژن ناگ۔ فلما تبين له اده يله یہ سورى حال تمس نبو و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دہنہ لوگ بو چھوس یقین کران کہ بیشک چھو اللہ تعالیٰ پریتھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ دول واذ قال ابراهيم رب ارنى كيف تحي الموتى بیہ پاو وژ تیس تہہ سو وقت یلہ حضرت ابراہیم کن عرض کور خدا کس ای میانہ پروردگارہ مہ ہاوتہ کتھہ پاٹھہ کرہ بکھ ژہ مردہ زندہ قیامتک دوہ بوھاوہ ہامیک علم حاصل کتر تھہ کیاہہ خبر چھایہ کافر نمرد ما پر ژہ اتھ متعلق دوبارہ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ اللہ تعالیٰ ان فرموس کیاہ ژہیہ آئی نا پڑھہ ونہ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي دہن گڑھما پڑھہ بین مگر امہ عرض کرنہ اندرہ چھو میون مطلب کتھہ میون دل مطمئن سپدت چانین دشمن سیت بحث کرنہ خیطرہ قوی سپدہ۔

مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ
 جُرُءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَايِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ
 وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ
 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَّا أَنْفَقُوا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ فَرْمُوسَ وَفَخْدًا أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ بِسَ رَمَكِ ذَهَبًا زُورًا جَانُورًا - مَوْرًا، كُوْمُرًا، كُوْمُرَةً كَاو
 فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ بِسَ رَهْمَكْهُ كَيْنَهه كَالَاهِ پَانَسَ نَشَهه - وَارَه تَهْلَاكَهه وَنَهه - تَوَيْتَه مَارَكَه - كَلَه تَهْمَد تَهَاوَالِكَه - بَدَن
 تَهْمَدِيْنَ كَرُكْفَتَه - تَهْمَد مَازِلَه نَاوَاكَه اَكْسَ سِيْتَه - ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُرُءًا تَوَيْتَه تَهَاوِرَهْمَه كُوْمَسَ
 پِيْطَه تَهْمَدَه مَلْنَاوَمَه مَازَه اَنْدَرَه اَكْه اَكْه حَصَه - ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا تَوَيْتَه وَه تَمَن اَلَوَه - تَم مِيْنَه تَزِيَه
 نَشَ دُوْرَانِ دُوْرَانِ وَاعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تَوَيْتَه زَانَ ذَهَبِيْشَكِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَجْهَوُ پَرَهْمَه جِيْزَسَ پِيْطَه
 قَدْرَتَه دُوْلَه - حَمْتَه دُوْلَه مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثَالِ تَمَن لُوْكَن هَنْزِيْمِ خَرْجِ
 چَهه كِرَانِ مَالِ پُنْ خَدَلِيَه سَنْزَه وَتَه اَنْدَرِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَايِلٍ تَمَه پَهْلَجِ مِثَالِ تَهْمَه نِيْرَانِ
 چَهه زَمِيْنَسَ مَنزُوْتَه تَه تَه هِيْلِ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ پَرَهْمَه هِيْلَسَ چَهه آسَانِ تَهْمَه تَهْمَه پَهْلَجِ وَاللَّهُ
 يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ اَمَه عِلَاوَه چَهوَالله تَعَالَىٰ بَرَه رَاوَانِ سِيْمَه خِيْطَرَه يَرْشَاهَانِ چَهو وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 اللَّهُ تَعَالَىٰ چَهو وَسَعْتَه دُوْلَتَه چَهْمَه كَمَرَه جِيْزَجِ كِي - اللَّهُ تَعَالَىٰ چَهو رَتَ زَانَ دُوْلَه - تَسَ چَهو مَعْلُوْمَ كَمَسْرَه كَمَرَه
 نِيْتَه چَهه - تَمِيْنَتَه مَوْجِبَ چَهو سُوْوسَعْتَه عَطَا كِرَانِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ
 مَّا أَنْفَقُوا مَثًا وَلَا آدَىٰ تَم لُوْكَه تَم خَرْجِ چَهه كِرَانِ مَالِ پُنْ خَدَلِيَه سَنْزَه وَتَه اَنْدَرِ تَوَيْتَه چَهْمَه پِيْتَه
 تَمَسَ رُطَه وَنَسَ پِيْطَه اِحْسَانَتَه مَنْت تَهَاوَالِنَه چَهْمَسَ تَهْمَه رَنَكِ اِذَاوَاتَاوَانِ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ هَنْزِ
 مَزُوْرَه چَهو اَمَه خَرْجِ كَرْنَجِ تَهْمَدَسَ پَرُوْرَدَاكِرَسَ نَشَ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يُعْزَنُونَ بِيَه آسَه نَه تَمَن

مَنَّا وَلَا آذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۱۲﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
 يَتَّبِعَهَا آذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۳۱۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
 تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ
 رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
 صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ
 عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۱۴﴾

کانہ خوفہ قیامتک دود نہ آسہ تمں کانہ غماہ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا آذَىٰ
 رزقتہ ون سائیس بیہ درگذر کرن یہ چھو بہتر تمہ خیراتہ کھوتہ پتہ تھہ پتہ تکلف تہ اذہ آسہ واللہ
 غَنِيٌّ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو آسن دول تہ بیہ ٹیڈ ہینہ ول۔ جلد چھونہ رٹان تہ گرفتار کران سائیس
 تکلف تہ اذواتاودہ ونین۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ای باایمانوہ کترو
 خیرات پٹن بر باد منت تہ احسان تھاوندہ سیت۔ بیہ پامہ تہ اذہ دنہ سیت کَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ
 تس شخصہ سہر پاتھہ بس مال پٹن خرچ کران چھو لوکن ہاوندہ خیطرہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بیہ چھو
 نہ سو پڑھہ کران کنس خدائیس تہ پتھس دوہس یعنی قیامتس فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ بس چھہ
 تہنز مثال تمہ پشاجہ کنہ ہنز تھہ پیٹھہ میڑہ آسہ لار تھہ فَأَصَابَهُ وَابٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا تھہ پیہ گئل رود۔ سومیڑہ
 ایس پھلندہ بس تھاوہ اتھہ کنہ چھلنہ چھو تھہ تڑھی بڑھہ آس۔ سمواتھہ کنہ ہنزہ میڑہ ہ پیٹھہ کینہہ وومت آسہ
 لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا تم ممکن نہ کانہ چیزے حاصل کتر تھہ تمہ منزہ یہ تمو وومت آسہ۔ تھہ
 پاتھہ تم خرچ کتر تھہ منت تھاوان یا کرن خرچ تھینہ تہ لوکن ہاوندہ خیطرہ تمں چھونہ تھہ خرچ کرنس کانہ
 ثوابہ تہ مزوریہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ چھونہ وجھہ ہاوان کافران وَمَعْلُ الَّذِينَ

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ
تَشْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فَاتَتْ أَكْطَافَهَا ضَعْفَيْنِ ۖ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۱۵﴾ أَيُودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ
تَجْوِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ ۚ فَأَصَابَهَا
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ دُونِ كَيْفِ مِثَالِ تَمَنُّ لَوْ كُنْ هُنَزِ يَمُ خَرَجِ كِرَانِ
چھہ مال پان خدایہ سدر رضا تھانڈ نہ خیطرہ بیہ پنہ نین پان ہنڈ اعتقاد یقین صدقات و خیراتہ کس ثوابس
متعلق مضبوطہ پختہ کرنہ خیطرہ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ ۖ تمہہ باغ مِثَالِ لُس تھز رس پیٹھ آسہ تمیم زمین
سیٹھاہ رت آسہ أَصَابَهَا وَابِلٌ ۖ فَاتَتْ أَكْطَافَهَا ضَعْفَيْنِ ۖ تمہہ آسہ بیوان گئل رُود سمہ سیت تمہہ دو گن
میوہ نیران آسہ ۖ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ ہر گاہ گئل رُود پُوس تہ نہ تو تہ چھو تمہہ نیک رُود پیو ٹوی
کانی سپدان رت زمین آسنہ موکھ۔ سٹھہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ بالیمان بندن صدقات و خیراتن بڈ نفع تہ فائدہ
عطا کران ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ یہ کیڑھاہ تہہ کران چھوہ تہ سوزی چھوہ اللہ تعالیٰ و چھان
أَيُودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَجْوِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ کیاہ توبہ اندرہ چھا کانہہ
تہ تمہہ پسند کہ تس کیا آسہ باغاہ، خضر کلن تہ دچھہ رائٹھن ہنڈ تمبوے کلیو منز اسن جو یہ پکان کہ فیہا مِنْ
كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ اس شخص آس اتھہ باغس منز پر تھہ حنہ تمسک میوہ ۖ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ ۚ
اس شخص آسہ بجزک وقت آمت بیہ آسہ اس خام عیال ۖ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ
توپتہ واتہ اتھہ باغس آسندس تند ولواہ تھہ سیت نار تہہ آسہ یعنی نار سموم ای سیت پیہ یہ باغ دز تھہ۔ یہی

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُغْضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۱۳۱﴾
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ

کیفیت چھہ بنان یتکین پیٹھ احسان تہ منت تھاونہ سیت۔ اذہ تہ پامہ دنہ سیت۔ ریا کر نہ سیت۔ گنڈک
یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ یتھہ پاتھہ چھو اللہ تعالیٰ ویرثہ ناوان توبہہ پنن آیات۔ یتھہ
تہہ غور و فکر کتر تھہ پنن صدقات و خیرات منت تہ احسان تھاونہ سیت۔ اذاتہ پامہ دنہ سیت، لوکن ہاونہ
سیت ضابطہ تہ تہاہ کران آسونہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ** ای باایمانو خرچ
آسوکران رثن کائین اندر۔ تمہ اندر رت رت چیز یہ تہہ زینان تہ کماوان چھوہہ **وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ** بیہ رت رت چیز تمہ اندر یہ آسہ زمینہ اندرہ تہہہہ خیطرہ کھور۔ **وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ** بیہ مہ
آسوردی تہ خراب چیزن ہند قصد کران **مِنْهُ تُنْفِقُونَ** تمی ردی چیزہ منزہ آسہو خرچ کران ردی تہ
کھوٹ چیز آسہو ثارت تہ الگ کڈت تھاوان خدلیہ سہہ خیطرہ وئس کیت۔ یہ گوپست ہمت لاگن۔ کھوٹ
پانسہ۔ کھوچہ روپیہ۔ کھوٹ پٹھہ ووٹ یاد زشرہ ژوچہ۔ دودر یومت غلہ مہ آسوخدلیہ سزہ وئہ دوان
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ حالانکہ تہہ چھوہہ نہ سوی چیز پانس رٹہ ون کئہ صورتس اندر **إِلَّا أَنْ تُغْضُوا
فِيهِ** مگرے کئہ ساتہ اچھہ ٹو تھہ تمہ اندر سہل انگاری کرو تہ بل کئہ ہیو۔ **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ** وارہ زانو یہ تھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز حمد پنہ آمت تعریف کر نہ آمت۔ تمس چھونہ تہندین
ردی مانن ہنز ضرور تھی۔ سوچھونہ راضی سپدان کھوٹو دیارو سیت۔ سوگڑہما خوش فقیرس مسکینس
حاجت نیر نہ سیت۔ تمس بلہ نہ کھوٹ پانسہ کئہ چلیو و تمس کیاہ حاجت دراؤ **الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ
وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ** شیطان چھوہہ توبہہ کھوڑہ ناوان محتاج سپانس۔ بیہ چھوہہ امر کران توبہہ چھہ

يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٧٤﴾
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٧٩﴾
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٣٨٠﴾
إِنْ تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَ
تُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ

کامین ہند یعنی مخلک وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اللہ تعالیٰ چھوہ توہمہ صدقہ و خیر اس پیٹھ
وعدہ کران پتہ بدہ مغفر تک بیہ رزق اس اندر وسعتک وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھوپانہ آسن
دول سوزی زانن وول یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ عقل ودانائی چھو عطا کران ایس یرشان چھو اس وَمَنْ
يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ایس ایس عقل ودانائی ایہ عطا کرنہ پیشک اس آو عطا کرنہ
خیر کثیر۔ یعنی واریہ خیر وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ نصیحت چھنہ قبول کران مگر عقلہ والی وَمَا
أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ بیہ یہ کثیر ہاہ جہہ خرچ کرہ وہ
یانذر تھو وہ کانہہ نذرہ ایس چھو اللہ تعالیٰ تہ سوزی زانان وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ چھونہ
ظالمین ہندہ خیطرہ کانہہ مدد گارہ اسم مخلہ سیت۔ احسان تھاونہ سیت، اذاندہ سیت، لوکن ہاونہ تہ تھیجہ
سیت خیر اسمچہ ثوابہ نعمہ پنہ نین پانن محروم کرن یا اسم حرام مالہ سیت خیرات کرن۔ یا ایم نذرنا جائیز تھاون
غیر اللہ یعنی خدا ایس ورا ی مخلوقن ہندہ خیطرہ یا اسم جائیز نظرن وفا کرن نہ إِنْ تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتِ
فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ہر گاہ تُوہ ہن صدقات ن پانہہ دیو
جیتہ گو سیٹھاہ جان۔ مگر ہر گاہ لو تہ پانہہ تہ ژورہ پانہہ دیو بیہ دیو فقیرن سو چھو ژور بہترن پانہہ تہ آسن والین

مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۴۱﴾ لَيْسَ
 عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ وَمَا
 تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا
 ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوقَ إِلَيْكُمْ
 وَأَنْتُمْ لَا تَظُنُّونَ ﴿۲۴۲﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

دنه خوت۔ فرضک صدقہ آسہ زکوٰۃ وغیرہ ہیوسون پانھہ دین چھو بہتر تھہہ بیس تر رغبت پادہ سیدہ۔ ہر گاہ
 فلک صدقہ آسہ سو چھو پوشیدہ پاشی دین بہتر تھہہ ریالہہ بیہ۔ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بیہ چھو اللہ تعالیٰ لہہ سببہ تھہہ دین بعضی گنہن بخشایش تہہ در گذر کران۔ بیہ چھو اللہ
 تعالیٰ پورہ زمانہ بیہ تھہہ کران چھوہ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ توہہ نہ
 حض چھوہ مہہ یارسول اللہ سم کافر اہ راستس پیٹھہ ان۔ مگر اللہ تعالیٰ ہی نیس یٹھہ تس کرہ ہدایت وَمَا
 تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِكُمْ تھہہ نیس مالہہ خرچ کرو خدیہ سہہہ خیطرہ تمیگ فاندہ چھوہ توہہہ پانس وَمَا
 تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ توہہ چھوہ نہ خرچ کران خدیہ سندی رضا حاصل کرنہ خیطرہ وَمَا
 تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوقَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظُنُّونَ تھہہ بیہ کیوہا خرچ کتر ونہہ مالہ اندرہ تمک ثواب تہہ بدلہ
 ایہ توہہہ عطا کرنہ۔ توہہہ گنہہ قسمک ظلم بیہ نہ کرنہ۔ تھہہ حق پیہ نہ ضائع کرنہ۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ خیرات گھہہ دین تمن فقیرن سم بند آسن کرنہ آمت خدیہ سزہہ وتہہ اندر یعنی تھہہ وقت
 آسن مصروف دینہ جن تمنی کاین اندر یمن اندر عام لوکن ہندہ خیطرہ بہتری آسہ۔ سوگو جہاد ہیو، تبلیغ ہیو طلب علم
 دین ہیو۔ سم ہتھہ مصارف صدقا تو اندرہ بہتر مصرف لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ یمنہہ تمی سببہ آسن
 ہیکان اورہ یور پھیر تھہہ رزق کمانہ خیطرہ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ ناواقف لوکھ آسن
 تمن مالدار زمانہ تھہہہ سوالہ نقشہ ہتھہہ روز بچہہ سبب تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ شہہہ پر زنا و بچہہ تم تھہہہ ہتھہہ علامتہ

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ^(۲۳) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^(۲۴)
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

سیت یعنی فادگی ہندہ سببہ آسن تہندہ بھہ زرد۔ لَا یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا تم آسن نہ لوکن منگان چھہ
لاگت وَا مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ یہ کنیہ ہاہ جہہ خرچ کمر و مالہ اندرہ یمن مسکین پیٹھہ یمن منزیم پانڑھہ
صفت موجود آسن فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ پس اللہ تعالیٰ اس چھوتہ سوڑی معلوم الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سم لوکھ مال پٹن خرچ کران چھہ رات کیت یادولہہ
لوت پانڑھہ یان پانڑھہ فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تہندہ خیرہ ہہہ تہنز مزدور پروردگار س نش وَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بیہ آسہ نہ تمن کانہہ خوفانہ کانہہ غماہ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا سم
لوکھ سوڈ کھیوان چھہ لَا يَقُومُوا الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ تم دو تھن نہ قیامتہ
دوبہہ قبر و منزہ مگر تس شخصہ سندر پانڑھہ پس زورہ ژنڈ آسہ دژمژ شیطان کی سیت آسیس دماغ خراب
گومت یعنی سیتہ لدہ ہو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا یہ سزا آسہ تمن امی موکھ کہ تمہو کیا
ڈوپ ہیون کننہ چھو بیازی ہو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چھو ہیون کنن
حلال کورمت۔ سوڈ چھن حرام کورمت حلال و حرام کرنگ اختیارہ دول چھو سوڑی یوت فَمَنْ جَاءَكَ
مَوْعِدًا مِنْ رَبِّهِ فَآتِهِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْكُمْ لَوْ لَمْ يَأْتِكَ مِنْ رَبِّهِ فَآتِهِ تہندہ طرفہ نصیحت کلام۔ تو پتہ رود

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۹۰﴾
 يَبْحَثُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَاقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۲۹۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۹۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

سوامہ سوڈ کہ معاملہ نشہ ہتھہ فلہ ماسلف و امرہ الی اللہ پس یہ کیوہا ہتھہ کن گذریو و تہ گوہند
 وی ملک۔ فیصلہ ہند کر پانہ خدا و من عادہ سم لو کہ خدایہ سہد حکم بوزتھہ بیہ دوبارہ کرن زاتھہ کمرتھہ
 سوڈ کہ معاملہ فأولیک اصحاب النار ہم فیہا خلدون تے لو کہ گے دوزخی تم روزن تھہ
 دوزخس منز ہمیشہ کیا زہ تمو کور خدایہ سہد حکم نظر انداز یبحث اللہ الربوا و یریبی الصداقات
 گالان ہتھو اللہ تعالیٰ سوڈس سوڈکین دیارن چھنہ کانہہ برکتھہ ہر راوان ہتھو اللہ تعالیٰ خیر اتس۔ اگس
 ہتھو اللہ تعالیٰ ذہہ گن تہ ساسہ گن بیہ لچھہ گن تہ دوان واللہ لایحب کل کفار اثمین اللہ تعالیٰ اس ہتھونہ
 پسند کہتی ناسپاس بندہ یس سوڈس حلال آسہ زانان کہنے مجرم بندہ یس سوڈہ کس معاملس پیٹھہ ڈاڈ آسہ
 کمرت ان الذین امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلوة و اتوا الزکوۃ پزیاٹ۔ تمو لو گو ایمان
 اون بیہ کرکھہ رزہ عملہ بیہ تھو کہ نماز پرپا۔ بیہ ڈرک مانج زکوۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف
 علیہم ولا ہم یحزنون پس تہندہ خیطرہ ہتھہ تہمز مزدور ہندس پروردگارس نشہ بیہ آسہ نہ تمس کانہہ
 خوفانہ بیہ نہ کانہہ غماہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین ای با
 ایمانو کھو ژو خدا ایس بیہ تراو و مور تم یس باقی آسہہ رودمت سوڈ کہ لو کن نشہ ہتھوے تہہ پزیاٹھہ با ایمان

اللَّهِ وَذَرُّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پس ہر گاہ سودہ نشیہ پیٹھہ روزونہ تلہ روزو خبردار تہ تیار جنگ کرنہ خیطرہ خدائس تہ جہدس رسولس سیت وَاِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ہر گاہ تہ توبہ کرو سودہ نشیہ پیٹھہ روزو تلہ ابوہ اصل رقم واپس دنہ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ مہ کرمہ تہہ کانہہ پیٹھہ ظلم۔ نہ بیہ توبہ پیٹھہ کانہہ ظلم کرنہ وَاِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اَگر قرضدار آسہ تنگدست فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تس گڑھہ پیازن یوتان تس وسعت ہنہ وَاَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ دون ہہ تہہ سورقم صدقمس پیٹھہ تس قرضدارس تراو تہ چھو جہندہ خیطرہ بہتر۔ ہر گاہے توبہ تہیک ثواب معلوم آسہ ہایا ہر گاہے تہہ مناسب زانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ بیہ کھوڑو تہہ دوہس سمہ دوہنہ تہہ واتانہ ابو خدائس بروٹھہ گن ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ توپتہ بیہ پریتھہ آگس تمہہ ساری نیک و بدک بدلہ پورہ دنہ بیہ تم کورمت آسہ۔ بیہ بیہ نہ تمہ نہ بیج وجہ گنہ قسمہ ظلم کرنہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَالْتَّبُوا ای با ایمانو تہہ یلیہ قرضک لین دین آسو کران گنہ خاص مقرر مدتس تان، پس آسو لیکھان وَكَيُتَبَّ بِتَنَافُثِكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ بیہ لیکھن بیہ کاغذ توبہ اندرہ کانہہ لیکھن وولاہ پوز پوز۔ ئس نہ کی یا زیادتی کرہ رقمس اندریا

فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

وقس اندر و لا یأب کاتب ان کاتب کاتب بینه مه کترن انکار کانمه لیکن دول بیه کاغذ
لیکنه نشیه کیازه الله تعالی ان تنه پاتمه سو یکنه نو لیکن بس آسن سو تمه کس شکر انس اندر لو کن کاغذ
امه قسمک دستاویزات لیکنه دوان ولیمیل الذی علیه الحق بیه آسن سوی شخص لیکنه اوان بیه
عبارت ونان بس پتله حق چهو یعنی بس قرض نوان آسه ولیتق الله ربته کهو ژن سو خدا بس بس جهند
پروردگار چهو ولا یبخس منه شیئا کم مه کترن سو امه منزله کانمه چیزه فان کان الذی علیه
الحق سفیهًا اَوْ ضعیفًا بس هر گاه قرض نوه ون کم عقل آسه یا ضعیف بیه ناتوان آسه اولایستطیع ان
یمل هو یا آسه نه بیگان سو پانه عبارت و تنه نه زاننه موکه فلیمیل ولییه بالعدل بس لیکنه اوان بیه
عبارت ون والی نهوند معتبر بیه کارکن جهند واره پاتمه بیه انصافه پاتمه واستشهدوا شہیدین من
رجالکم بیه تهاویو که شاهدزه گواه مسلمان مرد و آندره فان لم یکنوا رجلین فرجل و امرأتین هر گاه
نه زه مسلمان مرد بشن یعنی بیه بیه نه دستیاب بیه کن نه سپد تنه بیله روزن گواه که مرد بیه زه زاننه مبن
ترضون من الشہداء بیه تبه پسند کریو که گواهو آندره ان تضل احدہما فتذکر احدہما
الآخری کیازه هر گاه مشت گزوه دیو آندره آگس زاننه ژیتس پادیس دو تم زاننه و لا یأب الشہداء اما

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبُ
 وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَ
 اتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۸۷﴾

دُعُوا گواہن ہند گروہہ نہ انکار کرن یلہ تم گواہ روزنہ خیرہ ناد آسہ یوان دنہ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ سستی مہ آسہ کران بہ معیادی کاغذ لیکنہ نشہ ادہ معاملہ لوگت آسٹن یا بوڈ
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ بہ چھو تہندہ خیرہ انصاف زیادہ قایم تھاوہون خدا بس نشہ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
 بہ چھو بہ لیکن زیادہ قائم تھاوہون گواہیہ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا بہ چھو زیادہ نزدیک ہتھہ تھہ کہ توہہ
 روزہ نہ شک نہ شبہ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً مگرے آسہ تجارتاہ فوری ہینہ دنک تَدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ بس تجارت تہہ پانہ وان پھران آسہ یعنی ہینہ دول آسہ قیمت دووان کنن دول آسہ چیز پیش
 کران فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا پس چھو نہ کانہ حرج توہہ ہر گاہ اتھہ صورتس
 منز لیکن آسہونہ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ بہ آسہ گواہ تھاوان یلہ تہہ خرید و فروخت کران آسہ۔
 ہتھہ کانہ دو یواندرہ انکار کرہ وَلَا يُضَارَ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ نقصان گروہہ نہ و اتناونہ سن نہ لیکن
 والس نہ نہ شاہدن وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ہر گاہ توہہ نہ کورہ کاتین نہ شاہدن و اتنودہ
 تکلیف نہ ضرر سو چھو تہندہ خیرہ بوڈ گناہ و اتَّقُوا اللَّهَ کھوڑو خدا بس ہمیشہ خصوصاً تمہ کامہ کرنس
 اندر سمونہ منع آو توہہ کرنہ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ چھوہ دین و دنیاچہ کامہ نہ احکام چھہ تاوان

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَ
 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۸۳﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ
 اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ


وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو پرستہ چیزاہ پورزانہ دن وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
 دون ہر گاہ تہہ آسو سفرس اندر تو پتہ لیون نہ تہہ کا نہہ لیکن دولاہ تہہ سفرس منز فرہن مَقْبُوضَةٌ
 تہہ صورتس اندر گدھن بند تھو تک چیز پیش کرن یمن چیزن قبضہ کرہ قرضگ رقم دنہ وول قَانِ أَمِنَ
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس ہر گاہ مطمئن آسہ تو ہہ اندرہ اکہ ہمیش پیٹھ یعنی اکہ اکس پیٹھ اعتمادتہ اعتبار آسہ
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ پس تمس پیٹھ اعتمادتہ اعتبار آو کر نہ سو کرن ادا پن
 امانت۔ بیہ کھوژن خدا پس پنہ نس پروردگارس تمسد حق مہ گھن وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اے مسلمانو
 مہ آسو گواہی کھٹان وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ پس اکھاہ شہادتتہ گواہی کھٹان آسہ تمسند ول
 چھو گنہگار۔ یعنی سو مہ زنان یہ شہادت نہ دن ما چھو زیوہ ہندی یوت گناہ بلکہ چھو یہ دلگ گناہتہ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ کیا زہہ پرستہ گنہگ ارادہ چھو ولہ پیٹھ ووتھان۔ اللہ تعالیٰ چھو پور زنان یہ تہہ
 کران چھوہ ولویا تا نو سیت لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدا یہ سندوی چھو تہ سوزی یہ آسمان
 اندر چھو بیہ یہ زمین اندر چھو۔ خود آسمان تہ زمین چھو تہندوی وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا
 يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللہ ہر گاہ نہ راووتہ یہ تہندین دلن اندر چھو یا کھٹھ تھاو۔ اللہ تعالیٰ چھو تہ سوزی
 زنان۔ تہہ سارسی پیٹھ ہیوہ سو حساب فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ تو پتہ پس خوش
 کریس تس کرہ مغفرت پس خوش کریس تس کرہ عذاب وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ چھو پرستہ

شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴿۲۸۷﴾ اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ
 الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
 لَا نَفَرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا
 غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲۸۸﴾ لَا يَكْفُرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا
 وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا

چیزس پیٹھ قدرتہ وول یلہ یہ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا يَحْسِبْكُمُ اللّٰهُ نازل سپد صحابہ
 صیب سپد غمگین عرض کوز کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمن ہندس خدقس منز کہ یارسول اللہ
 یہ حض چھو سیٹھاہ مشکل سانہ خیطرہ۔ فرمودہ کچھ کیاہ تہہ نہ ونوہ تی یہ یہودو تہ نصارو وون پنہ نین
 پیغمبرن سمعنا وعصینا تہہ مانو، تہہ کمر و تسلیم خدایہ سُنْد کُھم تہہ دپو سمعنا واطعنا بوزاسہ مون
 اسہ۔ اللہ تعالیٰ کرہ توہہ پیٹھہ رحم۔ چنانچہ امیک نتیجہ دراول اللہ تعالیٰ ان کمر نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم سیت بالایمان ہند تعریف فرموان اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ
 پیغمبر برحقن کمر پڑھ تھہ ساری یہ نازل آد کمر نہ تمن پیٹھہ تہندس پروردگار سندنہ طرفہ بیہ کمر پڑھہ تھہ
 بالایمانو كُلُّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ پریتھہ اک اون ایمان کنس خدایس بیہ تہندین
 ملائکن۔ بیہ تہنزن کتابن بیہ تہندین پیغمبرن ساری تہودوپ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ اَس چھنہ
 فرق کران پیغمبر واندہہ کانسہ اگس منز۔ اسہ نش چھہ ساری پیغمبر برحق۔ ہم حضرت آدمس علیہ الصلوٰۃ
 والسلامس پیٹھہ حضرت محمدس صلی اللہ علیہ وسلم تان آی سوزنہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا بیہ
 وون بالایمانو بوزاسہ مون اسہ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ وون چھہ تھاندن اس چون مغفرت
 ای سانہ پروردگادہ پتولا کہ چھو وائن تھے نش لَا يَكْفُرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا عبادتک تکلیف چھونہ
 اللہ تعالیٰ ووان کانسہ اگس مگر تہندہ طاقتہ موجب لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ پرت اگس چھو
 ثواب تہہ کوی بیہ ہم کموومت تہ حاصل کورمت آسہ نکیواندرہ بیہ چھو پریتھہ اگس تہہ کوی عذاب تہ

تَوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
 إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٧﴾

سزایہ تم گرمت آسہ بدیو اندرہ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ای سانہ پروردگارہ رطہ متہ
 آسہ ہر گاہ اسہ کینہہ مشمت گویا خطا گو رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ای
 سانہ پروردگارہ بیہ متہ کھارتہ اسہ پیٹھہ عبادتک سُورئیس یور کھو رتھہ ژبیہ تمن لو کن پیٹھہ سم آسہ
 بروٹھہ آس رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ای سانہ پروردگارہ بیہ مہ ٹلنا واسہ سُور سم سمہ تلنگ
 اسہ طاقتہ چھوندہ۔ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا بیہ کر عفو اسہ۔ بیہ کر مغفرت اسہ۔ بیہ کر اسہ
 پیٹھہ رحم أَنْتَ مَوْلَانَا ژبی چھو کہ سون مولانہ آنہ فَاانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پس کر ژہ
 آسہ یاری تہ مدد کافرن پیٹھہ حدیث شریفس منز چھو آمت یلہ سم آیات کریمہ نازل سپد تو پتہ پتہ
 حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سم آیات اللہ تعالیٰ ان فرما و کہ اگس اگس دعاء س پتہ ادہ
 ہز۔ یعنی اجابت کو روم اسہ اسہ ٹھندین سارنی مطالباتن



سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝
 مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

الکفر خدایہ سی چھو معلوم امہ اندرہ کیاہ مراد چھو اللہ لاکلہ الاھوالحی القیوم اللہ تعالیٰ چھو معبود برحق۔ کانہہ معبوداہ چھونہ تس وراہی۔ سوی چھو زندہ مر نہ نشہ منزہ تہ پاک۔ سوی چھو سارنی زندن زندگی عطا کرہون۔ پانہ چھو قائم بذات خود۔ سوی چھو سارنی چیزن قائم تھاوہون۔ سوی چھو ازلا وابدأ موجود۔ تس وراہی تم چھہ تم ساری چھہ پنہ نس وجودس اندر۔ پنہ وجودہ کس حفاظت تہ راچھہ کرنس اندر۔ تس کن محتاج۔ لہذا چھونہ کانہہ اکھاہ عبادتس سزاوار تس وراہی۔ عبادت گنیہ عاجزی تہ پستی تر اوہن۔ یہ شوبہ تمس بروٹھ گنہ تر اوہن کس سیٹھاہ بے حدود بے نہایت عزت تہ بجز آسہ۔ کس نہ حیات وبقاءس منز کانہہ کن محتاج آسہ۔ سو چھونہ کانہہ تہ تس کنس خدا کس وراہی۔ اتھہ کن نظر کمر تھہ شوبہ نہ بدن ہنز کانہہ بروٹھ گنہ عاجزی و پستی تر اوہن تس عزت و عظمتہ ولس خدا کس وراہی نزل علیک الکتب بالحق تمی کر توہہ پیٹھہ بیہ نازل بیہ بد کتاب پناٹھہ یار سول اللہ مصدقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ چھہ حال تس اندر کہ یہ کتاب چھہ تصدیق کران کمن سارنی کتابن۔ سمہ امہ بروٹھ نازل کرنہ آہی و انزل التوراة والإنجیل * من قبل بیہ کور تمی نازل تورایت تہ انجیل امہ بروٹھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہس پیٹھہ تورایت حضرت عیسیٰ روح اللہ ہس پیٹھہ انجیل ہدی لِّلنَّاسِ سمہ دوشوبے کتابہ آسہ لوکن ہندہ خیطرہ بوڈہدایت و انزل الفرقان بیہ کرہ تمی نازل حضرت انبیاءن پیٹھہ تمہ کتابہ تہ تم معجزات سموسیت پیزس تہ پیزس فرق سہز۔ ان الذين كفروا يات الله يشككتم لوکھ انکار چھہ کران خدایہ سندین کمن آیتن تم تہندس وحدانتیس پیٹھہ دلالت چھہ کران لھم عذاب شدیداً

بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝
 هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ لَآ إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
 آيَاتُ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ

تہندی خیطرہ چھو سخت عذاب وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ اللہ تعالیٰ چھو غلبہ وول تہ قدر تہ وول بدلہ تہ انتقام ہینہ وول إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بیٹک اللہ تعالیٰ اس نش چھونہ کانہہ چیزہ کھٹھہ نہ زمین تہ نہ آسمان اندر لہذا چھو تمند علم نہایت کامل هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ سوگو سوئی قدر تہ وول بس ماجن ہندن شکمن اندر، چیرہ دانین اندر چھو توہمہ ساری شکل و صورتہ عطا کران۔ ہتھہ پاتھہ سو یڑھان چھو اکس اکھ صورت بیس بیاکھ صورت۔ ساری اعضاء ہتھہ اچھہ نس۔ آس۔ ڈیکہ ہوگن۔ سارنی برابر مگر باوجود آل چھونہ کانہہ کانہہ ہیو۔ امہ اندرہ چھہ ننان تہنز کمال قدرت پس سڈ ثابت کہ حیات کاملہ تہ تش یوت قیومیت تہ تش یوت۔ علم کامل تہ تش یوت۔ قدرت کاملہ تہ تش یوت۔ سم گئے اصول صفات۔ سم ساری چھہ موجود تس ذات پاکس اندر بدرجہ اتم بغایت کمال کانہہ ہندہ شرکتہ وراى۔ امی سیت سڈ ثابت کہ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ کانہہ اکھاہ چھونہ عبادتس لایق معبود آس سزوار تس وراى الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سوئی چھو غالب توحیدہ کین مکران ہیچہ سوئی انتقام ہتھہ جتہ وول تہ چھو۔ تہ گو سین چھونہ مکران عذابس گرفتار کران۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ سوگو سوئی یم نازل کتر توہمہ پٹھہ یار سول اللہیہ بد کتاب قرآن مجید منہ ایتُ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ تمہ منزہ چھہ کینہہ آیات مضبوطہ حکم پنہ نین معین پٹھہ صاف تہ واضح تین پٹھہ احکامن ہند دار و مدار چھو وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ بیہ چھہ کینہہ آیات امہ کتابہ ہند یمن ہندین معین ہتھہ بین لفظن ہندین معین سیت یمن آیاتن ہند معنی پر ہتھہ اکس معلوم چھونہ فَأَمَّا الَّذِينَ

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
 الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَرُّ
 الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ④ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
 هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ⑤

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ۱ پس تم کو سن ہندین دل اندر بجزرتہ وٹھ چھو ۲ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ۳ تم
 چھہ تمی بدیتی تہ بجزرہ مٹوکھہ پتہ لگان تمی آیاتن تمی ہمدہ معنی وضاحت چھنہ آسان ابْتِغَاءَ
 الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۴ فتنہ تہ فساد تھکھہ غرضہ بیہ پندہ طرفہ غلط معنی کرکھہ غرضہ بیٹھہ لوکن اندر
 شک تہ شبہات پادہ سپدن تم ڈلن راہ راستہ نشہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۵ حالکھہ تمی آیاتن ہند
 صحیح معنی چھونہ زانان کانہہ تہ اللہ تعالیٰ اس ورائے وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ۶ توے تم گائل تہ پختہ کار
 عالم چھہ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۷ تم چھہ وان اسہ اُون ایمان تمی متشابہ آیاتن ساری
 آیات محکم تہ تہ تشابہ تہ چھہ سانس پروردگارہ سندی طرفہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۸ صحیح تھہ سمرن
 نہ قبول مگر عقلہ والی۔ تم عقلہ وال چھنہ اتھہ پندہ نس صحیح طریقہ پٹھہ آسٹس پٹھہ تھیکان تہ تہ یگان
 بلکھ چھہ تم خدایہ سزے مہربانی تہ نعمت زاتھہ تس بجا جزئی منگان رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
 اِی سانہہ پروردگارہ ہل متہ کرکھہ ڈالتھہ متہ دل سان اسہ ہدایت کرنہ پتہ۔ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
 رَحْمَةً ۹ عطا کر تہ اسہ پن ہڈر رحمت۔ سورحمت گیدہ پتھہ اسہ تھواتہ قائم تہ محکم راہ راستس پٹھہ إِنَّكَ
 أَنْتَ الْوَهَّابُ ۱۰ پڑپاٹھہ ڈی چھکھہ سیٹھاہ عطا کرہ ون۔ ہڈر رحمت عطا کرہ ون رَبَّنَا اے سانہہ پروردگارہ
 اَس چھنہ بیہ دُعا منگان تھہ دُنوی غرضہ خیطرہ بلکہ چھہ اَس بیہ دُعا کران محض چانہہ آخر کھہ عدلیہ نشہ
 چھہ خیطرہ کیا زہ اسہ چھہ پڑھہ۔ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَدْرَبَ فِيهِ ۱۱ بیشک ڈی چھکھہ سونبرہ ون
 ساری لوکن محشر کس میدانس اندر تمہہ دوہہہ یمہ دوہہہ کس یس منز کانہہ شک تہ خُبہ چھونہ۔ کیا زہ تہیہ

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَرَادَ رَبُّكَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ
 الْمِيعَادَ ۙ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
 أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۙ كَذَّابِ
 آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
 سَعْتٌ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۙ وَتَحْشُرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۙ قَدْ كَانَ

چھٹ تئمہ دوہجہ تک پانہ وعدہ فرمومنت اِن اللہ لا یخلف المیعاد پڑیاہم اللہ تعالیٰ چھونہ ہرگز پنے
 نس وعدس خلاف کران اِن اللذین کفروا لن نغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئاً بیشک
 سمولو کو کفر سے انکار کور ہرگز ہجنتہ تم نفع سے فائدہ و اتناوتھ نہ تہند مال ودولت نہ تہند اولاد خدا اس نے
 کئے چیزک و اولیک ہم و قود النار یہ آسن تے یہندہ سیت نار جنم تاونہ یہ تہوند حال چھو کذاب
 آل فرعون و الذین من قبلہم فرعون لوکن تہ یہ تہن کافرن ہند ہیو حال تم بروئھ آس کذبوا
 بالآینا تمویہ کیا زمان لہر سان آیات توے کمر کھ نافرمانی فآخذہم اللہ بذنوبہم پس کمر تم گرفتار
 خدا اس اللہ تعالیٰ ان پنے نین گنہن تہ نافرمانین ہندہ سببہ۔ واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ چھو سخت
 عذاب کرہون سخت سزاوہون قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَتَحْشُرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ
 فرماوہتہ یارسول اللہ ﷺ یمن کافرن ای کافروہتہ سپد و جلدی مغلوب مسلمان ہندہ اتھہ دنیا س اندر تو
 پتہ بیو سونبرت و اتناونہ نار جہنم۔ سوچھ سیٹھاہ پچھہ جایاہ تہندہ ٹھمر نہ خیطرہ۔ ہتھہ منز قرارہ بدل
 سخت بیقراری آسہ توہہ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا تھیق اوس تہندہ خیطرہ بوڈمؤنہ تہ
 عبرت حاصل کرنگ نشانہ تم دون جماعتن ہندس مقابلہ کرنس منز سم میل اکھ اس سیت جنگ
 بدرس منز فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ اکھ جماعت آس جماد کران خدا یہ سہہ خیطرہ یعنی حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم سز لشکر۔ تم آس تریہ ہتھہ تہ خرواہ (۳۱۳) صاحب۔ ماجر و اندرہ ستہ ستھہ

لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ التَّكَاثُفَةِ تَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى
كَافِرَةٌ بَرُّوهُمْ مِمَّنْ لِيَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ
مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زِين
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

(۷۷) انصار و اندر زه هتمه ته شیه تره (۲۳۶) صاحب۔ سیت آسکھ زه ۲ گمر۔ سته ۷۰ و ونه۔
آه ۸ شمیرہ۔ شہ ۶ زہ۔ و اُخْرَى کافِرَةٌ بیاکھ جماعت آس خدا نِس انکار ته مگر کره ون ابو جهله
سنز لشکر تم آس نوشته ته پنواہ ۹۵۰ زن تمن سیت آس اکھ ہتمہ گمر۔ سته ہتمہ و ونٹ بَرُّوهُمْ
مِمَّنْ لِيَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ مسلمان آس و چھان کافر ن پانس دو گن وارہ کارہ اچھو سیت۔ باوجود آل آس
قوت ایمانی سببہ تمن سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ تیار۔ تہمد حوصلہ آس بلند سپدان۔ نتہ گو معنی کہ کافر
آس و چھان مسلمان پنہ خونہ دو گن۔ تہمد حوصلہ آس بہت سپدان بکنہ گویہ یاری خدا وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ
بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو یاری ته مدد کران نِس یڑھان چھو تس۔ ہتمہ پاٹھ یڑھان چھو تھ
پاٹھ۔ لَاتَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ پڑ پاٹھ ہتمہ جنگ بدرہ کس واقص اندر ہتمہ بڈ عبرت
گا شدارن ہمدہ خیطرہ زِين لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ زینت آودنہ لوگن ہمدہ خیطرہ نفسچن خواہشاتن ہمدس
محبس۔ مثلاً زنانہ۔ غمر۔ گمر۔ بیہ سوئرمٹ واریاہ مال۔ سون ته روپھہ۔ بیہ نشانہ دار گمر۔ بیہ چار وای۔
وونٹ۔ کُن ته تیر۔ بیہ زراعت۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیہ سوڑوی چھو دنیا چہ ناپائیدار زندگی
ہمد اکھ سامانہ۔ نہ دنیا س اعتبارنہ اتھہ سامانس کینہہ اعتبار وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ اللہ تعالیٰ سی
نِس چھہ جای رتھہ واپسی ہنز قُلْ أُوْتِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ فَرَاو بوکھ تہہ یار سول اللہ کیاہ بو کرووہ توہہ

الْمَابِ ۱۴) قُلْ أَوْبِنَّا لَكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَزَاءٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۱۵) ع
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ أَمْتًا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ۱۶) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَارِ ۱۷) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ

خبر تمجید ساروی چیز و خوتہ سیٹھا بہتر تہ افضل چھو للذین اتقوا عند ربهم جزاء تجری من تحتها الأنهار کھوژن تہندہ خیطہ چھہ تہندس پروردگار س نش تم تم باغ سمومنز جو یہ پکان چھہ۔ خلدین فیہا تمنی باغن منز چھو تمن روزن تہ بسن ہمیشہ ابد الابد و ازواج مطہرہ چھہ تہندی خیطہ تمن باغن اندر پاک و پاکیزہ زنانہ سمہ پاک و صاف آسن حیضہ نشہ، نفاسہ نشہ بیہ ساروی آلائیٹو تہ گندہ گیہ نشہ و رضوان من اللہ بیہ چھو تہندی خیطہ رضای خدا یوسہ ساروی نعمتو اندرہ بڈ نعمت چھہ واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ چھو وارہ و چھان بدن ہند حال۔ پرستہ آسں دیہ جزا پندہ پندہ کامہ ہند الذین یقولون ربنا اننا امتا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار تم متقی بہندہ خیطہ سمہ مہربانی تہ انعامات چھہ۔ تہندہ صفت چھہ سم۔ تم چھہ عاجزی سان منگان آسان کہ سانہ پروردگارہ بیشک آسہ اؤن ایمان۔ وون کر تہ سائین گنہن مغفرت۔ بیہ رچھتہ اسہ نار کہ عذابہ نشہ۔ بیہ چھہ تہندہ صفت الصابریں و الصادقیں و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالسحار تم چھہ صبر کہ وون بیہ چھہ تم پوزونہ وون۔ بیہ چھہ تم فرمانبرداری کرہ وون بیہ چھہ تم رژن کائین اندر مال ٹین خرچ کرہ وون خدایہ سدہ رضا خیطہ۔ بیہ چھہ تم گنہن مغفرت تہ بخشایش معہ وون سحرہ کین و قن اندر پاس آخرس۔ کیا زہ تمہ وقتہ چھہ دعا قبول سپدج زیادہ امید شہد اللہ انہ لا الہ الا هو گواہی چھہ وژ مژ اللہ تعالیٰ ان برو نھن کتابین اندر امچی کہ کانہہ معبوداہ چھونہ تس ذات پاکس و رای

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْهَيْكَلُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ط
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۸ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ
الإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۱۹ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ
وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالْهَيْكَلُ وَأُولُو الْعِلْمِ بپہ چھہ ڈژمز گواہی ایچ ملا نکو پنہ نین اڈکارو اور اودن اندر، تہنز ذکر چھہ
تسبیحات و تحمیدات و تہلیلات۔ بپہ چھہ ڈژمز گواہی ایچ علمہ و الیو پنہ نین تقریر اتن و تحریر اتن و بیاناتن
اندر قَائِمًا بِالْقِسْطِ در حالیکہ سو معبود بر حق چھو قائم تھاوت پر چھہ چیزک نظام اعتدالہ سان۔
تھی چھو مکر و نہہ یوان لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کانہہ معبودہ چھونہ تس وراوی سو چھہ غلبہ وول تہ حکمتہ
وول۔ کیا زہ بپہ چھہ تمیزی کام بپہ نہ کانہہ ہنز اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ بیشک پوز دین تہ
مقبول دین چھو اللہ تعالیٰ اس نعرہ صرف دین اسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اختلاف کور نہ یہود و تہ نصار او اسلامس دین حق آسس اندر مگر تمن نعرہ امہ تھہ
ہند پور علم و اتنہ پتہ۔ یعنی یہ اختلاف کور تمو خبر آستہ دیدہ و دانستہ زانتہ کر تھہ بَعْيًا بَيْنَهُمْ سؤی
اختلاف کور زک حسدہ کن تہ عنادہ کن اُس تمن منز آتھی اوس وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ وون اُس انکار کرہ پروردگارہ سنیدین آیاتن یعنی قرآن مجیدس تہ معجز اتن چھہ پاتھہ سمو
یہود کور پس اللہ تعالیٰ چھو تمن جلد حساب ہیوہ وون تس لگنہ زیادہ وقت تمن حساب ہمیس اندر۔ حسابہ
پتہ گو تہندہ خیطرہ سخت عذاب فَإِنْ حَاجُّوكَ وون ہر گاہ توہمہ سیت یار سول اللہ تم لوک بحث لاگن
فَقُلْ تہمہ فرماو کہہ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ مپہ کور ہن رخ کنس خدا اُس کن بپہ تمو ساروی
تم مپہ پتہ پتہ پکان چھہ میان متابعت کران چھہ تہہ مانو یا متہ مانو وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا فَآسَأْتُمْ فَيَأْتِيهِمْ مَا يَكْفُرُونَ لَئِن لَّمْ يَأْتُواكُم مَّبْعُوثًا لِّتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُضِلُّونَ وَأَلَّا يُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُصِيبُكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا قُلْ اللَّهُ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا فَآسَأْتُمْ فَيَأْتِيهِمْ مَا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقِّ ۗ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا فَآسَأْتُمْ فَيَأْتِيهِمْ مَا يَكْفُرُونَ لَئِن لَّمْ يَأْتُواكُم مَّبْعُوثًا لِّتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُضِلُّونَ وَأَلَّا يُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُصِيبُكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا قُلْ اللَّهُ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠﴾

توبہ فرماؤ تمہیں یہی یوں نصراء ان سے عریکن مٹر کن سم ان پرہ چھہ ءآسئتم کیاہ تہہ چھوہ اسلام قبول کران۔ یعنی تمہہ کر تو اسلام قبول۔ تمہہ اندر آس تہندہ حقہ بہتری فَاَن اَسَلَمُوا فَعَدَا هَتَدَا ۖ ہر گاہ تمہو اسلام قبول کور تلہ لب تموسر و تہہ وَاَن تَوَلَّوْا ہر گاہ اسلام قبول کرنہ نشہ تمو تہہ پھر۔ تہہ مہ بز و تمیک کانہہ پروا فَاَتَمَاعَلَيْكَ الْبَلْغُ توبہہ اوس نہ مہ مگر پیغام واتاؤن۔ تہہ واتووہ توبہہ پورہ پانہہ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ چھووارہ و چھان ہندن ہند حال۔ سو پر تہہ پانے نافرمان۔ کیاہ کور تمہو اَن الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ سم لو کھہ انکار کران چھہ خدایہ سندین آیاتن مثلاً یہود تم چھہ مانان انجلیس تہ قرآن مجیدس وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقِّ بئہ چھہ قتل کران پیغمبرن ناحن۔ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ بئہ چھہ قتل کران تمن لو کن سم تمن امر چھہ کران انصاف کر گک۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تمن و نو بشارت کڈرہ عدلج۔ مروی چھو نازی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلو مگر شہید صحیحس تہہ تاجہ ۳۳ پیغمبر۔ توبہہ کر بیکھہ فہمایش نیک لو کو اندرہ آکھہ ہت تہ ستہ تو زینو۔ تمی دوہہ شامس تان کر کہہ تم تہ شہید۔ تہمزی ذکر چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تہہ آسئہ کر تمس اندر اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تہہ لو کھہ گم تہہ ہمزہ عملہ ضائع کیہہ دنیا س اندر تہہ آخرتس اندر تہہ۔ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ بئہ آسئہ تمن کانہہ مدگارہ سزاکہ وقتہ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكُفْبِ آیا چھان چھوہ نا تمن

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ
 اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَعَرَهُمُ
 فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۴﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا
 رَيْبَ فِيهِ تَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۵﴾
 قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ

لو کن گن یمن اکھ کافی حصہ چھو آمت دنہ تور اتک۔ اگر تم ہدایت ڈھانڈھو ان آسن سوی حصہ اوس
 تہندہ حقہ کافی۔ یُدْعَوْنَ اِلَى کِتَابِ اللّٰہِ لَیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ ناد چھو یوان دنہ تمن خدایہ سنزہ تھہ کتابہ گن یوسہ
 تمنی نشہ چھہ بٹھہ تمنی سیت تمن منزہ ہی اختلاف فیصلہ ایہ ہا کرنہ تھو یَتَوَلَّى فِرْقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ
 مُّعْرِضُونَ تو پتہ چھہ تمہ نشہ ژلان تہ روگردانی کران تمواندرہ اکھ جماعت۔ بیہ چھہ تم بٹھہ پھر ان
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً یہ اعتراض کرن تہند چھو تمی موکھہ تمن چھو پتہ
 جایہ اکھ خیالہ کہ تمن زالہ نہ نار جہنم مگر کہیون دوہن۔ تو پتہ بٹھہ تمن مغفرت۔ نارہ نشہ بن کڈنہ۔ یہ
 چھو تہند باطل اعتقاد۔ اتھہ پٹھہ چھنہ تمن نشہ دلایہ کانہہ تہ وَعَرَهُمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم چھہ
 دینہ کس حقس منز دھو کس منز تراومت پتہ نیو کھویہ تموپانے ٹھراوہ مشہ چھہ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ
 لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ پس کیا سنا حال آسہ تہند بیلہ آس تم سو نبر او دکھہ تمہہ دوہہ سیمہ دوہہ تہنہ پیشی بیہ احکم
 الحاکمین نشہ کرنہ۔ سیمہ دوہہ کس پیش منز نہ کانہہ شکھاہ تہ شہاہ چھو۔ وَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ
 هُمْ لَا يُظْلَمُونَ بیہ بیہ تمی دوہہہ پریٹھہ آگس پنہہ کر تو تک پورہ پورہ بدلہ دنہ۔ کانہہ نسبت بیہ نہ نہہ
 قسمگ ظلم کرنہ۔ ہی وومت آسکھہ تی کون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج مکہ پتہ مسلمانن روم تہ
 فارس فتح سپد تک وعدہ۔ منافق تہ یہود لگ اتھہ پٹھہ ٹھٹھہ تہ استہرا کرنہ۔ اتی سپد نازل یہ آہ کریم
 قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا جس آسویہ دعامگان۔ یا

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِمْ مِنْ تَشَاءُ وَتُنَادِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
 إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۶﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ
 فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
 الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَهُ

اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ چاہے وہ اسے دے سکتا ہے۔ عطا چھوکتھ کران تری ملک نئس یرشہان چھوکتھ و تَنْزِيعُ التَّلَکِ
 وَمِمَّنْ تَشَاءُ اچھوکتھ ہیوان ملک نئس نئسہ یرشہان چھوکتھ وَتُعْزِمْ مِنْ تَشَاءُ وَتُنَادِلُ مَنْ تَشَاءُ بیہ چھوکتھ
 عزت و دان نئس نئس یرشہان چھوکتھ۔ بیہ چھوکتھ ذلیل کران سئس یرشہان چھوکتھ بیدک الخیر تری
 اچھوکتھ سوزی خیر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیٹک تری چھوکتھ پرنتھ چیزس پیٹھ قدرتہ و ول تُولِجُ
 اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ داخل چھوکتھ کران راتھہ دوس منز۔ بیہ چھوکتھ دوه داخل
 کران راتس منز یعنی مختلف موسمن اندر۔ راژ ہند وقت کم کرتھ دوه بڑاوان۔ ڈک وقت کم کرت
 رات بڑاوان۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ بیہ چھوکتھ تے جاندار کڈان بے جالس نئسہ۔ پوت ٹھولہ
 منزہ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ بیہ چھوکتھ تری بے جان کڈان جاندارس نئسہ۔ ٹھول جانورس نئسہ
 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ بیہ چھوکتھ تری رزق عطا کران نئس یرشہان چھوکتھ تہ نئس حسابہ و رای
 اسباو ز البیور و رای لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مہ بناون تہ مہ تھاون
 باایمان کافرین ہن دوست۔ باایمان مسلمان تراڈھہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
 نئس اکھاہ یرشہ کام کرہ نئس چھوکتھ نئس خدا نئس سیت کانہہ تعلقاہ کئسہ چیزس اندر یعنی خدا بیہ سندن دشمن
 سیت ہم دوستی لاج سوشوبہ نہ خدا بیہ سند دوست۔ نئس ٹھیون خدا بیہ سزہ دوستی ہند تعلق إِلَّا أَنْ
 تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَهُ مگرے تہن ہدہ شرہ نئسہ چھہ خطرہ ظاہر داری سان چھہ بیہ وَيُحِذُّكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ

وَيُحَدِّثُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۲۸﴾ قُلْ إِنْ
 تُخَفُّوهُمَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۹﴾
 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ
 سُوءٍ تَتَوَدَّدُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۖ أَمَّا الْأَعْيَادُ ۖ فَطَوَّجَهُ اللَّهُ
 نَفْسَهُ ۖ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

اللہ تعالیٰ چھو توہمہ پند ذات پاکہ نشہ کھوڑہ ناوان یعنی پنتہ بیزاری تہ غضبہ نشہ۔ تمس کھوڑو تہمز مہ کھو
 تا فرمانی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللہ تعالیٰ سی نشہ چھو پر ہتھہ کالہہ پتولا کہ واتن۔ آخر سو کہہ ہتھہ سپہ
 تس نش پیش۔ قُلْ إِنْ تُخَفُّوهُمَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ تہہ فرماو کہ یارسول اللہ ہر گاہ
 تہہ پو شیدہ تھاوو تمہہ تھہ سمہ تہندین دلن اندر چھہ یانزا اوو بہر حال تمہہ سارے چھہ اللہ تعالیٰ اس
 معلوم وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بیہ چھو تس معلوم تہہ سو ری۔ بیہ آسمان اندر چھو۔ بیہ
 زمینس اندر چھو وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیہ چھو اللہ تعالیٰ پر ہتھہ چیزس پیٹھہ قدر تہہ وول یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ
 نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ پر ہتھہ کالہہ چھو خدا بس نشہ واتن تمہہ دوہنہ سمہہ دوہنہ
 لبہ پر ہتھہ شخصاہ تہہ سو ری بیہ تم کورمت آسہ خیر چو کامیواندرہ پانس بروٹھہ کنہہ بیہ تہہ سو ری بیہ تم
 کورمت آسہ چھہ کامیواندرہ تھہ تہہ لبہ پانس بروٹھہ کنہہ تَوَدَّدُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۖ أَمَّا الْأَعْيَادُ تمنا کرہ
 ہر گاہے میہ منزہ تہہ ہتھہ قیامس منز آسہاز ہتھہ زبوتھہ وقاہ۔ بیہ تمنا کرہ سو شخص بس بیجیہ تہہ وچھہ تہہ
 بدیہ تہہ وچھہ۔ وون بس بدیہ بدیہ آسن سو کوتاہ افسوس تہہ غم آسہ کیوان وَيُحَدِّثُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ
 بیہ چھو اللہ تعالیٰ توہمہ کھوڑہ ناوان پانس نشہ یعنی پنتہ بیزاری نشہ۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ بیہ چھو اللہ
 تعالیٰ مہربان پنتہ نین بدن پیٹھہ۔ کھوڑہ ناوان تہند تہہ چھہ بڈ مہربانی۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
 يُحِبُّكُمْ اللَّهُ فرماو کہ تہہ یارسول اللہ خدا لیہ سہہ محبتک دعویٰ دوہ و نین کہ ہر گاہ توہمہ خدا توٹھہ چھو

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾ قُلْ
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿۳۲﴾
 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيمَ وَالْإِسْمٰعِيلَ عَلَى
 الْعٰلَمِينَ ﴿۳۳﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾
 إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَّيْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي
 مُحرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا

تلہ کرد میان متابعت۔ تمہے سےت ہو خدایہ سد محبوب وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ کرمہ
 مغفرت تمہدین گنہمن۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ ر حم کرہ ون میانین تابعدارن
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرما دیوکھ فرمانبرداری کرد خدایہ سز یہہ تہندس پیغمبرہ سزہ فَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ پس ہر گاہ تم ہتھ پھرن اطاعت قبول کرن نہ پس اللہ تعالیٰ اس چھنہ
 ٹاٹھہ کافر تہ مکر بندہ۔ تھین بدن پیٹھہ چھو اللہ تعالیٰ بیزار إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيمَ
 وَالْإِسْمٰعِيلَ عَلَى الْعٰلَمِينَ پز پٹھہ اللہ تعالیٰ ان کور حضرت آدم بہہ حضرت نوح بہہ خاندان حضرت
 ابراہیم تہ خاندان حضرت عمران برگزیدہ سارنی عالمین پیٹھہ ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ سم کہہ
 اکند اولاد چھہ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سوزی بوزان۔ سوزی زانان۔ تس چھہ خبر کوہ تھہ
 قابل چھو إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ یلہ حضرت عمرانہ سند یو باثو دوپ سم ناناوس حنہ دت ربّی
 نَدَّيْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحرَّرًا اے میانہ پروردگارہ بہ چھس نذر تھاون چانہ خیطرہ یہ میانس شمس
 منز اولاد چھو۔ آزاد گوہہ روزن سو دنیا چو کامیوشہ چانہ عبادتہ خیطرہ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ پس کرن قبول تھ میانہ طرفہ پز پٹھہ تھی چھو کہہ سوزی بوزہ ون سوزی زانہ ون۔ فلَمَّا
 وَضَعَتْهَا پس یلہ تس زلیہ کور قَالَتِ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا نثی دین پروردگارامہ آس امیدمہ زیوہ پیٹھو۔
 سوی تھاون بو محض چانہ عبادتہ خیطرہ بیت المقدسہ کہ خدمتہ خیطرہ آزاد۔ مگر میہ زلیہ کور وَاللَّهُ

قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَىٰ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۗ وَ
 لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَىٰ ۗ وَاِنِّي سَوَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۗ وَاِنِّي اُعِيذُهَا
 بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ
 حَسَنٍ ۙ وَاَبْتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا

اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ اسمدہ اظہارہ وراى آس اللہ تعالیٰ اس خبرى اس كیاء زاو۔ مگرام كور اظہارِ ندامت
 پنہ طرفہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَىٰ پیہ پنچو جھنہ كورہ ہیو۔ سو چھو آسان قوت وول یہ مشقت
 برداشت كرن وول وَاِنِّي سَوَّيْتُهَا مَرْيَمَ بیشك میہ كور اس كورہ ناو مریم یعنی عابدہ
 وَاِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وون چھس بوتھاوان سنوبیہ تمسز ذریت یلہ
 سوامس ژہ عطا كركھ چانس پنہس منز۔ مردو شیطانہ سدہ شرہ نشہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ پس كر
 قبول سنو اللہ تعالیٰ ان پوسدہ خوتہ زیادہ رت پاٹھہ۔ وَابْتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اللہ تعالیٰ ان
 ذیت اس رت تھدن پائے تہ بدن پائے یہ آس ونہ ماجہ ہندس ششمسی اندر تہ حضرت عمران گو سمہ
 عالمہ۔ امہ پتہ یلہ یہ زلیہ۔ آسنز والدہ حضرت حنہ آیہ بیت المقدسہ کین خاد من نشہ۔ دو پنکھ ریٹون
 یہ میان گور یوسہ مہ بیت المقدسہ کہ خدمتہ خیطرہ نذر تھاو مڑ چھہ۔ یمن خاد من پیو اختلاف پریتھہ
 اک كر خواہش بوی نتہ بوی رشن یہ كور پنہ نگرانی اندر۔ حضرت ذکریا علیہ السلام تہ اوس بیوی اندرہ
 اکھ خاد م بیت المقدسگ تمبو دوپ یہ گور روزہ مہ نش کیا زہ یو چھوس اسند ماسو۔ آسنز ماس چھہ میانس
 عقد نکاح اندر۔ بہر حال اختلاف رفع كرنہ خیطرہ تراوہ تمبو چیرہ۔ چیرہ تراونچ طریق آس تمن دوہن
 یہ کہ قلم آس تراوان دریواس اندر۔ سمسد قلم آبس پیٹھہ ایستادہ روزہ ہا۔ ہیورن پنچہ باتمسدہ حقہ اوس
 فیصلہ سپدان۔ چنانچہ تمبو خاد مویہ تراونہر آرونس اندر بین قلم۔ تمبو اندرہ رُود حضرت ذکریا سند قلم
 ایستادہ۔ ہیورن لوگ پنچہ۔ پس آیہ تمنی یہ حضرت مریم سپرد كرنہ تمبو ہنووا كھ بالاخانہ۔ تھہ منز تھاو كھ
 یہ حضرت مریم۔ تھہ بالاخانس آس تم ہیر لاگان۔ تمی ہیرہ پیٹھہ آس تمن نشہ كٹہ كٹہ یوان۔ تمہ پتہ

ذَكَرِيَّا الْبَحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَارِزُ قًا قَالَ يَمْرِي أَنِي لَكَ هَذَا
 قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾
 هُنَالِكَ دَعَا ذَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
 طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ
 يُصَلِّي فِي الْبَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ

آس سوہیر تھان۔ پانس سیت نو ان تہ قفلس تل بند کرتھ تھوان۔ کلمہ داخل علیہا ذکر کیا البَحْرَابِ
 وَجَدَ عِنْدَ هَارِزُ قًا یلہ یلہ حضرت ذکر کیا آس یوان تمن نشہ اتھ بالاخانس منز لبان آس تمن نشہ
 عجیب وغریب رزقاہ۔ وندک میوہ ریتہ کالس منز۔ ریتہ کالک میوہ وندس منز قَالَ يَمْرِي أَنِي لَكَ هَذَا
 پر ژھان آسجھ اے مرتم مہ ورا ی چھونہ یوت ژہ نش کانہ یوان تم چیز کتہ چھنکھ ژہ اتان قَالَتْ هُوَ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ دپان آس سنیوہ چھو خدلیہ سندہ طرفہ واتان۔ پزپاٹ
 خدا چھو رزق سوزان نئس یژھان چھو تس حسابہ روستوی اسبابوتہ ذرا یو ورا ی۔ یہ بوڑتھ سبز عجیب
 کیتیاہ پیدہ حضرت ذکر کیا آس۔ تمن اوس نہ اولاد پینہ بجز کہ سببہ پنہ نین باژن ہندہ ہانٹھ آسنہ سببہ آس
 اولادہ نشہ سپدمت ما یوس۔ مگر حضرت مریمہ سندہ کلام بوڑنہ سیت سپر کھہ اٹھ امیداہ پیدہ۔ اتی کوڑکھہ
 اتھہ محر اس۔ اتھہ بالاخانس منز خدا نئس گن رجوع تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ هُنَالِكَ دَعَا ذَكَرِيَّا رَبَّهُ
 قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ امی وقتہ اتھہ جاپہ موگک دعا حضرت
 ذکر کیا عن۔ دوہن ای میانہ پروردگارہ عطا کر میہ خاص پنہ طرفہ پنہ کمال قدرتہ سیت، رت فرزندہ۔
 پاک نافرمانیو نشہ۔ پزپاٹ ژہی چھو ک بوڑوہن قبول کرون دعاء اس فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ
 يُصَلِّي فِي الْبَحْرَابِ پس دیت آلو تمن ملا نکیو یلہ تم نماز آس پران اتھہ بالاخانس منز أَنَّ اللَّهَ
 يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو بشارت دوان توہمہ فرزند عطا کر تجھ پسند ناو چھو یجی مُصَدِّقًا
 بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ تم تصدیق کرہ و ان آسن اللہ تعالیٰ سندس

مَنْ اللَّهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۹﴾ قَالَ رَبِّ
 أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ قَالَ
 كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۴۰﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ
 آيَتُكَ الْأَنْتَ كَلِمَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَاذْكُرَّ رَبَّكَ
 كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿۴۱﴾ وَاذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ
 يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ طَهَّرَكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَىٰ عَلَىٰ

کلس یعنی حضرت عیسیٰ اس۔ بیہ چھہ تم سزاوار تہ رغبت نہ کرہ ون زنان کن قادر آتھہ بیہ پیغمبرہ
 نیوکا رواندرہ۔ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ دوہن ای میانہ پروردگارہ
 ہتھہ پاتھہ بنہ میہ فرزند۔ حالانکہ میہ چھو بزرگ وقت دوہمت بیہ چھہ میان آشین ہانٹھ۔ قَالَ
 دوس دوہس كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ہتھہ پاتھہ بغیر اسباب وذرائع۔ اللہ تعالیٰ یہ یڑھان چھو تہ چھو کران
 تس نش چھونہ مشکل کنی چیز قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً دوہن پروردگار امیانہ خیطرہ کرکینہہ علامتہ
 ہسمہ سیت مہ معلوم سپدہ ژیسہ کیاہ کورٹھہ میون دُعا قبول ژیہ کیا کورٹھہ میہ فرزند عطا۔ قَالَ اللَّهُ
 تعالیٰ ان فرموس آيَتُكَ الْأَنْتَ كَلِمَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا نشان تہ علامت چون چھو ژہ ہیکھنہ
 کتھہ کرٹھہ لوکن سیت ترین دوہن مگر اشارہ پاتھہ۔ یان سُو حال ژہ پانس منز لبحہ تان زانزہ اللہ تعالیٰ ان
 کورژ ژیسہ فرزند عطا۔ وَاذْكُرَّ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ بیہ کرژہ پنہ نس پروردگارہ
 سُدیاد بکثرت۔ بیہ آسن سُو پاکی یاد کران شامس تہ صحن تہ۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ ان کور چون دُعا قبول۔
 مایوسی تہ نامیدی پتہ کورن فرزند عطا۔ وَاذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ طَهَّرَكَ
 وَاصْطَفَىٰ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بیہ پاوژ تیس بلکہ ملکو دوپ حضرت مرمس بیشک اللہ تعالیٰ ان
 کتر کتھ ژہ برگزیدہ ژہ کرکٹھ قبول ماجہ ہند نذر بیہ کتر کتھ پاک ساروی آلودہ گیونشہ۔ بیہ کرکٹھ ژی منتخب
 علیوز ناواندرہ۔ ژی یوت کورن عطا فرزند ماس وراي يَمْرُؤُا أَقْبَىٰ لِرَبِّكَ وَأَسْجَدِي وَأَرْكَعِي

نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿۲۲﴾ يُرِيْمُ أَقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي
 مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۲۳﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا
 كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا
 كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿۲۴﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ يَشْرِكُ بِكَلِمَتِهِ مِنْهُ ۖ إِنَّهُ السَّبِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
 وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۲۵﴾

مَعَ الرَّاكِعِينَ اے مریم عبادت آس کران پنہ نس پروردگارہ سنزیتھہ نہ برگزیدہ گی ہند غرور پیدہ
 سپدی۔ یہ آس سجدہ تہ رُوع کران یعنی نماز پران بین نمازہ پرہ وین سیت ذلک من انباء الغیب تیم
 قصہ چھہ غیبہ جو خیر و آندرہ نُوحِيهِ إِلَيْكَ یہ خبرہ آس تو بہہ کن یار سؤل اللہ بطریق وحی سوزان چھہ۔
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ تُوہ ما آسہ تمن احبارن تہ خادمن نش إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ یلہ تم دریاوس منزین
 قلم تراوان آس آس منز چیرہ تراوتھہ دریافت کرنہ خیطرہ۔ یہ آس تمہ وقتہ چیرہ تراوتج طریق۔ یا کور
 تمو خادمو اتھہ پاٹھہ پانہ وان فیصلہ کہ قلم تراود دریاوس منز و چھو کسند قلم روزہ آس اندر وودنہ۔ سمسند
 قلم آس منز وودنہ روزہ سؤی کرہ حضرت مریمس پرورش آیتھہ یكفُلُ مَرْيَمَ نمو احبار و اندرہ
 عس کرہ کفالت حضرت مریمہ سنز وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ یہ آسودنہ تہہ تمن نغمہ یلہ
 تم پانہ وان تنازعہ آس کران إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَشْرِكُ بِكَلِمَتِهِ مِنْهُ ۖ تیس پادویلہ وون
 ملائکو حضرت مریمس پڑ پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھوی ژہ بشارت فرماوان آس کلمہ سنز نیس تہدی طرفہ
 آسہ اِنَّهُ السَّبِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سمسند ناو آسہ مسیح عیسیٰ مریمہ سندنچو۔ مسیح چھوس لقب۔
 عیسیٰ چھوس ناو۔ بعضی وقتہ چھو لقب ناوس پیٹھہ مقدم یوان کرنہ تعظیمہ خیطرہ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ نس باعزت باوقار آسہ دنیا و آخرتس منز یہ پروردگارہ
 سند یومقر بزد و آندرہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا یہ کرہ سؤ کلام لو کن سیت منز نس اندر تھہ

وَبِكَلِمٍ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَتْ
 رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۲﴾
 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۳۳﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ

پاٹھتے تھے پاٹھ بُوڈواتھہ جوان سپد تھہ کرہ کلام وَ مِنَ الصَّالِحِينَ بیہ آسہ سُو نیکو کارو آندرہ قَالَتْ
 رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ حضرت مریم دوپ پروردگار ہامہ تھہ پاٹھہ بنہ اولاد حالہجہ
 مہ چھونہ تھہ تہ لوگت کانسہ انسان۔ کانہ مرد چھونہ مہ نزدیک آمت نہ جائیز طریقہ پاٹھہ نہ ناجائز
 طریقہ پاٹھہ۔ عادات چھونہ پیر زیوان مردہ سہہ نزدیک ینہ ورائی کانسہ زنانہ۔ معلوم چھونہ کہ اللہ تعالیٰ
 تھہ پاٹھہ کرہ مہ فرزند عطا۔ کانسہ سیت نکاح کر تھہ کر مہ عطا مہ محض پنہ قدرت کاملہ سیت کریم عطا
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ فَرْمُوْسَ مَلِكِهِ سَهْدَ وَاسَطَه كَذَلِكَ تَهَّه پاٹھہ یعنی پنہ قدرت کاملہ سیت۔ اللہ
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو پیدہ کران اسبابو تہ ذر ایو ورائی یہ یژھان چھو تہ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا
 يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سويلہ سُنہ چیز کہ پیدہ کر نک ارادہ کران چھو کس چھونہ تس کہہ کرن آسان فقط
 فرماون تھہ کُن یہ تہندس علمس منز آسان چھو کہ سپد۔ آتی چھو چیز سپد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ بیہ پچھناوہ تس چانس فرزندس کتاب یعنی پَرَان تہ لکھن بیہ گائہ جار چہ تھہ بیہ
 تورایت تہ انجیل۔ بعضے عالمو فرموو کتابہ اندرہ چھو مُرَاد قرآن وحدیث۔ کیاہہ آخِر زمانس منزلیہ
 حضرت عیسیٰ آسمانہ پٹھہ نازل سپدہ بر زمین تمہ وقتہ کرہ سُو پیروی بکتاب وسنت حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بیہ سوزہ تس سارنی بنی اسرائیل کُن پیغمبر کس فرماوہ تمہن آتی قَدْ
 جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ای بنی اسرائیلوہ آسوہ توہہ پٹھہ کینہہ معجزہ تہندس پروردگارہ سہہ طرفہ ایم
 معجزہ میانس پیغمبر آسہس پٹھہ دلالت چھہ کران أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَخُ فِيهِ

لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ كَطِيرٍ ابْأَذِنِ
 اللَّهُ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِأَذِنِ اللَّهِ وَ
 أَنْبِئَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۴۹﴾ وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
 التَّوْرَةِ وَإِلْحَالٍ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِدْتُمْ
 بآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۵۰ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ

فَيَكُونُ كَطِيرٍ ابْأَذِنِ اللَّهُ بیشک بہ بناون تہندہ خیطرہ میترہ ہند جانوراہ۔ تس دمہ پھوگھ۔ سوہنہ وڈوہ ون جانور
 خدلیہ سیدہ جمتہ سیت۔ دوہم معجزہ گو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِأَذِنِ اللَّهِ بیہ بلہ
 راؤن بو سوئس او نوئی زامت آسہ ماجہ۔ تس بیہ آتھن گاش۔ بیہ بلہ راؤن بو ہترہ لدہ۔ بس بدس آسن
 سفید داغ۔ سم زہ مرض آس تمہ وقتہ لاعلاج۔ چنانچہ اکی دوہنہ بلراو تمو پنواہ ساس (۵۰،۰۰۰)
 بیمارمہ قسمک۔ بیہ کرکھ زندہ مومت انسان خدلیہ سیدہ جمتہ سیت وَأَنْبِئَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا
 تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ بیہ کروہ بو توہہ خبر تھیہ تہہ کیہوان چھوہ بیہ یہ تہہ گرن اندر موجود تھاوان
 چھوہ۔ اِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک اتھ منز چھہ بڈو لیل تہندہ خیطرہ ہر گاہ تہہ
 پڑھہ کرہ ون چھوہ وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ بیہ چھوس بو توہہ گن یوان تھہ کتابہ تصدیق
 کران یوسہ مہ بروٹھہ چھہ نازل کرنہ آس۔ سو کتاب گنیہ تورايت وَإِلْحَالٍ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
 بیہ آس بو توہہ گن تھہ بو حلال کرہ تہندہ خیطرہ تمو چیز واندرہ بعضہ چیز تم توہہ بیٹھہ حرام آست آس
 کرنہ بیہ میون دعوائے نسخ چھونہ بلاد لیل بلکہم وَجِدْتُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ بیہ آس بو توہہ گن جہندس
 خدلیہ سیدہ طرفہ انج و لیل بیٹھہ۔ سو دلیل گنیہ میون بنی آسن فَاتَّقُوا اللَّهَ پس کھوڑو اللہ تعالی آس
 تہندس حکم مہ کمر و مخالفت وَأَطِيعُوا دینہ کس معاملس منز ما نو میون حکم۔ خلاصہ میانہ دینی
 تعلیمہ ہند چھوای کہہ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ پڑاٹھہ اللہ تعالی چھو میون

فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۵۱﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ
 الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ
 أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ﴿۵۲﴾ رَبَّنَا آمَنَّا
 بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۳﴾
 وَمَكْرُوهًا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿۵۴﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ

تہ تہند معبود پس کرو تہنزی عبادت۔ یو ہے چھوہ راہ راست۔ تہتہ وتہ کن ساری پیغمبر آی نادوان
 فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ پس یلہ ژیون حضرت عیسیٰ ان سمن بنی اسراہیل نشہ تہند انکار تہ کفر
 قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ دوچھہ بنی اسراہیل کن گوہ اکھاہ چھو توہہ اندرہ میون مددگار خدا پس کن
 لُوکن نادونہ خیطرہ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ روشن دلواندرہ خدا پس کن رجوع کرہ و نیواندرہ و تہہ اکھہ
 جماعتہہ تم آس باہ زن۔ تمہوی ڈوپ سخن أَنْصَارُ اللَّهِ اس چھہ خدایہ سندہ دینک مددگار امنا بِاللَّهِ
 اسہ اون ایمان تہ اسہ کمر پڑھہ کنس خدا پس وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ اے عیسیٰ تہہ ژوزو گواہ۔ اس چھہ
 فرمانبردار اس خدایہ سندہ تہند۔ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ای
 سانہ پروردگارہ اسہ اون ایمان تہتہ ساری یہ ژیہ نازل کور تہہ۔ یہہ کراسہ پیروی مس چانس پیغمبر س
 حضرت عیسیٰ اس۔ پس لیچھہ اسہ تہ شاہدن سیت وَمَكْرُوهًا بیہ کمر یہو ڈواریاہ جیلہ تہ مکر۔ پوشیدہ
 تدبیر حضرت عیسیٰ اس تہ حوارین تکلیف واتانہ خیطرہ وَمَكْرَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ ان تہ کمر تم تدبیر
 تمہو سیت حضرت عیسیٰ ان تہ حوارینو نجات لوب۔ یہودن ہند تدبیر میل خاکس سیت۔ چنانچہ
 یہود ویلہ تم گرفتار کرنہ تہ توپتہ کاٹھس پیٹھہ کھارنہ خیطرہ تیاری کمر اللہ تعالیٰ ان کمر ہمیں اس شخص
 حضرت عیسیٰ سنز شکل تہ تم کھارن آسانس پیٹھہ۔ پس شخص حضرت عیسیٰ سنزہ شکلہ بناونہ او
 سُوروث تمہو یہودو تہ دیو چھہ پھہہ۔ اللہ تعالیٰ چھو اتھہ متعلق ہمیں جلیہ فرمادان وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
 وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ - وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ اللہ تعالیٰ چھو ساروی تدبیر کرہ و نیواندرہ بہتر تدبیر کرہ ون

يُعِيسِي إِيَّيْ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ
 فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝۵۵ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
 شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ نُصْرِينَ ۝۵۶ وَأَمَّا
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۝۵۷

اِذْ قَالَ اللَّهُ سُوِّقَتْ كَرِيماً وَيَدِيلُهُ اللَّهُ تَعَالَى اِنْ فَرَمُوْا حَضْرَتِ عِيسَى اِيَّيْ عِيسَى
 كَيْنِهْ غَمَّ مَهْ بِرِ اِيَّيْ مُتَوَفِّيكَ بِيَشِكْ بُوْجَهْوَسْ ثَرِيَهْ وَفَاتِ دُوْهَوْنِ پَنَهْ نَسْ مَوْعَسْ پِيْثَهْ۔ لَهَذَا مَهْ كَهْوْثَرَهْ
 سَمِ دُشْمَنِ مَآكِهَارْنَمِ كَاثُسْ پِيْثَهْ۔ بُوْومَهْ نَهْ تَمْنِ تَمِيْكَ مَوْعَهْ۔ وَرَافِعُكَ اِلَى بَلْكَ كَهَارَتِ ثَهْ بُوْپَا نَسْ
 كُنْ۔ وَاِتَاوَجَهْ بُوْثَهْ عَالَمِ بَا لَاسْ مَنْزِ وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِي كَرْتِ بَا ثَرَهْ پَا كِ مَعْرَنِ هَنْزُو تَمْتُو
 نَشَهْ۔ لِيَعْنِي بُوْرَجَهْتِ ثَهْ تَمْنِ لُو كَنْ هَنْدِ بُو اِرَاوْ نَشَهْ۔ سَمُوْثَرِيَهْ اِنْكَارِ كُوْرِيْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِهِي كَرَكَهْ بُوْچَا نِ پِيْرُو۔ چُوْنِ كُحْمِ مَانِ وَا لْ غَا لِبِ تَمْنِ لُو كَنْ پِيْثَهْ
 سَمُوْثَرِيَهْ اِنْكَارِ كُوْرِيْ قِيَا مَحْسِ دُوْهَسْ تَا نِ ثُمَّ اِلَى مَرْجِعِكُمْ تُوْپَهْ چَهْ مِيْ كُنْ تُوْهَهْ سَارِنِي هَنْدِهْ وَا تَجْ
 جَاءَ۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ لِيَسْ كَمْرَهْ بُوِيْ فَيَصْلُهْ تُوْهَهْ مَنْزِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ تَمْنِ سَارِنِي مَعَالِنِ
 مَنْزِ سَمْنِ مَنْزَهَهْ اِخْتِلَافِ كِرَانِ اَسُو۔ تَمُوْچِيْزِ وَا نْدَرَهْ گُوَا كِهْ مَعَالِمِ حَضْرَتِ عِيسَى سُنْدَ۔ اَتَهْ تَهْ كَرَهْ بُوِيْ
 فَيَصْلُهْ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسْ تَمْ لُو كَهْ سَمُوْكُ رَهْ اِنْكَارِ كُوْرِيْ لِيَعْنِي يَهُودِ وَنَسَارِيْ فَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
 شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَيْسْ كَرَهْ بَا تَمْنِ سَخْتِ عَذَابِ۔ دِنْيَا سْ مَنْزَرَهْ اَخْرَتِ سْ مَنْزَرَهْ۔
 وَمَالَهُمْ مِنْ نُصْرِينَ بِهِي اَسَنَهْ تَمْنِ كَانَهْ مَدْ دَا گَارَهْ تَمَهْ عَذَابِهْ نَشَهْ مَوْكَلَاوْنَهْ خَيْطَرَهْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دُوْنِ سَمُوْ لُو كُو اِيْمَانِ اُوْنِ پُزَهْ كَمْرَهْ كُنْسْ خُدَا لَيْسْ بِهِي كَرِكِيَهْ رَثَهْ عَمَلِهْ فَيُوَفِّيهِمْ
 أُجُورَهُمْ لِيَسْ كَرَهْ اَللَّهُ تَعَالَى تَمْنِ پُوْر مَزُوْرِ عَطَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اَللَّهُ تَعَالَى اَسْ چَهْهَنْ پَسَنْدِ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۵۷﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ
 الذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿۵۸﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۹﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا
 تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۶۰﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ
 مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَ
 نِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ

ظالم ذلك نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ سوزی قصہ حضرت عیسیٰ سید چھہ آس توبہ
 پیٹھہ پران یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمہ چھہ جبر دلیلہ تہندس نبوتس پیٹھہ۔ بیہ چھو یہ قرآن
 مجید محکم بیان۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ۔ پزپاٹ حضرت عیسیٰ سز مٹال چھہ خدا ئس
 نیش حضرت آدمہ سز ہش۔ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ حضرت آدم کورن پادہ مزہ نشہ نہ اوس مولیٰ تہ نہ
 اوس موجی ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ توپتہ فرموان تس سپدہ پیدہ انسان، اتی سڈ تھتھ پاتھہ فرموان
 حضرت عیسیٰ سپدہ پیدہ ماس وراى، تی سڈ۔ حضرت آدمہ سند ماس ماجہ وراى پیدہ سڈن اوس زیادہ
 عجایب مگر تہزہ الوپتک چھو نہ کانہ تہ ذکر کران حضرت عیسیٰ زاو ماس وراى ماجہ نشہ۔ تہندس پیدہ
 سڈن چھہ لوکھ زیادہ عجایب زانتھ تہن متعلق خدا آسک دعویٰ کران۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ
 مِنَ الْمُمْتَرِينَ پوز چھوتی یہ حضرت عیسیٰ اس متعلق ووت توبہ نشہ پنہ نس پروردگارہ سندہ طرفہ
 پس مہ آسوتہہ شک تہ خبہ کرہ و نیو آندرہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ پس ئس
 اکھاہ توبہ سیت اتھہ معاملس منزہر تہ قضیہ کرہ توبہ نشہ امیک علم واتتہ پتہ سو کریون خبہ مغلوب
 بیہ طریقہ تس سیت کمر و تہہ مبالغہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا
 وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ پس فرماو یو کہ ای عیسیٰ و لو آس دمونا د توپتہ
 سونبر اوکھ پن لوکٹ تہ تہند لوکٹ۔ پنہ زانہ تہ تہزہ زانہ۔ بیہ پن پان تہ تہند پان۔ ساری سبت گرو

عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿۱۱﴾ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ
 اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۲﴾
 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿۱۳﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ
 الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوّآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا
 اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا

خدا ئس گن التجا۔ تو پتہ منگو خدا ئس لعنت اپز یارین ہمدہ خیطرہ۔ اس ونویا اللہ ئس اسہ منزہ اپز یور چھو
 حضرت عیسیٰ سیدس معاملس اندر تمس کر لعنت۔ آتھہ چھہ ونان مہابلہ۔ بحر انک عیسائی سیم بحث کر یہ
 آس آمت تمودوپ، چھہ اسہ دیو سوچج مہلت۔ تمن اندرہ تم کاثل ہی آس تمودوپ بین عیسائین
 پنہ جایہ چھہ تھہ توبہ چھو معلوم یہ صاحب چھو بیشک پیغمبر خدا۔ یہ تہ چھو توبہ معلوم کہ سیم قوم
 کانسہ پیغمبرس سیت مہابلہ کور سو قوم گوفنا تہ تباہ۔ لہذا چھوئی مشورہ اس صاحبس سیت گرو آس
 مصالحت۔ چنانچہ درای امی خیالہ۔ یورہ آس درامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیت آسچھ
 حضرت علی۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا حضرت امام حسن تہ حضرت امام حسین۔ تمن صاحبین
 اوسچھ فرمودت بوکرہ دعائتہ نکر زہ آمین۔ مگر یلہ سیم عیسائی نزدیک وات تمن نشہ عرض کور بگ آس
 حض کرو نہ مہابلہ توبہ سیت کینہہ تہ۔ پس سپز یمن سیت مصالحت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت
 ہر گاہ سیم عیسائی مہابلہ کرہ تمن۔ مال وجانہ گدھہ تمن تباہ و برباد اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ پز پاتھہ یہ ذکر
 کرنہ آو سیم چھہ ہمز واقعات وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ بیہ چھونہ کانہہ معبود آس سزوار۔ اللہ تعالیٰ
 اس ورا۔ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بیہ چھو پز پاتھہ اللہ تعالیٰ سیٹھاہ غالب۔ سیٹھاہ
 حکمتہ وول قَانَ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ پس اگر سیم توتہ حق قبول کرنہ نشہ چھہ پھرن۔ ئس
 پُتھر آوتھہ یہ معاملہ خدا ئس سو چھو پوز زانان مُفْسِدِيْنَ۔ سو بہہ پانے تمن انتقام قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ
 تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوّآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فرماو یو کہہ تہہ یار سول اللہ ای اہل کتابو ولوتھہ کلس گن ئس

مَنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۲﴾
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا نَزَلَتِ التَّوْرَةُ
وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هَٰذَا فَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۳﴾ هَٰأَنْتُمْ
هَٰؤُلَاءِ حَاجِبَتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ

اسمہ منزه تہیہ منبر برابر مسلم چھو اَلَا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَاَلَيْسَ عِبَادَتُ اللّٰهِ تَعْبُدًا بَعْضًا اَرَبَابًا
مَنْ دُونِ اللّٰهِ سُو کلمہ گو یہوی کہ اس گزرو نہ کانہہ ہنز عبادت اللہ تعالیٰ اس وراہی۔ یہی ٹھہرو نہ
تس کانہہ چیزہ شریک کنہہ چیزس اندر۔ یہی رثن نہ اسمہ اندرہ اڈاؤین روب تہ معبود۔ معبود بر حقس
ورای۔ عیسای آس پوپ یا تین مشائخ تہ مولوین امہ طریقہ مانان کہ ہر گاہ تم سر اسر عنہ چیزس اندر
عقلہ خلاف یا نقلس خلاف کانہہ کتھاہ کرہ بن۔ سو آس تم بے چون وچر امانان تہ تسلیم کران۔ چنانچہ از تہ
چھہ عیسای تی کران۔ امہ قسمگ مذہبی تقلید چھو یقیناً حرام۔ کیا زہ یہ مرتبہ یعنی کانہہ ہنز تھہ بے چون
وچر امان چھونہ خدائس وراہی بیہ کانہہ اکسند۔ پیغمبرہ سند مرتبہ تہ چھویہ مگر تل یلہ خدایہ سندہ طرفہ
تھہ متعلق ارشاد آس۔ الغرض بے چون وچر اچھو صرف خدایہ سند یا پیغمبر خدایہ سند حکم مانہ یوان۔
تمن پتہ چھونہ کانہہ اکسند قول قابل تسلیم تہ قابل قبول۔ مگر سوی ئس نقل اسمہ آمت کرنہ از خدا
ورسول۔ اسلامس اندر ئس تقلید ائمہ مذہب چھو۔ سو چھوئی قسمگ۔ لہذا امہ طریقہ ارباب مذہب
ہند قول مان گونی الحقیقت خداورسولہ سندی قول مان۔ البتہ ہر گاہ تہوند کانہہ قولہ قرآن وحدیثہ کس
صریح نقلس خلاف اسمہ سو چھونہ ہرگز قابل تسلیم و عمل تھہ متعلق چھو پانہ ارباب مذہب بافاق
فرمودت کہ سون کانہہ قولہ ہر گاہ قرآن وحدیثس خلاف اسمہ سو دیولہ ہر تھہ۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا ئس
ہر گاہ تم امہ توحیدہ نشہ بھہ بھرن فَقُولُوا اشْهَدُوا پس دیوکھ تہ اے اہل کتابو گواہ روزو۔ يَا اَنتُمْ
مُسْلِمُونَ تھہ تھہ بیٹھہ کہ اس چھہ مسلمان مؤحد يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجُونَ فِي اِبْرَاهِيمَ اے اہل کتابو ہشہ
کیا زہ چھوہ قضیہ لاگان، تنازعہ کران۔ حضرت ابراہیمہ سندس حقس اندر۔ ونان چھوہ تم آس یہودی
نصاری وَمَا نَزَلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هَٰذَا حالانکہ نازل آونہ کرنہ تورایت تہ انجیل۔

مُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷۶﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۷﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا

مگر تمہیں پتہ دیا کہ وہ کون سا مذہب ہے۔ یہودیت نہ نصرانیت زلیہ تواریت و انجیل نازل سپہ نہ پتہ۔ تواریت آواز نازل کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ اس کے ساتھ ہے۔ انجیل آواز نازل کرنے حضرت موسیٰ اس پتہ دوسرے ساتھ ہے۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کونہ چھوہ عقل کران۔ بُرُوْثُہمہ زمانک شخص کتھہ پاتھہ بنہ پیر و ہتمہ کتابہ ہند۔ مَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجِبَتُمْ وَارہ یوزوای لو کو اختلاف چھوہ تہہ کران فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ تھہ منزج تہہ کثیرہ ہاہ خیر چھوہ یعنی حضرت عیسیٰ اس متعلق۔ اُو چھوس دپان خدا نہ اُو چھوس دپان خدا نہ سُنْدُو۔ تہندس معامس منز چھوہ نہ تہہ کئی تھہ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ پس کیا تہہ اختلاف کران تمن معاملن اندر یکن ہنز نہ تہہ کینہہ خبر تہہ علم چھو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ اکی چھو زانان حضرت ابراہیم گوہ صاحب اوس تہہ چھوہ نہ زانان مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا اوس نہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تہہ نصرانی وَ لَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا بلکہ اوس سوساروی ایزودینو شہہ بیزار۔ یوزدین اختیار کروان تابعدار تہہ فرمانبردار مؤحد کامل وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یہ اوس نہ سوسو مشرک و آندہ۔ ہم دعویٰ چھہ کران اس چھہ تہندس ملتس پٹھہ۔ حالانکہ ہم چھہ پائے کا نہہ چیزاہ بناوان۔ کئیو۔ چو یا یہ کئی چیزک۔ تھہ چھہ نمان۔ تھہ نشہ چھہ برکت ژہانندان۔ تس چھہ حاجت منگان۔ ای چھا کورمت حضرت ابراہیم نعوذ باللہ۔ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ پڑپاٹھ زیادہ نزدیک چھہ لو کو آندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تہہ ہمو تہنز متابعت تہہ پیروی کمر تہندس و قس اندر وَ هَذَا السَّبِيحُ یہ چھو تمن نزدیک یہ بوڈ بیغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُوا

السَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَرِثَةُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾
 وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ
 وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۹﴾ يَا أَهْلَ
 الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۴۰﴾
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي

بہ چھ تم نزدیک بالیمان۔ امتی تمس پیمبر برحقہ سند یعنی یہ وہ وُن اس چھہ بردین ابراہیمی نہ کہ
 توہہ یا مشرکن وَاللَّهُ وَرِثَةُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ چھو دوست بالیمان ہند تہزہ کامہ
 سنہالان وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یہوویہو وَاُندرہ اک جماعتن لَوْ يُضِلُّوكُمْ تم
 کرہ ہن توہہ دین حقہ نغمہ گراہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فی الحقیقت چھہ تم توہہ گراہ کرن
 یڑشان بلکہ چھہ تم امہ سیت پنہ نین پانن گراہ کران وَمَا يَشْعُرُونَ مگر تمیک چھہہ ژینان
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اے اہل کتابو کیا زہ چھوہ خدیہ سندین
 آیتن، قرآن مجیدس انکار کران۔ حالانکہ توہہ چھوہ پنہ جاہہ اتھہ اقرار کران يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ
 تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ای اہل کتابو کیا زہ چھوہ ہُ اہُرس سیت ملہ
 ناوان بہہ کیا زہ چھوہ ہوز کھنان یعنی نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ توہہ چھوہ زانان یہ چھو
 بیشک پیمبر آخر الزمان وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ
 وَآكْفُرُوا وَالْآخِرَةَ بہہ وون یہود وَاُندرہ اک جماعتن بین یہودین مسلمان گراہ کرنچ اکھ صورت چھہ یہ تہ
 کہ ظاہر پانٹہ اینوا ایمان اتھہ یہ نازل آو کرنہ مسلمانن پیٹھہ یعنی قرآن مجیدس صبحس توپتہ کڑ وتھہ انکار
 شامس لَعَلَّكُمْ يَتُوبُونَ پٹھہ تم بالیمان ای سیت اسلامہ نغمہ پھیرن تہ رجوع کرن۔ شکھہ پٹھہ تہ
 حوصلہ سپد چھہ ہست۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ بہہ مہ آہو وژہہ وانجہ تصدیق کران نمہ دینس

أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَالْكُفْرَ وَالْآخِرَةَ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿۴۲﴾ وَلَا تَتُومِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى
هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُجَاجُوكُمْ
عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۴۳﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۴۴﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ

مگر تمہی تم پیرو آسن تہندس دینس یعنی یہودیتس۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ تہہ فرما یو کھ تہنز و
چالا کیو سیت ہیجہ نہ کیہنہ بنت۔ کیا زہ پڑ پاطھہ ہدایت نُس لوگن بنان چھو سو ہدایت چھو خدایہ سُنَد
ہدایت۔ سو ی چھو اصل ہدایت۔ سو چھو خدایہ سندس اتھس اندر۔ تمیک اختیارہ دول چھو سو ی۔ نُس
سو ہدایت کرہ نُس ہیجہ نہ ڈال تھہ کانہہ کنہہ طریقہ۔ نُس نہ سو ہدایت کرہ نُس ہیجہ نہ کانہہ ہدایت کرہ
أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ بیہ ڈوپ یہو ڈواندرہ اک جماعہ۔ تصدیق مہ آسو کران تھہ تھہ کہ
کانہہ کیا بیہ عطا کر نہ تہہ توبہ بنی اسرا نیکن عطا کر نہ آو۔ سو گو نبوت، کتاب۔ حکمت۔ اَوْ يُجَاجُوكُمْ
عِنْدَ رَبِّكُمْ تھہ تھہ تہہ آسو تصدیق کران کہ مسلمان کیاہ کرن توبہ مقابلہ خدائس تہندس نفعہ۔
کیا زہ تہندس دین چھو مضبوط تہنز دلیل چھہ قوی۔ یہ آس یہو دونان پانہ وان اکھہ اکس۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ
بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ تہہ فرما یو کھ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ پات فضل و کرم چھو
خدایہ سندس اتھس اندر۔ نُس خوش کر لیس نُس کرہ عطا۔ ہر گاہ کیہنہ کلاہ نبوت و ہدایت تم عطا کر بنی
اسرا نیلو اندرہ بعضی صاحبن و سن یو تھہ تم نبوت و ہدایت عطا کرن بنی اسماعیلو اندرہ اکس مخصوص
صاحبس تہہ کم چھوہ۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ سز ز رحمت چھہ وسیع۔ سو چھو سیٹھہ زانہ وان
تمس چھہ خبر گوہ چھو قابلہ سزوار اتھہ رحمتس يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لیدہ حقہ سو ی تھہ نُس
کرہ مخصوص رحمتہ سیت۔ نبوتہ سیت کتابہ سیت تہہ حکمتہ سیت تہہ کم چھوہ۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَآخِلَاقٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكَلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السِّنَّةَ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ
مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَ

پسند کران پر ہیز گار۔ دو قسم قانون گواران الذین یشترؤن بعهدا اللہ وایمانہم شمتا قلیلاً پڑپاٹ
سہم لو کہ کنان تہ بدلاوان چھہ خدلیہ سندس عمدس بس امانس متعلق چھو توراتس منز بیان کرنہ آمت۔
یا بس عمد نبی کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چھو پنہ نیواپز یو قسمو سیت کم مؤلس حاصل چھہ کران
تم قہمتھہ تہ مولاہ سہٹھہ کم۔ یعنی وشھہ ہند اکھہ تزکھہ یا کپر ک یکہنہ گز۔ سہم تمین کعب بن اشرف
یہودیس نشہ بنان آس نعت پیغمبر آخر الزمانس تحریف کرنس پیٹھہ اُولَٰئِكَ لَآخِلَاقٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
سہم عہد شہکن تہ اپزیا راہز قسم ہادہ ون سہم چھہ بہندہ خیطرہ چھو نہ آخرتس اندر کانہہ حصہ ثوابک۔
وَلَا يَكَلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بیہ کرہ نہ تمین سیت اللہ تعالیٰ تھہ تہ۔ بیہ دیہ نہ تمین کن
نظرتہ قیامتک دہہ۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ نہ کرہ تمہزن کا میں ہنز کانہہ تعریف نہ کرہ تمین گنہو نشہ پاک
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بلکہ آسہ تہندی خیطرہ ہڈر عذاب۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السِّنَّةَ بِالْكِتَابِ
سمو یہود واند رہہ چھہ اکھ جماعتھہ سہم زیو وٹھہ تہ ہج کر تھہ توراتچ عبارت پران چھہ۔ سہمہ جایہ نبی کریمہ
صلی اللہ علیہ وسلم سندن تعریفن تہ نعتن تحریف تہ تغیر چھو آسان آمت کرنہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ سہمہ توبہ
گمان گزہہ بیہ تہ چھہ تور لہتی عبارت وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ فی الواقع چھہ نہ سہو توراتچ عبارت
کینہ تہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وان چھہ سہم کہ بیہ عبارت تہ چھہ خدلیہ سندی طرفہ
وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ سہو عبارت چھہنہ ہرگز خدلیہ سندہ طرفہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَ
هُمْ يَعْلَمُونَ نورواوان چھہ سہم خد اہلس پیٹھہ اپز۔ حالانکہ سہم چھہ زنانان اس چھہ اپز وان مگر زانتھہ

هُم يَعْلَمُونَ ﴿۵۸﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۵۹﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا
الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۶۰﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا

کہ تھے چھہ ایزدان۔ پچھہ پانچہ چھہ نصاریٰ تہ ایز نور اور ان خدائس پیٹھ۔ تم چھہ دپان حضرت عیسیٰ ان
چھو کورمت خدا آسک دعویٰ۔ لوکن ڈیت نادمو پنہ نس عبادتس کن تھہ چھور ڈکر ان اللہ تعالیٰ
ماکان لبشران یوتیہ اللہ الکتب والحکم والنبوۃ کاسہ بشرس نش چھہ یہ تھہ ممکن کہ اللہ
تعالیٰ ان کیا آسہ تس عطا کر مش سوتاب تھہ اندر توحیدک حکم تہ شرح مانت آسہ۔ بیہ آسس عطا
کر مش عقل تہ فہم۔ بیہ آسس عطا کورمت نبوت تھہ یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ تو
پتہ کیاونہ سولوکن تہہ بنو میان بندہ خدائس ورا ی یعنی میان کرو عبادت۔ ولکن کونوا ربین بلکہ
چھہ تہمز کوم لوکن وئن۔ بنو تہہ اے لوکو خدایہ سند بندہ۔ پن خاص تعلقات تھاوہ وین تس سیت۔
عبادت کرد تہمز ی یا تہ۔ کیازہ سکو تہہ ہر گاہ ی لوکن پنہ نس عبادتس تہ پر ستشہ کن نادمہ۔ اللہ تعالیٰ ان
یوسہ مہربانیاہ چھم عطا کر مش سوتاب وائس بیہ گہہ ہم بزار بما کنتم تعلمون الکتب وبما کنتم
تدرسون ائی وجہہ کہ تہہ چھوک پچھانوان لوک سوتاب تھہ منز توحید کی سبق چھہ۔ ائی وجہہ
کہ تہہ چھوہ سوتاب پانہ ہران ولا یأمرکم ان تتخذوا والملیکة والنبيين اربابا بیہ بیحہ نہ
سو بشر امر کر تھہ کہ تہہ بناو کھہ ملا یک تہ پیغمبر معبود پن خدائس ورا ی ایأمرکم بالکفر بعد اذ
انتم مسلمون کیاہ یہ چھامکن کہ سو بشر کیاہ کرہ تومہ کفرک تجویز، تہہ مسلمان بنہ پتہ واذ اخذ
اللہ میثاق النبیین سو وقت پاو وژ تمس یلہ اللہ تعالیٰ ان عمد کرنا و ساری پیغمبر لہا اتیتکم من

اتَّيَبْتُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ
 لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ
 عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ
 مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۱﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ ﴿۸۲﴾ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

کِتَابٍ وَحِكْمَةٍ البتہ یہ کثیرہاہ میہ توہمہ عطا کور کتاب تہ حجت تہم جَاءَكُمْ رَسُولٌ توپتے واترہ
 توہمہ نش پیغمبرہ اعظیم الشان مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ سُوَ اسہ تصدیق کرہون تہزن سارنی بنیادی تہن
 ہمہ توہمہ سیت ہجہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تہہ کرزہ تمس پیغمبرس ضرور پڑشہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بیہ کرزہ
 تہندس دینس ضرور مدد قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ اللہ تعالیٰ اَن فرموؤکھ اے پیغمبر ووارہ کرو اتھ پیٹھہ اقرار
 وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي اتھہ پیٹھہ کرہہ میون عمدتہ حکم قبول ہتھہ عمدس تہہ وفا کرو قَالُوا
 أَأَقْرَرْنَا ساروی پیغمبر و دُوب اسہ کور اقرار قَالَ فَاشْهَدُوا اللہ تعالیٰ اَن فرموؤکھ پس روز و اڈائین
 گواہ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ بوہہ چھوس توہی سیت گواہواندرہ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ہس سہو منزہ روگردانی کرہ امہ معاہدہ پتہ تے چھہ کافر تہ نافرمان۔
 أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ کیا تم عمد شکن چھا خدلیہ سہدہ دینہ ورا یباکھہ دینا تھانڈان وَلَهُ أَسْلَمَ
 مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حالہہ ہس اکھاہ آسانس تہ زمینس اندر چھو تموساروی چھہ گردن دارمژ
 خدلیہ سندس خمس طَوْعًا وَكَرْهًا خوشی سیت یا لاچار سہدت وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ پتولا کہ چھو تس
 اَن سارنی رجوع کرن۔ قُلْ اَللّٰهُ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا فرماؤکھ تہہ یارسول اللہ ﷺ اسہ کر پڑشہ

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ
 اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبٰطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَ
 عِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ لَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ
 لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۳﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ
 وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا
 كَفَرًا وَّاَبْعَدًا اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرُّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاءَهُمُ
 الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۷﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ

کُنس خدائیس بیه تمّھے یہ آسہ کُن نازل آو کر نہ وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 وَالْاَسْبٰطِ بیه تمّھے یہ نازل آو کر نہ حضرت ابراہیمس، حضرت اسماعیلس، حضرت اسحاقس، حضرت
 یعقوبس بیه تمّھدین اولادن پیٹھے وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَ عِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ بیه تمّھے یہ عطا کر نہ آو
 حضرت موسیٰ اس، حضرت عیسیٰ اس، بیه سارنی پیغمبرن پنہ نس پروردگارہ سدہ طرفہ لَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ
 اَحَدٍ مِنْهُمْ کانہ فرق چھنہ اس کران سمواندرہ کانہ اس اندر وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ اس چھہ خدایہ
 سندی فرمانبردار تم کوراسہ یہ دین عطا۔ آسہ کُر قبول تہ اختیار یوہے دین وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا
 فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وون نس اکھاہ ژھانڈہ اسلامہ وراى بیاکھہ دیناہ۔ آدہ سو دین انس تہ ہرگز قبول تہ منظور
 کر نہ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ بیه آسہ سو آخرتس اندر تاوان زدو اندرہ تم نہ نجات ہیکن
 لبست۔ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرًا وَّاَبْعَدًا اِيْمَانِهِمْ اللّٰهُ تعالیٰ تمّھے پاٹھے ہاوہہ تھہ تم لوکن سموکفر تہ
 انکار کوراکہ پھرہ ایمان انتھہ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرُّسُوْلَ حَقٌّ بیه سمواکہ پھرہ گواہی دتہ پیغمبر چھو پز زیور
 وَّجَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ بیه واٹھہ تم نشہ نہ دلیلہ۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بیه کتہ انہ اللّٰهُ تعالیٰ

اِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ
 خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۙ
 اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ ۙ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَبْعَدُوْا اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ
 اَزْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضّٰلُّوْنَ ۙ
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفّٰرٌ فَلَنْ يُقْبَلَ
 مِنْۢ اَحَدِهِمْ مَّسَلُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوْ اَفْتَدٰى بِهٖ ۙ

سیزہ و تہ پیٹھ سمن ظالمین سموا ایمانچہ جاہیہ کفر تھوو اولیک جزاؤھم اَنّ علیھم لعنۃ اللہ و الملائکۃ
 و الناس اجمعیّن سمنی لوکن ہند سزا چھو یمن پیٹھ لعنت خداہ سنزیہ ملائکن ہنزیہ سارنی لوکن
 ہنز خلدیّن فیہا تنھہ لعنتس منز روزن گرفتار ہمیشہ یا لعنتس اثرس منز سوغو عذاب جنم تنھہ منز
 روزن ہمیشہ لَا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یَنْظُرُوْنَ لو اثراونہ تہ کم پیہ نہ کرنہ تمن نشہ سوغو عذاب نہ
 پیہ تمن مہلت ونہ یعنی جہنمچہ قید خانہ منزہ یمن کمنہ وقتہ نینر کڈنہ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
 وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ مگر سمو توبہ کورامہ پتہ بیہ سنہالکھ دل پنن بیہ عملہ پننہ کس
 جہنہہ خیترہ چھو اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ ون، رحم کرہ ون اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَبْعَدُوْا اِيْمَانِهِمْ پڑاٹ
 سمو کفر کورایمان انہ پتہ تھہ اَزْدَادُوْا كُفْرًا تو پتہ کرکھ زیادتی کفرس اندر لَن تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَاُولٰٓئِكَ
 هُمُ الضّٰلُّوْنَ یہند توبہ پیہ نہ ہرگز قبول کرنہ کس توبہ تم بین گنہن ہندہ خیترہ گرنہ پیہ چھہ تے گراہ
 تہ ذلت اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفّٰرٌ پڑاٹھہ سمو کفر کور تہ مؤد کفر سی پیٹھ فَلَنْ يُقْبَلَ
 مِنْۢ اَحَدِهِمْ مَّسَلُ الْاَرْضِ ذَهَبًا پس ہرگز پیہ نہ تمن نشہ قبول کرنہ شیوت سون سمہ سیت سوروی
 زمین پڑ آسہ و لو اَفْتَدٰى بِهٖ ہر گاہ سوغو توت سون عذابس بدلہ دیہ ہرگز پیس نہ قبول کرنہ۔

صَدِيقَيْنِ ﴿۹۳﴾ فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۹۴﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۵﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
 لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۶﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ
 إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

اعتراض کرنس اندر پزیرا چھوہ سو اعتراض اوس تہوندیو ہے کہ توہمہ مسلمانے چھوہ دپان اس چھوہ
 برملت ابراہیمی تلہ کیا زہ چھوہ تم چیز کھیوان تم چیز حضرت ابراہیمس پیٹھہ اللہ تعالیٰ ان آس حرام
 کرمت۔ تھہ اعتراض کوزھہ اللہ تعالیٰ ان رد۔ فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جس جس اکھاہ اپن نووراوہ معبود برحقس پیٹھہ امہ پتہ۔ جس تھے چھہ ظالم بے
 انصاف قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فرما دیو کہ پوز فرموا اللہ تعالیٰ ان حضرت ابراہیمس متعلق یہ خبر۔ ولو اتھہ
 پزہ تھہ پیٹھہ کرو فیصلہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جس ہر گاہ توہمہ تہندہ متابعک
 دعویٰ چھوہ۔ تیلہ کمر و تہنز متابعت۔ تم آس ساروی دنیو غیہہ بیزار۔ ثابت آس بردین اسلام۔ بیہ
 آس نہ تم مشرکواندرہ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا پز پاتھہ عبادتک گوڈکوی سوگرہ
 جس تعمیر آو کرنہ لوکن ہندہ عبادتہ خیطرہ، سوگو سوئی گرہ جس مکہ شریفس منز چھوہ۔ جس سیٹھاہ با برکت
 چھوہ۔ سمہ آیہ کریمہ سیت چھوہ اللہ تعالیٰ رد ذکر ان یہوڈن ہندس بیس اعتراض سوگو یو ہے کہ تم
 آس دپان ہر گاہ تھہ حضرت ابراہیمہ سندس ملتس پیروی چھوہ کران۔ تلہ اوس حضرت ابراہیمن
 عراقہ پیٹھہ ہجرت کر تھہ شامس منز پن وطن بنومت۔ تہند قبلہ اوس بیت المقدس۔ تھہ تھہ پاتھہ چھوہ
 دعویٰ کران تم سیت قرطبہ تہ نزدیکی ہند۔ اللہ تعالیٰ ان فرمو تھہ ساروی مقامات مقدس برو تھہ
 چھو گوڈکوی مقدس تہ مشرم گرہ کعبہ شریف جس مکہ معظمہ اندر چھو وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ بیہ چھویہ
 کعبہ شریف یوڈ ہدایت عالمن ہندہ خیطرہ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ اتھہ خانہ کعبس منز چھہ خدایہ

مِنَ اسْتِطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ ﴿۹۷﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ
 شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ
 سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا

سندہ قدر تک ن نشانہ۔ تمواندرہ گواکھ مقام ابراہیم۔ سوکن تھہ پیٹھہ ایستادہ رُوذتھہ حضرت ابراہیم
 خانہ کعبہ بنا کر ان آس۔ تھہ کتہ منزے چھہ ژور نشانہ۔ تھہ منزچہہ حضرت ابراہیمہ سند پائے مبارک
 سنے متی (۲) تے پائے مبارک چھہ سنے صنت ژنہ نین تان (۳) تے نشانہ چھہ تھہ کتہ پیٹھہ یوت کال
 گہہ تھہ تہ ونہ موجود (۴) بیہ چھہ سوکن از تان موجود۔ باوجود آنکہ کعبہ شریف چھہ دشمنواریاہ
 پھرہ بے خرمتی کر مرث۔ لوہر مت تہ منہدم کورمت۔ مکز تھہ کتہ چھونہ کانہہ تغیراہ سپد مت وَمَنْ
 دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا بیہ نُس اکھاہ اتھہ گرس منز ژاؤ تم لوب امن وامن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
 بیہ چھو خدایہ سدی خیطرہ لوگن پیٹھہ مہ امہ گرج زیارت کرنہ خیطرہ بقصد سفر کزان مِن اسْتِطَاعِ إِلَيْهِ
 سَبِيلًا یوہے چھو مہ لوکو اندرہ تمن پیٹھہ یمن توت واتنک طاقت آسہ مالی و بدنی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ دون نُس اکھاہ حج مہ آتھہ حج کرہ نہ۔ متہ کرتن۔ تمیک نقصان چھو تس پانس۔
 اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز ساروی مخلوقا تو نشہ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فرماویدار سول
 اللہ اے اہل کتابو کیا زہ چھوہ انکار کران خدایہ سندن آیاتن وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ حالانکہ اللہ
 تعالیٰ چھو و چھان تہ بیہ ہتہ کران چھوہ۔ سو دیہ وہ ضرور امیک سزا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ
 سَبِيلِ اللَّهِ فرماوہ ہتہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتابو کیا زہ چھو کھہ تھہ رنان خدایہ
 سزہ و تہ نشہ دین اسلامہ نشہ۔ مَن آمَنَ تم لو کھہ سموا ایمان اون تہ پوز دین قبول کور تَبْغُونَهَا عِوَجًا
 ژھانڈان چھوہ ہتہ اتھہ دینس اندر نقصان تہ خرابی وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ حالانکہ توہہ چھوہ معلوم بیہ چھو

مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿۱۰۰﴾
 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ
 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
 مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

دین حق و ما اللہ یفعل عماتعلون اللہ تعالیٰ چھو نہ بے خبر ٹھنز و کامیوشہ یایہا الذین المؤمنان
 تطیعوا فریقاً من الذین اوتوا الکتاب ای با ایمانو ہر گاہ ہنہ کانہ کتھاہ مانوشہ جماع اہل کتاب اندرہ
 یردوکم بعد ایمانکم کفرین تم و اتناوہ توہم ہندہ ایمان انہ پتہ بہ کرس کن و کیف تکفرون
 و انتم تتلی علیکم ایات اللہ و فیکم رسولہ ہنہ کتھہ پاٹھہ بیکو بیہ کرس کن پھیرت توہم پیٹھہ ہنہ
 خدایہ سند آیات پر نہ یوان۔ عیے توہم منز چھو موجود تسند پیئمبر و من یعصم باللہ فقد ہدی الی
 صراط مستقیم کس اکھاہ زورہ کرہ تھپ اکسی خدا کس کس تھیق کس آیہ و تھہ ہاندہ سیزہ و تہ کن
 یایہا الذین المؤمن اتقوا اللہ حق تقاتہ اے با ایمانو کھو ثواللہ تعالیٰ اس کتھہ کس کھو ژان شوہ۔ کس
 کھو ژان گو کہ کتھہ پاٹھہ ہنہ کفر و شر کہ نشہ کتھہ روز و کتھہ پاٹھہ روز و ساروی گھو نشہ تہ کتھہ
 الا و انتم مسلمون بیہ مہ مسر و مگر اسلامس پیٹھہ جان دیو اسلامس پیٹھہ و اعتصموا بحبل اللہ
 جمیعاً بیہ کس زورہ تھپ اللہ تعالیٰ سزہ محکم رزہ ساری کتھہ تہ حُفَن روز تھہ۔ محکمہ رزہ تھپ
 کرن گو سارنی اسلامین حمن اصولن تہ فروغن پیٹھہ پور عمل کرن و لا تفرقوا الگ الگ مہ سیدو
 نا اتفاق مہ کرو مسلمان آتھہ کمازہ اسلامس اندر چھہ اچ سخت ممانعت و اذکروا نعمت اللہ علیکم
 ژیکس پاو سونو نعمت خدایہ سنزیوسہ خاص توہم عطا کرنوہ اے قبیلہ اوس و نزر ج کیو مسلمانو اذکرتکم
 اعداء یلہ ہنہ آسوہ اسلامہ بروٹھ کھہ آسند سخت دشمن فالفف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

پس تروا اللہ تعالیٰ ان آفت تہندین دن اندر چنانچہ تمہ سپدوہ تہنزہ ہر بانئ سیت پانہ وان بائ بائ۔
 پانہ ہر بانئ گینہ تہندہ حقہ یہ کہ **وَکُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ** بیہ آسوہ تمہ کہ نارہ کھوڈہ کس
 پشس بیٹھہ واتمت۔ تیار آسوہ تمہ منز کیا بیہ ہو تمہ۔ **فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا** اللہ تعالیٰ ان بجاوہہ تمہ منز
 پینہ نشہ ایمانہ برکتہ۔ لہذا کریوہ توہمہ یمن خدلیہ سزمن ہر بانئ ہنز قدر۔ پانہ وان مہ کمر و ہر ہر تہ لایہ
 لای۔ امہ سیت سپد نوہ سمہ ہر بانئ ضالع **كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيٰتِهِ** تمہ پانہ اللہ تعالیٰ ان یہ
 حکم واضح تہ ن پانہ بیان فر مووتتہ پانہ چھو اللہ تعالیٰ جن احکام تہ ہدایتہ چہ دلیلہ صاف صاف
 بو ضاحت بیان کران۔ **لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** تمہ توہمہ تمہ بیہ راہ راستس کن تہ تمہ وتہ بیٹھہ روز و ہمہ
 ثابت تہ محکم **وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ** بیہ چھو لازم توہمہ اندرہ آسن اکھ جماعتہاہ سم
 ناد آسن و وان لو کن خیرس کن یعنی دین اسلامس کن یا خیرہ چن کا میں کن۔ پانہ وان متحد و متفق روز نس
كُنْ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بیہ سم امر آسن کران رثن کا میں ہند۔ منع آسن کران
 چھہ کامیو نشہ۔ معروف گینہ تمہ کامہ بیہ موافق آسن قرآن و حدیثس۔ مکر گینہ تمہ کامہ سمہ مخالف
 آسن کتاب و سنتس **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** رثن کا میں ہند امر کرہ ون تہ چھہ کا میں ہند منع کرہ ون
 جماعتی چھہ آخر تس منز ثواب حاصل کر نس اندر کامیاب تہ رستگار **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
 وَاخْتَلَفُوا** بیہ مہ آسوہ تمہ اے مسلمانو تم لو کن بہمہ سمو مفرق تہ الگ الگ سپدت دینس اندر پانہ وان
 اختلاف کور **مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ** صاف صاف تہ واضح احکام تمین نشہ واتتہ پتہ **وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ**

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا
الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا
العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۶﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ تِلْكَ اٰيَاتُ اللّٰهِ
نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸﴾
وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ

عَذَابٌ عَظِيمٌ جہندی خیطرہ چھوہیہ یوڈ عذاب یوم تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ حتی دوہہ سہمہ
دوہہ اڈین ہند بٹھہ سپدن سفیدہ تہ اڈین ہند بٹھہ سپدن سیاہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ کس یمن ہند
بٹھہ سیاہ سپدن تمن بیہ ونہہ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ کیاہہ انکار کو روہہ
توہیہ اقرار کرنہ پتہ۔ کس ژہو مزہ جہنمکہ عذابگ۔ کیاہہ توہے ایمان اتنہ پتہ کفر چہہ کامہ آسہہ کران
وَأَمَّا الَّذِينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ وون یمن ہند بٹھہ روشن تہ سفید آسن۔ تم آسن خدایہ
سندس رحمتس اندر یعنی رحمتہ جایہ اندر۔ سوگو جنت۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تم روزن تھہ جنتس اندر
ہمیشہ تِلْكَ اٰيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ بیان آؤ کرنہ تم چھہ خدایہ سند آیات تہ فیصلہ
جات۔ تم آسن توہیہ پیٹھہ صحیح طور پر ان چھہ یار سؤل اللہ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ اللہ تعالیٰ
چھونہ ہر گز مخلوقن پیٹھہ ظلم یرھان کرن۔ وون یہ کہیہ ہاہہ کانسہ ہندہ خیطرہ جزاء و سزا بیان آؤ کرنہ تہ
چھو بالکل مناسب تہ موزون جہندہ کامہ موجب وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ خدایہ سُدی
چھوتہ سوزی یہ آسمان تہ زمینس اندر چھوتھہ کُن نظر کتر تھہ پڑہ ہاسارنی پنہ نس مالکہ سز فرمانبرداری
کرن۔ سہو فرمانبرداری کرتم چھہ ثواب و اجر س مستحق۔ سہو نافرمانی کرتم چھہ عذاب و سزاس
مستحق وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ خدایہ سی کُن یمن و اتناونہ ساری معاملات تہ ساری مقدمات۔
فیصلہ چھو تس کرن۔ تس و رای بیاکھہ اختیارہ و ولایہ آسہ نہ کانسہ تہ کُنْتُمْ خَيْرًا اُمَّةً اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

الْأُمُورَ ۱۹ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
 أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
 الْفَاسِقُونَ ۲۰ لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا آذَىٰ وَإِنْ يُقَاتِلْوكُمْ يُوَلُّوكُمْ
 الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۲۱ ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ آيِنَ مَا
 تَقِفُوا إِلَّا إِلْحَبِلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبِلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَبِغَضِبِ

اے مسلمانو! آج وہ جہہ امواتا ہے بہتر امتا ہے در علم ازلی۔ کڈنہ آمر لو کن ہندہ فائیدہ خیرہ۔ تہندہ بہتر
 آسگ وجہ چھو کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ جہہ چھوہ لو کن رزن کا میں ہند امر
 کران۔ تہ چھہ کامیونہ منع کران۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یہ چھوہ پانہ کنس خدا ایس پڑھ کر نس پڑھ
 ڈاڈ کران۔ خدا چھوہ ہمیشہ مژرہ تہ پاک زاناں شریک آسنہ نہ۔ تس ایمان آنتہ تہ پڑھ کمر تھ۔ تس
 تسن پڑھ کران لازم چھہ تسن سارنی چیزن چھوہ پڑھ کران وَلَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
 ہر گے یہود و نصاریٰ تہ ایمان آتہ ہن، خدا ایس سوی زانہ ہن، پیغمبر بر حقس پڑھ کرہ ہن۔ تہ اوس تہندہ
 خیرہ سبھاہ بہتر۔ تلہ سپد ہن تم خیر الام آسس منز توہہ سیت شامل۔ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
 وَالْأَكْثَرُ الْفَاسِقُونَ تمواترہ چھہ بعضی ایمان آتہ ون۔ اکثر چھہ فاسق تہ کافر۔ بلکہ چھہ تم مسلمان
 دینی و دنیوی ضرور اتا و تہ خیرہ سخت کوشش کران مگر لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا آذَىٰ ہرگز ہمکن تہ تم توہہ
 ضرور اتا و تہ۔ مگر زیوہ سیت و ن چھہ تھہ تمی سیت شملاون دل پن وَإِنْ يُقَاتِلْوكُمْ ہر گاہ تم
 توہہ سیت مقابلہ کرنہ خیرہ نیرن يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ہمکن نہ مقابلہ کر تھہ بلکہ ڈلن توہہ کن تھر
 پھر تھہ شکست کھیوان ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ توپتہ اکتھہ نہ کڈنہ طرفہ مدد کرنہ ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ آيِنَ مَا
 تَقِفُوا تراوندہ چھہ آمر تسن پڑھ خواری تہ تم لینہ ہن تہ تہتہ إِلَّا إِلْحَبِلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبِلٍ مِّنَ النَّاسِ
 مگرے کاہہ۔ بجا وک ذریعہ خدایہ سبہ طرفہ یا لوگ ہندہ طرفہ تمواترہ کانسہ حاصل آتہ سوروزہ تمہ

مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۗ ذَٰلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۱۲﴾ لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَ
هُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۳﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ

خواری نشہ محفوظ۔ خدایہ سُنْد ذریعہ گوکہ کانہہ آسہ تمو اندرہ خدایہ سُنْدس عبادتس سیت مشغول۔
مسلمان سیت آسہ نہ مقابلہ و مقاتلہ کران لوکن ہندہ ذریعہ اندرہ چھو مطلب تم آسہ مسلمان سیت صلح تہ
معاہدہ کورمت۔ و بَاءُ وَيَقْضِي مِنَ اللَّهِ حَاصِلِ كَرِهَةِ آسے تم یہود خدایہ سُنْد غضب وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ بیہ آسہ تراونہ تمن پیٹھہ محتاجی تہ بدحالی۔ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ یہ سزا آکھ ائی موکھہ دنہ کہ تم آس خدایہ سندین آیات تہ احکامن انکار
کران۔ تمن ہمدہ تعمیل کرنہ نشہ دانستہ پٹھہ روزان۔ بیہ آس پیغمبرن یعنی تم احکام الہی و اتاودہ و نین
ناحق قتل کران ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ بے عملی تہ بدکرداری تہ شقاوت سہز تمن امی
وجہہ کہ تمو کران فرمانی، بیہ آس تم حدہ ڈلان لَيْسُوا سَوَاءً چھہ تم ساری ہی تہ برابر کیاہہ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اہل کتابو اندرہ چھہ
آکھ جماعتہاہہ ہم راہہ راستس پیٹھہ، دین حقس پیٹھہ قائم روزتھہ چھہ۔ رات کیت چھہ خدایہ سند آیات
پران۔ بیہ چھہ تمسندس حضورس اندر سر بسجود روزان يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ پڑھہ چھہ تمن کئس خدائس بیہ قیامکس
دوئس۔ بیہ چھہ رٹن کائین ہند امر کران بیہ چھہ پٹھہ کامیونشہ منع کران۔ بیہ چھہ تم رٹن کائین اندر
برونٹھہ گڑھان۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ بیہ چھہ تم نیکو کارواندرہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ

فِي الْخَيْرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا يَفْعَلُوا
 مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۱۱۴﴾
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱۵﴾
 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا
 صُرٌّ صَابَتْ حَرَّتٌ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ۗ وَمَا
 ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

يُكْفَرُوا ۗ بپه یوسه ژکا مه سم کرن۔ سو هرگز تمن نش پوشیده اینته تهاوند۔ بلکه پیچه تمبوک
 ثواب ضرور عطا کرنه وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ جهو پورزان وول پر هیز کارن ان الذین
 کفروالذین تغنی عنهم أموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا بزپاٹ سمو لو کو انکار کور، کفر سی پیٹھ
 زود، تمن بیچه نه خدایه سنده عذابه نسه بجاوت ته موکلاوت کا نه۔ نهوند مال ته تهند اولادئیه قسمه
 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سمی لوکھ جهه جهنمی۔ یعنی جهو تهه منز همیشه روزن۔
 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مثال جهه تجیه سم لوک خرچ کران جهه بهته دنیچه زندگی
 اندر۔ کَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صُرٌّ صَابَتْ حَرَّتٌ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ تمه واونج مثال تهه منزخت
 سردی آسه۔ سوی ولته کنه قومه کس زر اتس سمویان پانس ظلم کور۔ کس کور تم واون سهُو نهوند زراعت تباہ
 ته بُر باد تهه پاٹھ گنجهه تمن همد خرچ کورن سوی آخرتس اندر ضائع ته بیکار وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ
 أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ تعالیٰ ان کورنه تمن پیٹھ ظلم۔ بلکه کور تمویان پانس ظلم کور کر نه سیت
 کیا زه کافرن هنز کا نه عمل جهه کور سببه قبولیتس سزوار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِلطَانَتِهِ مِنْ

لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبْرًا وَّذُومًا
عَنِّي قَدْ بَدَأَتِ الْبَغْضَاءُ مِنِّي مِنْ أَقْوَاهِمُ ۗ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۸﴾ هَآئِنْتُمْ أَوْلَاءُ
تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۗ وَإِذِ الْقَوْمُ
قَالُوا آمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عٰلَيْكُمْ الْوَآمِنِينَ مِنَ الْغَيْظِ
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۹﴾

دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبْرًا اے باایمانوہ آسیدو کہ بناوان پنہ جماعتہ ورا ای بیہ کانہہ سر بوج، پنہ نین اسرازن محرم۔ سم دشمن چہنہ کانہہ کمی کران توہہ خلاف قنہ و فساد کرس اندر و ذومًا عنیتم کانچھان چہہ تم پریتھہ وقتہ تہندہ تکلیف تہ سختی منز آسن قَدْ بَدَأَتِ الْبَغْضَاءُ مِنِّي مِنْ أَقْوَاهِمُ تہنہر دشمنی چہہ تہندہ یو چائلیو اندرہ نیران۔ تہنہر و کتھو اندرہ وارہ نان۔ یہ چھو توتہ کی وَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَکْبَرُ کس عدوت تہندہ ن دلن اندر چھو۔ سو چھو سیٹھہ بوڈتہ زیادہ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اپز پاٹھہ آسہ کمر واضح تہندہ خیطرہ تہندہ عدوتک نشانہ۔ چھوے تہہ عقلہ وال تلہ زانو تہہ پائے سمبو نشانویت تہندہ ن دلن ہندہ حالات هَآئِنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وارہ یوزواے باایماؤ۔ تہہ چھوہ تہندہ محبت تھوان حالانچہ تمن چھونہ تہندہ محبت کہنہ تہ و تُوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ تہہ چھوہ سارنی آسانی کتابن ایمان آنان۔ پڑھ کران تمن چھنہ سارنی کتابن ہنز پڑھ۔ تم چھہ تہہ سیت ڈھو کہ پاٹھہ پکان۔ مگر تہہ چھوہ توتہ تمن سیت دوستی ہندہ تعلقات تھوان۔ وَإِذِ الْقَوْمُ قَالُوا آمَنَّا یلہ تم توہہ سمکھان چھہ تمہہ ساتہ چھہ تہہ ہونہ خیطرہ منافقانہ طریقس پیٹھہ و نان کہہ اسہ اون ایمان وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عٰلَيْكُمْ الْوَآمِنِينَ مِنَ الْغَيْظِ مگر یلہ توہہ ورا ای آسان چھہ تمہہ ساتہ چھہ تہہ پنہ کیہوان شرارتہ تہہ تھکہ سیت قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ فرادیو کہ تہہ یار سول اللہ تھہ کھن کیہا تھہ چھہ ہر گاہ تہہ تھکہ سیت مسرتہ توتہ نیرہ نہ تہندہ مطلب إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو پوزانہ ون

تَسْسِكُمْ حَسَنَةً سَوْهُمْ وَإِنْ تَصْبِكُمْ سَيِّئَةً يَفِرْ حُوا
 بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ
 اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۱۲۰﴾ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
 تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۱﴾
 إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى
 اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ

تمہ سارے تمہ سے تمہیں نہیں دین سب سے اندر پوشیدہ ہے ان تَسْسِكُمْ حَسَنَةً سَوْهُمْ ہر گاہ توہم کا نہ
 رٹا تھا پیش یوان ہتھ۔ کانہ خوشی ہنز کتھاہ واتان ہتھ تمہن ہتھو تمہ ساتھ مضمیت ہوان وَإِنْ
 تَصْبِكُمْ سَيِّئَةً يَفِرْ حُوا ہا ہر گاہ توہم کانہ مضمیتاہ یا غماہ واتان ہتھو تمہ ساتھ ہتھ تم خوش کردھان
 تمہ سیت۔ وَاِنْ تَمَّ اَمْرٌ قَسَمْتُ دُشْمَنَ اَسْنِ تَمْنِي سِيْت شُو بِيَا تُوْبِيَه دُوْسْتِي لَا اَكُنْ يَا دُوْسْتِي ہند تعلقات
 تھاون۔ مگر تھنہ تھہ بانبر و ہنزہہ دُشْمَنِي سِيْت۔ تمیوک علاج ہتھو صبر وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ
 كَيْدُهُمْ شَيْئًا ہر گاہ تھہ صبر و استقلال کثرت خدا اس تھو تھو، کہہنہ ضرر ہیکہ نہ واتا تھہ توہم
 ہونہ مکرو فریب تھہ قسمہ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ ہتھو تھہ سارسی یہ تم
 کران ہتھہ احاطہ کرہ و ن تہ پوزانہ و ن۔ سُوْدِيَه تُوْبِيَه تھہ دین حالاتن ہند اطلاع۔ تمہن دہہ سزا وَإِذْ
 غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ہتھہ چھوہ توہمہ یادیا رسول اللہ علیہ
 در اوہ تھہ حضرت عائشہ صدیقہ سبہ حجرہ مبارک کہ آندرہ توپتہ واتوہ تھہ کوہ احد س نزدیک تہہ ہتھو کھہ
 توہمہ بالیمان مخاڈ جنگس پٹھہ مناسب مناسب جاين تھہراون۔ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللّٰهُ تَعَالَى اَوْس
 تمہہ ساتک تھہند سوزوی کلام یوزان تھہند حال زانان إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا
 یلہ نا توہمہ اندر دویو جمارت و ممت ہار نک تہ واپس تزلہ تک ارادہ کریو۔ خدا ہتھو تھہند دوست تہ مددگار۔
 سُوْتھہ پاٹھہ دہہ ہاتھن ممت ہار تھہ تزلہ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بالیمان پزہ خدا یہ سی پٹھہ

اذَلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۳۳﴾ اذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ
 اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ
 مُنْزَلِيْنَ ﴿۱۳۴﴾ بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاۡتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ
 هٰذَا يُمِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿۱۳۵﴾
 وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَِٔنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا
 النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۱۳۶﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ

بھروسہ کرن۔ تمہند مددگار چھوڑ پرتھہ وقتہ سؤی۔ کم ہمت گتھ نہ کتھہ وقتہ لاگن۔ وَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ
 بِبَدْرِ يَوْمَ بَدْرٍ بِرِضْوَانِهِ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ كُوْرِدْ دُوْهہ جَنگِ بَدْرَس مَنزُءٌ وَمَا اَنْتُمْ اِذَلَّةٌ بِلِهٖ تَهْمہ بظاہر سامانچہ کئی تہ
 فوجہہ کئی سببہ ہست آسُوہ سُوْحَالِ آتھہ کمر نوہ یاری محض تھندہ پر ہیز گاری تہ صبر و استقلال کتھہ برکتہ
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ کس کھو شوڑو تھہ ہمیشہ خدا کس تانہ توبہہ آسہ یو اِن موقعہ تھنزہ شکر
 گزاری ہند اذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ
 یہ مدد تیاری سبز توبہہ تمہہ وقتہ عطا بیلہ تھہ یار سُوْل اللّٰهِ دِپَانِ آسُوہ بِالِاِيْمَانِ (تم یہ خبر یوزت پریشان
 آس سپد مت کہ کافرون دوت یہہ فوج مدد نہہ خیطرہ)۔ کیاہ توبہہ پھنادل مضبوط کرنہ خیطرہ یہہ تھہ کافی
 کہ توبہہ کرہ اللّٰهُ تَعَالٰى مَدَد تَرِيو سَاو (۳۰۰۰) ملائیکو سیت۔ تم والنہ آئے تھندہ مدد کہہ خیطرہ آساکھہ
 طرفہ بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاۡتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ بے شک چھہ یہہ تھہ کافی بلکہ اِنج کیاہ چھہ کتھہ
 ہر گاہ تہہ صبر و استقلال کمر وہیہ کھو ژو خدا کس اڈے دُشْمَن توبہہ پٹھہ جوش و خروشہ سان ہتھہ تہہ تمکہ تہہ
 حملہ کرن هٰذَا يُمِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ تمی ساتہ کرہ توبہہ اللّٰهُ تَعَالٰى کس
 تھند رُب چھوپانز ساس (۵۰۰۰) ملائیکو سیت مدد۔ تم نشانہ دار آسن مخصوص وردی لاگت۔ تم یوزہ
 کتھہ تیار آسن وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ اللّٰهُ تَعَالٰى اِن کورنہ یہہ امید مگر تھندہ غلبہہ بشارتہ تہہ خوشخبری
 خیطرہ وَلِتَطْمَِٔنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ بِہہ تھہ تھندہ دل قرار رُن امہہ سیت وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُمُهُمْ فَتَنَقِبُوا أَخَابِيْنَ ۝۱۲۴ لَيْسَ لَكَ
 مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۝۱۲۵
 وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يُعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ
 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۲۶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا

العَذَابَ الْعَظِيْمَ ۝۱۲۷ بھہ چھ حقیقت کہ یاری تہ مدد چھونہ کانہہ ہندہ طرفہ عزتہ وائس تہ حکمتہ وائس
 خدائس وراى لِيَقْطَعَنَّ طَرَفَاتِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ تَتَّخِذُهُمْ كَافِرًا وَانْدَرَهُ اَكْسَ جَمَاعَتَسْ هَلَاكٌ غَرِّهٖ اَوْ يَكْتُمُهُمْ
 فَيَتَقَلَّبُوْا اَخَابِيْنَ ۙ یا کرکھہ خوار و ذلیل پس ژلن تم وائس ناکام گدہ تھہ۔ چنانچہ ستن کافرن تم ہڈا نگر
 آس آہہ گردن دنہ۔ ست زن آہہ گرفتار کرنہ۔ باقی ژل شکست فاش تھیتھہ۔ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم یلہ جنگ احدس منز کافرن ہندہ طرفہ سخت تکلیف ووت۔ ذندان مبارک سپد شہید روی
 مبارکس سنیاى خود شریفک کرواریاہ زخم آہہ بدن مبارکس بیہ آہہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نہایت بے دردی سان
 شہید کرنہ۔ دل مبارک سپد نبی کریمہ سند تمہہ سیت سیٹھاہ آزدہ۔ ارادہ کورکھہ کہ دشمن پیٹھہ کرہ ہن
 دُعای بد۔ آتی سپد نازل یہ آہہ کریمہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اے پیغمبر خدا تو بہ نہ حض چھونہ
 دخلاہ اتھہ معاملس اندر کاہہ سپد تن مسلمان کانہہ متہ سپد تن۔ امیوک سوزوی اختیار چھو خدائس
 اتھہ توبہ پڑہ صبر کرن۔ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ ۙ توتان یوتان دو یو چیز واندہرہ اکھ چیز لبنہ یہ
 یاد یہ اللہ تعالیٰ تمن توبہ کرنک توفیق۔ تم سپدن مسلمان۔ جہند دل مبارک سپدہ خوش یا کرکھہ
 عذابس گرفتار۔ ہر گاہ گھرسی پیٹھہ تمواصرار کور۔ تمہہ سیت شہلن مسلمانن ہند دل ۙ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
 کیاہہ تم چھہ پڑاٹھہ ظالم کفر و شرک کرکھہ سبہ۔ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ خدایہ سندی
 چھوتہ سوزی یہ آسمان تہ زمین اندر چھو یُعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ مغفرت گروئس
 یڑہ تہ ئس۔ عذاب کرہ ئس یڑہہ تہ ئس وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۲۶ بھہ چھو اللہ تعالیٰ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ
 لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۳۲﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۳۳﴾
 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
 وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۴﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
 وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

سیٹھاہ رحم کرہ ون یَايُمَهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَاْكُلُوْا اٰلِهٰبًا مَّضْمَعَةً اے باایمانو مہ کھیو
 مال دُوگناؤ دُوگناؤ دُوگناؤ کیا زہ یہ چھ سو کام یوسہ جنہنس واتاؤہ۔ سو د پھو حرام کم آستن یا زیادہ۔ یہ پھونہ
 مُراد دُوگناؤ دُوگناؤ دُوگناؤ مہ کھیو کم کم کھیو۔ تھہ چھہ ونان قید واقعی۔ تمہ وقتہ اوس واقع تھہ پانھ سپدان۔
 لوک آس دُوگناؤ دُوگناؤ دُوگناؤ سو د و صول کران۔ یہ پھونہ قید احترازی تمیک مطلب یہ نیر ہاکہ دُوگناؤ
 دُوگناؤ آسانا جائیز کم کم آسا جائیز۔ وَأَتَقُوا اللَّهَ کھوژو و خدائس لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ تہہ
 تہہ سپد و کامیاب۔ نارہ نشہ نجات لبتھہ واتو جنس وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي بیہ کھوژو تھہ ناس اُعِدَّتْ
 لِلْكَافِرِينَ اُس نار دراصل تیار آمت پھو کرنے کافرن ہندہ خیترہ۔ باایمان آتھہ مہ واتاؤ یو کھہ پن پان
 کافرن ہنزہ جلیہ منز۔ نافرمانیو سیت۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ حکم مانو خدایہ سُد وَالرَّسُولَ بیہ تھہ س
 بیٹھہ سُد لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دیوہ توہہ پٹھہ رحم بیہ کرنے قیامتک دوہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
 بیہ تلو دور پنہ نس پروردگارہ سیدس بدس مغفر تس گن۔ تمہ عملہ کرو سُمُو سیت مغفرت تہ جنت
 حاصل سپدیو وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بیہ تھہ جنس گن سُمُو ک پنہ چھو تیوت یوت
 سٹھہ آسمان تہ ست زمین دُوگنہارہ نشہ مُرادت اکھہ اکس سیت ملناوتھہ تھاوت گدھہ۔ یہ گوپناہ
 تمیوک۔ ز پھوک اندازہ پھو خدایہ سی معلوم اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ سوی جنت پھو تیار کرنے آمت
 خدائس کھوژو ونین ہندہ خیترہ۔ ہم خدایہ سیدس حکمس تعیل کرن۔ ممنوع چیز نشہ پتھہ روزن
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اول درجہ متقی گے تے لوگ ہم خرچ کرن خدایہ سندہ خیترہ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۳﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ
 اللَّهُ لَهُ فَسَيُصِرْ وَعَلىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
 يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ
 جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ
 الْعَمِلِينَ ﴿۳۵﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي

پرستہ حائس اندر۔ دستس اندرتہ تنگی اندرتہ وَالْكُظَيْمِ الْغَيْظِ یہ تم رکھہ ژاپون آسن
 وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یہ تم عفو کرہ وین آسن لوگن پیٹھہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ پھو
 پتھن نیکو کارن ٹوٹھ تھوان وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً یہ گئے دوسمہ درجک منٹی تے تم کانہ پھہ
 کامہ کرن اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ یا کرن ظلم پنہ نین پان پیٹھہ ذَكَرُوا اللَّهَ تمہ ساتہ آسن یاد کران
 خدایہ سندس وعیدس تہ گنہکس سزاس فَاَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ پس آسن مغفرت ژھانڈان پنہ نین
 گوئمن ہندہ خیطرہ۔ تمہ طریقہ یوسہ معانی ہینہ خاطرہ مقرر کرنہ آمرچھہ۔ سوگو ہر گاہ گنہکارن بین
 پیٹھہ زیادتی کر مثر پھہ لوکن ہند حق ضایع کورمت پھو تلہ گوہہ حقدارن پئن حق واتانوں۔ یا تم نیشہ
 معافی حاصل کرن۔ پتھہ گنہس پنہ نی پانسیت تعلق آسہ تمہ سیت یہ کانہہ ہند حق ضائع سپدمت
 آسہ نہ تھہ منز گوہہہ خدایہ سی نش معافی حاصل کرن وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کس اکھاہ پھو
 مغفرت کرہ وین سارنی گنہن خدائس ورا۔ وَلَمْ يُصِرُّ وَعَلىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ آسن
 نہ تم لوکھہ تھہ پھہ کامہ پیٹھہ اصرارتہ ڈاڈ کران زاتھہ کر تھہ أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ
 تے لوکھہ گئے تم تمکن ہنرمزور پھہ یوڈ مغفرت پنہ نس خدایہ سندہ طرفہ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ یہ تم جنت سمومنزہ بجویہ پکان آسن خَلِيدِينَ فِيهَا تمنی جتن اندر روزن تم ہمیشہ وَ نِعْمَ
 أَجْرُ الْعَمِلِينَ کیاہ ر ژمزور یاہ پھہ یہ رثہ کامہ کرہ وین ہندہ خیطرہ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۱۳۶﴾ هَذَا
 بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۷﴾ وَلَا تَهِنُوا
 وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۸﴾ إِنْ
 يَسَسُكُمُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ
 الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۹﴾

پڑپاٹ گڈ ریے توبہ بروٹھہ واریاہ طریقک لوک۔ یمن منز مسلمان تہ آس یمن منز کافر تہ آس۔ تمن
 سپدانہ وان اختلاف تہ مقابلہ۔ لیکن انجام کار سپد کافرن شجکت تہ تباہی مسلمان فتح و نصرت۔ ہر گاہ
 تہ تہمدین ہلاکتہ کین آثارن تہ نشان ہند ملاحظہ کرن بیڑھان چھوہ۔ فیسڈروانی الأرض پس
 پھیر توبہ روے زمینس فانظروا کیف کان عاقبۃ الیکذیبین پس وجھوتنا فرمان۔ پڑھ نہ کرہ
 ونین ہند انجام کیاہ پھو سپدمت۔ ہذا بیان للناس یہ پھو واضح کلام لوکن ہندہ خیطہ۔ تم ہر گاہ اتھ
 منز غور کرن۔ بڈ عبرت سپدیکھہ حاصل۔ وهدی و موعظۃ للمتقین یہ پھو بڈ ہدایت تہ نصیحت
 خاص خدا نس کھوڑہ ونین ہندہ خیطہ ولا تہنوا ولا تحزنوا یہ ہر گاہ تہد و کین تہتہ جنگ احدس منز
 مغلوب تہ سپد و کیا ہش کتھہ گنیہ۔ امہ سیت مہ سپد و تہہ سست یہ مہ کھنوی امیک غم وانتم الاعلون ان
 کنتم مؤمنین تہمی سپد و غالب ہر گاہ تہہ پوختہ با ایمان تہ پڑھہ وال آسو۔ تہتہ پڑھہ ثابت قدم
 روزو۔ ان یسسکوم قرح ہر گاہ از تہتہ جنگ احدس اندرووت توبہ تکلیف کیاہ ہش تہتہ چھہ فقد
 مس القوم قرح مثله پس تہتہ ووت اتھ قوس یعنی سمن کافرن تہتہوی تکلیف جنگ بدرس منز
 وتلك الايام نداولها بين الناس اس چھہ تم زندگی ہند ایام لوکن اندروازہ وارہ بدلاوان۔
 اکہ دوہہ عیش و آرام یہہ دوہہ غم تہ تکلیف ولیعلم الله الذين امنوا یہہ ووت توبہ یہہ تکلیف تہتہ
 نزوہ اللہ تعالیٰ با ایمان۔ ویاتخذ منکم شہداء یہہ تہتہ واتاودہ توبہ اندرہ بعضین شہادتہ کس

وَلِيَمِخَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَبْحَثَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۳۱﴾ اَمْ
 حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا
 مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۳۲﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ
 قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ وَمَا
 مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌۙ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهٖ الرُّسُلُۙ اَفَاٰنِ

مرتبس یعنی توبہ اندرہ بعضین کرہ شہادتک درجہ عطائس ٹھو در مرتبہ چھو۔ واللہ لایحب الظالمین
 اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران ظالمین یعنی کافرن نہ مضر کن۔ یعنی تمنی غلبہ دین امہ موکھ نہ کہ تم کیاہ
 چھس ناٹھ بلکہ آسہ اتھ اندر تہندی خیطرہ واریاہ مصلحہ ولیمخص اللہ الذین امنوا اچی بیاکھ
 مصلحت آس ہتھ اللہ تعالیٰ صاف وپاک کرہ بابا ایمان امہ تکلفہ سیت گنہن ہندو آلایشونشہ ویسحق
 الکفرین۔ یہ ہتھ گاہا تین کافرن۔ یعنی تمن دین موقعہ ظلم وستم کرہ تک بس ظلم وستم تہندہ تباہی
 ہند باعث بنیو۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ کیاہ توبہ چھا خیال تہہ کیاہ و اتوجس آزامیشو نہ
 امتحانورای۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ونہ آسہ نہ نیومت کہ جہاد
 گموکور توبہ اندرہ نہ تکلیف ہتھ صبر کرہون کم چھہ توبہ اندرہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ
 قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ پزپاٹھ آسوتہہ موتک تمناکر ان سووچھنہ بروٹھ یعنی خدایہ سزہ و تہ اندر آسوتہہ
 مرن یشان۔ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ پس تھتین وچھون توبہ سووچھو سیت۔ وون کیازہ
 چھوہ بانبران۔ یلہ جنگ احدس منز کافرو غلبہ لوب تمن تیر اندازن ہندہ جایہ ڈلنہ سیت یمکوہ ورس
 اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظتہ خیطرہ مقرر کورمت آس۔ فر موومت او سہکھ اگر تہہ وچھو
 اسہ ڈٹمن حکمہ حکمہ ماز ثنان توتہ ڈلڑہ نہ تہہ پتہ جایہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسے دوہہ شتہہ زخم۔
 ذندان مبارک سپد شہید یعنی اکھ کھنڈ آہہ و سٹھ اکس دندس سمہ سیت خون جاری سپد۔ یہ آہہ کرہ کھ
 دنہ تہندہ شہادت سمہ سیت بعضے صحابہ صغین ہند حوصلہ پست سپد تہی وقتہ کورنازل اللہ تعالیٰ ان وما

مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِّرَنَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۷﴾
 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿۳۸﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا

مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ پُھونہ حضرت محمد ﷺ مگر پیغمبر اور۔ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ گنمت بہتہ تمن بروئٹھ واریاہ پیغمبر آفائین مَات کیاہ ہر گاہ تم پائے۔ سمعہ عالمہ گنمت آسن اَوْ قُتِلَ يَأْشُمْنَ مِنْهُ ائٹھ شہید سپد مت آسن انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ کیاہ تہہ پھیروہ پُوت تمہہ موکھہ تراوہ تہہ جماد کرن۔ یاڈلوہ تہہ امہ دین اسلامہ نشہ گھر س گن وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ائس اکھاہ پھیرہ پُوت اڈہ پھیرن فَلَئِنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا پس کانہہ ضرر تہ نقصانہہ بیکنہہ واتاوتھہ اللہ تعالیٰ اس بلکہ پُھوس تمیک ضرر تہ نقصان پان پانس وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ تعالیٰ دیہ جلدی رتھمزور شکر گزارن وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بیہ تھاو دو یاد کانہہ اکھاہہ بیکنہہ نہ مژر تھہ خدایہ سندہ حکمہ ورا ی کِتَابًا مُّوَجَّلًا پریتھہ اکند مرُن پُھو لیکنہہ اُمّت، وقت مقرر کرنہ اُمّت۔ ثلثہ سیت نہ ہیکنہہ سو وقت ہتھہ نیر تھہ۔ ثابت قدم روزه سیت ہیکنہہ بروئٹھہ ہتھہ۔ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا دون ائس اکھاہ عمل کرتھہ دنیاگو ی ثواب تہ مژور یرتھان پُھو ائس چھہ کران اس تمہہ منزہہ کینہہہ عطا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا بیہ ائس اکھاہ آخر تک ثواب تہ مژور یرتھان پُھو ائس تہ چھہ اس تمی منزہہ عطا کران۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ بیہ گزواس جلدی رتھمزور عطا شکر گزارن۔ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ بیہ کئیپاہ پیغمبر یمن سیت سیت جماد آسن کران۔ واریاہ لوکھہ خدایہ سند یور تویندواندرہ کافر ن سیت۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس

لِمَا آصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ
 قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۳۷﴾
 فَاتَّهَمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ
 تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُرَدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا

آسن نہ تم خدایہ سبب بندہ سست سپدان خدایہ سزہ دیتے جسک اندر تکلیف وابتہ سیت وَمَا ضَعُفُوا
 وَمَا اسْتَكَانُوا نہ آس تم ہمت ہاران۔ نہ آس تم دشمن بر وٹھہ کنہ ہتھیار تراوان نہ آن مانان بلکہ
 آس خوب مضبوطی سیت تکلیف پیٹھہ صبر کران۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ چھو صبر و
 استقلال کرہ وٹن سیٹھاہ پسند کران۔ ہونند چھو محبت تھاوان وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ آسن نہ تم
 تکلیف وابتہ وقتہ کینہہ وانان إِلَّا أَنْ قَالُوا مگر آس خدایہ سی منگان رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے
 سانہ پروردگارہ مغفرت کرتے گئین سائین۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا بیہ ہر گاہ سانہ طرفہ کینہہ زیادتی
 نہ گوتای لبہ آیہ سانہ کامہ اندر وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا مضبوط تھاو قدم سانان وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ غلبہ دہ اسہ کافرن پیٹھہ صبر و استقلال کجہ برکتہ بیہ دعاء و التواء کہ برکتہ فَاتَّهَمُ اللَّهُ تَوَابَ
 الدُّنْيَا پس عطاو اللہ تعالیٰ ان تمن دینہک تواب یعنی غلبہ نہ مال غنیمت وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ
 بیہ آخر تک رت تواب نہ تر زمزور وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ آس چھہ سیٹھاہ ناٹھہ امہ
 قسمک نیکو کار بندہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے باایمانو إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تہہ مانو
 کافرن ہنزہ تھہ يُرَدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تم پھر نوہ توبہہ پوت گُفَسُنْ فَتَنْقَلِبُوا خسرین پس ہنو

خَسِرِينَ ﴿۱۳۹﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيرِينَ ﴿۱۴۰﴾
 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا
 بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَ
 بِئْسَ مَثْوٰى الظّٰلِمِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَاكَ
 اِذْ تَحْسَبُوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فِشَلْتُمْ وَتَنٰزَعْتُمْ
 فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ ط

جہہ تاوان زد دنیاو آخرتس اندر۔ یہ سپدہ توبہ پرستہ قسمہ ناکامی۔ کافر بن نہ زانمہ تہ جہند دوست
 بل اللہ مولاکم بلکہ چھو اللہ تعالیٰ جہند مولیٰ تہ آقا۔ مددگار تہ دوست وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيرِينَ
 سوی چھو توبہ سارنی ہندہ خوتہ بہتریاری کرہون سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ جلدی
 تراو آس کافر ہندین دلن منز بہیت تہ رعب بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا
 کیا زہ تمویکیا ہٹھراؤ کنس خدائس تجے چیز شریک تمکن ہندہ قابل شریک آسنہ خیطرہ نہ تم کانہہ دیلاہ
 نازل کر وَمَا لَهُمُ النَّارُ تمن کافرین تہ مشرگن ہنز جای چھہ نار جہنم وَ بِئْسَ مَثْوٰى الظّٰلِمِينَ
 سوچھہ سٹھاہ چھہ جائے تمکن ظالمین تہ مشرگن ہندہ خیطرہ تم خدائس ورا ی بین تہ معبود زانان چھہ
 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَاكَ بتھین پوزور اللہ تعالیٰ ان وعدہ پن توبہ سیت اِذْ تَحْسَبُوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ
 یلہ جہہ تم کتر او ان آسوکھہ ماران آسوکھہ ہندہ حکمہ توتان یوتان جہہ مضبوط آسوہ حَتّٰى اِذَا فِشَلْتُمْ
 اودہ یلہ جہہ پانہ سست سپدیہ وَتَنٰزَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ یہ کورہہ اختلاف نبی کریمہ سدس خمس اندر
 وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ جہندہ حکمک پابند روو نہ جہہ۔ حالانچہ تم (خداین)
 اوس توبہ ہوومت سوو چیزئس توبہ پسند اوس غلبہ تہ فتح۔ وون آس ضرورت یہ کہہنہ کالاصبر کرنج۔
 مگر توبہ کورہہ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا توبہ اندرہ آس بعضی تم دنیا ژھانڈان آس وَمِنْكُمْ

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ
 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۗ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَ
 اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۶﴾ إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا
 تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ ۗ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ ۗ
 فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ
 وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۷﴾

مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ بِہ آس بعضی تم آخرت ژھانڈان آس امی سببہ سپد توبہ منز اختلاف سمہ وجہ
 تہہ نبی کریم ﷺ سدس خمس پیٹھہ رودونہ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ توپتہ پھر نوہ تمہ اللہ تعالیٰ
 ان تم کافر نشتہ تہہ آسوہ غالب توپتہ سپدوہ مغلوب۔ توبہ سزاونہ خیطرہ نہ بلکہ توبہ آزمائش کرنہ
 خیطرہ کہ توبہ اندرہ کہ تہہ منافق کہ تہہ باایمان۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یقین زانو کہ اللہ تعالیٰ ان کور توبہ
 عفو۔ توبہ سپدہ نہ آخرتس اندرتہ امیک کانہہ بازخواست وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ
 تعالیٰ چھو فضلہ وول باایمان ہندہ حقہ۔ تاہنکہ امہ نافرمانی سببہ کرنوہ نہ تہہ ساری ہلاک إِذْ تَصْعَدُونَ
 وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ تہہ پاوونہن حال تہہس جرم چہند کوتاہ سخت اوس یلہ تہہ کوہس کھسان کھسان
 ژلان آسوہ تہہ تہہ کن آسوہ نہ کاسہ کن نظر تہہ دوان وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ حالانچہ یہ
 بوڈ پیغمبر اوس توبہ پتہ پتہ نادناد ووان اکی خدایہ سند یو بندو ژلو مہ وانس پھیر ومہ کن یو چہوس پیغمبر خدا
 مگر توبہ بوزوی نہ کھنہ۔ فَأَتَابَكُمْ لپس واتوودہ توبہ خداین غَمًّا بِغَمٍّ غمس پیٹھہ غم۔ لِكَيْلَا
 تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ یوتھہ تہہ مال غنیمت اتھہ گدھنک تہہ جسمانی
 تکلیف واستنک غم کھنیو۔ کیا زہ بڈہ غمہ سیت چھو لوٹ غم مشٹہ گدھان۔ بڈہ غم گئے صحابہ صیبن ہند
 شہید سپدن سبہ نبی کریم سبہ شہادتچ خبر بوزن۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ اس چھہ
 خبر تمہ سارچی یہ تہہ کران چھوہ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا ۗ توپتہ سوز اللہ تعالیٰ ان توبہ پیٹھہ

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً
 مِنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
 ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ
 الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ
 لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ نَّقَاتْنَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
 لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ

ای مسلمانوں پر غم سے آرام و قرار ٹھاسا پندرہ ٹھاسا یوسف نے آئی تو ہم اندر
 آس جماعتیں۔ یعنی بالیمان۔ تمہاری روئے تم نے غم سے تیس و طائفہ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ بیکھ
 جماعت تمہیں آس پے مڑ پنے پانچ فجر کہ آس تمہ پانچہ موکویتہ یعنی منافقین یظنون بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
 الْجَاهِلِيَّةِ تم آس خدا کے نسبت لہذا خیالات تھاوان جاہلیتک سے حماک خیالات يَقُولُونَ هَلْ لَنَا
 مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ونان آس تم اسہ چھا اختیار کئے چیزک۔ یعنی سون چھا بوزان سم۔ سانب مشورے
 سم پچھن یوت پیٹھ ماوانت ہانوبت۔ نتہ گو معنی تم آس ونان۔ بنیوہ اسہ، حاصل سپدہ اسہ سو چیز سمیوک
 وعدہ اسہ تھاوانہ اوس یوان۔ یعنی فتح سے غلبہ۔ یہ آس منافق ونان۔ مسلمان ڈالنے۔ گمراہ کرنے سے بدظن
 کرنے خیطرہ قُلْ تہہ فرماو کھ یارسول اللہ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ پڑھا سارگوئی اختیار چھو کس خدا کے۔
 یہ سو پڑھتی بنہ یخفون فِي أَنفُسِهِمْ کھفت چھہ تھاوان پانس نشہ تالایبدون لک تمہ تمہ تھہ
 سمہ نہ نر اوان چھہ توہہ نش يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ونان چھہ سم منافق ہر گاہ اسہ تان
 کیمہ اسہ ہا یعنی سانب مشورہ موجدے عمل کرنے آسا آثر یا ہر گاہ سون دین پوز آسا تاقَاتْنَا هُنَا تیلہ
 سمہونہ اس مارنہ چھہ میدان احدس اندر۔ اسے دیوہ جنگ کروند قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ فرماو کھ
 تہہ یارسول اللہ ہر گاہ ہے چھہ آسو گر ن پنے نین اندر تہ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ
 البتہ ضرور نیرہ ہن تم لو کھہ سمین یہ میدان احدس اندر مر ن لیکھنہ اوس آمت۔ پنے نین مچن جائن

اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُخَيِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ
عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّكِبُوا
كَالَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَقَالُوا الْإِخْوَانُ نَحْمٌ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ
أَوْ كَانُوا غُرُبَىٰ ۗ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قَتَلُوا لِيَجْعَلَ

گن و لیبنتلی اللہ بیہ یہ کنیوہا ہ سپد تہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے ہا ما فی صدورکم تہہ یہ تہندین
سینین منزتہ ذلن منزہو یعنی ایمان و لیبختص ما فی قلوبکم بیہ بیٹھ وارہ صاف نر اوہ ہاتہ یہ
تہندین ذلن اندرہو و اللہ علیہم بذات الصدور اگرچہ اللہ تعالیٰ اس پھوپاس پور علم سارنی ہندین
ذلن ہند۔ مگر تہتھن موقن پٹھ پھوسو آزمائش تہ امتحان کران یٹھہ لوکن تہ پتہ لہہ کم چھہ با ایمان تہ کم
چھہ منافق ۱۱۱ الذین تولو امنکم پڑاٹ تم لوکھہ سم توہہ اندر ڈل یوم التقی الجمعن تمہ دودہ تہہ
سمہ دودہ زہ جماژ مسلمان ہنز جماٹہ تہ کافرن ہنز جماٹہ کہہ اس مقابل رود جنگ احدس اندر ۱۱۱
استزلہم الشیطن تم ڈال نہ کانسہ مگر ڈال شیطان ببعض ما کسبو شہنز و بعضی کامیوسیت سمہ
تمو کرہ یعنی کوہ درہ منزہ نیر نہ سیت سو جای خالی تراونہ سیت۔ ولقد عفا اللہ عنہم پڑاٹھ اللہ
تعالیٰ ان کور تمن عفو ۱۱۱ اللہ عفور حلیم پڑاٹھ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہون ٹیڈ کرہون۔
گھگھکارن چھونہ فور ارنان یا ایہا الذین امنوا لا تکوبوا کالذین کفروا ای با ایمانومہ بنو تہہ کافرن
ہی۔ یعنی منافقن ہی۔ تم اگرچہ و نان چھہ پانس مسلمان مگردو حقیقت چھہ تم کافر۔ تہہ مہ کر و تمہہ قسچہ
تہہ سمہ تم کران چھہ و قالوا الاخوانہم تم چھہ پنہ نین باسن ہندہ حقہ و نان اذ اضربوا فی الارض
او کانوا غربری یلہ تم سفرس چھہ نیران مٹنہ شہرس گن یا یلہ جہاد کر نہ چھہ نیران تو پتہ چھہ سفرس
اندر مران یا چھہ جہادس اندر شہید سپدان لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ہر گاہے تم آسہن اسکی
نیشہ پنہ نس شہرس اندر سفرس یا جہادس آسہنی نہ درامت تلبہ مامرہ ہن نہ یکن مارنہ۔ ای با ایمانو تہہ مہ

اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَ
 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۵۶﴾ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۱۵۷﴾
 وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قَتَلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُمْشِرُونَ ﴿۱۵۸﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ
 اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

آسوا مہ تسکچہ تھہ ونان لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم یتھہ اللہ تعالیٰ کرہ سمہ تھہ تہنزہ
 تہندین ولن اندر بوذ حسرت تہ افسوس۔ واللہ یحییٰ ویمیت اللہ تعالیٰ ہی چھو زندہ تھوان تہ ماران۔
 سفر آستن یا حضر۔ جنگ آستن یا امن موت و حیات۔ جوہو تسندی اختیار س اندر واللہ بما تَعْمَلُونَ
 بصیر اللہ تعالیٰ چھو تھہ ساری تہ تہہ کران چھو ہارہ و چھان۔ سو دیہ توہہ تجم و در۔ ولین قتلتم
 فی سبیل اللہ اومتہ بیہ ہر گاہ توہہ خدایہ سزہ و تہ اندر یعنی جہاد کران کران مارنہ بیو یامر و تہ کیاہ
 پروا چھو۔ لمغفرة من اللہ ورحمة خیر مما یجمعون خدایہ سُد مغفرت تہ تہنزہ رحمت چھہ
 تہندہ خیطہ سیٹھاہ بہتر تہ ساری خوتہ تہ سم لوکھہ سونبر اوان یا و تان چھہ ولین ممتہ اوقتلتم لاالی
 اللہ تمشرون بیہ ہر گاہ تہہ ستر ویا مارنہ بیو جہاد س اندر، ضرور چھو توہہ سمن تہ جمع سپدن معبود
 برحق نشہ بیہ نہ کانسہ نشہ۔ فبما رحمة من اللہ لنت لهم پس خدایہ سندی رحمتہ سیت سپدہ توہہ یا
 رسول اللہ تہندہ حقہ نرم تہ حلیم یمن لوکن ہندہ خیطہ سمو تہنزہ مخالفت کر۔ توہہ اوس حق تمن سختی
 سیت باز خواست کر نک ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اگر تہہ آسہو خدا نخواستہ
 تہکھل۔ ولہ در۔ تہند خو ضرور تہلہ من تم تیلہ توہہ نشہ۔ محروم سپدن تم تہند یو فیض و برکات و نشہ۔
 فاعف عنهم واستغفر لهم پس کرو تہہ تہ تمن معاف بیہ مگو تہندہ خیطہ خدایس مغفرت
 وشاورهم فی الامر بیہ آسو تمن سیت تہین معاملکن بیٹھہ مشورہ کران۔ تمہ سیت سپدن تہند

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۱﴾
 إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي
 يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۵۲﴾ وَمَا
 كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلُطَ وَمَنْ يُغْلُطْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۵۳﴾ أَفَمِنْ أَتْبَعَهُ
 رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا أُبِهُ جَهَنَّمَ

حوصلہ بلند فاذا اعزمت پس یلہ ہتھ کئے معاملہ اندر مشورہ کرتے رہیے پیٹھ پوختہ ارادہ آسو کر ان
 فتوکل علی اللہ پس آسو پورہ اعتماد کر ان خدا ئس پیٹھ تو پتہ سو کام کر ان إنا اللہ یحب المتوکلین
 پز پاتھ اللہ تعالیٰ اس جھہ ٹاٹھ کس پیٹھ اعتماد کر وہ دن بندہ إنا ینصركم اللہ اگر اللہ تعالیٰ توہم مدد
 تیاری کرہ فلا غالب لکم تیلہ بیجہ نہ کانسہ اکھاہ توہم پیٹھ غالب سپد تھ وان یخذلکم ہر گاہ سوہ
 توہم مدد کرہ نہ فمن ذالذی ینصركم من بعدہ پس گوہ اکھاہ پچھو ئس توہم کس پتہ یاری ہیجہ کر تھ
 وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون پس خدایہ کئی پیٹھ بیہ نہ کانسہ کس پیٹھ کرن اعتماد با ایمان جنگ بدر
 کہ مال غنیمت اندرہ یلہ زاوا کہہ سزخ ژادارہ۔ لو کو دوپ یہ ژاڈر آسہ تھومژ تلٹھ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم پتہ خاص استعمالہ خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان سوزیہ آیہ کریمہ۔ وما کان لنبی ان یغلط پچھو نہ
 ہر گز سزوار کانسہ پیغمبر س سوزیا کرہ خیانت مال غنیمتس اندر ومن یغلط یأت بہاغل یوم القیامۃ کس
 اکھاہ مال غنیمتس اندر خیانت کر تھ کانسہ چیز تھاوہ تلٹھ خاص پتہ خیطرہ۔ سو بیہ قیامتک دوہ سو چیز پتہ
 پیش کرنہ ثم توفی کل نفس ما کسبت تو پتہ پیہ پریتھ کس پورہ بدلہ دنہ تمیوک یہ تم کورمت آسہ
 وهم لا یظلمون تم نیہ نہ کئے قسمہ ظلم کرنہ أفمن اتبع رضوان اللہ آیئس اکھاہ بیروی کرہ خدایہ
 سزہ رضامندی۔ مال غنیمتس اندر کرہ نہ کئے قسمہ خیانت۔ یعنی تی کرہ پتھ خداراضی آسہ کمن بآء
 یسخط من اللہ سو چھا برابر کس شخصس ہیوہ ئس واپس گزھہ خدایہ سزہ پزاری ہیٹھ۔ نافرمانی نہ

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۲﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرِهِمْ
يَعْلَمُونَ ﴿۱۲۳﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۲۴﴾ أَوَلَمْ
أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ

خیانت کرنے سبب۔ ہرگز چھنہ ہم زہ برابر بلکہ چھو فرمانبردار سے امتداریں خداریں۔ نافرمانی سے خیانت
کرہوں بس پٹھہ چھو خدایزر۔ وَمَا لَهُ جَهَنَّمُ بِيَهُ تَسْزِي جَائے نار جہنم و بِيَسِّ الْمَصِيرُ كَاژاہ
پٹھہ جای چھہ سوار جہنم هُوَ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ تم لوکھہ چھہ مختلف درجائن پٹھہ امانت داری چھو
تھو دور جہ پنہ بس خدائس نشہ جنتن اندر۔ خیانت کرہوں چھہ جنسی وَاللَّهُ بِصِيرِهِمْ يَعْلَمُونَ بِيَهُ
چھو اللہ تعالیٰ تہزہ سارے کامہ پانہ و چھان۔ کہہ چھو امانتداری کہہ چھو خیانت کرہوں۔ بس مال عام
مسلمان ہند آسہ یاکنہ انھمک یاکنہ مدرسک آسہ تھہ منز خیانت کرہوں سے چھو یو ہے سزائس مال غنیمتس
خیانت کرہوں سیدہ خیطرہ اوبیان کرہہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ پڑپاٹھ اللہ تعالیٰ اَن تھو اَبْدُمَت
بِالْإِيمَانِ يَظْهَرُ۔ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کیا زہ سوزن تمن منز پیغمبر اہ جلیل القدرتہ عظیم
الشان تموی منزہ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ بس پیغمبر تمن خدایہ سید آیات پران چھو۔ وَيُزَكِّيهِمْ بِيَهُ بس
پیغمبر تمن جاہلانہ خیالو نشہ پاک کران چھو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بِيَهُ چھو کھہ پٹھہ اوان قرآن مجید
وَالْحِكْمَةَ بِيَهُ عَقْلہ ہنزہ تھہ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ پڑپاٹھ آس تم تہزہ تشریف آنہ
بروٹھ نہ گراہی اندر أَوَلَمْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ کیاہ یلہ ووت توبہر جنگ اُحُدس منز اکھہ تکلیفانہ
مُصِيبَتَاہ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا حالانکہ توبہر واتنووہ تمن دشمن تمہہ دوگنہ جنگ بدرس منز۔ سٹھہ کروکھہ
قتل۔ سٹھہ کروکھہ قید تموی منزہ قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا دینہ لگوہ تہہ تجبہ کن یہ مصیبت کیا زہ سناوٹ آسہ یعنی
تھہ پاٹھہ ووت آسہ آسہ گوڑھ نہ واٹن آسہ مسلمان آس۔ آسہ سیتے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اوس۔

هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾
 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِينَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْادُ فَعَوَا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمْ ۗ
 هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۖ تمہہ فرماؤ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت و موت تو بہہ پنہنی
 طرفہ۔ کیا زہ تمہہ نے مخالفت کر ہو میانس کھمس یہ حالت سپدہ ہانہ تو بہہ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ وول۔ یاری کرنس پیٹھہ تہ۔ چنانچہ کرنوہ تو بہہ نئن یاری
 بدرس منز۔ یاری نہ کرنس پیٹھہ تہ یلہ تو بہہ پانہ غلطی کرنوہ کوہ ذرہ خالی تراونہ سیت جنگ احدس منز۔
 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِينَ ۖ بیہ لیس تکلیفہ تہ مصیبتہ ووت تو بہہ تمہہ دوہہہ سمہہ دوہہہ
 جماژاکھہ اکس سیت مجہ جنگ احدس اندر فَبِإِذْنِ اللَّهِ پس ووت سو مصیبت تو بہہ حکم خدا ہیٹھہ
 منز واریاہ جمہہ آسہ۔ تمہو جمہہ اندرہ گیہ اکھہ جمتہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ بیہ ہیٹھہ معلوم سپدہ بابا ایمان
 کم چھہ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ بیہ ہیٹھہ معلوم سپدہ ہا منافق کم چھہ کیا زہ مصیبتہ وقتہ چھو ننان۔
 مخلص کم چھہ غیر مخلص کم چھہ۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا ۗ ونہہ آیو حمن منافقن یلہ تم ٹرل میدان جنگ تراوتھہ تم
 گے عبد اللہ بن اُبے بیہ تہنز جماعت تم ترہ ہتھہ (۳۰۰) لوک آس تَعَالَوْا آیو واپس قَاتِلُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ جماد کمر و خدلیہ سزہ و تہ اندر۔ أَوْادُ فَعَوَا ۗ تہ لے توتہ کرنوہ کویکھہ دشمن پانس نشہہ دَعِ قَالُوا لَوْ
 نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمْ ۗ فہنہ لگ تم ہر گاہ اس زانہ ہو جنگ کرن تلہ روز ہو تو ہی سیت هُمْ لِلْكَفْرِ
 يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ تم منافق آس تمہہ دوہہہ نیز نزدیک کفرس ایمانہ خوتہ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ
 تَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ ونان چھہ تم تی پنہ نیو چانیو سیت یہ نہ تہمدین وکن منز چھو یعنی دل چھو کھ اکھہ تہ
 زبو ہتھکھہ بیاکھہ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَتُمُونَ ۗ اللہ تعالیٰ چھوتہ پور زانان تہ سو ری یہ تم کھٹھہ تھوان چھہ

تَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿۱۷۸﴾ الَّذِينَ قَالُوا
 إِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا قُلَّ فَاذْرُوْا عَنْ
 أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷۹﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۸۰﴾
 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ
 يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۸۱﴾

الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانِهِمْ سَم گئے تھے۔ تمہو دوپ پنے نین ہم نسب باہن ہندہ حقہ سم جنگ احدس
 منز شہید سپد وَقَعَدُوا حالانکہ پانہ رُوِد بہتھہ گرن اندر لَوَاطِعُونَا مَا قَتَلُوا ہر گاہ تم سون مانہ بن
 مارہ گوشہ بن نہ۔ اسمہ دیوک مہ نیر و جنگس۔ گرہ بہتھہ کیاہ ہتھہ سمن تھہ پھوران قُلَّ فرماؤ یوکھ تھہ یا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاذْرُوْا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تلا دور بیتور کر تھہ تھہ
 پنے نیوپا نوٹھہ مرن۔ ہر گاہ تھہ پوزونہ ون چھوہہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ مہ کر تھہ ہر گز
 گمانہ اے بوزونہ تمن لوکن متعلق سم شہید سپد خدلیہ سزہ وتہ اندر أَمْوَاتًا تم کیاہ چھہ مُردہ
 بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہہ چھہہ تم زندے پنے نس پروردگار س نش۔ تمن چھو تھہ عالمک
 رِزق تہ یوان عطا کرنہ نس تھہہ عالمس منز شوبہ۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ خوش چھہہ تم تمبو
 مہر بانوسیت سمہ تمن عطا کرہ مژہ چھہ اللہ تعالیٰ ان پنے فضلہ سیت وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ بیہ چھہ
 تم خوش تہ مُسرور سپدان تمن لوگن ہندہ رتہ حالہ سیت لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ بیہ ونہ تمن نغہ
 وات۔ یہ بوزنہ سیت کہہ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تمن کیا چھونہ کانہہ خوفانہ کانہہ غماہ۔ تم
 چھہ امن و مانس اندر زندگی بسر کران يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ وَاللَّهُ وَفَضِيلٌ خوش چھہ گوشان
 پروردگار سبہہ نعمتہ سیت تہ تھندہ فضلہ سیت وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بیہ سمہ تھہہ سیت کہہ اللہ
 تعالیٰ چھونہ ضایع کران با ایمان ہنزن عملن ہنز مزور۔ جنگ احدہ پتہ یلہ کافر واپس گوشان آس تم

يُسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤١﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا
 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالْقَوَّاءِ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٤٢﴾
 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
 فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۗ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٤٣﴾

لگ پانہ وان دہنہ کہ اسہ کر بد غلطی۔ سون گوژھہ مسلمان پیٹھہ پورہ حملہ کرن۔ کیا زہ اس سہزای تمن
 پیٹھہ غالب۔ لہذا چھو بہتر اس گڑھویہ پیٹھہ بہہ واپس۔ بہہ کرو تمن سیت جنگ توپتہ کروکھہ تم اکی ساتہ
 ختم۔ مگر اللہ تعالیٰ ان ترود تہندین ولن اندر رعب۔ تمو ہیوک نہ امہ جلیہ پیٹھہ بہہ واپس گڑھتھہ۔ انج
 خبر و اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذر ییہ وحی۔ تمو سوز صحابہ صین ہنز اکھہ لشکرہ تمن کافرن
 تعاقب تہ لار کرنہ خیطرہ۔ آتھہ اندر سمکھہ تمن کافرن اکھہ قافلہ نئس تجارتہ خیطرہ مدینہ شریفس کن
 گڑھان اوس۔ تمن دو چھہ ٹہہ و نرہ مسلمان کہ منک لوکھہ چھہ توہہ سیت بہہ جنگ کرنج تیری کران۔
 مسلمانو یلیہ بہ خبر یوز تمو دوپ کانہہ پروا چھونہ۔ اسہ چھو نئس اللہ تعالیٰ۔ آئینہ آیات کر یمن منز چھو
 اللہ تعالیٰ امی واقعہ تذکرہ کران۔ اکثر مفسر چھہ فرماوان کہ یہ چھو غزوہ حراء الاسدک واقعہ۔ یہ چھو
 اکہ جایہ ہندناؤیسہ مدینہ شریفہ پیٹھہ آتھہ میل دور چھہ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ تم بالیمان
 تمو حکم مون خدایہ سند بہہ پیغمبر خدایہ سند یعنی درای کافرن تعاقب تہ لار کرنہ خیطرہ مِنْ بَعْدِ مَا
 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ جنگ اُحدس منز تکلیف تہ زخم واتنہ پتہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالْقَوَّاءِ أَجْرٌ عَظِيمٌ تہندہ
 خیطرہ۔ تمو نیکی کر حکم مانہ سیت۔ بہہ روو پتھہ نافرمانی نشہ چھہ بڈمزور سوگو جنت۔ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ
 النَّاسُ یمن بعضی لوکوونیوو إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ پزپاٹ دشمن چھہ سپدان جمع یا چھہ تم سامان
 حرب جمع کران توہہ سیت بہہ جنگ کرنہ خیطرہ فَاخْشَوْهُمْ پس کھو ژو تمن۔ تمن سیت مقابلہ کرنہ نشہ
 روزو پتھہ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا یہ بوزنہ سیت ہر یوو تہندہ ایما لگ جوش وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ وَّاتَّبَعُوا
 رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۱۴۲﴾ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ
 يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنَ اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۳﴾
 وَلَا يَخْزِيْكَ الَّذِيْنَ يَسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوْا اللّٰهَ شَيْئًا

الْوَكِيْلُ بِيہ دُپک کانہہ پروا چھو نہ اسیہ۔ بس چھو اسیہ اللہ تعالیٰ بیہ چھو سوی رت وکیل۔ اس چھہ پینہ
 سارے کامہ تس پُشر او ان۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھہ فرماوان بیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل
 چھو سو کلمہ بس حضرت ابراہیم پد۔ نارس منز تراویحہ وقتہ اللہ تعالیٰ اَن کو رکھہ کفایت۔ بس کلمہ پد
 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہند یو صحابہ صیو جنگ اُحدس منز اللہ تعالیٰ اَن کو رتمن تہ
 کفایت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان فَاَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ پس گے نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہند صحابہ صیب خدایہ سز بد نعمت تہ بوڈ فضل ہتھہ۔ ووت نہ تمن کانہہ
 تکلیفہ تہ کانہہ سختیہ۔ **وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ** پتہ پتہ پک تم خدایہ سزہ رضامندی **وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ
 عَظِيمٍ** اللہ تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول۔ جنگ اُحدہ پتہ یلہ کافر ژل ابو سفیان لگ دپنہ وون چھو توہہ تہ
 اسیہ بیاکھہ مقابلہ بدر صغریٰ کس موقعس پتھہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وندہ ناوس ادہ کیاہ
 منظور چھو اسیہ۔ سو دودہ یلہ سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درای صحابہ صیب ہتھہ تھہ جلیہ۔ مگر ابو سفیانس
 درے بیہ نہ کوٹھہ۔ اگرچہ تمواوس اکھہ شخصہہ سو زمت بس مسلمان ہندین دن اندر خوف و
 ہیبت تراوان اوس۔ مگر تہندین دن اندر سپد نہ تمبوک کانہہ اثر بلکہ سپد تہوند ایمان تمہہ سیت بیہ ہن
 زیادہ مضبوط۔ تم سپد لڑایہ خیطہ ہا نکل تیار تمہہ جی تعریف چھو اللہ تعالیٰ فرماوان۔ بیہ چھو کھہ اللہ تعالیٰ
 حوصلہ بڑاوان۔ فرماوان چھو کھہ **اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ** بیہ خبر دند وول چھو نہ مگر شیطان بس
 کھوڑہ ناوان چھو توہہ پنے نین ہم مذہب دوستن ہندہ سیت یعنی کافر ہندہ سیت ای میانو دوستو
 باایمانو **فَلَا تَخَافُوهُمْ** تہہ مہ کھوڑو تمن کنہہ وقتہ **وَخَافُوْنَ** تہند گڑھہ کھوڑن مے یوت **اِن كُنْتُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ** چھوے تہہ باایمان تہ پڑھہ وال **وَلَا يَخْزِيْكَ الَّذِيْنَ يَسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ** توہہ مہ ہز کرن غمگین

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۴۶﴾
 إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۷﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُسَبِّحُ لَهُمْ خَيْرٌ
 لِّأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُسَبِّحُ لَهُمْ لِيَزِدَّادُؤْلَامِنَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۴۸﴾
 مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ

تم لوکھ تم کفر س کن جلدی چھہ کران یعنی منافق۔ یان تم وچھان چھہ مسلمان ہند پو تر لوت گوشان۔
 آتی چھہ تم کفر س کن واپس پھیران تہ کفر چہ کتھہ ونہہ ہوان **لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا** پزپاٹ تم ہیکن نہ
 ہرگز کانہہ نقصان و اتنا و تھہ اکس ذرس برابر تہ خدا ہیس یعنی خدا یہ سیدس دینس۔ بلکہ چھہ و اتنا و ان
 نقصان پنہ نسی پانس **يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ** اللہ تعالیٰ چھو یڑھان تمن دیہ نہ آخر تس
 اندر کانہہ حصہہ یعنی تمن کرہ آخر تکہ کیونعتوتہ مہر بانو نشہ محروم **وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** بیہ چھو تہندہ
 خیطرہ بوڈ عذاب نار جہنم س اندر **إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ** پزپاٹھہ سو مثل ہیوت کفر ایمانس
 یعنی ایمانہ بدل کوزکھہ اختیار کفر **لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا** تم تہ ہیکن نہ ہرگز کانہہ نقصان و اتنا و تھہ خدا یہ
 سیدس دینس تہہ قسمہ **وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** تہہ مہ کھبو تمن ہند کانہہ غم کیا زہ تہندی خیطرہ چھو ڈگ
 تہہ ون عذاب **وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُسَبِّحُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ** بیہ مہ کران گمان کافر اس
 یوسہ مہلت دوان چھہ تمن سو کیاہ چھہ رثہ جان تہندہ خیطرہ **إِنَّمَا نُسَبِّحُ لَهُمْ لِيَزِدَّادُؤْلَامِنَا** اس چھہ
 تمن مہلت دوان مگر تہہ تم گنہن منز زیادتی کرن۔ یعنی تہہ تہندین گنہن ہنز ناؤ بر نہ ایہ۔ پتو لاکہ
 بیکھہ بچہ و نہ سزا ونہ۔ دنیا س منزے تمن عذاب بیہ کرنہ **وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ** بہر حال چھو تہندی
 خیطرہ آخر تس منز کڈ ر عذاب **مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ** اللہ تعالیٰ چھو نہ
 یڑھان سو کیاہ تراوہ توہہہ با ایمان تہہہ حاس پٹھہ تہہہ حاس پٹھہ تہہہ و بکنیس چھوہ یعنی امتیازہ و رای بلکہ
 چھو سو یڑھان با ایمان تہہہ ایمان منز فرق کرن۔ تہہہ کن نظر کر تہہہ چھو سو سختی تہہہ تکلیف نازل

الْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِؕ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۶۹﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اتَّهَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَٰخَلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِؕ

کران حتی یبیز الخبیث من الطیب یتھم اللہ تعالیٰ ناپاکن پاکونشہ یعنی کافرن تہ منافقن باایمانونشہ الگ کرہ۔ تہ چھو ننان آزمایشویت باایمان چھ آزمایش پٹھہ صبر کران۔ منافق چھنہ تاب کران۔ تم چھہ ایمانہ نشہ دست بردار سپدان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ بیہ چھونہ اللہ تعالیٰ سندان سونو کیاہ کرہ توہم خبر پوشیدہ معاملن ہنز یعنی توہم کیاہ باوہ سو۔ کبہ چھو باایمان تہ کبہ چھو منافق۔ نہ تہ ہنز نہ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ بلکہ چھو سو برگزیدہ کران۔ پنے نیو پیغمبرواندرہ یس یڑھان چھو تس چھو پوشیدہ حالات بادان فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِؕ پس کمر و پڑھہ کنس خدائس بیہ تھندین سارنی پیغمبرن وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ہر گاہ تہہ کفر و شرک تراوتھہ ایمان انو، کفر و نافرمانی نشہ تھہ روزوتلہ چھہ تھندہ خیطرہ بدمزور آخر تس اندر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اتَّهَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بیہ مہ کمرن گمان تم لوکھہ تم بخل چھہ کران سوماں خرچ کرنس اندرئس تمن اللہ تعالیٰ نے عطا کرنہ فضلہ سیت۔ سو بخل کرن کیاہ چھو تھندہ خیطرہ جان۔ ہرگز نہ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ بلکہ چھو سو بخل کرن تھندہ خیطرہ سیٹھاہ تھہ کیاہہ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَٰخَلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جلدی بیہ نال تراونہ تمن سوماں سون تہ روپھہ) تجز کلاۃ تہ صدقہ دلس اندر تم بخل کران آس قیامتک دوہ۔ تھہ ماس بیہ سرفاہ تہ اژدھا بناوت خیلہ سزہ گردنہ منز نال تراونہ۔ ئس تس ٹوپہ آسہ دوان تہ ژپ آسہ ہیوان پرازہ آسہ ژٹان۔ سوی اژدھا آسیس وپان انا مالک انا کنزک بو چھوسے نہ دوہر ٹوپ چھوس مال بچون۔ بو چھوس خزانہ چون سمہ پٹھہ نہ تہ خدایہ سند حقوق اوسکھ ادا کران۔

وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝^(۱۸۰)
 لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ
 أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ
 وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝^(۱۸۱) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ
 أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝^(۱۸۲) الَّذِينَ قَالُوا
 إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ الْبَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا

مُخْلِ كَرُونَ چھو سیٹھا پچھہ کیا زہ ساری ینہ مرن سوڑی ولتہ خدایہ سی نش و اللہ میراث السموات
 وَالْأَرْضِ خدایہ سندی سپدہ خود بخود سوڑی۔ حقیقتہ پانچہ آسمان وزمین ہند مالک اوس تہ سوی تہ سپدہ
 تہ سوی۔ لہذا بے سندس ماس اندر مخل کرون کا ظاہ حماقت چھہ۔ یہ شخص نے مخل کرہ ہا خدایہ سند مال
 خدایہ سنزہ و تہ اندر خرچ کرنے سیت زینہ ہا منزیہ اکھ بوڈ فاندہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یہ چھو اللہ
 تعالیٰ تہ سوڑی زانان یہ تہہ کران چھوہ۔ لہذا یہ خرچ کران آسوتہ آسوتہ مخلص دل خرچ کران۔ محض
 خدایہ سندہ رضا خیرہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ تھین اللہ تعالیٰ ان بوزہ پانہ
 تمن لوگن ہنزہ تھہ سم وان آس اللہ تعالیٰ چھو (نعوذ باللہ) محتاج۔ تمی چھو لوکن قرض منگان وَنَحْنُ
 أَغْنِيَاءُ اُس چھہ مالدار۔ بوزنس پیٹھے پچھہ اکتفا کران سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا بلکہ چھہ اس لیکھتھہ
 تھاوان تہنزہ۔ سمہ سارے تھہ تہندین نامہ اعمالن منز وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ یہ چھہ اس لیکھان
 تہنزہ کامہ تہ کر توت۔ ایم گنیہ ناولاد تمن لوکن ہند سمو پنچمبر چھہ ناقح مارمت یمیلہ چھہ خمس منز تراونہ
 يَنْ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اس ولوکھ ژہو مزہ دزبچہ عذابک۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ
 أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ یہ عذاب چھو تمنی کا مین ہندہ بدلہ سمہ کامہ پنہ نیوا تھو کرہ
 مزہ چھوہ۔ اللہ تعالیٰ کتہ چھو بدن نسبت ظلم کرہ و نکتہ طریقہ جزمہ و رای کیاہ دیہک سزا الَّذِينَ قَالُوا
 إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ الْبَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ سم بہود گے تمے لوک سمو اپز نور او ت ذوب کہ اللہ تعالیٰ ان

بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ
 وَبِالذِّمَى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۸۲﴾
 فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوكَ
 بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۱۸۳﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
 الْمَوْتِ وَإِن تَتُوقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن
 زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا

پھو اسے بروٹھین پیغمبران ہندہ ذریعہ حکم فرمودت کہ اس کروندہ پڑھہ کانہہ پیغمبرس توشتان
 حاشی یاتینتا بقربان تاكله النار یوتان نہ سواسہ ہاودہ خاص معجزہ سو گو خدا یہ سیدہ خیرہ الیہ نذرو
 نیاز کرنہ۔ تھہ قربانس یعنی نذرو نیازس گوہہ آسائجہ طرفہ ناراہ و سوسوی کھیہ تھہ نذرس یعنی زاکیس
 قُل فرماو یاکھ تہہ یارسول اللہ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ ہز پانہ آے توبہ کن واریاہ
 پیغمبر مہ بروٹھہ نہہ دلیلہ ہتھہ۔ وَبِالذِّمَى قُلْتُمْ بِیہ سو معجزہ ہتھہ تہہ سیک تہہ مطالبہ کران چھوہ قَلِمَ
 قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ادہ کیا زہ مارو کھہ توبہ تم پیغمبر اگر تہہ پوزونان چھوہ۔ فَإِنْ كَذَّبُوكَ
 فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ پس ہر گاہ توبہ تم لو کھہ تکذیب کران کانہہ پروامہ بروٹھہ یارسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشک توبہ بروٹھہ کیناہ پیغمبر آے تمن تہہ آو تکذیب کرنہ۔ یہ نو کتھہ کانہہ
 چھنہ۔ جَاءُوكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ تم تہہ آس نہہ دلیلہ ہدایت نامہ تہہ روشن کتابہ ہتھہ
 آمت۔ ای لو کو توبہ مہ روز نو خیال دنیا سی منز ما چھوروزن نہ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ پر تھہ
 شخصہہ چھومرہ نک مزہ تہہ ون یعنی پر تھہ اکس چھومرُن۔ سمہ دنیاہ اندرہ نیران وَإِن تَتُوقُونَ
 أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ توبہ سارنی پیہ پورہ پورہ بدلہ دنہ تہہ مزور دنہ پنہ نین پنہ نین کالین ہنز۔ نین
 رتھوزور نا فرمان سخت سزا۔ مگر قیامت دوہ۔ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
 جس کس تہہ دور پیہ تھاونہ نارہ نشہ واتاونہ پیہ جنتس منز۔ ہز پانہ سوی سپد کامیاب تہہ رستگار۔ تہہ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْاِمْتِاعُ الْغُرُورِ ﴿۱۸۵﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِي
 اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
 الْكِتٰبِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰى كَثِيْرًا
 وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۸۶﴾
 وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتَبَيِّنُنَّهُ
 لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ فَبَدُوْهُ وَاَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَ

مرد سپید حاصل۔ بتھے پانچ لیس جنہ لیسہ دور آوتھاونہ۔ چہنمں منز آوتراونہ سو سپد سخت ناکام تہ نامراد
 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْاِمْتِاعُ الْغُرُورِ بے چھنہ یہ دنیا بچ زندگی مگر ڈھو کھک آکھ سوداہ سمیک
 ظاہری رونق وچھتھ خریدار تہلان چھو۔ تو پیتہ چھو سو چیز مثل ہیوان۔ کیمہنہ دوہ گوبھتھ چھو تھہ سو مایہ
 ووتھان۔ تلہ کنہ چھونہ سو کنہی آسان۔ چھنہ مثال چھہ دنیا چہ زندگی ہنز۔ امہ زندگی ہند عارضی رونق
 وچھتھ گوبھہ نہ آخرتہ لیسہ غافل سپدن لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ضرور ابو چہہ
 آزماونہ ای مسلمان مالی نقصانہ سیت تہ جانی نقصانہ سیت وَلَتَسْعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبِ مِنْ
 قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰى كَثِيْرًا بے یوزو چہہ ضرور آیندہ تمن لو کن لیسہ تمن توہہ بروٹھہ
 کتابہ آیہ دنہ یعنی یہود و نصاری ان لیسہ بے مشرگن لیسہ دل آزاری ہنزہ واریاہ کتھہ تمہو سیت تو ہی سیٹھاہ
 تکلیف ولتہ مگر وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ہر گاہ تہ تھہ پٹھہ صبر کرو
 خلاف شرع کامیو لیسہ چھہ رُوزو تھہہہ خیطرہ چھوتی بہتر۔ کیا زہ یہ صبر تہ تقوی چھو تمہو کامیواندرہ
 تمن ہند سیٹھاہ تاکید چھو وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ تہ تیس پاوولہ عمد کرنا و
 اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب یعنی تمن کوزن حکم تو پیتہ کور تمہو تسلیم لَتَبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ضرور نراوہ سمہ
 کتابہ ہند ساری مضمون واضح طور و اتاوزہ تم لو کن وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ ہر گز تھاروزہ نہ امہ کتابہ ہند کانہہ
 مضمونہ کتھہہ فَبَدُوْهُ وَاَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ پس تروو تمہو یہ عمد پس پشت اچھہ پٹھہ کر کھہ نہ کانہہ عمل

اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۱۸۷﴾ لَا تَحْسَبَنَّ
 الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاوَاهُمْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ
 يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸۸﴾ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۸۹﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۱۹۰﴾

وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یہ لکھ یہ کتاب کم موکس بیچ نہ کہے یہ حقیقت چھہ فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ
 پس سیٹھاہ چھہ چھو تہ یہ سوا تھہ زبون کیا زہ امیک سزا چھو نار جنم لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا
 آتَاوَاهُمْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا تہہ مہ ہز کر و خیال کہ تم لوکھہ ہم خوش سپان چھہ پنہ نین
 چھہ کائین پٹھہ یہ چھہ پسند کران لوکھہ گڑھہ تہزن کا مین ہنز تعریف کران سمہ نہ تمو کرہ مشرے چھہ
 ہر ہرہ۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ پس ہرگز مہ کر و تہہ گمان دنیا اس اندر تہندہ خاص
 عذابہ نشہ بیچ کیاہ چھہ کانہہ صور تھاہ بلکہ دنیا اس اندر تہہ یہ تم عذاب کرنہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 یہ چھو تہندی خیطرہ ہڈر عذاب آخرت اس اندر وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ چھہ اللہ تعالیٰ
 سزے سلطنت آسمان تہ زمین ہنز چونکہ سوی چھو پادشاہ حقیقی لہذا چھو لازمی تہ ضروری تہندہ حکم
 گڑھہ مان۔ تہنز نا فرمانی کرن چھو سخت جرم وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ چھو اللہ تعالیٰ پر تہہ
 چیزس پٹھہ قدر تہ وول تمس چھہ نا فرمان سزا دس پٹھہ تہ پور قدرت إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ پڑا تھہ آسمان تہ زمین ہندس پیدہ کر اس اندر وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یہ
 دیکھس تہ را حکس پس گڑھہ ہنس اندر چھہ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ضرور واریاہ دلیلہ تہ نشانہ خدایہ
 سندس سوی آسس پٹھہ عقلہ والین ہندہ خیطرہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُوبِهِمْ
 تم عقلہ وال تہ کاٹل لوک گئے تہ تم یاد چھہ کران معبود برحقہ سند پر تہہ حاس اندر۔ وودنہ روز تہہ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۱۹۲﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

تہ۔ بگتھہ تہ لرتراوتھہ تہ ویتفکرون فی خلق السموات والأرض بیہ تم فکر تہ تامل چھہ کران
آسمان وزمینہ کس پیدہ کرنس اندر۔ درذکر و فکر مشغول روت چھہ۔ دنان تم۔ ربنا ما خلقت هذا
باطلا اے سانہ پروردگارہ تہہ کر تھکنہ تم مخلوقات پیدہ بے معنی تہ بیکار۔ بلکہ چھہ تم ساری
چیز چاہہ قدرت کاملہ چہ دلیلہ۔ تہہ چیز چھہ دلالت کران چانس وجودس تہ وحدانتیس سُبْحَانَكَ
منزہ تہ پاک چھو کہ تہ کانہہ کام بے ہودہ کرنہ نشہ۔ اس چھہ اتھہ بدل و جان اقرار کران قِنَا
عَذَابِ النَّارِ ہس بچاوا اسہ مؤحد آسہہ وجہہ نارہ کہ عذابہ نشہ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ
أَخْرَيْتَهُ اے سانہ پروردگارہ اس چھی تہ نارہ نشہ سہہ مؤکھہ نجات منگان سہ تہ ہس اکھاہ و اتاواہ ہن
نارس ہس بیشک سوکور تھن تہہہ سخت رسوا تہ خوار تمہ عذابہ سیت وَاللَّظْلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
چھونہ ہرگز تھن ظالم تہ نشہ کانہہ مددگارہ ہس چاہہ امہ عذابہ نشہ بچاواہ ہچھہ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا
مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اے سانہ پروردگارہ ہتھہ پاٹھہ اسہ چانیو مخلوقا تو سیت چانس
وجودس تہ وحدانتیس پٹھہ استدلال کورتھہ پاٹھہ ہوز اسہ بواسطہ یا بلاواسطہ آلودہ و ناہ آلودہ ان ایمانس
گن اعلان عام کران کہ اے لوکو أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ انو اسمان پنہ نس پروردگارہ سندس ذاتس تہ
تہمدین صفاتن فَا مَنَّا ہس اُون اسہ ایمان امہ نقلی دلیلہ سیت تہ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے
سانہ پروردگارہ۔ وون کرتہ مغفرت اسہ سائین بڈین گنہن وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا بیہ کر معاف اسہ

ذُنُوبَنَا وَكَفَرُوا عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿۱۴۳﴾
 رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نَحْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادَ ﴿۱۴۴﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ
 عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
 وَقَتَلُوا أَوْ قُتِلُوا أَلْكَفَرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلُهُمْ
 جَدَّتِ بَحْرِيٌّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ط

سان لوکت گناہ تہ و تَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ بیہ مارا سہ نیکو کارن سیت شامل تھوتھہ۔ یعنی سون اندر
 بر ایمان رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ اے سانہ پروردگارہ عطا کر اسہ تمہ سارے مہربانی یمن
 ہند وعدہ کور تھہ ژ یہ پنہ نین بیٹھرن ہندہ ذریعہ۔ وَلَا نَحْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رسوا نہ گراسہ قیامتگ دوہ
 نارس منزواتا ونہ سیت۔ اسہ واتا وابتداء جنتس۔ ژتہ چھوتھہ امیک وعدہ کورمت إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
 الْبِعَادَ پڑپاٹھہ ژہ ہرگز وعدس بدل کر کھنہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ
 مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ کس اجابت کور تمہ تہند پروردگارن تہندس منگنس۔ فر موو بھہ یو چہوس نہ ضایع
 کران تہ راوہ راوان کانسہ عمل کرہ ون سز عمل تو بہ اندرہ۔ ادہ سومرد آستن یازنانہ بَعْضُكُمْ مِّنْ
 بَعْضٍ تہہ چھوہ پانہ وان اڈاؤین ہند جزو یعنی ثواب حاصل کرنس اندر چھوہ تہہ ساری برابر فالَّذِينَ
 هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا أَوْ قُتِلُوا پس سمو لوکو بھرت کرسم پنہ نیو
 شہر و اندرہ کڈنہ آئے۔ تم میاہ وتہ اندر ایذا تہ تکلیف ونہ آو سمو مقابلہ کور کارن سیت تم مارنہ تہ
 شہید کرنہ آئے لُكْفَرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ البتہ ضرور کرہ بہ تمہ بخشایش تہندین تمہ گنہن یمن
 میانین حقوقن سیت تعلق چھوہ وَلَا أُدْخِلُهُمْ جَدَّتِ بَحْرِيٌّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بیہ واتا و کھہ یو تم تمہ

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾ لَا يَغْرَتُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ
كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَ
بِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۱۹۷﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَمَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْآبِرَارِ ﴿۱۹۸﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ

جنت اندر سمومنز جو یہ پکان آسن کوا بامین عنید اللہ یہ چھ تمن خدایہ سندہ طرفہ تهنزن رثن عملن ہنز مزور و اللہ عنیدہ حسن الثواب اللہ تعالیٰ سی لغہ چھو رثن عملن ہند رت ثواب لَا یغرتک تقلب الذین کفروا فی البلاد اے پوزر ہانڈونہ تھہ نہ حض یہ دھوکہ دہی کافر ن ہند اور ہور کزن شر ن اندر دنیا ک تمت تلان متاع قلیل یہ چھو زندگی ہند کم سامانہ۔ بے اعتبار کیون دو ہن روزہ ون۔ مرنہ سیت گڑھہ یہ سورے ختم ثَمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ پتولا کہ چھ تهنزے جاے نار جہنم۔ و بئس البہاد کا زاہ چھہ جایاہ چھہ سو لکن الذین اتقوا ربہم لیکن تمبولو کو اندرہ تم کھوژن خدائس پنہ بس تہ مسلمان تہ فرمانبر دار سپدن لہم جنت تجری من تحتہا الأنہار تہدہ خیطر چھہ تم تم جنت سمومنز جو یہ پکان آسن خلدین فیہا تمنی جنت اندر روزن ہمیشہ۔ نزل من عنید اللہ یہ چھہ پیش کشاہ یوسہ تمن واتہ ونوی بروٹھ کنہ یہ تھاونہ خدایہ سندہ طرفہ۔ و ما عنید اللہ خیر للابرار یہ سم کیوہاہ خدائس لغہ چھو نیو کارن ہمدہ خیطر کہ تہ چھو بدر جما سیٹھا رت تمہ خوتہ یہ کافر ن دیا اس اندر و ان من اهل الکتاب لمن یؤمن باللہ بیشک یہ چھہ اہل کتابو اندرہ ضرور کہنہ لو کہہ تم پڑھ کران چھہ کئس خدائس و ما انزل الیکم یہ تھہ یہ کیوہاہ توہر گن نازل آو کرنہ و ما انزل الیکم یہ یہ کیوہاہ تمن لو کون گن نازل آو کرنہ خشیعین باللہ سمہ طریقہ چھہ تم کھوژان خدائس کہ لا یشترون بایت اللہ ثَمَّ قَلِيلًا تم چھنہ بین اہل کتابن ہند پاٹھ

لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمًا قَلِيلًا ۙ اُولٰٓئِكَ لَمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۹۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَرَابِطُوا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾

خدايہ سند کلام کم حقیقت مونس کنان اُولٰٓئِكَ لَمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تھے کیاہ چھہ تم لوکھ بہنر۔
رژمزور چھہ تھندس پروردگار س نشہ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ بیشک اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ ون
حساب بوزہہ کرہ سونمن مزور عطا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا صبر کرو نکلیفن پیٹھہ
مضبوط روزویلہ کافرن سیت مقابلہ کرو وَرَابِطُوا مُستعدتہ تیار روزو وَاتَّقُوا اللّٰهَ بیہ کھو ژو خدائس
پریتھہ حالس اندر۔ شریعتہ کیوحدونشہ مہ ڈلوکنہ حالس اندر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تمی سیت سپدوتہہ کامیاب
پریتھہ کامہ اندر۔ دنیاءس اندر تہ آخرتس اندر تہ۔



سُورَةُ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
 وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ
 وَلَا تَتَّبِعُوا لَهَا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اے لو کو کھو ڈو پنہ نس پروردگار س مخالفت تہ نافرمانی کرنہ نشہ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ تم تہ پیدہ کر وہ کسی شخص نشہ یعنی حضرت آدم وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 بیہ ہم پروردگار ن پیدہ کر تمہی شخص نشہ تہمز آشین یعنی حضرت حوا یوسہ پیدہ کرن حضرت آدمہ
 سنزی لرہ کانہ منزہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً بیہ سم چھکر او عالس منز تہمن دون نشہ موہو
 تہ زنانہ بے شمار وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ بیہ کھو ڈو نس خدا بس سمسد واسطہ دتہ
 تہہ اکہ اُس نشہ چھوہ پنہ نین حقن ہند مطالبہ کر ان یعنی ونان چھوہ پانہ وان کہ خدا بس کھو ڈو میون حق کر
 اول دون یلہ تہہ چھوہ خدا بس کھو ڈوہ نک تجویز کر ان لہذا آرزوہ تہو ند تہ پانہ تس کھو ڈون۔ خصوصاً گڑھہ
 آشنائی ہند حقوق ضایع کرنس تہ کھو ڈون إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بیشک اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ
 توہہ پیٹھہ پورنگرانی کر ان۔ سو چھو تہند ساری حالات پانہ وچھان وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ بیہ آسوا می
 والیہ تہ سر بہو یتیمن پنہ نوی مال حوالہ کر ان تہ وائس دوان وَلَا تَتَّبِعُوا لَهَا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ بیہ مہ
 آسوپن رڈی مال تہندس رتس ماس سیت بدلاوان وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ بیہ مہ کھیو

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَثَمَىٰ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝ وَلَا تَوْتُوا

تہند مال ملہ ناوت پنہ نس ماس سیت۔ اِنَّهٗ كَانَ حُوبًا كَبِيْرًا ہر پانھم یہ مال بدلاون چھو سیٹھا ہوؤ
 ئناہ ۛ وَلَا نْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِی الْیَثَمٰی بیہ ہر گاہ تمہ کھو ژو یتیم کورین سیت نیتھر کر تھہ ماہیکو
 نہ اس تمن منز عدل و انصاف قائم تھاوتھہ ۛ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰی وَثُلَاثَ
 وَرُبْعًا تلہ گڑھہ تہند کال کزن تمن یتیم کورین ورا ی بین زنان سیت سمہ توہہ خوش کرنوہ زیزتہ۔
 تریہ۔ تریہ تہ۔ ژور۔ ژور تہ ۛ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً پس ہر گاہ زہ زنانہ۔ تریہ زنانہ یا ژور
 زنانہ آسنہ کس صورتس منز تہہ کھو ژو عدل تہ انصاف نکیاہ ہیکونہ کر تھہ تمن منز سارنی معالمن اندر تیلہ
 گڑھہ اکی زنانہ پٹھہ اکتفاء کزن اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ یا کزیرہ بیٹھی۔ ذَٰلِكَ اَدْنٰی اَلَّا تَعُولُوْا یہ
 یعنی اکی زنانہ پٹھہ یا صرف کزیرہ پٹھہ اکتفاء کزن چھو زیادہ نزدیک بیتھہ کتھہ کہ تہہ کرنوہ بے انصافی
 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً بیہ آسودوان زنان مہر تہند دلہ چہ خوشی سان ۛ فَاِنْ طِبَّنَ
 لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْئًا مَّرِیْئًا پس اگر تمہ زنانہ پنہ خوشی سیت مرہ اندرہ
 کانہ حصہ یا سوزی مر تراوان پس کھیو تہہ تہ گتھہ تہ ضرر کہ اندیشہ ورا ی سو چھو تہندہ خیطرہ مزہ دارتہ
 خوشگوار جبر کر تھہ مہر بخشاونہ سیت چھونہ مر معاف سپدان۔ بیتھہ پانھہ جلسازی کر تھہ کاغذس پٹھہ
 زنانہ ہند دستخط یا پٹھہ کرانونہ سیت چھونہ مر بخش سپدان وَلَا تَوْتُوا الشُّفَهَاءَ اَمْوَالِكُمْ اگر یتیم
 بالغ سپدن مگر تم آسن ونہ کم عقل تلہ مہ آسودوان تمن کم عقلن سومال پن۔ الَّذِی جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ

السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝
 وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ

قیماً نِس مال عام طور اللہ تعالیٰ ان چھو بنو موت زندگی قائم تھا ونک اکھ ذریعہ سوی تمن کم عقل بچن اتھہ لعمہ تم کرن سوا ضایع تہ خراب۔ **وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ** بیہ آسیہ کھہ تمہ منزہ کھیوان چوان۔ بیہ آسیہ کھہ پو شاک بناوان **وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا** بیہ آسیہ کھہ زیوہ سیت معقول طریقہ سیت فہمائش کران تسلی روان کہ یہ مال چھو تہندی۔ اس چھہ محض لہجہ حفاظت کرنہ خیرہ **وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ** بیہ آسویتمین آزمائش کران۔ تہندہ ذریعہ آسوا بازہ کانہ چیزانہ ناوان تا اینکه معلوم آسہ سیدان تمسند فہم وشغور کوت دوت **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ** یوتان تم تہتر کرنس قابل سیدان آن **فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا** پس اگر تہہ لبو تمن منز صلاحیت مالمہ حفاظت کرنج **فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ** ادہ دیو تمن مال پین یعنی کریو کھہ سپرد **وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا** بیہ منہ آسوا مال تہند زیادہ خرچان، جلد جلد موکلاوان۔ سمہ خیالہ کہ تم ماڈن تہ بالغ سیدان۔ پتہ بیہ نہ آسہ خرچنک تہ کھینک کانہہ موقع **وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ** بیہ نِس ولہیہ تہ سر پر ستاہ مالدار آسہ سوروزن بالکل پاک قییمہ سند مال کھینہ نشہ **وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ** بیہ نِس سر پر ست فقیر آسہ سو کھین چھین تمہ منزہ مناسب طریقہ موجب **فَإِذَا**

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَٰسِبًا ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْتُمْ قُلُوبَهُمْ مِنْهُ
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ وَلِيُخَشِ الَّذِينَ

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تُوپتے یلہ تہہ و اتا و تمن کن مال تہمد یعنی تمن کرو سپرد فَاثْبُدُوا
 عَلَيْهِمْ پس گواہ تھا دیو کہہ تمن پیٹھ و کفی بِاللَّهِ حَٰسِبًا کافی چھو اللہ تعالیٰ حساب ہیوہ و ن
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مردن اده تم لوکت آستن یلہ تہمدہ خیطرہ
 تہ چھو اکھ حصہ تھہ ماس اندر۔ بس تراون پتھہ کن مر نہ پتہ مول موج تہ نزدیک آشنا وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ پتھہ پاٹھہ چھو زنانن اده تمہ لوکت آستن یاچہ تہمدہ خیطرہ
 تہ اکھ حصہ تھہ اندر بس تراون پتھہ کن مر نہ پتہ مول موج تہ نزدیک آشنا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
 اده سوا مال کم آستن یا زیادہ آستن نَصِيبًا مَّفْرُوضًا سارنی ہمدہ خیطرہ چھو تھہ ماس اندر اکھ حصہ
 مقرر کرنہ آمت خدلیہ سندہ طرفہ۔ تہذ اگوشہ نہ کانہ تہ مرد تہ نہ زنانہ نہ بوڈ تہ نہ لوکت تمہ حصہ
 نِصْبٌ مَحْرُومٌ یُنْ کرنہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
 فَأَرْتُمْ قُلُوبَهُمْ مِنْهُ بیہ یلہ حاضر آسن سدان ترگس تقسیم کرنکہ وقتہ آشنا یتیم تہ مسکین بس آسو
 تمن کہین چین ووان تمی ترکہ کہ مالہ منزہ۔ بیہ حکم اوس ابتداء س اندر۔ پتہ چھو نہ بیہ حکم رڈومت یلہ
 وراثتک صریح احکام نازل سپد۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا بیہ آسو تمن سیت کتھہ کران
 مُنَاسِبٌ طریقہ وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا
 عَلَيْهِمْ بیہ گوشہ کھوٹن تمن لوگن ہند یتیمن ہمدہ تھہ تہمدس نقصان۔ زان گوشہ کہ ہر گاہ تمن

لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ①
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ②
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِمَتُ حِزَّ الْأُنثَىٰ ۖ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

کر پرستن پنہ مریمہ وقتہ لوکت لوکت اولاد پانس پتھہ کن روزہ ہن تہندہ خیرہ گرہہ فکرتہ غم تھاون۔
یتھوی معاملہ گرہہ یوزن پر پتھہ یتیمہ سندہ حقہ **فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا** ہنس
کھوژوالہ تعالیٰ اس۔ بیہ ونو مفیدہ مر یوط کلام **إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا** پز
پاٹھہ ہم لوکھہ یتیم ہند مال پھہہ کھیوانا حق ظلم وستم کر ہہہ **إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا** تم
پھہہ مگر پنہ نین یڈن منز نار بران **وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا** بیہ واتن عنقریب تم دزہ ونس نارس اندر
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ اللہ تعالیٰ پھو توہہ وارثک حکم فرماوان تہندین اولادن ہندہ حقہ۔ کوہ پتھہ
پاٹھہ گرہ۔ وراثتہ منزہ پن حصہ حاصل **لِلَّذِ كَرِمَتُ حِزَّ الْأُنثَىٰ** اکس مردہ سند حصہ پھو دون زنانن
ہندس حصس برابر۔ بیلہ اکھ پچو تہ زہ کوہہ آسن۔ ساری مالس سپدہ نصف نصف اکھ نصف گونچوس۔
بیاکھ نصف گودون کورین باگر تھہ۔ ہر گاہ پچوس سیت آسہ اکھ کور تلہ نین مالس تریہ حصہ کرنہ زہ حصہ
گے پچوس اکھ حصہ گو کوہہ۔ ہر گاہ پچوی یوت آسہ وارث تلہ گو سوزی مال تھس **فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ**
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ پس ہر گاہ پتھہ کن روزن کورے زہ یاد یو خونہ زیادہ ہنس تہندہ خیرہ پھو
ساری مالہ کیو تریو حصہ اندرہ زہ حصہ۔ نیس مال مرمت شخصن پتھہ کن تر وومت آسہ **وَإِنْ كَانَتْ**
وَاحِدَةً ہر گاہ اکے کور روزہ پتھہ کن **فَلَهَا النِّصْفُ** تھس واتہ مالک نصف حصہ بانن گو بین آشانون ہم
حقدار آسن۔ **وَلَا بَوَیْبِهِ** مردہ سندس مالس ماجہ ہند حصہ پھو **لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ** مٹاترک

التَّصْفُ وَالْأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ
بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لِهِنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا

تمود و یواندره پر ہتھہ اکس ولتہ شیم حصہ۔ تمہ مالہ منزہ نیس مال مومت شخص ہتھہ کن ترودمت آسہ
ان کان لہ ولد ہر گے تس مومت شخص آسہ رومت اولادتہ فان لکم یکن لہ ولد نیس ہر گاہ
تس اولاد آسہ نہ رومت وورثتہ آسہ وارث آسہ رومت مول موج فلاولہ الثلث تلہ گوماجہ
ترتم حصہ باقی گومالس فان کان لہ اخوۃ فلایہ السدس ہر گاہ امس مردس آسن رومت بای یابینہ
تہ تلہ ولتہ ماجہ شیم حصہ باقی گومالس بین باسن نہ کنہی من بعد و صیۃ یوصی بہا اودین یہ تقسیم یوسہ
بیان کرنہ آسہ گنید وصیت تہ قرض ادا کرنہ پتہ اباؤکم و ابنائکم لاتدرون ایہم اقرب لکم نفعا مال
جہند بیہ پتو جہند۔ توہہ چھنہ یکہنہ خبر کوہ چھو توہہ تمواندرہ زیادہ فاسیدہ تہ نفع واتاودہن۔ انج خبر چھہ
خدایہ سی یازہ فریضۃ من اللہ تمی خدایں چھو پر ہتھہ اکسند حصہ مقرر کورومت ان اللہ کان علیمًا
حکیمًا بیشک اللہ تعالیٰ چھو سوزی زانہن۔ سوی چھو حکمتہ وول۔ ولکم بصف ما ترک ازواجکم
بیہ چھو جہندہ خیطرہ نصف تمہ مالگ نیس ہتھہ کن تراون جہنہ زنانہ ان لکم یکن لہن ولد ہر گے
تمن روزہ اولاد فان کان لہن ولد فلکم الربع مما ترکن ہر گاہ تمن اولاد روزہ ہتھہ کن تلہ چھو جہندہ
خیطرہ ژور تم حصہ جہندہ مالگ نیس تمو پتہ کن ترودمت آسہ من بعد و صیۃ یوصین بہا اودین یوسہ

أَوْ دَيْنٍ ط وَ لَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي
 تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً
 وَ لَهٗ آخِرٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوَصَّى بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ ط

تقسیم چھو تہمہ وصیت پتہ یوسہ تمو کر مرث آسہ کانسہ ہندہ حقہ بیہ قرضہ ادا کرنہ پتہ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ بیہ زنانہ ہندہ خیطرہ زور تم حصہ تہندہ مالہ منزہ لیس جہہ ہتھہ کن ترا و و ہر گاہ لے توہہ آسہ اولاد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ لیس ہر گاہ توہہ ہتھہ کن اولاد تہ آسہ تلہ ولتہ تہنزن زنانہ تہندہ مالک اوتھیم (۸) حصہ لیس توہہ ہتھہ کن ترا و و مت آسہہ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ سوی وراثت بیہ جاری کرنہ تہنزن وصیت تہ قرض پورہ کرنہ پتہ وَلَئِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً وَّ لَئِنْ كَانَ شَخْصًا آسہ لیس نہ مول موج آسہ نہ اولاد آسن اَو امْرَأَةً یا کانہہ زنانہ آسہ لیس نہ مول نہ مول موج تہ اولاد آسن وَ لَهٗ آخِرٌ أَوْ أُخْتٌ لیس آسہ بوی یا بینہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْمَا السُّدُسُ لیس چھو تمود و یو اندرہ پر ہتھہ آسندہ خیطرہ شیم حصہ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وون ہر گاہ تمہہ خوتہ زیادہ آسن تم تلہ چھہ تم ساری شریک لیس ترا تمس حصس اندر مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ بیہ تقسیم تہ وراثت بیہ جاری کرنہ تمہہ وصیتہ پتہ یوسہ وصیت کرنہ امر آسہ بیہ قرض بھہ واللہ غَيْرِ مُضَارٍّ مگر یہ وصیت گورہ آسن تو ہی یوسہ نہ کانسہ وار لیس ضرر و اتا و ہ۔ یعنی مالکہ تریمہ حصہ خوتہ گورہ نہ زیادہ آسن۔ یوسہ وصیت ترا سمہ حصہ خوتہ زیادہ آسہ سکو بیہ نہ جاری کرنہ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ یوسہ حکم چھو خدایہ سندہ طرفہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سوزی زنانہ و ن تہ تہید کرہ و ن۔ تمس چھو معلوم ہبہ چھو میان حکم مانان تہ کہہ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿۳۳﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۳۴﴾ وَالَّذِي
يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

چھونہ مانان۔ تہ مان والین چھونہ سیتی سزاواں کیا زہ سو چھو حلیم تہ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اسم احکام
چھہ خدایہ سند نشانہ بیونشہ گدھہ نہ ڈکن وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیس اکھاہ حکم مانہ خدایہ سند بیہ
تہندس پیغمبرہ سند يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تَس و اتا وہ خدا تمن
جنتن اندر یومنز جو یہ پکان آسن۔ تمنی جنتن منز روزن تم ہمیشہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بیہ گنیہ
بڈا کامیابی تہ رستگاری وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیہ لیس نافرمانی کرہ خدایہ سز بیہ تہندس رسولہ
سز و یَتَعَدَّ حُدُودَهُ بیہ ڈلہ تہند یوحہ و نشہ۔ مساوی زانہ یمن حدان ہنز پابندی کرن سو گو گھر۔
تمیک سز چھو يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا تَس و اتا وہ خدا نار جہنمسن اندر ہمیشہ خیطرہ وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ بیہ چھو تہندی خیطرہ ذلیل کرہ دن عذاب وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ بیہ
سمہ زانہ چھہ کامہ کرن تہنز و منکوہہ زناوا اندرہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ لیس رٹو
تہہ تمن بیٹھہ ژور گواہ مسلمان فَإِنْ شَهِدُوا پس یلہ تم ژور گواہ گواہی دن تہنزہ چھہ کامہ بیٹھہ
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا لیس کریوکھ تمہہ
زانہ بند کرن اندر یوتان تمہہ مرن یا فرماوہ اللہ تعالیٰ تہندہ خیطرہ بیاکھ حکماہ۔ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّاهُمْ مِنْكُمْ

سَبِيلًا ۱۵) وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَهَا مِنْكُمْ قَاذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا
وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۱۶)
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۷) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْمَ ۚ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ

بہ ایم زہ شخص مردتہ زنانہ پچھہ کوم کرن توبہ اندرہ قَاذُوهُمَا ۖ نپس و اتناوہ تکلیف تمن
آتھوسیت تہ کتھوسیت۔ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۖ نپس ہر گاہ تمہو توبہ کور۔ پن
حالت درست کرکھہ نپس تراوہ تمن تکلیف و نک خیال۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۖ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ
پچھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ و ن۔ سیٹھاہ رحم کرہ و ن۔ تم احکام آس حد زنا نازل سپد نہ بروٹھہ إِنَّمَا
التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ توبہ قبول کرن ہٹھو
نہ منہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ مگر تمن لوگن ہند توبہ تم پچھہ کوم کرن نادانی سببہ توبہ کرن تمہہ پتے توبہ یعنی مر نک
وقت و اتنہ بروٹھہ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ نپس تہندروی توبہ گرہ اللہ تعالیٰ قبول
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ اللہ تعالیٰ ہٹھو سوڑی زانہ و ن تہ سیٹھا حکمتہ و ول۔ کس پچھہ پور خبر کم
پچھہ دلہ کن توبہ کران تہ کم ہجھنہ بصدق دل توبہ کران۔ ہند حکیم آسن گوکہ سو ہٹھونہ بصدق دل توبہ
کرومن منہ چھوان تہ رسوا کران ۖ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ بہہ چھونہ توبہ
قبول سپدان تمن لوکن ہند تم پچھہ کلمہ روزن کران حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي
تُبْتُ الْإِسْمَ ۚ یوتان تمن مر نک وقت و اتنہ عالم آخر تک چیز نپچھہ بوزنہ تمہہ ساتہ و پن اس پچھہ توبہ

وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۸
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
 تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹ وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا

کران دون۔ تمہے ساتھ توبہ چھو نہ قابل قبول ولا الذین یموتون وہم کفارہ یہ چھو نہ تم
 لوکن بند توبہ قبول تم مرن کفر سے بیٹھ۔ اولئک اعدنا لہم عذابا الیما تم لو کہ تم چھ
 تہدہ خیترہ چھو اسہ تیار تھو مت کدر عذاب یا ایہا الذین امنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا
 ای با ایمانو ہرگز چھو نہ توبہ جائزہ حلال تہہ کیاہ سپد و جبرأت زہر دستی زنانہ بند وارث ولا تعضلوہن
 بیہ منہ آسبو کہہ زنانہ بند کران لیذہبوا ببعض ما اتیتموہن شہہ تہہ وصول کفر و تمہ مالہ اندر کہہ نہ
 ئس توبہ تم دیتمت آسوہ الا ان یاتین بفاحشہ مبینہ مگرے تمہہ کانہہ تین چھہ کاماہ کرن تلہ
 چھو تہہہ خیترہ تمہہ بند کرنہ جائز مگر سوما ل وصول کرن ئس توبہ تم دیتمت آسوہ چھو ناجائز بدستور
 وعاشروہن بالمعروف بیہ آسوزنان سیت زندگی بسر کران رت پاٹھ۔ فان کرہتموہن
 بس ہر گاہ توبہ تم ناپسند آسن فعسای ان تکرہوا شیئا بس ممکن چھو ئس چیز توبہ ناپسند آسہ ویجعل
 اللہ فیہ خیرا کثیرا اللہ تعالیٰ تھاوہ تمہہ اندر تہدہ خیترہ واریاہ خیرتہ برکت وان اردتم استبدال
 زوج مکان زوج ہر گاہ تہہ ارادہ کفر و کس زنانہ بدل بیا کہہ زنانہ کرن یعنی اکھ موکلاون کس بدل بیا کہ
 کرن و اتیتتم احدہن قنطارا تہہ حاس اندر ہر گاہ تموزنانواندرہ کانہہ واریاہ مال آسوہ دیتمت
 فلا تأخذوا منہ شیئا بس یتھنہ تمہہ مالہ منزہ واپس ہوان آسبو کہہ کینہہ اتأخذونہ بہتاتاکوا انما مبیننا
 کیاہ ہو کہہ سوما ل واپس ظلم کفر تہہ۔ پن یان بدس ظلم کفر تہہ۔ ظلم کفر تہہ۔ تہہ گڑھہ نہ ہرگز کرن و کیف

فَلَا تَأْخُذْ وَامِنْهُ شَيْئًا تَأْخُذُ وَنَهَ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مِيبًا ۲۰ وَ
 كَيْفَ تَأْخُذُ وَنَهَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنُ مِنْكُمْ
 يَمِينًا قَالِ غِيظًا ۲۱ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۲۲ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

تَأْخُذُ وَنَهَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ تہہ تمہہ پاٹھہ ہیو تمہن نش سوماں حالانکہ بتھین نزدیک چھوہ سپد مت تہہ تمہن یعنی خلوت صحیحہ چھوہ لینہ آمت۔ وَأَخَذْنُ مِنْكُمْ يَمِينًا قَالِ غِيظًا بیہ چھوہ تموز ناوقتہ توہہ نش عمد و بیان روٹمت عقد نکاح یعنی ایجاب و قبول کر چھہ وقتہ۔ تہہ چھوہ مہر کی بدلہ زمانہ نفسیہ تمتع تلن قبول کورمت۔ لہذا ایلیہ تہہ تمتع تلوہ تمیک بدلہ تہ عوض یعنی مہر کیازہ کمر و نہ ادا۔ چھکے گیہ سخت بے انسانی تہ ظلم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اے بالیما نوہیہ مہ آسو نیٹھر کران تمہن زمانن سیت یمن سیت تہند یو مالو یابدہ بونکاح آسہ کورمت یا ناجائز طریقہ پاٹھہ ہمسری آسہ کمر مثر إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر یہ آتہ بروٹھہ گذر یومت آسہ یعنی اسلامہ بروٹھہ تہ آو اسلامہ کہہ برکتہ عفو کرنہ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا پز پیا تہ چھوہ عقلہ کرن تہ سیٹھہ چھہ عرفہ کرن تہ سیٹھہ قابل نفرت وَسَاءَ سَبِيلًا بیہ چھوہ شرعاً تہ سیٹھہ خراب طریقہ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ حرام آہہ کرنہ توہہ پیٹھہ ماجہ تہمزہ۔ بیہ کورہ تہمزہ۔ بیہ بینہ تہمزہ۔ تمہ سکھہ بینہ آستن۔ مال بینہ آستن یا ماجہ بینہ آستن۔ یعنی تمہن سیت نکاح کرن چھوہ توہہ حرام تہ ناجائز وَعَمَّاتُكُمْ بیہ پوپھہ تہمزہ۔ تہمزہن مالین ہنزہ بینہ۔ سکھہ بینہ۔ مال بینہ۔ ماجہ بینہ۔ وَاخَالَاتُكُمْ بیہ باوزہ تہمزہ یعنی باہی سزہ کورہ۔ سکھہ باہی سزہ تہ۔ مال باہی سزہ تہ۔ ماجہ باہی سزہ تہ۔ بیہ بیزہ تہمزہ یعنی بینن ہنزہ کورہ۔ سکھہ بینہ ہنزہ تہ مال بینہ ہنزہ تہ۔ ماجہ بینہ ہنزہ تہ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُمْکُمْ بیہ چھہ حرام توہہ پیٹھہ تہمزہ تمہہ ماجہ تمہو توہہ دود دیتمت آسہ

الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي جُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٧﴾

وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ بیه ہٹھو حرام توہہ۔ تمن بیلن سیت نکاح کرن سمہ دود چہنہ سبہ ہنزہینہ آسن سہز مژہ یعنی توہہ آسوہ تہنزہن حقیقی ماجن ہند دود چومت یا دودہ ماجن ہند دود چومت یا آسہ تمو تہنزہن حقیقی ماجن یا دودہ ماجن ہند دود چومت وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ بیه آیہ حرام کرنہ توہہ تہنزہن زنانہ ہنزہ ماجہ یعنی تہنزہ ہشہ، ماسہ ہشہ تہ پوپھ ہشہ۔ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي جُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ بیه آیہ حرام کرنہ توہہ تہنزہن تمن زنانہ ہنزہ کورہ تمن سیت خلوت صحیحہ کورمت آسہ۔ یمہ کورہ تہہ رجھان چھووکہ سمہ کورہ تمن برو ٹھہین خاوندن ہنزہ آسن فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس ہر گاہ تہہ آسونہ تمن سیت خلوت صحیحہ کورمت تلہ ہٹھونہ کانہ حرج تہنزہن کورین سیت نکاح کرنس۔ کیا زہ صرف نکاح یعنی ایجاب وقبول سیتی ہٹھنہ زنانہ ہندین اصول و فروعن ہنزہ حرمت سپدان۔ بلکہ ہٹھہ حرمت سپدان خلوت صحیحہ سیت وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ بیه ہٹھہ حرام توہہ ہٹھہ تہنزہن پٹھون ہنزہ منکووحہ زنانہ بیه تمہہ زنانہ یکن سیت تہند یو پٹھو یونا جائز طریقہ ہمسری کر مژہ آسہ۔ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ بلکہ تمن پٹھون ہنزہ زنانہ ہٹھہ توہہ ہٹھہ حرام سمچھو توہہ پنہ پشنگ آسن۔ منکو پٹھون ہنزہن زنانہ سیت نکاح کرن ہٹھو جائز۔ یلہ نہ تمہہ زنانہ تہندس نکاحس اندر روزن سٹھہ طریقہ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بیه آو حرام کرنہ توہہ ہٹھہ دون بیلن سیت یکہ وٹہ نکاح کرن إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر یہ کثیرہ ہا امہ قسمہ اسلام اندہ برو ٹھہ گذر یومت ہٹھو تہہ ساری ہٹھو عفو۔ آئندہ خیطرہ گڑھہ احتیاط کرن إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا پڑپاٹھ اللہ تعالیٰ ہٹھو سیٹھہ مغفرت

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَعْتَمْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۵﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
 طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ

کرهون سیٹھاہ رحم کرہون وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بیہ پھو حرام آمت کر نہ توہہ پٹھہ تمن زمانن
 سیت نکاح کرن یمن خاوند موجود آسن إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مگر نہ تمہہ زمانہ یمن تہہ مالک سپدو
 بیہ تمہہ ہ کینزہ سپدن تمہہ خاوند زندہ ہ آسن دارالحر بس اندر۔ تمہہ پھہ حلال کِتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سے
 احکام پھہ لیکھت اللہ تعالیٰ آن توہہ پٹھہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ بیہ آہہ حلال کر نہ تہندہ خیطرہ تمہہ
 سارے زمانہ سمہہ تموزانوورای پھہ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ایلکہ ژھاند یوک تہہ تمہہ زمانہ پنہ نیو
 دیاروبدل مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ درحالیتمہ گنہہ نشہ بچہ ون آسود۔ گنہہ کرہون آسونہ یعنی باقاعدہ
 ایجاب و قبول کثرت مہر مقرر کرت دون شایدن بروٹھہ گنہہ بیہ نکاح کر نہ فَمَا اسْتَعْتَمْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 پس تموزانو منزہ تمن نشہ توہہ نفع تلوہ یعنی نفع خواہش پورہ کر وہ فَاآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً پس دیو
 کن تہند سہرہ پس مقرر کر نہ آمت پھو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ بیہ پھو نہ
 توہہ کانہ گناہ تھہ چیزس پٹھہ پھہ پٹھہ تہہ باژہ پانہ وان راضی سپدو۔ عقد نکاح و زہ کانہہ چیز مقرر کر نہ
 پتہ۔ زیادتی کر تو یا کمی کر تو کثرت چیزس منز تمیک پھو توہہ اختیار إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا پڑاٹھ اللہ
 تعالیٰ پھو سو زوی زمانن۔ پس پھو معلوم تہند فائدہ تہ نفع تھہ چیزس منز پھو۔ تمی مناسبہ پھو سو
 احکام تہندہ خیطرہ جاری کر ان سو پھو سیٹھاہ حکمتہ وول۔ حکمت پھو سو احکام پین توہہ پٹھہ مقرر کر ان
 اگرچہ توہہ متہ تر تن فہرہ۔ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ بیہ پس اکھاہ

فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ
 فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
 غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَخَدَّاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أَتَيْنَ
 بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
 لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

ہیکہ نہ توبہ اندرہ با ایمان آزاد زانہ سیت نکاح کثرت **فَمَنْ كَانَتْكُمْ إيمَانِكُمْ مِنَ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ**
 کس کثرت سونکاح کانہہ با ایمان کیزہ سیت یوسہ کانہہ مسلمانہ سز کیزہ آسہ۔ کیا زہ کیزہ ہند مہر چھو آزاد
 زانہ ہندہ خوتہ کم آسان۔ کیزہ سیت نکاح کرنس منز گھنہ عار زان **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ** اللہ
 تعالیٰ سی چھہ پور خبر تہندہ ایمانچ۔ ممکن چھو سو کیزہ آسہ ایمانکہ اعتبارہ تہندہ کھوتہ بہتر۔ تمیک پور علم
 چھو اللہ تعالیٰ اس۔ کس روو سبکہ اعتبارہ تھہ منز چھو توبہ **بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ** اڈ اڈین ہند جزو۔
 ساری برابر کیا زہ سارنی انسان ہند اصل چھو حضرت آدم تہ حضرت حوا علیہما السلام۔ وون یلہ معلوم
 سڈ عار گھنک چھو نہ کانہہ وجہا۔ لہذا آتھہ ضرور سبکہ وقتہ کیزہ سیت نکاح کرن **فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ**
أَهْلِهِنَّ پس کرونکاح کیزہ سیت بشر طیکہ تہندین ماکن ہند اجازت کرو حاصل **وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ**
بِالْمَعْرُوفِ بیہ دیو کمن تہند مرہ قاعدہ موجب **مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَخَدَّاتٍ أَخْدَانٍ** در حال سبکہ
 تمہ کیزہ آسن پاس ر اچھہ کرہ و نین پاٹھہ۔ چھہ کامہ کرہ و نہ آسن نہ۔ نہ آسن دوستی تہ بارز لا گونہ کانہہ
 سیت یعنی ڈورہ پاٹھہ چھہ کامہ کرہ و ن آسن نہ **فَإِذَا أَحْصَيْتَ** کس یلہ تمہ کیزہ نیتھر گرا کہہ بن **فَإِنَّ**
أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ کس ہر گہ تمہ پتہ تمہ کانہہ چھہ کامہ کرن **فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ**
الْعَذَابِ کس چھو تہند سز اتہہ سز اک نصف کس سز مقرر کرنہ آمت چھو نیتھرہ گرا کین آزاد زانان
 ہند۔ **ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ** یہ کیزہ سیت نکاح کرن چھو تہندی خیطرہ کمن بے نکاح
 روز کس حالتس اندر چھہ کاین منز بتلا سڈ نگ خطرہ آسہ توبہ اندرہ **وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ** ہر گاہ

رَحِيمٌ ﴿۲۵﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۶﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ﴿۲۷﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿۲۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

ہمہ صبر کمر و تہ چھو بہتر تہندہ خیرہ۔ تمہہ سیت سپدہ راہجہ تہندس نسلس غلام بنہ نشہ۔ نتہ ہر گاہ صبر کمر ونہ کینزن سین کمر و نکاح تلہ بن تہند اولاد غلام کس شخصہ سدہ سم سنز سو کینز آسہ ۛ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۛ اللہ تعالیٰ چھو مغفرت کرہ ون۔ رحم کرہ ون تمن تم نہ تاب بیکن کمر تہ۔ مجبور سپد تہہ کرن کینزن سیت نکاح یُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ۛ یشہان چھو اللہ تعالیٰ وارہ نز او تہہ توہہ حلال و حرامک احکام بیان کرن و یَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۛ بیہ چھو توہہ ہاوان و تہہ تمن اہل حقن ہنزیم توہہ برو تہہ آس، تمن ہند قصہ بیان کمر تہہ ۛ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۛ بیہ چھو سو برحمت متوجہ توہہ کن۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ علمہ و ول سیٹھا حکمتہ و ول ۛ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۛ اللہ تعالیٰ چھو یشہان کہہ توہہ دیہ توفیق توبہ کر نک تہ تہند توبہ کرہ قبول۔ ۛ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ ۛ مگر تم لو کہہ پیروی چھہ کران نفسہ چن خواہش تم چھہ یشہان ۛ أَنْ تَبِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ۛ ایچہہ تہہ دلوسیزہ و تہہ نشہ۔ خدایہ سدہ یو حکمو نشہ و وکھہ پاٹھہ یُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۛ اللہ تعالیٰ چھو یشہان احکامن اندر توہہ پیٹھ یو لور لور اون ۛ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۛ انسان چھو پیدے کر نہ آمت کمزور۔ توے آئے نہ اس پیٹھ تہہ احکام فرض کر نہ یمنہ سو برداشتی کمر تہہ ہیچہ ہا۔ ۛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۛ ای باایماؤمہ کہیو مال اکھہ اکھد ناجایز طریقہ پاٹھہ، سودہ پاٹھہ، غصبہ پاٹھہ تہ دھوکہ پاٹھہ ۛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۛ لیکن ہر گاہ پانہ وان رضامندی سان تجارت کمر وئس شریعتہ کیو

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا
 فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِنْ
 تَجْتَنِبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ
 مُدْخَلَ كَرِيمٍ ۞ وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

اصولاً مطابق آسہ تھو نہ کا نہ خرچ وَلَا تَتَّبِعُوا أَنْفُسَكُمْ بے مہ کرے کہ مارہ پن پان۔ یعنی تڑوہ
 کامہ مہ کر و سمو سیت تہ تملک سز او ار سپدو إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ہر پڑا تھہ اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ توہم
 پیٹھہ رحمتہ دول وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا بے نس اکھاہ تم چیز کرہ سمو نشہ
 ممانعت آہ کر نہ سر کشی تہ ظلمہ کن۔ نس جلدی و اتا دون آس سونا رس اندر وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرًا یہ چھو اللہ تعالیٰ اس نفعہ سہل تہ آسان إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ای لو کو ہر گاتہ
 تھہ روز و بڈو ممنوع چیزو تہ بڈو گھو نشہ بے کمر ورژہ عملہ نَكَرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ بخشایش گزو آس
 تھندین لو کٹین گھنن وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ بے و اتا دووہ اس تہہ عزتہر جاہی منز سوگہر جنت
 وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ بے مہ کمر و آرزو تہ تمنا تہہ ساری مرد تہ زنانہ تمہ گنہ
 چیزک بے سیت فضیلت دنہ آؤ توہم اندر اڈین یعنی مردن اڈین پیٹھہ یعنی زنانن پیٹھہ۔ مثلاً مرد آسن یا
 مردن دو گن بوگ آسن یا دون مردن ہنز گوانی مکمل آسن کیاہہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
 مردن ہندہ خیطرہ چھہ تمن عملن ہنز مزور تہ ثواب مقرر آخرتس اندر سمہ تمو کرہ مرہ آسن۔
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ زنانن ہندہ خیطرہ تہ چھہ تمن عملن ہنز مزور تہ ثواب مقرر آخرتس
 اندر سمہ عملہ تمو کرہ مرہ آسن۔ آخر حکمہ نجائک دارو مدار چھو عملن پیٹھہ۔ تھہ منز چھہ خصوصیت
 کانہ ہندہ خیطرہ۔ نس پیٹھہ رت کرہ دنیا اس اندر تہہ رت لبہ سو آخرتس اندر۔ تمنا کر نہ سیت کیاہ
 ہنہ۔ بلکہ پرہ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ در خواست کرن تہ مکن اللہ تعالیٰ اس تھند فضل۔ سوی کڈہ تھند

وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۱۲۶﴾ وَلِكُلِّ
 جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۱۲۷﴾
 الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
 بَعْضٍ وَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

ساری مطلب تہ آرزو۔ یہ سید نازل یلہ زانو تمنا کور آس تہ ہے مرد آسہو آسہ تہ بہہ ہا مردن ہنز دس
 مزدور تہ حصہ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا پڑ پانٹھ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزاہ پور زانہ دن وَلِكُلِّ
 جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ پڑ ہتھ کتہ مالہ خیطرہ ہس مال ہتھ کُن تراؤن مؤل مؤج تہ
 رشتہ دار کور آسہ مقرر تمہ مالک وارث سکن ہند بیان کرنہ آؤ۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ دون رو دباتی
 تم لو کہ سکن سیت توہم معاہدہ کورمت آسہہ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ کس دیو سکن پٹن حصہ یعنی شیم حصہ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا پڑ پانٹھ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزاہ پٹھ گواہ۔ پر ہتھ چیزاہ چھو پانہ
 وچھان۔ یہ حکم اوس ابتداءس اندر۔ پتہ چھو یہ حکم منسوخ آمت کرنہ بائہ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
 أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ - الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ مرد چھہ حاکم پٹھاول زنانن پٹھہ دیو وچہو بِمَا فَضَّلَ
 اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اکہ سمہ مو کہ کہ اللہ تعالیٰ ان چھو قدرتی فضیلت دیتمت اڈین، اڈین پٹھہ
 یعنی مردن زنانن پٹھہ وَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بیہ سمہ مو کہ کہ تمو مردو چھو خرچ کورمت پٹن مال
 تم پٹھہ۔ مرس منزلان و نفقس منز۔ لہذا چھہ زنانہ محتاج مردن کُن۔ خرچ دوہ دن سندا اتھ چھو بلند تہ
 تھو دتسدہ اتھ خو تہ کس خرچ دتہ بیہ۔ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ پس سمہ زنانہ نیک تہ رتہ
 چھہ مردن ہندس فضیلتس کُن نظر کر تھہ تہنز فرمانبر داری کران۔ تمہ چھہ مردن ہندہ بروٹھہ کتہ نہ
 آسنہ کس صورتس منز پتہ کس پانس تہ مردہ سبس ساری ماس راچھہ تہ حفاظت کران۔ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿۳۴﴾
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿۳۵﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا

اللہ تعالیٰ سیدہ راجھہ کرنے سے توجہ کرنا کہ توفیق دہ دیتے۔ یا تہہ بدل کہ اللہ تعالیٰ ان کیا چھو
تہندین حقون ہندہ حفاظتک امر کورمت مردن وَاللّٰی تَخَافُوْنَ نَشْوَاهُمْ پتہ روزہ تمہہ زنانہ تمن
ہندہ نافرمانی ہند توبہ اندیشہ آسہ قَوِّطُوهُنَّ ہنس کمر وگوڈہ تمن زبانی ہمایش تہ نصیحت وَاھْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ توتہ کریوکھ الگ ہستہ ورتہ۔ یعنی پانس نشہ مہ دیوکھ شوکھہ وَاضْرِبُوهُنَّ توتہ لایوکھ۔
مگر تھوی سمہ سیت نہ زخم لیکھ یا کانہہ تان پٹھیکھ۔ اعتدالہ سان۔ اتھہ منزچہ ترہ درجہ (۱)
نافرمانی ہندہ خوفہ تہ اندیشہ وقتہ گیہ ہمایش (۲) نافرمانی ظاہر سپدیکہ وقتہ کبیر جدائی و تھرس اندر (۳)
گرہ گرہ نافرمانی کرنس پٹھہ گوادہ لائنن فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ پس ہر گاہ تہنز فرمانبرداری کرنن فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ہنس مہ ڈھلڈ و تمن ناقظلم کرنے خیطرہ کانہہ و تھاہ تہ بہانہہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا پتہز پاتھہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہ تھودہ بوڈ۔ تمسند علم تہ قدرت چھہ سیٹھہ بڈ۔ اگر تہہ تمن
زنانن ناقظ تکلیف و اتنووہہ تیلہ کیاہ کرہ اللہ تعالیٰ تہ توبہ پنہ نافرمانی کرنے موکھہ گرفتار بلا و اِنْ خِفْتُمْ
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا پس ہر گاہ کھوژو تہہ اے حاکمو یا سر پرستو تمن دون باژن ہندس زیادہ مخالفتس کنہ
قسمہ اصلاح نہ سپدس فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تیلہ سوزیوکھ تہہ مردہ سند یو
رشتہ دار و اندرہ تہ کھہ فیصلہ کرہ و ناہ تہ زنانہ ہند یورشتہ دار و اندرہ تہ کھہ فیصلہ کرہ و ناہ تمن بیج قابلیت
آسہ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ہر گاہ تم دو شوے فیصلہ کرہ و ن سودلہ اصلاح سپدن
آسن یرشان اللہ تعالیٰ دیہ توفیق ملہ ژار کرنک تمن دون باژن اندر إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا پز

أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿۳۸﴾ وَمَا ذَا
 عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
 وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿۳۹﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظِلُّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ
 حَسَنَةً يَضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۴۰﴾ فَكَيْفَ
 إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۴۱﴾

أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ بے تم لوک یم مال پئن خرچ کران چھ لوکن ہاونہ خیرہ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بے چھنہ ایمان انان کنس خدا ایس وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ بے چھنہ پڑھ کران تمس دوہس یعنی قیامتس وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا بے سمندر فیتق تہ دوست شیطان آسہ۔ پس سیٹھاہ چھنہ چھو تھنہد دوست سو چھو تمن کاین ہند مشورہ دووان یکن کاین ہند سخت ضرر چھو وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ بے کیاہ سنا نقصان گڑھہ ہا تمن کافر ان لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہر گاہ تم ایمان انہ ہن پڑھ کرہ ہن کنس خدا ایس بے قیامتہ کس دوہس وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ بے کرہ ہن خرچ سو مال نس اللہ تعالیٰ نے دیتمت اوسکھ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ اس آس گوڈہ پیٹھے یہندہ نیک و بد چ پور خبر۔ تی موجب دیکھ سزا إِنَّ اللَّهَ لَا يُظِلُّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ پڑ پاطھ اللہ تعالیٰ چھونہ ظلم کران کانسہ آس ذرّس برابر وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَعِفْهَا بلکہ چھو تیوت رحمتہ وول کہ ہر گاہ با ایمان بندہ سزا آسہ اکھ نیکی تھہ چھو اللہ تعالیٰ تمس واریاہ گن زیادہ ثواب عطا کران۔ وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا بے چھو پنہ طرفہ بطور انعام عملن ہندہ معاوضہ ورا ی بڈ مزور عطا کران۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پس کیاہ سنا حال سپدہ تمن کافر ان ہند تمہ وقتہ سمہ وقتہ اس حاضر کرکھ پڑتھہ اتمجہ طرفہ اکھہ اکھ گواہ۔ یعنی پئن پئن پیغبر وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا جہہ تہ انوہہ تمن پنہ نین امتین ہند گواہ یارسول اللہ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ كُونُوا يَوْمَئِذٍ بِهَمُّ الْأَرْضِ تمہ دہہ سپدہ یہوی حال

يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ سَأَلُوا
 بِهِمُ الْأَرْضَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
 مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا
 وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
 الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

کہ تمنا کرنا کافر بیہ ہمو نا فرمانی کر پیغمبر برحقہ سنز ہر گئے تم ز میس منز دوبرت۔ تمن بیٹھہ بیہ ہازمین ہموار کرنہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا مگر تمہ سیت ماندیکہ کہہنہ پروردگار س نشہ بیکن نہ تم کا نہہ کتھاہ ژورہ تھاوتھہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ اے بالیمانوتہہ مہ آسو سستی تہ بے ہوشی اندر نماز پران۔ بلکہ آسو ٹھہران ٹوتان یوتان توہہ ہوش آسہ یوان۔ تہ زائن آسہ توہہ نگان کہ ٹہہ کیاہ چھوہ نمازہ منز پران۔ یاگو مطلب نماز پرچہہ جایہ مہ آسو نزدیک سپدان درحالت سُکرو بیہوشی۔ یعنی مسجدن منز مہ آسو اٹران اتھہ حالس منز۔ (پہ آسہ کریمہ چھو شراب حرام سپدنہ بروٹھہ نازل سپدنہ) وَلَا جُنُبًا بیہ مہ آسو بے غسلی ہندس حالس منز نماز پران إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ مگرے ٹھہرنہ ورا ی فقط چکن آسوہ مسجدہ منز حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا یوتان نہ غسل کران آسو وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ بیہ ہر گاہہ بہہ بیمار آسو بیٹھہ بیماری اندر آب استعمال گرن مضر آسہ ٹھہدہ خیطرہ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا آسو مسافرہ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ یا بیہ توہہ اندرہ کاژشاہ بیت الخلا نشہ فارغ سپدنہ، فضلات دفع کترتھہ۔ أَوْلَسْتُمْ النِّسَاءَ یا سپدوہٹھہ نزدیک زمانن نشہ سمیہ سیت غسل چھوہہ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً کس لبونہ بہہ آب سمیہ سیت غسل یا طہارت کتر ہو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کس قصدتہ ارادہ کتر وٹھہ پاک میوہ ہند فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ کس اکھ ژنڈنڈنہ پتہ دیو پھش ٹھہن پنہ نین وَالْيَدَيْكُمْ دویم ژنڈنڈتھہ دیو پھش نرین پنہ نین اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

صَعِيدًا طَيِّبًا فَاْمَسْحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
 عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۳۳﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكُتُبِ
 يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿۳۴﴾ وَاللّٰهُ
 اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۳۵﴾
 مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَيَحْرِفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا وَ
 يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرُ مَسْمَعٍ وَّرَاعِنَا

پڑھا اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ عفو کرہ ون سیٹھاہ مغفرت کرہ ون۔ پس پروردگار سُنْدِ شَانِ یہ چھو، سو چھو
 بدن پٹھہ سہل احکام نازل کران پس شخص نشہ آب دُور آسہ اگس میلس تَس چھہ تمم کر تک
 اجازت۔ اَدہ سُو مسافر آستن یا مُقیم آستن شرعی میل گوڈور ساس اتھ یعنی زہ ساس گز اَلَمْ تَرَ اِلَى
 الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكُتُبِ آیا وچھان چھوہ نامن لوکن گن تمن کتابہ منزہ یعنی تور اجمہ علمہ منزہ
 اکھ حصہ آودنہ یعنی یہ چھہ بنظر تعجب وچھسن لائق اکھ کتھاہ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ مثل چھہ ہیوان تم
 گراہی یعنی کُفر چھہ اختیار کران وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ پانہ آس تم ڈلستی مگر تم چھہ
 یرشھان تھہ تہ گدھو گراہ سپد تھہ سیزہ وتہ نشہ ڈلن۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ بیہ چھو اللہ تعالیٰ آس پور
 معلوم تھندین دُشمن ہند۔ یعنی تھند دُشمن کم چھہ توے چھو سُو توبہ آگاہ کران وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا کافی
 چھو اللہ تعالیٰ تھند دوست تہ رفیق وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا اللہ تعالیٰ چھو کافی تھند مددگار مِّنَ الَّذِيْنَ
 هَادُوْا وَيَحْرِفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا تمن ہنز ذکر کر نہ آہ تم چھہ یہود و منزہ۔ تم تغیر دوان
 چھہ توراتہ کین معاملاتن۔ ڈالان چھہ تمن کلماتن پنہ نیو حالو نشہ۔ معنیو تہ مطلبو نشہ وَيَقُوْلُوْنَ
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرُ مَسْمَعٍ وَّرَاعِنَا بیہ چھہ ونان بوزاسہ کتو سیت مگر مون نہ آسہ کہنہ۔
 بوزتھہ بوزانومہ ایوبیہ کمر و سون رعایت لیکاً اَلْاَسْتِثْمُ تہ چیز چھہ ونان زیو پن گول مول
 کتر تھہ۔ لہجہ بد لاوتھہ۔ لہجہ تحقیرہ بدل لہجہ توقیر کتر تھہ یٹھنہ لوکن فخرہ ترہ و طعناتی الدین بیہ دین

لَيَّا بِالْأَسْنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ط وَ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا
 وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَ
 لَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۳۷﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَتُوا الْكُتُبَ آمِنُوا بَمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا
 مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَنْطِقَ وَجُوهًا فَزُدَّهَا عَلَى آذَانِهَا

اسلامس طعنه زنی کمر تھے۔ سم الفاظ آس سم یہود استعمال کران یمن زہ زہ معنی چھہ۔ آکھ معنی
 تعریفک۔ بیاکھ معنی مذمتک مسلمان ڈھوکہ دنہ خیطرہ۔ مسلمان آس تعریفک معنی مراد یوزان۔ مگر
 سم آس پنہ جلیہ مذمتک معنی نوان۔ لفظ راعنا ہجور عالیہ اندرہ تہ رعونتہ اندرہ تہ۔ صحابہ صیب آس
 رعایتک معنی یوزان۔ مگر سم یہود آس پنہ جلیہ رعوتک معنی یوزان۔ بیاکھ معنی چھو آتھہ ”پہل“ سہ۔
 تمہہ خیطرہ آس تم سچ زیر ز شہرات پران راعینا یعنی ای سانس پہلہ۔ گبہ راجھہ۔ امی سیت آس طعنے
 دووان۔ نبی کر سم صلی اللہ علیہ وسلم گبہ راجھہ وان۔ بیہ آس دین اسلامس تہ طعنے دووان کہ یہ چھو
 آس گبہ راجھہ سہ دین۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان **وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** ہر گاہ سم دنہ یمن یوز
 آسہ بیہ مون آسہ **وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا** بوزوحص سون۔ سانس حاس کن کمر و نظر لکان خیرًا لہم
 البتہ تی اوس جہنہہ خیطرہ بہتر **وَأَقْوَمَ** بیہ اوس بی مناسب **وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ** مگر
 اللہ تعالیٰ ان کر سم پنہ رحمتہ نغیر بہندہ حق تہ پوز پوشیدہ تھا ونہ سببہ دور **فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا** پس
 ان نہ ایمان سم مگر کمی کہہ نہ لو کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَتُوا الْكُتُبَ** ای تمولو کو تم کتاب دنہ آسہ **آمِنُوا**
بِمَا نَزَّلْنَا ایمان آو پڑھ کمر و تمہہ کتابہ یوسہ آسہ نازل کمر **مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ** یوسہ کتاب
 تصدیق کران چھہ تمہہ کتابہ یوسہ توہہ سبت چھہ یعنی تورات **مِنْ قَبْلِ أَنْ نَنْطِقَ وَجُوهًا** سو وقت
 واسنہ بروٹھہ کہ آس کیا دموتغیر ٹہنزن سکلن نس آجھہ تہ نمبہ تھا و کھ نہ کنتہ تہ **فَزُدَّهَا عَلَى آذَانِهَا**
 پس بنا و کہ آس چھہ تہند تھر ہی **أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ** نتہ کرو کہ تڑھی لعنت پڑھہ بیہ

أَوْلَعْنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۷﴾
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
 يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۳۸﴾
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ
 يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿۳۹﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى
 اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿۴۰﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

وارہ والین لوکن کر تمن کمر اسہ واندرن ہنزہ خنزیرن ہنزہش شکل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا خدایہ
 سُنْدُئِمْ حَمُّ صَادِرِ سِدَانِ سُوْهُوْ ضَرُوْرٍ پورہ سپدان إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ پزپاٹ اللہ
 تعالیٰ چھو نہ سزا دتھہ تہ مغفرت کران شرکس۔ تَسْ كِيَاهِ طَهْرَاوَه كَانَه شَرِيك۔ بلکہ چھو مُشْرِكِ دَانِي
 سزاس اندر بُتلاء تھادان وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ تمہہ وراي چھو مغفرت کران سارنی گنہن
 لو کٹن تہ بدین تہ۔ سزاد نہ وراي سَمَن بَرَهہہ تہ تمن۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا
 ئِمْ اَكْهَاه شَرِيك طَهْرَاوَه خَدَائِمْ۔ بَسْ تَهْتِيْق نُووْرَاوَه تَمْ كِنَاه سِيْطَاه بَد۔ یعنی سُوْ سِدْ بَدْ جُرْمُك مُرْتَكِب
 ئِمْ نَه قَابِلِ مَغْفِرَتَهِي چھو۔ تُو تَانِ يُو تَانِ نَه شَرِك نَعِيْجَه پتھہ روزہ تہ توبہ کرہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ
 أَنفُسَهُمْ آيَا وَجْهَانِ چھو کھناژہ تمن لوکن گن تم پَن پَانِ مَقْدَس تہ پَاك زَانَانِ چھہ۔ يَم پَانِ پَانِمْ
 تَعْرِيفِ كِرَانِ چھہ۔ تَمَّه سِيْتِ اِنْدِيْجَه نَه كَهْنَه بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ بَلْ كَه چھو قَابِلِ تَعْرِيفِ سُوِي
 ئِمْ خَدَا پَاك كَرَه تہ مَقْدَسِ وَتہ۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ظَلْمِمْ نَه كَرْنَه كَانَسَه اَكْسِ تَمَّه پَنه پِيْتِئِمْ بَرَابِر
 تہ ئِمْ خَضْرِ آنْجَه هِدَسِ سَرَسِ مَنْزِ آسَانِ چھو أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَجْهہ كَهہ
 پَاهَهہ چھہ تم نُووْرَاوَانِ كُنْشِ خَدَائِمْ پِيْطَهہ اَبْر۔ پَن پَانِ مَقْدَس تہ پَاك زَانَه، سِيْت۔ باو جُوْ كُفْرِ وَشَرِكِ
 چھہ تم پَن پَانِ مَقْبُوْلِ زَانَان۔ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا يَكِي كَهہ چھہ كَانِي نِيْئِمْ كَنْهَسِ مُبْتَلَا آسَه
 خِيْطَرَه۔ اَتَه گن نَظْرِ كَرْتَهہ ئِمْ عَذَابِ سَمَن كَرْنَه يَمَّه سُوْ چھو نہ يَهْدَه جُرْمَه كَهو تہ كَهْنَه تہ زِيَادَه۔ أَلَمْ

أَوْ تَوَانِصِيًّا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
 وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ
 آمَنُوا سَبِيلًا ۝۵۱ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ
 اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝۵۲ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ
 فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝۵۳ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ
 عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ
 إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝۵۴

تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ آیاد بھجان پھکھناژہ اے مخاطب تم لو کن کن تم ن کتابہ ہند یعنی تورا تک کہ حصہ عطا کر نہ آمت بھجو۔ مگر باوجود آل چھ تم یؤمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ پڑھ کر ان قریش ہندین پوتیلن بے شیطانس و یَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وناں چھ تم کافر ن خوش کر نہ خیطرہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا کہ کافر چھ زیادہ سیزہ وتہ پیٹھہ بالیمان ہندہ خوتہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ سبے لو کہ کیاہ گے تم تم ن اللہ تعالیٰ ان لعنت کر سم پنیہ رحمتہ نشہ دور کرن وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا بس اگس اللہ تعالیٰ لعنت کرہ بس لہ نہ نہ ژہ تمسندہ خیطرہ کانہہ مدد گارہ عذابہ وقتہ۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ کہ تم چھ کتہہ قسمہ پادشاہت فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا تلہ تہ دہن نہ سم لو کن کہہ رتھہ تہ نقیر چھ وناں خضرہ آنچہ پیٹھ بس زاویل دیل چھ آسان أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بلکہ چھو تم ن یہود ن حسد لو کن ہند بالخصوص نبی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم بتھہ کتھہ پیٹھہ کہ تم ن گور اللہ تعالیٰ ان عطا پئ ن یوڈ فضل نبوت تہ رسالت بے متعدد ازواج طاہرات فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا بس یہ نوکانہ کتھہ چھہ۔ تحقیق اسہ کرنا عطا حضرت

فِيهِمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ
 سَعِيرًا ۝۵۵ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلِمًا
 نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِهَا لَنَّهُمْ جُلُودٌ آخَرُهَا لَيْدٌ وَقُوَّ الْعَذَابِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۵۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
 لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلْلٌ ۝۵۷ إِنَّ اللَّهَ

ابراہیمہ سندس خاندانس کتاب تہ حکمت۔ بیہ کثر اسمہ تمن بڈا شاہت عطا۔ تمن اندراوس حضرت
 یوسف تہ حضرت سلیمان تمن بڈ سلطنت آس بیہ حضرت داؤد یمن بے شمار نکاح آس فَمِنْهُمْ مَنْ
 آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ پس تموتہ وقتہ کیو یهودا اندرہ آس اڈیو تمن پیغمبرن پڑھہ کثر بیہ
 آس اڈیم کفر و انکار سی پیٹھہ رُود۔ تمن نشہ پھر کھہ بٹھہ۔ ہر گاہ وون از کہ وقتہ یهود تہ توہ پڑھہ کرن نہ
 یار رسول اللہ تہ مہ حض سپدو آرزوہ۔ بیہ بہنز نو کتھاہ جھنہ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا کافی چھو جھنم تہ ہندہ
 زانہ خیطرہ تمن سزادنہ خیطرہ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا پڑپاٹھہ سمو لوگو انکار
 کور سائین آیاتن تہ آکا من جلدی و اتا نو کہ اس تم نارس اندر کَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِهَا لَنَّهُمْ
 جُلُودٌ آخَرُهَا لَيْدٌ وَقُوَّ الْعَذَابِ یلہ یلہ بز نہ اسمہ یوان تہ دز تھہ اسمہ بیوان تھنز تہم۔ فوراً آسو کہ تھہ
 تہمہ بدل بیا کہ تہم پیدہ کران تھہ وارہ آسن عذابک مزہ تہان إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا پڑپاٹھہ
 اللہ تعالیٰ چھو غالب حکمتہ وول وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سمو لوگو پڑھہ گر کنس خدا نس بیہ
 تھندس پیغمبرس بیہ کریکھہ رتھہ عملہ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جلدی و اتا نو کہ آس
 تم تمن جشن اندر۔ سمو منز جو یہ پکان آسن خلدین فیہا ابدًا تمنی جشن اندر روزن تم ہمیشہ لہم فیہا
 اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ تھندی خیطرہ آسن تمن جشن اندر پاک و پاکیزہ زنانہ وَهُمْ فِيهَا ظِلْلٌ ۝۵۷ بیہ و اتا نو کہ
 آس تم زتھس سائس تل إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا پڑپاٹھہ ای با ایمانو اللہ

يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ

تعالیٰ چھو توبہ امر کران سمعوی کہ امانت و اتاود تمکس حدقارس وَإِذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
 تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بیه چھو حکم کران اللہ تعالیٰ کہ یلہ تہہ لوگن منز فیصلہ کرن ہیوان آسو، سو فیصلہ آس
 زیوہ عدلہ موجب کانسہ آسبز طرفداری و رای کران إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ پزپاٹ اللہ تعالیٰ سمہ
 کتہہ ہنز توبہ فمابش تہ نصحت چھو کران کیاہ رکتھاہ چھہ سو إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا پزپاٹ
 اللہ تعالیٰ چھو تہ سو روی بو زون یہ تہہ امانس متعلق ونان چھوہ تہ سو روی و چھہ ون یہ تہہ امانس کران
 چھوہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اے باایمانو! حکم خدایہ سُنْد بیه پیغمبر خدایہ
 سُنْد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بیه تم توبہ منز یعنی مسلمان تہندہ حاکم آسن تمن ہند احکام تہ ملو فَإِنْ
 تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ لیس اگر اختلاف سپدہ توبہ کتہہ امرس منز کتہہ یہ چھا خداو پیغمبر خدایہ سُنْد حکم کتہہ چھو
 نہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لیس نیون سو معاملہ خدائیس تہ پیغمبر خدائیس نشہ تہ پیغمبر خدا کران
 پائے تمیک فیصلہ یہ گو عہد رسالتس اندر -- تمن پتہ کرو پیش ائمہ مجتہدین تہ علماء دین سو معاملہ۔ تم
 کرن تمیوک فیصلہ قرآن و حدیث موجب إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ چھوے تہہ پڑھ
 کران خدائیس بیه پتمس دوہس یعنی قیاس ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یہ اختلافہ وقتہ رجوع کرن
 قرآن و حدیثس کن ای چھو بہتر بیه سیٹھاہ رت انجامہ کن۔ کیا زہ امیک نتیجہ چھو دنیاہ آس اندر آمن و
 راحت تہ آخرتس اندر نجات و سعادت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَمَا

أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ
 أَنْ يَتَّخِذُوا كَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا
 بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾
 وَإِذِ اقْبَلْ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
 رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا
 أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ تُمْرَجُوا وَك
 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَئِكَ

نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ وچھان چھوہ ناٹھہ یار رسول اللہ تمن لوکن کن تم زیوہ سیت دعویٰ چھہ کران پڑھہ
 کرنگ تھہ کتابہ یوسہ توہہ پیٹھہ نازل آہہ کرنہ ہیہ یہ توہہ بروٹھہ نازل آو کرنہ یعنی تورات یُرِيدُونَ
 أَنْ يَتَّخِذُوا كَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ باوجود آل چھہ تم ارادہ کران کہ فیصل بناؤن شیطانس وَقَدْ أُمِرُوا
 أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ حالانکہ تمن ابو حکم کرنہ شیطانس انکار کرنگ۔ تھند نہ کانہہ چیز مانہ تک وَيُرِيدُ
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کیا زہ شیطان چھوہ پڑھان تمن سینٹا ز چھہ گمر اہی منز بتلا کرن
 وَإِذِ اقْبَلْ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بیہ یلہ ونہ چھوہ یوان تمن ولور رجوع عکرو تھہ حکم کن نُس اللہ
 تعالیٰ ان نازل کور۔ وَإِلَى الرَّسُولِ بیہ کمر ورجوع پیغبر خدا نُس کن تم یہ فیصلہ کرن تی کمر و منظور
 رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وچھو کھہ تھہ یار رسول اللہ منافق تھہ ساتہ اعراض کران تہ
 نچھہ پھر ان توہہ بروٹھہ کن بینہ نشہہ عجیب طریقہ فکھفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ نُس کیاہ سنا حال ہیہ
 تھہ وقتہ یلہ تم کنہ مصیبتس گر فدا کرکھن بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ تھہ ناجاز حرکتہ کہ شامتہ یوسہ
 تمویہ مصیبت واتنہ بروٹھہ کر مرآس۔ یعنی مقدمک فیصلہ کرناویہ اس آمت اگس کافر س نشہہ۔
 تُمْرَجُوا وَك يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ تھہ پتہ من توہہ نش قسم ہوان إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا کہ اسہ اوس

الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظُهُمْ
 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿۱۴﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
 رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
 جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
 لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿۱۵﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
 حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
 حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۱۶﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا

نه اراده امه آندره مگر رتوی۔ بیه اوس آسه اراده دون منزهه موافقت سپدن اولیک الذین یعلم الله
 مَا فِي قُلُوبِهِمْ تم گے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی چھو زمانان جہندین وکن منزگمہ قسمک اتفاق تہ کفر چھو
 فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا نہیں کر وہ تہ تمن نشہ درگذر بیه کر یو کہ تمہ
 حر کثر تراویج نصیحت۔ بیه فرماویو کہ پندر جایہ موثر کلاما بیه حر کثر تراویس متعلق وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ
 إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ بیه سوزنہ آسہ کانہہ پیغمبر اہ مگر بی خیطر ہہ جہند حکم بیه مانہ خدایہ سہہ حکمہ
 سیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ بیه ساسہ سمونا فرمانی کر تھہ پنہ نین پانن ظلم کر یو و ہر گاہ
 توہہ نشہ آسہ ہن آمت نادوم تہ پشیمان گڑھتھہ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ بھن مغفرت خدا نہیں
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ بیه مگہ ہاہہ ہہہ خیطر ہ مغفرت پیغمبر بر حق تہ یعنی تہہ تہ مگہ ہو تہہہ خیطر ہ
 دعای مغفرت لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا البتہ لبہ ہن تم اللہ تعالیٰ اس توبہ قبول کرہ و ن تہ رحم
 کرہ و ن فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ پس قسم چھو جہندس پروردگارہ
 سندر گز جھنہ تم ہایمان یوتان نہ تھی اتھہ فیصلہ آسن کرہ ناوان پنہ نین تناز عن آندر ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ توبتہ آسن نہ گنہ قسمہ دل تنگ سپدان تہہہہ فیصلہ سیت وَيُسَلِّمُوا

عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا
فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ طَوَّلُوا لَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ
بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۶۷ وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ مِنَ
لَدُنَّا آجْرًا عَظِيمًا ۶۸ وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۶۹
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ۷۰ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ

تَسْلِيمًا بلکہ آس پورہ پاتھ سو فیصلہ مانان تہ تسلیم کران وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ بے ہر گاہ اس تمن کرم کہ مار یوکھ پان پن یا نیر و پنہ نیو شر و
آندرہ مآ فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ تھے کس کرہ بن نہ عمل مگر تمہ آندرہ کمی لوکھ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا
مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا بے ہر گاہ تم عمل کرہ بن تمن یکتھن پیٹھ سمہ نصیحو
تمن کر نہ چھہ یوان۔ البتہ سیٹھاہ جان اوس تھندہ خیطرہ۔ بے اوس زیادہ بہتر تھندہ ایما کھہ درہ رہ خیطرہ
وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ مِنَ لَدُنَّا آجْرًا عَظِيمًا بے گرہ ہو تھے صورتس اندر اس تمن پنہ طرفہ بڈمزور عطا۔
وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بے باوہ ہو تھے اس ضرور و تھاہ سیز جنس وان۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَالرَّسُولَ بے تم لوکھ کرم مان خدایہ سندیہ پیغمبر خدایہ سُنْد فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
بِس تھے لوکھ آس تھے جماعتس سیت یمن اللہ تعالیٰ ان بن انعام عطا اور مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ تم گے حضرات انبیاء بے صدیق، بے شہداء۔ بے، نیکوکار۔ وَحَسَنَ أُولَئِكَ
رَفِيقًا کیاہ رث چھہ تمن حضر اتن ہنز رفاقت ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ بے چھوہ خدایہ سندی فضل
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا بس چھو اللہ تعالیٰ ہی پور زان اول يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَدًّا وَاجِدْرًا ای

بِاللَّهِ عِلْمًا ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا
ثَبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ۝ وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ
أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ
شَهِيدًا ۝ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ
يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْتِيَنِّي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ
فَوْزًا عَظِيمًا ۝ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۝ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بايمانو چا و پڻ ڪرو تههيار۔ سلاح سامانه پڻ آسوپائس سيت تلان کانفروا ثبات اوفروا جبعيا
اوه آستونيران جماثو جماثويا آستونيران اڪه وڌه گئي جماعت وان منكم لمن لبيبطنن بيه بهه
پڙاهه توبه منزه بعضي تم ضرور جهاده خيتره نيرئس منزستي ڪران جهه۔ پتهه روزان جهه فان
اصابتكم مصيبه تويته هر گاه توبه جهادس منزكهنه تڪليف واتان جهو قال قد انعم الله على اذكم
اكن معهم شهيدا ونان جهوسو شخص تمه ساته پيشك خداين ڪرميه پيٽه مهرباني ڪه به اوس نه جهاد
ڪرنه درامت تمن سيت ولين اصابتكم فضل من الله ليقولنن تويته هر گاه تمه ڪانه فضلاه ته مهربانياه
خدايه سنده طرفه واتان جهو يعني فتح ته غنيمت تمه ساته جهو ونان كان لهن بينكم وبينه
مودة زن نه توبه سيت ڪمبي تعلق جهس محبڪ مال آتهه گو هئس پيٽه افسوس ڪر تهه ياتيني كنت
معهم فافوز فوزا عظيما ڪاش ڪه به ته آسما تمنى سيت۔ ميه ته سپهه هابڙ ڪاميابي حاصل۔ الله
تعالى جهوس فرمادان۔ بڙ ڪاميابي حاصل ڪرڻ ليله خواهش ڪانهه آسه فل يقاتل في سبيل الله الذين
يشرون الحيوه الدنيا بالآخرة سو ڪرن تله جهاد خدايه سنزه و ته اندر۔ ڪلمه اسلامه تهره خيتره۔
نمايت ايماندارى ته اخلاصه سان، نفاق تراوتهه۔ تمن ڪافرن سيت تم دنيا چ زنگي جهه مثل هيوان

فَيَقْتُلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۴۳﴾ وَمَا لَكُمْ
لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿۴۴﴾ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿۴۵﴾
الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

آخر تس بدل وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نِس اکھاہ
جماد کرہ خدایہ سزہ وتہ اندر نِس بیہ مارنہ یاسپدہ سوی غالب۔ دوشون حالتن اندر گروا س تس عطا
بدمزور آخر تس اندر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ کیاہ عذر چھو توہہ کہ تہہ چھوہ نہ جماد
کران خدایہ سزہ وتہ اندر۔ حالانکہ جماد کر تک سبب چھو موجود۔ سوگو گوونی پروردگار سہدہ کلمہ کہہ
تہزہرہ خیطرہ تمہ علاوہ چھو بیا کہ وجہ کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا کمزور با ایمان ہندہ حفاظت خیطرہ تہ چھو
جماد کرن ضروری۔ تمہہ تم کافرن ہندہ ظلمہ تہ ستمہ نشہ آزاد سپدن۔ ستمن منزکیہ نہہ مر دچھہ، کینہہ
زنانہ چھہ تہ کینہہ لوکت چھہ۔ ستم کافرن ہندیو ظلمو سببہ پریشان سپدن دُعا کران چھہ۔ بعا جزی منگان چھہ
ای سائہ پروردگار اسہ کڈتہ ستمہ شہرہ اندرہ نمبر۔ ستمک لو کہ سخت ظالم چھہ۔ ستم اسہ رنگارنگ مضیبتن
گرفار کران چھہ۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا بیہ
تلتن تہ سانہ خیطرہ پنے طرفہ کانہہ دوستاہ۔ بیہ سوزتن تہ سانہ خیطرہ پنے طرفہ کانہہ مددگارہ نِس
اسہ ستمن ظالمن ہندہ ظلمہ نشہ موکلاوہا۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ستمو لو کو پورہ
اسمان اولن کیش خدائس تم چھہ ستم احکام بو زتہہ جماد کران خدایہ سزہ وتہ اندر محض تہندی رضا
خیطرہ۔ تہندہ گمہ کہہ تہزہرہ خیطرہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ستمو عفر تہ انکار

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ
 إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝۱۰۱ الْم تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ
 لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ
 عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ
 اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ
 لَأَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ

کو تم جہم جنگ کران شیطانہ سندہ خیطرہ یعنی کفر سے غلبہ خیطرہ فقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ جس جہاد کو
 تہہ ای با ایمانو شیطانہ سندہ یازن سیت یعنی کافران سیت۔ یقین تھا و کہہ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ
 ضَعِيفًا بز پانہ شیطانہ سندہ چالہ ہتھ گوڈہ بیٹھے سٹت تہ کمزور۔ الْم تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا
 أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ توہمہ و ہتھ دکھنا تم لو کہہ تمَن و نہ آید و جنگ مہ کمزور اتھہ بن
 رتو تمہ نعیہ ہتھ۔ سر دست تم حکم توہمہ کرنہ یوان ہتھہ تم پٹھہ کرو عمل۔ نماز پر و پابندی سان بیہ دیو
 زکوٰۃ۔ مگر تم آس بے تانی سان جہاد ک اجازت طلب کران فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ادہیلہ تمَن
 پٹھہ جہاد فرض کرنہ آو إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ تمہہ وقت نہ لکھ جماعت
 تمہوی اندرہ لو کن یعنی مکہ کین کافران تھوی کھوژنہ ہتھہ خدا جس شوہہ ہاکھوژن اَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً بلکہ
 تمہہ خوتہ زیادے وَقَالُوا وَنَبِيٌّ لَكِ وَلَا سِيْرَتَ لَنَا سِيْرَتِ رَبِّنَا لِمَ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ خدا یا سہ پٹھہ
 کیا زہ کوڑتھہ ژہ ون جہاد فرض لَوْ لَأَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ اسہ کونہ ڈرا ہتھہ ژہ مہلت کتہہ و قس
 تام قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ فرما و کہہ تہہ یار رسول اللہ دُنْيَا ک تمع ہتھو سیٹھہ
 کم۔ آخرت ہتھو سیٹھہ بہتر تم ہندہ خیطرہ ہم خدا یہ سندہ ہا فرمانی نیشہ ہتھہ روزن۔ سو آخرت حاصل
 کرنہ خیطرہ ہتھو بہترین ذریعہ جہاد۔ وَلَا تظلمونَ قَتِيلًا توہمہ ہر گز مٹھہ قسمک ظلم بیہ نہ کرنہ اگس
 پنہ داوہ برابر تہ۔ ایڈ عمل کرو و حیوت بیو ثواب عطا کرنہ۔ عملو اندرہ ہتھو جہاد کرن خدا یہ سندہ رضا خیطرہ

خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿۷۰﴾ اَيْنَ مَا تَكُونُوا
يُذَرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ
حَسَنَةٌ يُقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ
هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿۷۱﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ

بذکر عمل۔ اُمہ نشہ کیازہ پھو کھہ پان پان محروم کران۔ کیاہ نہہ چھوہ مؤس سے مرئس کھو ژان موتہ خیطرہ
نہس وقت مقرر کر نہ اُمّت چھو تمہ نشہ بہج نہ کانہہ تہ پختہ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُذَرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ
كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ تہ آسوتہ تہ تہ، ضرور ولتہ توبہ موت اگرچہ آستوتہ چونہ مرئی سیت
مضبوط تہ حکم کر نہ آستین قلائن تہ مکان اُندر وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يُقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بے
ہر گاہ واتان چھہ ثمن منافقن نعمتہ۔ وان چھہ تمہ ساتہ تہ نعت واژاز طرف خدا، اتفاقاً تہ مسلمان ہند
طانت اوسنہ کنہی وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ بے یلہ واتان چھہ تمن کانہہ سخیلہ
ججس اُندر تمہ ساتہ چھہ دپان تہ واژا نہ تہندہ طرف۔ تہندہ بے تدبیری سیت۔ گرن منز آس آرامہ
سان خواخواہ کڈوہ گزواندرہ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تہہ فرماؤ کھہ میون چھو نہ اتھ اندر کنہی دخل۔
سو زوی چھو خدایہ سدی طرفہ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا نہس کیاہ گو تمکن
منافقن تمکن چھنہ اکھ کتھ تہ تران فجرہ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ حقیقت چھہ ہی کہ اے
انسان یہ کیہزہاہ واتان چھوے ژ یہ رُت رُت سو چھو خدایہ سبہ طرفہ سوی چھوے عطا کران پنہ
فصلہ سیت وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ بے یہ کیہزہاہ واتان چھوی ژ یہ خراب تہ چھہ تہ
چھوی پنہ نی طرفہ کیاہ سبب تمیوک چھو چاہہ چھہ عملہ تہ نافرمانی وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اَسہ
حض سوزوہ تہہ واقعی لو کن گن پیغمبر برحق۔ منافق تہ کافر متہ ماتن وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا نہس چھو

لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۹۰ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ
 فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝
 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَأُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ
 مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۗ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ
 عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۹۱ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
 الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

گواہ آہے کہہ ہند اللہ تعالیٰ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ جس اکھاہ حکم مانہ پیغمبر برحقہ سہد تہی
 مون حکم خدا لہ سہد۔ ہم نافرمانی کمر ہمز تم کر نافرمانی اللہ تعالیٰ سزہ۔ ہتھہ پاٹھہ اللہ تعالیٰ سزہ اطاعت
 کمر ن عقلاً تہ واجب ہتھہ ہتھہ پاٹھہ ہتھہ رسول کریمہ سزہ اطاعت کرن تہ عقلاً واجب۔ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا
 أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا یہ جس اکھاہ ہتھہ ہتھہ تہ اعراض گرہ کمر ن۔ ہتھہ مہ حض کھو تہیک غم۔ جس
 سوزہ نہ آہہ ہتھہ ہتھہ ہتھہ ہتھہ ہتھہ ہتھہ مہ دیو تہن ہر گز کفر کرنہ۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ یہ ہتھہ تم
 منافق ونان توہہ برو تھہ کنہ سان کام ہتھہ حکم مان۔ فرمانبر داری کرن فَاذَا بَرَأُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ
 طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ جس یلہ نیران ہتھہ توہہ نشہ رات کتت ہتھہ اکھ جماعت تہمو آندہ
 یعنی تہند زہہ تہندس فرماوس بدل کرہ نگ مشورہ کران وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللہ تعالیٰ ہتھو
 لیکن تہ سوزوی یہ تم راجکتت توہہ خلاف سازشہ کران ہتھہ موقعس پٹھہ دیکھہ سو خوب سزہ۔
 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ جس مہ کرو تہنز ن بے ہود گین گن کانہ خیال تہ التفات وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ہتھہ ہتھہ او
 یہ معاملہ خدا جس جس پٹھہ کردہہ اعتماد وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا جس ہتھو اللہ تعالیٰ تہند وکیل تہ کار ساز
 أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا زہہ ہتھہ ہم منافق تامل تہ غور کران قرآن مجیدس اندر، اچ نفاحت و
 بلاغت و چھان۔ کوتاہ ہتھہ درجہ ہتھو یہ فصیح و بلیغ۔ آتھہ منز ہتھہ تمہ خبرہ میہ چیز چ دلالت ہتھہ کران
 کہ ہتھو بیشک کلام خدا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا کثیرا ہر گاہ ہے یہ قرآن

كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
 وَلَوْ رُدُّوهَا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
 يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمْ
 الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا
 نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الدِّينِ

مجید آسہا خدا کیس و رای یہ کہانہ ہندہ طرفہ ضرور لہ ہن تم تلمہ تھہ منز واریاہ اختلاف باعتبار فصاحت و بلاغت تہ تہ پوشیدہ حالات بیان کرنکہ اعتبارہ تہ وَاِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ یہ بلکہ و اتان چھہ تم نلش کہانہ خبراہ ارج یا خوچ سنو خیر چھہ تم شائع کران تھقیقہ و رای۔ تھہ منز چھہ نیران واریاہ خبرہ بے بیاد تہ بے اصل وَاِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ہر گاہ بے سو معاملہ تم پیش کرہ ہن پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم نلشہ یا تم لوکن نلشہ تم تمواندرہ معاملہ شناس آس یعنی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ البتہ زانہ ہن تم لوکھہ تم پورہ تحقیقات کرہ و ن چھہ تمواندرہ ارج حقیقت کیاہ چھہ تو پتہ یوسہ کتھہ تم مشہور کرہ نس لایق زانہ ہن سنوا یہ ہا مشہور کرنہ۔ یوسہ کتھہ نہ تھہ لایق آسہا سو یہ ہا تھو ظ تھاونہ وَاِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ہر گاہ نے خدایہ سندیہ خاص فضل تہ رحمت توہمہ پیٹھہ آسہا کہ توہمہ کورنورہ قرآن مجید عطا۔ توہمہ گن سوزن ہن پیغمبر برحق تہ کرہ ہو تھہ ساری کم کینوہ و شخصو و رای شیطانہ سنز متابعت فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس ای پیغمبر تھہ کمر و جہاد خدایہ سنزہ و تہ اندر۔ امیک مہ بھر و پروا لوکھہ نیرنہ توہمہ سیت جہادس کننہہ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ توہمہ چھونہ مگر پنہ لی کامہ ہنزہ ذمہ داری ہند تکلیف نہ یوان۔ لوکن ہنزہ کامہ ہنزہ چھہ توہمہ پیٹھہ کہانہ تہ ذمہ داری وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ تھہ دیو صرف ترغیب با ایمان جہاد کرنگ تو پتہ نیرتن جہاد کرنہ خیطرہ کہانہ یا مہ نیرتن تھہ سپدہ وہ خدا کیس نلشہ بری الذمہ۔ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الدِّينِ كَفَرُوا شاید کہ اللہ تعالیٰ رطہ چھہ کافران ہند قوت،

كُفِرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿۸۴﴾ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً
 حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ
 لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا ﴿۸۵﴾ وَإِذْ أَحْبَبْتُمْ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ فَحَبَّوْا بِأَحْسَنِ مِمَّا أَوْرَدُوا بِهَا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿۸۶﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ لِأَرْيَبَ فِيهِ ط وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۚ ﴿۸۷﴾

طاقت تہ زور و اللہ اشد باسا کبازہ اللہ تعالیٰ چھو زیادہ سخت زورہ کن تہ طاقتہ کن و اشد تنکیلا بیہ
 چھو زیادہ سخت عذاب کرنہ کن تا فرماں مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا نَسِ الْكَاهِ
 بیس شخص سفارش تہ مدد کرہ ہنر رتہ کامہ اندر تس آسہ تمک رت حصہ آخر تس اندر وَمَنْ يَشْفَعُ
 شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا بیہ نَسِ الْكَاهِ سفارش تہ مدد کرہ بیس شخص عنہ بیچہ کامہ اندر تس تہ
 آسہ تمکہ سزا ک آھ حصہ آخر تس اندر وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا اللہ چھو پر ہتھہ چیزس پٹھہ
 طاقتہ وول۔ سو چھو پتہ قدر تہ سیت نیکی پٹھہ ثواب عطا کران تہ بدی پٹھہ سزا ووان۔ وَإِذْ أَحْبَبْتُمْ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ فَحَبَّوْا بِأَحْسَنِ مِمَّا أَوْرَدُوا بِهَا بیہ یلہ آسہ توبہ ای مسلمانو تعظیم تہ سلام یوان کرنہ نَسِ الْكَاهِ
 تہہ تمیک جواب ووان تمہ خوتہ رتہ طریقہ۔ تہ نئے توتہ تھہ ہیو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا
 بے شک اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھہ چیزس پٹھہ باز خواست کرہ و ن تہ حساب ہیو و ن اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 معبود برحق گوسوی کہ کانہہ معبوداہ چھونہ نَسِ الْكَاهِ کی جمعہمکم الی یوم القیامۃ ضرور سونبر اوہ سو
 توبہ سارنی قیامتگ دہہ لَرَيَبَ فِيهِ کانہہ شکاہ چھونہ تمہ کس واقعہ سپد نَسِ الْكَاهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ
 اللَّهِ حَدِيثًا بیہ کہہ آکھاہ چھو خدایہ سدہ خوتہ زیادہ پزیر کلام فرمائس اندر۔ مکہ کیو مشر گو اندرہ آکھ
 جماعتھاہ آیہ مدینہ متورہ جموی کور ظاہر کہہ آس آی مسلمان سپد تہ ہجرت کرت۔ تو پتہ گئے بیہ
 وائس جیلہ کوز کہ آس انو تورہ مال تجارت تو پتہ آی نہ وائس کینہہ تہ تہ سپد مر تہ۔ تمن معلق سپزہ

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِتْنِينَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا
 أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ
 فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝ وَذُؤَالُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا
 فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
 وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا ۝ إِلَّا

مسلمانان زہ جمائے۔ آڈیو روپ تم چھہ کافر آڈیو روپ نہ تم چھہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تم چھہ
 واقعی کافر ای مسلمانو چھہ کیا زہ چھوہ اختلاف کران اتھہ منز **فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِتْنِينَ** ای
 مسلمانو کس کیاہ سپدوہ توہہ۔ منافقن ہندس معاملس منز کیا زہ گیہ توہہ اندر زہ جمائے۔ اکہ جماعت چھہ
 دپان تم چھہ کافر۔ بیا کہ جماعت چھہ دپان تم چھہ مسلمان مشتق سپدو چھہ کافر آس پیٹھہ۔ **وَاللَّهُ
 أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا** اللہ تعالیٰ ان پھر تم واپس گھر س گن۔ پنہ نیو چھہ عملو سببہ **أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا
 مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ** کیاہ چھہ چھوہ یرھان و تھہ ہاون تمن سمن و تھہ راوہ راوہ اللہ تعالیٰ ان **وَمَنْ يُضِلِّ
 اللَّهُ** فلن یجد لہ سبیل کس و تھہ راوہ راوہ اللہ تعالیٰ تسدہ خیطرہ لبوہ نہ چھہ کانہہ و تھہ با ایمان بندہ
وَذُؤَالُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا تم کیاہ آسن مومن بلکہ چھہ تھندہ دلچ خواہش کہ ہر گاہ چھہ تہ
 ہو کافر تھہ پاتھہ تم کافر چھہ **فَتَكُونُونَ سَوَاءً** کس بندہ ہو چھہ ساری معاذ اللہ برابر گھر س اندر وون
 یلہ چھہ خیال توہہ نسبت یہ چھو **فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ** پس مہ بناویون تمن اندرہ کانہہ پن
 دوست تیار **حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** یوتان نہ تم بیہ ہجرت کرن محض خدایہ سدہ رضا خیطرہ
وَأَنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ پس اگر تم اسلامہ نشہ اعراض کرن چھہ
 پھرن۔ گھر سی پیٹھہ بدستور روزن۔ تلہ ریو کہ تہ مار یو کہ تیس پنیہ تہ تیس **وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
 وِلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا** ہر گزمہ بناویون تمو اندرہ کانہہ اکھا نہ دوست تہ نہ مددگار۔ تمن نشہ روزو بالکل

الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ
جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا
قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ
اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْلَ الْيَكُومُ السَّلَامَ ۚ فَمَا
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝ سَتَجِدُونَ الْآخِرِينَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَادِلُوا بِأَيْمَانِكُمْ أَكْثَرًا مِمَّا

الک۔ اِلَّا الَّذِیْنَ یَصِلُونَ اِلَى قَوْمِ بَیْنِکُمْ وَبَیْنَهُمْ مَیثَاقٌ مگر منہ مارے کہ تم تم سم دشمنو غیر الگ
سید تھے الحاق کرن تھے قومس سیت سمن سیت توہم صلح معاہدہ گورمت آسہہ اَوْ جَاءُوكُمْ
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ یُقَاتِلُوْكُمْ اَوْ یُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ بیہ منہ مارے کہ تم ہر گاہ تم توہہ نش براہ
راست صلحہ خیرہ من تھے حالتس اندر کہ دل تہند آسن توہہ سیت لڑای کرنہ نش یا تہندہ طرفہ پنہ نس
قومس سیت لڑای کرنہ نش جو گرنہ آمت۔ یعنی تم آسن یشہان غیر جانبدار روزن۔ تمن سیت تہ منہ
کمر و جنگ۔ تہہ ماویہ خدیہ سند احسان کہ تہندین دلن اندر تراو اللہ تعالیٰ ان تہند ہیٹ۔ تم آی توہہ
نش صلحہ درخواست تہہ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْکُمْ ہر گاہ خدایہہ ہا تمن کرہ ہا توہہ بیٹھہ مسلط
فَلَقَاتِلُوْكُمْ تلہ کرہ ہن تم توہہ سیت مقابلہ تہ جنگ فَإِنْ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوْكُمْ وَالْقَوْلَ الْیَكُومُ
السَّلَامَ پس یلہ تم الگ روڈ توہہ سیت جنگ تہ لڑای کرنہ نش تہہ علاہہ سوزن کہ توہہ گن پیغام صلح
فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ عَلَیْہُمْ سَبِیْلًا پس اتھ صور تس اندر تھاونہ اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیرہ تمن
سیت خواخواہ جنگ کرنج کا نہہ و تھہ۔ یعنی اتھ صور تس، منز ہونہ توہہ اجازت تمن سیت جنگ
کرنک سَتَجِدُوْنَ الْآخِرِیْنَ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یُبَادِلُوْا بِاَیْمَانِکُمْ اَکْثَرًا مِمَّا جماعتھہ تم
یشہان چھہ توہہ نش تہہ آمنس منز روزن پنہ نس قومس نش تہہ آسن منز روزن کَمَا رَدُّوْا اِلَی الْفِتْنَةِ
اُرْکَسُوْا فِیْہَا مگر یلہ یلہ تمن کا نہہ نفس گن و اہس نوان چھو فور اچھہ تھہ کن تھہ منز پوان فَإِنْ لَمْ

الْفِتْنَةَ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ
السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَاخْذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١١﴾
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِن
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَ

يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ ہنس ہر گاہ تم توہمہ نش الگ روزن نہ پیغام
صلح سوزن نہ۔ آتھہ بن ہتھہ رثن نہ۔ فَاخْذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ تلمہ کر یو کہ تم گم گرفتار
بیہ مار یو کہ ہتس پیوہہ تہ تہس وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا تم امہ قسملہ لو کہ یہ ہندہ
خیطرہ وژ اسہ توہہ دلپلاہ صاف تہ روشن رٹس تہ قتل کر نس پیٹھہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا
إِلَّا خَطَاً بیہ چھونہ جائز کانسہ با ایمانس سو کیاہ مارہ کانسہ با ایمانس مگرے وشفہ پاٹھہ بغلطی کانسہ
مارہ تمیک حکم چھویہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ہنس اکھاہ کانسہ
با ایمانس بغلطی مارہ، قتل کرہ تسد گدھہ اکھ با ایمان غلام یا کنیز آزاد کرن۔ بیہ گدھہ خون بہادسن مشقولہ
سدین وارثن کن وراثتہ کہ حصہ موجب إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا مگرے تم مشقولہ سد وراثت معاف کرن
سوروی یا کانہ حصہ تمہ منزہ تلمہ نہ کینہہ فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہنس ہر گاہ مشقول
آسہ دشمن ہندہ قومہ منزہ مگر آسہ سو مشقول پانہ با ایمان فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ تلمہ چھو قاتلس پیٹھہ مہ
صرف با ایمان غلام آزاد کرن بیہ نہ کینہہ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ہر گاہ مشقول آسہ تمہ
قومگ سمن سیت توہہ عمد و بیان آسہ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ تلمہ چھو قاتلس

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۚ
 تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۹۲﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدِّلاً
 فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
 عَذَابًا عَظِيماً ﴿۹۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ
 عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّنْ

پیٹھے منہ اکھ ٹھون بہا دین مقتولہ سندین وارثن کن بیہ ایمان غلام آزاد کرن فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ دوں تہس نہ غلام آزاد کرن میسر سپدہ تمسند گروہہ دون۔ ریتن پے در پے روزہ
 دار روزن تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ یہ مٹھو اللہ تعالیٰ سدہ طرفہ تہمدہ حقہ توبہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ
 چھو سوزی زان وول بو ذحمتہ وول۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدِّلاً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا بیہ نُس اکھاہ قتل
 کرہ کانسہ با ایمانس دیدہ ودائستہ تمسند سزا چھونار جہنم۔ تھہ منز روزہ ہمیشہ ابد الآباد وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيماً بیہ چھو نُس پیٹھے غضب خدا، بیہ لعنت خدا، بیہ چھو تہمدہ خیطرہ تھاومت تم
 تیار بو ذعذاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ای با ایمانویلیہ تہہ سفر آسو کران خدایہ
 سنزہ و تہ اندر یعنی جہاد کرہ آسو نیران فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا پس
 تحقیق آسو کران بیہ مہ آسو تم ن تم توبہ اسلامی سلام کرن یا کلمہ شریف برن سمہ سیت تہمد
 مسلمان اُن ظاہر سپدہ زورہ و نان کہ تہہ چھوہ نہ دلہ گن مسلمان تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تہہ
 حاکس منز کہ تہہ آسو ژھانڈان دُنیا چہ زندگی ہند سامان مال غنیمت حاصل کرنہ سیت فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ
 کثیرہ ۖ کثیرہ ۖ پس اللہ تعالیٰ سی تھہ چھو پشمار مال سوی کونہ کمر و تہہ جائیز طریقہ حاصل نا جائیز طریقہ دُنیا ک
 مال حاصل کرن چھو نا جائیز کَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ تہمد حال تہ اوس تھوی یعنی اسلام تہ کلمہ ورا ی
 اوسنہ توبہ اسلامک کانہہ علامتھا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ تہمد تہم تہم اسلامک

قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۹۶﴾
 لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ
 الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۹۷﴾
 دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿۹۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي

توفیق دہ سیت فَبَيَّنُوا پس آسوجہ وارہ تحقیق کران کہ تمکن لوکن ہند حال کیاہ ہجو۔ تم چھاؤ شمن
 کنہ دوست۔ ہر ہمرہ گزھہ نہ کنہ قومس پیٹھ حملہ کرن۔ بیہ کمر و غور کہ ٹہز حالت تہ آس ابتداء س اندر
 ہدی ہی اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پڑیاہ اللہ تعالیٰ چھو پوزانان یہ جہہ کران چھوہ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ جھنہ برابر باایمانو اندرہ تم تمکنہ عذرہ دوراکی جمادس نیرنہ لغیرہ ہتھہ روزن۔
 وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ بیہ تم محض خدلیہ سندرہ خیطرہ مال وجانہ سیت جماد
 کرن۔ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً فضیلت دیت خداین مال و
 جانہ سیت جماد کرہ ونین، جمادہ لغیرہ ہتھہ روزہ ونین لغیرہ درجس تہ مرتبس منزر و كَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ
 اگرچہ دو شون چھو اللہ تعالیٰ اَن رتہ ثوابک وعدہ عطا کورمت ایمانہ سبہ و فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
 الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مگر فضیلت دیت خداین جماد کرہ ونین تمہ لغیرہ ہتھہ روزہ ونین پیٹھ جہہ مزدہ سیت
 دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً تم چھہ پروردگارہ سندرہ طرفہ درجات تم سوتمن عطا کرہہ بیہ
 گزرن تم عطا مغفرت تہ رحمت۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون
 سیتھاہ رحم کرہ ون إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ

أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ
 فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا
 فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۹۰﴾
 إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ
 لَاسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿۹۱﴾
 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ

ہر پانچویں ملے تم نے گمراہی میں، جہاد سے نیرہ و نین، سمجھو پان پانس ظلم کو ترک ہجرت کرنے سے قبض
 روح کرنے خیرہ ملائکہ یو ان چھ۔ تم چھ پر ژھان چہ تھہ حاس منر اسوہ قَالُوا كُنَّا
 مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ تم چھ جواب دوان اس اس کمزوری تہ بے ہسی ہمدس حانس اندر۔
 دشمن ہندہ خوفہ اس نہ ہیکان پنہ نین اسلامی عقایدن پیٹھہ عمل کثرت۔ ضروریات دین تہ شعایر
 اسلام بجائتھہ قَالُوا ملائکہ چھ دپان اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا کیاہ خدایہ
 سُنْد زین او سنا کھول۔ چہ ہیکہ ہونا بیہ کُنہ جایہ کُن ہجرت کثرتہ تہ پھورنہ امیک جواب۔ قَالُوا لَيْتَ
 مَا وَوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا پس تم کو کن ہنز جای چھہ جہنم۔ کاژاہ چھہ جایا چھہ سو تہندہ
 واتنہ خیرہ إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ مگر چھہ مُسْتَضْعِفِينَ امہ نشہ تم سم
 واقعی کمزورنہ ہیکہ ون آسن۔ مردو آندرہ زنا نو آندرہ تہ لو کثیرو شر یو آندرہ لَاسْتَطِيعُونَ حِيلَةً
 وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا تم نہ ہیکہ تہن عُنہ حیلہ سیت امہ شرہ آندرہ ثلث نہ ایہ ہاتمن کا نہہ و تھاہ
 ژانہ خیرہ و تہ نشہ بے خبری سببہ قَالُوا لَيْتَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ پس تم سم چھہ تہندہ
 چھہ چھہ امیدکہ اللہ تعالیٰ کرہ تم معاف وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھہ معاف
 کرہ ون سیٹھہ مغفرت کرہ ون وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَبًا
 كَثِيرًا وَسِعَةً بیہ پس اکھاہ ہجرت کرہ خدایہ سزہ و تہ آندر سولہ ز میس آندر واریاہ جای بسنہ

عَفْوًا غَفُورًا ۹) وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ
 فِي الْأَرْضِ مَرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ط وَمَنْ يَخْرُجْ
 مِنْ أَبِيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ
 الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا ۱۰) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۱۱) إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّ الْكُفْرَانَ كَانُوا كَالْمُدَّامِنِينَ ۱۲)

خاطر، وسیع جای گذاره معاشره خیرہ و مَنْ یَخْرُجْ مِنْ أَبِيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ
 ئس اکھاہ در او پندہ وطنہ منزہ ہجرت کر تھہ خدا ئس تہ ہندس رسولس کن تھہ یدرکۃ الموت تو
 پتہ یہ تھہ حاس منز مرگ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ بیگک تمسز مرور تہ ثواب سپد منہ
 خدا ئس وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون
 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ یہ یلہ تھہ تھہ
 سفرس نیران آسوا ی بالہ سمانوئس چھونہ کانہہ خرج توہہ ہر گاہ تھہ نمازہ ہندین رکعتیں کمی کثرو۔ ثورن
 رکعتن نمازہ بدلہ پیروزی رکعت۔ سوگنیہ پشن نماز، وگر نماز تہ حقن نماز۔ تمہواری سمہ نمازہ ثور و
 رکعتو خوتہ کم چھہ تمہہ گیمہ صبح نماز تہ شام نماز۔ تمہہ چھہ برابر پندہ نسی حاس پیٹھہ تھاوینہ۔ صبح زہ رکعت
 فرض۔ شام ترے رکعت فرض۔ سنت چھو اختیاری آؤ موقعہ ہرن آؤنہ موقعہ تراون۔ تمہہ چھونہ
 کانہہ باز خواست إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ہر گاہ توہہ خوف آسہ کافران تہ دشمن ہندہ
 پریشان کر ئک إِنْ الْكُفْرَانَ كَانُوا كَالْمُدَّامِنِينَ پزپاٹ کافر چھہ ہمیشہ ہندین دشمن وَإِذَا
 كُنْتُمْ فِيهِمْ ئس یلہ تھہ تھن منز تشریف تھاوان آسویا رسول اللہ یا توہہ پتہ ئس امام آسہ فوجک

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا وَإِذَا رُجِعَ إِلَيْهِمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَالدِّينَ كَفَرُوا وَالْوَتَّاعُونَ عَنِ اسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ توپے تہہ ارادہ کرو تم نمازہ پڑھنا تو تم نے فلتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ پس و تھن اٹھ جماعت تم پرین توہرہ سیت نماز و لِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ یہ رن تم سلاح پین پائس سیت فَاذَّاسَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ پس یلہ تم اٹھ رکعت پرن تم نیرن توہرہ پتھہ کن نگرانی تہ پیرہ ونہ خیطرہ و لَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اٹھ جلیہ کین دویم جماعت لَمْ يُصَلُّوا سمونہ ونہ نماز ادا کر فليُصَلُّوا مَعَكَ پس پرین تم نماز مسبوق بنت توہرہ سیت و لِيَأْخُذُوا وَإِذَا رُجِعَ إِلَيْهِمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ تم تہ رن پائس سیت پین سلاح سامانہ کیازہ نمازہ منزعے ماہیہ دشمن سیت مقابلہ کرن۔ وَالدِّينَ كَفَرُوا لَوَتَّعَفُونَ عَنِ اسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کیازہ کافرین ہنز خواہش پتھہ ہر گاہ تہہ سلاح سامانہ نشہ کنہ وقتہ بے خبر سپد ہو۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً تم کرہ ہن تمہہ ساتہ توہرہ پتھہ کئی حملہ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ یہ پتھونہ توہرہ کانہہ گناہ ہر گاہ توہرہ روڈک، بارشہ ہند کانہہ تکلیف آسہ یا آسوتہہ بیمار تمہہ ساتہ کیاہ مؤراو و تہہ سلاح و خُذُوا وَإِذَا رُجِعَ إِلَيْهِمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ پین بچاو کرن، دس خبر درار روزن إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِالْمُفْرِينَ عَذَابًا

وَحُذُوا وَاِحْذَرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۱۰۲﴾
 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا
 وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ
 الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿۱۰۳﴾ وَلَا
 تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْمُونًا فَإِنَّهُمْ
 يَأْمُونُونَ كَمَا تَأْمُونُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ

مُهِينًا یعنی پائیدار است خدا تعالیٰ آن چنانچه تیار تهور و متکبران را فرزند هنده خیره خوار به ذلیل کرده و ن عذاب قازا
 قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا کس یله چه نماز خوف موکلا و کس کمر و خدایه سندن
 یاد و تهنه تهنه بهست تهنه وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ بهی کر تراوت تهنه غرض پر تهنه حاس اندر روز و مشغول
 بذکر الهی۔ نمازه منز اوس تهنه مگر ذکر خدا چو پر تهنه حاس منز برابر فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ کس یله تهنه خوف دور سپد تهنه اطمینان حاصل سپده۔ یا سفر ختم سپد تهنه پنه نس شهر س منز و اتو
 تهنه مقیم سپد و کس تها و بر یا نماز قانده موجب۔ حسب معمول إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 كِتَابًا مَّوْقُوتًا کیازه یعنی نماز چهنه فرض تهنه با ایمان پیٹھه و قییمه پابندی سان۔ کس چهنه نماز
 فرض آسنه موکه ادا کرن لازم وقت مقرر کرنه آمر آسنه موکه پنه نس و نفس پیٹھه ادا کرن ضروری تهنه
 لازم وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ بهی منه آسو سستی تهنه کوتاهی کران دشمن پته لار نس اندر تهنه
 کس سببه إِنْ تَكُونُوا تَأْمُونًا فَإِنَّهُمْ يَأْمُونُونَ كَمَا تَأْمُونُونَ هر گاه تهنه دود تهنه دگ محسوس چهنه
 کران زخم تهنه چهنه گن هنده و جهه تهنه دشمن تهنه چهنه چهنه کن تهنه زخم هنزدگ محسوس کران تهنه پاهنه
 مگر تهنه کونه چهنه سستی تهنه کوتاهی کره هان حالانچه وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تهنه چهنه خدا بس نشه
 تهنه بدنه تو ابک امید وارتجنه تهنه کنه کانه بر انتهاه چهنه نه امه موکه گره هوه تهنه زیاده چست و چالاک آسن
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللّٰهُ تَعَالٰی چهنه سوزی زانده ون سیٹھا حمت و ول إِنْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۰۳ اِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۷ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۱۰۵
وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۰۶ وَلَا تَجَادِلْ
عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ۱۰۷ لَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا
يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى
مِنَ الْقَوْلِ ۷ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۱۰۸ هَٰئِنْتُمْ

بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۷ پز پائمه نازل کر اسہ تو بہر پیٹھ یہ کتاب قرآن مجید پوز حکم
یہتھ۔ نتیجہ تہہ فیصلہ کرو لو کن منزجی موجب یہ یہ تو بہر اللہ تعالیٰ ان بذریعہ وحی ہو و نہ یو و وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۱۰۵ بیہ مہ حض سپد و تہہ خیانت کرہ و نین ہد طرفدار ۷ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ بِیہ منلو
خدائس مغفرت ۷ اِنَّا اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۰۶ بیشک اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہ مغفرت کرہ و ن سیٹھہ رحم
کرہ و ن وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۱۰۷ تہہ مہ حض کرو جواب دہی تمن لو کن ہندہ
طرفہ تم خیانت چھہ کر ان، نقصان چھہ و اتنا وان پان پانس ۷ اِنَّا اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا
۱۰۷ پز پائٹ اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کر ان کس کس یو و خیانت کرہ و ن آسہ کس یو و خطا کار آسہ
يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ ۱۰۸ تم لو کہ چھہ یہ پن خیانت لو کن نشہ مندہ
چھتھہ کھان مگر خدائس نشہ چھہ مند چھان نہ کھان ۷ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ
حالیکہ سو چھو تمن پریتھہ وقتہ سیت سیت آسان خصوصاً اسمہ ساتہ رات کیوت تدبیر سو چھس متعلق تم
کتھہ کر ان چھہ تمن نہ سورا ضی چھو ۷ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۱۰۸ اللہ تعالیٰ چھو تہنن سارنی
کامین پنہ علم و اطلاع سیت احاطہ کر تھہ۔ تہندہ علمہ نیر چھہ نہ کانہ تھہ نہ کانہ کوماہ ۷ هَٰئِنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ

هَؤُلَاءِ جَادَ لَكُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ
 اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ سَيَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ۙ وَ
 مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظَلْمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ
 اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى
 نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً
 أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۙ
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ

عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ای مسلمانو جنہ گویہ تھے تم جو ابدی چھوہ کران مجر من ہندہ طرف یتہ دنیاچہ
 زندگی اندر فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جنہ وبتو قیامتک وہ جس کرہ جواب دہی جنہ
 طرفہ خدائس نشہ اَمْ مَنْ سَيَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا نتہ کس کوہ سناہہ وکیل جنہہ طرفہ خدائس نشہ وَمَنْ
 يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظَلْمْ نَفْسَهُ بیہ نئس اکھاہ کا نہہ پیچھہ کا ماہ کرہ۔ سمیک ضرر ہیئس ولتہ نتہ کرہ ظلم پان
 پانس۔ یعنی سمیک ضرر اس پانسی ولتہ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ توپتہ معہہ مغفرت اللہ تعالیٰ اس تمہہ گناہہ
 نشہ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا سولہ اللہ تعالیٰ اس سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون وَمَنْ
 يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ بیہ نئس اکھاہ کا نہہ پیچھہ کا ماہ چھوہ کما وان سو چھوہ کما وان کینہہ مگر
 پنہ نئس پانس پیٹھہ بڈ خرابی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھوہ سوروی زانہ ون سارنی کاین
 اندر سیٹھاہ حمتہ وول وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا وَن نئس اکھاہ کا نہہ گناہہ نہ
 زانتھہ یازانتھہ کرہ پانہ توپتہ لاکہ تج ہانژھہ کا نہہ بے گنہس فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا نئس تھتھق تم
 کھور پنتہ گردنہ پیٹھہ اپڑیک تہ نتہ گنہگ اکھ یوڈ بوراہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ بیہ ہر گز نہ
 خدا یہ سڈ یوڈ فضل تہ بڈر حمت توہہ شامل حال آسا لھمت طائفة منهم ان یصلوہ البتہ تمبو

أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۳۱﴾
 لِأَخَيْرٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَاقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۳۲﴾

آندره اک جماعتن کر یو محنته اراده توبه ڈالنه خيتره، غلطی اندر تراونه خيتره وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ڈالنه بن نه گراه کره بن نه تم مگر پنہ نے پان۔ تہہ ہیجہ نوہ نہ کانہ ضرر نہ نقصان و اتاوت پنہ نیو چالائیو اندره عنہ چیزہ سیت وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کیا زہ اللہ تعالیٰ ان سوز توبہ پیٹھہ یہ کتاب (قرآن مجید) بیہ پچھہ ناو نو تہہ عقلہ ہنزہ کتھ۔ بیہ پچھہ ناو نوہ تہہ تمہ تمہ کتھ سمہ نہ تہہ زانہو بروٹھہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ہمیشہ رُو توبہ پیٹھہ اللہ تعالیٰ سُد بوڈ فضل لِأَخَيْرٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ کانہ خیر و برکت پچھہ عام لوکن ہندین اکثر پوشیدہ مشورن اندر إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَاقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ مگرے کانہہ تمہو آندره خیرات کرنگ یائتہ رتہ کامہ ہندہ کرنگ یا لوکن اندر اتحاد و اتفاق کرنگ تجویز و ترغیب آسہ کورمت۔ تمن مشورن اندر پچھو واقعی خیر و برکت وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نِس اکھاہ امہ قسمی کامہ کرہ محض خدایہ سُد رضا تھاندنہ خيترہ۔ ریاست نہ شہرت حاصل کرنہ خيترہ نہ نِس کروا نِس برس تھہ پہن عطا۔ رتہ زور۔ مگر تمن خیانت کرہ و نین ہند پوشیدہ مشورہ امہ قسمک پچھہ کیا زہ تمہو کر مخالفت نبی کریمہ سنز۔ وَمَنْ يُثَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نِس اکھاہ مخالفت کرہ رسول کریمہ سنز ہدایت تھہ نِس نشہ وارہ ظاہر سپدن پتہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بیہ کرہ پیروی

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ
يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝۱۱۵ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۝ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۝۱۱۶ إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا

با ایمان ہنزہ و تہ و تہ و رای بیہ کنہ و تہ ہنزہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا پھر دن
سُوَاسِ تھہ طرفس کن ہتھہ کن سُو پھیور دُنیا س منز۔ یہ سُو کر نہ لوگ تی دموس کر نہ۔ وگ تراوس
ڈتج۔ مگر و اتا دون سُوَاسِ پتولا کہ نار جہنم۔ سیٹھاہ پتھہ پتھہ سو تہندہ و تچ جایاہ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ہنز پاپ اللہ تعالیٰ کر نہ ہنشاہش سزا تھہ تہ ہتھہ تھہ کہ تہس کیا یہ کا نہ چیز اہیا
کا نہ شخصہ تہند شریک ٹھہرون۔ بلکہ پتھو مثر کس ہمیشہ ابد الابد سزا س منز گر فقا روژن وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ تمہ و رای تم گناہ آسن تم کرہ مغفرت تہ ہنشاہش اللہ تعالیٰ سزا ونہ و رای
نہس یرھہ تہ تہس۔ گناہ صیغہ آسن یا گناہ کبیرہ۔ البتہ اگر مثر ک شر کہ نشہ پتھہ روزہ، پوز توبہ کرہ،
بصدق دل مسلمان سپہ، کنس خدا نہس پڑھ کرہ سولہ تہ عذاب دائمی نشہ نجات۔ مثر کس ہنشاہش نہ
سپہ نیک وجہ پتھو ای زہ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا نہس شخصہ اللہ تعالیٰ آس سیت
کا نہ شریک ٹھہروان پتھو۔ سُو پتھو امر حقہ نشہ دور جہ گمراہی اندر پیوان۔ سوامر حق گو توحید باری
تعالیٰ نہس عقلہ کن تہ واجب پتھو۔ تمہ علاوہ پتھو حضرت خالق مطلق سند یو حقو تواندرہ نہس تعظیم کرن
لازم۔ مثر ک پتھو پتہ شریک سیت حضرت خالق سزاہانت تہ بے تعظیمی کران۔ تمی پتھو نہس عذاب
دائمی سزا مقرر کر نہ آمت باقی گناہ تم پتھہ اگر چہ تم پتھہ گمراہی مگر توحیدس خلاف پتھہ تمہ موکھ آئی
تم قابل عفو و مغفرت قرار دنہ۔ شرک تہ گھر گو کئی نا قابل مغفرت آسن اندر کیا زہ گھر س اندر تہ
پتھو انکار خالق لب نہ یوان لہذا پتھہ دوشوے نا قابل مغفرت۔ سزاوار عذاب ابدی۔ تم مثر ک کا تیاہ

الشَّيْطَانِ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرْنَا مِثْقَالَ عِلْقَانِ

سیت میلانہ وین زنائن یتھہ گون مس بوزنہ پیہ یتھس، ڈیکس لیتھہ وال کڈوونین زنانن۔ ذندن پتھہ رواہ سیت یابہ گنہ چیزہ سیت خوبصورتی خیطرہ بخر اوہ وین زنانن۔ تے کیا گنہ خدلیہ سزہ پیدہ گرمہ شکلہ تغیر دیوہ وینہ زنانہ۔ یتھہ پاتھہ پتھو حدیث شریفس منز آمت زین الرجال باللحی وزین النساء بالذوائب مردن آوزینت دنہ ریشہ سیت۔ زنانن آوزینت دنہ متہ سیت۔ لہذا گو مردن ہند ریش کاسن یا کرہن یا زنانن ہند مس کاسن یا کرہن خدلیہ سزہ پیدہ گرمہ شکلہ تغیر دین۔ امکوئی تجویز پتھو انانس شیطان کران توے پتھو ریش کاسن گناہ کبیرہ اندرہ۔ تمہ علاوہ پتھہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس صریح کلمس، ریش کاسنہ سیت مخالفت سپدان۔ بخاری شریفس منز پتھو حدیث شریف کہ فرمود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہہ کسروای مسلمانو، باایمانو، مشرکن ہنز مخالفت، تہہ تھاووریش پور، گونزہ کسرواپست مشرک پتھہ گونزہ تھاوان تہ ریش کاسان۔ بیاکھ حدیث شریف پتھو صحیح مسلمس اندر کہ فرمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالفوا المحوسن والمشرکین مخالفت کسرو آتش پرستن ہنز پیہ مشرکن ہنز۔ مشرک آس ریش کاسان۔ مجوس آس ریش کرپان۔ یہ پتھو صریح فرمان پیغمبر اسلام ریش متعلق۔ اللہ تعالیٰ پتھو فرماون قرآن مجیدس اندر فلیحذرو الذین یخالفون عن امری ان یتصیبہم فتنۃ او یتصیبہم عذاب الیم کھوژن تم لوکھ تم پیغمبر برحقہ سندس کلمس مخالفت کرن کہ تم ورتہ دنیاوس اندر بدبلا یاہ آخرتس اندر کڈر عذاب۔ پیس آہ کر تمس اندر پتھو اللہ تعالیٰ فرماوان وماکان لیؤمنین ولا مؤمنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امرًا ان یتکون لہم النجیۃ من امرہم ومن یخص اللہ ورسولہ فقد ضلّ ضلالاً مبیناً کاسہ باایمان مردس یا باایمان زنانہ پتھونہ ہرگز ستمہ تھہ ہند اختیار کہ یلہ اللہ تعالیٰ پیہ تہند پیغمبر گنہ تھہ متعلق کاسنہ حکماہ فرماون تمں کیاہ روزہ کاسنہ گنجا پتھہ تھہ کلمس بدل کرچ لیس شخصہ خداورسولہ سندس کلمس بدل کرہ لیس تھتھیق سو پیونہ گراہی اندر۔ سمیک انجام پتھونار جہنم۔ کوتاہ افسوس تمں مسلمانن ہندہ حقہ تم رسول کریمہ سندہ محبتک تہ متابعک دعویٰ دوان چھہ توپتہ چھہ تہندس اتھہ صریح کلمس مخالفت کران۔ ریشہ کاسنہ سیت۔ تہند کلم لیس پشت تراوتھہ نظر انداز کر تھہ شیطانہ سندس کلمس تعمیل کران۔ تسزہ لاف زنی ہند تصدیق کران۔ امی پتھو شریعتک کلم کہ لیس ریش کاسہ یا کر پیہ سو پتھو فاسن۔ ومن یتخذ الشیطان ولیاً من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبیناً وون لیس اکھاہ شیطانس

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿۱۲۰﴾
 أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿۱۲۱﴾
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعَدَّ اللَّهُ
 حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿۱۲۲﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ
 وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِبْهُ

تھا وہ پُئن دوست سے رفیق خدائیس و رایی یعنی خدایہ سز اطاعت کرہ نہ، شیطانہ سزای اطاعت کرہ سو شخص پیویدس نقصانس اندر۔ سو بوڈ نقصان گونا گونا گونہس گرفارسیدن یَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ شیطان چھو تمین لوکن شرکی عقائدن متعلق اپز وعدہ کران۔ خیالاتن اندر ہوس تہ خواہشمہ پیدہ کران۔ گنہن تہ نافرمانین اندر مزہ تہ لذت آسک و سوسہ تراوان۔ آمدنی زیادہ سپد نلک طمع و تھہ حرام تجارت، ناجائز معاملاتن ہندمُر تکب سپدس پیٹھہ آمادہ کران وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا شیطان چھونہ تمن تم وعدہ ووان مگر محض دھوکہ تہ فریب اُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا اُمہ قسیمک لوکھ تم شیطانہ سزہ و تہ چکن جہنمین حکمن تقیل کرن تہنز جای چھہ نار جہنم۔ توت و اتھہ لین نہ تم تمہہ نغمہ شلج کا نہہ صورتھا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ورنہ ممولو کو خدایہ سدس لاشریک آسلس پڑھہ کمر بہہ کریچھہ رتھہ عملہ جلدے و اتا و وکھ آس تم تمین باغن منز ممومنز کولہ پکان آسن۔ تمنی باغن منز روزن تم ہمیشہ ابد الآباد وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا یہ چھو خدایہ سد پوز وعدہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا خدایہ سدہ خونہ گہند وُن چھو زیادہ پوز تہ زیادہ صحیح لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ای مسلمانو نجات و سعادت ابدی سمیک وعدہ کرنہ آؤ سوہنہ نہ جہند یو خالی آرزو اوسیت نہ بہہ سوا اہل کتابن ہند یو تھریو آرزو اوسیت بلجہ سپدہ سو حاصل صرف ایمانہ سیت تہ اعمال صالحہ سیت مَنْ يَعْمَلْ

وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۲۳﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ
 مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿۱۲۴﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ
 دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ

سُوِّءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پس جس شخصہ اطاعتس منز کی کران
 کانہہ تھہ کوماہ گرہ۔ سواز قسم عقائد آستن یا از قسم اعمال آستن تھہ بدلہ بیہ تس ضرور سزاونہ آخر تس
 اندر۔ ہر گاہ سوچھہ کوم از قسم عقائد شرکی و گھری آسہ تلہ چھو تم عذاب دانیس تہ سزاء ابد پس
 گرفتار سپدن۔ ہر گاہ سوچھہ کوم عملی آسہ تمہ نشہ توبہ آسہ آمت کرنہ۔ تھہ خدایہ سیدہ طرفہ
 بخشاش آسہ سہز مثلہ بیہ تس سزاونہ کتہ خود و قس تان۔ تمہ عذابہ نشہ لبہ نہ سو خدا جس و رای
 کانہہ جس کانہہ دوستس، کانہہ مددگار پس تمس مولاوہ ہا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
 أَوْ أَنْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بیہ پس اکھاہ کانہہ رز کاہہ کرہ۔ مردو آندرہ یا زانو آندرہ با ایمان آتھہ
 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا پس تے کوکھ واتن جنتس تمن لیہ نہ کتہ قسمہ ظلم
 کرنہ تہمز کانہہ صحیح عمل لیہ نہ ضائع کرنہ۔ تھہ آہہ کر تمس منز آؤذ کر کرنہ با ایمان آسنگ۔ امہ اندرہ
 چھو مراد تے تم تھہ دینس پیٹھہ آسن پس دین خدا جس نشہ منظور تہ مقبول دین آسہ۔ سو گودین اسلام
 ”اہل اسلام“ گے تے تمن منز تم تہ صفت آسن۔ پور تہ کامل فرمانبرداری۔ اخلاص بیہ اتباع ملت ابراہیمی۔
 چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ
 مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا جس اکھاہ چھو رت دینہ کن، تمس شخصہ سیدہ خوتہ تم پن گردن دار، پن تھہ
 کوزن معبود برحقس سن یعنی فرمانبرداری عقائد کن تہ عملن اندر۔ در حالیکہ سو آسہ با اخلاص سارنی
 کائین آندر۔ کانہہ عملہہ گرہ نہ کتہ ذاتی مصلحتہ یا ظاہر داری خیطرہ۔ بیہ کرہ متابعت حضرت ابراہیمہ
 سندس ملتس یعنی اسلامس۔ تھہ منز نہ کتہ قسمہ ہجرتہ گئی چھو۔ تمہ علاوہ تہ چھو سولت قابل اتباع تہ

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۲۵﴾ وَ لِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۱۲۶﴾
 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
 يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا
 تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

پہروی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کیازہ اللہ تعالیٰ ان چھو اختیار کورمت حضرت ابراہیم بنی نخلص
 دوست۔ یہ تھے چھو ظاہر کہ دوستہ سندس طریقہ پوٹھہ چن چھو محبوب تہ مقبول آسان۔ سم تہندہ ملج
 متابعت گزن تہندی خیطرہ چھو نجات تہ سعادت۔ اللہ تعالیٰ سنزی پورا طاعت کرن چھہ لازم کیاہ
 وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدایہ سنزوی چھو تہ سوزوی یہ آسمان تہ زمین اندر چھو
 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا بیہ چھو اللہ تعالیٰ پریتھہ چیزس احاطہ کمر تھہ پنہ علمہ سیت۔ امنی دون
 چیزن پوٹھہ چھو وجوب اطاعتک دار و مدار اکہ کمال سلطنتس پوٹھہ۔ بیہ کمال اطلاع و علس پوٹھہ۔ سم
 دو شوے چیز چھہ اللہ تعالیٰ سی مندرجہ اکمل موجود وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ای پیغمبر برحق
 صلی اللہ علیہ وسلم بیہ حض چھہ لوکھ توہہ یتیم زنان ہندس نکاحس متعلق توے پر ژھان قُلِ اللَّهُ
 يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ تہہ قرما یو کہ اللہ تعالیٰ چھو توہہ اجازت دوان تمن سیت نکاح کر نگ۔ بشر طیکہ تہہ
 کمر و تہند حقوق پورہ ادل۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ
 مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ دون سم آیات پر نہ یوان چھہ توہہ پوٹھہ تمن چھو
 تعلق تمن یتیم زنان سیت تمن نہ تہہ سو پن حصہ دوان چھوہ ئس تہندہ خیطرہ مقرر کرنہ آمت چھو۔
 بیہ چھوہ تہہ خواہش تھوان تمن سیت نکاح کر نگ یتھہ تمی بہانہ کھوی تہندہ مال۔ تمن یتیم زنان
 ہر گاہ تمہہ مال و جائدادہ تہ حسن و جمالہ واجبہ آرن تلہ چھوہ تمن سیت نکاح کران مگر شریعتہ موجب ئس
 میراث تہ مہر تہند حق چھو آسان تہ چھو کھنہ برابر ادا کران۔ اگر صاحب حسن و جمال تمہہ آسان

وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ
بِالْقِسْطِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۱۷﴾
وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

پہنچنے تلہ چھوہ تم ن سیت نہ پانہ نکاح کران نہ چھو کھہ بیہ کانہہ سیت نکاح دوان کرنہ۔ کیا زہ ٹھہ چھوہ
آسان کہ تہند مال و دولت ماروزہ نہ تلہ امہ نش وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ
حکم فرماوان ضعیف تہ بے کس لو کٹن ہندہ حقہ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ
حکم فرماوان کہ یتیم ن ہندہ حقہ کمر و پریتہہ معال مس اندر عدل تہ انصاف وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا بیہ تھا و وارہ سمہ کھہ ہند خیال کہ یوسہ رژ کا ماہ ٹہہ کمر و یتیم ن تہ زنان ن نسبت تہ
سوزی چھو وارہ پاٹ اللہ تعالیٰ پور زنان وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا بیہ
ہر گاہ کانہہ زنانہ کھو ترہ تہ اندیشہ کرہ پنہ نس خاوندہ سدس مای تہ محبت باقی نہ روزہ نس بے التفاتی
کرہ نس۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا اتھہ صور نس اندر چھو نہ کانہہ حرج تہ کن
دوشون ہر گاہ یم پانہ وان عنہہ طریقہ صلح کرن۔ مثلاً اگر زنانہ یرشان آسہ کہہ بوروزہ ہا مٹی خاوندس نشہ
بیہ گوژہ نہ میہ تراوت بیا کھ نکاح کرن۔ اتھہ صور نس اندر تراوہ سنوچن کینہہ حقوق سم تہند مردس
پیٹھہ آس۔ مردس چھو جایز تہ کن تھن تسلیم کرن تہ زنانہ سیت صلح کرن وَالصُّلْحُ خَيْرٌ تنازعہ خوتہ،
جدائی تہ موبکارہ خوتہ چھو صلحی رت تہ بہتر وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ انسانی طبیعتن چھو سیت
تھاوندہ آمت بخل۔ پریتہہ اکھاہ چھو یرشان خرچس اندر کمی کرن۔ ہر گاہ زنانہ اخراجاتن اندر کمی کرہ۔
مردس بیہ یوزنہ میہ سپد مالی فاندہ۔ سو سپدہ امس زنانہ پانس سیت تھو نس پیٹھہ راضی۔ دوشون باژن
ہنز خواہش تہ طبع یلہ پورہ سپدہ دوشوے سپدن صلحس پیٹھہ راضی وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
 بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
 كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا ۝ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاَ مِنْ سَعَتِهِ ۝ وَكَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا یہس ہر گاہ تہہ ای مرد و زنان سیت احسان کرو تہہ سلوک کرنہ نشہ پتہ روزو
 توہہ بندہ بوڈ ثواب کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو تہہ ہ سارے کامہ پورہ زنان تہی موجب دیوہ سؤ توہہ مزدور۔
 وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ یہ تہہ تہہ مسلم کہ تہہ بی کو نہ ہر گزوار یمن زنان منز
 یمن سیت توہہ نکاح کورمت آسوہ پر تہہ چیز س اندر عدل تہ برابر ی کمر تہہ۔ خصوصاً دلہ چہ مایہ تہ
 مجتہس اندر وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تہہ دل آسن سو برابر ی کرن سیٹھاہ یٹھان مگر چوہہ ذلک مُعَامَلِہ
 چھونہ کانسہ پتہ نس اختیار س اندر تمہ موکھ چھونہ دلہ کس معاملس اندر باز خواست کینہہ مگر باقی مُعَامَلِہ
 اندر تم اختیار ی چھہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ تمین اختیار ی چیز ن اندر گزہہ نہ کسی زنانہ کن سوروی توجہ
 تہ رغبت کرن فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ہمہ یک طرفہ توجہ کرنہ سیت بیا کہ زنانہ تراو ہون تہہ بالکل
 الوند ہی چیزاہ۔ حقوق شرعیونشہ بالکل محروم۔ نہ کتر و تمسہد حقوق پورہ آدایمہ سیت سہ خانندہ وا جن
 بوزنہ پتہ ہا۔ نہ ایہ موکلا و نہ رتہ طریقہ تا یلکہ بوزنہ پتہ ہا سوبے نکاح تہ بے خاوند۔ بیا کہ شخصاہ گرہ ہا تس
 سیت نکاح۔ امہ طریقہ زنانہ الا زن تھاون یہ گوئس نسبت صریح ظلم کرن۔ ہر گاہ پتہ نس نکاح س منز
 تھون آسہ تلہ تھایون رتہ طریقہ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا تہہ صورتس اندر ہر گاہ بروٹھہ کنہ نا گوار
 مُعَامَلَاتِ آسن پیش آمت تمین مُعَامَلَاتِنِ کرو اصلاح آئندہ خیطرہ روزو تھتھو مُعَامَلَاتِ تونشہ بالکل پتہہ۔
 بروٹھمین مُعَامَلَاتِنِ کرہ وہ اللہ تعالیٰ تہ درگذر فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ
 مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون وَلَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاَ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
 حَکِيمًا وون ہر گاہ تمین دون باژن منزمنہ طریقہ موافقت سپدہ نہ بلکہ سپن تم اکھ آگس نشہ جد اطلاقہ

اللَّهُ وَإِسْعَاحِكِيمًا ﴿۱۳۰﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ
 اتَّقُوا اللَّهَ ط وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿۱۳۱﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۱۳۲﴾ إِنَّ يَشَاءُ يَذُوبَكُمْ

سیت یا خلعہ سیت تھے منزہ تھوں سمودویہ منزہ کا نہ یہ خیال کہ میانہ درای پچہ نہ نہیں و تھے بلکہ کرہ
 اللہ تعالیٰ پر تھے اگس سمودویہ اندرہ بیس نشہ بے نیاز۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھ سوسہ وول سیٹھہا جمتہ
 وول وبللہ ما فی السموات و ما فی الارض اللہ تعالیٰ سدوی ملک چھو تہ سوروی یہ آسمان اندر چھو،
 یہ زمین اندر چھو س مالک حقیقی تہ مالک کلہ سنز فرمانبرداری کرن چھہ لازم تہ ضروری۔ امیک حکم
 چھونہ تو ہی یوت کرنہ یوان **وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ**
 بلکہ واقعی طور فرمودہ امیک حکم تہن لو کن تہ سمن آسمانی کتاب یعنی تورات و انجیل عطا کرنہ آیہ
 توہہ بروٹھہ۔ توہہ تہ چھو حکم کرنہ یوان کہ کھو ژو اللہ تعالیٰ اس۔ تہند ساری حکم ماو۔ نافرمانی نشہ روزو
 پتھہ۔ پتھہ سورہ شریف چھو گوڈ کرنہ آمت امی حکمہ سیت **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ - وَإِنْ تَكْفُرُوا**
 یہ کتھہ تہ آیہ تہن یهو وونصاری ان بیہ توہہ تہ وارہ بیان کرنہ کہ ہر گاہ تہہ احکامن ہنز مخالفت کتر تھہ کفر
 کرو تمیک چھونہ اللہ تعالیٰ اس کا نہہ پروانہ کا نہہ ضرر **فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**
 کیا زہ اللہ تعالیٰ سدوی چھو ملک تہ سوروی یہ آسمان تہ زمین اندر چھو تھس بڈس پادشاہس چھونہ
 کا نہہ نقصان تہنزہ نافرمانی سیت۔ بلکہ نقصان چھو توہہ پان پائس تھس بڈس شہنشاہ اعظمہ سنز مخالفت
 کرنہ سیت۔ **وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا** اللہ تعالیٰ چھونہ کانہہ ہندس اطاعت و فرمانبرداری کن محتاج۔
 سو چھو کامل الصقات آسنہ موکھ بذات خود تعریف کرنہ آمت۔ لہذا چھنہ کانہہ ہنزہ نافرمانی سیت
 تہندین صفین اندر گنہ قسمہ کی لبندہ یوان **وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا**

أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ
 قَدِيرًا ﴿۱۷۶﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ
 ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۱۷۷﴾

اللہ تعالیٰ سہولت سے اور سہولت سے آسمانوں اور زمینوں اور ہر سوئی چھو تمہیں ساری چیزیں اندر
 قادر مختار، پتہ نین فرمانبردار بدن ہندہ خیرہ چھو سو کانی کار ساز سو چھند کار ساز آتھہ گوہ اکھاہہ بیکہ
 تمہیں فرمانبردار بدن ضرورتاوتھہ اِن كَيْشَايْذُ هَبْنٰكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَا تِ بِآخِرِيْنَ اللہ تعالیٰ سمہ
 دینہ چہ کامہ توہمہ فرماوان چھو تہ چھو سو چھندہ سعادتہ خیرہ فرماوان۔ ورنہ سوہ بیکہ یہ کوم بین لوکن نشہ
 تہ پورہ کرناوتھہ تمہہ آج پور قدرت۔ ائی لوکو توہمہ مہ روزنہ یہ خیال کہ اس چھہ کتمان۔ ہر گاہ سو
 یث توہمہ ساری کر وہ ختم توہمہ بدل انہ بین لوکن تمہی دپہ یہ کوم گرن وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا
 اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ پر تھہ وقتہ آتھہ پیٹھہ قدرتہ وول۔ کانہ تہ بیکہ نہ تھندہ س حکمں پتھہ رتھہ وول ہر گاہ
 تم تہ یوٹھہ نہ یہ چھو تمہندہ بوڈ عنایت تہ مہربانی۔ لہذا زانو تہہ تمہندہ حکمں تعمیل گرن سیٹھہ
 غنیمت۔ بیہ پتھہ خیرہ بوڈ سعادت۔ دینہ چن کاین ہند عوض تہ بدلہ ہنہ آخرتہ اندر۔ لہذا دنیاہ س
 منزلہ چن کاین ہند نفع تہ فائدہ نہ ہنہ سیت مہ آسو بدل سپدان مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا
 ئِس اَکھاہہ دینچ کوم کتر تھہ دنیاہ ک ثواب تہ نفع تہ فائدہ تھانڈہ سو چھو سخت غلطی پٹھہ فَعِنْدَ اللَّهِ
 ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کیازہ اللہ تعالیٰ اس نشہ چھو دنیاہ ک ثواب تہ آخر تک ثواب تہ۔ یلہ اللہ
 تعالیٰ اس نشہ اعلیٰ تہ ادنیٰ دو شوے چیز ہنہ خیرہ چھو شرط با ایمان نزن۔ اکھہ پھرہ مر تہ سپدنگ تہ چھو
 یوے حکم۔ پس کیازہ بیہ ہست ہمت ہنت ادنیٰ چیز ی تہ نشہ تھانڈہ نہ یہ چھو نہ تہ ہند۔ وَكَانَ اللَّهُ
 سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہ یوزن وول سیٹھہ وچھن وول ساری ہنزہ کتھہ ، منگن تہ
 درخواست کرن چھو بوزان۔ ساری ہنز نیتن ہند چھو تہ پور علم۔ آخر تک ثواب تھانڈہ وین دپہ
 سوی آخر تک ثواب۔ دنیاہ ک ثواب تھانڈہ وین دپہ دنیا کوئی ثواب مگر آخر بیکہ ثوابہ نشہ سپدان تم
 حروم۔ لہذا گدھہ دینچ کوم یعنی عبادت کرت آخر تہ کسی ثوابس امید وار روزن۔ عبادت تہ دینچ کوم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
 أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
 وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۷۵﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ

کرم تھ گڑھ نہ دنیا ک ثواب تہ مزور ژھانڈن۔ امہ اندرہ ہجو نہ مراد دنیا گڑھ نہ ژھانڈنوی۔ نہ بلکہ
 گڑھ ضرور ژھانڈن۔ مگر عبادتک معاوضہ نہ بلکہ گڑھ مستقل طور خدائس نفعہ دنیا ضرور ژھانڈن
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ اے باایمانو ساری معاملاتن اندر اداء کہ وقتہ
 تہ بیہ فیصلہ کر بحکہ وقتہ تہ آسو عدل و انصاف بیٹھہ قائم روزان۔ ہر گاہ اقرار یا گواہی دج نوبت پیوان
 آسہ تمہہ ساتہ تہ خدایہ سزہ خوشنودی خیرہ آسو پمز گواہی، حقیقت حال صاف صاف ظاہر کران
 وَلَوْ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ اَگر چہ سو گواہی یا اظہار آستن توہہ پنتہ حقہ مضر سپدان اَوِ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ
 یا تہندس ماس ماجہ یارشتہ دارن متعلق مضر سپدان اِن يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا گواہی و بحکہ وقتہ مہ آسو
 مہ کتھہ ہند کا نہ خیال تھاوان کہ سبب بیٹھہ آسہ گواہی دن چھ سو چھا امیر کہہ فقیر۔ تمہہ مہ آسو کا نہ
 ہنزہ امیری و فیری گن و چھان فَاِنَّ اللّٰهَ اَوْلٰى بِهٖمَا اللہ تعالیٰ اس ہجو تمن دو شون سیت تہندہ خوتہ
 زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ ہجو ژھان آتھہ معاملس اندر پوز پر لون فَاَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا لہذا نہ
 کرم و تہہ پیروی پنتہ فسخہ خواہمہ ہنز پزہ نفعہ و نلس اندر وَاِنْ تَلَّوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ہر گاہ چہ گواہی ووان اوزک یور و نو۔ صاف صاف پوز، پوز و نو نہ یا پمز گواہی دنہ نفعہ
 کروانکار۔ یاد تھاوزہ اللہ تعالیٰ ہجو ہنزہ سارے کامہ پوز زانان۔ سودیہ توہہ پائے پور سزا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اے مجمل پاتھہ ایمان آنہ و نو تہہ پوز ووارہ ضروری عقایدن ہند تفصیل۔ تو پتہ
 کرم و تمن چیزن پوز پڑھہ۔ پڑھہ کرم و خدایہ سندس ذاتس۔ بیہ تہند من ساری صفقن۔ بیہ کرم و پڑھہ تہندس

عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
 وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
 بَعِيدًا ۱۳۷ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
 أَزْدَادُوا كُفْرًا الَّذِي يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۱۳۸
 بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَتَّخِذُوا
 الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ

پیغمبر یعنی حضرت محمد سندس رسالتس وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ یہ کرم و پرشہ تشہہ بتابہ
 یوسہ کتاب تم نازل کر پنے نس پیغمبرس پیٹھ یعنی قرآن مجیدس وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ یہ
 تمن ساری کتابن یمہ تم نازل کرہ قرآن مجیدہ بروٹھہ بین پیغمبرن پیٹھہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہس شخصہہ اکار کرہ خدا یہ سندس ذاتس یا تہندین صفن یہ تہندین ملائکن
 یہ تہزن کتابن، یہہہ تہندین پیغمبرن یہ پیٹھس دوہس یعنی قیاس فقہ صلا صلا بعیڈا پز پات
 سو شخصس یہو حقہ نشیہ، علم واقعی نشیہ، یہہ مقصد اصلی نشیہ، یعنی نجات نشیہ گمراہی ہندس سٹس چاہس اندر
 ہتھہ نہ دوشوی ہٹھو کثہہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا ہس پات سم لوک
 گوڈہ مسلمان سپد توبہ یہہ کافر مرتد توبہ سپد یہہ مسلمان توبہ سپد یہہ مرتد کافر توبہ کر کہ زیادتی کفرس
 اندر مرتکب دس تان کھ یکن اللہ لیغفر لہم وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا یہ بٹہ نہ زانہہ کہ اللہ تعالیٰ کیاہ کرہ
 تمن مغفرت تہ بخشایش تہ ہاؤہ اللہ تعالیٰ تمن منزل مقصود یعنی جنس کن کاسہہ و تھاہہ کیاہہ مغفرت تہ جنت
 چہ ایمانس پیٹھ ثابت قدم روزن والسن کیتھہہ بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خوش خبر بوڑہ ناویٹھ
 منافق سمہہ کٹھہ ہنز کہ تہندہہ خیطہہ ہٹھو آخرتس اندر سخت دودوہون عذاب تجویز کرنہ آمت بِالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
 الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ تم گئے ناٹے سمبو کافر بناویٹھن دوست باایمان تراوتھ
 آيِبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْوَعْدَةَ تم چھامن نشیہ گوہتھہ معزز بن یشھان تمن نشیہ عزت ہٹھہ نہ کینہہ فَإِنَّ

الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿۱۳۹﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
 أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا
 مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِكُمْ ۖ وَإِذَا مِثْلُهمُ
 إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿۱۴۰﴾
 الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا
 أَلَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ

الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کیازہ سوروی عزت چھوی خدائس اتھہ سوی نسی عزت یثہہ دیکن تس بہہ عزت
 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ اى
 مسلمانو جنہ مہ آسو منافقن ہند پاتھہ کافرن سیت کانہہ تعلق تھاوان خصوصاً سمہ وقتہ تم کفریات ہند
 تذکرہ کران آسن۔ چنانچہ سمہ بروٹھہ تہ چھو اللہ تعالیٰ اَن سورہ انعامس اندر حکم نازل کورمت توبہہ
 پیٹھہ کہہ یلہ کتبہ جلسہ اندر خدایہ سندین آیات واحکامن نسبت انکار یا ٹھٹھہ آسہ یوان کرنہ تھہہ جلسہ منز
 آسونہ تہہ تمن سیت بہان حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِكُمْ یوتان نہ تم بہہ کانہہ بدل کتھہہ تلان تہ
 شروع کران آسن اِنکُم اِذَا مِثْلُهمُ ورنہ سپدوتہہ تمنی ہی گنہس اندر۔ اتھہ منز چھہہ من کافر تہ
 پو شیدہ کافر یعنی منافق برابر۔ چنانچہ سزاء کفر یعنی نار جہنم تھہہ منز تہ چھہہ برابر اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ
 الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا بیشک اللہ تعالیٰ چھو سو نہرہ ون تہ جمع کرہ ون منافقن تہ
 کافرن نار جہنمس منزاکہ وٹہ اِلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ سیم منافق پیاران تہ امید وار چھہہ آسان
 تھہہس نقصاس اِن كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا اَلَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ توبہہ اگر توبہہ حاصل سپدان چھہہ
 خدایہ سدہ طرفہ کانہہ فچاہ تمہہ ساتہ چھہہ تھہدی تھہہ توبہہ ونان آس آس ناتوبہی سیت جمادس، منز شریک
 آسہ تہ دیو کینہہ مال غنیمتہ اندرہ وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ہر گاہ کافرن حاصل سپدہ غلبہ کانہہ
 حصا تمہہ ساتہ چھہہ تمن نشہہ گوتھہہ تمن ونان قَالُوا اَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَنَنْعَمُ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۗ^(۱۲۱)
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا
إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ
اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ^(۱۲۲) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا
إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۗ^(۱۲۳) يَا أَيُّهَا

کیا آس ہیو ان ناتوہہ پیٹھہ غالب سپدن کیاہ آسہ بچاودنا تہہ مسلمان نش آسہ کورنہ زانتھہ کر تھہ توہہہ بچاوندہ
خیطرہ مسلمان مدد سؤ طریقہ کور اختیاریمہ سیت جنگ حال بدلیووتہہ سپدوہ غالب لہذا دیواسہ تہ کینہہ
حاصل کرمتہ مال اندرہ غرض کہ دو شوی طرفو آس تم مال حاصل کران - دنیاس اندرے تم اپڑہ
مسلمان ہتھہ زندگی بسر کران آس مگر **قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** اللہ تعالیٰ کرہ فیصلہ توہہہ تہ تم
منز قیامتک دوہ **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا** تھہ فیصلس منز دیہ نہ اللہ تعالیٰ ہرگز
کافرین مسلمان پیٹھہ غالب سپدنج کانسہ تھاہہ **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ** ہڑپاٹھہ منافق ہتھہ آسہ
دورنگی چالہ سیت دھوکہ دیوان ہنہ خیالہ خداس **وَهُوَ خَادِعُهُمْ** سؤ ہتھو تمین امی قسمہ امیک بدلہ تہ
سزاوندہ وول - چونکہ تہندسن دن اندر ہتھونہ ایمان کنی تمہہ موکھ ہتھہ تم نماز فرض زانان نہ ہتھو تمین
نماز پرئس پیٹھہ سئہ ٹواکب اعتقاد تمہہ موکھ ہتھہ تہند حال **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ** یلہ
تم منافق ووتھان ہتھہ نمازہ کن ووتھان ہتھہ سیٹھاہ سستی سان کیاڑہ دلچسپی تہ فرحت ہتھہ اعتقادہ تہ
امیدواری سیت پیدہ سپدن **يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا** تم ہتھہ نماز پران فقط
لوکن ہاوندہ خیطرہ خدلیہ سندیاد ہتھہ تم کران مگر زیہ سستی سؤتہ کمی **مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ** کافرین
تہ بالیمان در میان ہتھہ تم اللہ - متردد تہ حیران - نہ اور تہ نہ یور - **لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ**
نہ ہتھہ ہم مسلمان سیت نہ ہتھہ ہم تہندین دشمن یعنی کافرین سیت **وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا**

اِنْ شَكَرْتُمْ وَاْمَنْتُمْ وَاَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾
 لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَن ظَلَمَ
 وَاَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿۱۲۸﴾ اِنْ تُبَدُّوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفَوْهُ اَوْ تَعْفُوْا
 عَن سُوْءٍ فَاِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۱۲۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ
 بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ
 وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ

شکر گذاری کرده و بیایید تسلیم شوید و اگر شکر کنید و ایمان داشته باشید و خداوند شکرگزار و دانای استوار است. ﴿۱۲۷﴾
 خداوند دوست ندارد که کسی رسالت او را علنی کند مگر آنکه ظالم باشد. ﴿۱۲۸﴾
 اگر شما بد را با خیر یا با پنهان کردن آن یا با عفو کردن آن یا با فراموش کردن آن مواجه شوید، خداوند بخشنده و قوی است. ﴿۱۲۹﴾
 آنهایی که کفر میکنند با خدا و رسل او و می‌خواهند بین خدا و رسل او تمایز ایجاد کنند و می‌گویند ما در بعضی چیزها ایمان داریم و در بعضی چیزها کفر داریم و می‌خواهند بین خدا و رسل او تمایز ایجاد کنند.

يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١٥۰ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَ
 أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝١٥١ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَ
 رُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ
 وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝١٥٢ يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ
 عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ الْكَبِيرَ مِنْ ذَلِكَ
 فَقَالُوا ارٰنَا اللهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ بِأَنفُسِهِمْ ۗ ثُمَّ
 اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ

اَنْ يَنْغَيِّرْنَ تَهْمَدِينَ كَرْنَ انْكَارِ، يَا اِذْ يَنْغَيِّرْنَ كَرْنَ پڑھتے تہ اذین کَرْنَ انکار پڑھتے یقیناً کافر وَاَعْتَدْنَا
 لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اسے چھو کافرین ہمدہ خیطرہ عذابہ ذلیل کرہ و ن تیار تھو و مت سوی عذاب یہ
 تمن تہ کرہ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وون گنیہ تم لو کہ یوم پڑھ کر
 کُنس خد ایس یہ تہمدین یغیرن یہ کر کہ نہ کانہ فرق تمن اندر پڑھ کر بحہ اعتبارہ ایمان آنہ بحہ اعتبارہ
 أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ یعنی لوکن بیاہ کرہ اللہ تعالیٰ آخرتس اندر مزور بین عطا یوسہ تمن شو یہ
 وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن، سیٹھاہ رحم کرہ و ن يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ
 أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ ای یغیر بر حق اہل کتاب یعنی یہود چھہ درخواست کر ان تو بہ کہ
 تہہ والو تمن پڑھتے کتاباہ آسانہ پڑھتے۔ اتھ اہدس و نہ نس مہ کرو اعتبار فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ الْكَبِيرَ مِنْ
 ذَلِكَ پس تحقیق درخواست تہ سوال کور تمو حضرت موسیٰ آس امہ خو تہ ہ چیزک فَقَالُوا ارٰنَا اللهُ
 جَهْرَةً پس وون تمو حضرت موسیٰ اس کہ اسہ ہاویون اللہ تعالیٰ ن پانٹہ، بے حجاب۔ تا بحہ اس
 وچہون سو پنہ نیو اچھو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ بِأَنفُسِهِمْ چنانچہ اتھ گستاخی پیٹھ رٹ تم ترٹہ۔ پنہ ظلمہ تہ
 شرارتہ سببہ۔ تو پتہ گے حضرت موسیٰ سندہ دعاسیت یہ زندہ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ

ذٰلِكَ وَاَتَيْنَا مُوسٰى سُلٰطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۵۷﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ
 الطُّوْرَ مِيْنًا قِيَمًا وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا
 لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُم مِّيْنًا قَاغِيْلًا ﴿۵۸﴾
 قِيَمًا نَقُضُهُمْ مِّيْنًا قَهُمْ وَاَكْفَرَهُمْ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَقَتَلِهِمُ الرُّسُلَ
 بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكْفُرِهِمْ

الْبَيْتُ كُوْرُكْ بِيَاكْ شَرَات - ووزھ بنووكھ معبودین - حق و باطلیہ كا تراهنہ دلیلہ تمن نشہ واتنہ
 پیہ یعنی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ پس کور بیہ آسہ تمن اتھہ جُرْمَس تہ
 عَفْو تہ و رگڈر تہند توبہ کور بیہ قبول وَاَتَيْنَا مُوسٰى سُلٰطٰنًا مُّبِيْنًا بیہ کور عطا آسہ حضرت موسیٰ اس
 نون غلبہ، بیہ کافی رُعب - مگر نہ کرسان عفو تہ در گذر کرن کا نہ اثر تمن پیٹھ نہ حضرت موسیٰ سند
 رُعبن - بلکہ رُو د تم بدستور پنہ نس شرار تس پیٹھ تہ نافرمانی پیٹھ - وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ مِيْنًا قِيَمًا
 بیہ تُل آسہ کوہ طور تمن نشہ عدر رنہ خیطرہ تمن پیٹھ گُن - مُعْلَق تہ الوند تھوو تمن سیدہ سیود وَقُلْنَا لَهُمْ
 ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بیہ کُر آسہ، حکم تمن شہر کہ دروازہ کن آژو خدا بس گُن نمٹھ - وَقُلْنَا لَهُمْ لَا
 تَعْدُوا فِي السَّبْتِ بیہ کریو حکم آسہ تمن بے وارہ و وہ مہ ڈلو سانہ حکمہ نشہ گاڈر نئس آندر وَاَخَذْنَا
 مِنْهُم مِّيْنًا قَاغِيْلًا بیہ کرہ نا و آسہ تم وارہ پاٹھہ عمد تہ اقرار مگر تمو پٹھہر اوساری عمد تہ اقرار قِيَمًا
 نَقُضُهُمْ مِّيْنًا قَهُمْ وَاَكْفَرَهُمْ بِآيٰتِ اللّٰهِ پس ائی سبب کہ تمو کور پھڑ ووسو پنہن عہد - بیہ کور کہ انکار خدایہ
 سندس آیاتن وَاَكْفَرَهُمُ الرُّسُلَ بِغَيْرِ حَقٍّ بیہ کور کہ شہید حضرات انبیاء ناطق، کور آسہ تم عذابس
 گرفتار - وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بیہ تہندہ بیہ وندہ موکھ کہ سان دل چھہ محفوظ تمن کرہ نہ کا نہ بیاکھ
 مخالفت دین یعنی اسلام عنہ قسمہ اثر - بیہ وندہ آندرہ چھو تہندہ مراد کہ آس چھہ پنہ نس مذ بس پیٹھ مضبوط تہ
 چھتہ - بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكْفُرِهِمْ مضبوطی و چھتہ گی چھتہ کینہ بلکہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تہندہ ہر سببہ
 تہندین دلن پیٹھ شروک دیو ثمت تہ مہر کر مژ - تا اینکہ پڑہ کتھہ ہند اثر چھو نہ بہندین دلن پیٹھ سپدان

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۵۵ وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝۱۵۶ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝۱۵۷ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۱۵۸ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس ایمان آن نہ تم مگر کمی۔ سو کم ایمان قابل قبول چھونہ لہذا اچھے تم بے ایمان تہ کافرے وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا یہ کفر اسہ تم عد اس گرفتار تہندہ کفرہ سبہ۔ یہ حضرت مریمس پیٹھہ بڈاپرتہ بھتان نوراونہ سبہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہ یہ دعویٰ کرنہ سبہ کہ اسہ مور حضرت مسیح عیسیٰ حضرت مریم سندنیو پیغمبر خدا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ حالانکہ یہ چھہ تم محض غلط تہ ایزوانا۔ حقیقت چھہ کہ نہ مور سو تمونہ دیو محٹھہ پھہہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ بلکہ آویاکہ شخص تین ہیو بناونہ۔ سوی دکھور تموکا ٹھس۔ سوی شخص دیو محٹھہ پھہہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ پیرپاٹھہ تم اتھہ منز اختلاف کران چھہ اہل کتاب اندرہ تم چھہ بڈس شکس تہ غلط خیاس منز قیمت مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ چھہہ تین اچ کا نہ خبراہ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ تخمینہ تہ قیاسی گھن پیروی کرنہ وراوی وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ حقیقت چھہ یہ کہ ہرگز کرنہ تمویہود و حضرت عیسیٰ شہید۔ بلکہ کھار تم اللہ تعالیٰ ان پانس گن آسانس پیٹھہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ سارنی پیٹھہ غالب حکمتہ وول پتہ قدرتہ سیت تہ حمتہ سیت موکہ لوون حضرت عیسیٰ علیہ السلام تہندہ شرہ نشہہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ پیرپاٹھہ اہل کتاب اندرہ کہینہہ لو کہ آن ضرور حضرت عیسیٰ اس ایمان تہندہ مر نہ برتھہ امہ اندرہ تہ چھو معلوم سپد انکہ ونہ چھہہ تم مومت کہینہہ بلکہ چھہہ ونہ زندے آسانس پیٹھہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكُونُ عَلَيْهِمْ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٦﴾ فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا
 حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 كَثِيرًا ﴿١٥٧﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
 بِالْبَاطِلِ ۗ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٥٨﴾ لَكِنِ
 الرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
 وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ
 الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٥٩﴾

شَهِيدًا قِيَامَتِكَ دُوهُ وَنِ تَمَّ لِعَنَى حَضْرَتِ عِيسَى تَمَنُّ بِهٖ وَذُنْ هَبْدَهُ انْكَارِ كَرِيحِ كَوَاهِي فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ
 هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ۗ بِسْ بِهٖ وَذُنْ هَبْدَهُ انْكَارِ كَرِيحِ كَوَاهِي فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ
 رَتِ رَتِ لَذِيذَتِ مُفِيدِ جِيزِ تَمَّ تَمَنُّ بِهٖ وَذُنْ هَبْدَهُ انْكَارِ كَرِيحِ كَوَاهِي فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ
 وَارِ بِهٖ لَوْ كُنْ خَدَايَ سَزَهٗ وَتَمَّ لِعَنَى دَمِنِ حَقِّ نَعْبِهِ بِهٖ وَذُنْ هَبْدَهُ انْكَارِ كَرِيحِ كَوَاهِي فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ
 سُوْدِهِيْنِ خَيْطَرَهٗ - حَالَا بِهٖ تَمَّ نَعْبِهِ نَعْبِهِ أَوْسِ تَمَنُّ مَنَعَ أَمَّتْ كَرَنَهُ تَوْرَاتِ اَسْ اَنْدَرِ ۗ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
 بِهٖ تَهْمَدَهٗ وَرَأَى لَوْ كُنْ هَبْدَالِ نَاقِ مَشْرُوعِ زُرِّيْعُوْرَايِ كَهِيْنِ خَيْطَرَهٗ ۗ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
 اَسِهٖ هَجُوْ تَمَّوْ اَنْدَرَهٗ كَا فَرَنِ هَبْدَهٗ خَيْطَرَهٗ تِيَارِ تَهَامَّتْ عَذَابَاهُ سِيْطَاهُ نَدْرَهٗ - لَكِنِ الرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ
 وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ لِيَكُنْ تَمَّ بِهٖ وَذُنْ هَبْدَهُ انْكَارِ كَرِيحِ كَوَاهِي فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ
 تَمَّ تَمَّوْ اَنْدَرَهٗ بِالْإِيْمَانِ هَجْهٖ تَمَّ هَجْهٖ بِرْهٖ كَرَانِ تَهَّ بِهٖ تَمَّ بِهٖ تَمَّ بِهٖ تَمَّ بِهٖ تَمَّ بِهٖ تَمَّ بِهٖ تَمَّ بِهٖ
 بِرُوْنَهٗ نَاذِلِ اَسِهٖ كَرَنَهٗ - وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ بِهٖ تَمَّ
 تَمَّوْ اَنْدَرَهٗ نَمَازِ پَرَهٗ وَنِ هَجْهٖ بِهٖ تَمَّ زَكَاةَ دُوهُ وَنِ هَجْهٖ - بِهٖ تَمَّ بِرْهٖ كَرَهٗ وَنِ هَجْهٖ كُنْسِ خَدَا بِسْ بِهٖ تَمَّ
 دُوْهَسْ لِعَنَى قِيَامَتِهِ كَسِ دُوْهَسْ ۗ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۗ بِهٖ تَمَّ لَوْ كُنْ كَرُوْ اَسِ عَطَا اَخْرَتِ سِ مَنْزِ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
 وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
 وَاتِّينَادَا وَدَاوُدَ زَبُورًا ۗ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ
 قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
 تَكْلِيمًا ۗ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
 عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

مزوریہ سیٹھاہ بڈ۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ پڑھاٹھ لہ سوز وحی توہم
 کن یارسول اللہ تھے پاٹھ ہتھ پاٹھ آسہ وحی سوز حضرت نوح سے بین پیغمبرن پٹھ تم پتہ۔ وَأَوْحَيْنَا
 اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيسَى وَايُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
 وَاتِّينَادَا وَدَاوُدَ زَبُورًا تموا آندرہ بعض حضرات تم کن آسہ وحی سوز مثلاً حضرت ابراہیمس کن حضرت
 اسماعیلس کن حضرت اسحاقس کن، حضرت یعقوبس کن بیہ تہندین اولاد کن بیہ حضرت عیسی اس کن
 بیہ حضرت یوسف کن بیہ حضرت یونس کن، بیہ حضرت ہارونس، بیہ حضرت سلیمانس۔ بیہ سوز آسہ
 حضرت داؤدس کن وحی۔ آسہ کمر عطا تم نین کتاباہ زبور وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
 وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا بیہ سوز آسہ وحی تم پیغمبرن کن بیہند حال
 بروٹھ آسہ بیان کور۔ بہنز ذکر سورہ النعامس منز کرنہ آمر ٹھ۔ بیہ تم پیغمبرن کن بیہند حال نہ ونہ
 آسہ توہم بیان کور بیہ کور اللہ تعالیٰ ان حضرت موسیٰ سے صاحب وحی۔ چنانچہ تم سیت کور اللہ تعالیٰ ان
 کلام۔ خاص طور کلاماہ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ ہم ساری پیغمبر سوز آسہ ایمانس پیٹھ نتاج بشارت دودہ ون
 وَمُنذِرِينَ کفرس پٹھ عذابک نیم کرہ ون لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

لَکِنَ اللّٰهُ یَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَۤ اِلَیْکَ اَنْزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ وَالْمَلٰٓئِکَةُ
 یَشْهَدُوْنَ وَکَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا ﴿۱۶۷﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ
 صَدُّوْا عَنِ سَبِیْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْۤا ضَلٰلًاۙ اَبْعَدًا ﴿۱۶۸﴾ اِنَّ
 الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَظَلَمُوْۤا لَمْ یَکُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرْ لَہُمْ وَلَا لَیَهْدِیْہُمْ
 طَرِیْقًا ﴿۱۶۹﴾ اِلَّا طَرِیْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْہَاۤ اَبَدًا وَّكَانَ ذٰلِکَ

پیغمبر بناوٹھ سوزا سہ تم می موکھ کہ شہدہ لوکن عذراہ خدا پس نشہ پیش کرنہ خیطرہ باقی روزہ سہم
 حضرات انبیاء سوزنہ پتہ۔ ورنہ تم بچہ ہن ورتھ قیامتک دۋہ وار بین کھن ہندرت آئن سپدنہ آسہ
 معلوم عقلہ سیت لہذا کیا ہنگناہ چھو سون یہ دنہ فح تھاونہ خدا لہن کانسہ گنجائش وکان اللہ عزیزاً حکیمًا
 اللہ تعالیٰ چھو پنہ نین کا مین اندر سارنی پٹھہ غالب تمہ اعتبارہ ہبچہ ہاسو تمن عذانس گرفتار کر تھہ۔ مگر
 سارنی کا مین منز چھو حکمتہ وول تمسنز حمت سپنز مقضی پیغمبر سوزنس لَکِنَ اللّٰهُ یَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَۤ اِلَیْکَ
 اَنْزَلَهُۥ بِعِلْمِهِ۔ لیکن اللہ تعالیٰ چھو گواہی دوان تمہ کتابہ ہندہ ذریعہ یوسہ توبہ کن نازل کرن۔ نازل تہ
 کرن سو پنہ کمال علمہ سیت۔ سمہ کتابہ جن تہ انسان اولین و آخرین عاجز کر تھہ ہیواکھ آسہ کریمہ
 پیش کرنہ نشہ تمی سبہ چھہ سو کتاب بد دلیل تہندس نبوتس پٹھہ وَالْمَلٰٓئِکَةُ یَشْهَدُوْنَ۔ یہ چھہ
 ملائکہ تہ گواہی دوان تہندس نبوتس پٹھہ وَکَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا حقیقت چھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو گواہ آسس
 اندر بس۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْۤا وَصَدُّوْۤا عَنِ سَبِیْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْۤا ضَلٰلًاۙ اَبْعَدًا بیشک سمو لو کوئہ
 دلیلہ وچھتھہ تہ انکار کوربہہ رکھ لوکھ تہ پتھ خدایہ سزہ ورتھ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ تم ڈل سزہ ورتھ
 نشہ۔ ہزہ نشہ سبٹھاہ دور گراہی اندر اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْۤا وَظَلَمُوْۤا لَمْ یَکُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرْ لَہُمْ وَلَا لَیَهْدِیْہُمْ
 طَرِیْقًا ہز پٹاٹ سمو لو کو انکار کوربہہ کورکھ ظلم لوکن نقصان عظیمہ واتانہ سیت، دین تھہ نشہ چھہ رتھ
 سیت اللہ تعالیٰ کرہ نہ تمن زانہ تہ جٹائش۔ یہ ہاونہ تمن ورتھ جنس کن الاطریق جہنم خلدین فیہا
 اَبَدًا مگر ہاو کھ سچ وچھتھہ منز چھو روزن تمن ہمیشہ ابد آلاباد وکان ذٰلِکَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرًا اللّٰهُ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ
 مِنْ رَبِّكُمْ فَامْنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
 إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
 أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ تَتَوَلَّوْنَ

تعالیٰ آسِ نِسْرَہ چھوہ سزادین تمن سیٹھاہ سسل تہ آسان
 مِنْ رَبِّكُمْ فَامْنُوا خَيْرًا لَكُمْ ای ساری جمانہ کیولو کو پز پیاٹ او توہہ کن یہ پیئمبر برحق حضرت محمد عربی
 صلی اللہ علیہ وسلم پز تھہ، پوز دعویٰ تہ پز دلیل ہتھ تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ لہذا چھو پوز دعویٰ
 دلیل آسن لازم کہ تھہ کرو پز تھہ تمن بیہ کرو یقین تھہ بیہ تم فرماون۔ یہ چھو تھندہ خیطرہ سیٹھاہ ہتر
 وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر گاہ تھہ انکار کرو تمیک نقصان چھو توہہ پائس۔
 خدا بس چھونہ تمیک کانہہ پرول کیا زہ بیشک تھندوی چھو ملک تہ سوڑی یہ آسمان اندر تہ زمینس اندر
 چھو۔ لہذا تھس بدس مالکس کیاہ نقصان بیجو تھہ واتاوتھہ پنہ انکارہ سیت وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھو پوز زان وول سارنی ہندہ ایمانک تہ کفرک۔ حمتہ وول تھنز حمت چھنہ
 مُقْتَضًى بِتھہ تھہ کہ مکر کیا گدھن فور اگر فزار عذاب کرن يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ای اہل
 کتابو یعنی نصارومتہ کرو پنہ نس دینس اندر زیادتی۔ حدہ نِسْرَہ نہ نیر و نیر پیئمبرن ہندس تعریف کر نس
 اندر۔ مہ ٹھہر او یو کہہ تم خدا یہ سند پجو۔ خدا چھو اولاد آسنہ نس منزہ تہ پاک۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا
 الْحَقَّ بیہ مہ وینو خدا بس نسبت کیہہہ تہ مگر تی یہ پوز چھو إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ
 كَلِمَتُهُ چھونہ حضرت مسیح عیسیٰ حضرت مریمہ سند پجو۔ مگر چھو پیئمبر خدا یہ سند بیہ تھند حکم أَلْقَاهَا
 إِلَى مَرْيَمَ نِس تم واتو حضرت مریمس کن وَرُوحٌ مِنْهُ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سند اکھ روحہ وول یعنی

تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۖ إِن تَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ
 سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ
 يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۗ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿٤٢﴾ فَأَمَّا

جانداراہ۔ سو جان نہ زود اتوا اللہ تعالیٰ ان جبریل امینہ سندرہ پھو کہ کہ واسطہ حضرت مرتس منز۔ سونہ
 چھو خدایہ سندیچونہ چھو خدا۔ نہ چھو تریو خدایہ اندرہ اکہ تم ساری عقائد چھہ باطل تہ اہزیلیمہ تمہ
 سارے کتھ باطل تہ اہزہ چھہ لہذا کرو تہہ ساری امہ نشہ توبہ۔ **فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ**۔ پس پڑھ کرو
 کنس خدا پس یہ تہندن پیغبرن۔ تمنی ہنزہ تعلیمہ موجب زانیون خدا کنوی، توحید کرو اختیار۔ تثلیث
 گالوتہ توحید پالو **وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ**۔ یہ کتھ مہ ونیو کہ خدا چھہ تریہ **إِن تَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ**۔ یہ گو
 شرک۔ پڑھ کتھ ونہ نشہ یعنی شر کہ نشہ زود چھہ تی چھو تہندہ خیطرہ بہتر **إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ**
 کیا زہ معبود برحق چھونہ مگر کنوی **سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ** منزہ تہ پاک چھو سوا اولاد آسنہ نشہ۔
 تمس کیاہ ضرورت چھہ اولاد ہنزہ **لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** تہندی چھوتہ سوزوی یہ
 آسان اندر چھو یہ زمین اندر چھو۔ **وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا** سو چھو ساری بدن ہنزہ کامہ خیطرہ کنوی
 کافی۔ سوی چھو کار ساز مطلق۔ یہے چھہ تمسدہ معبود برحق آج بڈ دلیل۔ تس ورا ی تم چھہ تہ تم
 ساری چھہ کار سازی اندر تس گن محتاج۔ لہذا چھونہ معبود آسنس سزوار تس ورا ی کانہ تہ۔ نصاری
 چھہ بل حضرت عیسی اس تہ ملائکہ مقرر بین معبود تہ خدا زانان۔ حالانکہ تمو کرنہ پانہ زانہ انکار خدایہ
 سہ بندہ آسنہ نشہ۔ نہ کرن تم زانہ تمہ نشہ عارتہ مند چھہ۔ یہ کرن نہ زانہ مند چھہ تہ عار ملائکہ
 مقرر بین مثل جبریل امین وغیرہ۔ کیا زہ تمن چھہ خبری کہ خدایہ سزہ بندگی نشہ عارتہ مند چھہ کرنک
 نتیجہ کیاہ چھو **لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ** عار چھونہ زانان

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ
 يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكفُوا وَاسْتَكْبَرُوا
 فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ ﴿٤٦﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ تَوْرًا مُبِينًا ۝ ﴿٤٧﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ

پانہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ خدایہ سُد بندہ آسمس بیہ نہ مقرب ملائک و مَن یَسْتَنکِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ
 وَیَسْتَكْبِرُ تم چھہ زانان کہ نُس کھاہ خدایہ سنز عبادت کرنہ نشہ عارتہ بحیرہ کرہ فسیحشرہم الیہ
 جیبعا پس اللہ تعالیٰ کرہ سارنی لو کن پانس بروئھ کنہ قیامتک دوه جمع فاما الذین امنوا و عملوا
 الصالحات فیوفیہم اجورہم و یزیدہم من فضلہ توپتہ سمو لو کو ایمان آنتھ رثہ عملہ آسن کرہ
 مژہ تم دیہ پوز مزدور۔ بیہ کر کھیہ زیادہ پنن فضل عطا۔ واما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبہم
 عذابا الیما و لا یجدون لہم من دون اللہ ولیا و لا نصیرا بیہ سمو لو کو خدایہ سنز عبادت کرنہ
 نشہ عارتہ بحیرہ کورمت آسہ پس کرہ تم عذاب۔ سوی آسہ کڈر عذاب۔ توپتہ لئن نہ تم پنہ رہانی
 خیطرہ خدایس و رای نہ کانہہ دوستانہ کانہہ مددگارہ۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم
 و انزلنا الیکم تورا مبینا ای ساروی لو کو بیشک آسہ توہم کن تہندس پروردگارہ سہہ طرفہ بد
 دلیل، ہذجت یعنی ذات مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیہ کوراسہ نازل توہم کن
 نورہ روشن تہ صاف یعنی قرآن مجید فاما الذین امنوا باللہ و اعتصموا بہ پس سمو لو کو
 پڑھ کمر کئس خدایس بیہ رُو دتھپ کمر تھ تہندس دینس سمہ خیطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیہ
 قرآن مجیدس پڑھ کرن لازم چھہ فسیدخلہم فی رحمة منہ و فضل پس واتا وہ تم سو پنہ نس
 رحمتس اندر سو گو جنت بیہ فضلس اندر سو گو چتچہ بچہ نعمہ، دیدار خدا رضاع الہی و یهدیہم الیہ

مِنْهُ وَفَضْلٍ لَّا يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝^{۴۵}
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ أَمْرُو أهلكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا
تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَى ۚ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝^{۴۶}

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ باوہ تمین و تھہ پنہ نس قر بس کن۔ و تھہہ سیر۔ یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ لو کہ چھہ توہہہ بعہ فتویٰ طلب کران کلاس متعلق کالہ گو بس نہ وارثو اندر نہ
مول آسہ نہ اولاد آسن۔ تہہ فرما دیو کہ کہ اللہ تعالیٰ چھو توہہہ بیہ حکم فرماوان کلاس متعلق۔ إِنْ أَمْرُو
أهلكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ یلہ کانہہ شخصہہ مرہ تس روزہ نہ چھہ کن اولاد نہ
آسیس مول موج۔ فقط آسیس بیہہ، سچھہ بیہہ بس چھو تس (بیئہ) تمسندہ مالہ منزہ و اتان نصف حصہ، باقی
نصف حصہ گو عصبو اندرے کانہہ آسیس نہ تس۔ ہر گاہے آسیس۔ تلہ بیہ سو نصف حصہ تہہ آسیس بیہہ
و نہ۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ سو کالہ چھو وارث سپدان اسس بیہہ ہند ہر گاہہ سو مرہ تس روزہ
نہ پتھہ کن بیٹن اولاد کینہہ تہہ۔ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ بس ہر گاہہ کانہہ روزان پتھہ کن
زہ یاد دیو خونہ زہ یاد بیہہ تمین چھو اُسندہ مسز کہ مالہ منزہ و اتان تریو حصو منزہ زہ حصہ۔ وَإِنْ كَانُوا
إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى بیہ ہر گاہہ کانہہ روزان پتھہ کن باسے تہہ بیہہ، مرد تہہ
زنانہ، بس چھو تمین و اتان مردس زہ حصہ زنانہ کہ حصہ اُسندہ مالہ منزہ یَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو دینک احکام توہہہ فرماوان تہہ بیان کران پتھہ نہ چھہ ناواقفی سبہہ گمراہ
سپدو۔ اللہ تعالیٰ چھو پتھہ چیزہ پورزانہ ون۔

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَيْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مَحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
 يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اسی با ایمانوں نے ایمان اُن سے چھو ممکن تھا کہ تمہیں کہہ کر پورہ پٹن معاہدہ تم توہمہ ایمان اُنہ نس منز خدا بس سیت کر مت چھوہ۔ یعنی شریعتک احکام ابو بجا۔ کیا زہ ایمان اُنہ سیت سپد توہ پیٹھ تم ساری احکام لازم۔ لہذا بس چیز لازم تہ منہ کھوت سو گڑھہ پورہ کرن تہ پورہ ہوزن اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ حلال آئی کرنہ تہندہ خیطرہ چار پاگین تہ تیر چار واپو اندرہ اِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ تمسن چار واین ورائی یہند حکم توہمہ پیٹھہ بردٹھہ ہرنہ بیہ غَيْرُ مَحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ۔ مگر شکار کرن گڑھہ نہ حلال زانن یلہ جہہ جگ یاعمرک احرام گنڈت آسویاتھہ زمین پاکس اندر آسویتھہ حرم وندہ یوان چھو اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ہز پاپٹ اللہ تعالیٰ چھو سوئی حکم فرماوان بس حکم۔ یڑھان چھو۔ کانہہ ہند طاقت چھو نہ چون وچرا کر نک۔ ہہ کیا زہ تہ یہ کونہ۔ سو بس جانورس یڑھان چھو تس چھو ہمیشہ خیطرہ حرام کران۔ بس یڑھان چھو تس ہمیشہ خیطرہ حلال کران۔ بس یڑھان چھو تس چھو گنڈہ مخصوص حالتس اندر حلال کران۔ بس یڑھان چھو تس چھو گنڈہ خاص حالتس اندر حرام کران۔ اسی لوگو توہمہ چھو پریتھہ حالتس منز حکم تقیل کرن لازم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ اے با ایمانوں حلال مہ زانو یعنی بے خر متی مہ کرو خدا یہ سیدین دینہ کین تہ عبادتہ کین نشانہ۔ یعنی بس چیزن ہندہ ادب تہ تعظیم کر نک حکم کرنہ آو تمن حکم خلاف کرتھہ تمن چیزن ہنز بے ادبی کرن چھہ حرام۔ مثلاً حرم شریفک تہ احرامک ادب چھو احرام گنڈت تہ حرم شریفس منز آتھہ گڑھہ نہ شکار

الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَيْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

کرن یہ چھو حرام۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَيْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ یہ مہ کروہ
خر متی تعظیمہ والین ریتن۔ تم گے ذیقعدہ، ذی الحج، محرم تہ ماہ رجب۔ یمن ریتن اندر مہ کروہ کافران
سیت جنگ یہ مہ کروہ خر متی تمن جانورن تمن ہنز رہ نال یوان چھو تراونہ۔ تم کیا یمن خدلیہ سندہ
خیطرہ خر مس منز قربان کرنہ۔ کیا زہ تم چھہ خدلیہ سند نیاز۔ یہ نیاز تھاویون مخصوص تہندی
خیطرہ۔ تس ورا ی یہ کانسہ ہندہ خیطرہ ادہ سو ملک مقرب آسن یا نبی مُرسل یا لئی اکمل۔ تس ورا ی
بہ کانسہ ہندہ خیطرہ کانہ جانورہ نیاز تھاون یہ گوثرک محض حرام۔ بہ مہ کروہ خر متی تمن لوکن
سیم عزتہ والہ گہرہ زیارتہ خیطرہ یوان آسن یعنی کعبہ شریفکہ زیارتہ خیطرہ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا سیم ژھاٹدان آسن پنہ نس پروردگارہ سند فضل تہ رضا مندی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
توپتہ یلہ حج یا عمرہ کرت موکہ لو، احرام مژراو وپس کرو وپکار۔ ہر گاہ توہہ حج خواہش آسہ بشرطیکہ سو
پکار آسہ نہ حرم شریفس منز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
باعث مہ بنن توہہ ہرگز تمن لوکن ہنز دشمنی سمونہہ چھہ رچیوہ کعبہ شریفکہ زیارتہ نشہ حد تبیس
گن۔ چہہ کیاہ ڈلوحدہ توپتہ کروا حکان ہنز خلاف ورزی۔ تمن یہو انتقام قتل و غارت کرنہ سیت۔ تمن
نشرہ روزوہ چھہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اکھ اکس کرو مدد رژان کا مین اندر بہہ پرہیز گاری اندر
شرعی احکا من پٹھہ پابندی کرنس اندر۔ تمیک آسوا اکھ اکس ترغیب دوان۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ مدد مہ آسو کران اکھ اکس گنہن، چھہ کا مین تہ طلسم اندر۔ مثلثائے حکم سیم چھہ تمن خلاف
کرنس اندر مہ آسو کانسہ مدد کران وَاتَّقُوا اللَّهَ کھو ژو خدائیس تس کھو ژنہ سیت چھہ سارنی حکم

وَالْعُدْوَانَ مَا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۲
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
 أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

پیٹھ پابندی گرن سسل تہ آسان سہ ان ان اللہ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ چھو پڑ پاٹ احکامن ہنز
 مخالفت کرہ وینن سخت عذاب کرہ و ان حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُمُّ الْخِنْزِيرِ حرام آی کر نہ توہم
 پیٹھ اکی مسلمانو تم چیز، مُردار جانور نئس شرعی گھش کر نہ و رای پائے آسہ مؤمت، بیہ زٹھہ یعنی ٹھون۔
 بیہ سورہ مازہ بیہ تمسہ ساری اجزاء۔ تمّن ترین چیزن اندر چھہ مادی خباثت تہ گندگی لینہ یوان۔ امہ پتہ
 فرمؤ و خدا سنن تمّن حرام چیزن ہنز ذکر تم بذات خود حلال تہ پا کھی آسن مگر مالک حقیقیس و رای بیہ
 کانسہ ہند قرب تہ رضامندی تمہ سیت ژھاٹنہ خیطرہ آوسو بیس کن لاگنہ تہ نامزد کر نہ۔ نئس نہ خاق و
 مالک چھو مؤت و حیاتک۔ تمہ مکھہ سپنر آتھ اندر بد نیتی ہنز تہ بد اعتقادی ہنز اکھ ناپا کیاہ تہ خباثناہ
 پیدہ لہذا آویہ تہ حرام کر نہ سوگو وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ بیہ چھو حرام سو جانور نئس خدا نئس و رای بیہ
 کانسہ ہندہ ناوہ تھانہ بیہ وَالْمُنْخَنِقَةُ بیہ نئس ہوت بیہ چیرنہ وَالْمَوْقُوذَةُ بیہ نئس ژنجہ سیت مارنہ آسہ
 آمت وَالْمُتَرَدِّيَةُ بیہ نئس تھز رہہ پیٹھ کوہ پیٹھ یا کیرس منزوس پیٹھ مؤمت آسہ وَالنَّطِيحَةُ بیہ نئس
 جانور بیس جانورہ سنز و ٹھولہ سیت مؤمت آسہ۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ۔ بیہ نئس جانور کانسہ درندن ژاپلن
 کھیومت آسہ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ مگر نئس ساروی جانور زو اندرہ کانسہ جانور س امہ صدمہ سیت مر نہ
 بروٹھ زندے آتھ شرعی ذبح کر نہ بیہ سو چھو حلال۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ۔ بیہ چھہ حرام تم جانور
 تم ذبح کن کر نہ تمّن جائین، تمّن جائین خدا نئس و رای بیہ کانسہ ہنز پرستش کر نہ یوان آسہ یا خدا یہ
 سندہ گرہ یعنی خانہ کعبہ و رای۔ بیہ ٹنہ جاہی ہندہ تعظیمہ خیطرہ ذبح کر نہ یکن۔ اگرچہ ذبح کر چھہ وقتہ اتن
 تس پیٹھ بسم اللہ اللہ اکبرے پر نہ۔ سوگو حرام وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآلِهَةِ بیہ چھو حرام تہہ کیاہ کرو
 مشترک جانورہ سندماز تقسیم زارہ کیوتیر و سیت ذَلِكُمْ فِسْقٌ بیہ سوروی چھو گناہ ناجائز تہ حرام سہمؤ

بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُطُ الْيَوْمِ يَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
 مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰﴾ يَسْأَلُونَكَ
 مَاذَا حَلَلَ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ

جیز و نشہ روز و پتہ الْيَوْمِ يَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ از کہ دوہہ (یعنی ۹ ذی الحجۃ الحرام ۱۰ھ، حجۃ الوداعہ دوہہ نُس پیٹوم حج اوس نبی کریمہ سُنَدِ صلی اللہ علیہ وسلم سمہ پتہ قریب تر یور یو انتقال پُر ملال سید حضرت پیغمبر اسلامہ سُنَدِ سید کافر نا امید ٹہندہ دینیکہ مغلوب سید نہ نشہ کیا زہ لچھہ بود لاکہ آس امہ دوہہ حاضر اتھ جس اندر فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۔ نُس مہ کھو ژو تہن کافر ن۔ ہلچہ کھو ژو مے یعنی میانین احکامن ہنز مہ کرو مخالفت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ از کہ دوہہ کر مکمل مہ ٹہندہ خیطرہ ٹہندہ دین۔ قوتس اندرتہ احکامتہ قولعدن ہندس پور کر نس اندرتہ سمہ سیت کافر ما یوس سید وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا بیہ کر میہ امہ اکمال دین کرنہ سیت پور توہہ پیٹھہ پن نعمت۔ بیہ رو دس بو ٹہندہ خیطرہ راضی، ٹہندہ دین دین اسلام آسنس۔ بیہ چھو مہ ٹہندہ دین آسنہ موکھہ ہمیشہ ہند۔ وون روزہ قیامت تان ٹہندہ یوہے دین۔ بیہ دین منسوخ کرت بیہ نہ بیا کہ دینا ہر گز تجویز کرنہ۔ نُس شوبہ توہہ شکر گذار سید تھ اتھ دینس پیٹھہ پور قاسم روزن۔ امہ کین احکامن پیٹھہ پور پابندی کرت۔ امہ بروٹھہ سم احکام توہہ بو زوہ کہ کم چیز چھہ حرام تھ متعلق چھہ بیہ کتھ کہ قَمِينِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ نُس نُس شخصہ ہر ایشان آسہ سید مت بو چھہ ہندہ سببہ، کتھ گنہس گن مایل سید نہ خیطرہ نہ، سوی مہ حرام چیز و اندرہ کانہہ چیز کھیہ تس چھو اجازت تمیک فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ وون سیٹھاہ رحم کرہ وون يَسْأَلُونَكَ مَاذَا حَلَلَّ لَهُمْ لَوْكُھہ چھہ توہہ پر ژھان کہ شکار ہونیوتہ پازہ سندر ٹیو جانور و اندرہ ٹہہ کہہ جانور آوٹہندہ خیطرہ حلال کرنہ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ ٹہہ فرما بود کہ حلال آئے تھاونہ بدستور ٹہندہ خیطرہ ہم ساری حلال جانور سم

مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَ نَهْنٍ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فكلُوا مما آتاكم من السماء من السماء
 واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب ﴿۳﴾
 اليوم اهل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل
 لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات

ہو نین تہ پازن ہندہ ذریعہ شکار کرنے بروٹھ حلال کرنے آمت آسن۔ ہونین بیازن ہندہ شکار کرنے سیت یا
 تہندہ آس منزر ہندہ سیت پیہ نہ تہندس حلال آسٹس پیٹھ کانہ اثر وما علمتہ من الجوارح مکیبین
 تَعْلَمُونَ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ بیہ سم شکارہ جانور تہہ پچھہ ناویو کہ شکار کرن تمہ طریقہ سمہ طریقہ تہہ
 اللہ تعالیٰ ان شریعتہ ذریعہ پچھہ ناوہ سو طریق گوئیو ہے کہ ہون گڑھہ پچھہ ناون کہ شکار س رٹھ مگر
 تمسندہ مازہ منزہ کھیہ نہ پانس اکھہ رٹھہ تہ۔ تھہ پاٹھہ پیہ پازس تعلیم دنہ کہ ہر گاہ تس وانس پیہ خیطرہ
 آوازیہ دنہ، فور ایہہ وانس، سوے اڈہ شکار س پتہ دوران تہ آسہ فكلُوا مما آتاكم من السماء من السماء امہ قسمک
 شکارہ جانور نُس شکارہ تہندہ خیطرہ رٹھہ آن، پُس کھیو تہہ حمہ منزہ واذكروا اسم الله عليه بیہ آسو تم
 ہون بیاز شکار س پیٹھ تراوچہ وقتہ خدایہ سندا ناوہ ہوان یعنی بسم اللہ پر تھ آسئو کہ تراوان۔ بیہ کھو ژو تہہ
 خدائس تم سارنی تھن اندر یعنی تمک آیت کریمین اندر فرماو اللہ تعالیٰ ان شکار جانورن ہندہ ذریعہ
 شکار کر نکب ژور شرط۔ اکھ گو شکار ہون وغیرہ گڑھن شکار کرن پچھہ ہون۔ تو پتہ سن تم شکار س پیٹھ
 تراوند۔ بیہ ایہ امہ وقتہ بسم اللہ پر نہ۔ بیہ واتاوان تم سو شکار توہہ برٹھ گن واتقوا الله بیہ
 آسو سارنی کایین اندر اللہ تعالیٰ اس کھوژان۔ شکار کر نس منزہ آسو تمہہ قسمہ مشغول سپدا انکہ نماز یا بیو
 فرایضو نشہ سپد وغافل۔ یا شکار حلال سپد نہ کیو۔ تمو ژور و شرطو اندرہ منہ شرطس منز کرو پہلو تہی۔ ان الله
 سریع الحساب بیشک اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ جلد حساب ہیوہ دن سمہ پتہ سو سارنی جزاتہ سزاویہ۔ لہذا
 گڑھہ تس کھوژان اليوم اهل لكم الطيبات اڑکہ دوہہ پیٹھ پاٹھہ دینی، ابدی امہ انعامہ سیت تہہ
 مشرف سپدہ تھہ پاٹھہ آو توہہ اکھ ذنیوی انعامہ تہ عطا کرنے سو گوئیہ کہ از آی حلال کرنے تہندہ خیطرہ
 رتہ تہ پاک چیز ہمیشہ خیطرہ ہم نہ زانہہ تہ آئندہ حرام سپدن و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ۝

وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ بِیہ چھو تہندہ خیطرہ حلال تمن لوکن ہندہ اتھ کھش کرنہ آمت جانوریا تہندہ اتھ زنہ آمت غذا تمن کتاب آیہ عطا کرنہ یعنی بہودتہ نصاری۔ بیہ چھو تہندہ اتھ کھش کرنہ آمت جانوریا رنہ آمت طعام تہندہ خیطرہ حلال وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بیہ چھو پاٹھ حلال چھہ تہندہ خیطرہ آزاد پاک زنانہ با ایمانو آندرہ بیٹھہ پاٹھ چھہ حلال پاک زنانہ تمولو کو آندرہ تمن تو بہہ بروٹھہ آیہ کتاب عطا کرنہ یعنی بہودتہ نصاری او آندرہ یلہ جہہ باقاعدہ تمن مہر تہندہ عطا کر و مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ درحالیکہ توه آسیدو کہ تمہہ زنانہ پنہ نس نکاحس اندر آندہ ون۔ تمن سیت ننن پاٹھ چھہ کام کرہ ون آسونہ۔ الحاصل کتابی زنانہ سیت نکاح کرن چھو شریعت اسلامیس اندر جائیز مٹرک زنانہ سیت چھونہ جائیز تمہہ خیطرہ چھو صریح حکم ممانعتک قرآن مجیدس منز موجود وَلَا تَنْكِحُوا النَّسْرَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ مٹرک زنان سیت مہ کرو نکاح یوتان نہ تمہہ ایمان آن۔ مگر یہ تھہ گڑھہ تھاون یاد کہ سانہ وٹک نصاری چھہ عموماً ناوہ خیطرے نصاری تمن آندر چھہ اکثر تم تمن نہ ٹنہ آسمانی کتابیہ مانان چھہ نہ چھہ ٹنہ مذہب مانان بلکہ چھہ تمن خدا میس تہ مانان تمن اہل کتاب ون چھو بے کار۔ لہذا تہندہ مذہبک حکم یا تہنزن زنان ہند حکم چھونہ اہل کتابن ہند ہیو حکم۔ بیہ گڑھہ تھاون نظرہ تل کہ ٹنہ چیز مہ حلال آسک مطلب چھو کہ تھہ اندر چھونہ در ذات خود کا نہہ حرام آسک وچھاہ۔ مگر ممکن چھو کا نہہ خارجی چیز آسہ تمہہ قسک لبہہ یوان سمہ سبہ سو حلال چیز استعمال کرنہ سبہ بہ وار بہنن حرام چیزن ہندار نکاح آسہ سدا ان بلکہ آسہ خطرہ ٹھرس بتلا سدا نک تھہ حلال چیزہ سیت فاسدہ تہ نفع تلن چھونہ جائیز موجودہ زمانس منز بہودتہ نصاری ان سیت ووٹھن بہن۔ کیون چون بے ضرورت اختلاط کرن، تہنزن زنان ہندس زانس آندر لکن تمن چیزن ہندس نتیجہ نیر ان چھو صحیح چھہ ساری پور خبر۔ لہذا چھو بدی نشہ تہہ بددینی ہند یو اسباب و ذرایع نشہ اجتناب کرن تہ لوب روزن لازم وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ بیہ نیارز لاگھہ پوشیدہ پاٹھ چھہ کام کرہ ون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَسْتُمْ بِالنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ بہ نِس اکھاہ شر یعتکین لحمین انکار کرہ، یعنی حلال قطعی زانہ حرام تہ حرام قطعی زانہ حلال ہمہ کس حلال آسئس تہ سمہ کس حرام آسئس کرہ انکار۔ پس تحقیق تمنز پریتھہ رث عملاہ گزھہ ضایع تہ برباد۔ سو شخص آسہ آخرتس اندر تاوان تہ نقصان زدو آندرہ لہذا از ابو حلال چیز حلال تہ حرام چیز حرام **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ** ای بایمانویلہ ہنہ نماز پر نہ خیرہ و تھان آسو نماز ادا کر نک ارادہ کران آسو ہتھہ حاکس منز کہ ہنہ آسو باطہارت تہ با وضو جس کمر و گوڈہ وضو حج طریق چھہ یہ کہہ **فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ** پس آسو گوڈہ پھھلان ہتھہ ہنن یہ نہ پنے کھونہ وکن تان۔ بیہ آسو مح کران یعنی اوریو اتھو دیوسیت کس پنے نس ہتھس دوان۔ بیہ آسو کھ کھور ہنن نہ نین تان پھھلان۔ سم ژور چیز چھہ طہارت تک فرض امہ علاوہ باقی چیز گئے سنت تہ مستحب **وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا** ہر گاہ ہنہ آسو بے غسل۔ تلہ کرو نماز لاگنہ برو نھہ سو زوی بدن پورہ پاک۔ ورنہ کنتم مرضی اوعلی سفیر ہر گاہ ہنہ بیمار آسو آب استعمال کرن آسوہ مضر یا مسافر آسو آب میسر پدن آسوہ دشوار اوجاء احد منکم من الغائط یا بیہ توبہ آندرہ کانہہ بڈہ حاجتہ یا لکھہ حاجتہ نشہ فارغ ہدیت **أَوَلَسْتُمْ بِالنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً** یا کر و اورہ یور تھپ زنان سیت یعنی تم حرکات سمو سیت غسل منہ گھسان چھو توپتہ کہونہ موقعہ آب استعمال کر نک آب نہ بنہ مکھہ یا آب استعمال کرن مضر آسنہ مکھہ **فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا** پس کروانہ بدل میثر استعمال کر نک ارادہ

طِيبًا فَاَمْسَحُوا بوجوهكم وَايديكم مِنْهُ مَا يَرِي اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَ
لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۶﴾ وَاذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ
قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاَتَقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

فَاَمْسَحُوا بوجوهكم وَايديكم مِنْهُ سمہ طریقہ کہ دیکھ پھس پیشترہ پیٹھہ ژنڈ دتھہ آتھوسیت پنہ نین
بٹھن، پنہ نین زرین، تھہ چیزس پیٹھہ دویدو آتھو ژنڈ دتھہ لیس زینیکہ جلسہ آسہ یعنی لیس نہ پارس منز ویگلہ
مَا يَرِي اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ اللہ تعالیٰ چھونہ یشھان توبہہ پیٹھہ کیاہ تراوہ ٹنہ سچ تنگی تہ سختی
سمہ سیت تہہ پریشان گدہ ہو وَاَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ بلکہ چھو یشھان اللہ تعالیٰ توبہہ پاک و صاف
کرن تھی موکھ کرن مقرر طہارتک احکام تہ قواعد۔ بیہ کرن نہ اکے صورتھہ طہارتچ یعنی فقط آبہ سیتی
یوت۔ بلکہ کوزن کہ ہر گاہے کانسہ آب بنہ تمہ ساتہ بیکہ سومیدہ سیت تہ تنم کر تھہ۔ تھی سیت بیکہ
سوبے غسلی تہ بے وضوئی نشہ پاک سہت وَاَلِيْتَهُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بیہ
چھو یشھان اللہ تعالیٰ پور کرن ہن نعمت توبہہ پیٹھہ تھہ تھہ آتھہ مہربانی پیٹھہ شکر گزار سپد و نعمن ہنز قدر
زانو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ بیہ پاو و ژتیس خدایہ سزہ نعمہ سمو نعمتو آندرہ ہڈ نعمت گنیہ کہ تم کر
تہنزہ فلاح و دستگاری خیطرہ اسباب و ذرائع مقرر و مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ بیہ کردیاد تہند سو
معابدہ لیس تم توبہہ سیت کورمت چھو۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا یلہ توہ دوپ و ہو زاسہ تہ مؤن
آسہ پر تھہ کلمہ پرہ و ناہ چھو بزبان حال سمعنا و اطعنا و ناں کلمہ پرہ و ثوی گو سمعنا و اطعنا و نہ و ناں اگر چہ زیوہ
سیت مہہ کرتن سم الفاظ بیان وَاَتَقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بیہ کھو ژو خدا لیس ہن پاپ
اللہ تعالیٰ چھو پور زانہ و ناں دلہ چن سٹھن لہذا ایسہ کام کرو سو کرو و کمال اخلاص محض خدایہ سہدہ رضا
خیطرہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ اکی با ایمانو خدایہ سزہ خوشنودی خیطرہ روزو

الصُّدُورِ ۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ
 شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
 الْآتَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۸ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۹
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَحِيمِ ۱۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

استادہ خدایہ سند احکام بجاننہ خیطرہ شُہدَاءُ بِالْقِسْطِ ہر گاہ شہادت تہ گواہی درج نوبت بیہ تمہ
 ساتہ آمرو عدل وانصافہ سان گواہی دوان وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى الْآتَعْدِلُوا بیہ منہ
 کترن توہمہ آمادہ منہ قویج دُشمنی تین نسبت بے انصافی کرنس پیٹھہ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
 پریتھہ حاکس منکر و عدل وانصاف تی چھو یژ نزدیک پر ہیز گاری۔ تقوی اختیار کرن چھو توہمہ پیٹھہ
 فرض بیاڑہ اللہ تعالی چھوہ فرمادان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بیہ کھوژو اللہ تعالی
 سزہ نافرمانی کرنہ نشہ۔ پڑپاک اللہ تعالی چھو پور خبر تھاوہون تھنزن سارنی کاین ہنز وَعَدَّ اللَّهُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وعدہ کور اللہ تعالی ان تین لوکن بیو
 ایمان اتھہ رثہ عملہ کرہ کہ تھنہہ خیطرہ چھو بوڈ مغفرت تہ بد مزور وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ بیہ سمبولو کوانکار کور پوز دین قبول کرنہ نشہ بیہ زانک اہیز سان
 آیات تہ لوک گے جھنمس اندر روزن والِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 اکی با ایمانو ژتیس پاوو خدایہ سز نعت تہ احسان اذْهَمَّ قَوْمًا أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِلَيْهِ

عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ
فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ
لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْهُمُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

تو من یعنی قریشو، مکہ کیو کافرو قصد کریو توہمہ کن بن آتھ زبھر اونک یعنی توہمہ پیٹھ ہنکہ تہ منکہ حملہ
کر نک، یلہ جہہ ونہ ضعیف آسہ۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ پس رٹ اللہ تعالیٰ پتھ تہمد آتھ پنہ فضلہ
تہ کر مہ سیت۔ تمن دُئین نہ توہمہ پیٹھ غالب سپنہ۔ یہی نعمت یاد کرتھ وَاتَّقُوا اللَّهَ کھوژو اللہ تعالیٰ
اس تمسندین احکامن ہنزمہ کمر و مخالفت۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ خدایہ سی پیٹھ بیہ نہ کانہ
پیٹھ پڑہ اعتماد کرن با ایمان ہمیشہ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ ان
کرہ ناؤ بنی اسرائیل عہد حضرت موسیٰ سدہ خیطہ۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا بیہ کر اسہ
تمو آندرہ باہ (۱۲) سردار تہمد نمایندہ مقرر وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اللہ تعالیٰ ان فرمو وکھ بوجھوس
توہمہ سیت پریتھ وقتہ تہمد سو زوی حال وچھان لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْهُمُ سو عہد اوس ایزہ کہ ہر گاہ تہ نماز برپا تھا و بیہ زکوٰۃ ادا کرو بیہ روو پڑھ
کر ان میانین سارنی پیٹھ برن بیہ کمر و تمن مدد تہمدین دشمن سیت مقابلہ کرتھ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا بیہ کمر و زکوٰۃ علاوہ خیر چن کائین آندر تہن مال خرچ بیتھ اللہ تعالیٰ جھو قرض فرماوان قرضہ
زرت رہ مالہ آندرہ دلس پیٹھ بورجہ و رای۔ بیتھ آو قرض ناو تھا ونہ امی موکھ کہ بیتھ پاٹ قرض ادا نیگی

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۳﴾ فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۚ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴﴾

بہے لازمی آسان۔ تھے پاٹھ کرہ اللہ تعالیٰ امیک عوض تہ بدلہ عطا لاکفران عنکم سبب انکم البتہ ضرور کرہ ہو بخشایش تہندین گوئمن ولادخلتکم جنت تجری من تحتہا الأنہار بیہ واتاودو ہو تہمن جئن الدر سمو منز جو یہ پکان چہہ فممن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سوا السبیل پس ئس امہ عمدہ پتہ تہ گھر کرہ پس ہز پاپ سؤ دول سیزہ وتہ نشہ سبٹھاہ دور۔ فبما نقضتم ميثاقهم وجعلنا قلوبهم قسيه لیکن بنی اسرا نیلو پھڑ وو سو عہد۔ تمی سببہ گے تم گر قار رنگار رنگ مصیبین بیہ سید مہربانیہ نشہ محروم رحمت والطافونشہ دور۔ تمی لعنتک اثر اوس کہ تہندہ دل کراسہ سبٹھاہ سخت۔ ہون تھن ہند اوس نہ تمن کا نہ اثر سپدان یحررفون الكلم عن مواضعہ چنانچہ تہندہ عالم آس بد لاوان تورا تہ کین کلمات تہ عبار تہس پنہ جاہ نشہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ بیہ مشروو تمبو اکھ بوڈ حصہ تمبو لعیجتو آند رہہ سمہ تمن گرنہ آسہ یوان تمن منز تہندہ خیطرہ فلاح دارین اوس ولاتزال تطلعون علی خائنة منهم الا قلیلا منهم ونہ چھونہ تمن ہین۔ چنانچہ توہمہ روزہ تہندین خیانت تہ بد نیتن ہند ہمیشہ اطلاع سپدان۔ مگر نہ تمبو آند رہہ کم کنیشن لوکن ہند سم مشرف بہ اسلام سپد تمبو آند رہہ فاعف عنہم واصفح ان الله یحب المحسنین پس کمر و جہہ تمن معاف بیہ درگدہ۔ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو دوست تھاوان احسان کرہ ونین بندن ومن الذین قالوا اننا نصری اعدا تا ميثاقهم بیہ تمبو آند رہہ سم ونان چہہ اس چہہ نصاریٰ یعنی

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ
فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ وَسَوْفَ
يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٣﴾ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا
مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ
كَثِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

پہنہ نس و نيس نصرت کره ون) تمن نشه بتر رث اسه ایمان و عمل کر نس پیٹھ عمد۔ فَسَوَّاحَطَّا مِمَّا
ذُكِّرُوا بِهِ کس مشر و ترموتہ اھ لود حصہ تمو نصحتو اندرہ تمیم تمن کرنہ اسه یوان تمن منز تہندہ
خیطرہ فلاح دارین اوس فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کس
تیز گور اسه تمن منز بغض و عداوتک نار قیاس تام۔ کیا زہ تمن منز تہ سپد ترہ ۳ فرق۔ اھ لسطوریہ۔ یم
حضرت عیسی اس چھہ خدایہ سند پتو مانان۔ بیا کھ یعقوبیہ یم حضرت عیسی اس چھہ خدلمانان تر یم ملکانیہ یم
حضرت عیسی اس چھہ تر یو اندر و اھ خدلمانان امنی چھو پانہ وان سخت اختلاف وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ
اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ آئندہ کرہ اللہ تعالی خبر تمن تمہ ساریچی یہ تم کران آس، تو پتہ
کر لیکھ گز فتر عذاب آخر ترس اندر یَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا آی الہل کتابو یہود و ن
نصارو ہز پات آو توہمہ کن سون پیغبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا
كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ یہندہ ہلک شان چھو کہ تم چھہ وارہ نر او ان توہمہ واریاہ تھہ تمو کھو
آندرہ ہمہ توہمہ کھٹھہ تھوان چھوہ تورات و انجیلہ منزہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ یہہ چھوہ توتہ وار سکن
تھن در گزدر کران قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تھیق ووت توہمہ کن خدایہ

مُبِينٌ ⑤ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
 سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ⑥ لَقَدْ
 كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ
 الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ

سندہ طرفہ ہدایتک بود نور بیہ روشن نہ صاف بتابہ یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
 سُبُلَ السَّلَامِ وَتھ چھو ہاوان تمی سیت اللہ تعالیٰ تمن لوکن تم طالب چھ تہندہ رضا مندی ہند،
 سلامتی ہنزن دتن کن وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ تمنی کڈان کھر چو نہ نافرمانیو
 ہنز وگھو آندرہ ایمانہ کس نہ فرمانبرداری ہندس گاش کن وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ بیہ
 چھلکھ ہاوان سو و تھ یوسہ و تھ سیز چھ تھ پیٹھ چھو کہ تھواوان قائم نہ محکم لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ بیگ تم لو کہ چھہ کافر سمو وون خدا چھو عین مسیح، مریم
 سُنْدِيُو قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ
 فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا تھہ ہر تھو تمن ہر گاہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مرتمس حضرت عیسیٰ اس، بیہ
 تہنزہ ماجہ، بیہ تم زمینس پیٹھ آباد چھہ تمن سارنی گان یرتھہ۔ نس کہہ اکھاہ بیگھ کڈہ چیزس خدا نس نشہ
 مالک لاکھہ نہ تمن چچاوتھ و لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خدلیہ سزنی پادشاہت
 چھہ آسمان نہ زمین آندر، بیہ یہ تمن دون منز باگ چھو تھہ آندر يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُو چھو پیدہ
 کران یہ یرتھان چھو وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُو چھو پر تھہ چیزس پیٹھ کڈر نہ

مَا يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
 وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا ۗ وَالْيَهُودُ الْهٰصِرُ ﴿۱۸﴾ يَا هٰهٰلِكَ الْكٰتِبُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا
 يَبِيْنُ لَكُمْ عَلٰى فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسْلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ

دول۔ تم بڑھ آسمان وزمین بے مادہ پیدہ کرن تی کرن۔ تم یوڑھ حضرت آدم بے پدر مادہ پیدہ کرن
 تی گزوں۔ تم بڑھ حضرت حوا بے مادر پیدہ کرن تی کرن۔ تم یوڑھ حضرت عیسیٰ بے پدر پیدہ کرن
 تی کورن وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ یہود و نصاریٰ
 چھہ دعویٰ کران کہ اس چھہ خدایہ سُنْدُچُو بہیہ تہند دوست تہ محبوب یعنی اولادان تہ مجبور ہند پاٹھ چھہ
 اس مقبول۔ ہتہ فرما یو کہ ادہ کیا زہ کرہ سو توہہ تہنژ ونا فرمایو سبہ عذابس گرفتار آخرتس اندر۔ توہہ
 چھہ کانہہ خصوصیت بین لوکن ہندہ خوتہ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ بلکہ چھوہ توہہ تہ تمبوے عام لو کو
 اندرہ تم تم پیدہ کر یَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کس یشہہ کس کرہ مغفرت کس یشہہ کس کرہ
 عذاب۔ آسانی کتابن اندر چھو ثابت کہ مغفرت ہنہ کس کس بایمان آسہ۔ کافرن تہ مشرکن ہندہ خیطرہ
 چھو عذاب ابدی مقرر کرنہ اُمّتِ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْيَهُودُ الْهٰصِرُ یہ
 چھہ آسمان تہ زمین ہنژ پادشہت یہیہ کیوہاہ تمین درمیان چھو تمہہ سارہی پادشہت خدایہ سنزے
 یاثر۔ یہیہ چھو سارنی کس کن پتولا کہ واٹن۔ يَا هٰهٰلِكَ الْكٰتِبُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يَبِيْنُ لَكُمْ عَلٰى فِتْرَةٍ مِّنَ
 الرَّسْلِ اکی اہل کتابو پزپاٹ آو توہہ کن سون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم توہہ شریعتک
 احکام ن پاٹھ بیا کران چھہ تھی وقتہ کہ پیغمبرن ہند من اوس واریاہہ کالہ پیٹھ ہند سپد مت اَنْ تَقُوْلُوْا مَا
 جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَلَا نَذِيْرٍ یہ پیغمبر برحق آو توہہ کن سوزنہ، پیٹھنہ توہہ و نتھہ ہیو قیامتک ڈوہہ آسہ

وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۝۱۹ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۲۰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا لِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝۲۱ يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ

نہیہ آونہ کانہہ خوش خبرونہ وناہیا بيم کرہ وناہ **فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ** پس پزپاٹھ آوتوبہ کن بشارت فرماوہ و ن تہ بيم کرہ و ن تہ۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم **وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزس پیٹھہ قدرتہ و ول منزہ کنہیہ کالاہ پیغمبرن ہند سلسلہ بند کرنس پیٹھہ تہ، توپتہ بیہ پیغمبر سوزنس پیٹھہ تہ **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا لِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ** بیہ چھو سو وقت تہ قابل ذکریلہ حضرت موسیٰ پیغمبرن فرمووینہ نس قومس ای میانہ قومہ ژتیس پاو تہمہ نعمہ، سمہ اللہ تعالیٰ ان توہمہ عطا کرہہ **إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ** اکھ نعمت گمہ کہ توہمہ منزہ بناون واریاہ پیغمبر مثل حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ، بیہ حضرت ہارون علیہما السلام وغیرہ **وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا** بیہ بناونوہ تہہ پادشاہ۔ چنانچہ فرعونہ سندس ملکش پیٹھہ کورودہ توہمہ قبضہ **وَالنَّكْمُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ** بیہ گرہ نوہ توہمہ تمہ تمہ نعمہ عطا سمہ کانہہ کرین عطا عالیو اندرہ۔ دریاو منز دژن توہمہ و تھ۔ تہہ تاری نوہ اپور، تہند و دشمن فرعون تہہ تہنز لشکر کرن غرق تھہ دریاوس منز **يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ** ای میانہ قومہ تمہن نعمن تہ احسان شوہہ قدر کرن۔ خدایہ سندس جہادہ کس تعمیل کرنہ سیت، آژوشاکس ملکش اندرئیس تہندہ حکمرانی خیطرہ اللہ تعالیٰ ان مقرر گورمت تھہ۔ کرو اتھ اندر آژتھ عمالقن سیت جماد۔ بیہ ملک چھو تہندہ خیطرہ اللہ تعالیٰ ان مقرر کورمت لہذا سپدہ توہمہ اتھ منز اژہ و نوئی فتح حاصل **وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ** تہندہ پوت پھیرو، دشمن سیت مقابلہ کرنہ نشہہ و انہس ایوہ

فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿۲۱﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ
وَأِنَّا لَنُ نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا
فَأِنَّا دَاخِلُونَ ﴿۲۲﴾ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانكَبُوا
عَلَيْكُمْ هَٰ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾
قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنُ نَدْخُلُهَا أَبَدًا إِنَّا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ
أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿۲۴﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي

سو پوت پھرن تہند آسہ تہندہ حقہ سیٹھاہ نقصا تک باعث قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ دہنہ
لگ ای موسیٰ آتھ ملکس اندر چھہ زبردست لوکھ روزان۔ اس بیکو نہ تین سیت مقابلہ کرت وَاِنَّا
لَنُ نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا اَس اژونہ ہرگز آتھ ملکس اندر یوتان نہ تم امہ ملکہ منزہ نیرن
فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَأِنَّا دَاخِلُونَ کس ہر گاہ تم نیرن امہ ملکہ منزہ تل اثواس ضرور قَالَ رَجُلَيْنِ
مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا امہ ساتہ و تھہ مرد جوراہ تین پوشع تہ کالب ناواوس، خدا ایس
کھوژہ و نیو آندرہ۔ تمکن پیٹھ اللہ تعالیٰ ان پنن مہربانی کر مژ آس۔ تمبو دو پیک اکی بنی اسرا یلیو ادْخُلُوا
عَلَيْهِمُ الْبَابَ وَ تھواژو تھہ امہ شہر کس دروازس تام فَادَا دَخَلْتُمُوهُ فَانكَبُوا عَلَيْكُمْ تھہ یلہ دروازس
تل واتو تھہ سپد و ضرور تمکن پیٹھ غالب وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بیہ کرو خدا بیہ سی
پیٹھ توکل ہجھوے با ایمان دشمن ہندس بے ایمان آس پیٹھ مہ کرو نظر۔ مگر تمکن پیٹھ سپدہ نہ تہنزہ
نہما پیٹھ ہند کا نہہ اثر۔ بلکہ کورنہ تمبو تین دون شخصن ہنزہ نہما پیٹھ کن کا نہہ توجہ۔ تہنزہ تھہ و تھہ نہ جو ابے
قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنُ نَدْخُلُهَا أَبَدًا إِنَّا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ تم
لگ توتہ و ہنہ ای موسیٰ اَس نہ حض اژونہ ہرگز اتھ شہر س منز یوتان ایک لوکھ جبارین اتھ منز

لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
 الْفَاسِقِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۶﴾
 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ
 مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ
 إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۲۷﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ

روزن۔ ہر گاہ وئی تین سیت جنگ کرن چھوٹلہ گڑھو جہہ تہ تہند پروردگار۔ ٹہی زہ کرد تین سیت جنگ
 سون طاقت چھونہ اس بہو وہیہ نی۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَأَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي حضرت موسیٰ ان
 کور دُعا پروردگار امیہ چھونہ اختیار مگر پنہ نی پانس پیٹھ۔ بیہ پنہ نس پانس حضرت ہارونس پیٹھ
 فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ نس مناسب فیصلہ کر ژہ اسہ منزبہ اتھ نافرمان توئس منز
 قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
 اللہ تعالیٰ ان فر موئس چھو میون فیصلہ یہو ی کہیہ ملک روزہ ژ تہن ورین تام تہن پیٹھ حرام۔ ہم ہمکن
 نہ اتھ پیٹھ تسلط حاصل کر تھ۔ ہم روزن اتھ میدانس منز حیران۔ اسمہ طرفہ یوان بیہ طرفہ گڑھان۔
 اتھ و تھانہ یوان کئہ طرفس کن۔ لہذا نہ کھیو جہہ امہ نافرمان توئگ کانہ غمی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي
 آدَمَ بِالْحَقِّ ای پیغمبر برحق بیہ پیر و حض تہن لوکن کن پانس پیٹھ جہہ حضرت آدمہ سندن دون پٹون ہائیل
 نہ قابیلہ سُنَد قصہ۔ پز پائٹ پیٹھ تہن نیک لوکن کن پانس نسبت کرہ تک غرور تہ تکبر زانہہ إِذْ قَرَّبَا
 قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ یلہ تمہو دوشوی قربان کور خدایہ سہہ خیطرہ ہس آو
 قبول کر نہ اسہدوی قربان ہس ہائیل ناؤاوس۔ سو اوس قبولیتس لائق۔ بے سُنَد قربان ہس ناؤاوس قابیل
 آونہ قبول کر نہ کیا زہ سو اوس نہ تھہ لائق۔ بیہ اوس ہائیل پز نس پیٹھ۔ قابیلہ سُنَد دعویٰ اوس غلط۔
 قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قابیلن دُوب ہائیس یومار تھہ ژہ ضرور قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ہم

لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدَي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ
 اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۸﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ
 إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۹﴾
 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴿۵۰﴾
 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِئِي
 سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُؤَيِّلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا

دوبس۔ میون قصور چھونہ کینہہ تہ۔ قبول چھونہ یوان کرنہ مگر پرہیز گارئی ہند نیاز لہن بسطک الی
 یدک لتقتلنی ہر گاہہ اتھ زبھر اوکھ میہ کن میہ مارنہ خیطرہ ماآنا بسطییدی الیک لاقتک
 یو ہرگزین اتھ زبھر اونہ ژیہ کن ژیہ مارنہ خیطرہ۔ تہ نہ سمہ موکھ کہ یوکیاہ پوشے نہ ژیہ چانہ کھوتہ
 چھوم طاقت زیادہ مگر **إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ** محض سمہ موکھ کہ یو چھوس کھوژان خدا بس
 ئس ساری جہانک پروردگار چھو **إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ**
وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ میون ارادہ چھو ژہ گرہھکھ گرہھن میانہ قتلک گناہ ہتھ تہ۔ پینہ نافرمانی ہند گناہ
 ہتھ تہ تاسکہ بچھہ ژہ پوختہ پانھہ نار جہنم منزواتن والیواندرہ۔ تی چھوسز اظالم ہند **فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ**
قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ پس اجازت دیت تمس نفس پئن یوی مارنک بس موژن سو **فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ**
 توپتہ سپد سو تاوان زدواندرہ۔ توپتہ سپد حیران کہ یوکیاہ کرہ ہای سندس لاش **فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ**
فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِئِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ادہ سوز اللہ تعالیٰ ان کاواہ اکھ سم تونہ سیت تہ بچو سیت
 زمین ہیوت کھن۔ توپتہ کھنن دوبہ ہنا توپتہ اونن بیاکھ مردہ کاواہ سوتروون اتھ دوبس منز۔ پٹھ
 تراونس میو۔ امی موکھ ہتھ ہاوہ اللہ تعالیٰ اس قابلس سمہ ہتھ پانھہ دو براوہ سو ہای سندس لاش تہ
 بدس۔ چنانچہ قابلس یلہ وچہ کاوہ سند یہ حال تہنہ لوگ **قَالَ يُؤَيِّلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا**
الغُرَابِ فَأَوْرِي سَوْءَةَ أَخِي یلہ کاوہ سند حال وچھون دہن افسوس چھو میانہ خیطرہ ہکیاہ بوچھوسہ

الْغُرَابِ فَأَوَارِي سَوَاءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ الشَّدَائِمِ ﴿۳۱﴾
 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ
 قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
 النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُفُونَ ﴿۳۲﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

عاجز سمس کاوس ہیو بنہ نشہ تہ۔ اُسندی پاٹھ تھوون بای سندن دوبراوتھہ فاصبح من الشدائمن
 اُسنہ پتیلہ دوبروان تہ سپد نام تہ پشیمان کیازہ وری اوسس گومت ڈاک، بای سند لاش تہ بدن لکہ وان، اورہ
 یور پھر وان، یہ اوسس نہ فخرہ اندر یوان سمس کیازہ کرہ بو من اجیل ذلک کتبتنا علی بنی اسرائیل انہ
 من قتل نفسا بغير نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً اتھ کن نظر کمر تھہ کہ خون
 ناحق کمر تھہ کیا چھوپانہ قاتل نام تہ پشیمان سپدان، لیو کھ اسہ یہ حکم ساری انسان ہندہ خیطرہ عموماً تہ بنی
 اسرائیلن ہندہ خیطرہ خصوصاً کہ پز پاپ سم شخصن مور کانہ شخصہ ناحق۔ در حالیکہ تم اوس نہ
 مورمت کانہ شخصہ انہ اوسن ز مینس منز کانہ فتنہ و فساد پر پار کورمت زن تم مار ساری لو کھ ومن
 احياءها فکانما احياء الناس جمیعاً بیہ سم بچو کانہ شخصہ مارہ گھنہ نشہ زن تم بچاوساری لو کھ۔
 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات پز پاپ آئی تمن نشہ یعنی بنی اسرائیلن نشہ اُمنہ کھمہ پتہ سان پیغمبر
 نہ دلیلہ بیتھ۔ بیہ اتھ کھمس تائید کران نُثران کثیراً منہم بعد ذلک فی الارض کسرفون تو پتہ
 تہ چھ بے شمار لو کھ تموا اندرہ تو تہ ز مینس اندر زیادتی کران تمن سپدنہ کانہ اثر بلکہ کمر تموشہد بعضہ
 پیغمبر تہ۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کانہ سزا چھونہ
 تمن لو کن ہند سم جنگ کرن خدا یس تہ تھندس پیغمبرس سیت تھہ پاٹھ کہ کوش گزن ز مینس اندر

يُصَلُّوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۳﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا

بدامنی تہ فساد پھیلاؤ۔ مگر شوہر تمین یہوی عزاکہ۔ اَنْ یُقَاتَلُوْا اَوْ یُصَلُّوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیْہُمْ
 وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ تم گدھن مارنہ بین شمشیرہ سیت اگر تمو کا نہ
 شخصہ مورمت آسہ یا گدھن پھہہ دن ہر گاہ تمو کا نہ مورمت آسہ یہ آسکھ مال تہ نیومت۔ نتہ گدھنک
 اتھہ کھورٹن اوڑک یور کھر تھ۔ ڈچھس اتھس سیت کھو فرنگ۔ ہر گاہ تمو مالنی یوت نیومت آسہ
 مورمت آسکھ نہ کا نہ نتہ گدھن ملک بدر کرن ملکہ منزہ کڈن۔ ہر گاہ تمو مورمت آسہ نہ کا نہ نہ
 آسکھ مال نیومت صرف آسکھ تمیوک قصد و ارادے کورمت ذلک لہم خیزی فی الدنیا یہ
 کیہ تہندہ خیطرہ بڈرسوائی دنیاء س اندر و لہم فی الآخرة عذاب عظیم بیہ چھو تہندہ خیطرہ
 آخرتس اندر عذابہ سیٹھاہ بوڈ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مگر نہ تمین لوکن سموتو بہ کور تہندہ تمین پیٹھ غالب سپد نہ برو تہہ۔ کس زانو اللہ
 تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا
 إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ای بایمانو کھو ژو خدا نیس تہندہ کن حکمن مخالفت کر نہ لٹھ یعنی گنہو لٹھ روز و پٹھ۔
 بیہ ژھانڈو تہندہ قرب تہ نزدیکی تسز فرمانبرداری کر نہ سیت یا ژھانڈو تم اسباب تہ ذرائع سمو سیت
 تہنز نزدیکی تہ قرب حاصل سپدوہ۔ ساروی ذریکو کھو تہ گو بوڈ ذریعہ پیغمبر خدایہ سنز پیروی کرن وَمَا
 أَنكُرُ الرَّسُولَ فَعُذُوهُ وَمَا نُهَكُم مِّنْهُ فَأَتَتْهُمُوهُ اس پیٹھ پور عمل کرن۔ یوہے چھو یوڈ وسیلہ قرب خدا
 حاصل سپد نک۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماندان امہ پتہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿۳۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَأَنَّهُمْ مَتَانِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۶﴾
يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ التَّارِ وَمَاهُمْ يُخْرِجُونَ
مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۷﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

بہ گم و تہیزہ و تہ اندر جماد۔ یہ نئس راہ عمل تہندہ خیطرہ تم مقرر کور۔ تہ منز کور پور جد و جہد تہ تہ
رستگار تہ کامیاب سید و ان الذین کفروا و الوان لہم متانی الارض جمیعاً و مثلاً معہ لیفتدوا
یہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم و لہم عذاب الیم ہنز پات سمو مقرر تہ انکار کور
ہر گاہ تہندس قبض منزیہ سو سوروی مال و دولت نئس زوی زمینس منز چھو ظاہر تہ پوشیدہ بہ تیوت
تہ سمیت تو پتہ و ن سوی تیوت مال فدیہ قیامتہ عذابہ نغیر چنہ خیطرہ سو قبول ایچہ نہ کرنہ بلکہ چھو
تہندہ خیطرہ کڈر عذاب مقرر کرنہ آمت یُریدون ان یخروجوا من التار و ماہم یخرجون
منہا و لہم عذاب مقیم کوتاہ یشھن تم تہ نارہ منزہ ہن پات نیرن مگر نیر تہ نئس نہ نئس صور نئس
منز۔ تہندہ خیطرہ چھو عذاب دائمی و السارق و السارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بکسبا نکالاً من
اللہ و اللہ عزیز حکیم یہ نئس مرد ڈورہ کرہ یا لیسہ زانہ ڈورہ کرہ تمن ژ ٹود چھن آتہ ہرہ
پٹہ۔ یہ چھو تہندہ ڈور کر تک سزا خدایہ سدہ طرفہ۔ اللہ تعالی چھو عز و ول تہ قوی و ول۔ نئس سزا سو
بہ سزا سو کرہ مقرر۔ سو چھو سیٹھا حکمتہ و ول۔ سو چھو مناسب سزا مقرر کران۔ فمن تاب من بعد
ظلمہ و اصلح فان اللہ یتوب علیہ اده نئس اکھاہ توبہ کرہ چنہ قصورہ پتہ۔ بہ سبھاہ بن حال،

حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا
يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا
أَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ
هَادُوا وَاسْمَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ

آئینہ روزہ زور کرنے لگیہ پتھ پس اللہ تعالیٰ کرہ تہند توبہ قبول إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ بیشک اللہ تعالیٰ
بھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثبہ
چھ ناخبر آی مخاطب کہ پز پائ اللہ تعالیٰ سزای پادشاہت نہ حکومت چھ آسمان اندر نہ زمین اندر۔
يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ نیس خوش کر نیس تس کرہ عذاب تس دیہ سزا۔ نیس خوش
کر نیس تس کرہ مغفرت تس دیہ معافی وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ بھو پرتھ چیز س پیٹھ
قَدِيرٌ وول يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ای بڈہ پیٹھبرہ مہز کمرن
آزردہ توبہ تم لوک تم دوران چھہ گھر س کن۔ یعنی تم بے تکلف گھر چہ کامہ کران چھہ مِنَ الَّذِينَ
قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ آندرہ تم چائنیوسیت ونان چھہ اسہ اُون ایمان مگر ایمان
بھونہ اومت تہند یو دلو یعنی تم چھہ منافق۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا بیہ بہود و آندرہ سَمْعُونَ
لِلْكَذِبِ تم چھہ اپنرونہ خیطرہ تھنزن کھن زورہ کن دوان سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَا تُؤْكُ
تم زورہ کن دوان چھہ تھہ تھنزن تھہ بن لو کن لغہ واتا ون ہم نہ پانہ توبہ نسیہ وات یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ
بَعْدِ مَوَاضِعِهِ تم چھہ تورانہ کین کمن پندرہ جاییہ پیٹھ آتھہ تمہہ جاییہ نسیہ ڈالان۔ بیہ تم کلماتن ہند غلط

يَا تُوكَ طِيحِرْفُونَ الْكَلِمَ مِنْ أَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ
 إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا
 وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ أَلَلِهِ شَيْءٌ
 وَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ
 فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۱﴾
 سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ

معنی یہ مطلب بیان کران تحریف لفظی و معنوی کران۔ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ توبہ
 جماعت اس نبی کریم سے نسیہ سوزان۔ تمن چہہ و نان کہ ہر گاہ نبی کریم تی فرمویہ اسے بیان کور تلہ
 کر زہ قبول وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ہر گاہ تمہہ درای بیہ کا نہہ حتماہ تمہہ فرمویہ تمہہ نسیہ روزو پتہہ
 تہہ مہ کتر و قبول وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ کس شخصہ سہہ خیطرہ اللہ تعالیٰ بہہہ کہ سہہ گرتہہ آزماہشہ
 اندری روزن کفر و گمراہی اندر فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ أَلَلِهِ شَيْءٌ تہہ بہہہ نہ تہہہ خیطرہ اللہ تعالیٰ
 اس نسیہ بہہہ حاصل کمر تہہ۔ یعنی تمن لوگن ہنز شقاوت اتہہ در جس واثر مہ آسہ کہ تم آسن ہدایت بندہ
 نسیہ خرؤم تہہہ خیطرہ مہ سپدن تہہہ دل مبارک آزردہ تہہہ نمکین أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ
 يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ تم گئے بہہہ خیطرہ نہ اللہ تعالیٰ ان یو تہہہ تہہہ تہہہ تہہہ تہہہ تہہہ تہہہ تہہہ تہہہ
 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ تہہہدی خیطرہ ہجہہ ذنیاء س اندر بڈ
 خواری۔ بہہہ تہہہ تہہہدی خیطرہ آخرت س اندر یو عذاب سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ تم
 لو کہ ہجہہ ایزہ خیطرہ تہہہزن تہہہ زورہ گن دوہون۔ سخت حرام کھیوہون فَإِنْ جَاءُوكَ پس ہر گاہ تم
 توبہہ نش سن حکم پر زہنہ خیطرہ فیصلہ کرناوہ خیطرہ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ کس ہجہہ توبہہ
 اختیار خوش کر وہ فرماؤ کہ حکم، خوش کرہ کینہہ مہ فرماؤ کہ انکار کرؤ کہ فیصلہ فرماوہ نسیہ وَإِنْ
 تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يُضِرُّوكَ شَيْئًا ہر گاہ کینہہ فرماؤ کہ نہ ادہ تہہہ مہ بر وکانہہ پروا۔ توبہہ نہیں نہ تم

بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوا
 شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿۳۲﴾ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا
 حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ
 بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
 يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَ

كانه ضرورتاً و تہ کیازہ اللہ تعالیٰ چھو توہم نگہبان تہ راہچہہ و ان حکمت فاحکم بینہم بالقسط ہرگاہ
 حکم فرمایو کہ تہ فیصلہ دیو کہ تلہ گڑھیچہ بعدل و انصاف حکم فرماون - اسلامہ قانونہ مطابق ان اللہ
 یحب المقسطین پڑ پاٹ اللہ تعالیٰ چھو پسند کران تہ ٹوٹھ تھاوان عدل و انصاف کرہ و نین۔
 وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ تجب چھو تم تھ پاٹھ چھہ دینہ کین معاملات
 اندر توہم پٹن فاصلہ بناوان حالانکہ تم نلہ چھو تورات موجود۔ تھ منز چھواتھ متعلق خدایہ سند
 حکم تہ موجود تو پتہ توہم نشہ تھ، توہم نشہ تہ سوی حکم یوز تھ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا
 أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ تو پتہ تہ چھہ تم تمہ حکمہ نشہ تھ پھر ان۔ حقیقت چھہ کہ تم ن چھہ تمہ
 تورات تہ کینہہ پڑھاہ۔ بلکہ چھہ تم نلہ چیز چڑ پڑھ۔ نہ تورات تہ نہ تمہندہ فیصلہ۔ حالانکہ اِنَّا أَنْزَلْنَا
 التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ پڑ پاٹ اسہ گور تورات نازل حضرت موسیٰ اس پیٹھہ تھ منز یوز
 ہدایت چھو صحیح عقائدین ہند تہ یوزگاش تہ ن وضاحت چھہ اعمال ہنز۔ یحکمُ بہا التَّوْرَةِ الَّذِينَ
 أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا امی توراتہ موجب چھہ بنی اسرائیلن ہند تم پیٹیر۔ مؤخدیہ سندس حکم
 گردن داریموڈن حکم بیان کران وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هَادُوا بیہ چھہ امی موجب حکم بیان کران۔ ہوڈن
 ہند علماء تہ متاخذ تہ۔ بہا استحقاقاً من کتاب اللہ و كانوا علیہ شہداء کیازہ تم چھہ امہ

الرَّبِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ
 اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا
 اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿۳۳﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
 فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

کتابہ ہنزراچھ تہ حفاظت کرن۔ امہ کتابہ موجب پانہ عمل کرن بیہ لوک تہ عمل کرہ ناوین مہ آمثر
 کرنہ۔ بیہ آس تم امہ کتابہ ہند گواہ تہ اقرار کرہ ون **فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ** پس اکی بہو دو ہدیج
 پیروی کرنس اندر یعنی حضرت محمد ہندس رسالتس تصدیق کرنس اندر مہ کھو ژو لو کن۔ کھو ژن شو بہ
 سے۔ کیا زہو چھوس ٹھند پروردگار۔ تصدیق رسالت محمدیہ نہ کرنس پیٹھ کر وہو ٹو سخت عذاب **وَلَا
 تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا** بیہ مہ آسبو کھ سان آیات کنان دنیاحاصل کرنہ خیطرہ کم مؤلس بس توبہ
 لو کن نشہ حاصل سپدان چھو۔ یہوی چھو توبہ باعث بنان تصدیق نہ کرہ تک۔ توبہ چھو اندیشہ ہر گاہ
 اسہ تصدیق کور تلہ ماگڑھ بیہ آمدنی ہند **وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ**
 بیہ تھا و بیہ تھ وارہ یاد کہ بس اکاہنہ خدایہ سزہ نازل کر مہ بتلہ موجب حکم دیہ تم ساری چھ کافر یعنی
 ہمو پڑس انکار کور تھہ پاٹھ تہہ کران چھو۔ **وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا** بیہ اوس اسہ تمن بہو دن ہندہ
 خیطرہ تورا اس اندر بیہ حکم لیو کھمت تمن پیٹھ فرض کور مت کہ ہر گاہ کانہہ شخصہہ کانہہ مارہ عمد ابے گنہ یا
 زخمی کرہ **أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
 بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ** پڑپاک اکھ شخص یعنی (قاتل) بیہ مارنہ پس شخص یعنی مقتول
 بدل۔ اچھہ بیہ کڈنہ اچھہ بدل، نس بیہ ژفہ نہ بدل گن بیہ ژفہ کنہ بدل، دندیہ کڈنہ دندہ بدل۔ تھے
 پاٹھ بیہ زخم قصاب ہینہ۔ **فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارًا لَّهُ** پس بس شخص بدلہ ہیون معاف

قِصَاصٌ طَمَنُ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ط وَمَنْ
 لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾
 وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
 يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ
 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
 لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ط وَمَنْ
 لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۷﴾ وَأَنْزَلْنَا

گرہ تمس سپدہ سونگمن ہنزہہ بخشایشیہ ہند سبب یعنی معاف کرنس چھوڈو ثواب وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ چونکہ یہود و اوس یہ حکم تہ پس پشت ترومت لہذا چھو اللہ
 تعالیٰ یہ مکرر فرماوان کہ یہ سمنہ فیصلہ کرن تمہ حکمہ سیت نئس اللہ تعالیٰ ان نازل کورئس تچے گئے ظالم
 وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ یہ سوزاسہ تمن
 پیغمبران پتے حضرت عیسیٰ فرزند حضرت مریم سندا نئس تصدیق کرہ دن اوس تھہ کتابہ یوسہ تمن بروئٹھ
 نازل کرنہ آمز اس یعنی توراتس۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
 التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ یہ کراسہ عطا حضرت عیسیٰ اس پن کتاب انجیل تھہ
 منزتہ چھو توراتہ کی پاٹھ صحیح اعتقادن ہند لوکن ہندہ خیطرہ یوڈ ہدایت یہ کافی روشنی تہ وضاحت
 اعمالن متعلق۔ یہ چھو سوانجیل تہ تصدیق کران تھہ کتابہ یوسہ حکمہ بروئٹھ نازل کرنہ چھہ آمز یعنی
 توراتس یہ چھہ سوتاب و تھہ ہاوہ ون۔ یہ ہڈ نصیحت خدا نئس کھوڑہ وئین ہندہ خیطرہ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ
 الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ یہ اوس اسہ حکم کورمت فیصلہ کمرن انجیلہ وال تموے احکامو سیت تم
 اللہ تعالیٰ ان تھہ منز نازل کرمت چھہ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سمنہ

إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
 وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
 وَمِنْهَا جَاوِلُونَ وَإِنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
 فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ

وتمت نصاریٰ یوزن و ارہمہ تم نہ فیصلہ کر تمہے حکمہ سیت یس اللہ تعالیٰ ان نازل کورہیں تھے لو کہ گے
 فاسق۔ انجیل منزعہ حضرت محمد عربی سندہ رسالہ خبر تہہ ہجوہ تیجہ خلاف کران **وَإِنزِلْنَا إِلَيْكَ**
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ بیہ کر اسہ تیجھے پاٹھ تورات و
 انجیلہ پتہ نازل توہے کن یار رسول اللہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہر پاتھ یس تصدیق چھو کران تمن کتابین
 سمہ امہ بروٹھ نازل آمرہ چھہ کرنہ بیہ چھہ یہ کتاب تمن کتابین ہنزرا چھہ **فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ**
اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ یس فیصلہ کرو تہہ تمن اہل کتابین منزعہ تیجھے حکمہ سیت
 یس خدا لمن نازل کورمت چھو۔ پیروی مہ کرو تہہ تمنزن خواہش ہنز سو پر کتاب نظر انداز کر تھہ یوسہ
 توہہ نشہ واژ **لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ** توہہ اندرہ پر تھہ امتہ خیطرہ چھو اسہ فروعی
 مسالین متعلق اکہ شریعتہ، اکہ دستور العلماء مقرر کورمت، مثلاً یسودن ہندہ خیطرہ تورات نصاران
 ہندہ خیطرہ انجیل مسلمان ہندہ خیطرہ قرآن مجید **وَإِنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ**
فِي مَا آتَاكُمْ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یژہہ ہا توہہ ساری بناوہا کنی امتہ، ساری ہند کرہ ہا کوئی شریعتہ مگر تہہ کوزن نہ
 ای خیطرہ کہ تیجھے تہہ مختلف وقتن اندر مختلف احکامو سیت آزمائش کرہ **فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ** یس کرو
 رٹن کائین تہہ مفید تھن اندر اکہ اس نشہ بروٹھ گڑھج کوشش۔ یعنی قرآن مجیدس کرو پڑھہ تمہہ کین
 احکامن پیٹھہ کرو عمل **إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا** خدایہ سی کن چھو توہہ ساری لہہ دوہہ رجوع کرن
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ یس باوہ سو توہہ تمہہ سارے کتھہ تمن منزعہ توہہ حق و صداقت ظاہر

بِأَكْثَرِ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿۳۹﴾ أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۴۰﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

آسحہ باوجود اختلاف کران آسہہ وَإِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ بیہ چہ
اس توبہ مکرر حکم فرماوان کہ جہہ کرو فیصلہ لوگن آندر تمی حکمہ سیت بس اللہ تعالیٰ ان توبہ پیٹھ نازل کور
پتہ پتہ مہ پکو ہمز ن خواشن۔ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ بیہ کھو ژو تم
پور احتیاط کرو پتھ نہ تم توبہ خدایہ سندہ احکامو آندرہ عنہ خمس تعمیل تہ جاری کرنہ نشہ ڈال ن فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ قرآن مجیدک فیصلہ واضح تہ روشن آسحہ باوجود
ہر گاہ تم لوک توتہ روگردانی تہ نافرمانی کران روزن تلہ زانو تہہ سمہ اللہ تعالیٰ چھو پڑھان بعضی گنہن ہندہ
وجہ مصیبتس گرفتار کرن وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ پزیاٹ واریاہ چہہ سمولو کو آندرہ نافرمان
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ یلہ بعضی یہودوون آسہ چھونہ قرآن و توراتک حکم قبول، اللہ تعالیٰ ان
فرمودہ کیکہ تم یہود چھاننہ جاہلیتک حکم ژھانڈان بس کافر و آسانی شریعتس خلاف پالے بنو مت
چھو۔ لہذا خدائی فیصلہ تراوتھ بیہ کانہہ فیصلہ ژھانڈان یہ گنہین عین جمالت وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ فیصلہ کرنس آندر کہنہ اکھاہ بیہ آتھ یژرت خدایہ سندہ خو تہ یقینہ والین نشہ۔
لیکن یہ کتھ حکم زان یقینہ والین ایمان دارن۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
آی با ایمانو! یہود تہ نصاریٰ مہ بنلو یو کہ پن دوست تم دو شوے چھ مسلمان ہند دشمن بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ تم چہہ پانہ والی اڈاڈین ہند دوست یعنی یہودی یہودی پانہ وان، نصاریٰ نصاریٰ پانہ وان تم

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۱﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ
 تُصِيبَنَا آيَةٌ ۗ قَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ
 فَيُصِيبُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نِدْمِينَ ﴿۵۲﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ
 آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ

چھہ پانہ وان مناسبت۔ توہہ چھہ تمن سیت کانہ مناسبت۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ نِس
 اکھاہ دوستی لاگہ تمن سیت توہہ اندرہ۔ سوپیہ گزر اونہ تموی اندرہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ پزیاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ کامیابی ہنزہ تھہ ہاوان ظالمن تمن نہیہ بو زن تگان چھو کہ کن سیت
 گڑھہ دوستی لاگن کن سیت گڑھہ دشمنی تھاون تم چھہ پٹن نقصان پانے کران فَتَرَى الَّذِينَ فِي
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ نِس وچھان چھہک ژہ ای وچھہ ونہ تم لوک یہندین وکن اندر نفاق چھہ ہاری چھہ۔
 يُسَارِعُونَ فِيهِمْ تم تھہ پاٹھ چھہ جلدی کران یہود و نصاریٰ ان سیت رنس اندر تو پتہ تمن کانہ
 شخصہہ تھہ پٹھہ ملامت چھو کران يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا آيَةٌ دپان چھہ اس چھہ دلہ کن
 تمن سیت رلان، بلکہ چھہ اس تمہ خاص مصلحتہ کن تمن سیت رلان۔ اس چھہ کھوژان کہ اسہ مالہ
 کانہ بلایاہ تمی موکھ چھہ اس تمن سیت یارز تھاون لاگتھہ تمہہ ساتہ کرن تم اسہ کانہ مدتہ قَعَسَى
 اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ نِس قریب چھو کہ اللہ تعالیٰ کرہ عطا مُسلمانن فتح یارہ جاری پتہ
 طرفہ کانہ حکماہ تھنزہ کامیابی ہند، منافقن ہنزہ رسوائی ہند فَيُصِيبُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نِدْمِينَ
 نِس پدن تمہ ساتہ تم مناق تمن تھن پٹھہ تمہہ پتہ نین وکن اندر کھٹت تھوان آس نادم تہ پشیمان
 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ تمی ساتہ ونن با ایمان
 تجبہ کن یکیاہ تمہ کتہ تم لوک تم خدلیہ سد سخت قسم ہاوا ہاوا سہ ونان آس زہ آس چھہ توہی سیت۔ حقیقتس

لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرِينَ ﴿۵۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
 يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ
 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ
 فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۸﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اندر آس سائین دشمن سیت رتھ۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرِينَ ہنزہ سارے کار سازی
 سہزہ امہ نفاقہ سیت تباہ تہ بُر باد کس سپد تم تاوان زدو اندرہ۔ دوشوی طرف سپد تم تا کام کیا زہ کافر سپد
 پانہ مغلوب۔ مسلمان سہز ہنزہ خباثت معلوم۔ نہ گئے اور ک تمہ نہ گئے یورک يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ
 يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اکی بالیمانویس اکھاہ توہمہ اندرہ پنہہ دینہ نشہ یعنی اسلامہ نشہ نیرہ، مہر تدسپدہ، سومہ
 زان تمسپدہ مہر تدسپدہ سیت ملاوت پزس دینس کا نہہ نقصانہاہ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
 وَيُحِبُّونَهُ کیا زہ اسلامی خدمت انجام ونہ خیطرہ کرہ اللہ تعالیٰ پیدہ جلدی لو کو کو اندرہ تھس جماعتس سم
 خدائس ناٹھہ آسن۔ تمن تہ آسہ خدا ٹھہ اذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ سم نرم دل شفیق
 آسن بالیمان پیٹھ سخت زبردست آسن کافرن پیٹھ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جہاد کرہ ون آسن
 کافرن سیت خدلیہ سزہ وتہ اندر وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ پڑہ چہ جایہ تہ دینہ کس معاملس اندر آسن نہ
 تم کھوڑوہ ون کا نہہ ملامت کرہ ون سندس ملائس ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ بالیمان سم
 صفت آسن یہ چھو خدا یہ سہر فضل۔ تھہ جماعتس خوش کرئس تھہ جماعتس چھو عطا کران وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو پنہ نس فضلس منز سیٹھاہ وسعتہ وول۔ اگر سوڑھہ سارنی گرہ سم صفت عطا۔ مگر
 سارنی ہند حال چھو پور زان وول۔ تس چھہ خبر کس چھہ قابلیت کس چھہہ قابلیت إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اکی بالیمانو ہند دوست چھو اللہ تعالیٰ یہہ ہند پیغمبر یہہ تم بالیمان الَّذِينَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رِكَعُونَ ﴿۵۵﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۵۶﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ
هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾
إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوا هَٰهُنَا وَلَعِبًا ذَلِكُمْ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۵۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رِكَعُونَ سُنَّ هنز طریق چھہ کہہ برپا چھہ تھاوان تم نماز، ادا چھہ کران تم زکوٰۃ، درحالیتم تم چھہ خشوع کرہون خدایہ سی بروٹھہ کنہہ نمہ ون وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بیہ سم لو کہ دوست تھاون خدا کیس بیہ تھندس پیغمبرس بیہ باایمان۔ تم گے خدایہ سد لو کہہ تہ خدایہ سز جماعت پزپاٹ خدایہ سز جماعتی چھہ غالب۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ اکی باایمانو تم لو کہہ سم تھندس دینس چھہ ٹھٹھہ کران تہ گندان، بکمال حقارت و چھان نُس انکارک علامت چھو تمہو لو کو اندرہ تمکن کتاب آہہ دنہ توہہ بروٹھہ یعنی یہود و نصاریٰ بیہ تھتھے پاٹھہ کافر تہ مشرک مہ بناو لو کہہ پن دوست وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بیہ کھوڑو خدا کیس، یعنی تھنز نا فرمانی کرنس چھوے تہہ پزپاٹ باایمان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوا هَٰهُنَا وَلَعِبًا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ تھتھے پاٹھہ تھندہ دینہ کین اصولن سیت چھہ تم ٹھٹھہ کران تھتھے پاٹھہ تھندہ دینکن فروغن سیت تہ ٹھٹھہ کران۔ چنانچہ سمہ ساتہ تہہ لوگن نادووان چھوہ نمازہ کن یعنی بانگ دپان چھوہ۔ تھہ تہ چھہ سم ٹھٹھہ کران۔ گند تھناہ بو زان۔ کیا زہیہ چھہ جماعتھہ

مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ
 قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿۵۹﴾ قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ
 مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
 مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ
 مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۶۰﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا

عقله رستی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مَثَلًا إِلَّا أَنْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ
 قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ فرماؤ کہو کہ تمہے یارسول اللہ اکی اہل کتابو یعنی یہود و تمہے کوسہ کتھہ چھوہ آسہ
 اندر لبان ہتھ پیٹھ نہ آسہ چھوٹھہ کران۔ کیاہ یوہے الزام چھو توه ووان کہ آسہ کیا کرا پڑھ کتھ
 خدائیس ہتھ یہ آسہ گن نازل او کر نہ یعنی قرآن مجید۔ ہتھ یہ نازل او کر نہ آسہ بروٹھ یعنی تورات و
 انجیل۔ ہتھ کیاہ چھہ آس ونان کہ توہے اندرہ چھہ اکثر تم تم نافرمان چھہ۔ تم نہ پنہ کتابہ ہند یعنی
 توراتک کھ مانان چھہ۔ نہ چھہ توہے قرآن مجید چ پڑھ نہ تورات و انجیل پڑھ۔ کیا زہ تورات و انجیل
 منز چھو قرآن مجیدس پڑھ کر تک کھم۔ چہ چھوہ تھہ انکار کران۔ تمم آس حصص انکار کور تم کور
 سارسی انکار۔ لہذا چھو عیدارتہ قابل مذمت چہہ۔ کھٹھس سزاوارتہ چہہ مگر پن عیب چھوہ نہ یوزنہ
 یوان کینہہ آسہ چھوہ پھیرت ناحق کھٹھہ کران قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ فرماؤ کہو
 چہہ یارسول اللہ کہ یوما کروہ خبر زہ خدائیس نیشہ کوسہ و تھہ جد ہتر جزاء کھہ نہ مزورہ ہندہ اعتبارہ
 مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ سوچھہ تمنی
 لوگن ہنز و تھہ تمن پیٹھ اللہ تعالیٰ ان لعنت کر۔ تمن پیٹھ ہنز بیزاری چھہ تمن اللہ تعالیٰ ان مسخورت
 کرتھہ و اندر نہ سوزن ہنز شکل کر۔ بیہ کر تمبو پر ستش شیطانہ سنز۔ ووان و چھوہ کوسہ و تھہ چھہ
 چھہ سو و تھہ چھہ منز غیر اللہ سنز پر ستش کر نہ بیہ کہ نہ سو و تھہ چھہ منز توحیدی توحید چھوہ چھہ منز انبیاءن
 ہند تصدیق چھوہ۔ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ سے کو کہ چھہ تم سیٹھاہ ہد

امَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ط وَاللَّهُ
 اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿۱۱﴾ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ
 فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَئِنْ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَاَلْحَبَّارُ عَنْ
 قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَئِنْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۳﴾
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ غَلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَاَعْنَابُهُمْ

ترجمہ آخر آندرس آندرس کن کیا زہ ہنر جاب چھ نار جہنم بیہ چھ ہم ڈلت سیزہ و تہ نشہ کیا زہ توحید و
 تصدیق رسالتہ نشہ چھ تم سیٹھاہ دور، یقین شخص ہنز و تہ یوسہ سب سپدہ نار جہنم خدا کیس نشہ
 دوری ہنز، یقینا کنیہ سوی و تہ سیٹھاہ چھ، اکی یہود توہہ چھوہ اختیار کر مزیہے و تہ۔ لہذا کمہ تہہ
 چھوہ تہہ موحدان تصدیق انبیاء کرہ و نین معبود برحقہ سز عبادت کرہ و نین ٹھٹھ کران وَاِذَا جَاءَكُمْ
 قَالُوا امَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ بیہ یلہ تم منافق توہہ نشہ یوان چھہ دپان چھہ
 توہہ آسہ اون ایمان حال چھہ ہم ڈای تہ گھر بیٹھی تہ درای تہ گھر بیٹھی وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
 اللہ تعالیٰ سی چھو پور علم تمن سارنی کھن ہند سمہ تہہ تہ عقائد تم دلن منر کھٹان آس یعنی عقائد کفر یہ
 و تری کثیرا منہم یسارعون فی الایثم و العداوان و اکلہم السحت بیہ چھوک تہہ و چھان سمو
 یہود و اندرہ واریاہ لوکھہ تم دورہ دور چھہ کران گنہہ یعنی اپزونہ نس آندریہ ظلم کر نس تہ مال حرام کھینس
 آندر لیس ما کانو یعملون واقعی سیٹھاہ چھہ تہہ سمہ تم کران آس لولای نفہم
 الربیون و الاحبار عن قولہم الایثم و اکلہم السحت لیس ما کانو یصنعون تمن کونہ
 سنا چھہ عالم تہ مشان منع کران اپزونہ نشہ تہ حرام کھینہ نشہ۔ البتہ سیٹھاہ چھہ چھو تہ سوروی بیہ تم کران
 آس وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ یہود و دوپ خدا بیہ سندا چھو عطا و بخشہ کرنہ نشہ بند یعنی لغوز
 باللہ نخل چھو کران۔ غلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَاَعْنَابُهُمْ تحقیق س منر چھہ بند گامت تہندی اتھ، کیا زہ

قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا
 مِنْهُمْ مِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا
 لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۶۷﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخَانَ لَهُمْ فِي النَّعِيمِ ﴿۶۸﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا

تم چھ پانہ سخت بخیل۔ اذہ آتھہ ونہ سبہ آیہ تمن لعنت کرنہ۔ تم آی خدلیہ سزہ رحمتہ نغیرہ دور کرنہ۔
 بل یداہ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشَاءُ بلکہ چھہ خدلیہ سندوشوے آتھہ و تھی۔ سو چھہ خراج کران، مین فضل
 و کرم عطا کران۔ ہتھہ پاٹھ خوش چھوس کران۔ تمن خوش چھوس کران وَلَیَزِیْدَنَّ کَثِیْرًا مِنْهُمْ
 مِمَّا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْیَانًا وَکُفْرًا توہہ پٹھہ یہ نازل کرنہ آؤ تھندس ہر دور گارہ سندہ طرفہ
 ہر راوہ ضرور تمبو اندر زہ وار مین ہر روزن سرکشی تہ کفر۔ تمن سپدہ نہ پندہ جر مگ احساس مٹنہ وقتہ وَالْقِیْنَا بَیْنَهُمْ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى یَوْمِ الْقِیْمَةِ تمی سرکشی تہ کھرک نتیجہ چھو کہ آسہ تر و تمن اندر عداوت تہ
 بغض یس نہ قیاس تام مین منر دور سپدہ کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ یلہ یلہ تم لڑلیہ تہ
 جنگ نار چھہ مسلمان خلاف زوہ راوان اللہ تعالی چھو تھہ نارس ژھیہ تہ کران یلہ تم تھہ منز نام چھہ
 سپدان وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ تم چھہ پوشیدہ طور سیٹھاہ کوشش
 کران ملکس اندر خرابی ہنز تہ فسادیچ، چوہیہ اللہ تعالی چھونہ ہر گز پھند کران مفسدان تہ خرابی کرہ
 ونین۔ لہذا دیہ تمن ضرور سزا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخَانَ لَهُمْ
 فِي النَّعِيمِ ہر گاہ اہل کتاب پڑھ کرہ ہن بیہ نافرمانیو نشہ پتھہ روزہ ہن اس کرہ ہو ضرور تھندین
 گنہن بخشائیش، بیہ واتاوہ ہو کہھ ضرور نعمن ہندس جنس اندر مگر تم چھہ سرکشی تہ نافرمانی تراوان سمہ
 سبہ تم ہن پان محروم چھہ کران۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُوا مِنْ
فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحَتَّ أَرْجُلُهُمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿۶۷﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۶۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا

لَأَكْفُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحَتَّ أَرْجُلُهُمْ
نازل کرنے آئی بواسطہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بخا امن تمن ژله ہا ساری حتی، آدہ آسن
کیوان خدایہ سزہ تمہہ نمو سہہ سمن پیٹھکن آسماحہ طرفہ وسان چھہ۔ سہہ بہند یوکھور وون کن زینہ
منزہ کھسان چھہ۔ مگر تمنو کر تورات وانجیل ساری تعلیم ضایع تھے گے خوارتہ ذلیل مِنْهُمْ أُمَّةٌ
مُّّقْتَصِدَةٌ تمنو آندرہ چھہ اکھ جماعتھہ میانہ روی کران تم گے سمنو پیغمبر آخر الزمان ایمان اون تہ پڑھ
کر، حضرت عبد اللہ بن سلام ہو بہو ڈن آندر، حضرت نجاشی ہو نصاری ان اندر
مَایَعْمَلُونَ اکثر چھہ ہو دو آندرہ تم بہنرہ کامہ سیٹھہ چھہ چھہ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ، ای بڑہ پیغمبر و اتا و خدایہ سیدین بدن تہ سو روی یہ نازل آو کر نہ تو بہ کن ٹھندس پروردگارہ
سیدہ طرفہ۔ دُشمن ہندمہ برو کانہہ پروا۔ وَلَنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ہر گاہ ٹہہ تہ کردنہ یعنی
سو روی نہ و اتا و نہ سیت تھہ پاتھہ یہ فرض پٹھان چھو تھہ پاتھہ تمہہ منزہ کانہہ کتھانہ و اتا و نہ سیت تہ چھو
یہ فرض پٹھان۔ تبلیغ احکامن آندرہ برو تہہ دُشمن ہند کانہہ پروا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ
تعالی حض گرہ پانہ تو بہہ رلچھہ لوکن ہندہ شرہ نشہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ہر پاتھ اللہ
تعالی ہا و نہ ہر گز کامیابی ہنز و تھہ کافرن۔ تم ہیکن نہ تو بہہ کینہہ کرتھہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى
شَيْءٍ فرماؤ کہ تہہ یار رسول اللہ ای اہل کتابو تہہ چھو نہ کنہ صحیح و تہہ پیٹھہ۔ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ

أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَئِيذِينَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
 مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۶۸﴾
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿۶۹﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ
 رَسُولًا قُلْنَا جَاءَ هُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا

وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ يُؤْتَانِيهِ نَحْمَهُ بِحَبْلِ نُورٍ وَانجِيلِكَ احكام بيه تم احكام تم نازل
 كرنه آئے توہمہ گن بواصلہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید وَلَئِيذِينَ كَثِيرًا مِنْهُمْ
 مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا بيه ہر راوہ ضرورتہ بيه توہمہ گن آو نازل كرنہ تہمہدس
 پروردگارہ سندہ طرفہ تمن یہودون تہ نصاری ان سرکشی تہ کفر فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کس مہ
 کڑوٹہ افسوس تمن لوکن ہندس حالس پیٹھ سمو پزہ نغمہ انکارگور إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
 وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى بيه چھہ پزٹھ کہ تم لوکھ سمو ایمان اون بيه تم لوک تم یہودی، صابی تہ نصاری چھہ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا سمو ساروی اندرہ سمو ایمان اون کنس خدا کس بيه تمس
 دوس یعنی قیاس۔ بيه کر بھہ رتہ عملہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کس چھو نہ تمن آخرتس اندر
 کانہ خوفانہ چھو تمن کانہ غماہ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا تھہ منز چھو نہ
 کانہ شکسم آسہ کرناو بنی اسرائیل سارنی پیغمبرن تصدیق و اطاعت کرنس پیٹھ بروٹھ تہ عہد۔ بيه سوز
 تمن گن واریاہ پیغمبر سو عہد تھس پاونہ خیطرہ کَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا
 وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ مگر تہنز حالت آس یلہ تمن نغمہ کانہ پیغمبرہ اوس واتان تم حکم ہیست تم نہ تہنز ن نفسانی
 خواہش موافق آسان آس تم آس سمو پیغمبر و اندرہ بعضین اپز یرونان بعضین آس قتل کران۔
 وَحَسِبُوا الْأَلْبَانُونَ فِتْنَةً ۚ خِیَالِ آس کران اتھ پیٹھ ووتھہ نہ بازخواستی کینہہ فَعَمَّوْا وَصَلُّوْا کس سپدان

وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۝٤٠ وَحَسِبُوا أَن لَّكُونُوا فِتْنَةً فَاعْمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ
 تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرًا مِنْهُمْ وَابصُرُوا مَا
 يَعْمَلُونَ ۝٤١ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
 وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عِبْدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ
 مِنْ يُشْرِكٍ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ
 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝٤٢ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ

تہ زہرِ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ توپتہ کر اللہ تعالیٰ ان تمن بیٹھ پنہر رحمتہ سیت توجہ کہ بیا کہ پیغمبرہ سوزن
 تمن گن دیوہ تم سیزہ دستہ پیٹھ سن۔ مگر ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا کثیراً مِنْهُمْ توپتہ سپدیہ تمہو اندرہ واریاہ ان تہ
 زہ یعنی تعمیل احکام کرنہ نشیہ کر کہ رُوگردانی وَاللَّهُ بِصِيْرَتِكُمْ يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ اوس تہزہ سارے
 کامہ وچھان یعنی ٹھنڈ خیال اوس غلطیہ آسہ ہتھونہ باز خواستی کینہہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
 هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ یقیناً چھہ تم کو کہ کافر سم ومان چھہ خدا چھو عین مسیح مریمہ سُنْدُوچو یعنی تم زہ چھہ مُخَد
 تہ گئی وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عِبْدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ حالانکہ پانہ چھو فرماوان مسیح بن مریم اکی
 بنی اسرائیلو عبادت کرو تہہ معبود برحقہ سنز، کس میون تہہ ٹھنڈ پروردگار چھو إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
 فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ بیشک ایم اک خدا کس، بیہ کانہہ کئی چیزس منز شریک ٹھرو و
 تس بیٹھ کور یقیناً اللہ تعالیٰ ان جنت حرام۔ تہزہ جائے چھہ نار جہنم وَاللَّظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ تہتھین
 ظالمں ہندہ خیطرہ آسہ نہ کانہہ مددگارہ کس نارہ نشیہ موکاوت تمن جنتس منز و اتاودہ۔ چھہ پاٹھہ عقیدہ
 اتحاد باطل چھو تہتھہ پاٹھہ چھو عقیدہ تثلیث تہ باطل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ یقیناً چھہ تم کو کہ تہ کافر سم وپ خدا چھو تریو اندرہ اکھ (مول۔ گوہر۔ بیہ
 روح القدس وَمَا مِنْ دُونِ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ حالانکہ کانہہ معبوداہ چھونہ کس خدا کس وراہ۔ وَإِنْ كَفَرُوا
 يَنْهَوُا عَمَّا يَقُولُونَ لَيْسَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ إِلَّا اللَّهُ ہر گاہ تم سمو کھو نشیہ پتھہ روزنہ البتہ

ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَبْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ
لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۶﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى
اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۷﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ مَكَانًا يَأْكُلِنَ
الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۴۸﴾
قُلْ اتَّعَبُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَآئِمٌ بِكُمْ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

ضرور رہے، تم کو کچھ کچھ کہہ کر تم کو اندر نہ، آخر تم اندر کد عذاب پس دگ سے دو دتہ و ان آسہ
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم تم توحیدک مضامین سے شرکک وعید شدید
نوز تہہ سے چھنا تم خدا پس کن رجوع کر تہہ توبہ کران، یہ کونہ چھہ تس مغفرت منگان۔ سو کرہ ہچھہ
مغفرت بیماہ سو چھہ سیٹھاہ مغفرت کرہ و ان سیٹھاہ رحم کرہ و ان ما المسیح ابن مريم الا رسول حضرت
مسیح من تم نے چھہ عین خدانہ چھہ جو جہ خدا بلکہ چھہ اکھ مرتبہ اول پیغمبرہ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
تس برو تہہ سے چھہ کڈرے مت کاتیاہ صاحب معجزات پیغمبر تمکن نہ عیسائی خدامانان چھہ۔ ہر گاہ پیغمبری
یا معجزہ، خدا آج دلیل چھہ۔ تلہ گزہہ تم ساری پیغمبر سے خدا زانن۔ ہر گاہ پیغمبری سے معجزات خدا آج دلیل
چھہ تلہ کیاہ خصوصیت چھہ حضرت عیسیٰ سنز تم چھہ ک عین خدایا جہ خدامانان وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ سے
پاٹھ چھہ تہنہ والہہ سے خدا سے نہ جہہ خد ابکہ چھہ سو پزیر نیو کار زانانا۔ تم دوشون ہندہ خدانہ آج
دلیل گانا یا کُلِنَ الطَّعَامَ تم دوشوے ماجہ پتھر آس سارنی انسان ہند پاٹھ غذا کھیوان۔ تم پین زندگی
تایم تھاوندہ خیطرہ کھینس چنیس کن محتاج آسن تم ہیکنہ خدا آتھہ یا خدایہ سند شریک آتھہ۔ کیا زہ خدا گو
سوی پس نہ منہ چیز سن محتاج آسہ أَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وچھہ آس تھہ کن
چھہ تمکن لوکن وضاحتہ سان دلیلہ بیان کران۔ توبہ سے وچھہ کو کن چھہ تم ولہ پیغمبران۔ یہ پرتھہ ما چھہ
نوز نہ یوان۔ قُلْ اتَّعَبُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَآئِمٌ بِكُمْ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا جہہ فرما یو کھ یار سول اللہ

وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴۷﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي
 دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ
 قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۴۸﴾ لُعِنَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى
 ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۴۹﴾ كَانُوا إِلا
 يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۹﴾

اے یہود و نصاریٰ اؤ کیا ہر جھوٹے معبود پر حق تراوی تھ تمہن مخلوقن ہنز پر سبش کران تم نہ مالک چھہ
 تمہن س کٹنہ چیزس تہ نفیس تہ ضررس وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حالانکہ اللہ تعالیٰ اکی چھو سوزوی بوزہ
 ون سوزوی زانہ ون توتہ جھوٹہ نہ ہرہ تس کھوژان تہ کفر و شر کہ نشہ بازیوان قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا
 تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ فرماؤ کہ ہرہ یارسول اللہ ای اہل کتابو ناقم مہ آسوپنہ وینہ کین معاملن
 اندر حدہ ڈلان وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ بیہ مہ آسوپنہ وینہ کین معاملن
 تم توبہ برو نشس چھہ گمراہ سپد مت وَأَضَلُّوا كَثِيرًا بیہ چھہ تمبو پانس سیت واریاہ گمراہ کرمت
 وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ بیہ چھہ تم پانہ سیزہ وتہ نشہ بالکل ڈلت لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ یہ لعنت آہہ کرنہ تمہن تم بنی اسرائیلو اندرہ کافر سپد
 حضرت داود و عیسٰی بد دُعا کرنس پیٹھ۔ تم گے شہر ایلبک لو کہ۔ بیہ حضرت عیسیٰ فرزند حضرت
 مریمہ سدس بد دُعا کرنس پیٹھ۔ تم گے اصحاب مایدہ۔ تمہن ہنز ذکر بروٹھہ ایہ تہ چھو مراد تمہن ہندہ
 لعنت ذکر چھہ زبورس منز تہ انجیلس منز تہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ لعنت آہہ تمہن کرنہ
 امی موکھہ کہہ تمبو کیاہ کرنا فرمانی تہ مخالفت بیہ ڈل تم حدہ مخالفت تہ نافرمانی کرنس اندر كَانُوا إِلا
 يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ تم آس نہ بازیوان تہ چھہ روزان تمبو چھہ کامیونہ سمہ بیچہ کامہ تم
 کران آس یعنی استمرار تہ ڈاڈ آس کران تمہن چھہ کائن پیٹھ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ واقعی سیٹھاہ

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْبَسَ مَا قَدَّمْتُ
لَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ
خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
فُسِقُونَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً
لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيْ ذَٰلِكَ بِأَنَّ

تجھ اُس تہ یہ تم کران آس تری کثیراً منہم یتولون الذین کفروا وچھو کہ تمہہ واریاہ تمہو یہود و
اندہ تم دوستی چھہ لاگان مٹرک یسودن سیت لیس ماقدمت لہم انفسہم البتہ سیٹھاہ تجھہ
چھوتہ یہ یہند یونسو تمن بروٹھہ کنہ ترود۔ تمیک نتیجہ چھو سیٹھاہ خراب ان سخط اللہ علیہم و فی
العذاب ہم خلدون دنیا س منزگو تمیوک نتیجہ کہ اللہ تعالی چھو تمن پیٹھہ ہزار۔ آخرس اندر
آس تم ہمیشہ گرفتار عذاب نار ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوہم
اولیاء ہر گاہ تمن ہزیاٹ ایمان آسہا معبود برحق بیہ پنہ نس پیغمبرس یعنی حضرت موسی اس بیہ تھہ کتابہ یوسہ
تمن گن نازل کرنہ امر آس سمجھہ پیروی ہند تمن دعوی چھو تلہ بناوئین نہ کافرین تہ مٹرگن پن دوست
ولکن کثیراً منہم فسقون لیکن تمہو اندرہ چھہ واریاہ فاسق تہ بے ایمان۔ تجہ چھہ کافرین سیت
دوستی لاگتہ اسلامس تہ پیغمبر اسلامس تہ خلاف سازشہ کران لتجدن اشد الناس عداوة
للذین امنوا الیہود والذین اشركوا البتہ لیوکہ تمہہ ساروی غیر مسلمو اندرہ با ایمان ہند سخت دشمن
کھہ یہود بیہ مٹرک ولتجدن اقربہم مودة للذین امنوا الذین قالوا اننا نصری بیہ لیوکہ
تمہہ ساروی غیر مسلمو اندرہ نزدیک با ایمان ہنزہ دوستی تہ مجتہس اندر تم لو کہ ہم دنان چھہ آس چھہ نصاری

مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۶﴾
 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ
 تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
 فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۷﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ
 الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۸۸﴾
 فَاتَّابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ
 فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۹﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

ذَلِكِ يَأْتِ مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اسی مؤکدہ کہ تمہن منز چھہ واریہ عالم
 تہ زاہد تارک دنیلہ بیہ چھہ تم مغرور تہ مخبر۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ
 تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تموعیسا نی لدرہ بعضی یلہ تم پوزان چھہ سو کلام پاک نیس
 نازل او کر نہ بیغمیر برحقس پیٹھ یعنی قرآن مجید و پھان چھوہ توہہ کہ جنزہ او چھہ چھہ اوش ہدان کیاہہ تمو پوزہ نوو
 دین حق اسلام بیہ امہ کلام پاک کھتایت يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ونان چھہ تم ای سانہ
 ہرورد گارہ امہ کمر پڑھ اتھہ کلام پاکس۔ وون لیکھ آسیہ تہ امہ کین گواہن سیت وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ اَسہ
 کیاہہ اس کیاونہ اسمان ثریعت محمدیہ موجب معبود برحقس وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ بیہ نیس پوزاہہ
 نغمہ ووت بواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ بیہ
 کیاہہ تھاوونہ اس اُن اُمید کہ امہ کیا و اتناوہ ہرورد گارسون جنس نیکو کارن ہندس جماعتس سیت فَاتَّابَهُمُ اللَّهُ
 بِمَا قَالُوا جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ نیس کر اللہ تعالیٰ اُن عطا
 تمہن بیہ ونکھہ برکتہ تچے جنتس تمو منز جو بیہ پکان چھہ۔ تمنی جتنس منز روزن تم ہمیشہ۔ بیچہ چھہ مزور
 نیکو کارن ہنز وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اتھہ بدل گے تم لوکھ تمو

بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَيْوَةِ ۞ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَسُو
أَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ

انکار کو رہیہ زانک آپہرسان آیات نہ احکام نمی لکھہ گئے جنہی ہمیشہ ناس اندر دزہ دن یَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ اے باسماؤ حرام مہ کمر و پاس پٹھہ تم پاک نہ لذیذ چیز، قسم
ہادت یا عہد کمر تھہ۔ تم حلال کر تہندہ خیطرہ اللہ تعالیٰ ان ادہ تم کھینک چیز آستن، چینک چیز آستن، لباس
آستن یا معوحات آستن وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ تخلیل و تحریمس متعلق تم حدود مقرر
کر نہ آمت ہجہ تمہو و حدود نشہ مہ ڈلو۔ ہز پاتھہ اللہ تعالیٰ ہجھونہ پسند کران حدہ نشہ ڈلہ و نین وَكُلُوا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا بیہ کھیبو تمہو چیز و اندرہ تم چیز عطا کر توبہ اللہ تعالیٰ ان حلال نہ پاک
وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ بیہ کھوژو و س خدا ایس کیس توبہ ہز کمر مرد ہجھوہ یعنی کانہہ حلال
چیز اہ حرام کرن اتھہ ہجھوہیز ار اللہ تعالیٰ۔ لہذا کھوژو تہنزہ ہیزاری۔ حلال چیزس حرام کرن اتھہ ہجھہ تریہ
قسم۔ کھہ گو اعتقادہ کن۔ بیا کھہ گو زیوہ سیت، بیا کھہ گو عملہ سیت۔ اعتقاد کانہہ حلال چیز اہ حرام زانن بیہ ہجھو
کھر۔ زیوہ سیت و ن گنہ حلال چیزس بیہ ہجھوہمہ پٹھہ حرام، ہر گاہ بیہ قسم ہاو تھہ و ن بیہ ہجھو گناہ۔ سو قسم
گوشہ ہجھرن۔ تمہ کچ گوشہ کفارت دن تہ سو چیز گوشہ ضرور کھیون۔ تر تم قسم گو عملاً کانہہ چیز اہ تراون
بیہ ہجھہ بدعت۔ بیہ گنیہ رہانیت۔ امیک ہجھونہ اسلامن اجازت ڈیئت۔ امہ نشہ گوشہ ہجھہ روڈن۔ ہر گاہ
کانہہ کانہہ حلال چیز آسہ ترک کورمٹ گنہ مصحلت جسمی یا نفسی خیطرہ بطور علاج تھہ ہجھہ نہ کانہہ قصور
مگر ہر گاہ کانہہ آسہ تر و مٹ کانہہ بزرگہ سہد قرب، نزدیکی تہ رضامندی حاصل کرنے خیطرہ تہ ہجھو ناجائز
نہ شرک۔ کیا زہ قرب و رضامندی گوشہ گنہ عملہ سیت کانہہ آکسز ژھانڈن خدا ایس و رای تم ہجھہ ترک
اکل و شراب مقرر کورمٹ پنتہ خیطرہ کھہ عبادت۔ بیہ کس و رای بیہ کانہہ ہندہ خیطرہ کرن یو ہے گو
شرک، تھوڈ باللہ من ذالک لَا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْبَاتِكُمْ اللَّهُ تعالیٰ ہجھونہ توبہ باز خواست

بِالْغُرُفِ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

کران لغوتہ ہے ہودہ قسم ہاؤس پیٹھ۔ لغو قسم گو سوی بس بغیر ارادہ زبہ منزہ نیرہ۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ مگر باز خواست چھو کران تو ہمہ ضرور ثمن قسمن پیٹھ تم تو ہمہ ارادہ کر تھ مضبوط کرمت چھوہ ہر گاہ تم قسم تہہ پھڑاون اس تھ گڑھہ کفارت دن۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تمہ تھ کفارت چھہ کہ وہ مسکین غذا کھیوان، درمیانی غذا۔ بس روز مرہ تہہ پن عیال کھیوان چھون۔ یا وہن مسکین پو شاک دین، یا غلام آزاد کران۔ بس اس نہ یہ بہتہ تھیر سپدہ سو روزن ترین دوہن پو بس پتھہ روزہ دار ذَلِكْ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ یکہ چھہ کفارت تھندین قسمن ہنز۔ یلہ تہہ گنہ چیز س پیٹھہ قسم ہاوان تہ پتہ پھڑاون آہو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ چونہ یہ کفارت دن چھو واجب لہذا آہو را چھہ کران قسمن پنہ نین قسم کر تھ گڑھہ نہ پھڑان پیون۔ پھڑاوتے بہ تھ کفارت ضرور دن۔ تھنہ اژہ کھہا کر وکہ قسم پھڑ تھ آہو نہ کفارت تھ دوان تہ چھو سخت گناہ مگر انسو لوکن چھونہ امیک کاہہ خیالہ۔ کاہہ شخص کانہہ نشہ گڑھان۔ سو چھوس کاہہ چیز کھینہ یا چنہ خیطہ ہونان۔ یہ چھو قسم ہاوتھہ دپان یو کھیمہ نہ یا چیمہ نہ سو چیز۔ تو پتہ چھوس سو اصرار کران زور کران کھینہ خیطہ۔ اتی چھو سو چیز کھیوان یا چیوان۔ پھڑاوان چھو سو قسم بس ہوومت او سن۔ تو پتہ چھونہ تمہ تھ کفارت دوان۔ لہذا یلہ کانہہ شخصن کاہہ چیز کھینس یا چینس پیٹھہ قسم ہو اوہ گڑھہ نہ تمس زور کران سو چیز کھینہ خیطہ ہ تھہ پاتھہ چھو اللہ تعالیٰ ویڑھہ ناوان حکم پن یو تھہ تہہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا
 يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
 وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٤٢﴾
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا
 عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٤٣﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

امہ نعتک شکر ہو۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ**
 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اکی بالسامو شراب زار پتل تہ چیرین ہند تیر سم ہنہنہ مگر گندہ تہ ناپاک کلمہ
 شیطانہ سنزو کامیو اندرہ۔ مہوسا دی کامیو نشہ روز و پتہ۔ ہنہنہ تہہ کامیاب سپد و سمن چیرین ہندیو مضرتو
 نشہ ہو۔ سمن چیرین ہندیو مضرت ہنہنہ۔ **إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي**
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ شیطان چھو نہ ہنہان مگر ای زہ توہہ اندر تراوہ پانہ وان عداوت تہ بغض وان اندر
 شرابہ تہ زار کہ ذریعہ **وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ** بیہ چھو شیطان ہنہان توہہ رنہ ہنہ شرابہ
 تہ زار کہ ذریعہ خدایہ سدہ یادہ نشہ بیہ نمازہ نشہ بیہ سدہ خدایہ سد یاد کہ بکیو طریقو اندرہ بہتر تہ افضل طریق
 ہنہ بیوہ خرائی تہ نقصان سمن چیرین منز آتہ **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ** کیا بیہ بوڑھ روز و ناتہہ امہ نشہ
 ہنہ۔ یہ کیہ کر سہ بوڑھ و ون صحابہ صیو **إِنْتَهَيْنَا** یعنی اس رنہ ہنہ۔ کس اس نشہ امہ وقتہ کیہہ شراب
 موجود اس تم دیت سو دیر تہہ تہ **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا**
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ بیہ کرو فر مانبر داری خدایہ فر مانبر داری رسول خدایہ ہنہ ہنہ۔ بہنہ
 نافر مالی نشہ روز و ہنہ۔ کس ہر گاہ تہہ پوت پھر و حکم ملانہ کس زانو تہہ وارہ پانہہ کہ سانس پیغمبرس چھو
 نہ مہ مگر ن پانہہ یوضاحت حکم و اتیان تعمیل کرن یاہ کرن بیہ چھہ ہنہنہ کو م۔ تمیک نتیجہ تلو تہہ پانے۔
 یلہ بیہ کیہ کر سہ نازل سپد بھمی لو کو کور عرض در خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہ یار رسول اللہ واریاہ

الضليحتِ جناحٍ فيها طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصلحتِ
ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ﴿١٧﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَ
رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمِنَ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ

لوک تم شراب چیدان آس زار گندان آس تم حض گئے۔ سمہ عالمہ تم چیز حرام سپد نہ بروٹھ۔ تہند حال کیا
حض آسہ آتی سپد سمہ آئیہ کر سمہ نازل لئیں علی الذین آمنوا وعملوا الصلحتِ جناحاً چھو نہ تم
لوکن پٹھہ تمہو اسمان اون تہ رزہ عملہ کر کیکھ کاہہ گناہ فیما طعموا تنھہ منز یہ تمو چو شرابہ اندرہ یا کھیو
زارہ سیت زینمتہ مالہ اندرہ حرام سپد نہ بروٹھ۔ إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصلحتِ یلہ تمو لوکو تمو چیز و
نشہ ہر ہیز کور تم تمہ وقتہ ناجاز آس۔ یہی اونکھ اسمان تہ یہی کر کیکھ رزہ عملہ ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا
وأحسنوا تو پتہ رود ہر ہیز گاری پٹھہ اسمانس پٹھہ ثابت تو پتہ کور کھ یہی تمہ وقتہ کیو حرام چیز و نشہ
ہر ہیز یہی کر کیکھ رزہ عملہ واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ چھو دوست تھاوان امہ قسمہ کین نیکو کارن
تہ رزہ عملہ کرہ و نینن یایہا الذین آمنوا لیبلوکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم و رماحکم ای با
اسمانو البیتہ اللہ تعالیٰ کرہ توہہ ضرور آزمائش شکار کہ کئے قسمہ سیت احرامکس حالتس اندر۔ سوگو سوئی شکار
تھہ شکارس تہند اتھہ پلن۔ یہی تہند نیزہ پلن۔ نیس شکار تہہ باکل قریب تہ نزد یک آسہ اتھہ پلہ و نہ سیت
بیگون سور تھہ یا نیزہ لائتھہ بیخون سوز خمی کتر تھہ۔ یہ آزمائش کرہ اللہ تعالیٰ توہہ تھہ لیعلم اللہ من
یخافہ بالغیب مطلب امتحانک تہ آزمائشہ ہند چھو کہ حالت احرامس منز و حشی جانور شکار کرن کور تم توہہ
پٹھہ حرام۔ تمیک حکم ن پاتھہ بروٹھہ لوہون چھو۔ تم و حشی جانور آن توہہ بروٹھکن پھر ان تھہ اللہ تعالیٰ
نیزہ لوہ کہہ چھو کھوژان تس تہند س عذابس و چھہ و رای فمِن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس
نیس اکھاہ حدہ ذلہ یعنی عدول کھی گرہ۔ احرامکس حالتس اندر کرہ شکار تسدہ خیطرہ چھو آخر تس اندر عذابہ

حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا لِلْبَيْعَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ
مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ
عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ⑤
أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ

دگ تله ون لیکنہا الذین المؤمنوا لاکتھنوا الصید و انتم حرم ای با اسمائوہ مار یون شکار احرامس حالتس
اندر اده احرامس حج کرنہ خیطرہ آستو گوڈ مت یا عمرہ کرنہ خیطرہ۔ یتھہ پانھہ یلہ سو جانور آسہ حرم شر یفیس منز
آدے شکار کرنہ ون احرامس منز آسہ تھہ تہ چھو یوسے حکم یعنی حرم شر یفیک جانور گروہہ نہ رٹن نہ زخمی
کرنہ **وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ** ایس اکھلہ ملہہ شکارس زانتھہ کمر تھہ عمدائس چھو
تس واجب تمیک بدل دین تس جانورس ہیو ایس مورن چل پآو آندرہ اکھ جانور نہ تہ گو مثا لہر گل شتر مرغ مورن تس
بدل گروہہ ونٹ قربان کرنہ۔ ہر گل گور خر مورن تھہ بدل گروہہ گل ملدن۔ ہر گل زوس کٹھ ملدن تس بدل
گروہہ کٹھ مارن **يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ** تمیک فیصلہ کرن توبہ مسلمانو آندرہ زہ شخص عدل وانصاف
کرون **هَدِيًّا لِلْبَيْعَةِ** ایس جانور قربان بیہ کرنہ کعبہ شریف واتیاوتھہ **أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ**
تہ بیہ آس جانورہ سندس قیمتس برابر مسکین غذا ونہ **أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا** تہ بیہ تمکین ہنزہ
گرزدو ون روزہ دار روزہ **لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ** تھہ سوزہ تہہ پتہ کامہ ہندہ سخی ہندتہ تھہ انجامک
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ اللہ تعالیٰ آنکور عفو تھہ بیہ از نام لو کو کور **وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ** ایس آئندہ دوبارہ
تھہ جرم کرہ تس ہیہ اللہ تعالیٰ انتقام آبر تس اندر **وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ** اللہ تعالیٰ چھو غالب انتقام ہنہ
وول تس ایس بار بار عدول حکمی کرہ **أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ** ای لو کو حلال آنو
کرنہ تھہ نہ خیطرہ دریائی شکار کرن۔ احرامس منز آستو یلہ آستو۔ دریائی کھینہ چیز وسیت تمتع نکلن
چھو توہا کل حلال بیہ سدرنی مسافرین۔ **وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا** حرام آکرہ نہ تھہ نہ خیطرہ خشکی

عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ
 وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدَىٰ وَالْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

ہند شکار یوتنان تہہ حالت احرامس منز آہو۔ ہر گاہ بیاکھ شخص ئیس نہ احرامس منز آسہ شکار کرہ تو پتہ دیہ
 حرمس تس چھو تہ کھیون جائیز تہ حلال وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ کھو ژوتس خدایہ
 سندن حکمن مخالفت کرنس تیسس بروٹھہ کنہ تہہ ساری سکتھہ لہ وٹہ واتناون ایو جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
 الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ ان کور خانہ کعبہ ئیس واجب تعظیم گرہ چھو لوکن ہندہ دینی و ذویعی
 کاین ہندہ قائم تہ بر پاروز تک باعث وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ بیہ کرن تعظیمہ وال ریتھہ تہ امن و اما تک باعث
 وَالْهُدَىٰ وَالْقَلَائِدَ بیہ کور اللہ تعالیٰ ان نذر و نیازک جانور تسم محض خدایہ سندہ خیطرہ چھہ یوان خانہ
 کعبس کن واتناون۔ بیہ تمن جانورن ہند ہنز رہ تسم تمن جانورن نال تراونہ یوان چھہ تم تہ کرن امن
 و اما تک باعث۔ ذَٰلِكَ بیہ کور اللہ تعالیٰ ان امی سببہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بیٹھہ تہہ وارہ زانو بیشک اللہ تعالیٰ چھوژوانان تہ سوزوی بیہ آسمان
 تہ زمین اندر چھو۔ بیہ بیٹھہ تہہ زانو کہ اللہ تعالیٰ چھو پد بیٹھہ چیزس پوٹھہ قدر تہ وول اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ زانو کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہ عذاب کرہ و ان نافرمان بیہ
 چھو اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ و ان۔ رحم کرہ و ان فر مانبر دارن مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ چھو تہ سمس
 سانس پیغمبرس مہہ مگر پیغام وانہ ناون ئیس تم و واتوو تہ طریقہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
 اللہ تعالیٰ چھو تہ سوزوی زانان بیہ تہہ زیوہ سمیت تانوسیت نذر او ان تہ ظاہر کر ان چھوہ۔ بیہ بیہ تہہ دن منز

وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۹۹﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
 أَحْبَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن
 بُدِيَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ بُدِيَ
 لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ

کھنیت تھوان چھوہ۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ فرماؤ لکھ تمہے یا رسول اللہ برابر چھوہ
 ناپاک تہ پاک یعنی گناہ تہ اطاعت۔ یا کھنگار تہ فرمانبر دار۔ بلکہ چھو خبیث مردود، طیب چھو مقبول۔ عاقل
 گو سوی نیس پٹن پان مقبول بناوہ مردود بنہ نشہ وَلَوْ أَحْبَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ اگرچہ تجیس کدر
 تراوتے تہ اے مخاطب ناپاک زیادتی توئن مہ کثرہ خیالی فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 بلکہ کھوژو تہ خدایہ سندس کھمس مخالفت کرنہ نشہ اکی عقلہ والیو تہ تہ کامیاب تہ رستگار سپدہ حصول
 جنتہ سیت بیہ حصول رضای اہلی سیت۔ یلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت حج بیان
 فرماتہ اک شخص ہر تہہ تمن کیا حض ہر تہہ ڈریہ چھان حجزان فرض تریہ پھر ہر تہہ نبی کرسم صلی
 اللہ علیہ وسلم تمبوہ فر موؤس نہ کہنہ جواب۔ توپتہ فر موؤکھ ہر گاہ یوہ فر ماوہ ہاؤہ۔ تلہ بیہ ہا توہہ ہر تہہ ڈریہ
 حججران نیس نہ تہہ کتر تہہ بیہ ہو۔ برو ظہم لکھ گے تباہ زیادہ ہر تہہ ہر تہہ کہ نہ سیت۔ یوسہ کتہ یوہ فرماوان
 آسووہ تہہ پٹھہ آسوہ عمل کران۔ یوسہ کتہ نہ یوہ فرماوان آسووہ تمیک مہ آسوہ تہہان۔ آتھہ مطان سپدہ
 آئیہ کرسمہ نازلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن بُدِيَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ای ہا۔ سمانو فضول کتہ
 غیر ضروری معاملن متعلق مہ آسوہ ہر تہہان سمن متعلق احتمال چھو کہ ہر گاہ بیان بیہ کرنہ توہہ سپدہ تہ
 بوژن ناگوار وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ بُدِيَ لَكُمْ بیہ ہر گاہ تہہ تہہ تہہ تہہ وقتہ یلہ قرآن مجید
 نازل سپدان آسہ توہیہ بیہ پورہ تہہ وضاحت کرنہ توپتہ بیہ کوہ تہہ کوم پورہ انجام آتھہ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ
 تعالیٰ ان کور توہیہ عفو فضول سوال کرن از تام مگر آئیہ کمر و احتیاط وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو

مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿۱۲﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ
بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا كَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَكَثْرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾
وَإِذ قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا

سیٹھاہ مغفرت کر وہ دن سیٹھاہ حلیم تہ چھو سو تھنہ توہہ حکم عدولی پیٹھہ عذاب تہ باز خواست نہ کرنہ سیت
دھوکہ لگہ کہ اسہ آونہ خلاف ورزی پیٹھہ باز خواست کرنہ۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ بِزَيْطٍ يَهْبِطُ
تھہہ ہر ژھہ تمبو لو کو تم توہہ یوٹھہ آس پنہ نین پیغمبران، تو پتہ یلہ تم کھن ہند جواب دہہ آو تمبو کرنہ تھہہ
پیٹھہ عمل۔ تھنہ تہہ تہ سوی نوہت پیش ایہ۔ لہذا چھو بہتر سوالے مہ آسہو کران تھہ
أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ پتولا کہ سپد تم تم کچیران منکر۔ کافران ہند رسم اوس کہ حیوانا تہ حیوانا تہ ہند من
چکن آس معبودان باطلن ہندہ ناوہ نیاز تھوان۔ تو پتہ آس تہ ہند من کنن تر تھہ دو ان نشانہ تھوانہ خیطرہ تس
آس ونان۔ خیرہ۔ بعضی جانورن آس پو تیلن ہندہ ناوہ تھوان۔ کلمہ نشہ آزاد تھوان۔ تھہہ پاٹھہ ازک
کافر چھہ درم دلند تھوان۔ تس آس ونان سائبہ۔ بعضی کافر آس ماجہ ہندس شیکسی اندر آہتھہ چس
متعلق ونان کہ ہر گاہ یہ تر آسہ تلہ کر ون فلان پو تلہ سیدہ خیطرہ ذبح ہر گاہ مادہ آسہ تلہ تھاون و چھہ خیطرہ
پانس کیت۔ آس آس ونان وصیلہ۔ بس وونندہ دہ چہ آسمن پیدہ سپد مت تس آس سواری نشہ، یور تلتہ نشہ
الگ تھوان۔ آس آس حامی ونان۔ تمنی چیزن آس خدایہ سند حکم زمان۔ آتھہ سارسی چھو اللہ تعالیٰ رد
کران۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ کتر نہ اللہ تعالیٰ ان مقرر کانہہ
خیرہ نہ سائبہ نہ کانہہ وصیلہ نہ کانہہ حامہ۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَكَثْرُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ لیکن کافر چھہ پائے تم لہر سوم ٹھہر او ان۔ خدایس کن منسوب کران۔ اکثر چھہ تمبو
کافر و اندرہ بے عقل۔ وَإِذ قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ یلہ تم ونہ یوان چھو ایو
رجوع کتر و تمن ارشاد ان کن تم اللہ تعالیٰ ان نازل کر ہیہ تہ ہندس پیغمبرس کن۔ تمن پیٹھہ تم احکام

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْآبَاءَ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا
 يَصُرُّكُمْ مَنِ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبِئْسَ لَكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا
 حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
 أَوْ آخَرَانِ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْتُمْ

اور شادات نازل کرنے آئی۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْآبَاءَ تھہ چھہ جواب وانان آسہ چھو کافی تی یہ
 آسہ وچھہ بن مال تہ بڈب کران اَو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللہ تعالیٰ چھو فرما
 وان یکما سُو طریقہ آوسہ تمن ہر تھہ حاس منز کافی۔ یکما ہر گاہ تھہ مال بڈب کینہ تہ زمانان آسہن نہ نہ
 آسہن کئہ آسمانی کتابہ ہندس ہدایتس پٹھہ توتہ کرہنہ ثم تہنزی پیر وی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ
 آئی بالہ سمانو کمر و پنہ نس پانس اصلاح کر چ فخر۔ اصل گوم چھویئے توبہ منہ۔ بین اصلاح کرنس متعلق چھو
 یہ حکم کہ تہہ پنہ مقدورہ تہ طاقتہ موجب بین اصلاح کر چ کوشش کمر و مگر تمن کانہہ اثر سپدہ نہ تہہ مہ
 کھیو تھیک غم کہ تمن کونہ چھو اثر سپدان لَا يَصُرُّكُمْ مَنِ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ لیس شخص تھہ نہ اصلاح کرہ
 باوجود گمراہی پٹھی روزہ توبہ چھونہ تھیک کانہہ نقصان تہ ضرر۔ یلہ تہہ پانہ پور ہدایتس پٹھہ آسہو اِلٰی
 اللہ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبِئْسَ لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خدایہ سی گن چھو تہہ سارنی رجوع کرن۔ لیس گرہ وہ سُو توبہ
 خیر تمہ سارچی یہ تہہ کران آسہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آئی بالہ سمانو شہادۃ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
 الْمَوْتُ تھہ بن باہمی معاملاتن اندر مثلاً وارثن گن مال سپر دکرہ خیرہ گڑھن آسہن زی شخص وصی یلہ
 توبہ اندرہ کانہہ مرنگ وقت واتان آسہ۔ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ
 تمہ ساتہ وارثن گن مال سپر دکرہ وصیت تہ کرہ خیرہ گڑھن زہ شخص مسلمان دیندار آن سم وصی بناونہ
 بن۔ یازہ شخص غیر مسلم ہر گاہ تہ زہ مسلمان تیر سپدان إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْتُمْ مُصِيبَةً

مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تُحِبُّونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَ بِاللَّهِ
 إِنْ ارْتَبْتُمْ لَأَنْشُرِي بِهِنَّ نِئْمًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نُنْكِرُ
 شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذْ أَلَمْنَا الْإِنسِينَ ﴿۱۶﴾ فَإِنْ عَثَرْنَا عَلَىٰ أُمَّهَاتِنَا
 إِنَّمَا فَآخِرِينَ يَقُومُنَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْأُولَىٰ فَيُقْسِمُنَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا
 مَا عَصَيْنَا إِنَّآ إِذْ أَلَمْنَا الظَّالِمِينَ ﴿۱۷﴾ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا

الموت ہر گاہ تو بہ سفرس منز آتھم رنگ وقت واتہ تحبسونہما من بعد الصلوة نھند گزہن
 تم زہ گوارہن اولے شہادتہ خیطرہ نماز پڑتھ۔ آسنہ زہ مسلمان بہتر چھوڈ کر نماز پڑتھ۔ آسنہ غیر مسلم تلہ نوسہ
 تم ن پندہ طورہ کانہہ نمازہ عبادتھہا مقرر آسہ سوعبادت کمرتھہ لوکن تھی فیقسمن باللہ إِنْ ارْتَبْتُمْ ہنس
 ہاون تم زہ قسم خدایہ سندر ہر گاہ تم متعلق تو بہ شک آسہ۔ لَأَنْشُرِي بِهِنَّ نِئْمًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ قسم
 ہاون تم ہتھہ کتھہ پڑتھ کہ اس گروہ حاصل سمہ قسمہ سیت کانہہ فائدہ یعنی میت سندرہ مالکہ طمعہ موکھ گزو
 نہ اس کہز قسم آدہ آستن آسہ آشاہن رشتہ دار ہن کانہہ ہندرعلیت کرو نہ اس وَلَا نُنْكِرُ شَهَادَةَ اللَّهِ
 ہرورد گارہ سندرہ طرفہ نوسہ تھہ و نہ نگ حکم چھو سوتھہ تھاو نہ اس کھنت إِنْآ إِذْ أَلَمْنَا الْإِنسِينَ ہر گاہ
 اس ہر تھہ کتھہ گزو بیشک اس چھہ تلہ گتھگازوتہ مجر مو آندرہ فَإِنْ عَثَرْنَا عَلَىٰ أُمَّهَاتِنَا إِنَّمَا ہنس ہر گاہ نپہ
 طریقہ معلوم سپدہ کہ سمودو یو گواہو اکور پن حق ثابت گنہہ سیت یعنی خیانت کرتھہ ہووکھ قسم اہز فالآخرین
 يَقُومُنَ مَقَامَهُمَا ہنس بدل زہ گواہ سپن قائم ہن دون گواہن ہنزہ جاییہ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْأُولَىٰ تہمدہ طرفہ ہندہ حق ضایع کرنہ او سم زہ ہو گواہ آسن تم ہند نزد یک رشتہ دار فَيُقْسِمُنَ بِاللَّهِ
 ہنس خدای سندر قسم ہاو تھ و ن سم زہ گواہ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا سان گواہی چھہ زیادہ درست
 برو نظمین گواہن ہندہ حوثہ وَمَا عَصَيْنَا آسہ کتھہ قسمہ زیادتی کرنہ اس حدہ ڈل نہ ہر گاہ اس حدہ ڈلت آسہ
 إِنْآ إِذْ أَلَمْنَا الظَّالِمِينَ تلہ چھہ اس ضرور ظالمو آندرہ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِنَا

بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنَّ شُرْدَ إِيمَانٍ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا طَوَّالَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ١٠٨
 يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ
 لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ
 اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ
 الْقُدُسِ فَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ

سمہ طریقہ قسوسیت چھوڑنا زیادہ امید کہ تم دن گواہی جان پائے۔ رتہ طریقہ۔ اَوْ يَخَافُونَ أَنَّ شُرْدَ إِيمَانٍ
 بَعْدَ إِيمَانِهِمْ یا کھوڑنا کم از کم سمہ کتھہ نشہ کہ ہر گاہ اُس پوز پوز نو نہ تلہ ایہ سان گواہی تہ رد کر نہ دو سمہ
 گواہی سیت۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا بیہ کھوڑو اللہ تعالیٰ اس معاملات و حقوقن منزمہ آسوا ہونان۔ بیہ
 یوز و خدایہ سدا احکام تو پتہ مانو۔ ہر گاہ مانو نہ تلہ سپد و فاسق تہ نافرمان وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
 اللہ تعالیٰ چھوڑ نہ نافرمان نجاق تہ سعادتی و تھہ ہوا ان یَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ سُودوہ پاوڑ تیس سمہ دو بہ
 جمع کرہ اللہ تعالیٰ ساری جینمیرن اُتیوسان سوگو قیامتک دوہ کوتاہ ہونانک چھہ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ تو
 پتہ ہر ژھیچھہ تو بہ کیاہ جواب اووہ نہ سمن اُتین ہندہ طرفہ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا تم ذہن آسہ چھوڑ نہ
 ژیتسی کہنی۔ تہ آسہ تمہ دو بہیہ شدت ہو لک اثر تمن پیٹھہ۔ زہول آسیکھ سپد مت إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
 الْغُيُوبِ ہز پات ژئی چھوک ساری پو شیدہ چیز زانہ ون إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ اذْكُرْ نِعْمَتِي
 عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ سُودوہ پاوڑ تیس سمہ دو بہہ ہر ژھہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اُس علیہ السلام ای
 عیسیٰ بن مریم ژیتس پاومیان تم احسانات تم مختلف و قن اندر مختلف قسمو ژیہ پیٹھہ تہ چانہ والدس
 حضرت مریمس پیٹھہ مہ کرمت چھہہ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ یلہ سو مدد کروئی ژہ پاک روحہ سندہ
 سیت (سوگو جیریل این علیہ السلام) تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا کتھہ اوسکھ کران ژہ لو کپارس لوکن
 سیت منزلس منزیہ بوڈو اتھہ دون کلامن منزلس نہ کانہہ فرقاہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بیہ

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
 كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي وَ
 تُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِأَذْنِي
 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ
 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُكُمْ مِثْلُ
 مَا أَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ عَاذِرِينَ ﴿١٠٠﴾
 إِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا
 آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٠١﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

یله مه پکھناو مکھ ژه لیکن ته کاچار چه کتھ و التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ بیه تورات ته انجیل وَاذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
 الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي بیه یله ژه بناوان او سکره به بند جانور بی میانه کتھ فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ
 طَيْرًا بِأَذْنِي کس او سکره ژه تنه منز پھوکه دوان توپه اوس سوواره کاره جانور بنان میانه کتھ وَتُبْرِئُ
 الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي بیه اوس بن مولی اون، نابینا ته پتھر لیدیسا بلراوان میانه کتھ وَاذْ تُخْرِجُ
 الْمَوْتَى بِأَذْنِي بیه یله ژه مرده اوسک زنده کرت قبر و منزه کڈان میانه کتھ وَاذْ كَفَفْتُ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ بیه یله مه بنی اسرائیل ژه زبده پتھر رث یله تموجانه قتلک
 اراده کریو یله ژه تمن زبده نند لیله پتھه آھ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُكُمْ مِثْلُ
 دوان تمو اندره تمو لوکو تم کافر اس پتھه سمه روشن دلپله مگر نون سحر ته جود۔ وَاذْ أُوحِيَتْ إِلَى
 الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي بیه یله مه حوارین کتھ کورکه پتھه کتھ و مه بیه میانس پتھه س
 آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تمو و وپ ژیه کن تمیک جواب که آسه اون اسمان خدا کس ته ژیه
 ته دوان روز ژه ای حضرت عیسی گواکه اس پتھه پتھاپ مسلمان فرما بنه دار خدایه سند ته چان ته إِذْ قَالَ
 الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بیه چھو قابل ذکر واقعہ یه یله حواریو دود یا حضرت عیسی بن مریم

يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۳﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿۱۱۴﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ کیا ہے تمہند پروردگار میں کیا ہے پیٹھ
 آسمان کے طرفہ نعمت بند خواجہ نازل کرے، واللہ، مہ ماہ جو تہندس مگر خمس خلاف قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حضرت عیسیٰ ان دو کچھ کھوڑو خدا بس ہر گاہ تہہ بالہ مسان چھوہ۔ بڑھ تہہ کر نہ نشہ روزو
 پتھہ بیچارہ بالہ مسان ہزہ نہ مجرہ ہز فرمایش کرن۔ بے ضرورت امہ قسمک چیز طلب کرن چھو خلاف
 اوب۔ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ
 الشُّهَدَاءِ تم لگ ونہ امہ خدایہ سندس قادر مطلق آسکس اندر مگر قسمہ شک تہ ترد چھو نہ بلکہ چھو
 سون مقصدیہ ونہ اندرہ آکھ کہ اس کہمہ ہو کہنہ امہ چھہ پوچھہ لچر ہر روزہ ہن سان دل مطمئن۔ اسہ پیہ
 ہنہ معاشہ خیرہ فجر تھاون تمہ نشہ بے فجر روز تھہ کرہ ہوا اس خدایہ سز عبادت۔ بیہ سپد معلوم اسہ توہہ
 فر مووہہ پوز۔ بیشک چھوہ تہہ بیغمبر خدا۔ بیہ روزہ ہوا اس تہندس اتھہ مجرہس پیٹھ گواہ۔ سو سپدہ ہاتین لوکن
 ہندہ ہدایک ذریعہ تہ سبب قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ چنانچہ یہ جواب بوز تھہ سپد معلوم حضرت عیسیٰ اس کہ
 تہند غرض چھو صحیح اتی کور تھہ دعا اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ یا اللہ ای سانہ پرورد گارہ
 نازل کر اسہ پیٹھ خواجہ۔ پیٹھ منزرتھہ کر تھہ، تیار سپد تھہ تھیک چیز اس آسمان کے طرفہ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا
 لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تمیک و سن تہ نازل سپن بنہ سانہ خیرہ، ساتین
 برو تھمین ہتین ہندہ خیرہ فرحت و سرورک باعث۔ بیہ سپدہ سوچانہ قدرت کاملک بوڈ نشانہ۔ کر اسہ امہ

خَيْرَ الرِّزْقَيْنِ ۝ قَالَ اللهُ اِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّى اَعْدِبُہٗ عَذَابًا اَلَّا اَعْدِبُہٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ع
 وَاِذْ قَالَ اللهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّى الْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالِ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقِّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ ۝ م اَقُلْتُ لَمْ

طریقہ پُرن رزق زہ عطا شری چھو کہ ساری اندرہ بہتر عطا کرہ و ن قَالَ اللهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ ان فر موو کہ پشک بو کرہ نازل خوا چہ توہہ پٹھہ ضرور مگر فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اَعْدِبُہٗ عَذَابًا لَا اَعْدِبُہٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ تمہہ بہتہ کس اکھاہ توہہ اندرہ کھر ان نعمت کرہ یعنی حقوق واجبہ او اگر نہ تس کرہ یوسو عذاب کس نہ کانسہ اکس کرہ بہ تمہہ وقتہ کیو عالیو اندرہ۔ وَاِذْ قَالَ اللهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ یہ چھو قابل ذکر یہ واقعہ کس قیامتک دوہہ در پیش یہ۔ اللہ تعالیٰ فر ماوہ تمہہ دوہہ یا عیسیٰ بن مریم اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّى الْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ کیاہ ترے وو تمہہ لوکن بو تہ میان والدہ زانہ عن زہ معبود، خدا کس و رای (یہ بو زہ نہ سیت وو تمہہ تمہہ حضرت عیسیٰ اس) قَالَ نَّانِ ثَنَانٌ وَنہ سُبْحٰنَكَ مُنَزَّہ نہ پاک چھو کہ زہ شریک آہ نہ نشہہ۔ میانہ دلکہ اعتقادہ موجب نہ حقیقت واقعی موجب یہ مَا يَكُوْنُ لِىْ مہ تمہہ پاٹھہ پرہہ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقِّ بو کیا ونہ ہا سو تمہہ تمیک نہ مہہ کانہہ حق اوس نہ پندہ دلہ کہہ اعتقادہ کہ اعتبارہ نہ حقیقت واقعی کہ اعتبارہ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ہر گاہ مہہ پڑھہ تمہہ و نعمد آہہ تلہ آہی ترہہ خیرى تَعَلَّمَ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ زہ زانہ تہ سوروی یہ میانس و ندس منز چھو کٹھٹھہ۔ مگر بو زہ نہ یہ چانس ذات پاکس منز چھو مگر توشی ہن ایو ہن ترہہ زانرو تھس اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ پڑ پاٹھہ ترہی چھو کہ سٹھاہ زانہ ون ساری پو شیدہ چیز م اَقُلْتُ لَمْ اِلَّا مَا اَمْرَتْنِىْ بِہٖ مہہ و ون نہ لوکن مگر تی تمیک ترہہ حُلم کور تھم اِنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ سو کونہہ پچہ تمہہ کہ عبادت کھر و معبود

إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
 شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّؤُوبَ عَلَيْهِمْ
 وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۴ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ وَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ
 تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۵ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ
 الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

برحقہ سنزئیس میون تہ تہند ہرورد گار چھو وکنت علیہم شہیداً انا دمت فیہم ایتس کالس یو تمن
 منز اوس آسمانس پیٹھ کھار نہ بندہ بروٹھ تہ آسمانس پیٹھ کھار نہ بندہ پتہ تہ تیتس کالس اوس یو تمن عجرانی
 کران تہ ہونہ حال دوجھان فلما توفیتنی کنت انت الرؤوب علیہم وانت علی کل شیء شہیداً تمہ پتہ بلہ ثیہ
 میون وقت پورہ کور تھ اڈہ اسکھ ژی تہند ر اہجہ ژی چھو کھ ہر ہتھہ چیزک حال دوجھان ان تعذبہم
 فانہم عبادک ہر گاہ ژہ تمن عذاب کرکھ تم چھہ بندہ چانی۔ ژیہ چھوی پورہ اختیار تمن پیٹھ۔ وان
 تغفر لہم ہر گاہ تمن بخشکھ تہ مغفر تھی کرکھ فانک انت العزیز الحکیم چان اتھہ کانہہ ہتھہ ہیکہ
 نہ رٹھہ کیاہ ژہ چھو کھ پیشک سارنی پیٹھ غالب تہ جنتہ وول قال اللہ ہذا یوم ینفع الصادقین
 صدقہم فر موو اللہ تعالیٰ ان یہ از یک دودہ چھو سیمہ دوہہ نفع دیہ پز یارین پوز ہن۔ سکو لوکو ہزس
 اعتقادس پیٹھ روز تھہ ر ژہ عملہ کر مژہ اسن لہم جنت تجری من تحتہا الانہر خالدين فیہا ابدًا تہندی
 خیطرہ ہتھہ تم جنت تہ بلغ ممومنز جو یہ پکان اسن تم روزن تجن جنتن منز ہمیشہ ابد الابد رضى اللہ عنہم
 ورضوا عنہ خدا تمن نشہ راضی تم خدا بس نشہ راضی تہ خوش۔ ذلک الفوز العظیم یے گینہ بد
 رسنگاری تہ کامیابی یعنی رضای خدا حاصل سپدن۔ دنیا عوج کانہہ کامیابی چھنہ اتھ برابر لله ملک

فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۹﴾
 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲۰﴾

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ پادشاہت چھہ آسمان منزتہ زمین منزبہ تین سارنی پیٹھہ سیم تین دون
 منز روزان چھہ۔ عالم علویک مخلوق تہ عالم سفلیک مخلوق تہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سؤی چھو ہر پیٹھہ
 چیزس پیٹھہ قدرتہ وول۔ امسی مالک کس ہزہ پنہ نین مخلوقن پیٹھہ احکام مقرر کرن۔ سیٹھاہ پیٹھہ تہ ناجائز
 چھو پیٹھہس پادشاہہ سز، پیٹھہس قدرتہ وال سز نافرمانی تہ عدول حکمی کرن۔



سُورَةُ الْأَنْعَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
 وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ① هُوَ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
 تَمْتَرُونَ ② وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يُعَلِّمُ سِرُّكُمْ وَ
 جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ساری حمدتہ شائعہ سزاوارتس
 معبود برحقس تم پیداہ کر آسمان تہ زمین بیہ تم پیداہ کر گتہ تہ گاش ۚ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
 يَعْدِلُونَ ۚ تہتہ قدر تہ وول آتہتہ چہتہ کافر پنہ نس پروردگارس سیت برابر تھاوان مخلوقو آندرہ معبودان
 باطن (کجا خالق تہ کجا مخلوق) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ سُوگو سوی پیداہ کرہون تم
 تہہ پیداہ کرہو۔ رَبِّہ نیشہ بواسطہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تویہتہ کرن مقرر آکھ وقتاہہ پر تہتہ آسندہ زینہ
 تہ مر نہ خیطرہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ بیاکھ وقتاہہ چھوٹس نیشہ مقررہ تہ معین تہتہہ دوبارہ زندہ سپد نہ
 خیطرہ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ توتہ تہ چھوہ توبہہ اندر بعض لوکھ شک تہ تردد کران مر نہ پتہ بیہ زندہ سپد نس
 منز۔ حالانچہ تم ذات پاکن سو روی گوڈہ پیداہ کور تمس نش کیاہ عجایب چھو دوبارہ بیہ پیداہ کران۔ وَهُوَ
 اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ بیہ چھو سوی معبود برحق آسمانن منز تہ زمین منز تہ۔ نس ورا ی چھہ
 ساری معبودان باطن۔ يُعَلِّمُ سِرُّكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ زنان چھو سوتہتہند پوشیدہ احوال
 تہ۔ نن احوال تہ۔ لوتہ لوتہ تہتہ تہ بدہ تہتہ تہ بیہ چھو زنان تہ سو روی یہ تہہ کران چھوہ نیک و بد عملو

رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۴﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
 فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۵﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ
 أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۶﴾
 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ

اندره۔ تمہو ترشوی آیات کرسموسیت سید ثابت توحید باری تعالیٰ کیا زہ نُس اندر تسم صفات آس
 سوی چھو عبادتس سزاوار بیہ نہ کانہہ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ یہ
 چھو نہ تمکن مکہ کین کافر ن تہ مکر ن نیشہ خدیہ سیدہ وحدانیتہ کیونشاواندرہ کانہہ نشاناہ کانہہ دلیلاہ
 واتان۔ مگر تم چھہ تمونشاوانوتہ دلیلونشہ نیشہ پھر ان۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ چنانچہ تموکور انکار
 نیشہ ہزس قرآن مجیدس یلہ سوتمن تیشہ دوت۔ مگر تممن ہندہ امہ انکار کرنہ تہ نیشہ پھر نہ نیشہ لیہ نہ اچھہ
 ٹونہ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ جلدی لکھہ تم ن پتہ تمہ چیز ک یوتھہ تم ٹھٹھہ کران
 آس یعنی عذابس گڑھن گرفتار اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا کیاہہ تمووچھناہ پنہ نین سفرن اندر۔ اسہ کاژاہ اُمرچھہ ہلاک کرہ
 مرہ تمکن اسہ دنیاس اندر سوتوت تہ طاقت دیوتھت اوس نُس نہ توبہہ دیشمت چھو۔ یہہ آس آس تم ن
 بیٹھہ آس لکھہ طرفہ پے درپے وزہ وزہ رُود تراوان وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ یہہ آسہ ہنزو
 بستیتوتہ آبادیہ منزہ جو یہ تہ کولہ جاری کرہ مرہ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ باوجود آل کراسہ تم ہلاک تھدیو
 گتھوتہ نافرمانیوسبہ۔ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ توپتہ کڑہ آسہ تم ن پتہ واریاہ جمائس پیداہ۔ تھہ پاتھ
 توبہہ بیٹھہ تہ ہنزہ نافرمانی سبہ اس عذاب نازل گرو۔ یہہ کیاہہ عجاب چھو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَابٍ
 فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَابٌ مُؤْتَيْنِ تم ن لو ن ہندہ کفر وعناد چچ چھہ یہ کیفیت

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ④ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ
عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أُنزِلْنَا مَلَكَ الْقَضَى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ⑤
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا
يَلْبَسُونَ ⑥ وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑦ قُلْ

کہ ہر گاہ اس کاغذس پٹھے لیجھتے کتاباہ توہم پٹھے نازل کرہ ہو تو پتہ کرہ ہن تم پنہ نیوا تھوسیت تھہ
تھپ۔ تو تہ ونہ ہن سیم کافر تہ مجر یہ ہچونہ مگر ناکارہ ہوجودتہ سحر کیا زہ یلہ نہ ولہ کن ما ن غرض چھو
آسان تلہ چھو پر ہتھہ دلیلہ نسبت کہہنہ تہ کہہنہ کھہ یوان کڈنہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ بِسِ
وَوْن سیمو کافر وکیازہ چھونہ ہن پاتھہ نازل سپدان حضرت محمد ﷺ پٹھے کانماہ ملکاہ کس یہندس
پیغمبر آسس پٹھے تصدیق کرہ ہا۔ وَلَوْ أُنزِلْنَا مَلَكَ اللّٰهُ تَعَالَى چھو فرماوان ہر گاہ آس نازل کرہ ہون ملکاہ
ہتھہ پاتھہ سیم یزھان آس لَقَضَى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ تلہ پیہ ہاقصہ ختم کرہ نہ یعنی تھہ صورتس
اندہر گاہ تم ایمان آنہ ہن نہ۔ تلہ پیہ ہاتھہ ہا لکن تہ گالنگ حکم جاری کرہ نہ ہتھہ اندرنہ تم ن سئہ قسمہ
مہلت پیہ ہاونہ موجود صورتس اندر آہہ تم ن مہلت ونہ ہتھہ تم ن توبہ کرنگ موقعہ حاصل سپدہ وَلَوْ
جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا بیہ ہر گاہ اس پیغمبر بناوتھہ سوز ہون کانہہ ملک سوتہ کرہ ہون اس
بصورت انسان کیا زہ عام انسان ہچونہ طاقت ملک وچھنک وَاللَّبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ تو پتہ
تراوہوک اس تم تم ن شہن اندر تم ن اندر وچھنکس تم پیمت چھہ تمہ ساتہ تہ ونہ ہن تم تھہ سمہ وچھنکس
ونان چھہ تم سدس بصورت انسان آسس پٹھے کرہ ہن شہہ خبر چھایہ چھا ملک کنہ چھونہ۔ لہذا نہ
سپد و تھہ یارسول اللہ سنہز و تھوسیت آزرده یہ نو تھہ چھنہ وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ پڑ پاتھہ ٹھٹھہ آو کر نہ تم ن پیغمبر ن
سیت تہ سیم توبہ ہر ونڈہ آس۔ تو پتہ ول تم تم ن عذابن ہتھہ تم ٹھٹھہ کران آس۔ لی نہ تم ن لوکن تہ

سَيُرَوُّ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ⑩
 قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى
 نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ⑪ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑫ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ
 وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑬ قُلْ أَعِزَّ اللَّهُ أَخِيذًا وَلِيًّا

تم توہم ٹھٹھہ کران چھوہ۔ لہذا نہ بانہر وکینہہ۔ قُلْ سَيُرَوُّ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُكذِبِينَ فرماؤ کہ تہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لو کو پھیر و تہہ سارسی زمینس تو پتہ و چھو کیاہ
 چھو سہمت انجام مکران ہند سموسان آیات اہزان قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پر تھو کہ
 تہہ یارسول اللہ آسان وز زمینس منزیہ چھو تہ گہند چھو قُلْ تم نے امیک جواب دن یورے فرماؤ کہ
 نلکہ سوروی چھو معبود برحقہ سند کیا زہ امیک جواب چھو نہ امہ ورا ای کہنی۔ کُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ
 الرَّحْمَةُ تم چھو ذمہ ہر مٹپانس پٹھہ لو کن نسبت مہربانی کرن۔ تم شکر کہ نفعہ توبہ کرن لِيَجْمَعَنَّكُمْ
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ضرور کرہ توبہ سارنی حج قیامتک دوہ تو پتہ ہیہ سارنی حساب قیامتک دوہ
 گو تہکس بینس منزہ شکتہ چھو کانہہ۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان ڈیٹھہ کیتھہ تہہ تہہ سکن کافرن توحیدہ چہ
 دلیلہ زحمتک تہ عذابک وعدہ وعیدہ کتر و الْاٰیٰتِ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ مگر سمولو کوٹن پان
 پائے نقصانس تہ تاوانس منزرتو تم پڑھ کرن نہ، ایمان آئن نہ، کیا زہ سمو چھہ پن عقل تہ نظر صحیح
 ضایع کر مٹ۔ کانہہ چیز حاصل کرن خیطرہ چھو قوت فکریہ استعمال کرن لازم تہ ضروری آسان۔ تھہ
 قوتس چھہ تم کامی ہوان۔ لہذا کتھہ پاٹھہ آن تم ایمان۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ ہیہ چھو
 تہندوی تہ سوروی ہیہ رانس تہ دوہس منزرو ز تھہ چھو۔ یعنی مکان وزانس منزیہ کینہہاہ چھو تہ چھو
 تہندوی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سوی چھو سوروی بلا زہ دن سوروی زانہ دن قُلْ فرماؤ کہ تہہ یا
 رسول اللہ اَعِزَّ اللَّهُ أَخِيذًا وَلِيًّا قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطَعَّمُ وَلَا يُطْعَمُ ای کافر و تہہ چھوہ

فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُوبُ
 إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ
 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾ وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
 لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

پڑھان بویکارتن محبوب برحقس وراى بیه کانہ دوستاہ مددگارہ تہ معبود المنسز عبادت بوکرہ سوتر او تھہ
 ئیس آسان تہ زمین ہند پیدہ کروون چھو۔ بیہ چھوسارنی کھیواون۔ تس چھونہ کھیواون کانہ۔ کیا زہ سو
 چھو کھینہ چنہ نیشہ منزہ تہ پاک قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ فرمایو کہ تہہ یارسول اللہ سمو عقلی دلیلو علاوہ چھہ نقلی دلیلہ سمو موجب نہ بوئہ صورتہ
 تس وراى کانہ معبود زان۔ سو نقلی دلیل گنیہ بیہ کہ میہ اوامر کرنہ کہ بو آسہ گوڈھوی خمس تعمیل
 کرون۔ بیہ آم حکم کرنہ بیٹھ نہ ہرگز بنو تہہ شرک نہ وینو آندرہ۔ بیہ بلہ تس صاحبس وندہ آؤ ئیس
 صاحب شرک اندہ نیشہ معصوم تہ پاک چھو۔ وئن چھنہ بین ہننز تھس۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
 رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فرمایو کہ تہہ یارسول اللہ بوچھوس کھوژان ہر گاہ بو نا فرمانی کرہ
 پروردگار س پنے نس۔ بڈہ دو بھس عذابس۔ ئیس عذاب حکم نہ مانو نین کرنہ بیہ۔ سو بوڈوہ گو قیامتک دوہ
 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ئیس آس نیشہ تمہ دوہک عذاب ہتھہ لیہ رنہ بیشک تس
 کورخدان بوڈرہم۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ سوی گنہ نرستگاری تہ کامیابی یعنی تمہ دوہجہ عذابہ نیشہ
 نجات لبین وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ای انسانہ ہر گاہ ژیہ واتاوی اللہ تعالیٰ کانہ
 تکلیفہا، کانہ بلا یاہ کانہ بیماریاہ کنہ تنگیاہ ئیس چھونہ کانہ اکھاہ ئیس بیٹھہ تکلیفیس ژیہ نیشہ دور ہیجہ کمر تھہ
 تس معبود برحقس وراى۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر گاہ سو واتاوی ژیہ

قَدِيرٌ ۱۴) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۱۵) وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۱۶) ۱۷)
 قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۱۸) قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۱۹) أَيْتَكُمْ
 لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى ۲۰) قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا
 هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ ۲۱) وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۲۲) الَّذِينَ اتَّيَبْتَهُمْ
 الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

کانہ خیرا صحتہ، دولتہ، تسلطہ کانہہ رتھہ ہیجہ نہ سو چھو پریتھ چیزس پیٹھ قدرتہ دول۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سؤی چھو غالب پنہ نین بدن پیٹھ۔ ہیہ چھو سؤی بو ذحمتہ دول سارچی خبر تھادون قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً تہہہ پر تھو سمن توحیدور سالتہ کین مکران کہ ساروی اندرہ تہہہ چھو بوڈ گواہ آسنہ کن۔ سمسنہ گواہی سیت کمنہ مختلف فیہ مسلس منز فیصلہ ہیہ کرنہ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ یورے فرماوی کہ تہہہ ساروی خوتہ چھو بوڈ گواہ آسنہ کن اللہ تعالیٰ۔ سؤی چھو میہ منزتہ توہہ منز گواہ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى کیا تہہہ چھو اہمہ عہ گواہی پتہ تہہ گواہی دوان کہ خدا ایس سیت کیاہ چھو ہیہ کانہہ معبودتہ شریک۔ ہر گاہ تم دمن تم چھہ تو تہہ امہ شریک گواہی دوان۔ تھہہ صور تس اندر چھو تھن سیت گفتگو کرن بے کار قُلْ لَا أَشْهَدُ تہہہ فرماوی کہ بوہر گزار تھہہ تھہہ ہنز گواہی چھو سنہ دوان قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ تہہہ فرماوی کہ تھہہ صور تس اندر پن اعتقاد کہ سؤ معبود چھو نہ مگر کئی۔ بو چھوس بیزار تمو چیز ورتھہہ ہتم چیز تہہہ تس شریک ٹھہر او ان چھوہ۔ رسالتس متعلق چھہ کافر دنان کہ اسہہ پرتھہہ بہو دو نصاری ان تھہہ متعلق چھہ یہ تھہہ تھن کہہ الَّذِينَ اتَّيَبْتَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ تم لو کہ تھن اسہہ کتاب عطا کر تم چھہ اس چھہ نمبر بر حقس شک و شبہہ واری تھہہ پاٹھ زانان تہہہ پرزہ ناوان گودھ پیٹھہہ تھہہ پاٹھہہ پنہ نین چوین زانان تہہہ پرزہ ناوان چھہ الَّذِينَ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
 كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۱﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
 ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ
 تَزْعُمُونَ ﴿۲۲﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا
 مُشْرِكِينَ ﴿۲۳﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۴﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

حَسْرًا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سمو لو گو با وجود شہادتِ کبری یعنی بدگواہی آسمیہ با وجود بین پان تاوانس
 تہ نقصانس منز تراو تم ہر گز پرشہ کرن نہ، نہ توحیدس نہ رسالتس۔ سیم مکرین توحید و رسالت ہجہ
 عقلا تہ نہایت بے انصاف وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
 الظَّالِمُونَ بیہ سبہ اکھاہ چھو یژ ظالم تہ بے انصاف تہ شخصہ سندہ خود تہ سیم اپز نوو زود کئس خدائس پیٹھ
 شریک ٹھراونہ سیت۔ یا اہز زان تہند آیات سیم پیغمبرن عطا آی کرنہ۔ پز پاپ کامیابی تہ رستگاری
 چھند ہرگز تھین ظالم قیامتک دودہ بلکہ آس تم گرفتار عذاب وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بیہ چھو سودوہ
 تہ قابل ذکر سیمہ دہنہ اس تم ساری خلائق جمع کرو کہ محشرہ کس میدان اندر ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
 أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ توپتہ و نو اس تمن لو کن سیم خدائس شریک
 ٹھراوان آس۔ ای مشرگو کتہ چھوہ تم معبودان باطل سیم تمہ خدایہ سند شریک زانان آسوکہ۔
 سفارشہ خیرہ کو نہ چھو کہ پیش کران ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ توپتہ آس نہ تمن پینہ خیالہ نجامتک کانہ
 حیلہ تہ بہانہ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اپز وندہ ورا ی کانہ چیزہ۔ دین قسم تہ
 خدایہ سندئس سون پروردگار چھو۔ اس آس نہ خدائس شریکی ٹھراوان أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ
 أَنْفُسِهِمْ وارہ و چھو کیتھ اپز و نٹھ پینہ نین پان ہندہ حقہ۔ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
 بیہ مشکھ تمہ سارے ٹھہ، اپزہ ٹھہ سیمہ ٹھہراوان آس تم دنیاس اندر وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

قُلُوبِهِمُ الْكِنَّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا
 آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۵﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ
 وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۶﴾
 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا بَلَيْتْنَا نُرْدُ وَلَا نُكَذِّبُ
 بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۷﴾ بَلْ بَدَأَ اللَّهُ مَا كَانُوا

سمو کافر و اندرہ چہ بعضی ہم ٹھنڈ قرآن مجید ہر دن چہ بوزان۔ مگر سو ٹھنڈ بوزان حق ڈھانڈنہ خیر ہ
 آسان چھونہ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ الْكِنَّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اس چہ تھنڈین دلن پیٹھ
 تراومت ٹھنڈ۔ ٹھنڈہ تمن فخرہ ترہ کینہہ بیہ چھو تھنڈین کنن تر وومت زریٹھنہ بوزان جیکھ کینہہ۔ تہزن
 اچھن ہنز کیفیت چہ کہ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ہر گاہ تمہ سارے ذلیلہ تہ وچھن توتہ
 کرن نہ پڑھ زن نہ کہی وچھمت آسکھ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
 آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تالیکہ یلہ توبہ نشہ یوان چہہ پنہ خیالہ بحث کرنہ خیرہ مکر کینہہ چھو کھ نہ
 اندان لاجواب گوہتھہ چہہ ونان ہم کافر کہہ بیہ قرآن مجید چھونہ مگر بروٹھن ہندا ہنز قصہ تہ افسانہ وَهُمْ
 يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ بیہ چہہ ہم کافر قرآن مجید بوزنہ نشہ پتھ رٹان تہ منع کران بیہ چہہ پانہ تہ
 آسہ نشہ پتھ ڈالان تہ دُور روزان وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ مگر بیہ کرنہ سیت چہہ ہم
 تباہ کران مگر پنہ نی پان بیہ چہہ بیہ ہن تباہی ڈینان تہ محسوس کران وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ ہر گاہ
 ڈہ وچھکھ اکی وچہہ ونہ سو وقت سمہ ساتہ ہم کافر تہ مکر وودنہ تھاونہ یلن نار کس ٹھس پیٹھ پر ڈہ گار
 کرنہ خیرہ ہین پنہ خیرہ تمہ ساتہ وچھکھ ڈہ سیٹھا ہولناک منظرہ اکھ فَقَالُوا بَلَيْتْنَا نُرْدُ تمہ ساتہ
 لگن ڈپنہ تم اکی کاش لے دُنیا س لگن بیہ سمہ ہوسوزنہ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَنَاسٍ پنے نین خدایہ سندین آیاتن انکار کردہ ہونہ، تم اپوزانہ ہونہ۔ وگن بنہ ہو آس تہ

يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُونَ ﴿۲۸﴾ وَقَالُوا لَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ
 بِمَبْعُوثِينَ ﴿۲۹﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ
 هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
 كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ
 إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لِمَ حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ۗ

با ایمانوی آندره۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان بیہندیہ تمنا کرن چھونہ سُنَّہ حقیقتس پیٹھہ مینی بَلْ بَدَا لَهُمْ
 مَا كَانُوا يَخْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ بلکہ سپد تخن چیزن ہند اثرات ظاہر سم پو شیدہ تہ کھٹھ تھوان آس تم از
 کہہ بروٹھہ دنیا س اندر وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ہر گاہ تم بیہ دنیا آس کن
 وائس یلن سوزنہ بیہ گزن تے کامہ سمونیشہ منع اوسکھ یوان کرنہ پز پانٹھ تم چھہ سم وعدہ کرنس اندر
 بالکل اپزیر وَقَالُوا لَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ بیہ آس سم کافریتہ دنان کہہ بیاکھ
 زند گیاہ چھنہ بیہ کینہہ سمہ سانہ دنیا چہ زندگی وراوی۔ بیہ کتھ چھ غلط کہہ اس کیا سمومرنہ پتہ بیہ زندہ کرنہ
 وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ہر گاہ تہہ ڈوچھہ بکھہ ای ڈوچھہ ونہ سو وقت سمہ ساتہ سم قیامتک مکر دودنہ
 تھاونہ یلن پنہ نس پروردگار س بروٹھہ کنہ تہہ گڑھکھ حیران تہ پریشان سو وقت ڈوچھتھہ قَالَ أَلَيْسَ
 هَذَا بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ فرماو کیہ ای مکر وکیا آسنا یہ قیامت تہ مرنہ پتہ زندہ سپن حق تہ پوز قَالُوا بَلَىٰ
 وَرَبِّنَا دین سانس پروردگارہ سُنَّہ قسم یہ اوس واقعی بالکل پوز قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماو کیہ بیہ تھیدس اقرار کرنس چھونہ کینہہ اعتبار لہذا تہوون تہہ عذاب پنہ
 ٹھک تہ انکارک تو پتہ یلن سوزنہ سم جھمنس منز قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ بیشک تاوان
 پیو تخن لوکن سم انکار آسن کران مرنہ پتہ بیہ زندہ سپت خدا یس بروٹھہ کنہ پیش سپد نس یہ انکار
 و تکذیب چھو دنیا س اندر کیردن دوتن حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لِمَ حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿۳۱﴾ وَ
 مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلِلَّذِينَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّ الَّذِينَ
 يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي
 يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَتِ اللّٰه
 يَجْحَدُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرٌ وَعَلَى
 مَا كَذَّبُوا وَأَوْذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلَ

فِيهَا تَمَّ بِتَيْلِهِ وَالْتَمَّ بِهِ تَمَّ قِيَامَتِ بَعَثَ تَمَّ مَعَهُ دِينَهُ لَكِنْ اِفْسُوسَ وَجْهًا سَاهِ خَيْرُهُ أَسْرَ كِيَا زَهُ كَرَسِيَّةٍ
 سُنِّي تَه كُو تَائِي اَتَه اَنْدَر وَهُم يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُورِهِمْ اَلْسَاءً مَا يَزِرُونَ دَر حَالَتِي كَه تَلْكَن تَمَّ پَنَه
 نِيْن كَنَمَن هِنْدُو ر پَنَه نِيْن پُشْتَن پُشْتَه - وَا رَه بِلُو زَكَمَه كُو تَاه پَتَه اَسْرَه هِنْدِيَه بُو ر كِيَا زَه تَمِيْگ اَنجَام اَسْرَه سِيْطَاه
 پَتَه وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اَلْعِبُّ وَ لَهُمْ وَ جَهَنَّمِيَه دِنْيَا عِج زَنْدَگِي مَگَر كَمَد نَاه تَه شَغْلَاه وَ لَكِنَّ اَلْآخِرَةُ
 خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَلْبَتَه اَخْر تَك گَرَه چَهو سِيْطَاه بَهْتَر پَر هِيْز گَارَن هِنْدَه خَيْرَه كِيَا مَمَه
 دَلِيْلَه بِلُو ز تَه تَه چَهوَه نَا تُو بَه فِكْرَه تَرَان - قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ هِيْز پَاهُ اَسْرَه چَهوَه
 بَخُوْبِي يَه تَه زَانَان كَه تُو بَه چَهوَه نَمَلَكِيْن كَرَان كَا فَرَن تَه مُكْرَن هِنزَه كَهوَه - مَگَر پَر وَا مَمَه بِيْر وَ كِيَهِنَه خَدَا اِنْسَ اُشْرُو
 يَه مَعَا لَه فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ تَمَّ نَه حَضْر چَهَنَه بَرَاه رَا سْت تُو بَه اِز بُو ر زَانَان وَ لَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ
 بَايَتِ اللّٰه يَجْحَدُونَ لِيَكِن تَمَّ ظَالِم چَهوَه خَدَا يَه سِنْدِيْن اَسِيْن زَانْتَه كَمْر تَه عَمْدَا اِنكَار كَرَان خَدَا
 چَهْدَه نَه تَمَّ عَذَا بَس گَر قَار كَرَنه وَ رَا ي - تَه رُو زُو بَه فِكْر وَ لَقَدْ كَذَّبْتَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ يَه مَعَا لَه
 سَپَدَنه تُو بِي سِيْت ، بَلَكَه تُو بَه بَرُو تَه تَه اَوْ يَنْبَغِيْرَن اِنكَار كَرَنه - فَصَبْرٌ وَعَلَى مَا كَذَّبُوا تَمَّو كُو ر
 صَبْر لُو كِن هِنْدَس اِنكَار س ، نَه مَانَس يِيْطَه وَ اَوْذُوا حَتَّىٰ اَتَاهُمْ نَصْرُنَا يَه اِنكَار عِلَا دَه اَوْ تَمَّ عَذَا ب تَه
 تَكْلِيْف تَه وَا تَانَه تَا لِيَكَه وُوت تَمَّ مَد سُوْن - تَمَّو يَنْبَغِيْر وَ مَتَه پَاهُ صَبْر كُو ر تَه پَاهُ كَمْر وَ تَه تَه صَبْر ،
 تَه پَاهُ وَا لَه تُو بَه تَه سُوْن مَد - كِيَا زَه يَه اِعَا نَت وَ مَد دَكْرَن چَهوَه اَسْرَه پَنَه نِيْن بِنْدَن هِنْدَه خَيْرَه مُقَرَّر

لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِی الْمُرْسَلِیْنَ ۝۳۳
 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَیْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِیَ
 نَفَقًا فِی الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِی السَّمَاءِ فَتَأْتِیَهُمْ بِآیَةٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ ۝۳۴ إِنَّمَا یَسْتَجِیْبُ
 الَّذِیْنَ یَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِیَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ ۝۳۵

کورمت واکمبیدال لکلمت اللہ ہرگز ہیجہ نہ کانہ اکھاہ بدل کمر تھ خدایہ سندن مقرر کرمتین
 حکم و لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِی الْمُرْسَلِیْنَ بیشک توہمہ واثرہ بروظھین پیغمبران ہنز خبرہ قرآن مجید
 کہ ذریعہ یعنی تمہن تھہ پاٹھ اؤ تکلیف ونہ۔ تھہ پیٹھہ تھہ پاٹھ کور تمہو صبر وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَیْكَ
 اِعْرَاضُهُمْ ہر گاہ توہمہ پیٹھہ کافرن تہ منکرن ہنز روگردانی کرن چھو ناگوار سپدان۔ تھنز خواہش چھہ
 تمہن تم معجزات ہاون تمہن ہند تم مطالبہ کران چھہ۔ دیوہ تمی سیت تمہن ہدایت بنہ وَاِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ
 تَبْتَغِیَ نَفَقًا فِی الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِی السَّمَاءِ فَتَأْتِیَهُمْ بِآیَةٍ بلیتہ نپس ہر گاہ توہمہ طاقت چھو تہہ کمر و
 تلاش زمینس منز کانہ گویاہ یا آسمانس کن لاگو کانہہ ہیراہ توپتہ دیو کہ آتھہ تم معجزہ تمہن تم توہمہ نشہ
 ژھانڈان تہ طلب کران چھہ۔ چھوے طاقت تہ کمر و۔ یہ چھو پور کہہ توہمہ چھو سیٹھاہ آرزو مالک لو کہ
 گھہہ سیزہ و تہ پیٹھہ بین۔ مگر یہ چھو خدایہ سندس یژھنس خلاف وَاِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ
 پروردگارے یژھہ ہاسارنی سونبر اوہ ہدایتس پیٹھہ۔ مگر تم یژھند تہ فَلَآ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ نپس
 مہہ یو تہہ بے خبر و آندرہ۔ یہ غم تہ فخر تراو تہہ اِنَّمَا یَسْتَجِیْبُ الَّذِیْنَ یَسْمَعُونَ پرتھہ چھہ مانان تہ
 قبول کران مگر تہہ ہم وارہ بلازان چھہ پرتھہ پوز ژھانڈانہ خیترہ۔ تمہن چھو اللہ تعالیٰ تہ ہدایتک توفیق
 دووان۔ سمہو کافر و یوزنہ تھہ پاٹھ۔ لہذا تھہ پاٹھہ بنہ بکھہ ہدایت۔ دون ہر گاہ آمد انکار و اعراضہ مؤکھہ
 تمہن دنیا س منز پورہ عذاب آؤ کرنہ تمہن چھلایت روزن آخر چھو کہ مران وَالْمَوْتِیَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ
 اِلَیْهِ یُرْجَعُونَ سارنی مردون کرہ اللہ تعالیٰ زندہ قیامتک دوہ آخر تس آندر توپتہ بین تمہن اتاوندہ حسابہ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ وَمِمَّنْ دَابَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظِيْرٌ يَبْتَغِيهِ إِلَّا أَمَمًا مَثَلًا مَافَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

خیطرہ اللہ تعالیٰ اس نشہ۔ سوی دینہ تمن پورہ سزائتمہ انکاروا واضک لہذا تراوئتمہ ٹہند خیال۔ تہنہ فخر
 تہ غم مہ بز و کینہہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ بیہ دوپ مکہ کیو کافر و کو نہ چھو نازل سپدان
 سس پیغمبرس پیٹھہ کانہہ نشانہہ معجزاہ پنہ نس پروردگارہ سہہ طرف۔ تمو معجزا اندرہ سمن ہند اس
 مطالبہ چھہ کران سہہ سیت بہند س پیغمبر اسس تاسید سپدہ ہا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً
 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فرمادیو کہ تہہ یارسول اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پریتھہ نشانہہ تہ معجزہ نازل
 کر نس پیٹھہ قدر تہ دول۔ لیکن اکثر لو کہ چھہہ زمان کہ معجزن ہند نازل کرن چھو اس قانونس تحت
 آسان۔ یہ چھونہ لو کن ہنز خواہشہ مطابق نازل کرنہ یوان امسہہ انجامہ نشہ چھہ اکثر لو کہ بے خبر۔ امہ
 قسم مکین معجزن ہند انجام چھو کہ ہر گاہ تم فرمائی ش معجزہ ہتھہ تم ایمان ان نہ پڑھ کرن نہ تلہ بین تم یکدم
 ساری گانہ تہ تہاہ کرنہ وَمِمَّنْ دَابَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظِيْرٌ يَبْتَغِيهِ إِلَّا أَمَمًا مَثَلًا مَافَرَطْنَا بیہ سہم
 جاندار زمینس منز خشکی پیٹھہ یادریاوس منز چھہ۔ بیہ سہم جانور پنہ نیودو یو پڑوسیت ہوا س منز ووان
 چھہ۔ سہو منزہ چھونہ کانہہ قسم نس نہ قیامتک دوہ ٹہندی پاٹھہ ہماژو ہماژو محشرہ کس میدانس منز جمع
 کرنہ ایہ۔ اگرچہ تم ساری چھہ بے شمار، لیکن اسہ نشہ چھہ تم حسابس اندر جمع کرنہ آمت مَافَرَطْنَا
 فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ کیا زہ اسہ چھونہ ترودمت پنہ نس دفترس منز یعنی لوح محفوظس اندر لیکنہہ درای
 کانہہ چیزہ۔ پریتھہ اسس چیزس متعلق چھو اسہ لیوکھمت سہم چیز قیامتس تان پیدہ سپدہ ون چھہ کسند
 کیا حال اسہ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ توپتہ بین سہم ساری انسان جاندار تہ جانور پنہ نس پروردگار س
 نش جمع کرنہ سوی کرہ ساری منز فیصلہ۔ چنانچہ حدیث شریف چھو ”مشفق علیہ“ کہ اگر دنیا س اندر

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلِّهُ وَمَن يَشَاءُ
يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۱﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَنتُمْ عَذَابُ
اللَّهِ أَوْ أَنتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۲﴾
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ
مَا تُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَا مِنْهُمُ
بِالْبِئْسَاءِ

اک پہنچے دار جانورن پیگو رہتس جانورس ٹھول آسہ لائعو قیامتک دوہ ایہ تئس نشہ امیوک بدلہ پینہ۔ تمہ
پتہ ایہ حیوانان تہ جانورن لحم کرنہ میو گوہ ہنووہ تمن سپدہ میوہ۔ تمی ساتہ دین کافر' یا لیتنی کنت
ثرابا' کاش کہ بوہ آسامیوے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْإِنشَاءِ وَكَفَرُوا فِي الظُّلُمَاتِ تم لو کہ سمو اہوزان
سان آیات یعنی قرآن مجید تم چھہ پوزیونہ نشہ زہ پوزونہ نشہ کل۔ کھر چن رنگارنگ گلن اندر گرفتار
مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلُّهُ کس یڑھہ اللہ تعالیٰ پڑہ نشہ اعراض کرنہ موکھہ گمراہ کن تئس چھو گمراہ کران
وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ کس یڑھہ اللہ تعالیٰ تئس چھو سیزہ ویتہ پیٹھہ دین حقس پیٹھہ اتان
پینہ فضلہ سیت۔ بھتس حالس منزہند غم کھیون چھو بے سوڈ۔ یہ معاملہ کھر و تمہ خدائس سپرد
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَنتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فرما دیو کہ تمہ
یا رسول اللہ ای مکہ کیو کافر و میہ ونٹو ہر گاہ توہمہ خدایہ سد عذاب پیہ دنیاس اندر تمو عذابو آندہ
کانہ عذابہ ہم ازتام مخیرن تہ نافرمان پیٹھہ نازل کرنہ آئے یا قیامتھی پیہ واتھہ توہمہ ہتھہ
منزہ ہولناک واقعات آسن کیا تم ہولناک چیز دفع کرنہ خیطرہ دیوہ تمہ آلو خدائس وراکی پیہ کانہہ
چھوے تہہ شریک ٹھہراونس اندر پڑیہ۔ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ
مَا تُشْرِكُونَ ہر گز نہ ہر گز نہ بلکہ دیو تمہ ناوہ آلو تمہ ساتہ تئس یوت تہ بیہ نہ کانہہ۔ پس کروہ سوی
دور تہ دفع سو عذاب ہمہ خیطرہ تئس نا دیو۔ ہر گاہ سو یڑھہ سو عذاب دور کرن۔ یہ مشبوہ تمہ ساتہ تم
ساری اہوز معبود ہم تئس شریک ٹھہراوان آہو۔ ای آندہ زاتو تمہ خدائس وراکی یلہ نہ قادر مختار کانہہ

وَالضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿۳۲﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَاتِهِمْ تَلَفَعُوا
 وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
 حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ
 مُبَسُوُونَ ﴿۳۴﴾ فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۵﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ

جھو عبادتس سزاوار کس بیجھ آتھہ ولقد انسنال ال امی من قیلک بیشک یہ سوزا سہ بن پیغمبر وار میں
 متن کن توہہ بروئھ تمہو کر تم پیغمبر انکار تم زانھہ اپڑ۔ فَاخَذْنَاهُمْ بِالْأَسْنَاءِ وَالضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ
 يَتَضَرَّعُونَ کس رٹ آسہ تم رزقہ تنگی سیت تہ بیمار یو سیت ہتھہ تم ہنا پھن تہ اسہ کن رجوع کر تھہ
 عاجزی تہ زارہ پارہ کرن۔ پنہ میں کفر و تکذ یہ کین گنہن ہندہ خیترہ۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَاتِهِمْ تَلَفَعُوا
 کس کونہ سنا کرے یہ سمو عاجزی تہ زارہ پارہ سمہ ساتہ تم سون عذاب واژوؤ۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
 لیکن یہ ہندول آس سپد مت سخت عاجزی تھہ پاٹھہ کرہ عن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ اس
 دیمت شیطان زینت تہزن تم پنھہ کاین سمہ تم کران آس۔ کس آئی نہ باز تم سمو پھہ کامیونشہ
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ کس یلہ تمو مخر واوہ تمہ سارے نصیحو سمہ
 تم کرنہ آسہ یوان پیغمبر ہندہ ذریعہ ادہ مور او اسہ تہندہ خیترہ ساری نعمن ہند دروازہ ہتھہ زیادہ
 غرق گوہن نافرمائن اندر حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبَسُوُونَ تا اینکه
 یلہ تم سیٹھہ خوش لگ گوہنہ تمو نعمتو سیت سمہ ونہ آسٹھہ آتھہ۔ غزور تہ سبجزہ ہیوت بھہ گوہنہ اتی
 رٹ آسہ تم عذابہ سیت ہتھہ تہ مگھہ کس سپد تم حیران تہ پشیمان یہہ ساروی چیز ونشہ نامیدہ قُطِعَ دَابِرَ
 الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کس ژنہ آدمول ظالم ہند۔ عالم سپد آزاد تہندہ شرہ
 نیشہ۔ حمد یونین خدائس کس رب العالمین جھو سم تم ظالم ہنز بنیاد گاج قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ

وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ
 كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ كُرْ
 أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَهُ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿۴۰﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
 فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۴۱﴾

سَمِعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ فرماید که نه یار رسول الله صلی
 الله علیه وسلم تلامیه و نه هر گاه الله تعالی آسمانها طرفه کانه عذابها نازل کره نه مگر سونیوه توبه بوز نک
 قوت، و چه نک قوت، بیه کره تهنیدین دلن پیٹھ مہر سمہ سیت نہ کینہہ نہ میجو زانتھہ سمہ معبوداہ بیحہ
 معبود بر حقش و رای توبہ سم قوت عطا کر تھ۔ ہر گاہ نہہ اتھ کتھہ اقرار چھو کہ کانه نہ بیحہ نہ اسہ سم
 قوت عطا کر تھ اده کیا زہ چھو شس و رای کانه متحق عبادت زانان **أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ**
يَصْذِقُونَ ای پیغبر بر حق و چھو کتھہ پاٹھہ چھہ اس دلین ہنز وضاحت کران۔ توبہ نہ چھہ تم تمن
 دلین اندر غور و فکر کر نہ نشہ بٹھ پھران نہ بے توجہی کران۔ **قُلْ أَرَأَيْتُمْ كُرْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَهُ**
أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ فرماید کہ نہ یار رسول اللہ میہ و نتو نہہ ای کافر و ہر گاہ توبہ
 خدایہ سب عذاب و لہہ ہمہ نہ منکہ ن پانچہ رات کیت یاد و ہلہ کیا ظالم و رای بیابہ کانه تمہ عذابہ سیت
 گانہ۔ پس کیا زہ چھو نہ نہہ نافرمانی نہ ظلم و تعدی نشہ ہتھ روزان **وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ**
وَمُنذِرِينَ بیه چھہ اس سوزان پیغبر لو کن گن صرف سمہ کتھہ خیطرہ کہہ تم فرماؤن با ایمان
 فرمانبردارن خدایہ سزہ رضامندی ہنز بشارت بیه کرن کافران نہ نافرمان پروردگار سزہ بیزاری ہند
 بیم۔ ای خیطرہ سوز اسہ حضرات انبیاء، سمہ خیطرہ سوز نہ کہہ تم کیا ہاؤن لو کن تم تم مجزہ سم بین
 معجزن ہنز لو کہہ فرمائش کر نکھ۔ کتھہ پاٹھہ سوز اده اسہ نہہ نہ یار رسول اللہ **فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا**
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس سمو لو کو پیغبرن ہندہ بشارت نہ بیم کر نہ پتہ سائین آیاتن پڑھ

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَسُسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا
 يَفْسُقُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
 الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾
 وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ

کمر تھ رتھ عملہ کرہ تمھن آئند آخرتس اندر کانہ خوفانہ کانہ غماہ آئند وَالَّذِينَ كَذَبُوا
 بِآيَاتِنَا يَسُسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بیہ سبھو لو کو پیغمبرن ہندہ بشارت و نذارت کرنہ پتہ تہ
 سائین آیاتن اُپز زاتھہ انکار کور تمھن رتھ عذاب دنیا س اندرتہ آخرتس اندرتہ تہ کیا زہ تم کیا آسن
 نافرمانی کران قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ بیہ قاعدہ تہ اصل کتھہ بیان کرنہ پتہ فرما یو کھ تھہ
 یارسول اللہ ای لو کو دعویٰ نبوت و رسالت کمر تھہ چھوس نہ بو تو بیہ دپان میہ نشہ تہ میانس قدرتس
 منز کیا جھہ خدایہ سندین مقدوراتن ہند خزانہ۔ سبھہ ساتھ تھہ کتھہ چیز چ فرمائش کریوم تمہ ساتھ کیاہ
 نتر اوہ بو سو چیز پندہ قدرتہ تہ طاقتہ سیت وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ نہ چھوس بو بیہ ونان کہہ بو کیا زانہ
 علم غیب۔ بلکہ چھوس یو پیغمبر یوسہ پیغمبری میان دلیلو سیت ثابت چھہ۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
 نہ چھوس یو تو بیہ دپان کہہ بو کیاہ چھوس ملک إِنَّا تَبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ بو چھوس نہ پیردی کران مگر
 تھہ بیہ میہ نشہ بطریق وحی سوزنہ یوان چھو۔ سبھہ پاٹھہ بئن پیغمبرن کن وحی سوزنہ یوان اوس قُلْ هَلْ
 يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ فرما یو کھ ای لو کو اُون تہ گاشدار چھا برابر ی بیہ کتھہ جھہ مسلم کہہ تم زہ ہرگز
 برابر چھنہ۔ کیاہ تھہ جھوہ نا پڑھان گاشدار ہتھہ سبھہ میانس کلامس اندر فخر کرن۔ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ
 کونہ جھوہ بس تھہ سبھہ میانس کلامس اندر فخر کرن وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ
 رَبِّهِمْ تھہ کمر وحض نیم سبھہ قرآن مجیدہ سیت تمھن لوکن سبھہ کھو ژان چھہ کہہ تم کیا بین واتا ونہ پندہ بس
 پروردگار س نشہ لیس لھم من دُونہ و لِي وَلَا شَفِيعَ لَهُمْ يَتَّقُونَ سبھہ حالس منز کہہ نہ آسہ

لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵۱﴾
 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
 يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ
 مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ
 الظَّالِمِينَ ﴿۵۲﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ
 مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۳﴾

تمن تس وراى كانه دوستاه تنه كانه شفاعت كره وناه ناهه تم چن احتياط سان نه كهوژ كهوژ وَلَا تَطْرُدِ
 الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ بيه مه حض كرى كه دور پانس نيه
 تم لو ك تم عبادت كران جهوپنه نس پرود گاره سز صبح نه شامن تنه تم ژهانداك بجهه جهند رضا، اده
 استن تم فقيرى مگر تم مه حض آسيو كه كذاك پنه جلسه آندره مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
 وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ توبه پيٹه بجهه منه هندن عملن
 هنز جوابدهى نه جهو تمن پيٹه منه جهنزن عملن هنز جوابدهى بجهه كُن نظر كرتنه جهه تم پنه جلسه آندره
 نيهر كدو كه هر گاه تبه كوم كرونه تله ابو نه شمار كرنه بے انصافى نه ظلم كره ونيو آندره وَكَذَلِكَ فَتَنَّا
 بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ بَيْنِنَا بجهه پانهم كراسه آزمائش بعضى لو كن بعضى
 لو كو سیت (شريف سیت لو كو سیت مالدان فقير و مسكينو سیت) بجهه مكر شريف نه مالدان دين
 بايمان فقيرن هند حال و جهته كيا آسه منز كره الله تعالى ان امنى پيٹه پن فضل نه مهربانى بيخياره اع
 آسه سانه خو نه زياده تنه سزوار اليس الله يا علم بالشاكرين كياه نه كته چهنأحق كه خدا جهو بيزانن
 وول شكر گذارن نه حق شناسن - وَادْجَاءَ لَو الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِنَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بيه يله آسن
 توبه نيه يو ان يارسول الله تم لو كه سمو پزه كرساين آياتن بس آسيو جهه دپان سلام بومن توبه پيٹه
 اى بايمانو جهنده خيطره جهه بد بشارت كه توبه جهو سلامتى تموساروى آتو نه بلا بونه تمن آفتن نه

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ
 رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۗ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أِجْهَالًا ثُمَّ
 تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۵۶﴾ وَكَذَلِكَ
 نَقُصُّ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۵﴾ قُلْ إِنِّي
 نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَّا
 أَسْبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۵۷﴾

بلاسن آخرتس اندر کافر تہ مشرک گرفتار سپدن کتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ پانس پیٹھ ہنزو مژ
 چھو مٹھ تھند ہر دور دگارن مہربانی کرن سو مہربانی گپہ بیٹھ کہ۔ اَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا اِجْهَالًا ثُمَّ
 تَابَ مِن بَعْدِهِ ۗ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہم شخصن توبہ اندرہ کانہہ گناہ کور، نادانی سببہ، توبہ تہ
 کوزن تمہہ نیشہ توبہ بیہ کوزن پانس اصلاح، سبوں کن پنن پان، گنہو نیشہ رود پتھہ گنہہ وقتہ توبہ پٹھس بیہ
 کوزن توبہ پٹس بیشک سو چھو تس تہ سیٹھاہ مغفرت کروون سیٹھاہ رحم کرہ ون وَكَذَلِكَ نَقُصُّ
 الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ بیہ پتھہ پاتھہ پٹلس با ایمان تہ کافرن ہند حال تہ انجام واضح
 کور پتھہ پاتھہ چھہ آس آیاتن اندر تہ حق وضاحت کران۔ پتھہ با ایمان ہنز و تھہ تہ ظاہر سپدہ کافر ن
 ہنز و تھہ تہ وارہ نئہ۔ حق تھانڈونین ہندہ خیطرہ سپدہ معاملہ سسل تہ آسان قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ
 أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فرماؤ گھہ تہہ یارسول اللہ کہہ پز پاتھہ میہ چھو خدا بیہ سدہ طرفہ منع
 آنت کر نہ تمن معبودان باطن عبادت کر نہ نیشہ تمن تھہ خدا ایس و رای عبادت چھوہ کران قُلْ
 لَّا أَسْبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ایتہ فرماؤ گھہ توبہ بو کرہ نہ پیروی تہنزن
 خواہن ہنز ہر گز۔ ہر گاہ توبہ کرہ نعوذ باللہ تلہ چھوس نہ یوسیزہ و تہ پٹھہ پکھ و نیو اندرہ تہ ہدایت لبہ و نیو
 اندرہ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ پتہ فرماؤ گھہ تھہ کہ میہ نیشہ چھہ سیمہ دین اسلام کس
 دین حق آسٹس پٹھہ کافی دلیل یوسہ میانس پروردگار سدہ طرفہ میہ نیشہ واژ۔ سو دلیل گنہہ قرآن

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَاعِنْدِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يُقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ
خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ﴿۵۷﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾
وَعِنْدَكُمْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ وَمَا

مجید نُس میون بوڈ مجزہ چھو۔ سمہ سیت میانس پیغمبر آسئس تصدیق سپدان چھو۔ تہہ چھوہ بے وجہ
تہہ ایزگنزران تہہ انکار کران۔ تہہ چھوہ نہ اتھہ صحیح دلیلہ تہہ بدئس معجزس پیٹھہ اکتفاء کران۔ بلکہ چھوہ
تہہ فوری عذاب نازل سپدنک درخواست کران۔ مَاعِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ میہ اتھہ تہہ
میانس قدرتس منز چھوہ نہ سو عذاب سمیک تہہ فوری مطالبہ کران چھوہ نُس تہہ جلد ژھانڈان چھوہ
إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ امیک حکم چھوہ نہ مگر خدایہ سی اتھہ۔ تس نشہ بیہ کانسہ ہند حکم چلان چھوہ نہ۔ سو
حکم سپدنہ ونہ جاری۔ یوتھہ پاٹھہ انودہ پائے سو عذاب۔ ہتھہ رُودیہ بوڈ مجزہ قرآن مجید امکہ نزولک سپد
حکم جاری۔ یہ چھسوہ یوتوہہ پیش کران تہہ ہوان یَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ اللہ تعالیٰ چھوہ
بیان کران پزہ تھہ بدلیل۔ سوئی چھوہ سارنی ہمدہ خوتہ بہتر فیصلہ کرہ ون۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي
مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ وارہ وضاحت کرنہ خیطرہ فرماوے کھ تہہ ہر گاہ میہ اتھہ تہہ میانس اختیارس
منز آہما تہہ منز تہہ جلدی کران چھوہ یعنی عذاب نازل کرن لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تلہ
آساوہ بختام توہہ تہہ میہ منز کینہہ کالک فیصلہ آمت کرنہ۔ تہہ چھوہ فقط خدایسی اتھہ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِالظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ آس چھوہ پورہ علم ظالمن ہند۔ سوئی رطہ تھن پنہ نُس موقس پیٹھہ پائے وَعِنْدَكُمْ
مَفَاتِحُ الْغَيْبِ بیہ چھہ تس نشہ یعنی تہہ ندس قدرتس منز غیبہ چہ کوزہ تہہ خزانہ تمام پوشیدہ چیزن ہند
لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ تمہہ زانہ نہ کانسہ تس وراہی۔ تموجیزہ واندرہ سمہ چیزچ سمہ وقتہ ایشن سو ظاہر
کران چھوہ تہہ ہن چھوہ سو ظاہر کران وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ بیہ چھوہ سوئی زانان تہہ سوئی یہ خشکی پیٹھہ

تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
 وَلَا يَأْسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۵۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ
 يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى
 ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۶۰﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ
 فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ
 الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ﴿۶۱﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ

تہ دریاؤں منہر چھو وَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
 مُّبِينٍ بیہ چھو نہ کانہہ پنہ بر گاہ کلہ بیٹھہ وَس پوان مگر سو چھو نہ سوروی زانان بیہ چھو نہ کانہہ نہ
 پھولہ زینہہ چہ تاریکی منہر پوان مگر سو چھو نہ زانان۔ بیہ چھو نہ کانہہ اوڈرتہ ہو کھمت چیزاہ لیس نہ
 روشن کتابہ اندر درج کرنہ آمت چھو یعنی لوح محفوظ اس اندر، تھہ منہر چھو پر تھہ چیزاہ لیس قیاس تان
 پیدہ سپدہ ون چھو درج کرنہ آمت وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ سُو معبود
 بر حق گو سُو لیس توبہ (ای انسانو) رات کیت ندرہ اندر اکہ قسمہ ماران چھو (پوان چھو تہہ مُردہ ہی
 فرش پیٹھہ) بیہ چھو سُو زانان دوہس منہر کمہ کامہ کتر دتہہ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ رات کیت ندر پیاوتھہ
 چھو سُو بیہ ہشمار کتر تھہ تھو دتلان لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى تھہ پورہ بیہ کرنہ مقرر کرنہ آمت میعاد یعنی
 شہزہ زندگی ہند مدت راجہہ نہہ تہ کتر ہنہ سیت ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ توپتہ چھو تھس کن توہ رجوع کرن
 حقیقی مرنہ پتہ زندہ سپدت ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ توپتہ کردہ سُو توبہ خبر تہہ کمہ کمہ کامہ آسو
 کران لیس دیوہ مزدور پر تھہ کامہ ہنز رتہ کامہ رتہ مزدور بیچہ کامہ بیچہ مزدور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
 وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً سُو پروردگار چھو غالب قدرتہ سیت پنہ نین ہندن پیٹھہ بیہ چھو سُو سوزان
 تھہ ہندن بدن ہندہ حفاظتہ خیطرہ ملائکن سیم ژر ژران چھہ تہزہ سارے کامہ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ
 الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ تالینکہ یلہ واتان چھو توبہ اندرہ کانہہ کس مر نک وقت۔ قبض

مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ ﴿۱۶﴾ قُلْ مَنْ
 يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ لَئِنْ
 أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿۱۷﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ
 مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْكُرُونَ ﴿۱۸﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ
 أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ
 يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُزَيِّقَ بَعْضَكُمْ لِبَاسَ بَعْضٍ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ

روح چہہ کران تس سان بدل سوزمت ملک۔ تم چہہ کئے قسمہ سانس کس اندر کانہہ اس کی یا زیادتی
 کران۔ بلکہ بتہہ پاٹھہ سے سمہ وقتہ تم قبض روی حکم سپدان چھو تھہ پاٹھہ چہہ کران ثُمَّ تَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ
 مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ تو پتہ بن و اتاوانہ مرنہ پتہ ساری بندہ آخر تس منز معبود بر حقس کن۔ بس تہہ حقیقی
 مالک چھو۔ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَسِيبِيْنَ وارہ لوزو تمہہ ساتہ آس حکم تو ہندوی حکم، فیصلہ
 تہندوی فیصلہ سوی چھو یش جلد حساب ہبہ ون۔ حساب بتہہ جزاء سے سزا دودہ ون قُلْ فرماویو کہ تہہ
 یارسول اللہ مَنْ يُنَجِّیْکُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کس چھو بس توہہ اے مکہ کیو کو تہندین سفران اندر،
 خشکی سے دریا ون ہنز، وختیو سے مشکو نشہ بتہہ حالس منز نجات چھو دو ان کہ تَدْعُوْهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تہہ
 چھوہ تس نجات منگان عاجزی سان کئے وقتہ، لو تہ لو تہ کئے وقتہ ونان چھوہ تمہ ساتہ بتہہ پاٹھہ۔ لَئِنْ اَنْجَيْنَا
 مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ای سانہ پروردگار ہر گاہ تہہ اسہ نجات دکہ سمہ سختی نشہ و عینس، تیلیہ
 سپدواس سیٹھاہ شکر گزار حق شناسی پیٹھہ قائم روزہ وینو آندرہ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّیْکُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ
 اَنْتُمْ مُشْكُرُونَ تہی فرماویو کہ کہ اللہ تعالیٰ ای چھوہ توہہ ہمیشہ نجات دو ان امہ سختی نشہ سے۔ امہ سختی
 ہنز کیاہ کتھی چہہ ساروی نختیو نشہ چھوہ سوی نجات دو ان تو پتہ سے چھوہ تہہ تس بدستور شریک
 ٹھہراوان۔ شکر کچہ کامہ کران یوسہ بدنا شکری سے ناسپاسی گیہ۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا
 مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُزَيِّقَ بَعْضَكُمْ لِبَاسَ بَعْضٍ تہہ فرماویو کہ یارسول

الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۶۵﴾ وَكَذَّابٌ بِرَبِّهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ
 لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۶۶﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۶۷﴾
 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى
 يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
 بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۸﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنْفُونَ

اللہ کی کتب سے کہ سُو پروردگار اٹھ پائے نجات دہون چھو تھے پائے چھو بوڈ قدر سے وول سے کہ تمہدہ کُفرو
 شرک سے سبہ سوزہ توہمہ پیٹھ عذاب ہر سے طرفہ۔ یعنی آسمان کے طرفہ کتبہ ہضمہ یارود سے سیت سیلاب
 ایوہ۔ یا تمہدہ پوکھور وتلہ یعنی زمین کے طرفہ، بونیول ہیو، یا کرہ توہمہ واریاہ جماثر۔ سکن پانہ وان سخت
 اختلاف آسہ، تج نوبت وائتہ جنگ وجدالس پیٹھ۔ توپتہ ژھناوہ توہمہ آندرہ اکس بے سزہ لڑایہ ہند
 مزہ۔ یا کرہ سُو توہمہ سارنی تخمین گرفتار۔ غرض نجات دین سے تس اٹھ بلا یہ گرفتار کزن سے تس اٹھ
 أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۶۵﴾ وچھو تھے پائے چھہ مختلف طریقوں سے بیان کران آیات یعنی
 توحید چہ دلیلہ بیٹھ تمن وارہ فخرہ ﴿۶۵﴾ وَكَذَّابٌ بِرَبِّهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ﴿۶۶﴾ باوجود آن زون اپز سے غیر واقعی
 توہمہ قومن سے عذاب۔ حالانکہ یہ چھو بالکل حق سے پوز۔ یقیناً واقع سپدہ ون۔ یہ یوڑ تھ ہیگن تم صرف
 یوٹوی پر ژھتھ کہ یہ عذاب کر سپدہ واقع قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۶۶﴾ تھہ فرماوے کہ تھ متعلق کہ
 یوچھو سنہ توہمہ عذاب واقع کر نک ذمہ دار۔ میہ کیا آسہ تج پور خبر یا سو کیا آسہ میانس اختیار س اندر
 لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۶۷﴾ پر سبہ خبر ہمدہ واقع سپدہ نہ خیطرہ چھو اکھ وقاہ مقرر کر نہ آمت۔
 توہمہ سپدہ جلدی معلوم وَاذْأَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
 یہ بیلہ تھہ وچھان آسہ کہ تم لو کہ یعنی دشمن سیم سائین آیتان سے احکامن نکتہ چینی چھہ کران۔ پس
 آسہ تھہ تمن رشہ لوب روزان۔ تمن منزمہ آسہ بہان یوتان تم مشغول آسن سپدان تمہہ ورا ی یہ کنبہ
 تھہ منزر وَمَا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۸﴾ ہر گاہ کنبہ وقتہ شیطان آسہ

مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۹﴾ وَذَرِ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُمْ آخِرَتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ
 ذَكَرِيهِ أَنْ يُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدِيلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ
 الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ

توہم پر یہ ممانعت مشروان، تہہ آسو مشر نس منز بغلطی تہنزہ مجلسہ اندر بہان۔ تہس مہ بہو (یلہ توہمہ
 تہیس پوان آسہ یہ ممانعت۔ ظالم قومس سیت تہنزہ مجلسہ اندر بلکہ آسو نور اتریس پیوہ ونوی تمہ
 جلسہ منزہ نیران وما علی الذین یقتون من حسابہم من شیءٍ ولكن ذکرى لعلہم یتقون ہم لو کہ
 ممنوعات شریعتہ ہتھ روزن۔ تم منز تہوہن مجلس اندر بلا ضرورت شمولیت کرن تہ پائے او
 تم مجلس منز احکام اسلامن پیٹھ طعن و تشنیع کرنہ آسہ یوان۔ تم پیٹھ چھو نہ طعنہ دوہ ونین ہندہ
 سزائے اندرہ کانہہ چیزاہ۔ ہر گاہ کتہ سخت ضرورتہ مو کہ تم تہ وقتہ تہزن مجلس اندر گوہن پوان آسہ۔
 مگر تم پڑہ توت گدہ تہ تم و عظ و نصیحت کرن دیوہ تم تہ طعنہ زنی نشہ ہتھ روزن و ذکر الذین
 اتخذوا دینہم لعباً ولہم آخیرتہم الحیوۃ الدنیا بلکہ تراوی کہ تم لو کہ تہ ہم پنہ نس دینس (ہتھ مان
 تہ تسلیم کرن تم پیٹھ فرض اوس یعنی دین اسلامس) ٹھٹھ تہ تمسخر چھہ کران۔ تم چھو ڈھوکہ
 دہمت دنیاچہ زندگانی۔ تم چھہ دنیا کس کھیس چیس اندر مسمت، آخرت چھٹھ نہ یادے و ذکر یہ
 ان تبسل نفس بما کسبت ترک تعلقات کتر تہ کتر و تم لو کن و عظ و نصیحت تہہ امہ قرآن مجیدہ
 سیت ہتھہ تھس عذابس گرفتار گوہہ کانہہ شخصاہ پنہ نیوہ اعمالیہ سیت لیس لہا من دون اللہ ولی و
 لا شفیعہ وان تعدل کل عدیل لا یؤخذ منہا ہمہ عذابہ نشہ مو کتہ خیطرہ آسہ تہ شخصس خدائس
 وراہی کانہہ مددگار تہ کانہہ شفاعت کرہ وناہ۔ نہ مو کتہ سوتہ عذابہ نشہ تیوت مال دت ایس دنیا عس
 برابر آسہ۔ سوی سوزوی مال تہ سویہ توتہ ایس نہ سوما ہرگز قبول کرنہ اولئک الذین ابسلوا

إِلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ امْتِنَّا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأْمُرْنَا لِلسَّلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

بِمَا كَسَبُوا چنانچہ تم دینس ٹھٹھہ سے تمسخرہ کرہ ون آی گرفتار کرنہ پنہ ثمن بد اعمالین ہندہ سنیہ۔ نصیحت نہ مانگیہ وجہ۔ لَّهُمْ شُرَآئِبٌ مِّنْ حَبْلِهِمْ وَعَدَابٌ إِلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ تہندی چینہ خیرہ آسہ آخر تس اندر پہنچ کر یکہ دودہ ون زسر۔ تمہ علاوہ بیہ کڈر عذاب کیا زہ تم آس گھر کر ان۔ سمیک اکھ شاخ یہ اکھ لند تو ہن احکام اسلام اوس۔ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا فرمایو کہ تہہ یارسول اللہ ساری مسلمان ہندہ طرفہ کیاہ آس کر وہ عبادت معبود برحقس ورا ی تم باطل معبودن ہنز تم نہ آسہ کانہ فائدہ میکن و اتناوت۔ عبادت کمر تھہ نہ نہ کانہ ضرراہ میکن و اتناوت تھہ عبادت نہ کمر تھہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ بیہ چھا تہنز خواہش آس کیاہ پھیر و پوت کھر س کن اسلام تراوت تھہ خدیہ سندہ آسہ ہدایت کرنہ پتہ نہ تھہ ہاونہ پتہ آتھ دین حقس کن۔ کالذی استہووتہ

الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا تھہ صورتس اندر بندہ سان مثال تس شخصہ سنز ہش نیس بریم بریم چاکیو و تھہ راور اوثر آسہ کنہ جنگلس منزہ سو آسہ سپد مت حیران آتھ و تھاہ آسین نہ یوان کنہ کن۔ لَّهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ امْتِنَّا تس آس کنہ دوست تہ تم ناداد آسہ نس دوان کہ وولہ آسہ کن و تھہ چھہ پیار مگر سو آسہ حیرانی سببہ تھند آلوے یوزان۔ نہ آسہ سیزہ و تہ پیٹھ یوان۔ کیاہ تہنز خواہش چھا آس تہ گوہو تھہ بن۔ تہ ہنہ نہ ہرگز قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ فرمایو کہ تہہ کہ راہ راست گنیہ سوی و تھہ یوسہ اللہ تعالیٰ ان پانہ ہاوثر تہ ہاوثر تھہ سنو و تھہ گنیہ دین اسلام۔ تم یہ تراوسو ڈول سیزہ و تہ نشہ۔ آس ہیگو نہ کنہ صورتس اندر تمہ نشہ پھیر تھہ وَأْمُرْنَا لِلسَّلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آس

وَاتَّقُوا ۖ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۱﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ
قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةُ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۲۲﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَرَ

تھے پانچہ اوثرک بخدا۔ اے تم کہ نہ آؤ فرما بردار روزن عالمین ہندس پروردگار س وان آقیموا
الصلوة واتقوا بیہ آؤ حکم کہ نہ آسہ کہ نماز تھادو برپا بندی سان۔ بیہ آؤ حکم کہ نہ کہ کھوژو
خدا س۔ تس شریک تھاد نہ تسزنا فرمانی کہ نہ نشہ روز و پتھہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ سو گو سوی
پروردگار س برو تھبکنہ توہہ سارنی حساب و نہ خیطرہ جمع پیو کہ نہ، مشرک و تھن پائے تمہہ دوہہ
شُرک مَرہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بیہ گو سو پروردگار سوی تیم آسمان نہ
زمین پیدہ کتر پز پائت مخلوقن ہندہ فاندہ خیطرہ، بوڈ فاندہ چھو یوے کہ تم دو شوے چھہ تمسدی
مخلوق، دو شوے چھہ دلالت کران تمسدس وحدانتیس پیٹھہ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ بیہ سمہ دوہہ
دپہ سو خالق کل حکم کہہ قیامس سہد برپا۔ اتی سپدہ قیامت برپا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ
فِي الصُّورِ تمسدیہ ون چھو باثر۔ توہندوی چھو ملک۔ تہنزی چھہ یاد شاہت۔ سمہ دوہہ پوئس منز
دو تم چھو کہ بیہ ونہ تمی دوہہ نہ حکومت اللہ تعالیٰ سنز۔ یلہ سو فیصلہ کہہ موحدن نہ مشرکن منز۔
عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ سوی چھو زانہ ون نہ سو روی یہ کھٹھہ چھو مخلوقن نشہ بیہ نہ سو روی یہ نون
چھو مخلوقن نشہ۔ تس نشہ چھو نہ کھٹھہ کانہ چیز۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سوی چھو سیٹھاہ حکمتہ وول
تہ سیٹھاہ زان وول۔ تس چھہ سارچی پورہ خبر۔ مضمون آیات قرآنیہ سیت چھو معلوم سپدان کہہ
حضرت ابراہیمہ سند قوم اوس بت پرستی نہ کران۔ بیہ اوس ستارن آفتابس نہ زونہ تہنزی پرستش
کران۔ تمہن دو شون خیالن ہند رد کور حضرت ابراہیمن۔ تمہہ جی چھو اللہ تعالیٰ یمن آیات کریمن اندر
ذکر فرماوان وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَرَ بیہ چھو سو وقت تہ ژٹس پائس قابل یلہ حضرت ابراہیمن

اَتَّخِذْ اَصْنَامًا الْهَيْهَةَ اِنِّي اُرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۳﴾
 وَكَذٰلِكَ نُرِي اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ
 مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۵﴾ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ الْبَيْلُ رَا كُوْكَبًا قَالَ هٰذَا
 رَبِّيْٓ ؕ فَلَمَّا اَقَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاِثْلِيْنَ ﴿۴۶﴾ فَلَمَّارَا الْقَمَرَ بَارِزًا
 قَالَ هٰذَا رَبِّيْٓ ؕ فَلَمَّا اَقَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَآكُوْنَنَّ
 مِّنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿۴۷﴾ فَلَمَّارَا الشَّمْسَ بَارِزَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْٓ

دوپ ماس پنہ نس، آڈر کس ناؤس اَتَّخِذْ اَصْنَامًا الْهَيْهَةَ ای آڈر کیاہ ژہ چھو کہ پوہ تل زماناں معبود
 پنہ سم پائے گران چھو بھکھ اِنِّي اُرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ پوہ چھو سٹھ و چھان ژہ تہ بیہ چون قوم،
 سم ژہ آتھہ اعتقادس اندر موافق چھیں نہ گراہی اندر۔ شو بیانا س اشرف المخلوقات آتھہ بے جان
 چیز پنہ معبود ڈان۔ وَكَذٰلِكَ نُرِي اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٹھہ
 پاٹھہ حضرت ابراہیمس ہاؤاسہ بت پرستی ہنز خرابی تہ نطلان۔ تھتھ پاٹھہ ہاؤاسہ کس آسمان وز پتچ پادشہت
 تھتھ سوسپدہ کامل یقینہ والیو آندرہ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ الْبَيْلُ رَا كُوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْٓ چنانچہ یلہ رات
 تھن پیٹھہ تاریک سہز۔ وچھہ تھموتا رکاہ اکھ۔ پنہ نس قومس لگ و نندہ یوسے چھامیون تہ تھند رب تھندہ
 خیالہ فَلَمَّا اَقَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاِثْلِيْنَ دوہن پوہ چھو سٹھ نہ پھند کران لوسون چیز۔ سم ہمگن نہ کانسہ
 ہند رب آتھہ فَلَمَّارَا الْقَمَرَ بَارِزًا تھمہ پتہ یلہ تھم وچھہ زون زوتان تہ نہ پہ کران قَالَ هٰذَا رَبِّيْٓ
 تھموت ہڈر ژہ قومس یوسے چھامیون رب تھند خیالہ فَلَمَّا اَقَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَآكُوْنَنَّ مِّنَ
 الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ کس یلہ سوتہ لوس دوپچھہ ہر گاہ لے میہ پروردگار و تھہ ہاؤہ ہے تلہ ہنہ ہلا بوتہ تھند پاٹھہ
 گراہ لو کو آندرہ۔ فَلَمَّارَا الشَّمْسَ بَارِزَةً کس یلہ رات گزھتھہ دوہ آوتہ آفتاب وچھہ تھموشولہ ماران
 کھسان قَالَ هٰذَا رَبِّيْٓ هٰذَا الْكَبُوْ دیکھ یوسے آسہ میون رب تھندہ خیالہ کیاہ یہ چھو بوڈوی ہنہن
 بین ستارن ہندہ خوتہ۔ فَلَمَّا اَقَلَّتْ کس یلہ سوتہ لوس قَالَ يُقَوْمِ رَبِّيْٓ وَمَا اَشْكُرُوْنَ دیکھ

هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۸۸﴾
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا
 أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۹﴾ وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ
 وَقَدْ هَدَيْتُمْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا
 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا
 أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَتَخَفُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ

اے قوم بے شک بوجھوس بیزار تمہو ساروی چیز ونشہ تم نہہ معبود برحق شریک چھو کہ ٹھہراوان
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیزا پٹ یو پھورس تس
 معبود برحق سن تم آسمان تہ زمین گوڈنی پیدہ کور۔ ساروی ایز یو دنیو نشہ الگ سپد تھہ یہہ چھوس نہ
 یو ہرگز ٹھہر پاتھہ خدائس شریک آنہ دنیو اندرہ وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْتُمْ
 پتہ آؤ تم نرہہ بحث کرنہ قوم ٹھہر۔ تم دو پھو اکی قوم کیاہ تھہ چھوہ بہان بحث لائنہ میہ سیت خدایہ
 سدس توحیدس اندر۔ حالانکہ تم کور میہ ہدایت تہ وتھہ ہاونم توہہ بروٹھکنہ صحیح دلیل پیش کر نس سن
 یوسہ میہ پیش کر وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ میہ مہ بہو کھوژاندر۔ میہ چھونہ کانہہ پروا ٹھہرین
 معبودان باطلن ہند۔ تم نہہ لاشریک شریک چھو کہ ٹھہراوان۔ تم یکن نہ میہ کینہ کر تھہ میہ بیجہ نہ
 کانہہ تکلیف واتھہ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا مگرے کنہہ یژہ میون پروردگار وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ
 عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ واتھہ چھو میانس پروردگارہ سُنْد علم پر تھہ چیزس۔ تس چھہ قدرت کاملہ تہ
 علم کامل ٹھہرین معبودان باطلن نہ قدرت تہ نہ علم۔ میہ تھہ چھوہ کھوژہ تاوان۔ مگر افسوس ایہ وضاحتہ
 پتہ تہ چھوہ ناٹھہ نصیحت رثان وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِلَّهِمْ پاتھہ کھوژہ ٹھہرین معبودان باطلن۔
 تم ن تھہ چھونہ کنہی۔ وَلَا تَتَخَفُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
 ہزہ ہا توہہ مگر نہہ چھوہ نہ کھوژان پنہ نس بدس جبرس۔ کیا زہ وہہ ٹھہروہ کنس خدائس شریک نس

سُلْطَنَا فَإِنِّي الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
 وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۸۲﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۸۳﴾ وَهَبْنَا
 لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ

شریک آسنہ نش چھو منزہ تہ پاک تحہ شریک یہندس شریک آسنس پیٹھ نہ خدا سن کا نہہ دلیلاہ نازل
 کر مرچھہ۔ یہ دلیل بوزتھ و نئو وارہ تامل سترتھ فَأِنِّي الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 سمو دو یو جماعتو آندرہ یعنی مخرگو تہ مؤجد و اندرہ کوسہ جماعت چھہ امنس تہ بے خوئی زیادہ مستحق و نئو
 ہر گاہ توہمہ کینہ خیر چھہ یا کینہ زانان چھوہ تہہ کیاہہ بیکو و تہہ۔ اس و نووہ یورے وارہ بوزو۔ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ تم لو کہ سمو ایمان اون معبود برحقس تو
 پتہ ملہ نوونہ تمو ایمان پن شریکس سیت تحہ گئے تم بہندہ خیطرہ چھو قیامتک دوہ امن تہ دک قرار۔ یہ
 چھہ تحہ دنیاس اندر سیزہ و تہ پیٹھ۔ صرف مؤجد، پتھہ رود مخرک تہندہ خیطرہ کتہ قسمہ امن و امان
 چھونہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ سبے گتہ سانہ تمہہ دلیلہ سمہ آسہ عطا کرہ حضرت
 ابراہیمس پنہ نس قومس سیت بحث کرنہ خیطرہ۔ چونکہ سمہہ دلیلہ کرہ آسہ عطا حضرت ابراہیمس تحہ
 موکہ چھہ سمہہ رتہہ دلیلہ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حضرت ابراہیمہ سبز چھہ
 کانہہ خصوصیت بلکہ چھہ آس ہند کران علمی و عملی درجہ، مرتبہ تہوند، ہند آس یڑھان چھہ۔ پڑا پٹھہ
 چون پروردگار چھو سیٹھاہ حمتہ وول، سیٹھاہ زان وول۔ پریتھہ اگند حال تہ استعداد چھو سو پورہ زانان
 تمی موجب چھو پریتھہ اکس سو کمال عطا کران نس نس مناسب آسہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 بیہ کور عطاسہ حضرت ابراہیمس اکھ فرزندہ، حضرت اسحق، بیہ اس فرزندہ سُد فرزند حضرت
 یعقوب علیم السلام کُلاہدینا تم سارنی کور آسہ ہدایت۔ پڑس گن ہاواسہ و تھہ تم و نُوْحًا هَدَيْنَا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۴﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۵﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۸۶﴾ وَمِنُ آبَائِهِمُ ذُرِّيَّتِهِمْ وَآخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۸۷﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن عِبَادِهِ وَلَوْ

مِنْ قَبْلُ بِيَهُ كُورَسِهِ هَدَايَتِ نُوْحٍ مِّنْ بَرُونِثْهِ وَبِيَهُ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ حضرت ابراہیمہ سُودوی اولادو منزہ کُورَسِہ ہدایت، داؤدس بیہ حضرت سلیمانس بیہ حضرت ایونس، بیہ حضرت یوسف، بیہ حضرت موسیٰ اس بیہ حضرت ہارونس علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تھے پانچھی اسی مناسبت بدلہ تہ جزاء دوان نیکوکار بندن وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ بیہ کور ہدایت اسہ حضرت زکریاس بیہ حضرت عیسیٰ اس بیہ حضرت الیاس سیم ساری اس رتبہ بندواندرہ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ بیہ کوراسہ ہدایت حضرت اسمعیلس۔ بیہ حضرت یوسف بیہ حضرت یونس، بیہ حضرت لوطس۔ تین سارنی دیت اسہ فضیلت نبوتہ سیت تمہ وقتہ کین عالمکین لوکن پیٹھہ وَمِنُ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَآخْوَانِهِمْ بیہ ہند یومالیو، بُدبُو اندرہ بیہ اولادواندرہ بیہ باپواندرہ تہ کوراسہ وارنہن ہدایت دین حقس گن۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بیہ کوراسہ سیم ساری برگزیدہ تہ مقبول۔ بیہ کوراسہ تین ہدایت سیزہ دوتہ گن یعنی دین حقس گن ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن عِبَادِهِ یوہے دین تھہ گن تھن ہدایت کرنہ آو۔ یوہے گوخدا یہ سُند ہدایت۔ اتھہ گن چھو اللہ تعالیٰ و تھہ ہاوان تھن یزشان چھوپنہ نیو بندواندرہ اتھہ گن ہاوسے یہ و تھہ اللہ تعالیٰ ان سارنی لوکن مگر بھہ یو کرنہ یہ و تھہ اختیار۔ تمو ٹھہراو خدائس شریک۔ شرک چھو اللہ تعالیٰ اس تھتھہ

أَشْرَكُوا لِحَيْطِ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۸﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 اتَّيَّهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ
 فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿۸۹﴾ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اِقْتَدَاهُ قُلُوبُ لَّا
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۰﴾

ناہند۔ عام لوکن ہنز کیاہ چہہ تھی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَيْطِ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہر گاہ بفرض محال
 تم حضرات انبیاء تہ نعوذ باللہ شرک انہ ہن خدا بس ضرور سپدہ ہن ضالچ تمہ سارے رتہ کامہ سمہ تم
 کران آس امہ شریکہ وجہہ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيَّهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ہم حضرات انبیاء
 یمن ہنز ذکر کر نہ آیہ تیے گئے تم تمکن آسہ مجموعی طریقہ کتاب شریعت تہ نبوت عطا کرے فَإِنْ يَكْفُرْ
 بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ پس اگر نظیر موجود آسہ ہم مکہ لو کہ اتھ
 تہندس نبوتس انکار کرن، کرتن، تمیک مہ ہنز وجہہ کانہہ غم توبہ چھونہ تہ کینہہ۔ کیا زہ پزیاٹ آسہ چھو
 امہ خیطرہ مقرر کر مزا کہ جماعتھاہ ہم نہ ہرگز اتھ نبوتس تہندس انکار کرن۔ بلکہ زانن امہ ہنچ پور
 قدر۔ تم گے مہاجر تہ انصار۔ ہیہ تمہ ہند پیر و قیاس تام أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ
 اِقْتَدَاهُ ہم حضرات انبیاء گے تم بندگان خاص تمکن اللہ تعالیٰ اَن ذُنُوبِنِمْ هُنَزَن تھن پیٹھہ صبر
 کرئس گن ہدایت کور۔ پس ہنزوی و تہ پکوتہہ تہ صبر کرئس اندر قُلُوبُ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا یہ تہ
 فرماویہ کہ تہہ یارسول اللہ ای لو کو یو چھوس نہ منگان توبہ امہ تبلیغہ تہ رہنمائی خیطرہ کانہہ مزوریاہ۔ بلکہ
 چھسوہ بوبے غرض نصیحت کران اِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھونہ مگر عالمین
 ہندہ خیطرہ بوڈو وعظ تہ نصیحت، سمکہ مانہ سیت تو ہی بوڈو فائیدہ تہ نفع چھوہ۔ نہ مانہ سیت تو ہی سخت
 نقصان چھوہ۔ اکھ ہنودیہ اکھ آونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدس اندر۔ تمی ہیوت تمہ
 سیت مذہبی گفتگو کرن تھہ اندر اوس سو تھہ تھہ کران جوش اندر لوگ دہنہ اللہ تعالیٰ اَن چھونہ

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا
مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَ
هُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا
وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي

از تمام کانہ کتابے نازل کر مژ۔ اسی سپدیم آیات کریمہ نازل وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ یہیہ کر نہ سمجھو مگر وہ خدایہ سز کانہ قدر۔ اژھہ قدر کرن شوبہ ہا۔
کیازہ تمہوون اللہ تعالیٰ ان چھنہ نازلے کمر مژ کانہ بشرس پیٹھہ پنن کانہ کتاباہ۔ یہ ون گو خدا بس
نسبت بے قدری کرن۔ کیازہ امہ سیت چھو لازم یوان نبوتس انکار کرن نئس نبوتس انکار کرہ تم زون
اللہ تعالیٰ سند فرمان اپر نعوذ باللہ۔ پزس تصدیق تہ تسلیم کرن چھو واجب تھی سیت چھہ یوان خدایہ
سز قدر کرن۔ لہذا سمجھو تصدیق و تسلیمہ بدل تکذیب و انکار کور۔ تمہو کر بے قدری یہ گو امیک تھقی
جواب۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان امیک الزامی جواب قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى
تہہ پر ژھتو کہ ائی بہو دو حضرت موسیٰ یوسہ کتاب ہتھہ اولیٰ یعنی تورات سمجھو کمر نازل نُورًا وَ هُدًى
لِّلنَّاسِ سچ کیفیت یہ چھہ کہ سو بذات خود نور ک پانچھہ واضح تہ روشن تم لوکن ہندہ ہدایتہ خیطرہ
سو سوزنہ آہیہ تم لوکن ہندہ خیطرہ چھو سو بوڈ ہدایت یَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ یوسہ کتاب تہہ پنہ
نیو نفسانی اغراضو موکھہ ورقہ ورقہ کروان بُدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا نئس ور قاہ پنہ مطلب براری
خیطرہ چھوہ خوش کران۔ سو چھوہ ہاوان تہ ظاہر کران۔ کھٹھہ تہ پوشیدہ چھوہ تھاوان تمہ منزہ واریاہ
چھہ۔ ہتھہ منز تہدس مطلبس خلاف چھو کینہہ آسان مثل نعت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم
وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ یہیہ اوہ تہہ پچھہ ناوانہ تمہ تورا سمجھہ ذریعہ سو علم نئس۔ نہ زانہو تہہ
نہ تہند مال تہ بدبب سو تورات نازل سپد نہ برو تھہ قُلِ اللَّهُ یورے فرماویو کہ تہہ کہ اللہ تعالیٰ نے
کمر سو کتاب نازل لہذا کمہ تہہ چھوہ توہہ یہ ونان کہ اللہ تعالیٰ ان چھنہ کانہ کتابے نازل کمر مژ تھہ
ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ یہ جواب بو زانوانہ پتہ تراویو کہ تم پنہ نین شعلن منز۔ اپزن تھن تہ

خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ

بیہودہ کا مین سیت روزن تم مشغول۔ توبہ پیٹھہ یہ فرض اوس تہ ائوہ توبہ بجاون مہ بئر وئہہ کاہہہ فکری
بو بوزہ پائے تمن سیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ تھہ پائھہ تورات اسی
نازل کورمت اوس۔ تھہ پائھہ چھویہ قرآن مجید تہ کتاباہ یوسہ اسی نازل کمر توبہ پیٹھہ یارسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم۔ یوسہ خیر وبرکج کتاب چھہ۔ کس اکھاہ تھہ پڑھ کرہ۔ تمہ موجب عمل کرہ تئسندہ خیطرہ
چھو فلاح دارین۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید چھو تصدیق کرہ ون تمن بتائن سمہ امہ بروئھہ چھہ نازل
کر نہ آثرہ۔ لہذا چھویہ قرآن مجید دو یو کھو خیطرہ نازل کورمت۔ اکھ مخلوقن ہندہ نفعہ خیطرہ ہہہ تمن
کتائن ہندہ تصدیق کر نہ خیطرہ کہ تمہ کتابہ چھہ بے شک خدایہ سندی طرفہ نازل کر نہ آثرہ
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا بیہ تھہ تہہ خصوصیتہ سان کھوڑہ ناویو کہ مہہ شریفک لو کہ۔ ہہہ تم
اتھہ انداہہ چھو تمام عالمک لو کہ کیاہہ بیس جایہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تھہ
سوعالمہ کین لو کن کھوڑہ ناوہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ساری لو کہ اگرچہ تھندہ
انذارہ تہ بیم کر نہ سیت ایمان ان نہ لیکن تمن لو کن آخروج پور پڑھ چھہ تم چھہ اتھہ قرآن مجیدس پڑھ
کران وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ بیہ چھہ تم ایمان انھہ پنہ نین نمازن پیٹھہ ڈاڈ کران۔ پابندی
سان پانژوے وقت پورہ ادا کران۔ کیاہہ ایمان واعقادس سیت یلہ عمل تہ مکمل آسہ تلہ چھہ عذابہ
نیشہ نجات لہجہ امید وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بیہ کس اکھاہ چھو پڑھنا لم تش شخصہ سندہ
خوتہ سم اپز نوورودو معبود برحقس پیٹھہ نبوتس انکار کر نہ سیت تھہ پائھہ سمویہودو کور تمودوپ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ اللَّهُ تَعَالَىٰ ان کور نہ کانسہ بشرس پیٹھہ کہنی نازل أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ

إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ
 الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا
 أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
 غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۹۳﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا
 فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
 وَمَنْ نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفْرٍ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ

يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ نته کو رزن پنہ حقہ دعوی نبوت۔ ون من مکن چھو وحی یوان نازل کرنہ حالہ بحہ تس
 کن اوس نہ کانہہ وحیہ نازل سپدان مثل میلہ کذاب وغیرہ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تھے
 پاٹھ کہہ چھو بیو ظالم تس شخصہ سبہ خوتہ سم دوپ بوتہ بیسہ نازل کر تھہ تہ لوکن رشہ پیش کر تھہ تھہ
 پاٹھہ تھہ پاٹ خدا چھو نازل کران۔ کانہ اکھاہ چھونہ تھن لوکن ہندہ خوتہ بیو ظالم وَلَوْ تَرَى إِذِ
 الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ تھن ظالمن ہند حال چھو یہ کہہ اگر چھہ تھہ تھہ سو
 وقت سمہ ساتہ سم ظالم آسن موتہ چہ سختی اندر مبتلا، رُوح کڈہ ون ملایک آسن پین تھہ مژہ راوت تھن
 ظالمن کن ونان۔ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ای ظالمو جلد بہن کڈیو کہہ پن زوپنہ نیو پاؤ اندرہ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
 عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ازکی ڈوبہہ کیالیہ توہہ
 مرنس سیتی سزادہ۔ خواری ہندہ عذابہ سیت۔ کیا زہ تھہ آسہہ ناخذ الحسن نسبت تھہ لاکان سمہ
 بالکل اپزہ آسہ آسان۔ بیہ آسہہ تھہ تھند آیات مانہ رشہ تہ تسلیم کرنہ رشہ تھہ کران
 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ سمہ ڈوبہہ قیامت سپدہ تھہ ڈوبہہ فرماو کیہ اللہ تعالیٰ
 آوہ تھہ آسہ رشہ پتولا کہ۔ اکہ اکہ تن تھنا۔ یارن تہ مددگارن وراہ۔ تھہ پاٹھہ آسہ تھہ گوڈیچہ لہہ تھنا
 دنیاءس اندر پیدہ کرمت آسہہ تھی تہ چھٹی۔ تھہ نئی تہ نہ واری وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
 بیہ ترووہ تہ سو روی یہ آسہہ توہہہ دھمت اوس پانس تھہ کن۔ وَمَنْ نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفْرٍ الَّذِينَ

لَقَدْ نَقَطَعُ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۹۳﴾^ع
 إِنَّ اللَّهَ فِئِقُ الْحَبِّ وَالتَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيْتِ وَخُرْجُ
 الْمَيْتِ مِنَ الْحَى ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۹۴﴾^ب فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ
 جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ ﴿۹۵﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي
 ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾

رَمَكُمُ أَنَّهُمْ فِئِقُ شُرُكَاؤُا بیه ہجہ آس وچھان توہمہ سیت تم لوک تیم توہمہ پنہ گمان زانان آسوکھ پنہ
 نین کامین اندر خدایہ سد شریک کنیو چھوہ تم۔ لَقَدْ نَقَطَعُ بَيْنَكُمْ پزپاٹ چھلہ کئیہ تم سارنی تعلقاتن
 یم توہ پانہ وان آس وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ضایع سپد توہمہ نشہ تہ سوزوی یہ توہمہ گمانہ
 اوس کہ معبودان باطل کرن اسہ شفاعت إِنَّ اللَّهَ فِئِقُ الْحَبِّ وَالتَّوَى پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو چھاٹ
 ون پریتھ پھلس تہ آنچہ یوسہ زمینس منز وونہ یوان چھہ یُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيْتِ وَخُرْجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَى
 سؤی چھو کڈان زندس مُردس نشہ، مُردس زندس نشہ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ یوسہ کبیاہ گو معبود
 برحق پس سچھ پاٹھ چھوہ تمہ تس پڑھ کرنہ نشہ گریز کران تہ ژلان فَالِقُ الْإِصْبَاحِ سؤی چھو صُح پھولہ
 راوہ ون وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا بیه کررات تمی آرامگ وقت کہ ساری چھہ
 کتھت ژھیٹھ شوچھہ سیت آرماہ حاصل کران۔ بیه کوزن آفتاب تہ ژونہ ہندرفقار حسابہ موجب
 سمہ سیت وقن ہندس ضبط و بطس اندر آسانی چھہ سپدان ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ چھو اندازہ
 تہ کارگیری، تس خدایہ سنزئس غالب تہ سوزوی زانن وول چھو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ
 لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بیه چھوسو پروردگار سؤی تیم ستارہ کر پیدہ چھہ تمہ تھہ لبو کنہ گلن
 اندر خشکی ہزنن و تن تہ سمندرن اندر قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تھین اسہ کرہ پنہ توحیدہ
 چہ دلیلہ بیان و پڑھناو تھہ تم لوکن ہندہ خیطرہ تیم زانان چھہ رت کبیاہ چھو تہ چھہ کبیاہ چھو وَهُوَ

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
 قَدْ قَضَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿۱۸﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ
 وَجَبَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
 مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ بے گو سو پروردگار سُوی ستم تہہ ساری پیداہ کر و کسی شخص رسہ
 سو گو حضرت آدم فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ کس کرن تہہہ خیطرہ آکھہ قرار بج جایہ۔ سو گو ماجہ
 ہند رحم۔ پچردان۔ تہہ منز کہہہ کالہ روزت چھوانسان دنیاہ ک اثر قبول کران بے کرن امانت تھاونج
 آکھہ جایہ سو گنیہ قمر تہہ منز کینہ کالہ روزت چھو آخر تک اثر قبول کران قَدْ قَضَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَفْقَهُونَ بز پات آسہ کمر آیات ہن بیان موراوتہہ تمن لوکن ہدہہ خیطرہ ستم سمجھدار چھہ۔ وَهُوَ
 الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ بے گو سو پروردگار سُوی ستم زود تروو آسماچہ
 طرفہ کس کھار آسہ تہہ زودہ سیت زمینہ منزہ پریتہہ قسمک کل فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا کس کوڈ آسہ تہہ
 زمینہ منزہ ہنر ہنر شاخ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا تہہ منزہ چھو آس کڈان لوکٹ لوکٹ دانہ ستم آکھہ آس
 پیٹھہ آسان چھہ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ بے کڈ آسہ خضرہ کلیو آندرہ تمن ہند یو پوشہ
 ثور یو آندرہ خضرن ہند گرن ستم یون کس نے مت آسان چھہ وَجَبَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ بے کھار آسہ تہی زودہ سیت دچھہ باغ۔ بے زیتون باغ۔ بے دین باغ ستم
 آکھہ کس ہی چھہ آکھہ اعتبارہ آکھہ کس بدل چھہ بے اعتبارہ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ وارہ دچھو
 پریتہہ کلہ کس میوس کس۔ یلہ تہہ میوہ لگان چھو تہہ ساتہ چھو آسان ہدمزہ تہہ ناقابل استعمال تہہ پتہ
 یلہ سو میوہ پچان چھو تہہ ساتہ چھو آسان مزہ دار سیٹھاہ فاسیدہ مند۔ آسہ منزہ تہہ چھہ ننان خدلیہ سنز

لَا يَتْلِقُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۹۹﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
 وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۰۰﴾
 بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ أُنۢىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ
 صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾
 ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۗ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۗ وَهُوَ

کمال قدرت اِن فِي ذٰلِكُمْ لآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وچھو پڑ پائھہ سمن چیزن اندر چھہ توحید چہ مجھہ
 دلیلہ ایمان ہندہ خیطرہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 ٹھہر اوہ لو کو شیطان خدایہ سد شریک حالانچہ تم تہ چھہ کرمت اللہ تعالیٰ نئی پیدہ۔ بلہ نہ پیدہ کرہ ون
 تس وراى کانہہ چھو۔ معبود تھہ پائھہ بیجہ تس وراى کانہہ آتھہ۔ بیہ ٹھہر او لو کو خدا ایس پچو تہ کورہ زانہ
 تہ پچھانہ وراى از بس جہل و نادانی سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ منزہ تہ پاک چھو سو پروردگار تم کو ساروی
 کتھو نہ۔ نہ چھو س شریک کانہہ نہ چھس پچو تہ نہ چھس کورہ۔ بیہ چھو سیٹھاہ بلند تہ بالاتھو کتھو نشہ
 سمہ تس کن لو کھہ لاگان چھہ بے دلیل بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ سو چھو موجد تہ گوڈہ پیدہ کرہ ون
 آسمان تہ زمین ہند تس وراى چھونہ آسمان وزینک موجد کہنی۔ لہذا شو بہ سوی معبود برحق اُنۢىٰ يَكُونُ
 لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ تس تھہ پائھہ آسن اولاد۔ حالانچہ تس چھنہ آسمہ آشی زانہ وَخَلَقَ كُلَّ
 شَيْءٍ تمی کور سو روی پیدہ۔ تھہ پائھہ آسمان وزمین پیدہ کرن تھہ پائھہ کرن تم تہ پیدہ سم تھہ تھہ
 اولاد یا شریک چھو کھ ٹھہر او ان۔ بنیا کہ خالق آسن مخلوق شریک۔ تھہ کیاہ فرق روزہ خالق تہ
 مخلوق منز وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بیہ چھو سوی پر تھہ چیزہ پورہ پورہ زانہ ون ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ
 لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ یو ہے معبود برحق کیا چھو تھہ پروردگار۔ کانہہ معبوداہ چھونہ تس وراى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
 فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ سارہ کوی پیدہ کرہ ون چھو سوی پس کور و تھزی یا تہ عبادت تہ بندگی۔
 سوی چھو پر تھہ چیزک کار ساز۔ تس وراى چھونہ کانہہ تہ کار ساز حقیقی۔ لہذا اگر تسنزی یا تہ عبادت کرو

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ ﴿۱۳۶﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
 الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۳۷﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ
 رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
 بِحَفِيفٍ ﴿۱۳۸﴾ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيُقُولُوا ادرست

سودا تا وده سیٹھا نفع تہ فائیدہ۔ بین ہنز عبادت کر تھہ کیاہ فاندہ نیو۔ تم کیاہ دونہ۔ تمن اتھہ کیاہ
 چھو۔ خالق تہ چھو سؤی۔ علیم تہ چھو سؤی۔ وکیل تہ چھو سؤی۔ تم ساری چیز چھہ مکان کہ معبود تہ
 گڑھہ سؤی آسن۔ تھندوی شان چھو کہہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
 الْخَبِيرُ تس بیکن نہ وچھت۔ وچھنہ پتہ حقیقت دریافت کر تھہ، لوکن ہنزہ ابھہ دنیا س اندر۔
 آخر تس اندر وچھن تس با ایمان جتس اندر۔ مگر حقیقت تہ ماہیت سپدہ نہ تمن تہ دریافت۔ سو چھو پانہ
 تمن سارنی اچھن تہ ابھہ و لین و چھان تہ ہنز حقیقت تہ ماہیت زانان سمہ ابھہ نہ تسند ادراک کر تھہ
 ہیکان چھہ ساری چھہ تمی پیدہ کر مت۔ تس چھہ خبری کہ کس چیز تھہ چھو میہ پیدہ کور مت کمہ چیز ج
 کیاہ حقیقت چھہ۔ بعضی مفسر و فر موو کہ مخلوقن ہنز انچھن منز چھونہ یہ توتھہ کہ تس کیاہ بیکن وچھتھہ۔
 مگر سو چھو لطیف، ازراہ لطف و مہربانی ہیجہ سو کانسہ ہنز انچھن اندر سو توت پیدہ کرت سمہ سیت سو تس
 وچھتھہ ہیجہ۔ با ایمان تہ کہہ جتس منز سو توت عطا سمہ سیت تم تہ وچھن پنہ نس خدا نس۔ سو چھو
 سارنی وچھان۔ کیاہہ سو چھو خبیر۔ تس چھہ خبرے کس شخص کیاہ چھو کمسز حقیقت کیا چھہ قَدْ
 جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ پڑپاٹ واثرہ توبہ نشہ دلیلہ پنہ نس پروردگارہ سندہ طرفہ توحید و رسالت
 کس حق آسن پٹھہ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ پس تمس شخص تمن
 و لین منز غور و فکر کرنہ سیت حق تہ پوزدر نیٹھہ آؤ تمیگ فائیدہ چھو تس پانس۔ بیہ تم اُون لوگ تمن
 دلیلن کون نہ توجہ تہ نظر تمیک ضرر تہ نقصان چھو تس پانس۔ یو چھو نس توبہ پیٹھہ را بھہ۔ مجبور
 کیاہ کر و وہ یوارہ و چھن پٹھہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ تھہ پاتھہ بھہ اس توبہ پھیر پھیر پنہ دلیلہ

وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۳﴾ اَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۰۵﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ

مختلف طریقوں میں بیان کران۔ بھتہ تمہہ ساری لوکن و اتنا و۔ و لَقَوْلُوا اَدْرَسْتَ تمن سیدان زہ جمائ۔ تمہ اندرہ ضدی تہ مذہ تم دہن تم پیغمبرن چھو سبق پورمت کتال نشہ۔ ورنہ تم تھہ مضامین تھہ کن ہیکہ ہایہ بیان کرتھہ و لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ہیکہ بھتہ وارہ وضاحت کر و اس زانن والین ہندہ خیطرہ۔ یعنی سمجھدار تہ انصاف ہند لوکن پھتھہ سپدہ واضح تہ روشن۔ تمن ٹرکن ساری شک تہ شبہات اَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ تمہہ روزوپانہ پیروی کران تھہ یہ توہمہ کن وحی چھو پوان سوزنہ تمہدس پروردگار ہندہ طرفہ یارسول اللہ۔ اتھہ منز چھو یو ڈ چیز یہ اعتقاد تھوان کہ کانہہ معبودہ چھونہ نس ذات پاکس و رای اتھہ پیٹھہ قائم روز تھہ۔ مہ کرو کانہہ توجہ مشرکن کن کہ تمن کیاہ گو تمہ او دن نہ ایمان و لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا تمیگ وجہ چھو ای کہ ہر گاہ خدا بڑھہ ہاتم لوک انہن نہ شرک و مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ہیکہ نہز کمر و نہ اسہ تمہہ تمہدرا چھہ نگہبان و مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ہیکہ چھونہ تمہہ تمن ہند ذمہ دار تہ جواب دی کرہ ون۔ توہمہ چھو ہ مظہ فقط تمن تبلیغ کرن سان پیغام و اتنا و۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ای مسلمانو تمہہ مہ آسولیکہ ژاران، بدوان۔ تمن معبودان باطلن تمن تم مشرک معبود برحق تراوتھہ عبادت چھہ کران۔ کیاہہ تمیگ نتیجہ نیرہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ تمہہ ژاران لیکہ معبود برحقس حدہ نشہ تجاوز کر تھہ جملہ تہ بے علمی سبہ۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اسہ چھوتھہ پاتھہ پر تھہ کنہ جمائس پنتہ پنتہ کامہ زینت دیو ثمت تھہ پاتھہ تمہہ و چھان چھو تھہ دنیاس منز کوم تھہ پاتھہ جاری۔ یہ دنیا چھونہ

إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۸﴾ وَأَقْسَمُوا
 بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيَوْمِئِذٍ بِهَا قُلُوبُهُمْ
 لَنَنصُرَنَّكُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ وَمِثْلِ مَا يَشْرِكُونَ ﴿۱۰۹﴾ وَإِن جَاءَتْكُمْ
 آيَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا إِنَّهَا آيَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاصْبِرُوا
 لَهَا وَأَنِصِرُوا لِقَوْمِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَنَذَرْنَاهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۱۱﴾
 وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْهَوَىٰ وَ
 حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيَوْمِئِذٍ إِلَّا أَنْبِيَاءَ

دار الکافات۔ بدلہ تہ سزاؤ تک گرہ نشہ اِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ توپتہ چھو
 چانسی پروردگار س نیشہ تم ساری رجوع کران۔ سوونہ تم پائے تمہہ سار کوی یہ تم کران آس توپتہ
 دیکھ سزا۔ تہہ مہ برو کا نہ غم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ سہو مکروہا و سخت قسم خدایہ سند نہایت
 زورہ سان کہہ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيَوْمِئِذٍ بِهَا قُلُوبُهُمْ ہر گاہ تم نیشہ وائتہ کا نہہ فرمائیشی معجزہ تہ نشانہ تم اَن
 ضرورت تہہ ایمان۔ قُلُوبُهُمْ آيَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فرماو یوکھ جواب کہ ساری آیات چھہ خدائس
 اتہہ۔ میہ اتہہ چھو نہ کنی۔ وَمِثْلِ مَا يَشْرِكُونَ اِنہا اذ اجاءت لا یؤمنون توپتہ کہہ چیز زائر اوہ توہہ
 یہ کتہہ کہ ہر گاسو نشانہ تہ سو معجزہ تہ تم نیشہ وائتہ۔ توپتہ تہ اَن نہ تم ایمان۔ اسہ چھہ اچ خبر۔ وَنَقَلَبْ
 اَفْئِدَتَهُمْ وَابْصَارَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُونَ بِآيَةٍ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرْنَاهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تہنہہ ایمان نہ
 انہ موکھ پھر واس تہ تہنہ دل تہ تہنہ ہر آچھہ توپتہ سو معجزہ و ہجرت تہ ان نہ تم ایمان تہ تہہ پاتھ نہ ایمان
 اوکھہ تہ پڑھہ کرکھ اتہہ قرآن مجید س گوڈ پڑھہ۔ یہہ تراو کھ اس تم پتہ سر کشی تہ مگر ای اندر حیران
 وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْهَوَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا یہنہہ عبادو
 سر کشی ہنہ کیفیت چھہ یڑھی کہ ہر گاہ اس۔ یہنہہ فرمائیشہ مطابق تم گن سوزو کھ ملا تیکھ، یہہ ہر گاہ یمن

اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۱۱۱﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ
 عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
 زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَأَوْشَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ
 وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ﴿۱۱۳﴾ أَفَعَبِّرَ

سیت مُردہ زندہ سیدت کتھہ کرن، بیہ ہر گاہ اس ساری پوشیدہ مخلوقات ہنزن اہنن بر و تھہ کنہہ جمع
 کرو کہہ۔ تاکانوا لیلومونوا الا ان ینشاء اللہ ولکن اکثرهم یجھلون توتہ تم ایمان اُن نہ پڑھہ کرن نہ
 مگرے کانہہ ہندہ حقہ یڑھہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن تموزہ ہجھہ اکثریت جاہلن تہ بے خبرن ہنزن تمکن نہ
 حقیقت معلوم ہجھہ ایمان انہ نک ہجھونہ تمن قصدی تہ ارادے۔ خواخواہ ہجھہ فرماشی مُجرہ طلب
 کران وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ہتھہ پاٹھہ ہم لوکھہ تھند دُشمن ہجھہ
 ہتھہ پاٹھہ کر آسہ پر ہتھہ پیغمبرس دُشمن انسان شیطان تہ تہ جن شیطان تہ لہذا ہجھنہ یہ ہنوکتھہ کینہہ
 یوحی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ہمو اندرہ بعضی شیطان بعضی کافران انسان شیطان
 ہجھہ تہ مزہ دار کتھہ بطور وسوسہ دھوکہ ونہ خیطرہ دلن منز تراوان آس۔ امہ اندرہ ہجو مُراد فخر چہہ تہ
 مخالفتہ چہ کتھہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ہر گاہ یڑھہ ہانہند پروردگار تم کرہ ہن
 نہ یہ کوم یعنی دُشمنی مگر تم ہجھو یو ڈھمت دوستن سیت دُشمن گاش سیت گتھہ۔ پزس سیت اپز آس۔
 ہندس یڑھنن منز ہجھہ ہجہ ہجہ حکمہ۔ لہذا امہ سپدن تھند دل مبارک آزرده بہنرہ دُشمنی سیت۔ ہس
 تراو لوکھہ تم لوکھہ بیہ یہ کینرہ ہاہ تم کران ہجھہ دینس منز افترا پردازی اندرہ تمیک غم مہ بردہ تھہ
 وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ہجھہ ہم شیطان یمن کافران ہندین دلن اندر
 ہمو موكھہ وسوسہ تراوان ہتھہ تمکن لوکن ہمد دل تمکن آھن گن پھرن۔ مایل سپدن تمکن پور پڑھہ ہجھہ
 آخرت۔ یعنی اہل کتاب یهود و نصاریٰ۔ کیا زہ تے پور پڑھہ آسہ ہا آخرت تہ تہ کرہ ہن نہ نبی آخر الزما نس

اللّٰهُ اَبْتَنِيْ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا
وَالَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۱۵﴾
وَإِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

انکار و لایر ضوہ و لیلقتد فواماھم متقرفون بے بیٹھ تم بہنران کتھن پیٹھ راضی گنہن۔ بے بیٹھ
تم تے لگن تے بیٹھ کامہ کرنہ تم تم پانہ کران آس افعذر اللہ ابتنی حکمًا و هو الذی انزل
الیکم الکتب مفصلاً خبہ فرماو یوکھ یار رسول اللہ کہ ای لو کو توہہ منزتہ میہ منز چھو اختلاف میانہ
رسالتک۔ یو چھوس حکم خدا پیغمبر آسک دعوی کران۔ جہہ چھوہ اتھہ انکار کران مگر احکم الحاکمین چھو
فیصلہ میانہ جھہ دہمت۔ کیا زہ میانس اتھہ دعوی اس پیٹھ چھہ بدلیل یہ قرآن مجید نیس یوڈ معجزہ چھو۔
ہر گاہ تہہ توتہ مانونہ تہہ کیا زہ تہہ چھوہ یرھان یہ خدائی فیصلہ کافی نہ زانتھہ کیاہ ژھانڈن یو بیا کھہ فیصلہ
کرہ و ناہ۔ حالانکہ تم فرموو پین کامل فیصلہ۔ تم کرنازل توہہ گن یہ بد کتاب۔ تمک مضامین بالکل صاف
صاف بیان کرنہ آمت چھہ والذین اتینہم الکتب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق بے سمن
لوکن اسہ یہ کتاب یعنی تورات و انجیل عطا کرتہ گے بہودو نصاری تم تہہ چھہ یقینہ سان زانان کہ یہ
قرآن مجید چھو واقعی ٹھنڈس پروردگارہ سندہ طرفہ نازل آمت کرنہ کیا زہ برو ٹھنڈن کتابن اندر چھہ ایچ
خبرونہ آمز فلا تکونن من الممترن نہس مہ آسو تہہ شک و تردد کرہ و نیو آندرہ اتھہ اندر و تہت
کلمت ربک صدقا وعدلا پور تہہ کامل چھو ٹھنڈس پروردگارہ سندہ کلام پوز آسنہ کن۔ امیک
اعتقادات برابر تہہ معتدل آسنہ کن امیک اعمال لامبدال لکلمتہ کا نہہ اکھاہ چھونہ اتھہ کلامس بدل
کرہون تہہ تغیر و تبدل کرہون و هو السميع العليم بے چھو اللہ تعالی دشمن ہنرہ سارے کتھہ یوزہ ون
ساری اعتقادات پوز زانہ ون وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ باوجود

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱۷﴾ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۱۸﴾
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ

دلایلیک ہندہ واضح تہ صاف آسکے چھہ دُنیاوس اندر زیادہ مَکری۔ ہر گاہ جہہ یارسول اللہ بالفرض جہزہ تھہ ماونملہ ڈالن تم توبہ پروردگارہ سبزہ سبزہ ووتہ نشہ کیا زہ تم چھہ پانہ ووتہ نشہ ڈلمت۔ **إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ** تم چھہ اعتقادن منز پیروی کران مگر بے اصل خیالاتن ہنز۔ یہ چھہ تم مگر اپز ٹھہراوان قیاسی تھہ کران۔ **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ** تمن مقابلہ چھہ بعضی خدایہ سندنہ راہ راستس پیٹھہ پکان۔ پز پاپٹ تھہد پروردگار سُوی چھو یژزانہ ون تَس تَس تہنزہ ووتہ نشہ چھو ڈالان۔ سُوی چھو یژزانہ ون تمن تم سبزہ ووتہ پیٹھہ پکان چھہ۔ سُوی تھہہ پائٹھہ مگر ہن سزا دیہ تھہہ پائٹھہ کرہ سبزہ ووتہ پیٹھہ پکہ وینن انعام واکرام عطا۔ کافر و تروو مسلمان اندر یہ شہہ تہ شک کہ ای مسلمانو عجیب تھہہ چھہ تہنز کہ پانہ مَورمُت جانور چھون کھیوان مگر خداین تَس مَورمُت آسہ یعنی خود مر دہ جانور سُوی چھون نہ کھیوان۔ مسلمان آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن نشہ۔ یہ شہہ کر تھہ پیش۔ اُتی سپدن نازل تم آیات کریمہ۔ ای مسلمانو توبہ یلہ ممانعت آہہ کر نہ کہ تھہ مہ آسہ کافر ن ہنز ن کھن گن تھوان **فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ** لہذا کھو تمن جانور ن ہند ماژ تمن ذبح کر کجہ وقتہ خدایہ سندنہ ناوکانسہ ہندہ شرکتہ ورا ی ہینہ آمت آسہ۔ ہر گاہ تھہدین آیاتن پڑھہ کرہ ون تہ احکامن پیٹھہ ایمان آنہ ون چھوہ جانورہ سندنہ حلال سپدن تہ حرام سپدن چھو موقف خدایہ سندنہ ناہینس پیٹھہ تہ نہ ہینس پیٹھہ ذبحہ وقتہ۔ یہہ ٹُونہ والس جانورہ سندنہ خون تھہدہ ہندنہ منزہ نیر تَس تہ نہ نیر تَس پیٹھہ۔ **وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ** توه کیاہ وجہ چھو کہ تھہ چھوہ نہ کھیوان تَس جانورہ سندنہ ماژ تَس ذبح آسہ کر نہ آمت خدایہ سندنہ ناہیتھہ **وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ** حالانکہ تم

لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
 لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ
 يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَلَا تَأْكُلُوا
 مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ
 لَيُوْحِيْنَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ

فرمود توہمہ تفصیل ہمیں آئیہ کر تمس منز تم ساری چیز تم توہمہ پیٹھہ تم حرام کرہ الاما اضطررتم
 الیہ مگرے جہہ سخت مجبور سپد وکنہ وقتہ۔ تمہہ ورا ای بنوہ نہ توہمہ کا نہہ چیز۔ تلہ جہہ تم حرام چیزتہ بقدر
 ضرورت توہمہ حلال۔ تمہن حرام چیزن منز چھونہ کنہ جلیہ مذکرہ کس جانورہ سُنْدُسُ بسم اللہ ہر تھہ آسہ
 باقاعدہ ذبح کرنے آمت **وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ** پڑتھہ جہہ یہ کہ واریاہ لوکھہ
 جہہ لوکن ڈالان تہ گمراہ کران پنہ نیو غلط خیالوسیت بلاوجہ تہ بلا دلیل۔ لیکن کیتس کالس کرن تم لوکن
 گمراہ **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ** پڑاٹ تھہ پُروردگار چھویار سُول اللہ زیادہ زانہ و ن حدہ نشہ
 ڈلہ و نین۔ سوویہ تمہن پانے سخت سزا۔ **وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ** ای مُسْلِمًاؤ تھہ تراو نین گناہ تہ
 پوشیدہ گناہ یعنی جھہ نہ وکن اندر اعتقاد آسہ تھاوان حلال چیزہمہ حرام آسک۔ حرام چیز کہ حلال آسک
إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ پڑاٹھہ تم لوکھہ گناہ کرن آدہ یہہ قسمگ
 گناہ آسہ تہ تمہہ قسمگ۔ لوگٹ آستن یا بوڈ، پوشیدہ آستن یا نون ضروریہ تمہن سزا نہہ تمہہ سار کوی یہہ
 تم کران آس تھہ کامیواندرہ **وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ** یہہ مہ آسہ کھیوان ای مُسْلِمًاؤ
 تمس جانورہ سُنْدَسُ ماز کس پیٹھہ نہ ذبحہ وقتہ خدلیہ سُنْدَسُ ناؤہینہ آسہ آمت **وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ** پڑاٹھہ سوکھیون
 چھو سخت گناہ **وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوْحِيْنَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ** پڑاٹھہ جن شیطان جہہ پنہ نین
 دوستن تہ پیرون ہندسکن و ن منز تمہہ عجیب تھہ تراوان توہمہ سیت بحث کرنے خیطرہ **وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ**

لَشِرْكَوْنَ ۝۱۳۱ أَوْ مَنْ كَانَ مَبْتَئًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۳۲ وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيُبْكَرُوا فِيهَا ۖ وَمَا
يُبْكَرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۱۳۳ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ

انکھ لَشِرْكَوْنَ ہر گاہ توہمہ تہمزہ تھہ مانوہ۔ عقائد یا عملن متعلق تہمہ تہ گنوہ تلہ ضرور مشر کے اومَن
كَانَ مَبْتَئًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا
آیائس شخصہ گوڈہ اوس مردہ گمراہ تہ وبتہ ڈولمت۔ توپتہ کوراسہ سوزندہ یعنی مسلمان بنوہیہ کورس عطا
اسہ نورائس نور پتھہ کان ہتھو سولوکن اندر گمراہی ہندیوساروی عالیو نیشہ ہتھو سُو محفوظ۔ سوچہا برابر
تس شخصس سیت لیس گمراہی ہمزہ انہ گتھہ اندر ولنہ آمت ہتھو۔ تمہ منزہ ہتھونہ بیکان سونیر تھے ہرگز
ہتھونہ برابر کَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہتھہ پاٹھہ بایمان ہتھو ایمان تہ اعمال صاحب رتھہ
معلوم سپان ہتھہ پاٹھہ آوزینت دنہ کافرن ہنزن تمن کالین تمہ تم کران ہتھہ یہ نوٹھہاہ ہتھہ ۝۱۳۲ وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيُبْكَرُوا فِيهَا بلجہ ہتھہ پاٹھہ از مکہ شریفک زٹھ زٹھہ لوکھہ ہتھہ
پزس دعوتس مخالفت کران لوکن سیزہ وبتہ نغہ ڈالان ہتھہ پاٹھہ کمراسہ بروٹھمین اُمتن ہند پر ہتھہ شہرس
اندر زٹھ زٹھہ لوکھی تم گوڈہ ارتکاب جرم کران آس۔ تہندہ اثرہ سیت آس عام لوکھہ تہ سوجرم کردن
ہیوان تالیکہ تم لوکھہ آس حضرات انبیاءن ضرر و اتناونہ خیطرہ تہ تہندس تبلیغس ناکام بتاوندہ خیطرہ
شورش پھیلاوان۔ تمہہ موکھہ تم ساری عذابس گرفتار آس یوان کرنہ ۝۱۳۳ وَمَا يَشْعُرُونَ
۝۱۳۳ وَمَا يَشْعُرُونَ تم لوکھہ آس پتہ خیالہ پیغمبرن تکلیف و اتناوندہ خیطرہ شرارت کران مگر تمیگ ضرر اوس
تمن پتہ نینے پانن واتان مگر جہل و بے علمی سببہ اوسکھہ نہ فجری تران۔ تمن مکہ کین کافرن ہند جرم ہتھو
یوت زیادہ کہہ ۝۱۳۳ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَا حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ يٰۤاَيُّهَا

آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ ۗ
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
 صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۳۳﴾
 فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ
 وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمَا
 يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

واتان چھو پڑیگ کا نہ نشانہ، بوڈ مجرہ نیس پیغمبر برحقہ سندس نبوتس پٹھہ بدو دلیل چھو آسان تمہ
 ساتہ چھہ تم ونان تمہ اس گرونہ توتان پڑھہ یوتان نہ اسہ پانس تہ من عطا کرنہ تم تم چیز سم پیغمبر ان عطا
 کرنہ آئے یعنی وحی، کتاب وغیرہ۔ اتھہ چھو کران اللہ تعالیٰ رڈ۔ فرماوان چھو اللہ اعلیٰ حیتہ یجعل
 رسالتہ اللہ تعالیٰ چھو بہتر تہ رت زمانان زہ کوسہ جای چھہ مناسب تہ لائق پیغمبری خیرہ۔ تمہہ شخص
 چھو قابل تہ سزاوار امہ عمدہ جلیلہ خیرہ سبیب الذین اجرمو اصغار عند اللہ عنقریب وایہ
 تمن لوکن سمویڑھ کتھہ ون تہ تھہ جرم عظیم کوز خدا نیس نش و اتھہ بدذلت تہ خواری آخرتس اندر
 وعذاب شدید بہا کانو ایکنرون۔ بیہ و اتھہ کڈر عذاب مکر تہ فریب تہ شور و شر پھیلاونہ خیرہ
 فمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیْهُ سَمَّ بُرُوثْھہ آویان کرنہ حال با ایمان تہ کافران ہند تمہ اندرہ سپد معلوم
 کہ ہندہ حقہ اللہ تعالیٰ یڑھہ ہدایت چہ و تہ پٹھہ انون تہ نجاتچہ و تہ پٹھہ پکانوان یشرح صدرہ للإسلام
 تسند سینہ دل چھو مودراوان تہ کشادہ کران اسلام قبول کرنہ خیرہ ومن یرد ان یضلہ یجعل
 صدرہ ضیقًا حرجًا بیہ ہندہ حقہ اللہ تعالیٰ یڑھان چھو گمراہی تسند سینہ یعنی دل چھو کران تنگ
 سنی سیٹھان تنگ اسلام قبول کرنہ خیرہ کائما یصعد فی السماء زن سو شخص زورہ آسان چھو
 کھن ہیوان۔ مگر چھونہ کھسرت بیکان دل چھوس تنگ سپدان کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین
 لا یؤمنون تہ پٹھہ چھو اللہ تعالیٰ شیطانہ سند وسوسہ تراوان تمن لوکن پٹھہ یم نہ ایمان اتان تہ پڑھہ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۳۵﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳۶﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
 جَمِيعًا يَبْعَثُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ
 أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَوَلَّغْنَا
 آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتْ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ

کران چہرہ تھی و سوچ ناپاکی چہرہ روز بروز زیادہ سپدان و ہذا صراطِ ربِّکِ مُسْتَقِيمًا یہ دینِ اسلام صحیح
 ذکرِ برونہ سبز پتھے تہندس پروردگارہ سبز سبز و تہہ۔ امہ درای چہنہ بیہ کانہہ و تہاہ سبز سبز و تہہ پتھے
 پختہ سیت شخص نجات لہہ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ بیشک امی صراطِ مستقیمہ کہ
 وضاحتہ خیطرہ کہ اسہ پن آیات تفصیل بیان نصیحت رہہ و نین لوکن ہندہ خیطرہ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تمن نصیحت رہہ و نین تہ دینِ اسلام قبول کرہ و نین ہندہ خیطرہ
 چھو سلامتی تہ امن و امانک پو شون گرہ یعنی جنت تہندس پروردگار س نشہ۔ سوی چھو پو ہند دوست تہ
 مددگار تہہ بدل تہ ہم کران آس رہہ عملہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بیہ چھو سُودوہ قابل ذکر یہ
 دُوہہ آس ساری مخلوقات جمع کر و کہ بیٹھہ منز جن تہ انسان ساری جمع آس۔ تمو منزہ بیہ جن شیطان
 تھہ ہوت و نندہ يَبْعَثُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ای جن شیطانو واریاہ لوکھ بناو و دکھہ ٹوہہ
 پن تابع انسانو آندرہ ہم گراہ کر و دکھہ پُاس سیت وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنْسِ تو پتہ و نُن تمن شیطان
 ہندو دوست انسانو آندرہ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ای سانہ پروردگارہ بیشک چھو چون فرماون پوز۔
 واقعی تُل نفسانی فاسیدہ اسہ آندرہ بعضی بعضی ہندہ سیت۔ واقعی تحقیق اس اندر آس شیطان ہندہ ڈالہ
 سیت قیاس انکار کران وَوَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتْ لَنَا و نُن وات اس تہہ موعین و قس اُس تہہ سانہ
 خیطرہ مقرر او تہہ کورمت یعنی وون چھو از فیصلہ تھی اتہہ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ فیہا الا

فِيهَا أَلَمْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ وَكَذَلِكَ
 نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۳۹﴾
 يَمَعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
 يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
 هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَخَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۴۰﴾

مَا شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرَمَا وَبِحَكْمِهِ أَيْ جَنِّ تَهْ اِنْسَانِ كَافِرٍ وَتَهْمِدِهِ خَيْرٌ هُوَ تَهْمِيُونِ فِيصَلُهُ نَارِ جَهَنَّمَ مَنَزْ هَمَزْ
 جَاى۔ ہمیشہ چھو توہمہ روزن تھہ منز مگرے اللہ تعالیٰ ائی یرھہ توبہ تمہ منزہ کڈن مگر سو یرھہ نہ
 زانہ۔ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ہر پات تھہد رُب چھو سٹھاہ حکمتہ وول تہ سٹھاہ علمہ وول۔ علمہ سیت
 چھہ تَس سارنی ہند جزم معلوم حکمتہ سیت چھو پر ہتھہ مجرَس مناسب سزا ووان وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ
 الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہتھہ پاتھہ تھا وکھہ اَس اُو گنہگار بنن گنہگار ن نزد یک ہتھہ پاتھہ
 تم دُنیا س اندرا کہ وٹہ روز تھہ چھہ کامہ کران اَس يَمَعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ
 مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ائی جَنِّ تہ اِنْسَانِ ہنز و
 جماژو توبہ چھوہ پنہ نین گرا بنن تہ چھہ عملن ہند اقرار کران۔ کیاہ توبہ نش واژاى ناسان پنچمبر سم
 توبی منزہ اَس سم توبہ پران آسٹن پوزوان آسٹن اعتقادن تہ اعمالن متعلق سان آیت ہہ آسٹن
 توبہ نیم کران از کہ دُبھہ پیش انک۔ ادہ کیاہ وجہ اوس تہہ آسودہ نہ تھر ونا فرمانی نرہ باز یوان۔ قَالُوا
 شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا تم ساری دپن اَس چھہ پنہ نین پان پٹھہ پائے جرزچ گواہی دوان کہ واقعی
 حضرات انبیاء واژاى اَسہ نَش تم اَس چان آیت اَسہ بوزہ ناوان۔ ہہ اَس ازمہ دُہک نیم تہ کران۔
 مگر اَس اَس نہ تھہد مانان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان۔ وَخَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تم ن اوس دہمت
 دُنیاچہ زندگانی دھوکہ۔ تموا اوس دُنوی عیش دُنومت مقصد اعظم آخروج آسکھ نہ فخری تمیک نتیجہ

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلٰهَا
 غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَاِلٰى دَرَجٰتٍ مَّمَّا عَمِلُوْا وَّمَا رَبُّكَ
 بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۲﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُو الرَّحْمٰةِ ط
 اِنْ يَّشَآءْ يُّدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَا
 اَنْشَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿۱۳۳﴾ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ

در او کہ و شَهِدُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ تمود و تپانے پنہ نس کافر آسئس پیٹھہ گواہی
 مگر نتیجہ اقرار کر نس کیاہ فائدہ نیرہ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلٰهَا غٰفِلُوْنَ یہ
 پیغمبرن ہندہ دعوت حق پیٹھہ سوز نک سلسلہ آو جاری کرنہ۔ کیا زہ تہند پروردگار (یار رسول اللہ) چھونہ
 کتہ شہرہ کین لوگن ظلم کر تہہ تہزہ بے خبری اندر گالان۔ بلکہ چھو کھ گوڈہ پیغام و اتنا وان حضرات انبیاء ان
 ہندہ ذریعہ وَاِلٰى دَرَجٰتٍ مَّمَّا عَمِلُوْا وَّمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ یلہ پیغمبر آئے
 سوزنہ تمودیت لوکن ناد سارنی لوگن سپدا اطلاع۔ تمہ پتہ چھہ جن نہ انسان نیکو کارن نہ بدکارن سارنی
 عملہ کرہ وین ہندہ خیطرہ در جات مقرر کرنہ امت۔ تہزہ عملہ مطابق تہنہ در جاتن مطابق ولتہ تمکن پنہ
 نین عملن ہند نتیجہ تہ بیہ چھونہ تہند پروردگار لوکن ہنز و عملونشہ بے خبر و رَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُو الرَّحْمٰةِ بیہ
 چھو تہند پروردگار بے نیاز نس چھنہ لوگن ہنزہ عبادت ضرورتہ۔ سو چھو رحمتہ وول۔ محض پنہ رحمتہ
 سیت سوز تم حضرات انبیاء پیٹھہ تہندہ ذریعہ معلوم سپدن نفع و ضرر ک چیز۔ اتھ اندر چھو بندن ہندوی
 فاسدہ۔ اِنْ يَّشَآءْ يُّدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ ہر گاہ سوزیٹھہ توہہ سارنی نیہ یکدم
 سمہ حالہ منزہ ہلاک کر تھہ۔ توہہ بدل اُنہ توہہ پتہ تمکن یٹھہ تہ تمکن کَمَا اَنْشَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ
 الْاٰخَرِيْنَ پیٹھہ پاٹھہ تہہ کر تھہ پیدہ بیہ اکہ قومہ نسلہ اندرہ تہند چھونہ وجود کتہ تہہ چھوہ تہزہ جاہیہ
 موجود پیٹھہ پاٹھہ چھوہ یہ سلسلہ جاری مگر وارہ وارہ۔ ہر گاہ اس یٹھہ تہہ کر وہہ ختم یکدم کیا زہ سانہ کامہ
 چھنہ کانسہ ہندہ آسنہ سیت یا نہ آسنہ سیت کانسہ رکاوٹ۔ حضرات انبیاء سوزے یہ آسہ تہندہ مفادہ

لَا تِلْكَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۳۴﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۳۵﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ

خیطره۔ آسہ اوس نہ تھے اندر پُئن کا نہ غرض۔ لہذا پڑھو ہا تو بہ تم بنیغیرن تصدیق کرن۔ تمہر پیروی کرن۔ تمہر سیت سپدہ ہا تو بہ سعادت حاصل۔ اِن مَانُوعِدُونَ لَا تِلْكَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ یمن چیزن ہمد تو بہ بنیغیرن ہمد واسطہ وعدہ یوان چھو کرنہ قیامت یا عذاب تمہر چھہ یقیناً ضرور اودہ ونہ۔ تمہر میگون نہ خدا عاجز کرت۔ عذابہ نغمہ پُئن پان بچاوت تڑ چھہ ونہ سیت۔ زو پوش روزنہ سیت یا نہیں شہر س تہ ملکس تزلہ سیت قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ بِالآخر فرما یو کھہ تمہر یا رسول اللہ ای لو کو تمہر گدھو پین کام کران پنتہ جایہ بو تہ چھوس پین کام کران پنتہ جایہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عنقریب سپدہ تو بہ معلوم مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کہ کہندہ چھہ آسہ رت انجام آخرتس لدر۔ بیشک ہمہ چھہ یقینی تمہر کہ ظالم گدھن نہ زمانہ کامیاب وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا بیہ لگ تم کافر خدایہ سپدہ خیطرہ (تمہی منزہ یہ تمہی پیدہ کورمت چھو زراعت تہ چارو ایو منزہ) اکھ حصہ مقرر کرنہ۔ بیا کھ حصہ پوتلین ہمدہ خیطرہ حالانکہ پیدہ کرئس منز چھونہ ئس کا نہ تہ شریک فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا پنتہ خیالہ بیہ حصہ گو خدا ئس بیہ حصہ گوسانین ٹھہر او متین شریکن فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَى اللَّهِ ئس ئس حصہ آسہ تہمدین شریکن ہمدہ خیطرہ تھا ونہ اُمت سؤی آسہ جان تہ رت۔ تمہر منزہ ولتہ نہ کہنی خدا ئس وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِهِمْ بیہ ئس حصہ آسہ

يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَكَذَلِكَ
 زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ
 شُرَكَاءُهُمْ لِيُرِدُّوهُمْ وَلْيَلِيسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۲﴾
 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَّيَطْعَمَهَا الْأَمَنُ
 نَشَاءُ بِزَعْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ طُحُورُهَا وَأَنْعَامٌ

خدایہ سیدہ خیطرہ تھاونہ آمت سؤی جان بہن اوس سؤ بیچہ واتھہ تھند من شر یکن کن۔ سَاءَ
 مَا يَحْكُمُونَ کوتاہ پچھ چھوہند یہ فیصلہ نہ تجویز۔ کیا زہ نئس چیز خدا ین پیدہ کور۔ سو کیا زہ بیہ
 تھاونہ ئس ورا ی بیہ کانہ ہندہ خیطرہ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ
 شُرَكَاءُهُمْ لِيُرِدُّوهُمْ وَلْيَلِيسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ پچھہ پانھہ دیت زینت وار بہن مُشْرِكِينَ
 اولاد مار ئس تھند یو شیطانو۔ چنانچہ تم ین آس یہ وحشیانہ کوم رثہ نہ جان یوان یوزنہ۔ پچھہ تم مشرک تباہ
 بر باد سپدن آخر ئس منز۔ بیہ پچھہ تم مشرک پچھہ دین تھند خلط ملط سپدہ۔ تم روزن ہمیشہ غلطی منز
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ئبہ منہ سپد و تھمز و پچھہ کامیو سبہ غمگین۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ بزہہ تہندہ حقہ
 جانیر تلہ آسن نہ تم یہ پچھہ کوم کران فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ئس ترا یو کھہ تم تہ تھند اہز نور اوان
 نہ غلط کھہ ٹھہراونہ تم تلن پانے تمیگ خراب نتیجہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَّيَطْعَمَهَا
 پنہ باطل خیالہ موجب یہ نہ ونان کہ تم چاروا ی تہ یہ زراعت ئس تم حاصل کران آس پچھو حرام
 لَا يَطْعَمَهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْبِهِمْ سبکن بیچہ نہ کانہ شخص استعمال کرت ئس شخص ورا ی ئس
 اس پنہ خیالہ موجب کھیاون یڑھون (یعنی تم پچھہ معبودان باطلن ہندہ خیطرہ نذر تھاون۔ تو پتہ پچھہ
 کھیوان تھند ین مجاورنی یوت تم ورا ی بین ہندہ خیطرہ پچھہ زانان حرام وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ طُحُورُهَا
 بیہ آس ونان تم جانور (بہہ جانور مخصوص کرت) تم پچھہ چھو سوار سپدن یا یور کھارن حرام کیا زہ

لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ
مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ
عَلِيمٌ ﴿۱۳۳﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ

سم چھہ منسوب معبودان باطلن کن کرنہ آمت و انعام لا یذکرؤن اسم اللہ علیہا افتراء علیہ
بہ کیہہ چارواں تمں پیٹھ آسنہ ذبحہ وقتہ خدلیہ سنداویوان خدائس پیٹھ اپز نور او تھہ۔ کیا زہیہ آس
زانان کہ امہ بیت گڑھہ اللہ تعالیٰ خوش سیجزیہم بما کانو یفترون عنقریب دہ اللہ تعالیٰ تمں
امہ اپز نوراونہ موکھ سزا وقالوا ما فی بطون ہذیہ الانعام خالصۃ لذنورنا و محرم علی ازواجنا
بہ آس ونان سم مٹرب، ہم چہ تمں چاروا من ہندس شمن منز چھہ تم چھہ فقط اسہ اندرہ مردن ہندہ
خاطرہ حلال، زنان پیٹھ چھہ تم حرام ولان یکن مینتہ فہم فیہ شرکاء ہر گاہ سوچہ مردہ زیوہ
تلبہ چھہ ساری مردتہ زنانہ تمہہ کس گھنیں منز برابر شریک سیجزیہم و صفہم انہ حکیم علیم
عنقریب دہ اللہ تعالیٰ تمں پائے حرامہ تہ حلالہ بیت جانورن صفت کرنس پیٹھ ضرور سزا۔ بیشک سو
چھو شہاہ حکمتہ و ول تہ شہاہ زان و ول۔ تمسند گرفتاری اندر تاخیر کرن چھونہ بے خبری موکھ بلکہ تس
چھہ پور خبر مگر تاخیر عذائس منز چھہ حکمت آسان قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ تھمق تاوائس منز پے تم لوکھ سمواولاد پن بے وقوفی تہ جمالتہ سبہ بلاد لیل مار و حرموا
مآرزقہم اللہ بہ کرکھہ حرام پائس پیٹھ سوزق لئس اللہ تعالیٰ ان عطا کریوکھہ افتراء علی اللہ ہم
ساری چیز چھہ کران تم اپز نور او تھہ خدائس پیٹھ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ بیشک سپد تم لوکھ
گمراہ بہ آس نہ تم زانہ تہ سیزہ و تہ پیٹھ پکہ ون و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر

قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝۱۳۰ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ
 جَدَّتِ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
 مُتَشَابِهٍ طُكُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ ۝ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝۱۳۱ وَ
 مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ
 لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝۱۳۲

مَعْرُوشَتِ سُورِدگار گوسوی تم پیدہ کرتی باغ میں آندر تم کل چھہ ایم ڈھکن پیٹھ کھسان چھہ
 (دو چھہ گل ہی) بیہ تم کل تم ڈھوورائے کھسان چھہ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ بیہ تم خضر
 گل بیہ زراعت پیدہ کور سمہ کین میون تہ دان مختلف صورت تہ مختلف مزہ آسان چھو وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ بیہ کورن پیدہ زیتون بیہ دان تم آھہ آس ہی تہ چھہ آسان۔ آھہ
 آس بدل تہ چھہ آسان كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ تمی فرمووای لو کو کھیو تم سارنی کلین ہند میوہ
 یلہ سونیران آسہ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ بیہ آسو تم فصلن ہند حق ادا کران یعنی زکوٰۃ دوان
 سمہ دوہہ بیہ فصل زمان آسو وَلَا تُسْرِفُوا تھہ دس منز تہ مہ آسو اسراف کران إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو نہ اسراف کرہ و نین پسند کران وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ
 بیہ کمر پیدہ اللہ تعالیٰ آن چارپاؤ آندرہ بعضی چارپاؤ سمہ تھہ چھہ بورتلہ و آن چھہ بیہ تم ژھوٹ تہ پست چھہ
 بورتلس قابل چھہ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ای لو کو کھیو بے فخر تم
 جانورن ہند ما زسم اللہ تعالیٰ آن تھہدہ خیطرہ حلال کمر پائے پنہ خیالہ کانہہ چیز حرام کر تھہ مہ بکو شیطانس
 پتہ پتہ۔ سوزانیون ناسو کھہ چھو إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ پزپاٹ سو چھو تھہ نون دشمن باوجود آینکہ

ثَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمِعْزِ اثْنَيْنِ ۗ
 قُلْ ءَالِدَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْاُنثِيَيْنِ أَمْ اَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ
 اَرْحَامُ الْاُنثِيَيْنِ ۗ يَسْؤُنِي بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۗ
 وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَالِدَ الذَّكَرَيْنِ
 حَرَّمَ اَمْ الْاُنثِيَيْنِ اَمْ اَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنثِيَيْنِ ۗ
 اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّكُمْ اللهُ بِهَذَا فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّن

پزیر و دلیلہ سبزہ توہمہ بشرہ واضح تر روشن مگر سوچو تھو توہمہ راہ راستہ بشرہ ڈال کر یہاں ثَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ
 مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمِعْزِ اثْنَيْنِ تم چاروازی تمکن منز تہہ پائے اڈ حلال تہ اڈ حرام کران محو کھ
 ہم ساری کر خدائی پیدہ - یعنی ہجہ آٹھ قسم - کٹو آندرہ زہ نر تہ مادہ ہبہ ژھاویو آندرہ زہ نر تہ مادہ
 قُلْ ءَالِدَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمْ الْاُنثِيَيْنِ تہہ پر ژھو کھ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مٹر کو نر زہ
 چھا خدائے حرام کر مت کنہ مادہ زہ اَمَّا اَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنثِيَيْنِ کنہ تم کھ چہ یا ژھاویو چہ
 یکن دوشون قسم ہنزہ مادہ پنہ نین رحمن منز تلت چہہ یَسْؤُنِي بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ دو نومہ
 امیک جواب کنہ دلیلہ سیت ہر گے تہہ پوزوندون چھوہ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ہبہ
 چھو اللہ تعالیٰ ان پیدہ کمر مت دونو منزہ ہر تہ مادہ ہبہ گا دو منزہ ہر تہ مادہ قُلْ ءَالِدَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ
 اَمْ الْاُنثِيَيْنِ پر ژھو کھ تہہ ای مٹر کو نو زہ نر چھا حرام کر مت خدائے کنہ زہ مادہ اَمَّا اَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ
 اَرْحَامُ الْاُنثِيَيْنِ کنہ زہ چہہ تم ہندین مادن ہندین رحمن آندر چہہ - توہے دعویٰ چھوہ کران کہ اللہ
 تعالیٰ ان چہہ تم حرام کر مت تہہ بیٹھ کمر و کانہہ دلیلہ پیش - اچ دلیل ییکن زی چیز آستہہ - یا آسہ اللہ
 تعالیٰ ان کانہہ پیٹہر یا ملکہ سہہ ذریعہ توہمہ فر موومت یا آسہ تم توہمہ بلا واسطہ پائے فر موومت - گوڈیکس
 صور تے یعنی نبوتے چھوہ تہہ انکار کران دو قسم صور تے متعلق پر ژھو کھ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ
 وَصَّكُمْ اللهُ بِهَذَا کیاہ تہہ آسہہ تمہہ ساتہ حاضر ہمہ ساتہ اللہ تعالیٰ ان توہمہ امہ حلال کر نک تہ

ذِي طُفِيرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهُمْ شَحُومَهُمَا
 إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ
 بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۳۷﴾
 فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ
 بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْجَارِمِينَ ﴿۳۸﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

ہن کھیہ سہمہ سیت زندہ بیچہ روزت سؤڈلہ نہ کھئیس اندر حدہ نشہ بیہ آسہ نہ خدلیہ سندس لھمس نافرمانی
 کرہ ون تہ طالب لذت تہ مزہ ژھاندہ ون۔ تس چھہ امید بخشایشہ ہنز۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سٹھاہ
 مغفرت کرہ ون سٹھاہ رحم کرہ ون وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي طُفِيرٍ بیہ کر آسہ
 بیہودن پیٹھہ حرام پریتھہ نمہ وول جانور نیس نہ انجہ الگ الگ آسن بلکہ آسنس جملہ وجھہ سؤگووونجھہ، گُر،
 شتر مرغ، آنز، بطخ وغیرہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ شَحُومَهُمَا گاڈوتہ کٹواندرہ کتر آسہ حرام
 تمہ پیٹھہ تہنز چربی إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ مگر نہ سؤ
 چرب نیس تہند من پٹھن پیٹھہ آسہ یا اندر من سیت آسہ یا کٹہ اڈجہ سیت ملیتھہ آسہ۔ امہ ورا ی آسکھ
 ساری چربی حرام تم چیز آس نہ فی نفسہ حرام کینہہ تہ۔ مگر ذَلِكَ جَزَيْنُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا
 لَصَادِقُونَ بیہ سزاڈیت آسہ تمہ تہنزہ سر کشی موکھہ۔ آس چھہ یقیناً پوزونان وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ
 رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ نیس ہر گاہ توتہ تم دشمن توبہ انکاری کرن، نعوڈ باللہ اہزس کن نسبت
 کرن سہمہ کٹھہ موکھہ کہ تمہ کونہ چھو ادہ عذاب نازل سپدان، تہہ فرماڈیو کھہ تہند پروردگار چھو وسبع
 رحمتہ وول۔ بعضہ جھتو موکھہ چھونہ سؤنا فرمان جلد گر قنار عذاب کران۔ مگر تہہ مہ زانو ہمیشہ روزہ
 یوہے حال۔ نہ بلکہ سہمہ وقتہ عذاب وقت (نیس مقرر کرنہ آمت چھو) ولتہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ
 الْقَوْمِ الْجَارِمِينَ تمہہ ساتہ بیچہ نہ تہند سؤ عذاب کا نہہ اکھہ دور کتر تہہ تہہ رتھہ نافرمان تہ گٹھکار
 لوگن لہمہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ مُّشْرِك

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ
 كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا
 قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ
 إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ ﴿۱۳۸﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ
 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۹﴾ قُلْ هَلْ شَهِدْنَاكُمْ

بین وُن زہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ پر تھہ ہاتلہ نہ کرہ ہو اُس شرک نہ کرہ ہن سان مال بڈبب شرک۔ نہ کرہ ہو اُس کا نہہ چیز حرام۔ نہ آسمن کران سان مال۔ بڈبب۔ سڈ معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس جھونہ یہ ناہسند کینہہ تہ۔ کَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تہہ پاتھہ جھو انکار کورمت تموتہم تبکن بروٹھ کافر اُس یمہ گتھہ تہ یہ جواب دینن پتھہ محض غلط تہ باطل۔ امہ سیت جھو لازم یوان پیغمبرن ہند لہز وُن شو ذبا اللہ لہذا سموسمو کو کو پیغمبرن جھدیب کور۔ تم آی عذائس گرفتار کرنہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جھو فرماوان حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا تمی موکھہ ژہ تمبو سانہ عذابگ مزہ۔ تہہ پاتھہ ژہن تم کافر تہ ضرور عذابگ مزہ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا تہہ فرماؤ یوکھہ یارسول اللہ ای کافر و سبیاہ توبہ نش چھنا کا نہہ دلیلہ اتھہ تھہ پٹھہ کہ اللہ تعالیٰ ان دژ توبہ قدرت شرک کرنچ یا حلال چیز حرام کرنچ۔ سمہ اندرہ معلوم سڈ یوسو جھو اتھہ پٹھہ راضی، چھ توبہ نشہ اتھہ پٹھہ کا نہہ دلیلہ سوکتر و پیش۔ دلیل وغیرہ چھنہ توبہ نشہ کینہہ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ تہہ جھو نہ پیروی کران مگر خیالی گتھن۔ بیہ جھو نہ تہہ مگر غلط اندازہ کران۔ اٹھکلہ سیت گتھہ کران قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فرماؤ یوکھہ تہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمودو شوی جوابو سیت سڈ معلوم کہ خدایہ سنزی دلیل چھہ کامل تہ پور۔ تہنز دلیل چھہ باطل غلط۔ اتھہ اوس لازم تہہ ساری گڑھوین راہ راستس پٹھہ مگر تمیک توفیق تہہ جھو خدایسی اتھہ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تہہ ہر گاہ سو تہہ پاتھہ پاتھہ سارنی ہاؤہ ہاؤتھہ۔ مگر اللہ تعالیٰ اس چھہ پنہن سارنی کامین اندر وجہ جہ حکمہ۔ سو تہہ پٹھہ اتھہ جھو تہہ جھو ہدایت کران۔ تہہ نہ

الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا
فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُونَ ﴿۱۵﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ إِلَّا
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ طَعْنٌ نَزُّقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

یرشان چھو۔ نس چھو نہ کینہہ تہ بیان قُلْ هَلْ شَهِدَآءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ
هَذَا فرما یو کھ تہہ کہ بُر نہ گن اینو کھ تہہ تم گواہ یم یہ گواہی دن کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان کیاہ کر یم چیز
حرام تم ن ہنز ذکر کرنہ آیہ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ہس ہر گاہ تم بالفرض گواہی دن
کہ توتہ گزہہ نہ تہہ یار سول اللہ تہہ رس ونہ نس اعتبار کرن تہ تہنز گواہی قبول کرن۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بیہ مہ کمر و بیروی تم ن لو کن ہزن خواہش ن ہمو اہرز ان سان آیات۔

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ بیہ تم ن نہ پڑھہ ہتھہ آخر حج بیہ ہتھہ تم
پنہ نس پروردگار سیت معبود آس اندر مخلوق آندرہ بین برابر تھوان، شریک زانان قُلْ تَعَالَوْا
أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فرما یو کھ تہہ یار سول اللہ ﷺ ولو یو پرووہ کیاہ چھو
حرام کور مت تہہ نہ پروردگار ن تہہ بیٹھہ۔ تم چیز چھہ تم۔ اکھ چیز گواہی زہ شریک مہ ٹھراو نس
مخلوق آندرہ کانہہ چیزاہ۔ خدا ہس ن تہہ قسمہ شریک ٹھراون چھو حرام وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بیہ مہ
کمر و ہلس ماجہ نسبت نافرمانی۔ بلکہ کمر و تم ن سیت احسان۔ تہنز نافرمانی کرن، تم ن سیت بد سلو کی کرن
چھہ حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ طَعْنٌ نَزُّقُكُمْ وَإِيَاهُمْ بیہ مہ مار یو کھ اولاد بین فقرہ،
تھگہ ستی تہ افلاس سہ سبہ۔ ہتھہ پانٹہ زمانہ جاہلیتس منز لو کھ کمر ان آس۔ اس و مووہ تہہ تہ رزق بیہ تم ن
تہ اولاد مارن تہ قتل کرن چھو حرام وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ بیہ مہ آسوز دیک

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۵۱﴾
 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
 يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا يُكْفِ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۲﴾

یوان بے حیائی سے تا فرمانی ہنزن کا میں نہ نمن پاٹھ نہ نہ پوشیدہ پاٹھ۔ پر بیتھ طریقہ بدکاری سے زنا چھو
 حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ بیہ مہ ماریون کا نہ شخصہ اسمند مارن اللہ تعالیٰ ان
 حرام کور مگرے کا نہ پڑ پاٹھ قلس سزاوار آسہ سپدمت بیاکھ شخص ناحق مارنہ سیت ذلکم ووصکم بہ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ایک چھوہ اللہ تعالیٰ تاکیدہ سان حکم فرماوان یتھ نہہ وارہ زانو تہ فخرہ تاروتو پتہ
 کرمی موجب عمل وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ بیہ مہ
 آسو یتیمہ سدس ماس چھہ یوان مگر تہی و تہ یوسہ رتہ تہ مفید آسہ۔ سمہ سیت تھہ ماس حفاظت واتہ،
 نقصانہ نشہ روزہ محفوظ یوتان سو یتیم پانہ بالغ تہ گائل سپدہ۔ مال یتیم کھیون چھو حرام وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ حکم کران زہ مینان تہ تولان آسو پور پور، انصاف تہ عدلہ
 سان۔ اٹھ منز دعائہ دھوکہ دیون چھو حرام۔ سم احکام مشکل تہ دشوار چھہ کیا زہ لَا يُكْفِ نَفْسًا إِلَّا
 وُسْعَهَا اس چھہ کانسہ ارس تکلیف ووان مگر تہی یوت سوہیچہ ہتھہ کیا زہ چھہ مین احکامن ہندس
 تعیل کرئس منز سستی کرنہ یوان وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ معاملہ آستن توہہ
 کانسہ آشنا سند یا کانسہ دوستہ سند بیہ سمہ ساتہ نہہ ئنہ فیصلس یا شہادتس منز کانسہ کتھہ آسو کران سبو
 آسو پوزوانان سمہ ساتہ عدل وانصافس خلاف کتھہ کرن چھہ حرام۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا بیہ آسو خدلیہ
 سدس عہدس وفا کران۔ بد عہدی تہ وفانہ کرن چھو حرام ذلکم ووصکم بہ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ بیہ سار

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
 فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۵۷﴾
 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا
 لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۙ
 وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عَالَمَكُمْ
 تُرْحَمُونَ ﴿۵۸﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ

کوی کرده الله تعالیٰ ان تا کیدی حکم بیٹھ نہہ یاد تھا و تہ عمل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ میں حکمن ہنز چھن زیادہ خصوصیت۔ بیہ کر وہ الله تعالیٰ ان حکم کہ یہ دین اسلام بیہ تمک ساری احکام بیہ چھوہ میان سیز و تھہ امی و تہہ پکو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ بیہ و تومہ پکو۔ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تمہ و تہ کر نوہ جداتہ دور خدایہ سزہ سزہ و تہ نشہ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ امہ کوی کور وہ توہہ الله تعالیٰ ان تا کیدی حکم بیٹھ نہہ باقی و تونشہ ہتھہ روزو۔ راہ راستہ نشہ بیہ کانہہ و تھہ اختیار کرن چھو حرام تھہ اتینا موسیٰ الکتب تمامًا علی الذی احسن و تفصیلًا لکل شیء شرکس رد کرنے پتہ چھہ اس مسئلہ نبوتس متعلق مضمون بیان کر ان کہ امہ حض سوزوہ نہ تھی یات پیغمبر بنا و تھہ بیٹھہ پیٹھہ لوکن تردد نہ چُہ سپد ان چھو بلکہ سوزا سہ توہہ برو تھہ حضرت موسیٰ پیغمبر بنا تھہ۔ تو پتہ کتر امہ عطا حضرت موسیٰ اس کتاب یعنی تورات۔ پن نعمت پوزہ کر نہ خیطرہ تمن لوکن پیٹھہ سموتہہ موجب رتہ عملہ کرہ بیہ ضروری احکامن ہند بیان تہ تفصیل کر نہ خیطرہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ بیہ بیٹھہ تمہہ واسطہ سارنی لوکن رُہنمائی سپدہ بیہ بڈر حمت تعمیل احکام کرہ و نین ہندہ خیطرہ۔ بیہ امہ صحیح کتاب سوزا سہ بیٹھہ تم لوکھہ یعنی بنی اسرائیل پنہ نس خدا نس سیت ملاقات کرہ نس پڑھہ کرن۔ تھہ اعتقاد س ماتحت کرن سارنی حکمن پیٹھہ عمل یلہ تمہ کتابیہ ہند تہ اخیلک دور ختم سپد وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عَالَمَكُمْ تُرْحَمُونَ سمود و یوتنا و پتہ چھوہ قرآن مجید

بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
 إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ
 انْتظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۵۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا
 لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ ﴿۱۵۹﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۰﴾ قُلْ إِنِّي

واتے تمہیں نشہ تہجدس پروردگارہ سُنَد کا نہ بوڈ نشانہ قیامتہ کیو نشانو آئندره یعنی مغربہ کہ طرفہ آفتاب
 کھن۔ وارہ بوذن تم کہ یومر یاتی بعض آیت ربیک لاینفع نفسا ایمانہا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ
 کَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا سمہ دویہ تہجدس پروردگارہ سُنَد سو بوڈ نشانہ ظاہر سپدہ تمہہ دویہ دبیہ نہ کانسہ
 شخصس کانسہ فائیدہ تہ نفع ایمان اُن تہ پڑھہ کرن یم نہ تمہہ بروئہ ایمان آسہ اوئمت یا آسین نہ ایمان
 اتھہ کانسہ رثکاہہ کر مژہ بکہ آسس پیچھہ کانسہ کرہ مژہ تمہہ دویہ چھوئہ ایمان اُنہ نس اعتبارہ توبہ کرنس
 نہ گنہن مغفرت معہ نس اعتبار قُلِ انْتظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ فرماو یوکھہ تہ کہ ہر گاہ تہہ اتھہ انتظار پڑھان
 چھوہ کرن کروئلہ انتظار۔ اس تہ چھہ آپس تہ ہزس منز فیصلہ سپد نس انتظار کران إِنَّ الَّذِينَ فَتَقُوا دِينَهُمْ
 وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پڑپاٹ سمو کو کو دینس
 پنہ نس چھلہ کرہ تہ بیون بیون کو رکھہ یعنی دین حق کو رکھہ نہ پور پور قبول یا کو رکھہ اوڈ قبول تہ اوڈ تروڈ کہہ۔
 دینس آندر نور اویکھہ شرک و بد عتچہ تھہ۔ بیہ بنیای الگ الگ جہاژ تہ فرقہ۔ توہہ چھوئہ تمہن سیت کانسہ
 تعلق۔ تہجد معاملہ چھو سہرہ د اللہ تعالیٰ آس۔ سوونہ پانے تمہن تمہہ سارے تھہ بیہ تم کران آس مَنْ
 جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا نُس اکاہہ اکھہ نیکی پتھہ ایہ تَسَدہ خیطرہ چھہ توشے دہ نیکی۔ یعنی اللہ
 تعالیٰ کرنس اِس نیکی دہن نیکن ہند ثواب عطا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ
 لَا يُظْلَمُونَ بیہ نُس اکاہہ اکھہ بدی پتھہ بیہ نُس بیہ نہ نُس سزاونہ مگر اکی بدی ہند۔ گھکارن، بدکارن

هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۱﴾ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ
 حَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۷۲﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
 وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۷۳﴾ قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
 وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ
 رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۷۴﴾ وَهُوَ الَّذِي

ظلم بیہ نہ کرنہ قُلْ اِنِّیْ ہَدَانِیْ رَبِّیْ اِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ دِیْنًا قِیْمًا مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا وَمَا كَانَ
 مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ فرما یو کہتے تھے یا رسول اللہ پڑپاٹ مہ ہاوتھہ پروردگارن پنن راہ راستس کن، مضبوط
 دینس کن بیٹھہ منزہ کنہ قسمہ کجر چھو۔ حضرت ابراہیمہ سندس ملتس کن نیس اپز یو دینو نشہ ہنس
 دینس کن پھر ہون اوس۔ بیہ اوس نہ سو مشر کو اندرہ قُلْ اِن صَلَاتِی وَنُسُکِی وَحَیَاتِی وَمَمَاتِی لِلّٰہِ رَبِّ
 الْعَالَمِیْنَ * لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ فرما یو کہتے تھے پڑپاٹ میان نماز بیہ میان
 ساری عبادت بیہ میون زندہ روزن بیہ میون مران، بیہ سو زوی چھو خاص خدایہ ہندی خیطرہ تھندس
 اختیارس اندر نیس کل جمانگ پروردگار چھو۔ نس چھونہ شریک کانہ مہ آواکوی حکم کرنہ۔ یو چھوس
 خدایہ سند یو فرمانبردار بندواندرہ گوڈکوی فرمانبردار قُلْ اَغِیْرُ اللّٰہِ اَبِغِیْ رَبًّا وَہُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ فرما یو کہتے
 تھے ای کافر وکیا ہو ڈھانڈنہ معبود برحقس ورا بیہ کانہ پروردگارہ حالنہ سوی چھو پریتھہ کنہ چیزک
 پروردگار وَلَا تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْہَا کانہہ شخصہہ کرہ نہ کانہہ مگر تمیک یور چھو نس پانس پیٹھہ
 تلن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰی کانہہ اکھاہ تلہ نہ بیہ کانہہ ہند یور پانس پیٹھہ ثُمَّ اِلَی رَبِّکُمْ مَرْجِعُکُمْ
 فِیَنْبِئُکُمْ بِمَا کُنتُمْ فِیْہِ تَخْتَلِفُونَ تو پتہ چھوہ تھے پنہ نیس پروردگارس کن رجوع کرن نیس گرہ سوی تو بیہ
 خبر تھرہ سارچی تھہ منز تھے اختلاف کران آسوہ وَہُوَ الَّذِیْ جَعَلْکُمْ خَلِیْفَہٗ الْاَرْضِ وَرَضِعَ بَعْضُکُمْ فَوْقَ

جَعَلَكُمْ خَلِيفَةَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ
 فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ^{نِظْمٌ} وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ^{ع ١٦٥}

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ بیه چھو سُو پروردگار سُوئی تم تہہ زمینس اندر بہنِ نایب بناووه بیه کرون
 تُوہہ اندرہ بعضن ہند مرتبہ بلند بعضن پیٹھہ یٹھہ تُوہہ سُو آزمائش کرہ تمن نعمتن اندر سمہ تُوہہ عطا
 کرنوہ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ پزپاٹ پروردگار چھو جلد سزاووه ون بیه چھو سیٹھاہ
 مغفرت کرہ وون سیٹھاہ رحم کرہ وون



أَوْهُمْ قَائِلُونَ ﴿۱۷﴾ فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا إِلَّا أَنْ
 قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۸﴾ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
 وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۹﴾ فَلَنَقْضِيَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا
 غَائِبِينَ ﴿۲۰﴾ وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بَمَا كَانُوا يَأْتِيَانِظِلْمُونَ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدْ

مؤکھ۔ کس ووت تمین نشہ سون عذاب رات منزی۔ یا تمہہ ساتہ سمہہ ساتہ تم دپہر س شوجت آس
 قیلولہ کران فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کس اوس نہ تمہہ ساتہ سمہہ
 ساتہ تمین نشہ سون عذاب ہمکہ تہ مکہ واتھہ پیو کانہہ کتھاہ تہندہ چانہہ منزہ نیران۔ مگر یہیہ تھہ کہ واقعی
 چھہ آس ظلم و خطا کرہ ون۔ یہ گو ذنبوی عذاب فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ
 الْمُرْسَلِينَ امہہ پتہ گو اخروی عذاب۔ قیامتک دوہہ پر تھو آس ضرور لوکن تمین کُن پیغمبر سوزنہ آئی۔
 یکیہ توہہ نشہ آئی یہ پیغمبر۔ توہہ کیہہ معاملہ کورہہ تمین سیت۔ یہہ پر تھو ضرور آس پیغمبرن تہہ توہہ
 کیہہ جواب ون تہمز و اُمتو فَلَنَقْضِيَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ کس بیان کر و اس تمین ساری بیرون تھہ
 کنہہ ساری حالات پنہہ علمہ موجب کیازہ اس تہندہ یو کارو کر تو تو نشہ بے خبر آسنہ وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ
 الْحَقُّ تمی دوہہہ من لوکن ہنزہ عملہ تہ اعتقادات تولنہ ہز پانہہ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ کس سمین ہند پوخر ایمانہ سیت تہ نیکیو سیت گوب لکھہ تہ لوکھہ آسن رستگار تہ کامیاب
 نجات لبہ ون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ یہہ سمین لوکن ہند پوخر لوت لکھہ ایمان نہ انہہ سیت تہ اعمال
 صالحہ نہ آسنہ مؤکھہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بَمَا كَانُوا يَأْتِيَانِظِلْمُونَ کس تہہ لوکھہ گئے سمو
 پنہہ نین پانن نقصان تہ تاوان واتوو کیازہ تم آس سائین آیاتن ہنز حق تلفی کران۔ انکار تہ نافرمانی
 کرنہ سیت وَلَقَدْ مَكَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا إِنَّا نَشْكُرُونَ پزناٹ اسہہ دث

مَكَّنَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۱۰ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝۱۱
 قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝۱۲ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝۱۳ قَالَ أَنْظِرْنِي

توہم بسنہ خیطرہ جای زمینس پیٹھ۔ بیہ کوراسہ مہیا تہندہ خیطرہ اتھہ زمینس آندر زندہ روزنگ سامان مگر شکرنگ ارچھہ توہمہ آندرہ کھی لوکھہہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ بے شک بیہ کر وہ اسہ تہمہ پیدہ یعنی تہندہ جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام۔ توپتہ دثرو اسہ توہمہ شکل و صورت یعنی حضرت آدمس علیہ السلام ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ توپتہ کور حکم اسہ ملائکن کہ سجدہ دیوون حضرت آدمس کن۔ ہنس ڈیت تموسجدہ ابلیس ورا ی لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ سواوس نہ سجدہ ونہ والیواندرہ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ اللہ تعالیٰ آن پُر تھس ای ابلیس تہ کم چیزن روکھہ پتھہ سجدہ ونہ نشہ۔ یلمہ میہ پانہ تہیہ حکم کریوی سجدہ کرنک۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ دہنہ لگ بوچھوس بہتر حضرت آدمہ سندرہ خوتہ کیاہہ بوکور تھس پیدہ نارس۔ سبو کور تھن پیدہ میہہ تہ آہس یعنی رپہ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ اللہ تعالیٰ آن فر مووس تہیہ اویہ پنن پان بوڈ بوژنہ تھی کر تھہ میانس ٹھنس نا فرمانی۔ لہذاوس یون آسانہ نشہ۔ تہیہ پزی نہ کبر تہ نا فرمانی کرن اتھہ آسانس منز یوسہ جای چھہ فرمانبر دارن ہنز لہذا نیر جلد پیکک تہہ چھو کھہ ذلیل و خوار گتھہ نیو آندرہ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ابلیس لگ ونہ پروردگار میہہ وتہ مہلت مر نہ نشہ قیامت تان سمہہ دوہہ ساری سین قبر ونزہ نیر کڈنہ۔ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ اللہ تعالیٰ آن فر مووس پیکک چھو کھہ تہہ مر نہ نشہ مہلت دنہ آتیہ آندر وقت معلومس

إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۱۳﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿۱۴﴾ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ لَأَنْزِلَنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شَاكِرِينَ ﴿۱۶﴾ قَالَ أَخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْبَعِينَ ﴿۱۷﴾ وَيَأْتِمُّرُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ فَمَا مِنْ جَبْتٍ شَدُّمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ

تَانِ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ایلین لوگ ونبہ ژئیہ کور تھس بو گراہ۔ اتھ
بذل کرکھہ بو تہ بنی آدم گراہ۔ قسم بیٹھہ چھوس بونان کہ ضرور بہمہ بو تم گراہ کہ نہ خیطرہ چاہہ سیزہ دوتہ
پوٹھہ بروٹھہ دکھہ نہ پختہ ٹھہ لایئہم من بین ایدیہم ومن خلیفہم وعن ایمانہم وعن شمایلیہم ولا تجد
اکثرہم شاکرین تو پتہ سمکھہ بو حملہ کہ نہ خیطرہ پر بیٹھہ طرفہ تمن بروٹھہ کن تہ، تہزہ تھر کن تہ
تمن دچھن تہ، تمن کھو فرتہ۔ اتھہ پاٹھہ ممکن سپد تم تہ تھہہ پاٹھہ ڈاکھہ بو تم سیزہ دوتہ نشہ۔ چنانچہ ژہ بلہ
بکھہ نہ تمو اندرہ زیادہ شکر گزار چائین نعمون پوٹھہ قَالَ أَخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا اللہ تعالیٰ ان
فرموس خوارو ذلیل سپد تھہ نیر جلد نیر آسمانو اندرہ۔ ژہیہ ونان چھو کھہ کہ بو ڈاکھہ تم، گدھہ ڈاکھہ۔
بو چھوس نہ پرو ابران کانسہ ہدہ عبادت کرہ نگ لمن تبعکم منکم لاملئن جہنم منکم اجبعین البتہ
ئس چان پیروی کرہ تمو اندرہ تو بہ کہ ڈٹہ برن بونار جہنم ویادم اسکن انت و زوجک الجنۃ فکلوا من
جبت شدمما امہ فرموس حضرت آدمس، ای آدم، بسو تھہ پن باڑ بیٹھہ جنٹس منز۔ ئس کھی بو چتو
نعمتو اندرہ سمہ نعمہ خوش کر نوہ، بیٹھہ جاپہ خوش کر نوہ ولا تقربا ہذہ الشجرۃ مگر نزدیک سپد زہ نہ
تہہ دوشوے بیٹھہ کس یعنی امہ کلک میوہ تہ پھل کھی زہ نہ ہرگز فتکونوا من الظالمین ئس سپدوہ تو بہ

عَنْمَا مِنْ سَوَاتِيهَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝۱۰ وَقَاسَهُمَا آدَمُ
 لِكُمَا لَيْنَ النَّصِيجِينَ ۝۱۱ قَدَلَهُمَا بَغْرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
 سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا اللَّهُ
 أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝۱۲
 قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

نقصان تلہ و نیو آندرہ فوسوس لہما الشیطان لیبیدی لہما ماوری عنہما من سواتیہما نہس تر و شیطان
 تہندین و لن آندر و سوسہ بیٹھہ شتر اوہ سو تمین بدنگ سو وجہہ نہس تمین کہہ اکس نشہ پو شیدہ اوس۔ یہ
 آہاتہہ کلیک خاصیت، یا حکم عدولی کرنہ موکھہ وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا
 مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ دپنہ لوکھہ پرور دگارن تہند کتر نہ توہہ ممانعت امہ کلہ نشہ مگر بی موکھہ
 کہ تہہ گڑھونہ بن ملک زہ یا گڑھونہ تہہ بن ہمیشہ زندہ روزہ و نیو آندرہ وَقَاسَهُمَا قاسم ہاؤ باؤ لگ و نینہ تمین
 آدَمُ لِكُمَا لَيْنَ النَّصِيجِينَ بیشک پو پھسورہ تہند پو ذخیر خواہ قَدَلَهُمَا بَغْرُورٌ نہس تہدہ مرتبہ نشہ یا تھڑہ
 رایہ نشہ بہت رایہ کن ورن بون۔ مایل سترن ڈھوکہ سیت امہ کلیک پھل کھینس پیٹھہ قَلَمَا
 ذَاقَا الشَّجَرَةَ نہس یا تھہ مزہ ژھہ تمو امہ کلہ کہ پھلک بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا تان گئے تم نہجہ۔ تہندہ
 بد نہ پیٹھہ و ڈھہ لباس تہند خود بخود ظاہر سپد تہند سوزوی بدن و طَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ آتَى
 لَکَ دُوشُوے جنک پنے و تھر کہہ اکس سیت ملہ و تھہ پانس پیٹھہ تھاونہ بدنس ستر کرنہ خیرہ و نَادَاهُمَا
 أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ تمہ وقتہ کور آلو تمین دوشون پن
 پرور دگارن۔ ای آدم حوا، امہ کتر و ناتہہ منع امہ کلہ نشہ۔ یہ و نونامہ تہہ ہز پات شیطان چھو تہند نون
 دشمن۔ بیٹھہہ اسمزن کھن گن تھوو قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِدِينَ
 دوشوے لگ و نینہ ای سانہ پرور دگارہ آسہ کور ظلم پان پانس۔ و و ن لے ژہ آسہ مغفرت کر کہہ یہ رحم

كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَكْمَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا
 إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ
 أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا
 عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

نشہ محروم۔ زنانن پیٹھ آؤٹون تہ بار یک لباس حرام کرنہ یمہ منز بدن یاس، کلک موی بوزنہ ایہ۔
 اچی پابندی کرن۔ یہ گولباس تقویٰ یٰبٰی اَدَمَ لَا یَفْتِنٰکُمُ الشَّیْطٰنُ کَمَا اَخْرَجَ اَبُو یَکْمَ مِنَ الْجَنَّةِ اکی
 حضرت آدمہ ہند یو پھو یو یلہ ہنہ تقویٰ تہ پر ہیز گاری ہند واجب آسن معلوم سپد، یہ سپد توبہ معلوم کہ
 شیطان کوتاہ دشمن چھو تہند وون ہتھنا توبہ تہ شیطان ڈالتھ تقویٰ پر ہیز گاری تہ ویش خلاف تہ گنہس
 بتا کر تھ خرابی اندر تراوہ۔ ہتھ مول مون تہند حضرت آدم تہ حضرت حواجنہ منزہ ڈالتھ کڈن۔
 یَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا توبہ کڈن تم ہتھ حاکس منز کہ کڈن اوس لباس تہند تہند ہ بدنہ
 پیٹھ۔ ہتھ پاٹھ نزاروہ تہ ہتھ کرہ تہوند مسطور تہ پو شیدہ بدن۔ ہتھ پاٹھ اسہ بیان کور کہ سو چھو تہند سخت
 دشمن تمس نشہ کمر و پور احتیاط۔ زیادہ تاکید چھوہ اس توبہ سمہ موکہ کران إِنَّهُ یَرٰی کُمْ هُوَ وَقَبٰیِلُهُ مِنْ
 حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ بیشک اکھ سو تہ یہ تہنز لشکر چھہ توبہ و چھان تھہ پاٹھ ہتھ پاٹھ نہ تہہ چھون سو
 وچھتھہ ہیکان۔ ہتھس دشمن نشہ پزہ سخت پچاوچ صورت اختیار کران۔ سو پچاوچ صورتھ چھنہ کنہی
 ایمانہ تہ تقویٰ ورا ی إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنَ اَوْلٰیاءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بیشک اسہ کمر شیطان دوست تہ
 رفیق تہن لوکن ہند تم نہ ایمان اتان تہ ہتھہ کران چھہ کنس خدائس وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا
 عَلَيْهَا اَبَاءَنَا وَاللَّهُ اَمَرْنَا بِهَا ہمہو لو کونہ ایمان اون تہن پیٹھ چھو شیطانہ سندا تسلط تمہ قسمہ کہ
 یلہ تم لو کہ کانہہ چھہ گاہہ کران چھہ۔ وناں چھہ اسہ وچھہ مال بدب پٹن ای کران۔ یہ چھو نعوڈ بالہ
 خدائنی اسہ یہ کرنگ حکم کورمت۔ چنانچہ تم آس ننگ خانہ کعبس طواف کران کانہہ منع اوسکھہ کران
 جواب آس دیان اسہ چھو خدایہ نی امیک حکم کورمت قُلْ فرما دیو کہہ ہنہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ هُوَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۲۹﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ
فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۳۰﴾

و سلم) إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ بیشک اللہ تعالیٰ چھونہ ہر گز تجھہ کا میں ہند حکم کران۔ یہ کیاہ چھوہہ
بکواس کران اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کیاہ تہہ چھوہہ خدائس کن تی لاگان تچانہ توہہ نہہ نہہ کا نہہ
خبرہ چھہ۔ کا نہہ دلیلاہ چھہ۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ فرمایا کہ میان خدائس چھوہہ حکم کورمت عدل و
انصافک۔ پریتھہ کامہ منز افراط و تفریطہ زچہ چہ نگ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ یہ
چھون حکم کورمت تہہ تھا و وسیوڈ پریتھہ عبادتس اندر۔ متوجہ رزودولہ سیت خدائس کن یعنی پو تپل یا
یہہ کا نہہ چیزمہ آسیون برونتھہ کنہ رنان وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہہ آسو تہنزی یا اث عبادت
کران۔ تس یات پئن حاجت منگان۔ باخلاص آسو تہنزی فرمانبرداری کران۔ سم چھہ پروردگارہ سند
حکم سم مانو کیا زہ تم فرماونہ توہہ سم حکمی یات تہ بس۔ بلکہ یہہ سو توہہ اکہ دوہہ تمن کھن پیٹھہ حساب تہ
کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ چنانچہ ہتھہ پاٹھہ گوڈہ پنہہ قدر تہ سیت تم تہہ پیدہ کمر نوہ تھہ پاٹھہ سپد یوہ تہہ
دوبارہ پیدہ کرنہ ایو۔ تی دقتہ یہہ توہہ حساب ہنہ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ دنیاہ س
اندر ہا و اکس جماعتس اللہ تعالیٰ ان وتھہ۔ تمن دیہ رثمزور۔ میں جماعتس پیٹھہ کرن مقرر گرا ہی۔
تمن ایہہ سزا ونہ کیا زہ اِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تمہو کیا رٹ شیطان ہن
دوست تہ رفیق خدائس تراوتھہ۔ یعنی خدایہ سزا طاعت تہ فرمانبرداری تراوتھہ کرکھہ شیطان ہنز
فرمانبرداری وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ یہہ آس تم خیال تھاوان کہ اس چھہ ہدایتس تہ راہ
راستس پیٹھہ بس خیال محض باطل تہ غلط اوس يٰبَنِي اٰدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ اٰی بنی آدمو

يَبْنِي أَدَمَ حُدُودًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي

یلہ توہم معلوم سپد کہ ننگے طواف کرئس چھو خدا بیزار لہذا آسوئہ پو شاک لاگان پر یتھ وقتہ۔ یلہ یلہ
کانہہ عبادت کرنہ خیطر ہ مسجدہ منز حاضر سپدان آسو نماز پر نہ خیطرہ یا طواف کرنہ خیطرہ طواف تہ نماز
مہ آسو پر ان ننگے۔ یتھ پاٹھ ننگے روزن چھو شیطانہ سنز گمراہی۔ یتھ پاٹھ چھو حلال چیز حرام کزن تہ
شیطانہ سنز گمراہی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ لہذا آسوئہ حلال چیز کھیوان تہ
چوان مگر مہ آسو اسراف تہ فضول خرچی کران۔ پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھونہ راضی اسراف تہ فضول خرچی
کرہ و نین تمین آیات کر یمن منز چھو اللہ تعالیٰ رد کران تمن لوکن تم خانہ کعبس ننگے طواف آس
کران۔ یتھ آس زانان بڈ عبادت بعض لوکھ آس جٹھہ کین دوئمن کھیون چون تراوان۔ کم کینتر ہاہ آس
کھیوان سمہ سیت شہ کھس و سن باقی روزہ ہا۔ مازی گنیو کھیون آس کلیتاً تراوان۔ تمن ساری چھو اللہ تعالیٰ
فرماوان کہ یہ کزن کانہہ رث کا ماہ چھنہ تقویٰ و پرہیز گاری ہنز کو ماہ چھنہ۔ یہ چھو محض شیطانی و سوسہ۔
خدا یہ سڈ عطا کورمت لباس تہ پو شاک سمہ سیت تھند بدن و لتھہ روزن تمس تھندہ بدق شوب چھہ یہ
آسو پر یتھ وقتہ لاگان عبادت کر چھہ وقتہ چھو زیادے مناسب رت پو شاک لاگان۔ خدا یں یہ توہم لاگنہ
خیطرہ یا کھیہ چینہ خیطرہ عطا کورمت چھو تمیگ آسو تمتع تہ فائدہ تلمان۔ مگر شرط چھوئوئی کہ اسرافہ نشہ
آسو چھہ روزان۔ اسراف گو حدہ نشہ ڈلن تہ مہ آسو کران۔ یتھ اسرافس چھہ واریہہ صورتہ۔ حلال
چیز مہ آسو حرام کران۔ اتہ گو اسرافے یا ہر خوری تہ پے خوری کرن تہ گو اسرافے۔ یا میل، خواہش
آسنہ و رای کھیون تہ گو اسرافے۔ یا ثیوت، کم کھیون یہ سیت بدنس تو تھی حاصل سپدہ نہ، یا تم چیز
کھن چین تہ استعمال کرن تم مضر صحت آسن شراب ہیو، آفین ہش، ٹموکھ ہیو تہ گو اسرافے۔
بعضی سلف صالحیو فرموو کہ اللہ تعالیٰ ان چھہ جمع کر مژ ساری طب اڈسی آہ کر تمس اندر۔ سوگو
” وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا “ پر یتھ قسمہ کین اسراف کرہ و نین چھو اللہ تعالیٰ بیزار۔ امہ پتہ چھو اللہ
تعالیٰ فرماوان تم لوکھ لباس و لن، طعام کھیون تہ چون حرام چھہ زانان تمن ہر ژھو ہز تھہ۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَقِصُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ
الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ

زِينَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ کہ ای لو کومہ وبتو کہ کم شخص کر سوزینت
تہ شوب حرام۔ بس اللہ تعالیٰ ان پیدہ کور پنے نین ہندن ہندہ خیطرہ۔ یہ کم شخص کثرت رت میٹھ میٹھ
تہ پاکیزہ کھیک چیز حرام۔ حرام کر تک اختیار ہونہ خدا بس ورا ای کانسہ تہ۔ تم یلہ حلال کرو دن کبہ
کر زین سونس تم چیزن حرام ہیکہ کر تھہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نَهْمٌ فَرَمَا يُوَكِّعُ فِي
زینت، لباس تہ قدرت کھیک تہ چیک چیز چھہ فی الحقیقت با ایمان ہندہ خیطرہ دنیاس اندر خَالِصَةٌ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بیہ آسن سمہ نعمہ قیامتک دودہ تہ خاص با ایمان ہندہ خیطرہ۔ اگرچہ کافر تہ چھہ سمونعمو
سیت فائیدہ ٹلان مگر یہ گو دنیاسی اندر۔ آخرتس اندر نیرہ تم سوزوی کھومت چومت نستہ کن
كَذَلِكَ نَقِصُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تھہ پانچ آس و بڑھہ ناوتھہ بیان کران ساری آیات زانن والین تہ
سمجھدار لوکن ہندہ خیطرہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ
الْحَقِّ تہہ فرماو کھہ یارسول اللہ ای لو کو تہہ تم چیز پانے بلادلیل حرام زانتھ تراوان چھو کہ۔ بعضی
وقتہ چھوہ و نان یم چیز حرام آسن چھو خدائنی فرموومت بیہ سوزوی چھو اپز تہ بہتان۔ تہہ فرماو یو کہ
میان پروردگارن کورنہ حرام کانہہ چیز مگر سارے چھہ کامہ نین پاٹھ تہ۔ مثلاً ننگے طواف کرن پوشیدہ
پاٹھ تہ مثلاً بدکاری کرن بیہ پر تھہ ٹھنہا بیہ کانہہ پیٹھہ نا حق ظلم کرن زیادتی کرن وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیہ کور اللہ تعالیٰ ان حرام کانہہ چیزہ تھندس عبادتس
اندر شریک تھاون۔ سمسندس شریک آسنس پیٹھہ تم کانہہ دلایاہ نازل کر مثر چھنہ۔ بیہ کر تم حرام تہہ
کیاہ ٹھہر او وٹس پیٹھہ تے کتھہ یمن ہنز نہ کانہہ خبراہ چھہ۔ کانہہ علماہ چھو۔ ہر گاہ کانہہ بیہ شہہ گڑھہ کہ
ہر گے تم چیز ممنوع تہ ناجائز ہچھہ تلہ کونہ چھو اللہ تعالیٰ یمن مجربن سزاووان۔ تمیک جواب چھو کہ

أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۷﴾ يَبْنِي أَدَمَ إِمًّا
يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۳۸﴾ فَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ أُولَئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۰﴾ فَمَنْ
ظَلَمَ مِنْهُمْ فَاتْرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أَُولَئِكَ

وَلَعَلَّ آتَاءَ أَجَلٍ قَادًا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ بپہ چھو پر ہتھہ اُمّجہ پر ہتھہ فرودہ
سدہ نیر نہ خیرہ اکھ وقاہ معین کرنہ اُمّت۔ ہس یلہ سو معین وقت واتہ۔ تمہ ساتہ نہ بیکن تم پتہ نیر تھ
نہ بیکن تم برو نٹھ گوتھہ تمہ معین وقتہ نشہ یبئی ادم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم ایاتی ای
بنی آدمو اسہ اوس عالم ارواحہ سی اندر توہمہ دوئمت کہ یلہ توہمہ نشہ واٹن پیغمبر تم توہی منزہ آسن تھے
ہرآن تہ بوڑہ ناؤن توہمہ بیان آیات فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَمَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہس ہس
اکھاہ توہمہ اندرہ تمّن آیاتن انکار کرنہ نشہ پتہ روزہ ہس سنبھالہ پن پان رثو عملو سیت یعنی پورہ اتباع تہ
پیروی کرہ ہس چھو نہ آخرتس منز تمّن لوکن کانہ خوفاہ نہ سپدن تم غمگین وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تم لو کہ جہہ اندرہ اہر زان تم آیات تہ احکام
سان۔ ہس کرن حکمّہ تم آیات قبول تہ تسلیم کرنہ نشہ تھے لو کہ آسن نارس اندر واتن وال۔ تھہ
نارس منز روزن ہمیشہ فَمَنْ ظَلَمَ مِنْهُمْ فَاتْرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أَُولَئِكَ يَتَالِهَهُمْ
نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ یلہ توہمہ مجمل پاٹھ معلوم سپد کہ مخرن چھو عذابس گرفتار سپدن ہس بوڑو بتفصیل
کہ تمہ اکھاہ چھو یوہ ظالم تمّن لوکن ہندہ خوتہ تمّو نوڑو معبود بر حقّس پیٹھ اُپزیا زانچھہ اپز تہند آیات، ہس
نہ تم فر موؤمت چھو تہ تس گن۔ ہس تم واقعی طور فر موؤمت چھو تھہ کوڑکھہ انکار۔ تمّن گن ولتہ دنیا عس
اندر پن حصہ ہس تمّن ہندہ خیرہ لیکنہ اُمّت چھو لوج محفوظس اندر رزقہ منزہ یا عمرہ منزہ دنیا عس
اندر۔ مگر آخرتس اندر چھو تہندہ خیرہ مصیبتھی مصیبت۔ حتی إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم

يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا
يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۵﴾
قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ
فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا
جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَمِّرْهُمْ

تالیہ میں وہ آئن تمن نشہ ملک سان بسختی قبض روح کرنے خیرہ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ تم ملائیک دیکھو و بھیس کوت گئے تم تم کہ تمہ معبود برحق تراوت عبادت آسو کران۔
سہہ مصیبت کہ وقتہ کونہ بھہ تم توہیہ کلمہ یوان قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا تم کافر دین تم ساری راوتہ ضائع
گئے آسہ نشہ یعنی آسہ نہ تم آسہ بکار و شَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ آسہ وقتہ دن گوانی
پنہ نین پان پوٹھ یعنی اقرار کرن زہ تم آس واقعی کافر۔ مگر آسہ وقتہ اقرار کرئس نہ نام و پشیمان
سپدئس چھونہ کانہ اعتبار قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ اللہ تعالیٰ
فرمادیجھہ اتر و تم کافر جماژن سیت تم توہیہ بروٹھ تڈرے غوہ چھہ جوتہ انسانو آندرہ نار جہنمئس آندر
كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا یلیہ یلیہ اژان آسہ جہنمئس منزاکھ اکھ جماعتہا۔ سو آسہ لعنت کران
پانسی ہشہ بھیس جماژ۔ یعنی تمن آسہ نہ پانہ وان کانہ ہمدردی بلکہ آس اکھ اکھ بھہ نظرہ و چھان حَتَّىٰ
إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا تالیہ یلیہ ساری سمن جہنمئس آندر قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا
فَأَمِّرْهُمْ عَدَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ و شہہ یتم جماعت تم تابع روزت کفر کران آس بروٹھہ جماژہ ہدہ
خیرہ ای سانہ پروردگارہ میوی کیا ڈال آس کیا زہ تم آس سان زٹھ۔ پس کر تم سانہ خوتہ دو گن
عذاب نار جہنمئس قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لَّا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرمادیجھہ پریتھ آس چھو دو گن
عذاب۔ مگر توہیہ چھونہ معلوم۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُولِهِمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلٍ فذوقوا

عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾
 وَقَالَتْ أُولَٰئِهِمُ الْخُرْبَةُ ۖ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ
 فذُو قُوَّةٍ أَلْعَذَابَ بِهَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَمُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ
 نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۰﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ
 وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

العَذَابَ بِهَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ بیه و نہ گوئی جماعت تمو آند رہ پتیس جماعتس ہس کیاہ زیادتی بنیہ توہیہ
 آسہ پیٹھ۔ ہس ژہو عذاب تمں چھہ کاین بدل سمہ توہ کران آسہہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا
 وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَمُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ پڑپاٹ سمبولو کو اہرز ان سان آیات بیہ کو رکھ سبخر تم
 آیات قبول کرنہ لٹہ ہرگزین نہ مژرانہ ہندین رُوح ہندہ خیطرہ آسمان ہند دروازہ بلکہ بن تم دارتھ
 دنہ تہ واتانہ تل پاتلس منز۔ بالیمان ہندین رُوح ہندہ خیطرہ ہن آسمان ہند دروازہ موزرنہ۔ تہند
 رُوح بن واتانہ اعلیٰ علیئیس منز۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بیه اژن نہ مکر تہ کافر جنتس حَتَّىٰ يَلِجَ
 الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ یو تان نہ ووٹھ اثرہ سزہ نہ پپہ کن۔ ووٹھ سُنڈ شرنہ پپہ کن اژن تہ پٹھہ پاٹھہ
 نامکن تہ محال چھو تہ پٹھہ چھو کافر ن تہ مٹر کن ہند جنتس واژن نامکن تہ محال۔ جمل چھہ عربی پاٹھہ
 ونان و پٹھہ رزہ تہ پٹھہ دراب ونان چھہ۔ و پٹھہ رزہ ہند سزہ نہ پپہ کن اژن تہ چھو محال تہ نامکن تہ
 پاٹھہ چھو کافر تہ مٹر کن ہند جنتس منز واژن تہ محال۔ سزہ نہ چھہ زیادہ مناسبت و پٹھہ رزہ سیت ہس
 سیت مشابہت آسہہ اعتبارہ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ تہ پٹھہ پاٹھہ کیاہ موآس سزانا فرمان لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ
 مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ تہندہ خیطرہ آسہہ جہنمہ کوئی و طھر ن۔ بیه پٹھہ کن

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿۲۲﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
 وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۳﴾
 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا

تمہ کو ی ورن۔ یعنی پریتھ طرفہ آسہ تمن نار ی نار۔ اس چہہ متھین خالص مٹھوی سزادوان۔ وَالَّذِينَ
 امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بیہ سمو
 لو کو ایمان اون خدایہ سیدین آیاتن بیہ کریکھہ رزہ عملہ۔ رزہ عملہ کرنہ چھونہ تیوت مٹھل کینہہ پتہ۔
 کیا زہ اس چھنہ کانہہ شخصس زور کران عمل کرنگ مگر توی ہن ایشہن سوہیجہ۔ تے لوک چھہ جٹس
 منزواتن وال سم ٹوت واتھہ ہمیشہ روزن تنھہ منز۔ بیہ آسن نہ چھنہن ہند پاتھہ اکھہ آسن سیت بد کلامی
 کران کیا زہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ اس کڈوتھند یو لو اندرہ ساری رنجش۔ بیہ آسہ نہ کانہہ
 بنن ہند تھود مرتبہ تہ تھودورجہ وچھت ناخوش یوان بلکہ آسہ پریتھہ اکھہ پندہ پندہ جایہ خوش تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا پکان آسن تھند یو باغو تہ مکاتو منز واریاہ جوہہ۔ خوشی۔
 فرحت تہ سُرورہ سیت آسن تم ونان حمد وثاوبین اس معبود برحقس سم وٹھہ ہاؤ آسہ تمن کائین کن یمن
 کائین ہنز مزوریہ جنت چھو۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اس بیجہ ہونہ واتھہ تہ وٹھہ لیتھہ۔
 ہر گاہے آسہ اللہ تعالیٰ وٹھہ ہاؤہہ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ واقعی سانس پروردگارہ سند پیغمبر
 آئے آسہ نشہ پزہ کٹھہ بیتھہ۔ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ توپتہ لیکھہ ہڈہ
 آلودنہ۔ ای جنیتو تم جنت آی توہرہ وراشتہ پاتھہ عطا کرنہ۔ تنھہ بدل بیہ تہہ کران آسہہ دنیاس اندر
 رزہ عملو اندرہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا بیہ بلہہ جنتی جٹس

رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ
 مُؤَدِّنُ أَيْدِيهِمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۴﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿۳۵﴾
 وَيَنْهَاهَا جِبَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

منزواتن پهن خوشی ته فرحت ظاهر کرنه خیطر هبیه جهنمین همد حسرت ته افسوس زیاده کرنه خیطر ه دن تم
 تمه ساه جهنمه کین لو کن کن آلو۔ ای جهنمیو پز پاطه آسه سیت نلس وعده سان پروردگارن کورمت اوس کبه
 ایمانس ته رژن عملن بدل کروده توبه عطا جنت ته لوب آسه حق ته پوز **فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ
 حَقًّا** ای جهنمیو نهه ونو کیه توبه ته لبوه سو عذاب سمیک وعده اوسوه کورمت پروردگارن پهن پوز ته
 واقعی۔ که کهره سببه واتا ووه نار جهنمکس اندر۔ کیه ون آیه بوزنه پهن کمرانی ته خداور سوله سند فرمان
 حق ته پوز آسن **قَالُوا نَعَمْ** تم وین جواب واقعی اللہ تعالیٰ سند ته جهنمکس پهنمبر برحقه سند فرمانن دراؤ
بِأَنَّهُمْ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ تم ظالم نهه پهر ان آس خدایه سزوه و ته
 هنز خوشی ته مسرت زیاده سپده جهنمین همد حسرت ته افسوس هر که لعنت خدا یونین ظالم۔ **الَّذِينَ
 يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ** تم ظالم نهه پهر ان آس خدایه سزوه و ته
 نهه جهنمکس قبول کرنه نهه بلکچ آس زهانان دین حقس منز پهنه خیاله نیره ناکانه، هج کتاه۔ کانه
 عیابه۔ نهه تمین اعتراضک موقعه بیه به آس تم آخرتس ته انکار کران۔ سمیک نتیجه تم از تخان چهه
وَيَنْهَاهَا جِبَابٌ تمکن دوشون فریقن منز۔ جنتین ته جهنمین منز آسه اکھ ٹھوراه ته اکھ دیواره سمه
 ٹھر ه ته دیواره سیت جنگ اثر جهنمکس کن واتان آسه نه ته جهنمک اثر جنتس کن واتان آسه نه۔ ای
 ٹھر یگ ته دیوارک بهیر سم حصه تهه پھو ناوا اعراف۔ تمه پٹھه آسه نظر جنتس پیٹھه ته ته جهنمکس پیٹھه ته۔
 بوزنه آسن یوان تمه پیٹھه جنتی ته ته جهنمی ته **وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ** اعرافس پیٹھه
 آسن واریاه لوکھه سم تمکن دوشونی جاتن جنتین ته ته جهنمین ته بهرزه ناون پهنه پهنه علامته سیت۔ سو گوائی
 که جنتین همد نهه آسن سفید ته روشن۔ تمکن آسه نهه پیٹھه ٹوروسان۔ جهنمین همد نهه آسن سیاه ته

وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمَّا يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْعُونَ ﴿۳۷﴾
 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا
 تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۸﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا
 يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا اغْنَىٰ عَنْكُمْ جَعَلِكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
 تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۹﴾ أَهْلَ الْأَيْدِي الَّذِينَ أَسْمَتُوا لِابْنِ اللَّهِ بِرَحْمَةٍ

گفت۔ تم آن آسمے بٹھے بیٹھے تاریکی بپان۔ اعراف پھو آکھ کو ہا آکھ جٹس تہ جہنم منر باگ۔ تہ تہ من
 تھاونہ تم لوکھ تمکن ہنزہ نیکی تہ بدی برابر آسن تو لئس منر لجرہ۔ پتولا کہ واتن تم تہ جٹس خدلیہ سدہ
 فضلہ سیت **وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمَّا يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْعُونَ** سم اعراف منر روزہ ون
 لوکھ ون آودت جنتہ کین لوکن ای جنیتو سلام یوینوہ۔ تم آسن نہ ونہ جٹس منر ثامت مگر سخت
 خواہش تہ امید آسکھ تھہ منر واتج۔ حدیث شریف منر پھو آمت کہ ہنز امید پیہ پورہ کرنہ۔ تہندہ
 خیرہ سپدہ حکم جٹس منر اژنگ **وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ**
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو پتہ یلہ ہنزہ آچھہ نارہ کین لوکن کن پھر نہ من یعنی یلہ تہن اعرافہ کین لوکن
 جہنم منر بیٹھ نظر پیہ۔ خوف کھیتھ لکن ڈپنہ ای سانہ پروردگارہ آسمہ تہ تھو تمکن ظالم سیت عذاب منر
 شامل **وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا اغْنَىٰ عَنْكُمْ جَعَلِكُمْ وَمَا كُنْتُمْ**
تَسْتَكْبِرُونَ تھہ پاتھہ اعرافہ کیو لوکو جٹس سیت سلام وکلام گورتھہ پاتھہ دن تم آلو جہنمیو منرہ وارہین
 لوکن تمکن تم پرزہ ناؤن تہند یو علامتو سیت کہ تم چھہ کافر جہنمی کیازہ تہن آسمہ تھہ بیٹھے تاریکی بپان۔ تہنی
 دہن ای جہنمیو گنہ تہ آلو نابکار توہہ ہن جماعت۔ پیہ ڈیت نہ توہہ کانہہ فاسیدہ بخبر و غرورن۔ پٹن پان
 آسوہ جہہ بوڈوز نہ یوان۔ مسلمان با ایمان آسوہ وچھان چہ نظرہ۔ پیغمبرن ہنز فرمانبر داری آسن نہ توہہ
 گوار آگوشان **أَهْلَ الْأَيْدِي الَّذِينَ أَسْمَتُوا لِابْنِ اللَّهِ بِرَحْمَةٍ** کیا ہم جٹس منر واتھہ عیش کران چھہ تہ
 چھاتم تمکن متعلق قسم ہا ہو آسوہ جہہ ونان کہ تمکن زچورن کرہ نہ اللہ تعالیٰ ہن رحمت عطا۔ وچھان

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۳۹﴾ وَنَادَى
 أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿۴۰﴾ الَّذِينَ
 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِعْبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ
 نَسَبْنَاهُمْ كَمَا نَسَبْنَا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا أَوْ مَا كَانُوا يَلْبَثُونَ ﴿۴۱﴾
 وَلَقَدْ جُنْدَتْهُم بِكَيْتٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً

بجھوہ تمنی ہندہ حقہ سپد لحم خدایہ سندہ طرف اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ای
 غریب بالیماوا اثر و جنس بیتہ نہ توہمہ زمانہ کانہ خوف نہ کانہ عم آسہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ
 الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ بیتہ پاتھہ جنتیو گمرہ کتھہ جھنمین سیت بیتہ پاتھہ وان ناد
 جھنمک لوکھہ جتہ کین لوکن کمر ای جنتیو۔ بوچھہ سیت تہ تریشہ سیت جھہ کوٹھن زیو پھٹھہ۔ تراووانا سہ کُن
 اکھہ تریشہ داماہ۔ یادیسو آسہ کثیرہ ہاہ تمنہ منزہ یہ توہمہ اللہ تعالیٰ ان کھینہ خیطرہ عطا کورمت جھوہ۔ قَالُوا إِنَّ
 اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكٰفِرِينَ جنتی و پچھہ اللہ تعالیٰ ان جھہ تم دوشوے چیز یعنی جنتک کھین تہ چین حرام
 کورمت کافرین پیٹھہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِعْبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا تمن کافرین پیٹھہ سَمُو
 دُنْیَا س منز دین پُن ئیس قبول کزن تمن پیٹھہ واجب اوس۔ زورمت اوس تماشہ تہ گندناہ۔ بیہ اوس تمن
 دھوکہ دستمت دنیاچہ زندگی۔ تمن اوس خیال زہ مرئوی پھو نہ زمانہ تمی سبہ اوسکھہ سوروی
 مشر وومت۔ دینک آس نہ بران کانہ پروا سواوسکھہ سردست بس پشت تر وومت قَالِیَوْمَ نَسَبْنَاهُمْ كَمَا
 نَسَبْنَا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا أَوْ مَا كَانُوا يَلْبَثُونَ اس تہ مشر اوکھہ تم از کہ دوبہ نارس منز وائت ناوتھہ
 ہیمنونہ آس جھند ناوتہ ادہ جھنہ کتھہ کھیاونج تہ چاونج۔ بیتھہ پاتھہ تمو مشروومت اوس از کہ دہک ملاقات
 سہہ دہک سامانہ تیار نہ کرنہ سیت بیہ بیتھہ پاتھہ آس تم سائین آیاتن انکار کران وَلَقَدْ جُنْدَتْهُم بِكَيْتٍ
 فَصَلَّنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ پزپاتھہ اسہ وائت ناوے یہ تمن نیش بتاباہ یعنی قرآن

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۶﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي
تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵۷﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشَى الْبَيْلِ

مجید۔ سچھ منز پورہ علمہ سان اسہ تمام چیزن ہنز وضاحت کرے یہ۔ تی کریو اسہ بیان سارنی لوکن
یوزا ونہ خیطرہ۔ مگر سبکو کتاب سہز ذریعہ ہدایت ور حمت تمنی لوکن ہندہ خیطرہ سموسو یوزتھہ پڑتھہ کرتہ
ایمان اون۔ سمو باوجود اتمام حجت پڑتھہ کمر نہ تہ ایمان اون نہ تہندہ حالہ اندرہ پٹھو پریڈان کہ ہل
یَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ کہ تم پھنہ ہزاران مگر قرآن مجید س منز بیان کرنہ آتس
تہ وعدہ تھاونہ آتس وعید س یعنی سزاس یَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
سمہ دوہہ سو عذاب واقع سپد تک موقعہ والہ تمہ دوہہ دہن تم لوکھہ سمویہ قیامتک دوہ مشروومت اوس
مجبور و مضطر سپد کہ واقعی سانس پروردگارہ سہد پیغمبر آئے ہزہ تھہ پتھہ مگر اسہ لوگ نہ بوڑن فَهَلْ
لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ۖ وَوَنَ چھانسانا کنہہ سفارش کرہ و ناہ۔ اسہ کرہ ہا سفار شاہ سمہ سیت اس
جات کہہ ہو اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ سمہ ہو اس واپس دنیاء س کن سوزنہ تہہ کرہ ہو اس
تے رتھہ عملہ سمہ تمن پتھہ کاین بدل آسمن سمہ اس بروتھہ کران اس دنیاء س اندر۔ اللہ تعالیٰ
پٹھو فرماوان کہ سمہ تھہ گیبہ وون پھنہ تمن کانہہ صور تھہ نجاحت قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بیشک تموتراؤ
پن پان ٹھر کرنہ سیت تاوا س تہ نقصا س اندر وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ بیہ گیبہ ضایح تمہ سارے
آپزہ تھہ سمہ تم نوور اووان آس کہ اسہ کرن معبودان باطل شفاعت إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ پڑ پاتھہ ٹھند پروردگار چھو اللہ تعالیٰ ستم آسمان تہ زمین پیدہ

التَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَيْثُ مَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْحَرَاتٍ
 يَا مِرَّةَ الْآلَةِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ تَبْرِكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾ اَدْعُوا
 رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۴۸﴾ وَلَا تَقْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

کرشین ۶ دوہن برابر مدتس منز نَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ توپتہ سپد مستوی عرش مجیدس پیٹھ تمہ
 طریقہ نُس تہندس ذات پاکس شایان شان چھو یُعْشَى الْكَيْلَ التَّهَارُ سُو پروردگار چھو اثر منزہ تاریکی سیت
 ولان دُوچہ روشنی يَطْلُبُهُ حَيْثُ مَا تھانڈان چھو دوہہ رَأْس تہ رات دوس ول ول، دوشوے چھہ اکھ
 اَس پتہ یوان تہ گوهان وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْحَرَاتٍ يَا مِرَّةَ بیہ کمر اللہ تعالیٰ اَن پیدہ
 آفتاب تہ زون بیہ باقی تارک سمہ طریقہ کہ ساری چھہ پنہ نُس ر فانس تہ انوار آثارن اندر تابع
 تہندس کھمس۔ تھہ پانھہ سو پکہ ناویکھہ تھہ پانھہ چھہ پکان۔ نُس تصرف تمن پیٹھ تراون یڑھان چھو
 تھہ پیٹھ چھہ تم روزان الْآلَةِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ تَبْرِكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ دارہ بوزو کہ پیدہ کزان چھہ
 خاص تہنزی کوم۔ کھم کزان تہ چھہ تہنزی کوم۔ سیٹھاہ مجہ خوبیہ وول چھو اللہ تعالیٰ نُس سارنی عالمین
 ہند پروردگار چھو۔ یلم سو سیٹھاہ خوبی وول چھو توبہ پڑہ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ای لوگو کہ تہہ منگو پن ساری حاجت پر تھہ وقتہ پنہ نُس پروردگار س عاجزی سان تہ، پو شیدہ
 پاٹ تہ۔ ہز پانھہ سو چھو نہ پسند کران تمن سم دُعاءن ہندیو آدابو نغہ حدہ ڈلان چھہ یعنی تی مگن یہ نہ
 شوہہ بیہ تھہ پانھہ مگن تھہ پانھہ نہ شوہہ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بیہ مہ تلوتاہی
 دنیاس اندر شر کہ سیت تہ نافرمانیو سیت تھہ اندر توحید و اطاعت سیت تہ پیغمبران ہندہ تبلیغ
 وارشادہ سیت امن و امان قائم سپدنہ پتہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا خدا نُس کھو تھو تھو تہ تہندہ
 رچھ امید تھاوت تہ آسو کران تس دعاء نہ عبادت کرت نہ گدھہ مغرور گدھن نہ

اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۳﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ
كُلِّ الشَّجَرِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۴﴾
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ

گوشه نا امید شدن کیازه اِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ هز پاهه خدایه سز رحمت هه
زدیک نیکو کارن وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ سو پروردگار گو سوی بس
باران رحمت تراونه برو ننه هه هو اسوزان هه سو باره هه امید دته لوکن همدول خوش کره حَتَّىٰ إِذَا
أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ تا اینکه یله تم هو اخلان هه گوئین ابرن، پکنانن هه ن اس
سو ابر ته شهرس کن بس آبه داده هو کھمت آسان هه تو پته هه سو ابر ته شهرس پیته رود تراوان۔
سو شهر هه سر سبز سپان۔ تمه شهر کم مومت زینه منز هه کل ته گاسه کسان۔ امی سیت هه سو سپان
ثابت سون کن اسن ته قدر ته وول اسن۔ یہ ته سپد ثابت کم اسه هه قدرت مر نه پته یہ زنده کرنس
پیته فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ کَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ هه
هه اس کدان تمه روده سیت پر هه قسمک میوه کَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ هه پاهه
کیاه کدو کھه اس مرده قبر و آندره زنده کتر ته۔ اس هه پننه قدر تک اثار بیان کران۔ تاکه هه کمر و تمکن
کھن اندر غور۔ تو پته کمر و پشه مر نه پته یہ زنده سپد نس ته قیاس۔ سون کلام پاک اوس پننه جایه پر هه
کاسه مند خیطه کافی۔ یہ اوس مکان که پر هه اکھ گوشه توحیدور سالت ته معادس پشه کرن۔ مگر داه
کیازه هه ساری پشه کران۔ تمیگ وجه هه که کانه هه قابل آسان ته کانه ناقابل آسان۔ هه
پاهه رود هه ساری زمیس پیته بیوان مگر ساری زینه منز هه هه کنوی نتیجه نیران وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ
يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُهُ إِلَّا نَكِدًا بس زمین رت هه آسان تمیگ پیداوار

لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
 لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۹﴾
 قَالَ الْمَلَأِمِّنُ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ
 يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ۖ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۱﴾
 أٰبَلِغْتُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَانصَحْتُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۲﴾

پھو خدا لہ سبہ فضلہ سیت واریاہ تہ رُتوی نیران۔ نیس زمین پتھہ تہ خراب پھو آسان تمہ منزہ پھونہ
 نیران کینہہ تہ مگر خراب تہ ردی سینہاہ کم کَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ تہ پتھہ پاتھہ پتھہ اس
 پنہ دلیلہ پھیر پھیر واریہو طریقو بیان کران قدردان لوکن ہندہ خیطرہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
 فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ تہ تھتھن آسہ سوز حضرت نوح پیغمبر ہنہ نس قوس کن۔ نس
 فر موو تھو پنہ نس قوس۔ اکی میانہ قومہ۔ تھہ کمر و عبادت صرف معبود برحقہ سنز۔ نس واری پھونہ
 کانہہ تہ تھندہ خیطرہ معبود آس قابل۔ تھن کنہ وین تھن تھہ پرستش کران پھوہ۔ تمہ نشہ روزو
 پتھہ۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ہر گاہ تہ تھنزی یا تہ عبادت کمر و میہ پھو اندیشہ
 تھندہ خیطرہ کہ تھہ ماگو ہو شر کہ تہ بت پرستی سبہ بڈہ دیکس یعنی قیامتہ کس عذابس یا طوفانس گرفار
 قَالَ الْمَلَأِمِّنُ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ونہ لکس قومک ز تھہ اکی نوح آسہ پھو کھہ تہ بوزنہ
 یوان تھہ گراہی تہ غلطی اندر بتلا۔ کیا زہ تھہ چھوہ توحیدج تعلیم کران۔ بیہ پھوہ تھہ عذابس کھو تہ
 نادان قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ۖ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرت نوح دو پتھہ جواب
 اکی میانہ قومہ مہ پھنہ کانہہ گراہی تہ غلطی۔ لیکن چونکہ بو پھس پیغمبر۔ رب العالمینہ سبہ طرفہ تہ
 پھوہ حکم فر موو تہ اَبَلِغْتُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَانصَحْتُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بو پھوس توہر نشہ
 پنہ نس پرورد گارہ سند پیغامات و اتاوان۔ بیہ پھوس بو پھن فرض منصبی ادا کران۔ میہ پھونہ اتھ اندر

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۷﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَجْبَيْنَاهُ
وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۳۸﴾ وَاللِّي عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۹﴾

کانه ذاتی غرضه۔ بیه چھوس تہیدہ خیطرہ رت یرھان۔ کیا زہ توحید پالنس منز چھو تہندوی فایدہ تہ
نفع۔ بیه ئس توبہ بڑہ دہجہ عذابک تعجب چھوسپدان بیه چھہ تہنز سخت غلطی کیا زہ بو چھوس زانان تم
چیز اللہ تعالیٰ اس نشہ تم نہ تہہ زانان چھوہ۔ مہ چھو خدا این فر موومت کہ ئس خدا ئس شریک ٹھہراوہ
تسندس ٹھوی آسٹس پڑہہ کرہ نہ تس کرہ بو عذاب اَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ
مِّنكُمْ کیا تہہ چھوہ بیه کتھہ عجائب زانان کہ توبہ نشہ واژ تہندس پروردگارہ سدہ طرفہ توبی اندرہ
آکس شخصہ سدہ ذریعہ وعظ و نصیحت تھہ۔ سو نصیحت تھہ گیدہ تہتہ کم عبادت کمر و معبود برحقہ سنزی یاژ
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تہتہ سو شخص توبہ خدایہ سدہ حکمہ، تہندہ عذابہ نشہ نیم
گرہ۔ بیه تہتہ تہندہ نیم کرنہ سیت تہہ کھوژو۔ شرک و کفرہ نشہ پتھہ رُوزویمہ سیت توبہ پیٹھہ رحم ایہ کرنہ
فَكَذَّبُوهُ فَأَجْبَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ مگر ایہ نہمیش کمر تھہ زون تمو حضرت نوح (نعوذ باللہ)
اپزبور، بدستور رُود تم انکار کران۔ ئس دُیت اسہ حضرت نوحس بیه تم تہن سیت ناوہ اندر کھت نجات
طوفانچہ عذابہ نشہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ بیه پھاؤ اسہ طوفانہ کس
عذابس اندر تم لوکھہ سمو اہیزان سان آیات۔ بیشک آس تم انین ہنز جماعت تہن نہ خدایہ سدہ
وحدانینگ نشانہ بوزئ آسہ یوان وَاللِّي عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا بیه سوزاسہ قوم عادس حضرت ہود علیہ
السلام پیغمبر۔ ئس تہند برادری یا وطنی ٹوی اوس قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا
تَتَّقُونَ تمو فر موو تہن ای میانہ قومہ عبادت کرو صرف معبود برحقس چھوہ نہ توبہ کانه معبود تس

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنَرِيكَ فِي
 سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَقَوْمِ
 لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾
 أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَإِنَّا لَكُم نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوْعَجِبْتُمْ
 أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ
 وَأَذْكُرُوا الَّذِينَ جَعَلُوا خُلَفَاءَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ تَوَجَّهُوا
 وَزَادَكُمْ

ورای۔ بت پرستی تراو۔ کیا تمہے جرم عظیم شرک آنتھ جھوہ ناہتھ کھوژان خدایہ سندس عذابس قال
 الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ تومہ
 کیوزیشو دوپیکھ جواب اسہ جھوہ بوزنہ یوان تہہ کم عقل۔ تہہ جھوہ اسہ توحیدج تعلیم کران۔ توحید
 پیکھ ناوان تہ عذابس کھوژہ ناوان۔ بیہ چھہ اس زانان تہہ جھوہ اپزہ خلاف واضح تھہ ونہ ونیواندرہ۔
 یعنی (نعوذ باللہ) نہ چھو توحیدک مسئلہ صحیح نہ چھو خدایہ سندہ طرفہ عذابگ نازل سپدن صحیح قَالَ يَقَوْمِ
 لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ تمو فرموو ہیکھ اکی قوم میانہ عقلہ منزکتہ قسمہ کی چھہ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ
 الْعَالَمِينَ لیکن یو چھوس پیغبر توبہ گن پروردگارِ عالیہ سندہ طرفہ۔ تمی چھوس بوسوزمت توبہ
 توحیدج تعلیم کرنے خیطرہ بیہ عذابگ نیم کرنے خیطرہ یو چھوس پن فرض منصبی ادا کران أُبَلِّغُكُمْ
 رِسَالَاتِ رَبِّي یو چھوس توبہ نشیہ واتاوان پروردگار سند پیغامات تہ احکام وَأِنَّا لَكُم نَاصِحٌ أَمِينٌ
 ہتھ تھہ اندر چھوس یو تہد خیر خواہ، بے غرض تہ قابل اطمینان ایمازہ توحیدو ایمانس اندر چھو یو
 فائدہ تہدی خیطرہ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ کیا تہہ جھوہ
 یہ عجیب تھہہ زانان کہ توبہ نشیہ کیا واثر و عطا نصیح تھہ تہدس پروردگارہ سندہ طرفہ توبی اندرہ۔ تہندی
 چہہ اس شخصہ سندہ ذریعہ۔ بس توبی ہیو بشر تہ انسان چھو۔ ہتھ سو شخص توبہ وارہ پاٹھ خدایہ سندہ
 عذابہ نشیہ نیم کرہ۔ یہ چھہ کنبی چھ تھہ نبوتس تہ بشریتس چھاپانہ وان کہنہ اختلافہ وَأَذْكُرُوا

فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۖ فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶۹﴾
 قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ
 آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿۷۰﴾
 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۗ ط
 أَتَجَادِلُونِنِي فِيْ أَسْمَاءِ سَيِّئَاتِيْوَمَا أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا
 نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط فَاَنْتَظِرُوْا إِيَّيَّ مَعَكُمْ مِّن

اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ اى ميانه قومہ بپاؤ توتہہ ژیتس کہ اللہ تعالیٰ ان کس احسان کور
 توبہ نسبت تہہ کر تہہ زٹھہ زمیس اندر قوم نوحہ پتہ وَرَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً بپہ گور تہہ تہہ
 جسمہ کس ڈول ڈاکس اندر برژر۔ قوت تہہ طاقت گور تہہ عطا فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کس
 ژیتس پاو و خدایہ سزہ نعمو تمسزہ نعمو ژیتس پاوتھہ کرو تہہز۔ فرمانبر داری۔ دیوہ تہہہ رنگار تہہ کامیاب
 سپدو قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ دپتہ لگ تم واہ کیاہ تہہ
 آوہ اسہ نشیہ سمہ تھہہ خیطرہ کہ اس کیا کرو کئسی خدا کس عبادت۔ باقی یمن پوتیلن ہنز عبادت سان مال
 ہڈب کران اس تم کیا تراو تھہ اس۔ اس تہہ گرونہ کینہہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ
 کس سانس نہ مانس پٹھہ سمہ عذاب تہہہ اسہ بیم کران چھوہ سو عذاب و اتا و اسہ نشیہ۔ ہر گاہ تہہہ پوزنہ
 دن چھوہ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ حضرت ہودن فر موکھ تہہزہ
 سر کشی ہنز یلہہ بہ حالت چھہ۔ تحقیق و دن سپد توبہہ پٹھہ تہہندس پروردگارہ سہہ طرفہ عذاب نازل بپہ
 بیزاری أَتَجَادِلُونِنِيْ فِيْ أَسْمَاءِ سَيِّئَاتِيْوَمَا أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ کیاہ
 تہہہ چھوہ مہ سیت ہر تہہ قضیہ لاگان۔ کینون پوتیلن ہندین ناو لن پٹھہ تم ناو بے حقیقت چھہ پانے توبہہ
 یا تہہند یو مایو ہڈب یو ٹھہر او مت چھہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان چھہ نہ دلایاہ تہہندہ معبود آج نازل کر مرہ۔
 توبہہ نشیہ نہ چھہ پتہ دعویٰ اچ دلیل۔ نہ چھو توبہہ نشیہ میانہ دلیلہ ہند جواب۔ کس ہر تہہ قضیہ لا کنگ کیاہ

الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٤١﴾ فَأَجْبِدْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
 قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٤٢﴾
 وَإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
 لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ
 هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي

فاندہ چھو۔ لہذا کروہر نہ قضیہ ختم فانتظرُوا إِلَیَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَنِیَارِ وَجْہِہ عذاب۔
 تُوہ چھوس تُوہی سیت پیارہ ونیو آندرہ۔ کس سوز اللہ تعالیٰ اَن تمن پیٹھ تیز واؤسم تم ساری کال
 فَأَجْبِدْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا کس دیت آسہ نجات حضرت ہوس علیہ السلام بیہ تمن
 سم کس سیت آس بالیمانو آندرہ پنہ رحمتہ سیت وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا
 مُؤْمِنِينَ بیہ ٹٹ آسہ مول تمن لوگن ہند شمو ایزان سان آیات بیہ آسہ تم بوجہ سخت قساوت قلبی
 اسمان انہ ونیو آندرہ۔ ہلاک تہ نے گھسہ ہن توتہ انہ ہن نہ ایمان۔ لہذا ذکر آسہ تم بمقتضائ حکمت تباہ و
 برباد وَإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ بیہ سوز آسہ قوم
 شمودس کن جہند یوی حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر، تمو فرمود تمن اے قوم عبادت کرو فقط اللہ تعالیٰ
 سنز کس ورا ی چھو نہ توہہ کانہہ اکھاہ معبود آسہ قابل تہ سزاوار۔ تمو کور حضرت صالح اکہ خاص
 مُجْرک درخواست۔ دُوکچہ بیہ خاص پلہ منزہ گھسہ اکہ والِ وَنِیْنِ نیرن۔ چنانچہ حضرت صالحہ
 سُنہ دعایت سُہد تہو نہ درخواست منظور۔ سو پل پھوٹ۔ تمہہ منزہ درلیہ اکہ پچہ دار و ونیباہ
 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ بیہ کیاہ چھہ بیہ ووٹن خدایہ سنز۔
 یوسہ امہ پلہ منزہ درلیہ جہزہ خواہشہ موجب۔ بیہ آیہ جہندہ خیطرہ اکہ بڈ لیلہاہ بناوتھ ظاہر کرنہ۔ امی
 آس ناوتھانہ نَاقَةُ اللَّهِ خدایہ سنز ووٹن کیا زہ بیہ چھہ جہزہ قدر تچ بڈ دلیل میانہ پیغمبر آس تہ چھہ بیہ
 بڈ دلیل لہذا چھہ توہہ پیٹھ آسند حقوق مہ ذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي اَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا سُوْءًا

أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا سُوًى فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۱﴾
 وَادْكُرُوا الْإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ
 فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ
 الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
 لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُمِنْ أَمَنْ مِنْهُمْ اتَّعَلَمُونَ أَنَّ صُلْحًا

نہں تراویوں یہ، بیٹھے یہ اورہ یور پھیر تھ کھیہ گھاسہ تہ پھل خدایہ سندس زمینس پیٹھہ۔ تھہ پاتھہ چہہ پنہ
 وارہ ہندہ ڈوہہ تریش، خبر دار بیٹھہ اس آتھہ لاگو کانہہ تکلیف واتا ونہ خیطرہ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 تلہ رتہ توہہ خدایہ سُنڈ کڈر عذاب ہر گاہ جہہ اس کھینس چینس منمز ماتمت کرویا تکلیف واتا و وادکُرُوا
 اذْجَعَلْكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ بیہ پا و و جہہ تریش سو وقت سمہ وقتہ اللہ تعالیٰ ان توہہ زمینس پیٹھہ
 بسہ تک خلیفہ بنا و نوہ قوم عا دس پتہ۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا بیہ
 کرنوہ جہہ آباد زمین پیٹھہ سمہ طریقہ کہ جہہ چھوہ بناوان پاتھلس، میدانی زمینس پیٹھہ جہہ جہہ کرہ تہ
 مندورہ۔ تمن منز چھوہ بسان ریتہ کالس وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا بیہ چھوہ کوہن پیٹھہ تہ گور گور کرہ تہ
 ٹھہہ بناوان تمن منز چھوہ روزان وندس فَاذْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ نہں تریش پا و و خدایہ سزہ نعوہ وَلَا
 تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شرکہ تہ نغرہ سیت مہ آسو بر بادی کرہ ون زمینس اندر قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ دپنہ لگ زٹھہ زٹھہ لوکھ تہندہ قومہ اندرہ سموہ سبگر گور ایمان آنہ نغہہ
 لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُمِنْ أَمَنْ مِنْهُمْ تمن لوکن سموہ تموہ منزہ غریب تہ کمزور آتھہ ایمان اوس
 اُوْمِتْ اتَّعَلَمُونَ أَنَّ صُلْحًا مُرْسَلًا کیا جہہ چھوہ یقین کران تہ زانان کہ حضرت صالح چھوہ پیغمبر مین
 دپہہ پنہ نس خدایہ سندہ طرفہ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ تموہ و پچھوہ قعی اس چھہ تھہ ساری
 یہ بیٹھہ تم سوزنہ آئی پورہ پڑھ کرہ ون قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ

مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۴۵﴾
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ
 كَفِرُونَ ﴿۴۶﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
 وَقَالُوا يُضِلُّهُ أَتَيْنَا بِمَاءٍ تَنَازًا إِنَّ كُنْتَ مِنَ
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۷﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
 جِثِيمِينَ ﴿۴۸﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

یہ کفرؤن تمونمبر دوویچھ اس چھ انکار کران تھہ تھہ توہہ پڑھ کروہ۔ غرض تمونہ کر پڑھ
 حضرت صالح نے کہ دوئٹھ ہند حقوق پورہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ چنانچہ سووون مار تمونزنگہ تھہ
 وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ یہ کہ کہ سرکش پنہ نس پروردگارہ سندکم مانہ نسیہ وَقَالُوا يُضِلُّهُ أَتَيْنَا
 بِمَاءٍ تَنَازًا كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ توپتہ لگ بکمال بے باکی تہ بے پروائی دینہ اکی صالح
 واتا وواسہ نش سوعذاب سمیک ہنہ اسہ نیم کران آسوہ، تھہ اسہ کھوڑہ ناوان آسوہ چھوے تھہ پزپاٹ
 بیغمبر واندرہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ نس رٹ سخت بئل۔
 بیس آسہ کر سمس منز چھو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ تم رٹ سخت کریجہ۔ آسماکھ طرفہ گیکھ سخت
 کرکھ زبردست کریکھ پتہ آکھ بوئیل۔ نس پے تم تھہ کن دستھ پنہ نین گرن اندر زمینس پیٹھ
 (پھر بیٹھ گڑھتہ مود) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
 وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ یلہ قوم نمود غذا بہ سیت تباہ گو۔ حضرت صالح دراؤ تم نسیہ توپتہ فرموونچھ
 ای میانہ قومہ تھقیق مہ واتا وواسہ توہہ نسیہ پنہ نس پروردگارہ سند پیغام تھہ پیٹھ عمل کرنہ سیت توہہ
 بڈ کامیابی سپدہ ہا۔ یہ کرے یہ میہ توہہ نصیحت تہ خیر خواہی گمہ گمہ طریقہ تار یوموہ توہہ فکرہ،
 لیکن افسوس کہ ہنہ آسوہ نہ پنہ نین خیر خواہن تہ نصیحت کرہ وئین پسندی کران۔ وعظ تہ نصیحت
 یوزن اوس توہہ کھران۔ لہذا یلہ توہہ میون یوزوہ نہ، میانین نصیحتن پیٹھ عمل کروہ نہ توے گوہ

رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٤٩﴾
 وَلَوْ طَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
 بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
 شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ط بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿٥١﴾
 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ
 مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَجْبَيْنَاهُ

عذائس گرفتار۔ یہ فرمود تمہن حضرت صالحؑ تہندہ ہلاک گودھنے پتہ۔ تم زندہ تصور کر تھ بطور تاسف
 تھہ پاٹھہ سان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود بد زہ کین کافر ن ہلاک گودھتھہ۔ امہ اندرہ اوس
 عرض بین لوکن یعنی پتہ ادہ وٹنن یہ تھہ واتاؤن کہ لوکن پزہ مخلص خیر خواہن ہنز تھہ ضرور مانن۔ تم
 لوکھ پنہ نس معتبر خیر خواہہ سنز نصیحت مانان آسن نہ تم سبت تہ سپدہ سوی معاملہ نس قوم ثمودس
 سبت سہ۔ (العیاذ باللہ الی نجات) وَلَوْ طَإِذْ بئہ سوز اسہ حضرت لوط کینون بستن کن پیغمبر اذْ قَالَ
 لِقَوْمِهِ ۗ یلہ عمو فرمود پنہ نس قومس یعنی انس اتاؤن الْفَاحِشَةَ کیاہ جہہ چھوہ سوچھہ کوم کران
 مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ یوسہ نہ توہہ بروٹھہ کر مڑ چھہ کانہہ اک شخص عالیو اندرہ
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ہز پاٹ تہہ چھوہ ہن شہوت تہ خواہش پورہ کرنہ
 خیطرہ زنانہ تراوت مردن نیشہ یوان کیے چھہ سوچھہ کوم یوسہ نہ توہہ بروٹھہ کانہہ کر مڑ چھہ۔ یہ بیچھہ
 کوم کر نس اندر چھونہ توہہ کتہ کسک دھو کہ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بلکہ چھوہ تہہ اتھہ اندر انسانیت تہہ
 حَدِّ نَشِيْطَاهُ ذُلْدُونِ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ ۗ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
 إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ تہند قومس دون نہ تم اتھ تھہ کانہہ معقول جوابہ۔ مگر پانہ وان لگ ونہ
 تم (یعنی حضرت لوط تہہ ہنز جماعت) کڈ لوکھ پنہ شہرہ منزہ تم لوکھ چھہ سیتھہ شونت تم چھہ پاک
 و صاف روزن پڑھان۔ اسہ چھہ تم زنان گندہ لوکھ۔ لہذا صاف و پاک لوکن تہہ پزہ گندہ تہ نا صاف

وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۸۳﴾ وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۸۴﴾
وَالِى مَدِيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مٰلَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ط قَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اَصْلَاحِهَا

لوکن سیت روزن۔ یہ آس و نمان تم ٹھٹھ پاٹھ تہ لسنہ پاٹھ۔ اوت پیٹھ یلہ واثر توبت اسہ کور نازل اتھ
تومس پیٹھ عذاب فَاَجْبَدُهُ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کس دیت اسہ نجات تمہ
عذابہ نغیر حضرت کوطس بیہ تہندین متعلقن، اہل و عیالس بیہ بالیمان مگر نہ تہنزہ آخہ سوز روز ایمان نہ
انہ موکھ تھہ تومس سیت تمکن پیٹھ عذاب نازل سپد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اسہ تروو تمکن پیٹھ بدلے قسمک روادہ۔ یعنی نہ تروایکھ رووک پاٹھ کس وچہ تہ
اکی وچہ ونہ کہ کیاہ سپد انجام تمکن نافرمان ہند۔ اگر غورہ سان وچھکھہ تعجب کرکھ بیہ تری فخرہ وارہ کہ
خدا یہ سزہ نافرمانی ہند انجام کیاہ چھو آسان وَالِى مَدِيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مٰلَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ بیہ سوز اسہ شہر مدین کین لوکن گن جہو ندیوی حضرت شعیب پیغبر۔ تمہو
فر موو پتہ نس تومس اکی میانہ قومہ عبادت کرو تھہ فقط معبود برحقہ سنز، کیازہ چھونہ توبہہ کانہہ معبوداہ
تس ورا ی قَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ تحقیق واثر توبہہ نشہن دلیل میانس پیغبر آسس پیٹھ
تہندس پروردگارہ سُدہ طرفہ۔ لہذا مانو اکام شرعین منز میان تھہ تہ میون ونن فَاَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ نو چھسوہ و نمان کہ تھہ آسو پور پور میان تہ پور پور تولان وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ
بیہ مہ آسو لوکن ہندین چیزن اندر نقصان تہ کی کران، چھونہ راون۔ تھہ پاٹھ توبہہ عادت چھوہ
وَلَا تَقْسِدُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اَصْلَاحِهَا بیہ مہ کروز مینس اندر شر کہ تہ ٹکڑہ سیت، بیہ لوکن

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۸۵﴾ وَلَا تَقْعُدُوا
بِجُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ
قَلِيلًا فَكَتَرْتُمْ وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۶﴾ وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا

چھون تہ ناقص کنند سیت تباہی تہ بربادی۔ آتھ ز میںس اندر حضرات انبیاءن ہندہ واسطہ توحیدہ سیت ،
حقوق العبادن اندر۔ تولس تہ میںس منز۔ عدل وانصاف کرنہ سیت اصلاح درستی سپدہ پتہ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ بووان پھسودہ یہ پھو تہندہ خیطرہ سیٹھاہ جان تہ بہتر دنیاس
اندر تہ تہ آخرتس اندر تہ۔ ہر گاہ تہہ میانس ونہ نس پڑھ کردہ تہ تمہ موجب عمل کرو۔ وَلَا تَقْعُدُوا
بِجُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا یہ مہ
آبرو ون تہ سرگن پیٹھہ بہان لوکن خوف دہی کرنہ خیطرہ۔ یہہ سم خدا نس پڑھ کردہ ون چھہ تم تہنرہ ونہ
نشبہ پتھہ رینہ خیطرہ۔ یہہ خدلیہ سزہ ونہ اندر کتبہ تہ کتبہ طریقہ، تجر، خرابی تہ ٹگ وشبہ پیدہ کردہ نہ خیطرہ
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَتَرْتُمْ یہہ پاوونہہ تھیس پئن حال یلہ تہہ تعدادس یامال و
دولتس منز کم آبروہ۔ نس کردہ خدا سن مہرانی تہندس تعدادس اندر یامال و دولتس اندر کردہ زیادتی
وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ یہہ وچھو مفسدان سمو کفر وافرمانی سیت تباہی کر
تہند انجام کیاہ سپدہ بولا کہ سمو خدا نس تہ تہندین پیغبرن انکار کور توبہ بروٹھ۔ قوم نوح قوم عادوشمود
وغیرہ تم تھہ پاٹھ چھہ اللہ تعالیٰ ان گالت تہ تباہ کرت۔ تھہ پاٹھ چھو اندیشہ کہ توبہ پیٹھہ تہ ماسپدہ خدلیہ
سدہ طرفہ عذاب نازل وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ
لَّمْ يُؤْمِنُوا وون ہر گاہ توبہ زہ جماژگوشن۔ اکھ جماعت اندہ ایمان تھہ یہہ یو تھہ آس بیاکھ جماعت

حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۵﴾
 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ
 يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا
 قَالَ أَوْلَوْكُمَا كُرْهِيْنَ ﴿۸۶﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِن عُدْنَا
 فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ

کرہ نہ تھے پڑھ۔ یعنی منصفہ طور کر وہ نہ تھے ساری تھے پڑھ یہ بُو ہتھ آس قاصدو حَتَّىٰ يَحْكُمَ
 اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ کس ٹھہر ویوتان پانہ اللہ تعالیٰ اسے منر فیصلہ کرہ۔ پز یارین دینہ
 نجات اپز یارین کرہ ہلاک تہ تباہ عذابہ سیت۔ سؤی چھوڑت کھم کرہ ون۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا تہندہ قومہ
 کیوز ٹھیو، سمو مجھ کور ایمان آنہ نشہ، سمو یلیہ تہند کلام بوز، تم لگ دینہ آکی شعیب یاد تھوزہ آس
 کڈو تھڑہ یہ سموڑیہ پڑھ کری پندہ شہرہ آندرہ۔ تے تہہ والنس بیہ سانس دینس گن پھیرو قَالَ أَوْلَوْكُمَا
 كُرْهِيْنَ حضرت شعیب فر مووڈھ کیاہ ہر گاہ آس تہندہ دینہ نشہ، ناخوش متفر، تہ بیزارتہ آسو توتہ
 چھوہ تہہ یرھان سون تھہ دینس گن پھیرو۔ تہ بیجہ نہ تھہ زانہہ کیاہہ آسہ نغمہ پچھ پختہ دلیل تہند دین
 باطل آسس پیٹہ تہ سون دین حق تہ پوز آسس پیٹہ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِن عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم
 بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنهَا ہر گاہ بالفرض آس تہندس دینس گن پھیرو تھہ صور تہس منر نور و آس خد اہس
 پیٹہ بُوڈ اڈواہ، کیاہہ باطل دینس پوزونہ سستی چھو لازم بوان خد اہس پیٹہ افتراء تہ اپز نوراون و گن چھنہ
 گتھی تھہ منربیہ داخل سڈن۔ خصوصایلیہ اللہ تعالیٰ ان آسہ تمہہ باطل دینہ نشہ نجات دیت و مَا يَكُونُ
 لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا سان تھہ بیجہ نہ تھہ تہ زانہہ کہ آس کیا پھیرو تہندس دینس
 گن مگرے اللہ تعالیٰ آکی تھہر وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا واتھہ چھو سون پروردگار پریتھ چیزس

تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ
 الْفَاتِحِينَ ﴿۸۹﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ
 شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا الْخٰسِرُونَ ﴿۹۰﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
 فِي دَارِهِمْ جثِيمِينَ ﴿۹۱﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَخِفُوا
 فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿۹۲﴾ فَتَوَلَّى
 عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

علمہ سیت۔ اُس جگہ پر یہ تھ چیزیں پور خبر علی اللہ توکلنا خدا یہ سی پیٹھ کور اسہ توکل۔ اُس جگہ
 مکان اُس رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اسی سانہ پروردگارہ نیای انزراؤ
 اسہ یہ سانس قوس منز۔ ڈی ہٹھوک رت فیصلہ کرہ دن۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ بیہ
 دوپ ہند یوز تھیو سموا انکار گور تہندہ قومہ اندرہ بین کافر ن۔ ہتھہ تمن حضرت شعیبہ سہہ موثر
 تقریرہ سیت کہنہہ اثر سپدہ لیں اتبعتم شعیبًا انکم اذ الخسرون ہر گاہ جہہ حضرت شعیبہ پیردی
 کرد پڑیا تلمہ سپدو جہہ نقصان تلمہ وینو اندرہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جثِيمِينَ اُس
 رٹ تم سخت نعل سمہ سیت سپد تم گرن اندر پھر لہ سیت ہٹھ کن و س پیٹھ مردہ۔ اُس تیس اوس سوگو
 تقصی روز تھ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَخِفُوا فِيهَا سموا پڑناتھ انکار گور حضرت شعیبہ، زن نہ
 تم روزانی آس تھ شہر س اندر۔ تم آس دپان با ایمان اُس کدوہہ سمہ شہرہ اندرہ۔ تم سپد پانہ نایود
 الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ سموا پڑناتھ انکار گور حضرت شعیبہ۔ تم آس تاوان
 زودو اندرہ۔ تم آس و نان با ایمان تو بہ سپدہ نقصان پر تھ رنگہ تمنی سپد پانس سخت نقصان نہ تاوان
 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كُفْرًا اُس
 دراؤ تمن نغہ حضرت شعیبہ علیہ السلام تو پتہ فر موون تمن کن افسوس کر تھ زن تم زندے آس،
 اسی قوم ہتھن مہ واتا تو بہ پنے اُس پروردگارہ سند پیغامات، بیہ کر مہ تو بہ نصیحت، وون تھہ پاٹھہ کھیمہ

فَكَيْفَ اسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيِّ
 إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّحُونَ ﴿١٣١﴾
 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ
 آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٣٢﴾
 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ
 مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا

بوغم کافر کو کس ہندس ہلاک گزھس پیٹھ۔ بٹھ و وو کھ تٹھ لو ٹھ وَاَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيِّ إِلَّا
 أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّحُونَ یہ سوزنہ آسہ تم شہر ن گن سم ذکر کرنہ آئے،
 یہ بیو شہر و اندرہ عنہ شہر س گن، کانہ پیغمبر، سوزنہ آو مگر متہ کیوںن والیو یلہ تس پیغمبر سوزنہ نافرمانی
 کر، آسہ کر بتلا تم تنگی تہ بیماری سیت، تھہ تم نافرمانی نشہ باز تھہ، عاجزی سان آسہ گن رجوع تہ توبہ
 کرن، نافرمانی کرنہ نغیر ہتھہ رُو زان تھہ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا یلہ تم نافرمانی نشہ
 تبتوتہ کر تھہ تہ باز آئی نہ تو پتہ بدل و آسہ تم ن سخی ہنزہ جلیہ آسانی، یوتان تین دولت تہ صحت یہ
 اولاد ن منز خوف ترقی سہز۔ تہمز ذریا تھہ واریاہ نوے یہ۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ غلط فہمی
 سببہ لگ تھہ ساتہ وینہ کہہ سختی تہ آسانی پھنہ کئیہ نافرمانی یا فرمانہ داری ہند نتیجہ۔ تم چیز تھہ برو تھہ پیٹھ
 آمت تھہ پاٹھ سائین مالین بد بٹن تہ آس عنہ وقتہ سختی آسان عنہ وقتہ آسانی ورنہ اس چھہ نافرمانی بدستور
 کران محوش حالی کیاہہ آسہ ہاتھہ آسہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کس رٹ آسہ تم بھگہ تہ
 معہ۔ تم ن آس نہ خیر عذ لجمہ بیچ آسہ رٹ تم محض تہندہ کفرہ تہ نافرمانی سببہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا
 وَاتَّقَوْا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ورنہ ہر گاہ تم شہر ن تہ بٹھن ہند لو کھ خدا کس
 ایمان آنتھہ تہ پڑھہ کر تھہ پیغمبر ن ہنزہ محالفتہ نشہ ہتھہ روزہ کن تہ پر ہیز گاری ہنزہ تھہ اختیار کرہ کن تلہ
 مہ راہہ ہو آس تین پیٹھ آسمان وزینہ کن برکن ہند درواہہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
بِأَسْنَابِيحًا وَهُمْ يُآمِنُونَ ﴿٩٧﴾ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ
يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفَىٰ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ
فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ
لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ
أَصْبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

يَكْسِبُونَ لیکن تمہو زون سون پیغمبر ایڈ، تسنز کر کہ مخالفت پس رٹ اسہ تم تہنز، و تمہو پتھہ عملو سبہ
افامن اهل القرى ان یأتیہم باسنابیحاً وھم ناہمون کیا تمن شہرن ہند لو کہ یم توہہ انکار
کران نہ نعوذ باللہ اپز بورانان چھہ تم چھابے فجر تہ سوکھے سمہ کتھہ نشہ کہ تمن کیا وائہ سون عذاب ہچہ
تہ مچہ رات منزی سمہ ساتہ تم شو کتھہ آسن اوامن اهل القرى ان یأتیہم باسنا ضعی
وھم یلعبون کیا تمن شہرن ہند لو کہ چھابے فجر تہ سوکھے سمہ کتھہ نشہ کہ سون عذاب کیا پیہ واتھہ
تمن نشہ کاجہ وقتہ سمہ ساتہ تم گندس سیت آسن مشغول افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ
الا القوم الخسرون خدایہ سزہ آزمایشہ نشہ روزن نہ سوگھس منز مگر تے لو کہ تم دون عالمن ہند
تاوان زد آسن۔ اولم یھدی للذین یرثون الارض من بعد اھلہا کیا سموند کورہ واقعاتو
ہاؤناوتھہ تمن لوکن تم سمہ زمینک وارث نہیت چھہ امہ کسن برو ٹھین لوکن ہندہ گلنہ پتہ یعنی یم
موجودہ وقس منز اتھہ زمینس پیٹھہ بسان چھہ توپتہ چھہ خداوندی احکامن ہنز نافرمانی کران کہہ ان
لو نشاء اصبنہم بذنوبہم و نطبع علی قلوبہم فھم لا یسمعون کہ ہر گاہ اس یرھو اس کرو کہ تم تہ
گرفار عذانس نافرمانی کرنہ سبہ برو ٹھین نافرمان امتن ہند پاٹھہ۔ واقعی آسن تم تھہ واقعات سموسیت
ہزہ ہاتمن عبرت رٹن تہ سبق حاصل کرن۔ مگر اسہ چھہ مہر کر مژ تہندین دلن پیٹھہ پس چھنہ ہیکان تم
بور تھے پرتھہ تلك القرى نقص علیک من انبأہا تمن مذکورہ کینون شہرن ہند کینہہ مختصر قصہ

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذِبًا مِنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١١٠﴾ وَمَا وَجَدْنَا
لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١١٢﴾
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ يَا أَيُّهَا آلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَظَلَمُوا بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١٣﴾

چھ آس بیان کران توہمہ یار رسول اللہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تحقیق آئی تین سارنی
نہی تہندہ پیغمبر معجزات تہ نبرہ دلیلہ ہیت مگر تہندہ شرارتج تہ ہت دہرمی ہنز کیفیت آس کہ
فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذِبًا مِنْ قَبْلُ پس اون نہ تموا ایمان تہ تہ تہ تموا انکار کورمت اوس گوڈہ
امہ بروئہ۔ بلکہ روڈ تہ انکار س پیٹہ بدستور كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ تہ تہ پانٹہ کیا
چھو اللہ تعالیٰ کافرن ہندین وکن پیٹہ مہر کران۔ تہند دل خیرہ نشہ بند کران۔ تموا منزہ بعضی لوکھ آس
مضہبتہ کہ وقتہ عمد کران ہر گاہ یہ مضہبت امہ نشہ دور گزہہ اس او ایمان وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ
عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ مگر اسہ لوب نہ تموا اندرہ اکثرن منز عہدک کانہ پاس۔
یعنی مضہبت دور گزہہ آس تمہیہ بدستور نافرمانی کران۔ تموا اندرہ اکثر آس نافرمان تہ فاسق ثُمَّ
بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ يَا أَيُّهَا آلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا توپتہ سوز اسہ من پیغمبرن پتہ۔
بہنز ذکر سہ بروئہ سہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پنن آیات ہتہ فرعونس تہ بیہ تہندین وزیرن
امیرن کن تہندہ ہدایت و تبلیغہ خیرہ۔ پس کور تموا کفر تہ انکار تین آیاتن فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ پس وچھو کیاہ چھہ انجام سپد تین مضہبتن ہند وَقَالَ مُوسَىٰ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ
مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ ان فر موخدا لیہ سندہ حکمہ فرعونس نشہ گزہہ تہ۔ اکی فرعون بیشک
نوپچھوس رب العالمین سندہ طرفہ توہہ لوکن کن پیغمبر مقرر کر نہ امت تہندہ ہدایتہ خیرہ حَقِيقٌ عَلَىٰ

وَقَالَ مُوسَى يُفْرِعُونَ إِيَّيْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ
 مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ
 بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ
 فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝ وَنَزَعْنَا مِنْهُ لِيَأْكُلَ مِن ثَمَرِهِ مَا يَشَاءُ
 لَلنَّظِيرِ ۝ قَالَ الْمَلَأَمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ

آن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ میون شان نبوت چھوای کہ یو لاگہ نہ خدا ئیس کن کا نہہ کتھاہ پڑہ تھہ
 وراہی۔ یو چھوس نہ خالی پیغمبر آسک دعویٰ یوت کران۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ بلکہ چھوس یو توہہ کن تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ نبرہ دلیلہ نہ بد معجزہ ہیتھ آمت تم
 معجزہ توہہ ہوقت طلب ہاوتھہ نہ ہیجہ۔ دون یلہ بویقیناً پیغمبر چھوس یہ کیوہاہ یو توہہ ونوہہ ہانہ۔ تھہ پیٹھ
 کرو عمل۔ تمہو چیز واندرہ چھو اکھ چیز کہ آزاد کران ژہ میون قوم بنی اسرائیل غلامی نشہ۔ تم تراو کھہ تم
 نمکھ یو پانس سیت ملک شامس کن ئیس تھوندا اصلی وطن چھو۔ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ
 كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فرعون دیکھ ہر گاہ توہہ نشہ چھو کا نہہ نشانہ خداہ سندہ طرفہ تھندس پیغمبر
 آسک پیٹھ، سوکر و پیش، ہر گاہ تھہ یو زونہ دنیو اندرہ چھوہ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ آتی
 ترو تمون پن عصا ز میس پیٹھ تھہ بنیو ہجہ نہ منکھ اکھ یو ڈاژدھا اکھ وارہ کارہ وَنَزَعْنَا مِنْهُ لِيَأْكُلَ مِن ثَمَرِهِ
 مَا يَشَاءُ لَلنَّظِيرِ ۝ دو تم معجزہ ہوو کھ یہ کہہ اتھہ پن ئیس نالہ کن کوہس تل تھاتھہ اوسکھ سوی کوڈ کھ
 نبیر۔ آتی اوسو سارنی لوکن تم و چھان آس، نہہ نہ کہہ ون یوزنہ۔ قَالَ الْمَلَأَمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ
 هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ فرعون سندہ قومہ منزہ تم تھندس ہنشن نہ دربار آس تم لگ پانہ وان ونہہ کہ ہر پانٹھ
 یہ (یعنی حضرت موسیٰ) چھو یو ڈازان وول جاو گراہ یُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
 یہ چھو واقعی یشھان پنہہ جاو کہ زورہ سیت، توہہ سمہ شہرہ منزہ کڈن۔ لہذا کیاہ

عَلَيْهِ^(۱۰۹) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ^(۱۱۰)
 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ^(۱۱۱) يَا تُولَكُ
 بِجَلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ^(۱۱۲) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا
 إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ^(۱۱۳) قَالَ نَعَمْ وَإِنِّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ^(۱۱۴)
 قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَرَأْسُكَ فِي الْمَاءِ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ لَكَ مِنَ الْمُلْقِينَ^(۱۱۵)
 قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَهْبَهُهُمْ

یہو تہم ہمشورہ قالوا دینہ لگ تم فرعون سد زطھہ زطھہ ہمشین فرعونس ارجہ و آخاہ و ارسیل فی
 المدائین حشیرین اکی فرعون ژہ وہ کینہہ کالاہ مہملت حضرت موسی اس بیہ تہمدس بایس حضرت
 ہارونس، تیس کالس سوژک ژہ مختلف شہرن کن ملازم ہن، پرستہ طرفہ کین بڈین بڈین جادوگرن
 سونبراونہ تہ جمع کرنہ خیطر یاتولک بجلل سحر علیہ تے ملازم دے آنتہ ساری مملکت ساری زانن
 وال جادوگر۔ چنانچہ آتھ مشورس پیٹھ سدا اتفاق توپتہ آے سونبر او تھ آنتہ جادوگر۔ و جآء السحرة
 فرعون توپتہ یلہ یم جادوگرو ات فرعونس نعبہ قالوا ان لنا اجرا ان کنا الغالبین وہن لگ
 فرعونس ہر گاہ اس غالب سدا تلہ آسہ سانہ خیطر ہوؤ انعاماہ قال نعم و انکم لمن المقربین فرعون
 دوپٹک انعام گو آتھی تمہ علاوہ بیو تہمہ میانو مقربو منزہ مقرر کرنہ۔ توپتہ یلہ دوستتھہ ساجرا کہہ طرفہ،
 حضرت موسی بیہ حضرت ہارون بیہ طرفہ میدانس لدر مقابلہ کرنہ خیطر ہ سمیای، لوک تماشہ گیرتہ
 آی بے شمار قالوا یموسى ساحر و دوپ حضرت موسی اس اکی موسی امان تلقى و اما ان تکون
 نحن الملحقین یا تراو گوڈہ پن عصایا تراو اس گوڈہ پنہ لورہ تہ رزہ قال القوا حضرت موسی ان
 دوپٹک ٹھی تراو گوڈہ کیاہ چھوہ تراون فلما القوا پس یلہ تموی گوڈہ تراوہ لورہ تہ رزہ پنہ سحر و
 اعین الناس واستهبواهم سحر کور تمولو کن ہنزن اچھن تمین آیہ تمہ لورہ تہ رزہ بوزنہ پرستہ
 طرفہ سرفے سرف۔ تہ کر تمو نظر بندی تمی سیت کھوژہ ناوکھ لوکھ و جآء و یسحر عظیمو بیہ آی

وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَزِيمٍ ﴿١١٧﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٨﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٩﴾ فَغَلَبُوا هَذَاكَ وَأَنقَلَبُوا صِغِيرِينَ ﴿١٢٠﴾ وَ
أَلْقَى السَّحْرَةَ سُجُودًا لِّسَيِّدِي ۖ قَالَ الْوَالْمُنَافِقِينَ الْعُلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾
رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ امْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ
أَذِّنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرُتُهُ فِي الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا
أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

تم پندہ گمانہ بود جوداہ تہ سزاه ہیتمہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ اسہ تہ سوزو حی حضرت موسیٰ
اس کن کہ جہہ تہ ترا و وحض پین عصا ز میس پیٹھ چنا پیہان تموسو پین عصا پھر ترزو فَاذَاهِيَ تَلْقَفُ
مَا يَأْفِكُونَ تان بیووتھ بود اثر دہا۔ سم سمہ کن ہیوت ساجرن ہند سوزوی سرتہ جود۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کس سپد ظاہر ہو ز۔ بیہ سپد باطل سوسوزوی جود کس تمو کورمت اوس
فَغَلَبُوا هَذَاكَ وَأَنقَلَبُوا صِغِيرِينَ پس مغلوب سپد ہیوت فرعون تہ تہند قومن تمہ وقتہ واپس
رکن ذیل ورسو اگرہت و أَلْقَى السَّحْرَةَ سُجُودًا لِّسَيِّدِي تراونہ آی جادوگر سجدس قَالُوا تَمُوْهُ تَوْبِدْہ بِدْہ
وَأَنَّ الْمُنَافِقِينَ الْعُلَمِيْنَ اسہ کر پڑھ سارنی جہان ہندس پالن والس رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ کس
حضرت موسیٰ تہ حضرت ہارونہ سند تہ رب چھو قَالَ فِرْعَوْنُ فرعون کھو ژ خبر چھاساری رعایا
ما کرن حضرت موسیٰ سندی دین قبول۔ سولوگ ساجرن دپنہ اَمْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذِّنَ لَكُمْ اکی
ساجروکیاہ میانہ اجازتہ ورا ی اونوہ توبہ ایمان حضرت موسیٰ اس إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرُتُهُ فِي الْمَدِينَةِ
لِيُخْرِجُوا مِنْهَا اہلہا فسوف تَعْلَمُونَ پڑپاٹ بیہ چھہ اکھ چلاہ یوسہ جہہ پانہ وان ملیتھ چلاوہ

مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَصَلَبْتَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۳﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
 مُنْقَلِبُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَمَا تَنْقُمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا
 جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفِرُّغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَقَالَ
 الْهَلَامُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ ط قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ
 وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۱۳۶﴾ قَالَ مُوسَىٰ

یہ شہر اندر تھہ امہ شہر منزه اتیک لو کہ کڈ تھہ بیسی کہ۔ دون سپدہ توہہ معلوم توہہ کیاہ بجز اووہ یو
 لافطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لصلبتکم اجمعین بوڑھے ضرور توہہ کہہ طرف
 اتھہ ، بیہ طرف کھور۔ توپتہ دمووہ پھہہ نہہ ساری قالوا جاؤ گرو تم با ایمان آس سپد مت پورہ
 پاٹھ دوئس کانہہ پرواٹھونہ۔ آس گھوٹونہ مر تھہ کٹہ خراب جایہ انا الی ربنا منقلبون بلکہ واتو
 آس پنہ نس ہروردگار س نشہ۔ بیہ آسہ امن و راحت واتہ وَمَا تَنْقُمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا
 لَمَّا جَاءَتْنَا ژہ چھوٹھہ آسہ اندر کانہہ قصور تہ عیبہ لبان مگر یو ہے کہ آسہ کیاہ کر پڑھ پنہ نس خدایہ
 سندین احکامن بیلہ آسہ نشہ تم نشانہ وات۔ یہ چھونہ کانہہ عیبہ نہ کانہہ جرماہ رَبَّنَا أَفِرُّغُ عَلَيْنَا صَبْرًا
 وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اکی سانہ پروردگار آسہ منزاوڑہ سیٹھاہ صبر تھہ آس فرعونہ سند تکلیف برداشت
 کر تھہ بیجو۔ بیہ مارژہ آسہ مسلمان۔ فرعونے آسہ پیٹھ سختی کرہ تھہ نہ آس پریشان سپدو۔ تھہ نہ سانس
 ایمانس منز کینہہ خلل واقع سپدہ وَقَالَ الْهَلَامُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ بیہ بیلہ حضرت موسیٰ سندیہ یوڈ مچرہ لو کو وچھ کہہ سار و تہ اون ایمان
 بعضی لوک تہ سپد تمین سیت متفق۔ تمہ وقتہ ون فرعونس پنہہ قومہ کیوز ٹھیو ای فرعون کیاہ ژہ تراوہ نہ
 یے حضرت موسیٰ تہ ٹھہم قوم تھہ تم تباہی تہ بر بادی تلن تھہ ملکس اندر بیہ تراون چان پرستش تہ
 چائین معبودن ہنز پرستش کران۔ قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ

لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ
يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۷۸﴾
قَالُوا أَوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷۹﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ

فہرؤن فرعون ڈوٹھ بانہر ومہ نہہ آس مارو کہ بیہ تہند پوچھتھنہ تہند زور زیادہ بیجہ سپد تھہ زندہ
تھا و کہ زنانہ تہنزہ۔ کیا زہ زنانہ ہند چھونہ کا نہہ خطرہ۔ بیہ لگن تمہ خدشہ تہ کامہ کوچہ آسہ چھوٹن پیٹھ
پورہ غلبہ حاصل۔ امیک اطلاع یلہ بنی اسرائیل ووت تم گے سخت پریشان۔ تمہو ہنواچ چارہ جوئی
ژہانڈن حضرت موسیٰ اس نشہ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا حضرت موسیٰ ان
فر مو پنے نس قومس مدد مگو خدائس بیہ کرو صبر بانہر ومہ کینہہ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ہز پاٹ بیہ زمین چھو سو روی خدایہ سُدوی امیک وارث کرہ سوئس نس ریشہ پنے نیو
ہند و اندرہ۔ کہہ کالاہ وئن فرعونس مگر وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آخر چھہ کامیابی تمہم خدائس کھوژہ وئن
آس نہہ روزو مستقیم ایمان و تقویٰ آس پیٹھ۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ ریشہ بیہ سلطنت کرہ توہی عطا
قَالُوا أَوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا تمہو دوپس ای حضرت موسیٰ آسہ وچھہ
ہیشہ مصیبتھی مصیبت۔ آسہ آو سخت تکلیف دنہ تہندہ ہینہ بروٹھ تہ تہ توہم پتہ تہ۔ توہم بروٹھ آئی سان
بے شمار لوگ مارنہ۔ وون چھو سوئی تجویزیہ کرنہ یوان۔ آخر ہنہ کیاہ وون۔ قَالَ حضرت موسیٰ ان
وچھہ تسلی فر مو نکھ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ مہ چھہ امید کہ عنقریب کرہ تہند پروردگار تہندس دشمنس ہلاک۔ بیہ کرہ توہی سمہ ملک
پادشاہت عطا۔ تو پنے وچھہ سو نہہ کڑھ گوم کرو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا
مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یلہ فرعون تہ تہند قومس انکار و مخالفس پیٹھ کر

فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْضِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳۰﴾
 فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحُسْنَةُ قَالُوا لَئِنَّا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ
 يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا إِنَّمَا ظَنَرُوهُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ
 مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَتَمَنَّوْنَا لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۲﴾ فَأَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ

گوئڈ آسہ کوربتلا فرعونہ سند خاندان قحط سالی سیت۔ بیہ میون ہندہ نقصانہ سیت۔ تہہ تم تم می سیت
 نصیحت زتن۔ پائس پین تہ پزتھ قبول کرن۔ مگر تم سید نہ تمہ سیت کانہ اصلاحاہ۔ بلکہ سید ہونہ
 حال کہہ۔ قَاذِ اَجَاءَتْهُمْ الْحُسْنَةُ قَالُوا لَئِنَّا هَذِهِ اودہ بلکہ تم خویاہ واتان آس دپان آس یہ آیہ سانی
 خیطرہ۔ اتھ سزوار آس آس آس پھناڈیکہ بڈ تہ خوش قسمت۔ یہ آس نہ تم کران کہ خدایہ سز نعمت
 زاتھ دپہ ہنس شکر توپتہ کرہ ہن اطاعت تہ فرمانبرداری قبول وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ
 وَمَنْ مَعَهُ توپتہ ہر گاہ کانہ بد حالیہ، قحط سالیہ ولتہ ہجھ۔ تھہ آس دپان یہ واژ حضرت موسیٰ بیہ
 تہمدین بیرون ہندہ شامتہ تہ نحوست۔ إِلَّا إِنَّمَا ظَنَرُوهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وارہ بوزوتہندہ نحوستک اسباب ہجھ
 خدایہ سندس علس منز موجود وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر تموا اندرہ ہجھنہ اکثر لوکن کج خبری۔ تم
 اسباب گئے تہنزہ ہفتر چہ کلمہ سر کشی تہ ظلم۔ بیہ بغاوت تہ شرارت۔ سو نحوست آسکھ تمہ ٹوی سزا۔
 وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَتَمَنَّوْنَا لَكَ بِمُؤْمِنِينَ تمہ علاوہ آس تم دنان کہہ
 اکی موسیٰ ڈٹھ کیتھ اتھو تہ امہ نشہ کانہ عجیب مجراہ، بیہ سیت تہ امہ پیٹھ سحر تہ جو دکرو پنتہ خیالہ۔ مگر
 امہ پیٹھ تمیک اثر پیہ نہ کینہہ۔ توتہ انونہ آس توبہ پیٹھ ایمان ہر گز۔ بس یلہ تہنزہ سر کشی اوت پیٹھ واژ
 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ بس سوزہ امہ تم
 پیٹھ قحط سالی تہ میون اندر نقصانہ علاوہ سمہ سمہ بلاہ، اکھ کثرت بارشہ ہند طوفان تہ سیلاب بس تم

مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَلَمَّا
 وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
 عِنْدَكَ ۗ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ
 مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۳۷﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى
 أَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿۱۳۸﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

گھرن اندر کھین منرووت۔ یہ سوزا سہ تمن کن ہالو۔ سمو تھند سو روی زراعت تباہ و برباد کور۔ یہ سوز
 اسہ تمن کن کریل تہ کیم سمو تھند سو روی غلہ کس تمو ذخیرہ کورمت اوس تباہ کور۔ یہ سوزہ اسہ تمن کن
 نترہ مونڈجہ۔ سمہ کھینہ کین تہ چنہ کین چیزن منز آسکھ و سان تہ پھیران بیہ خون کس تریشہ بدل
 چوان آس۔ آس اوسکھ خون بنان۔ سہ واریاہ نشانہ تہ واضح مچرہ۔ سم ستوے مچرہ تہ بیہ عصاء تہ پید
 بیضاء گئے نو مچرہ ساری۔ سم مچرہ و پھتھ پڑہ ہاتمن ایمان اُن تہ پڑہ کرن مگر فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
 قَوْمًا مُّجْرِمِينَ کور تمو کھر۔ در حقیقت آس تم جرم پیشہ۔ ایشختی واتھ تہ آی نہ سم سرکشی نشہ باز
 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۗ یلہ تمن سمو عذابو آندہ
 کانہ عذابا و اتان اوس تمہ ساتہ آس و نان اکی موسیٰ سانہ خیطرہ مگو پنہ نس خدا کس سمیوک تم توہیہ
 سیت وعدہ کورمت مٹھو کہ ہر گاہ تم نافرمانی نشہ با زین تلہ گرو آس تمن نشہ سختی تہ عذاب دور۔ لکن
 كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ آس چھہ قسم ہاوتھ و نان کہ
 ہر گاہ یہ عذاب اسہ نشہ دور کرو، ضرور گرو آس توہیہ پڑہ۔ یہ سوزو کہ آس آزاد کر تھ بنی اسرائیل توہیہ
 سیت فَلَمَّا كَشَفْنَا ۗ کس یلہ آس حضرت موسیٰ سندہ دعاء سیت دور کران آس عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى
 أَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ۗ تمن نشہ عذاب تھہ و قس تان۔ تھہ و قس تان تمن و اُن اوس۔
 آتی آس تم سو عہدیہ پھڑوان۔ تمہ پتہ یلہ اسہ و چھ کہ تم چھنہ پنہ شرار تہ نشہ بازوان فَانْتَقَمْنَا
 مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۗ کس ہیوت اسہ تمن انتقام سمہ طریقہ کہ پھاو اسہ تم دریای قلمس اندر

فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ ۗ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا آلِهًا كَمَا لَهُمْ

يَا أَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اُمیٰ مؤکھہ کہ تمبو کیا زان سان آیات اہڑ۔ بیہ آس سان بو آیات نوشہ تعافل تہ بے توجہی کران اصرار و عنادہ سیت۔ اطاعت و فرمانبرداری ہند وعدہ کر تھہ آس سو وعدہ پھڑہ راوان وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا فرعون تہ تھند قوم ہلاک کر تھہ بنا واسہ وارث تم لو کہ تم کمزور یوان آس زانہ تمہہ ملکہ کہ مشرقی حصک تہ تہ مغربی حصک تہ۔ تھہ ملکش اندر اسہ ظاہری و باطنی برکت تھا و مثر آس۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا بیہ سپد پورہ نیکی ہند رت وعدہ بنی اسرائیل سیت تھندہ صبر کر تھہہ برکتہ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ بیہ کور اسہ تباہ تہ سوزی بیہ تیار کران اوس فرعون تہ تھند قوم۔ یعنی تھند کارخانہ بیہ بیہ تم تمن کارخان اندر تیار کران آس۔ بیہ تم تھند تھند مکانہ تم بنا کران آس۔ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ ۗ بیہ تاردریای قلزمس اپور اسہ بنی اسرائیل تھہ منز فرعون ساری لشکر بیتھہ پھاٹو۔ جس پک تم اسس قومس گن تم پنے پین پوتلین بروٹھہ گنہ پرستشہ خیرہ بہتھہ آس قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا آلِهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۗ ذہنہ لگ (تم بنی اسرائیل) اُمیٰ موسیٰ سانہ خیرہ تہ

الِهَةُ قَالِ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۱۳۸﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمًا هُمْ فِيهِ وَبِطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَاسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۱۴۱﴾

کر و مقرر ا کہ پوتلاہ۔ ہتھہ پاٹھ کن لوکن کچھ واریاہ پوتل بروٹھہ کنہ۔ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ حضرت موسیٰ ان فرمود کہ پزپاٹھ چھوہ تہہ سخت جاہل قوم۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمًا هُمْ فِيهِ وَبِطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ پزپاٹھ تم لو کہ ہتھہ کامہ سیت لگمت چھہ، یہ سوڑی چھو تباہ گڑھ و ن۔ یہ چھو باطل تہ لغوتہ سوڑی یہ تم کران چھہ شرکچو کامیو اندرہ۔ قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ ان فرمود کہ کیاہ بوڑھانڈنہ معبود برحقس و رای ٹھنڈہ خیطرہ بیا کہ معبوداہ۔ حالانچہ توحید پوڑیلو علاوہ چھو تھنڈ محسن تہ منعم سوی، تمی معبود برحقن و توه توبہہ فضیلت سارنی عالمن پیٹھ۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اکی بنی اسرائیلو بیہ پاو و تہہ تریس یلہ اسہ نجات دیت توبہہ فرعونہ سز یو لو کو نشہہ یسومونکم سوء العذاب تم توبہہ و اتاوان آس سخت تکلیف تہ عذاب یقتلون ابناءکم تم کھش کران آس بے در لچنویں ٹھنڈین و استحيون نساءکم زندہ آس تھاوان زنان ٹھنڈن بیکارہ تہ خدمتہ خیطرہ و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم اتھ منز آس تھنڈ خیطرہ بڈ آزمائش تھنڈس پروردگارہ سنبہ طرفہ۔ امہ و رای تہ آس توبہہ پیٹھ خدایہ سند کم کم احسان مگر توبہہ تھو و و نہ کانہہ احسانہ تریس۔ تہہ سپدہ آمادہ شرکس پیٹھ۔ بہر حال یلہ بنی اسرائیل ساروی پریشانیو نشہہ آزاد سپد، تمبو کوز در خواست حضرت موسیٰ اس کہ وون کرو ہز مقرر سانہ خیطرہ ا کہ شریعتہاہ سمہ موجب آس بفر اغت عمل کرو حضرت موسیٰ ان کور تمیک در خواست اللہ تعالیٰ آس تھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان و وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ و اتمننا بعشرہ یہ کور اسہ وعدہ حضرت

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمْنَا بِهَا بَعَثَ فَتَمَّ
 مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ
 هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ
 رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَىٰ

موسى اس ترین شمن روزو کوه طورس پیٹھ اعتکافس۔ بیہ روزو تمن دوین روزہ دار۔ ادہ کرووہ اس عطا
 توہہ تورات۔ توپتہ کرہ نووسو اسہ پورہ تم ترہ (۳۳) دوہ بیہ دہو (۱۰) دوہو سیت فتتہ مِیقَاتُ رَبِّهِ
 اَرْبَعِينَ لَيْلَةً کہس پورتہ مگمل سہد تمسیدس پروردگار سہد مقرر کر نہ اُمت وقت تزتجہ (۳۳) راژ۔ یعنی
 تزتجمن راژن عبادت تزتجمن دوین روزہ دار روزتھ کور تموملاقات خدائس سیت کوه طورس پیٹھ، تھہ
 ملا قاس منز کوزکھ اللہ تعالیٰ ان پن کتاب تورات عطا۔ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي
 فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ بیہ سمہ ساتہ حضرت موسے کوه طورس پیٹھ یئہ
 خیطرہ درائے تمہ وقتہ فرمو و تموم برادرس پنہ نس حضرت ہارونس زہ سپد خلیفہ میون میانہ قومہ
 خیطرہ۔ بیہ یوت ہلی تیوت کر زہ قومس اصلاح۔ بیہ بیٹھنہ پکھکھ مفسدن ہنزہ وتہ بد نظمی کرہ و شن ہنزہ
 رایہ موجب کر زہ نہ عمل وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا اتھہ واقس اندر یلہ حضرت موسیٰ آوسانہ
 ملاقاتہ خیطرہ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تمن سیت کرہ واریاہ لطف و مہربانی ہنزہ تھہ تھند ہروردگارن۔ شدت
 انبساطہ سببہ سپدکھ شوق دیدار لذت گفتار حاصل سپدت کوزکھ تھی لذت دیدارک در خواست
 قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ حضرت موسیٰ ان کور عرض اکی میانہ پروردگارہ ہاوتہ پن ذات پاک،
 یوویچھہ ہت زہ قَالَ لَنْ نَرِيكَ اللهُ تعالیٰ ان فرمووس زہ بیٹکھ نہ مدوہتھت ذنیاس اندر کیا زہ
 سمہ آہتھہ ان نہ تاب میانہ دیدارک ذنیاس اندر وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَىٰ الْجَبَلِ مگر تھندہ تسلی خیطرہ
 چھو سون تجویز کہ تھہ دیو نظر بیٹھ کوس گن۔ اس تراووتھ پیٹھ پن اکھ پرتواہ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَئِمَّا تَجَلَّى
 رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمَ مُوسَى صَعِقًا فَلَئِمَّا أَفَاقَ
 قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾
 قَالَ يُوسَىٰ إِنَّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ
 بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۴﴾ وَكُتِبْنَا
 لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ

فَسَوْفَ تَرَانِي کس ہر گاہ یہ کوہ پتہ جلیہ برقرار رہے ڈنجر روڈ۔ تیلہ شاید یہی کوہ تہہ مہر و چھتھہ چنانچہ حضرت
 موسیٰ روداتھ کو ہنس گن و چھان فَلَئِمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمَ مُوسَى صَعِقًا کس یلہ
 جلوہ ترود حضرت موسیٰ سد پروردگارن کوہ طورس پیٹھ تم جلون کور تھہ کوہس ژس توپتہ گیس پھلہ
 حضرت موسیٰ پیو بیہوش سپد تھہ پتھر دستھہ فَلَئِمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ادہ یلہ ہوشہ آی
 حضرت موسیٰ، عرض کو رکھ، واقعی پھو چون ذات پاک ستموا پھو سیت و چھنہ نشہ منزہ تہ پاک۔ اکی
 میانہ پروردگارہ یو پھوس چانس خدس اندر امہ مشتاقانہ درخواست کرنہ نشہ معذرت منگان
 وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ یو پھوس چانس ارشاد کن ترانی کس پیٹھ گوڈہ لکھوی پڑھ کرہ ون
 قَالَ يُوسَىٰ إِنَّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ
 فرموس اللہ تعالیٰ ان آی موسیٰ۔ یہ پھو سیٹھاہ تہندہ خیطرہ کہہ ہن پاپٹھ مہ کو رکھ ژہ برگزیدہ لو کو اندر
 پتہ پتہبری سیت بہ پتہ کلامہ سیت۔ کس رٹ ژہ یہ مہ ژہ عطا کو روی۔ بہ آس ژہ شکر گزار بندو
 اندرہ۔ وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بہ دیت اسہ لیکھت کینون چکن پیٹھ پرتھہ چیزہ سچ
 دینس منز ضرورت آس مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ یوسہ بد نصیحت چھہ بہ تھہ منز پرتھہ
 چیزک بیان و پڑھہ ناوتھہ پھو فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ کس کرو پانہ تہ امہ موجب عمل کوششہ سان وَآمُرُ
 قَوْمَكَ يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا بہ کرو حکم پتہ کس قومس کہہ تم تہ رٹن اچہ رڈہ رڈہ کتھ تہ رت رت

شئٍ فخذها بقوةٍ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها
 سأوريكم دار الفسقين ﴿١٣٥﴾ سأصرف عن آياتي الذين
 يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية
 لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا
 وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم
 كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غفلين ﴿١٣٦﴾ والذين كذبوا

ہدایات تھے منزہو سوروی رتوی سآوریکم دارالفسقین عنقریب ہا وہ یو توہہ نافرمان ہند گره۔
 آتھ منزہہ بشارت تہ وعدہ کہ یو اتناووہ تہہ مصرس یا شامس اندر تہج سلطنت کرووہ عطا۔ خدایہ سزہ
 فرمانبرداری ہند چھہ سے فائدہ نافرمانی سم کرن تہہہہ خیطرہ چھہ سآصرف عن آیتي الذين
 يتكبرون في الأرض بغير الحق عنقریب پھر کہ یو پنے نیو آیا تو نشہ قدر تہ کیونشا تو نشہ تم لو کہ تم
 مہجر کران چھہ زمیں منز ناحق۔ یعنی تم سپدہ نہ آیاتو تہ مجز و سیت کانہہ اثرہ۔ دلن ہنزہ قساوت و
 شقاوت سبہ وان یروا کل آية لا یؤمنوا بها ہر گاہ تم وچھن ساری آیات تہ معجزات تو تہ کرن
 نہ تم پڑھ۔ تہنز ذہنتی چھہ عجیب وان یروا سبیل الرشدا لا ییتخذوہ سبیلا ہر گاہ تم ہدایت و تھ
 چھہ وہٹھان تمہ و تہ چھہ تم پکن ہیوان وان یروا سبیل الغی ییتخذوہ سبیلا ہر گاہ گرا ہی ہنز
 کانہہ و تھاوہ چھان چھہ تمی و تہ چھہ پکن ہیوان یہ چھہ علامت دلن ہندہ مس سپد نک ذلک یانہم
 کذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غفلين یہ حالت بنے یہ تم ای سبہ کہ تم آس مہجرہ سبہ بہر زانان
 سانین آیاتن بیہ آس تم تمکن آیاتن اندر غور و فکر کرنہ نشہ بالکل غافل۔ والذین کذبوا بآیاتنا
 و لقاء الأخرۃ حطت أعمالهم بیہ سمولو کوسان آیات تہ اسہ سیت ملاقات کرن آخرتس اندر
 اپز زون، تھہ کورکھ انکار، تہنزہ سارے عملہ تمکن ہندہ نفع تہ فایدہ چ تم امید آس گہ ضائع
 هل یجزون إلا ما كانوا یعملون تم لیہ نہ سزاوندہ مگر تمکوی یہ تم کران آس، پھر وانکار تہ

بَايْتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ
 الْآمَانَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷۸﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ
 حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا أَلْمُرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ
 وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوا وَكُورًا وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۱۷۹﴾ وَلَمَّا
 سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن
 لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۸۰﴾

نا فرمائی ہند سزا اٹھو ای و اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا یعنی حضرت
 موسیٰ کو ہر طور سے پیٹھ تورات اُنہ خیرہ گئے۔ تہہ قوم بنو تمین پتہ پنہ نس تہہ گہنس بس تمبو قطن نشہ
 خاند کہہ ہمانہ معیت اوس او نمٹ اکھ وو ڈھاہ۔ نس لگ کرنہ پر ستش۔ تمسنز حقیقت اس صرف یہ کہہ
 سو اوس بدناہ اکھ سمہ منز گاوہ ہنز آواز نیر ان اس، بیہ اوس نہ تہہ منز کانہ کمالا سمہ سیت تہہ
 معبود آسگ کانہ عاقلس خیال گدھہ ہا۔ اَلْمُرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا تمبو کونہ
 سناو چہ ہتھ کتھہ کن کہہ سو اوس نہ انسان سدیوت نہ کمال پانس منز تھاوان۔ یعنی سو وو ڈھاہ اوس نہ تمن
 سیت کانہ کتھہ ہیکان کرتھہ نہ اوسکھ دینچ یا دنیاء چ کانہ و تہہ ہیکان ہاوتھہ اتَّخَذُوا وَكُورًا وَكَانُوا ظَالِمِينَ
 یوہے وو ڈھاہ زون تمبو معبود پین، اس تم یہ کرنہ سیت پنہ نس پانس ظلم کرہ ونیو آندرہ و لَمَّا سَقَطَ
 فِي أَيْدِيهِمْ حضرت موسیٰ سدہ کوہ طورہ پیٹھ واہس نہ پتہ یلہ تمبو اتھ پیٹھ تمبہ کور تم گے سیٹھاہ شرمندہ
 نادم تہ پشیمان اتھ پیٹھ و رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا زون تمبوہ واقعی تم ہتھہ بالکل و ملت، گمراہی آندرہ پیمت
 قَالُوا آتَىٰ هِيَ مَجْهُدًا مَتَّعَنَا كُنْ وَنَسْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہر گاہ
 نے رحم کرہ آسہ پیٹھ پروردگار سون۔ بیہ نے سو آسہ ہتھہ سٹھس مغفرت کرہ تلہ سپد اوس بڈیو تاوان زدو
 آندرہ و لَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا تو پتہ یلہ واہس آی حضرت موسیٰ پنہ نس
 قَوْمِ سُنْ سیتھاہ ڈکھ ہت، سخت غمگین قال فر موکھ قوس پنہ نس کن گوڈہ بَسْمًا خَلَقْتُمُونِي مِنْ

الْعَجَلِ سَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿۱۵۲﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا
مِّنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۵۳﴾
وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي نُسُخَتِهَا
هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿۱۵۴﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى

پاٹھ سمول کو بنو سامری سُد و ڈر تھ پُن مَعْبُود۔ اگر نہ و نہ تہ تم توبہ کرن سَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تلہ وسہ عنقریب تمں پیٹھ غضب تہ بیزاری۔ تہندس پروردگارہ سندہ
طرفہ۔ بیہ تمہ علاوہ خواری تہ رسوائی دُنیاچہ زندگانی اندری۔ بیہ مہنہ تہنزی کینہہ خصوصیتاہ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ بلکہ چھہ آس اٹھوی سزاووان اہز ٹھہراوہ و نین کہ دُنیا سی منز چھہ آس تم
ذلیل و خوار کران۔ کانہہ فوراً کانہہ پتہ نین وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا بِرَبِّهِمْ
تم لو کہ سمو چھہ کامہ کرہ مثلاً و ڈر تھ سز پرستش، تو پتہ کو رک توبہ بیہ اوتھہ ایمان کفر تراوتھہ رَانَ
رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ہز پات تہند پروردگار مٹھو بندن ہندہ توبہ کرنہ پتہ تہندین گنہن ضرور
مغفرت کرہ ون۔ بیہ تہندس حالس پیٹھ رحم کرہ ون وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ یلہ اڈہ
حضرت موسیٰ ان حضرت ہارونہ سزہیہ معذرت بوڈر تھک بنے یٹھہ أَخَذَ الْأَلْوَابَ جتھہ تمہ ہچہ تمں
پیٹھ تورات لیکتھہ اوس وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ در حالیکہ تمہ کس تحریرس
منز اوس بوڈہدایت تہ بڈر حمت تمں لوکن ہندہ خیطرہ تم پنہ نس پروردگارس چھہ کھوڑان۔ مُراد چھو
تمہ اندرہ تمک تم احکام تمں پیٹھ عمل کرنہ سیت شخص چھو ہدایت یاب سپدان۔ رتھس امیدوار
سپدان۔ یلہ و ڈر تھہ سُد قصہ ختم سپد تہ حضرت موسیٰ ان ہیبت توراتک احکام اطمینانہ سان لوکن واتنا دن۔
مگر تمں لوکن یعنی بنی اسرائیلن اوس عادت کہہ تم آس پریتھہ تھہ پیٹھ شہات پیش کران۔ چنانچہ
اتھہ موقعس پیٹھ تہ کور تمویہ شہہ پیش کہہ اسہ تھہ پاٹھ سپدہ یقین کہہ تم احکام کیا چھہ واقعی اللہ تعالیٰ

قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّبَيِّقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ
 لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَإِيَّاي أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ
 مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تُشَاءُ وَتَهْدِي مَن
 تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

سندی احکام۔ اِسْمِ تَرَوْنَ بِأَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى يُتَّهَمُ بِرُؤْيِهِ لِقَيْنِ سَيِّدِهِ چنانچہ حضرت موسیٰ ان کرہ اللہ تعالیٰ
 اِس نَعْبِیَہ تَہَّہ پِیش تُوْرہ سِزَہ کَہ کُحْم سَمُو بِنِی اسر ایلو آندرہ کر یو کَہ مَنجَب کِیْنہہ لُو کَہ تَمِے ائیو کَہ پائس سیت
 کوہ طورس پیٹھ۔ یُوْرَنہ تَمَن پانہ کَہ واقعی چھہ سَم مِیَان احکام تو پتہ آو تَمہ خِیْطَرہ اکَہ وقت مقرر کرنہ
 وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّبَيِّقَاتِنَا چنانچہ ژار تہ مَنجَب کر حضرت موسیٰ ان ستھہ (۱۵۵) زَن
 پتہ قومہ منزہ سانس مقرر کر قس و قس پیٹھ اِسْم نَعْبِیہ انہ خِیْطَرہ چنانچہ توت واتھہ یُوْر تَمو خدایہ سُنَد
 کلام۔ خدایہ سُنَد کلام یُوْر تھہ لَگ ونہہ اِسْم تَہَّہ پاٹھ بہہ کَہ یہ مَھُو خدایہ سُنَد وی کلام لہذا یُوْر تان نہ اِس وارہ
 کارہ پتہ نیوا مَھُو اللہ تعالیٰ و چھن توتان گرونہ اِس پڑھ اَمہ گستاخی سَبِیہ آو تَمَن بَنِیْل۔ ہر کن پِچَکَہ ترٹھ۔
 ساری گئے تھی روز تھہ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ اَدَہ یلہ تم بنی اسرائیل رٹ بُلِ قَالَ رَبِّ حضرت
 موسیٰ ان کو عرض اکی میانہ پروردگارہ مہ مَھُو معلومی کَہ تَمَن لُو کن مَھُو سزاد مَن منظور، ہلاک کرن
 مَقْشُوْر مَھُو نہ، کیا زہ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلِ وَإِيَّاي ہر گاہ ژیہ تہ منظور آسہی تلہ کرہ بَھکَہ ژہ
 برو نٹھی تم ساری ہلاک۔ مہ تہ کرہ ہک ہلاک تَمَنی سیت أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا سِیَاژہ کر کَہ
 کیون احمقن ہند ا کہ حرکتہ سیت اِس ساری ہلاک اِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ یہ واقعہ مَھُو نہ مگر چان اکَہ آزما مِیَاہ
 تہ امتحانہ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ تَہَّہ یو امتحانوسیت مِیم ژیہ خوش کرہ نئے تم کرہ بَھکَہ
 مَھُو اِس مَھُو ژیہ خوش کرئے تم تھو؛ بَھکَہ ہدایتس پیٹھ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ
 ژی مَھُو کَہ سُون مالک پَس کر ژہ اِس مَھُو مغفرت۔ اِس مَھُو معافی۔ یہہ گر اِس مَھُو پیٹھ ر ت۔ ژی مَھُو کَہ ر ت
 مغفرت کرہ ون تہ گنہن مغفرت کرہ ونیو آندرہ سیٹھا بہتر۔ بنی اسرائیلو آندرہ مَمُو یہ گستاخی کر تَمَن تہ
 دہ معافی۔ چنانچہ تم ساری گے یہ زندہ آتھہ اَدَہ دعاء س سیت مگر حضرت موسیٰ ان یہ بیا کَہ دُعَا تہ بنی

وَكَتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا أَلَيْكُ ط قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَعْرُوفُ

اسرائیلین ہمدہ جتہ وَاكْتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ بے لیکھ سائے خیرہ دُنْیَا س اندرتہ رت حال بے آخرتس اندرتہ رت حال اِنَّا هُنَا اَلَيْكُ کمازہ پزپاٹ اسمہ کور خلوصہ سان ژے گن رجوع۔ دُنْیَاو آخر تک خیر ژھونڈ حضرت موسیٰ ان پندہ ائمہ خیرہ۔ امہ اندرہ اوس جہند مقصد کہ میانی امت کرتن سارنی اُمتن ہنز سردار تہ مافوق قَالَ اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ مینون عذاب تہ غضب بس چھو سوواتاودہ بوتس لیس بوژہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میان رحمت جتہ تیہ عام۔ واتتہ جتہ سو پرتتہ چیزس فَسَاكُنْهَا ساروی اندرہ کرن بوخمہ رحمتہ سیت خاص سوی امت بے لیکھ بو سورحمت تمنی لوکن ہمدہ خیرہ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ تم خدا بس کھوژن۔ بے آسن مالج زکوٰۃ ودوان۔ بے تم آسن سائین آیاتن پڑہ کران یعنی تم ہمد اعمال و افعال و اعتقادات دُرست آسن۔ اتھہ منزاس احتمال کہہ بہودن اندر تہ مانیرہ ہن بعض اشخاص تم پیتھ بے تعریف صادق بے ہا۔ اللہ تعالیٰ ان فرموؤ مزید توضیح خیرہ کہ امت جتہ حضرت پیغمبر آخر الزمانہ سنزی امت۔ یکن خیریت دُنْیَاو آخرت اللہ تعالیٰ ان عطا کور الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ تم لوکن یم پتہ پتہ آسن پکان، متابعت آسن کران تس پیغمبرس، بس رسول تہ چھو، نبی تہ چھو یم نہ کانسہ نطہ نہ پرمٹ چھو کینہ نہ ہو چھمت چھو کینہ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ تس پیغمبرس بس تم لو کہ لبان جتہ

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلُ لُهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرِمُهُمْ عَلَيْهِمُ
 الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
 عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَ
 اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٤﴾
 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
 إِلَٰذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي

پاس نشہ پنہ نین کتان تورا س تہ انجلیس اندر لیکنہ آمت یعنی نعت تہ صفت تہند کرنہ آمت۔ تمہ
 علاوہ چھو تہند صفت یامرہم بالمعروف وینہم عن المنکر سو پیغمبر برحق چھو تمن نیکن ہند
 حکم کران۔ بیہ چھوک بدیو نشہ منع کران و یجل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبیثات بیہ چھو
 رت رت تہ پاک چیز حلال کران تم تمن پیٹھ حرام آس۔ بیہ چھو تمن پیٹھ ناپاک تہ گندہ چیز حرام
 کران و یضع عنہم اصرہم والان تمن پیٹھ تہند گوب بار یعنی تم سخت احکام تم تمن پیٹھ نافذ
 کرنہ آمت آس و الاغلال الی کانت علیہم بیہ احکام ہنزہ تمہ سختیہ سمہ تمن پیٹھ آسہ برو تنہمین
 شریعتن اندر فالذین امنوا بہ و عزروہ و نصروہ پس تم لو کہ سمو پڑھہ کر اس پیغمبر س
 بیہ کر بھہ حمایت تہ مدد و اتبعوا النور الذی انزل معہ اولیک ہم المفلحون بیہ کر کہ متابعت
 تہ نورس پس نور تمن سیت نازل آور کرنہ یعنی کتاب و سنت، قرآن مجید تہ حدیث شریف تمے لو کہ
 چھہ رستگار تہ کامیاب تم عذاب ابدی نشہ چھو ظ روزن قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
 جَمِيعًا فرماؤ کہ جہہ یار سول اللہ اکی تمام دنیا کیو لو کو پڑ پاٹھ بو چھوس پیغمبر خدا تو ہہ سارنی کن۔
 إِلَٰذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تم خدایہ سہہ طرفہ سینس حکومت تہ بادشاہی سارنی
 آسمانن تہ زمینن منز چھہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تم و رای چھونہ عباد تم سزاوار کانہہ اکھ یعنی و بیئت
 سوی چھو زندگی عطا کران تہ سوی چھو ماران فامنوا باللہ و رسوله الذی الی تم پس کر پڑھہ آس

وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْيَوْمِ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ۗ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۶﴾
مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۵۷﴾
وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ
مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ

کُنس خدائس بیه تسدس آسسی پیغمبرس نئس ان پره پیغمبر چھو الذی یؤمن باللہ وکلمتہ سم پانہ
کُنس خدائس بیه تہندین کھمن پڑھ کر مر پڑھ۔ یعنی باوجود پتھ تھود مرتبہ آستھ چھونہ تمن خدائس،
خدایہ سندین پیغمبرن تہ کتائن ایمان انہ نئس منز کانہ عارہ۔ اکی لو کو جہہ کیا زہ چھوہ خدائس تہ تہندس
پیغمبرس پڑھ کر نئس تہ ایمان انہ نئس منز انکار کران **وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** بیه کرد آس پیغمبرہ
سزمن تابعت دیوہ تہہ و تھ پوراہ را استس پیٹھ ایو۔ بعضی لو کو کر آس پیغمبر برحقہ سزمن مخالفت مگر **وَمِنْ
قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ** بیه چھہ حضرت موسیٰ سندہ قومہ منزہ اکھ جماعتھہ
ہزج۔ دین نچ یعنی اصلاح و تھ ہاوان۔ بیه چھہ تمی ہزہ سیتی پنہ نین معاملاتن تہ بین لو کن ہندین
معاملاتن اندر عدل و انصاف تہ کران **وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا** آسہ کور اکھ انعام بنی
اسرائیلن پیٹھ بیه تہ کہہ تمن منز اصلاح و انتظام قائم کرنہ خیطرہ کرہ آسہ تمن الگ الگ بھن بڈین ہند اولاد
آسہہ مناسبہ باہ حصہ تہ باہ قبیلہ پرستھ اکس قبیلس کور آسہ اکھ اکھ سردارہ مقرر تہندہ مگرانی خیطرہ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ بیاکھ انعام کور آسہ تمن کہہ
سوز آسہ وحی حضرت موسیٰ آس کن یلہ تمن نئہ پنن قومن آب تھونڈ۔ تمومونگ وعا خدائس آہ
خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرموک کہہ تھنڈ دیوہ پنہ آسہ لورہ سیت فلان نئہ اودہ یلہ تموتھ کنہ تھنڈ و تھ
فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا آتی پھت تم کنہ منزہ باہ ناگ راد۔ تمنی بنی اسرائیلن ہنزہ بھن

مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ
 الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوٰى طُكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ
 مَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَاذْقُلْ
 لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ
 شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ ۗ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ
 لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلْ

قبیل ہنزہ گرنز قد علم کل اناس مشربہم چنانچہ پریتھ قبیلن پرزہ نو پین من گھاٹ تہ بارہ
 بل یعنی آب حاصل کرچ جائے و ظلنا علیہم الغمام و انزلنا علیہم المَنَّانَ وَالسَّلْوٰى
 بیاکہ انعام گوراسہ تمن پیٹھ یہ کہ تر و اسہ تمن پیٹھ ابرک سایہ۔ بیاکہ انعام کوراسہ تمن پیٹھ کہ آسانہ
 و دل اسہ تہندہ کہینہ خطرہ خزانہ غیبہ منزہ آسانی خوانچہ تھہ منز تیار کر تھہ اوس آسان باثمازہ ترنجبین۔
 وندہ اوسکھ یوان کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھیو تمونفیس چیز و منزہ تم اسہ توبہ عطا کردہ
 مگر آتھ منزہ کر تمون سانس کھمس برخلانی۔ و ما ظلمونا و لکن کَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
 تمہہ نافرمانی سیت تمون اسہ کانہ نقصان و اتونہ، بلکہ آس تم پان پانس ظلم تہ نقصان و اتاوان و اذقُلْ
 لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ بیہ کرو یاد سو وقت یلہ اسہ بنی اسرا یملن کھم گور بسو بیٹھ شہرس منز
 تھہ ناوچھواریجا و کُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ بیہ کھیو آتھ شہرس منز سیمہ جاہہ توبہ خوش کرہ
 وَقُولُوا حِطَّةٌ بیہ آکھ کھم گرنہ آتھ شہرس منز اژان اثران و نزہ حطہ، یعنی اس چھہ توبہ کران
 وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بیہ اژرہ شہر کہ دروازہ منز کلہ نو مراوت عاجزی سان نغفر لکم
 خَطِيئَتِكُمْ تمہہ سیت گرو اس بخشایش تھندین بروظھین گنھن سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بیہ گرو
 اس بیجو کارن زیادہ مہربانی عطا
 پس بدلو و تمون لو کو تمون اندرہ ظلم کوراکھ لفظا پس خلاف اوس تھہ لفظس پس تمن تجویز کرنہ آیود۔

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَظْلِمُونَ ﴿۷۲﴾ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۷۳﴾
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا لَا إِلَهَ مَعَهُمْ أَوْ

تمن آیہ ورنہ کہ حطہ ونبی، تمک معنی اوس سائین گنہن سپن بخشائش، تھہ بدل دون تموجہ فی
شعرا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ پس سوز اسہ تمن پیٹھ
عذابہ آماکھ طرفہ امی وجہہ کہ تم آس ظلم کران یعنی تعیل احکام آس نہ کران وَسَأَلَهُمْ بِيه
پر رٹھو ہتھ یار رسول اللہ آتہ زمانہ کین یہودن عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تمہ
شہرہ کین لو کون ہند حال یمہ شہرک ناڈا ایلہ ہجو۔ پس شہر بحر قلمزہ کس بٹھس پیٹھ واقع اوس۔ شہر
مدیس تہ کوہ طورس منز باگ تمہ شہرک لوکھ آس دریاہ کس بٹھس پیٹھ بسنہ موکھ گاڈہ بکار کران زیادہ۔
تمنی اوس بٹھ وارہ دوہ گاڈہ رٹھک منع آمت کرنہ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ بیلہ تم بٹھ وارہ دوہ گاڈہ
رٹھ کس کھس اندر حدہ ڈلان آس إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا بیلہ بٹھ وارہ دوہ
تمن نغہہ گاڈہ ہمزہ یوان آسہ آہس پیٹھ ووتلٹھ کلہ آہہ نغہہ ہیور کھارتھ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا
تَأْتِيهِمْ بٹھ وارہ وراے بئن دوہن آسہ نہ گاڈہ تمن بٹھ یوان کینہہ۔ تمن دوہن آسہ بیس طرفس کن
گروہان کَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تھہ پانٹھ آس آس تمن آزمائش کران حکایازہ تم
آس نافرمان وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا لَا إِلَهَ مَعَهُمْ عَدَا بَاسِدِيدًا بیه

مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ أَلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿١٦٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ
السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٥﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ سَوْمٍ مُّهِمٍ سَوَاءٌ الْعَذَابُ إِنَّا رَبُّكَ لَسَرِيعٌ

پر ژھڑیو کہ حض تمہہ وقتک حال تہ یلہ تمہو بنی اسرا نیلو آندره اک جماعتن وون نتھہ جماعتس سم نافرمان
نصیحت کران آس کیازه چھوہ تمہہ تمن لوکن نصیحت کرنہ سیت پئن وقت ضائع کران سم عنقریب اللہ
تعالیٰ نافرمانی ہندہ سبہ ہلاک کرہ وون چھوہ نہ کڈر عذابہ کرہ وون چھوہ قَالُوا مَعذِرَةٌ أَلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ تمہو نصیحت کرہ وون دو دو یکھہ، آس چھہ سم ن نصیحت کران نتھہ آس تہندس پروردگارس نشہ عذر
پیش کر تھہ بری الذمہ سپد و سیدہ دیوہ تمن سانہ نصیحت کرنہ سیت کینہہ اثر سپدہ تہ تم روزن بٹہ وارہ دوہہ
تکار کرنہ نشہ پتھہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ نَسِ يَلَهُ تمن موٹھہ تہ سوڑوی سمہ سیت تمن وعظ تہ نصیحت
کرنہ یوان اوس یعنی تم زود نہ پتھہ نافرمانی نشہہ اُنَجِّينَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ اَسہ دیت نجات تمن
سم امہ بیچھہ کامہ نشہہ تمن منع کران آس وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ تمن نجات دتھہ
کر اَسہ گرفتار تم لو کہ سمو ظلم کور سخت بیچھہ عذابہ سیت ہما کَانُوا يَفْسُقُونَ تہ کیازه تم آس نافرمانی
تہ عدول حکمی کران فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ نَسِ يَلَهُ تموزیادہ سر کشی کر باز آئی نہ تمو بیچھہ کامیو نشہہ
سمو نشہہ تمن منع کرنہ اوس یوان قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اَسہ کور تمن مٹھ صورت۔ حکم کور تمن کہہ
سپد و اندر ذلیل وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ سَوْمٍ مُّهِمٍ سَوَاءٌ الْعَذَابُ
بیہ کرو سو وقت یاد یلہ اعلان کور تہندس پروردگارن کہ ضرور کرہ مسلط سو تمن بہودن پیٹھہ سمو گستاخی تہ
نافرمانی کر قیامتس دو مس تان تھین حاکمن سم تمن سخت سخت عذابو سیت تکلیف و اتاوان آسن

الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۰﴾ وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْثًا
 مِنْهُمْ الصُّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ
 وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۶۱﴾ فَخَلَفَ مِنْ أَجْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا
 الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا
 وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهَا يَأْخُذُوهَا أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ
 الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّارِ

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيمُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۰﴾ پڑھا پھند پروردگار چھو بیلہ سوڑھ سخت عذاب کرہون
 تہیہ چھو سیئہ مغفرت کرہون تس تس نافرمانی نشہ بازایہ وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْثًا ۖ بے گره اسہ
 تمن دنیاس اندر واریہ جماثر مِنْهُمْ الصُّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ چنانچہ اؤ آس تمواندرہ نیکو کار
 تہیہ آس اؤ تھ بدل یعنی بدکار وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اسہ کر تمن بدکارن
 تہ آزابش رتو چیز وسیت۔ صحت تہ دولتہ سیت بہ پچھ چیز وسیت یعنی بیماری و فقرہ سیت تھ تمی سیت
 پچھ کامیو نچہ پچھ روز تھ اسہ کن پھیرن تہ رجوع کرن۔ کیا زہ کنہ پچھ خوشحالی، صحت و غنا باعث
 ہدایت بنان، تہ کنہ پچھ بد حالی تہ فقر و بیماری باعث عبرت بنان۔ یہ اؤس حال تہندین اسلافن ہند مگر
 فَخَلَفَ مِنْ أَجْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ ۖ نہس سپد تمن پتہ تہند خلف تہ
 جانشین تھی لو کہ تمہ تورات تمن نشہ حاصل کر تو پتہ آس امی توراتک آیات کن کن ستمہ اونی زندگی
 ہند سامان حاصل کران۔ تو پتہ یڑھ بدیانتی کر تھ اتھ کنہس حقیر زمانان وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۖ بے آس
 بے پروائی سان زبان اسہ چھونہ کانہہ پروا۔ اسہ سپدہ سارنی گنہن بخشایش کیا زہ اسے چھو خدایہ سُد پتو
 خدایہ سُد یارتہ دوست وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهَا يَأْخُذُوهَا تم چھہ پنہ بے باکی تہ گناہ حقیرانہ نس پیٹھ
 تیوت ڈاڈ کرہون۔ کہ ہر گاہ آیندہ دوبارہ دین کنہ نس پیٹھ تمن کینہہ مال حاصل سپدہ سؤ کرن حاصل پتھ
 روزنہ تمہ نشہ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ کیاہ تمن

الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ
بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُنْصِيْعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۱۴۰﴾
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ؕ
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۴۱﴾ وَ
إِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

نشیہ چھنا تمہ کتابہ ہندہ سمہ مضمونک عہد آمت ہینہ کہ خدائیس کن لاگن نہ کانہ کتھاہ واقعہ پزہ کتھہ
ورای۔ تھہ بدل کم کم اہز چیز نور او تمو، تمے لاگھہ خدائیس کن۔ حالانکہ تمو پور سو عہد نامہ ئیس تورا تس
منز لیگھتھہ اوس مگر تمو کور نہ دنیا ک متاع فانی حاصل کرنہ خیطرہ تمیک کانہہ پروا **وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ
الْآخِرَةَ خَيْرٌ**
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ حالانکہ آخر تک گھرہ چھو بہتر تمن لوکن ہندہ خیطرہ یم خدائیس کھوژن۔
تھہ کامیہ تہ پیچھ عقاید و نشیہ روزن ہتھ۔ ائی بہودو کیاہ توہہ چھناہ کتھ فخرہ تران **وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ
بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُنْصِيْعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ** بیہ تم لوک بنی اسرا نیلو آندرہ زورہ تھہہ کر تھہ
چھہ اتھہ کتابہ یعنی تورا تس بیہ چھہ نمازہ ہنز تہ پابندی کران اس کرو نہ ہر گز تمن نیو کارن ہنز مزور تہ
ثواب ضایع۔ تم پائس امہہ طریقہ اصلاح کرن تہ سنہا کن **وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا
أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ؕ** بیہ پاویو کہ ژئیس تمن بہودن یلہ امہہ کوہ تھودن تل تمن پیٹھ تراونہ خیطرہ۔ تھندین
کلن نزدیک تھو اس سنا تک پاٹھ تمن سپد یقین کہ بیہ پو اسہ پیٹھ **خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** تھہہ حائل آندر فر موو کہ اسہ کہ جلد کرو قبول بیہ کتاب یو سہ امہہ توہہ عطا کر۔ مضبوطی
سان۔ بیہ کرو تم احکام یاد تم اتھہ کتابہ منز چھہ پیٹھ تھہ متھی تہ پر ہیز گارہ عوتے نے کرو تلہ تراوودہ بیہ کوہ
توہہ پیٹھ۔ بیہ گو خاص عہد ئیس بنی اسرا نیل کرناونہ آس آمت جبراً۔ امہہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ بیان کران
عام عہد ئیس ساری بنی آدم انسان آس کرناونہ آمت **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ** بیہ پاویو کہ ژئیس سو وقت یلہ تھند پروردگارن عالم اروا اس منز حضرت آدم علیہ السلام

وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۗ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّ
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿۴۲﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا
أَشْرَكْنَا آبَاءَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ الْمُبِطُونَ ﴿۴۳﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ وَلَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿۴۴﴾ وَاتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْ
مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿۴۵﴾ وَلَوْ شِئْنَا

سندہ ہشتہ منزہ تہند اولاد، تہندین اولادن ہند یو ہشتو منزہ تہند اولاد نیر کڈ۔ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
بیہ تھاون غے پان پانس پیٹھ گواہ۔ سارنی پر ژھن اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیاہ یو چھوس نا تہند پروردگار قَالُوا
بلی ساروی دوپ بیشک ژی ہٹوک واقعی رب سون۔ امہ وقتہ آس حاضر کرنہ امت ساری ملایک
بیہ مخلوقات۔ ساروی دوپ شَهِدْنَا آس ساری ہتھ امک گواہ۔ یہ سو روی اقرار تہ گوانی آیہ رنہ
أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ہتھنہ تہہ و تہہ ہیکو قیامتگ دوہ پزیاٹ آس آس امہ
توحیدہ نعہہ بالکل بے خبر اَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكْنَا آبَاءَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ بیہ ہتھنہ تہہ و تہہ
ہیکو ہٹوک کر نہ مگر سانیو مایو ہڈ ہو۔ آس آس تہند اولاد تھن پتہ۔ امہ یلہ و تہہ تم بی کران آس تہ
پک تھنزی و تہہ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبِطُونَ کیاہ امہ کر کہ ژہ ہلاک تھن غلط کارن ہندہ پیچھ
کامہ سببہ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آس ہتھنہ پانڈ ویرھہ ناو تہہ ہن آیات بیان
کران۔ ہتھنہ تم حقیقت معلوم سپدنہ پتہ شرک و کفرہ نعہہ پتہ روزن وَاتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ
آیَاتِنَا فَانْسَلَخْ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ بیہ ہر و ہز تھن ہو ہون پیتھ تھ شخصہ سند
قصہ کس امہ پنہ نین آیاتن ہند علم عطا کورمت اوس۔ یعنی ہلیم با عورا۔ کس دراؤ سوتھو آیا تو منزہ یعنی
تھن آیاتن ہند یو ہدایا تو موجب پنہ۔ مال دنیاء ک طمعن کڈس کل او پتہ لگس پتہ شیطان۔ کس سپد سوتھو
و لیتو آندہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہر گاہ آس یرھہ ہو تھود کرہ ہو تھ شخصہ سند مرتبہ۔ ہر گاہ سوتھو

لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ
 كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ
 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ
 الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۶۷﴾ سَاءَ مَثَلًا لِقَوْمِ الَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا ﴿۱۶۸﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ
 فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۶۹﴾

آیا تو تہ ہدایا تو موجب پھر ہا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مگر سو سپد مایل تہ خام طمع دُنیا س کن وَاتَّبَعَ
 هَوَاهُ بیہ پوک سو پتہ پتہ نفسہ چن خواہش۔ زنانہ ہندس ونہ نس پیٹھ کرن عمل تہ آیا تو موجب کرن
 عمل تراون فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ آیا تو موجب عمل کرن تراونہ موکھ بوسہ پریشانی تہ ذلت تس و لہ
 آہ تمہ اعتبارہ جھہ تسز۔ مثال ہون سز ہش مثال إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ہر گاہ ژہ
 تس چہ کر کہ، تس پیٹھ حملہ کر کہ، زیو کڈہ نیمہ۔ ہر گاہ چہ کر ہس نہ توتہ کڈہ زیو نیمہ۔ یعنی تس چیز ہوس
 آڈرنہ منز لازم آمت آسہ تھاونہ سو چیز تراونہ سو کونہ حالتس منز۔ تھے پاٹھ تس آڈرنہ منز خست تہ
 ذلت تھاونہ آسہ آمز سو تھے تراونہ کونہ صور تس منز ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 جیے جھہ مثال تمن لو کن ہنز سمو لہز زان سان آیات یمن منز توحید و رسالتہ دلیلہ جھہ فَاقْصُصْ
 الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تس بیان کرو تم قصہ تسمن بہو ذن دیوہ تم فخرہ بین سَاءَ مَثَلًا لِقَوْمِ
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا تھقیقس منز جھہ سیٹھا جھہ مثال تمن لو کن ہنز سمو
 سان آیات اہز زان۔ تمہ سیت و اتنو کہ نقصان تہ ظلم پان پانس مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ تس
 اللہ تعالیٰ ہدایت کرہ سو می جھو ہدایت لہون وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تسمن سو و تہ
 لغیر ذالہ تس جھہ تے ابدی تاوانس منز پنہ وال تمن لغیر ہدایتک توقع تھاون یا تہندس بے ہدایت روزہ
 تس پیٹھ غمگین سپدن مٹھو بے کار۔ تم لوک یلہ نہ پنہ عقلہ ہندین توتن کامی جھہ ہیوان تمن کپار بنہ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿۹۹﴾
 وَبِاللَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ

ہدایت۔ لہذا جہنم تہنہ دلچ جای جنم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ اسے جہنم پیدہ کرمت جہنم منروزہ خیرہ واریاہ شخص جنوا ندرہ تہ انسانا ندرہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا تمن ناوہ خیرہ دل چھو۔ مگر زان چھو کہ نہ تکان کینہہ۔ تم جہنم تمیک ارادے کران کہ اسے گوڑھ فخرہ تزن کینہہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ناوہ خیرہ چھ اچھ تمن مگر درینٹھ چھ نہ یوان کینہہ وَلَهُمْ اذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ناوہ خیرہ چھ گن تمن مگر بوژن چھ نہ تکان کینہہ۔ پڑتھ یام کنن گروہان چھ تام جہہ گوش دوان اُولَئِكَ كَالْإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ غرض تم لو کہ چھ آخرتہ نشی بے توجہ آسئس اندر گن تہ چارپای بلکہ تہنہ خوتہ یژڈلمت اُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ تمے لو کہ گئے غافل کیا زہ تم چھ باوجود جس دت تہ بے حسی لاگان۔ غفلت چھ مرضوا ندرہ اکھ بوڈ مرضاہ۔ امیک علاج چھو خدایہ سندیاد وَبِاللَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا خدایہ سی جہہ رت رت ناؤئس آسویہ ای مسلمانو تموی ناؤوسیت گس آلو دوان، سندیاد کران۔ تم جہہ حدیث شریف منز نمہ نمت (۹۹) ناؤ بیان کرنہ آمت۔ بیہ چھو آمت حدیث شریف منزئس تم اسماء یاد کرہ سوژاؤ جتئس تمون ناؤوسیت آسویس چھ پاٹھ آلو دوان : يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا مَلِكُ يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامٌ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا غَفَّارُ يَا قَهَّارُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيْمُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ يَا مُعِزُّ يَا مُدِلُّ يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا لَطِيْفُ يَا خَبِيْرُ يَا حَلِيْمُ يَا عَظِيْمُ يَا غَفُوْرُ يَا شَكُوْرُ يَا عَلِيُّ يَا كَبِيْرُ يَا حَفِيْظُ يَا مُقِيْتُ يَا حَسِيْبُ يَا جَلِيْلُ يَا كَرِيْمُ يَا رَقِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا وَاسِعُ يَا حَكِيْمُ يَا وَدُوْدُ يَا مُجِيْدُ يَا بَاعِثُ يَا شَهِيدُ يَا حَقُّ يَا وَكِيلُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِيْنُ يَا وَلِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُحْصِيُّ يَا مُبْدِيُّ يَا مُعِيْدُ يَا مُحْيِيُّ يَا مُمِيْتُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا وَاجِدُ

فِي أَسْبَابِهِ سَيُجْرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸۰﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً
يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۸۱﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۲﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي
مَتِينٌ ﴿۱۸۳﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ

يَا مَاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا صَمَدُ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ يَا مُؤَخِّرُ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا وَالِي
يَا مُتَعَالِي يَا بَرُّ يَا تَوَّابٌ يَا مُنْتَقِمٌ يَا عَفُوٌّ يَا رُؤُوفٌ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
يَا مُقْسِطُ يَا جَامِعُ يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيُّ يَا مَانِعُ يَا نَافِعُ يَا نُورُ يَا هَادِي يَا بَدِيعُ يَا بَاقِي يَا وَارِثُ
يَا رَشِيدُ يَا صَبُورُ ﴿۱۸۰﴾ وَذُرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْبَابِهِ ﴿۱۸۱﴾ تراویو کہ تم لو کہ تم ڈلان تہ تجہ و تہ پکان
جہہ تہندین ناؤن اندر یعنی اللہ تعالیٰ اس جہہ پائے پنہ طرفہ ناؤ ٹھراوان یا تہند ناؤ جہہ تہس ورا ی بین
پیٹہ استعمال کران یا جہہ پیٹہ صفین ہند ناؤ تہس پیٹہ استعمال کران۔ تم سیت مہ تھاو و تعلق سَیُجْرُونَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸۱﴾ بروٹھ پکن تلن تم نتیہ تمیک یہ تم کران جہہ ﴿۱۸۰﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ
وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۸۱﴾ جن تہ انسان اندر جہہ ساری ڈلتی بلکہ جہہ سانیو مخلوق اندرہ اکہ جماعتہاہ تم دین حق
یعنی اسلامہ موجب جہہ لوکن و تہہ ہاوان بیہ جہہ پنہ نین لوکن ہندین معاملاتن اندر عدل و انصاف
کران ﴿۱۸۱﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۲﴾ بیہ سمولو کو اہز زان سان آیات تم
کھا رو کہ اس آہستہ آہستہ نا فرمانین اندر سیٹھاہ تھو دتتہ پاٹھہ جہہ پاٹھہ نہ تمن زانہ نومی جہہ یوتان تم
ناہ جہہ تہس نزدیک سہدن ﴿۱۸۲﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۱۸۳﴾ بیہ دمہ یو تمن مہلت، جلدی کر کہ نہ گرفتار
عذاب دُنیاہس اندر۔ پزیاٹ میون تدبیر جہو سیٹھاہ مضبوط ﴿۱۸۳﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ
إِلَّا نَذِيرٌ مَّتِينٌ ﴿۱۸۳﴾ کیا سمولو کو کرنا غور تہ فخر کہہ آخر آیات اللہن انکار کران۔ تمہ کہہ خراب نتیہ نشہ
غافل روز نک کیاہ سبب جہو۔ تم آیات پیش کرہ و ن صاحب نعوذ باللہ بے عقل جہو نہ تمن کتہ قسمہ
مثر جہو نہ، عمر گیہ وہ تو بہ تمن سیت روز تہ تہند حالات، تہمز عقل تہ گا ہ جار، امانت تہ دیانت
و چھان۔ تمن جہو اللہ تعالیٰ ان عقل کل عطا کورمت۔ تم جہہ مگر نا فرمانی ہندہ سزاو عذابہ نشہ لوکن نین

مُتَّبِعِينَ ﴿۱۸۴﴾ أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
 اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ
 حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۵﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۗ وَ
 يَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۸۶﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
 مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ يُضِلُّ
 مَن يَشَاءُ ۚ وَلَا يَسْتَأْذِنُ بَشَرٌ شَيْئًا مِنْهُ ۗ

پاٹھ نیم کرہ ون۔ یہ گوئس صاحبہ سند حال بس صاحب آیات ہتھ آؤ۔ ورنہ نیس نیش ہتھ آؤ سوزات
 پاک گوئی بس ساری جہانک مالک تہ شہنشاہ مطلق چھو اؤ لکم یظنرؤا فی ملکوت السموات والارض
 و ما خلق اللہ من شئی کما سمو و چھنا آسمان و زمینہ کس انتظامس تہ سلطنتس کن۔ یہ تمویجز و آندرہ کئی چیزس
 کن تم چیز اللہ تعالیٰ ان پیدہ کرمت چھہ۔ کتھہ پاٹھ چھو تھند انتظام مضبوط تہ حکم۔ کتھہ پاٹھ چھو پر تھہ
 چیزاہ پر تھہ ذراہ تھندس کمال قدر کس پیٹھ گواہی ووان۔ تھس شہنشاہ مطلقہ سند ارشادات یم تھس
 پیغمبر برحقہ سند واسطہ تمن و اتمت آن۔ تے شوبہ نہ نظر انداز کرن۔ وآن عسیٰ ان یكون قدا اقرب
 اجلہم۔ یہ کرنا تمو غور تھہ کن کہ تھندہ مرنگ وقت ما آسہ نزدیک و و تم۔ تم کہہ تھہ بن خدا بس
 برو تھہ کن۔ لہذا ہرہ ہا تمن مر نہ پتہ عذابہ نیشہ بچہ نچ صورت کرن۔ یلہ نہ قرآن مجیدہ سیت، یوسہ
 سیٹھاہ بڈ مقدس کتاب چھہ تمن کینہہ اتر گڑھہ، یلہ نہ تم قرآن مجیدس ایمان ان تہ پڑھ کرن فبای
 حدیث بعدہ یؤمنون قرآن مجیدہ پتہ کتھہ کتھہ تہ کلامس ان تم ایمان من یضلیل اللہ فلا
 ہادی له حقیقت چھہ یہ کہ بس اللہ تعالیٰ و تھہ راورہ کس چھو نہ و تھہ ہا و ون کانہہ و یذرہم فی
 طغیانہم یعمہون اللہ تعالیٰ چھو تمن کافرن تراوان یلہ تھہ تم سر کشی آندر سر گردان سپدن۔ تو پتہ
 دیکھ سزا کہ وٹ۔ لہذا نہ سپدن تھند دل مبارک غمگین یار رسول اللہ یسألونک عن الساعۃ ایان
 مرسہا پر ژھان چھہ تم توہر یار رسول اللہ قیاس متعلق کہہ گر چھو تمہہ برپا سپدنگ تہ واقع سپدنگ
 وقت قل انما علمہا عند ربی تہہ فرما دیو کہ تمیک علم چھو نہ میانس پروردگارس و رای کانہہ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكُمْ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ
عَمَّا قُلِّدْنَا لَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۷﴾
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ
كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ
السُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِي

لَا يُخَلِّقُهَا يَوْمَئِذٍ إِلَّا هُوَ ظاهر کرہ نہ تھے قیاس تہ پنے نس و قس پیٹھ کا نہ تہ تس و رای۔ تمکھ ظہورک
وقت چھونہ بیانے کرنہ آمت کا نہ نعہ کیا زہ ثَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُو چھو سیٹھا ہوناک
واقعا تہ حادثا ہاکہ آسمان وز میس منز یعنی تمن دون ہندین بسہ ونین پیٹھ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً آمہ موکھ
ایوہ نہ سو قیامت توہہ مگر ہیکہ تہ معکہ تہزہ بے خبری منز یَسْئَلُونَكُمْ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَمَّا پر ژھان تہ
چھہ تم لوکھ توہہ آمہ قیامتک۔ زَن توہہ سچ پور خبر چھہ قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ لہذا فرما یو کہ تہہ
بصراحت کہ تمک حکم چھونہ کا نہ خدائس و رای وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوکھ چھہ یہ سٹھ
زانی کہ بعضی علوم چھہ اللہ تعالیٰ آن تھاومت پنے نس خزانہ علمس آندر محفوظ۔ حضرات انبیاءن تہ چھونہ
تمن ہند تفصیل باونہ آمت۔ قیامتک واضح سپدنگ خاص وقت تہ چھو تموی چیز و آندرہ اکہ چیز قُلْ لَا أَمْلِكُ
لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فرما یو کہ تہہ یار رسول اللہ قیامتک معالج چھہ تھی، سُو چھو
مخصوص خدایہ سدسی ذاتس سیت۔ مہ چھہ پائس متعلق پیش ایوہ ونین حالان ہنز تہ کہینہ خبر۔ یو
چھوس نہ مالک تہ اختیارہ وول پنے ذاتہ خطیرہ نہ کئہ نفیس تہ نہ کئہ ضررس مگر تڑی ہنہ ایشمن اللہ تعالیٰ
یڑھہ۔ یعنی یو ہیکہ نہ پنے نس ذاتس کا نہ نفع و اتاوتھ۔ نہ ممکن ہنن ذات کئہ نقصانہ نشہ محفوظ تھاوتھ
تہ بچاوتھ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ہر گاہ یوزانان آساغچ پر تھہ کتھاہ تلہ
واتاوتھ ہا پائس تم تم خیر تہ فاندہ یم نہ یو سو روی علم غیب نہ آسنہ موکھ و اتاوتھ چھوس ہکان۔
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ تلہ آسہ ہانہ مہ واتان کئہ قسمک تکلیفہا، نہ آسہ ہامہ پیش یوان کا نہ

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
 فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
 دَعَا اللَّهَ رَبُّهَا لِيُنزِلَ إِلَيْهَا صَالِحًا لَكُنَّ ذُنُوبًا كَثِيرَةٌ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٨﴾
 فَلَمَّا آتَاهَا صَالِحًا جَعَلَهُ لَهَا شُرَكَاءَ فِيهَا أَتَتْهُمُ قَتَلَى اللَّهِ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨٩﴾ أَيْشُرُّوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ ﴿١٩١﴾

ناخوشگوار حالتہاہے اِن اَنَا الْاِلٰہُ الَّذِیْ رُوِّیْتُ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ یُوْجُوسِ مَحْضِ شَرِیْعَتِکُمْ حَمِّ وَاِتَاوَتْھِمْ نِیْمَ کَرُوْنَ۔ تہ بشارت دودہون تمن لو کن تم پڑھ کرن تہ ایمان آن۔ یوئیک اصل مقصد چھو تشریحی امورن ہند علم اسن تہ کورمہ اللہ تعالیٰ ان عطا بکمال پتھ رُود امور تو متین ہند علم سو چھونہ نبوتہ کیولوازمو آندرہ۔ تمہ آندرہ ایسٹن اللہ تعالیٰ ان یُوْثِھ تیرہ ہن کرن عطا زورہ تہ زبردستی سیت بیكونہ سوکانہ اکھ خدائس نشہ حاصل کر تھ ہُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ سُو پروردگار گو سوی تم توه پیدہ کر وہ اکی ذاتہ نعیم، سو گو حضرت آدم علیہ السلام وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا تمی اسمہ ذاتہ منزہ کوزن پیدہ جورہ جہند یعنی حضرت حواء لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا بیٹھ سوا لقت تہ قرار رُتہ تِس سیت فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ اودہ یلہ در کمال لطف وانبساط حضرت آدمن پان پُتن وول حضرت حواء س یعنی ہجستری کرن تِس سیت سوسپز باردار، تِس حمل ابتداءس آندر لو توی اوس، چنانچہ سو بیٹھ آس سواورہ یور پتھہ بیان فَلَمَّا أَثْقَلَتْ تمہ پتہ یلہ چہ سبہ دودہہ خو تہ دودہہ بڈنہ سیت سو گو بے یہ تم لگ دوشوے باہرنہ۔ دہنہ لگ بے کیاہ سناقصہ چھو۔ دَعَا اللَّهَ رَبُّهَا دوشوی باژومونگ اللہ تعالیٰ اس یعنی پنہ نس پروردگار س یہ مشکل گوژھ آسان سپدن لکن ایتنا صالِحًا لَكُنَّ ذُنُوبًا كَثِيرَةٌ مِنَ الشَّاكِرِينَ دہنہ لگ سانبہ پروردگارہ ہر گاہہ اودہ عطا کرہ ہن رُت فرزندہ اس سپد و ضرور شکر گزارو آندرہ فَلَمَّا آتَاهَا صَالِحًا تِس یلہ اللہ تعالیٰ ان رُت صحیح و سالم فرزند عطا کر تک جَعَلَهُ لَهَا شُرَكَاءَ فِيهَا أَتَتْهُمُ اُتی لگ بنی آدم خدائس شریک ٹھہراونہ اتھ مہربانی اندر یوسہ مہربانی سو عطا او سٹھ

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِنْ
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَمْ أَرْجُلُ يَمشُونَ بِهَا أَمْ أَلَمْ أَيْدِيَّ بَطِشُونَ

کران فَفَعَلَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ پنھو سیٹھا ہاند تہ بالا منرہ تہ پاک تمہو ساروی شرکچو کتھو
نہیہ یہہ نس گن بنی آدم لاگان چھہ۔ ایشُرُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیاہ تم بنی آدم
بھاس تے چیز شریک ٹھہراوان سمہہ کینہہ تہ ہمکن پیدا کر تھہ۔ تم چھہ پانہ مخلوق پیدا کرنہ آمتہ۔
معبود ہیچہ آتھہ سوی بس نہ پانہ مخلوق آسہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ یہہ
ہمکن نہ تم معبودان باطل تمہو آندرہ کانہہ اک سنزیاری کر تھہ۔ نہ ہمکن تم پنہ نس پانس کانہہ یاری کر تھہ
بین یاری کر نچ کیاہ چھہ کتھی وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ کم ہر گاہ ہتھہ تمین معبودان
باطلن ہنہ کامہ خیطرہ نادو یو تم ہندس آلوس تہ ناس اجابت ہمکن نہ کر تھہ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ تھندہ خیطرہ چھہ دوشوے امر برابری۔ ہتھہ تمین نادو توتوتہ تم ہند آلو
بوزن نہ یا تھو پہ کر تھہ روز توتلہ چھہ کتھی إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ
ای مشرک کو پڑ پاتھہ تمین تمین ہنز تھہ عبادت تہ پرستش کران چھوہ خدایس ورا ی تم چھہ ہند ی پاتھہ
خدایہ سند مملوک تہ بندہ، پانہ خدایہ سی گن محتاج پرستھہ چیزس اندر ہند ی پاتھہ فَادْعُوهُمْ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بس دیتو ہتھہ تمین نادو تمین پڑہ ہندس تھہ ناس اجابت کرن
چھوے ہتھہ ہندس معبود آسکس اعتقادس اندر پڑہ ہندس آلوس کیاہ کرن تم اجابت تمین چھہ تم
تان پورہ سموسیت کام چھہ یوان کرنہ وچھتو أَلَمْ أَرْجُلُ يَمشُونَ بِهَا أَمْ أَلَمْ أَيْدِيَّ بَطِشُونَ بِهَا أَلَمْ
أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَلَمْ أَأْذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ہتھہ وچھتو وارہ کیاہ کھور چھاتمین سموسیت پلہ ہن

بِهَآءِ أَمْرٍ لَهُمْ آعِينُ يُبْصِرُونَ بِهَآءِ أَمْرٍ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
 بِهَآءِ قِيلٍ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظَرُونَ ﴿۱۹۵﴾
 إِنَّ وَرَآءَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿۱۹۶﴾
 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا

تم کیا آتھہ چھا تمین سموسیت رتھہ بیکہ ہن کینہہ کیاہ اچھہ چھا تمین سموسیت و ہتھہ بیکہ ہن۔ کیاہ گن چھا
 تمین سموسیت بوزتھہ بیکہ ہن کینہہ۔ یلہ نہ سم قوت تمین اندر موجود چھہ لہذا کوسہ کوم بیکن تم تہنز
 کر تھہ قیل فرماو یو کہ ہتھہ یہ تھہ تہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاتھہ تم معبودان باطل پنہ نین پرستش کرہ و نین
 کانہہ نفع و اتاؤس منز عاجز چھہ تھہ پاتھہ چھہ پرستش نہ کرہ و نین کانہہ ضرر و اتاؤس اندر تہ سخت عاجز
 یو چھوس تمین پرستش کرہ نس سخت مُکَر۔ ہر گاہ تمین آتھہ کینہہ چھو ہتھہ کڈ تو پنہ دگ ارمان اَدْعُوا
 شُرَكَاءَكُمْ ہتھہ دیوانہ تمین پنہ نین سارنی شریکن سم ہتھہ معبود برحقس چھو کہ شریک ٹھراوان ٹھہ
 کیدُون تو پتہ کر تو ہتھہ ساری تمین سیت رتھہ میل تھہ یہ تکلیف تہ ضرر و اتاؤنہ کین تدابیرن اندر
 کوشش تو پتہ یلہ تو ہتھہ کینہہ بیکہ فَلَا تُنظَرُونَ تمہہ ساتہ منہ دی تو مہہ اکھ ذرہ تہ مہلت۔ بلکہ گھہ میہ پیٹھہ
 تہ سوروی نور اچلاؤن یہ تو ہتھہ مشورہ کر تھہ مقرر آسہہ کورمت۔ بونہ و چھہ کیا بیکو ہتھہ تہ تہندہ معبودان
 باطل کر تھہ۔ تہندہ ن معبودان باطلن ہنز چھہ تھی تم چھہ بالکل مہمل بے کار۔ پتھہ روڈوہ ہتھہ۔ تو ہے
 اورہ یورمہ تکلیف و اتاؤنہ خیرہ آتھہ کھور ز پتھہ راویو۔ مہہ چھو نہ تمیک تہ کانہہ پروا کیا ہتھہ إِنَّ وَرَآءَ اللَّهِ
 الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ پز پاتھہ میون دوست، مددگار تہ مالک چھو اللہ تعالیٰ سمندہ
 مددگار آسک یو ذبوت چھو تمہہ تم کرمہ پیٹھہ نازل سویتاب یوسہ خیر دارین کین سارنی چیزن جامع
 چھہ۔ سو چھو عموماً نیک بندن پانہ مدد کران۔ حضرات انبیاء گئے نیک بندن ہند سردار۔ بونہ چھوس
 نیو اندرہ اکھ فرد کامل۔ لہذا چھو میون تہ سو یقیناً مددگار وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ
 نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصْرِفُونَ پتھہ روڈوہ تم معبودان باطل سمین ہنز ہتھہ پرستش کران چھوہ معبود

أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ^(۱۹۷) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا
وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ^(۱۹۸) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ
بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ^(۱۹۹) وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ
الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^(۲۰۰) إِنَّ الَّذِينَ

برحقس وراي تم ہيکن نہ توہمہ کانہ مدد کر تھ نہ ہيکن پنہ نين پانن مدد کر تھ۔ مدد کران گيہ بدتھ وان
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ہر گاہ تہہ تمن کانہ تھہ ونہ خيترہ آلودو سو آلو تہندہ تہ ہيکن نہ تم
بوز تھہ کيازہ تھہ پاٹھ نہ تمن نشہ بوز تک تان موجود چھہ تھہ پاٹھ چھہ تمن نشہ و تھنک تان تہ موجود،
تہزن سکن تہ صورتان اندر سمہ آچھہ بناونہ آمزہ چھہ تمہہ تھہ بالکل بے کار۔ تھوک تہہ کھو تھوی تہہ
آنيو پنہ نوي و تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ چنانچہ تہہ تھو کھ تم معبودان باطل و چھان۔
زن تم توہم گن و تھنک چھہ۔ حالانچہ تمن تھونہ ني الواقع و چھنک تو تھي کانہ۔ کيازہ تھنکس منز چھہ
تم و تھتھي ہيکان کينہہ۔ آتھ گن نظر کر تھہ گھہہ تہندين بين قوتن ہند قياس کران۔ پس تھين عاجزان
نشہ کياہ تھوہ تہہ مہ کھو تہ ناوان۔ اٹھہ صرتح پزہ دليلہ بوز تھہ تہ آس نہ تمن کافرن ہندس کفر و
عمادس منز تھہ قسمہ کي سپدان۔ سمہ سبہ ذات مقدس منز تھہ گھہہ تک احتمال اوس۔ سو غصہ تہ
تھہ دور کر نس منز تھو اللہ تعالیٰ فرماوان خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اکی پنہمبر
برحق تہہ کرو اختيار تھہ و زہہ درگزر کر نس۔ بيہ کرو تہہ رٹن کا مين ہند حکم حسب معمول۔ بيہ مہ کرو
التفات جاہلن گن تہہ روزو بدستور پنہن کوم کران وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ بيہ ہر گاہ تہہ وقتہ
شيطانہ سہہ طرفہ کانہہ وسوسہ پيدہ سپدہ توہمہ تھہ منز احتمال آسہ خلاف مصلحت کانہہ کوم کر تک
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تمہہ ساتہ مگو پناہ پنہ نس خدا نيس شيطانہ سہہ شرہ تہ وسوسہ نشہ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
ہر پياٹ سو تھو سو روي بوزہ ون، سو روي زانہ ون، تہند پناہ مگن تھو بوزان۔ تہند مقاصد تہ مطالب
تھو بوزان۔ تھہ پاٹھ خدا نيس گن توجہ کر تھہ شيطانہ سہہ شرہ نشہ پناہ مگن تہندہ خيترہ مفيد تھو تھہ پاٹھ

اتَّقُوا إِذَ امْتَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّوَنَّهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِذَ الْمَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا أَلَا جُنَّتْ بِئْتَاهَا قُلُوبُنَا إِنَّمَا اتَّبَعْنَا مَا يَوْحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّنَا هَذَا بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى

مُحوسبانی خدائیں کھوڑے وینن بندن ہمدہ خیطرہ تہ سیٹھاہ مفید ان الذین اتَّقُوا إِذَ امْتَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا پز پاپٹہ سم خدائیں کھوڑے وین بندہ چھہ بلہ تمن تہ شیطانہ سدہ و سوسگ خیال کڈ اران چھو تم تہ چھہ فور اتمہ ساتہ خدایہ سدس یادس سیت مشغول سپدان، اعوذ باللہ پران۔ خدایہ سند عظمت و جلال، ثواب و عذاب یاد کران۔ **فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ** پس چھہ فور آہنہ آچھہ مؤرنہ یوان۔ تو پتہ چھہ حقیقت تمن پیٹھہ ظاہر سپدان۔ سمہ سیت نہ تمن پیٹھہ خطرک کانہ اثر چھو واتان **وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّوَنَّهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ** شیطان ہندباہ سم چھہ تمن نہ خدایادے پیوان چھو تمن چھہ تم شیطان گمراہی کن کھکھہ پکھ ناوان۔ لہذا چھہ تم گمراہی اندر کھہ قسمہ کمی کران۔ **وَإِذَ الْمَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا أَلَا جُنَّتْ بِئْتَاهَا** بلہ نہ تہہ تمن نشہ تہنہ خواہشہ مطابق کانہ فرمایشی معجزہ پیش کران چھوہ۔ کیا زہ معجزہ پیش کرنگ اختیار چھو خدایہ سی آتھہ تمہ ساتہ چھہ ونان تم ہر گاہ توہہ پیغمبر برحق چھوہ تلہ کونہ انہ توہہ ژار تھہ پنہہ خیطرہ رت معجزہ سمہ سیت تہند پیغمبر آسن ثابت سپدہ ہا قُلُوبُنَا إِنَّمَا اتَّبَعْنَا مَا يَوْحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّنَا تہہ فرماؤکھ کہ میان کوم چھہ پنہہ اختیارہ توہہ نشہ معجزہ پیش کران۔ میان اصلی کوم چھہ کہ بوکرہ نہ پیروی معر تھہ یہ مہ کن وحی سوزنہ یوان چھو میانس پروردگار سدہ طرفہ۔ نبوتہ خیطرہ چھو معجزہ آسن ضروری تمہ خیطرہ چھو ساروی معجزہ و اندرہ بؤڈ معجزاہ یہ قرآن مجید۔ یوہے چھو بے شمار دلیلہ تہندس پروردگار سدہ طرفہ۔ امیک پریتھہ سورہ شریفاہ چھو اکھ اکھ دلیل، پریتھہ آیہ کریماہ چھو اکھ اکھ دلیل۔ پریتھہ آئیں چھہ امی موکھ آیہ ونان کہ سو چھو بجای خود اکھ دلیل۔ کمی چھہ ساری انسان تہ جن قرآن مجیدہ کس آگس آگس آیہ کریمس سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ عاجز تہی

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۲﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۳﴾ وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتَضَّرَّ عَاوَجًا وَخِيفَةً وَدُؤَانَ الْجَهْرِمِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

جھو پر تھ آیہ کریمہ اکھ مجزاہ ہذا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ تمک
 بو فائدہ سے نفع جھو بالفعل تم لوکن ہمدہ خیرہ تم تھ مانان سے پڑھ کران چھہ۔ تہمدہ خیرہ جھو بوڈ
 ہدایت سے رحمت۔ مگر سو فائدہ سے نفع حاصل کرنے خیرہ چھہ کینہہ شرط۔ تم گئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
 فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بلکہ یہ قرآن مجید پر نہ آسہ یوان تلہ آسز وہتہ سوکن دار تھ
 وارہ یوزان۔ بیہ آسزہ پانہ ژھویہ کر تھ روزان تھ توہہ تمک مجزاہ آس نہ تجہ تعلیمات و ہدایات فخرہ
 ترن۔ تھ توہہ مزید رحم ایہ کرنے بیہ فرما و وہتہ پر تھ شخصس کہ اکی شخصہ وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ
 تَضَّرَّ عَاوَجًا وَخِيفَةً وَدُؤَانَ الْجَهْرِمِ مِنَ الْقَوْلِ پنہ نس پر و رگاہ سمد یاد آس کران قرآن مجید پر نہ
 سیت، تسبیح و تہلیل پر نہ سیت پنہ جایہ، آہستہ آہستہ، لوتہ لوتہ، عاجزی سان سے خوفہ سان۔ بیہ آس
 بڈہ بڈہ پر نہ خوتہ کم کم آوازہ سیت پران عاجزی سے خوفہ سان بِالْغُدُوِّ وَالْأَصْلَالِ صبح سے شام سے
 یعنی ہمیشہ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ بیہ مہ آس عاقلو اندرہ تم تمہ ذکرہ تر او ان چھہ بمن ہمد حکم جھو
 تہ بیمہ سیٹھاہ ضروری چھہ۔ حاصل جھو کہ یاد خدا کریمہ وقتہ گڑھہہ عاجزی سے خوف حاصل سپدن آوازہ
 ہمدہ اعتبارہ گڑھہہ نہ سیٹھاہ بڈہ بڈہ یاد خدا کرن، نئس لوکن باعث تشویش سپدہ۔ نہ گڑھہہ بالکل سستی سان
 ہرن سیمہ سیت غفلت سے نندر طاری سپدن نہ گڑھہہ زیادہ لوتہ ہرن یوسہ نہ پائس سے فخرہ تر نئس نہ زیادہ
 بڈہ ہرن سیمہ سیت حضورس اندر فتور ایس اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يَشْكُرُ سَمِ مَلَائِكِ تَهْمَدَسِ خدایہ
 سمد مقرب بندہ چھہ اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ عَنْ عِبَادَتِكَ وَيَسْمَعُوْنَ اَوْلٰى لِيَسْجُدُوْا لَهُمْ وَعِبَادَتِكَ عبادت سے
 نغمہ تکبر کران۔ بلکہ چھہ تہنزی عبادت کران بیہ چھس پر تھ وقتہ پاک گزران، زیوہ سیت یاد کران،
 بیہ چھس سجدہ ودان یعنی تانوسیت سے تہوند یاد کران۔ بیہ آیہ کریمہ پر نہ سیت تہ بوزنہ سیت جھو پرہ
 ونس سے بوزنہ ونین پیٹھ سجدہ مٹہ کھسان۔ حج و لیل چھہ کہ اللہ تعالیٰ جھو فرماوان کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

وَالْأَصَالُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ ﴿۲۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحْسِنُونَ ﴿۲۶﴾

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْمَعُونَ ساری قرآن مجیدس منز چھہ ژوداہ (۱۴) آیہ کریمہ تمن ہندہ پر نہ سیت تہ یوزنہ سیت سجدہ تلاوت چھو مٹہ کھسان۔ امام شافعی صائبش نش چھہ تم پنداہ آیہ کریمہ، سجدہ تلاوت چھو پر تھہ مسلمان مردس تہ زنانہ پیٹھہ نُس عاقل تہ بالغ آسہ مٹہ کھسان۔ دیوانس تہ تابا لغس، یا عذره واجنہ زنانہ پیٹھہ چھو نہ یہ پر نہ سیت تہ یوزنہ سیت مٹہ کھسان۔ سجدک آیہ کریمہ ہر گاہ روان پیہہ پر نہ تلمہ چھو سجدہ مٹہ کھسان ہر گاہ چمکڈت الگ الگ حروف پر نہ یں تلمہ چھو نہ مٹہ کھسان۔ سجدک کانہہ آیہ کریمہ ہر گاہ بے وضو پر نہ ایہ تھہ چھو نہ کانہہ خرچ۔ مگر سجدہ گڑھہ نہ بے وضو دمن۔ بلکہ گڑھہ بیہ کثر وقتہ سمہ ساتہ وضو آسیس سجدہ دمن۔ ہر گاہ نماز اندر آیہ سجدہ پر نہ ایہ سجدہ گڑھہ تھی ساتہ امامہ سجدہ تہ مقتدین ہند تہ ادا کرن۔ سجدہ تلاوت ادا کر تک شرط چھہ شہ ۶ چیز۔ طہارت بدن آسن، طہارت لباس آسن۔ طہارت جای آسن، استقبال قبلہ آسن، ستر عورت آسن بیہ سجدہ تلاوت نیت کرن، تم گے شہ چیز سم نمازہ ہندہ خطرہ ضروری چھہ۔ اتھہ پاٹھہ کانہہ نمازہ سموشیہ چیز دورای دُرست چھنہ اتھہ پاٹھہ چھو نہ سجدہ تلاوت تہ سموشیہ چیز دورای دُرست۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا
 اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ① إِنَّمَا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ
 قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمُ الْآيَةُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ جمادس اندرئس مال دُشمس نشیہ حاصل کرنیہ لپہ تہہ ہجہ مال غنیمت و نان۔
 بیاکھ ناؤ پھو تمیک نفل تمکوی جمع گوانفال۔ چونکہ یہ سورہ شریف منہ ہجہ جمادک تہ مال غنیمتک
 احکام امی مناسبہ آویہ ساری سورہ شریف سورہ انفال ناؤ تھاونہ۔ یہ حکم آویہ بیان کرنہ تمہ وقتہ سمہ
 وقتہ جنگ بدرس منز صحابہ صمیم اندر جوان مجاہدان تہ بڈین اندر اختلاف سپد۔ جو انودوپ کہ مال
 غنیمتک حقدار ہجہ آسی نوڈیو صاحبو دوپ چوہجہ آسہ تہ آس تہند مددگار، لہذا اگرہہ آسہ تہ امہ منزہ حصہ
 ترون، یوہے اختلاف کور تموی پیش در خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمی ساتھ سپدیہ آیہ کریمہ
 نازل یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ اللہ تعالیٰ پھو فرماوان پر ژھان ہجہ توہہ صحابہ صیب یار رسول اللہ مال
 غنیمتہ تقسیمک حکم قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ہجہ فرماؤ کہ مال غنیمت پھو خدایہ سُد کپازہ فتح و
 نصرت عطا کرہ ون پھو سوی۔ بیہ تہندس پیغمبرہ سُد یہدہ واسطہ اللہ تعالیٰ احکام جاری کران پھو
 فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کس کھو ژو خدائس بیہ کرو باہمی تعلقاتن اصلاح۔ پانہ وان مہ تھاوو
 بُغْضٍ وَحَسَدٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حکم ماؤ خدایہ سُد تہندس پیغمبرہ سُد ہر گاہ تہہ
 باایمان ہجہہ إِنَّمَا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ باایمان گئے نہ مگر تمہن نشیہ لپہ
 ذکر کرنہ آیہ خدایہ سز، تہنز عظمت زیر نظر اتہہ چہ شان تہند دل وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمُ الْآيَةُ زَادَتْهُمْ

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝۱۶ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝۱۷ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
 دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۝۱۸ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۱۹ كَمَا
 أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 لَكُرْهُونَ ۝۲۰ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ
 إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝۲۱ وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى

ایماناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ بلکہ پر نہ یوان چھہ تمہیں پیٹھ خدایہ سند آیات۔ ہر ان سے مضبوط چھہ سپدان تہوند ایمان، بیہ چھہ تم پنہ کسی پروردگار سے پیٹھ اعتماد سے توکل کران الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تم با ایمان گئے تھے تم قاسم سے پرپا چھہ تھاوان نماز بیہ کس مال اسی تمہن عطا کور تمہہ منزہ چھہ خرچ کران خدایہ سزہ و نہ اندر أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا تمہے کیا گئے ہر پاٹھ با ایمان لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۝۱۸ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تہندی خیطرہ چھہ تہندس پروردگار سے نشہ تہد درجہ بیہ بود مغفرت سے عزتک رزق کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ یہ ہند مال غنیمتس منز اختلاف کران بیہ نہ ہنزہ مرضی مطابق یہ تقسیم سپدان چھہ اکہ مصلحتہ موجب۔ تھہ پاٹھ توہہ کڈوہ پن پروردگار پنہ گھر ہستی سے شہرہ منزہ اکس خاص مصلحتس پیٹھ یعنی مال غنیمتس اندر ہنزہ مرضی موافق تقسیم نہ سپانس منزہ چھہ مصلحت۔ تھہ پاٹھ تہندہ مدینہ شریفہ منزہ میدان بدرس کن کڈانس اندر مصلحت آس وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ درحالیچہ اکہ جماعتہا آس با ایمانو اندرہ تہندس تمہہ وقتہ کس مدینہ شریفہ اندرہ نہ کس ناپسند کران يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ بحث و قضیہ آس کران تم توہہ سیت مشورہ پاٹھہ پڑہ تھہ منز تمکہ ظاہر سپد نہ پتہ۔ بے سلاح و سامان جنگس نیزان قریش سیت جنگ کران تم با سلاح و سامان آس اوس تمہن ثبوت مشکل لبہ یوان كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ زن تم پکانوہ آس یوان مارنہ خیطرہ اچھن ڈیشمان۔ یعنی تم آس مر نک

الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ
تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ
الْكَافِرِينَ ۚ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ
مِّنَ الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ
بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

اسباب بے سرو سامانی بنی و چھان۔ وَاذْ يُعِدُّكُمُ اللَّهُ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ تُهْمُهُمْ سَمَوُوتِ
یادیلہ اللہ تعالیٰ اُن بذریعہ وحی بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَعَدَهُ فَرَمُوْكَهٗ دُشْمَنُ هَنْزِ وَوَدُوْدِ جَمَاعَتُو
اندرہ چھ آکھ جماعت ضرور تہندہ خیطرہ تہن پیٹھ سپد و تہہ غالب وَتَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ
تَكُوْنُ لَكُمْ تُہمہ آسوہ ہند کران کہ غیر مسلح جماعتھی گوہہ سانس اتھس منزین تہن سیت نہ مقابلہ تہ
جنگ پیہ ہا کرن مگر وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ اوس یڑھان تہہ
سو پڑہ اوہ ہا پوز پینہ حتمہ سیت پیہ گالہ ہانول کافرن ہند لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
کافرن ہند مول گنہ سیت تہ پیٹھ پڑیک پوز آسن تہ اُزیک اُز آسن اللہ تعالیٰ وارہ ثابت کرہ اگر چہ
نا فرمان ای تن سونا پسندی إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ پیہ گو سوی وقت تہمہ ساتھ فریاد
آسوہ کران تہہ پینہ نس پروردگار سن، منگان آسوہ تس فتح و نصرت تہس کر تم اجابت تہندس معھ نس
اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ پیہ فرمانہ سیت کہ یو کرہ توہہ مدد، آکھ ساس ملک
سوزنہ سیت تہم آکھ اس سیت آسن روز تھ یعنی گنڈ تھ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ
پیہ ملا تہہ ہندہ ذریعہ مدد کرن کورنہ اللہ تعالیٰ بن مگر تہندہ خوش کرنہ خیطرہ۔ پیٹھ تہند دل اسباب فتح و
نصرت و تہجہ خوش گوہن۔ پیہ پیٹھ تہند دل قرار تہن وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تھقیق س منز تہنہ
نصرت تہ یاری مگر خدا پیہ سدی طرفہ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ تھوز بردست تہ حمتہ

حَكِيمٌ ۱۰ اذِ يُغَشِّبِكُمُ النَّعَاسَ اَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ
 مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ
 الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۱۱ اذِ
 يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 سَالَتْنِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبَ فَاَضْرِبُوْا فَوْقَ
 الْاَعْنَاقِ وَاَضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنٰنٍ ۱۲ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

اول اذِ يُغَشِّبِكُمُ النَّعَاسَ اَمْنَةً مِّنْهُ ہے پاو و ژئیس سو وقت یہ وقتہ اللہ تعالیٰ ہن توہہ نہرہ ہنزمای
 و جہوہ پنہ طرفہ۔ توہہ پورہ سکون تہ قرار دنہ خیطرہ و یُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهِ
 ہے پاو و ژئیس تمہہ برو تھہ سمہ سائتہ او سُن توہہہ پیٹھ آسماجھہ طرفہ رُود تروومت۔ یُتھ تھہ تمہہ رُودہ سیت
 پاک کرہ بے غُسل کرن غُسل تہ بے طہارت کرن طہارت و یُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ ہے
 یُتھ سو دُور کرہ توہہہ نغمہ شیطانہ سیدہ و سوچ ناپاکی و لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ہے یُتھ تمی سیت تھہ دل
 مضبوط کرہ و یُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ہے یُتھ تمہہ رُود پنہ سیت تھہ کھوروارہ درراوہ۔ کیاہہ سیکھ چھہ
 رُود پنہ سیت دران۔ میڑہ چھہ رُود پنہ سیت رُب ووتھان اذِ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِيْ مَعَكُمْ ہے
 پاو و سو وقت ژئیس سمہ سائتہ تھہ پروردگار حکم سوزان اوس تمن ملائکن کن سم تھہ مددہ خیطرہ
 سوزنہ آمت آس۔ اے ملائکو و سو میان باایمان بدن ہندہ مددہ خیطرہ۔ بو تہ چھوس توہہ سیت
 مددگار فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اے ملائکو مددگار انتھ تھاو تھہ مضبوط باایمان ہند دل سَالَتْنِيْ فِيْ
 قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبَ بوتراوہ کافر ہندین دلن اندر خوف تہ و حشت فَاَضْرِبُوْا فَوْقَ
 الْاَعْنَاقِ وَاَضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنٰنٍ کس شمشیرہ ژنڈ دیوکھ گردن پیٹھہ ہے ژئوکھ تانہ تانہ ذٰلِكَ
 بِاَنَّهُمْ سَالَتُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ہے سزا چھو تمن اکی سببہ کہ تمبو کر مخالفت خدایہ سزہ ہے تھہ س پیغمبرہ سز
 وَمَنْ يُثَابِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ہے کس اکھاہ خدایہ سزہ تہ تھہ س پیغمبرہ سز

شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۳﴾ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ
 عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُيِّمْتُمُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُؤَلُّوهُمْ الْاَدْبَارَ ﴿۱۵﴾ وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
 دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ
 بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۶﴾
 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ

مخالفت کرہ تس کرہ اللہ تعالیٰ سخت عذابس گر قمار۔ ذلکم فذوقوا وآن للکفرین عذاب النار
 سمعہ عذابک مزہ ڈھو ٹہہ بہہ زاویہ تھہ کہ کافرن ہندہ خیرہ چھونار جہنمک عذاب آخر تس اندرامہ
 ذنیاء کہ عذابہ علاوہ یایہا الذین امنوا اذا قییمتہ الذین کفروا زحفا ای بالیمانویلہ ٹہہ کافرن
 سیت مقابلہ کرنہ لکو پتھر زمیس پیٹھ وستھ پیادہ فوجی پتھہ فلاؤلوہم الادبار کس مہ پھر و تمن کن
 پشت پن پان پچاونہ خیرہ و من یوللہم یومئذ دبرک نیس اکھاہ امہ دودہ کافرن کن ٹھر پھرتھ
 ژکن ہیہ الامتحرفا لقتال او متحیزا الی فتنہ مگرے پشت پھرن تمن کن جھکھ ٹھہ مصلحتہ خیرہ یا
 امدادی فوجس سیت شامل سپدنہ خیرہ تلہ چھونہ کانہہ حرج۔ نتہ نیس ژانہ خیرہ تمن کن پشت پھرہ
 فقد بآء بغضب من اللہ کس تھین سو آو خدایہ سنز بڈ بیزاری پتھہ۔ وماؤہ جھکھ تھنز جای
 جھہ نار جھنم و بئس المصیر سیٹھاہ پھہ جاری جھہ سو جھنم فلم تقتلواہم و لکن اللہ قتلہم ای
 مسلمانو توہہ مار دکھہ نہ تم کافر جنگ بدر رس منز۔ بلکہ مار تم اللہ تعالیٰ ان پانہ وما رمیت اذ رمیت و
 لکن اللہ رمی اے پیغمبر بر حق ٹہہ ٹھہز پھچیونہ میڑہ موٹھہ یلہ بظاہر ٹھی چھوہ بلکہ چھ سو پانہ اللہ

وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۸﴾ إِنَّ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَنُحِزُّوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ﴿۲۰﴾ وَلَا

تعالیٰ ان۔ یہ کور اللہ تعالیٰ ان اگہ مجھ کافر ن مغلوب کرے۔ وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا یہ مجھ اللہ تعالیٰ بالایمان پنہ طرفہ رت انعام واحسان عطا کرے۔ یعنی کوم کر حقیقتاً تم پانہ مگر سوی کوم کرن مسلمان ہند یوا تھو یابی کریمہ سندر دست مبارکہ مجھ تم امیک ثواب تہ اجر یہ بڈوانعام حاصل کرن اِنَ اللّٰهُ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ پڑ پانہ اللہ تعالیٰ چھو تھن بالایمان ہمزہ سارے کتھ بوزہ ون بیہ یہند اعمال و افعال پور و چھہ ون ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اگہ گئیہ یہ کتھ۔ دویم کتھ چھہ یہ اللہ تعالیٰ اس آس کافر ن ہند ساری تدبیر سنت تہ بیکار کرن اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ای کافر و ہر گاہ تہہ فیصلہ ژھانڈان چھوہ بیشک سو فیصلہ سپد ظاہر۔ مسلمان سپز فتح حاصل۔ سہم سبت معلوم سپد کہ تھند دین چھو پوز دین۔ تمی دتچ شوبہ بیروی کرن اِن تَسْتَفْتِحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وون ہر گاہ تہہ شر کہ نٹہ پتھ روز تھ مسلمان سپدوتہ چھو تھندہ خیطرہ سیٹھاہ بہتر اِن تَعُودُوا نَعُدْ ہر گاہ تہہ دوبارہ بیہ شرارت کر و تلہ چھہ اس تہ دوبارہ اسلامس تہ مسلمان مدد کرنہ خیطرہ تہ کافر ن شکست ونہ خیطرہ تیار۔ توہہ مہ روز ن خیال کہ آئندہ کرو اس امہ خوتہ بڈ لشکر جمع یہ تھارزہ یقین کہ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ہر گز رویہ نہ توہہ کانہہ فایدہ بڈ جماعت تھنز اگر چہ آستن سو سیٹھاہ زیادہ تعدادہ کن۔ بیہ چھہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ چھو بالایمان سبت پرستھ وقتہ مددگار یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ای بالایمانو فرما ہنداری

تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۳۱﴾ إِنَّ
 شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا
 يَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْعَهُمْ وَلَوْ
 أَسْعَهُمْ لَتَوَكَّلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

کرو خدایہ سزبیہ تہندس پیغمبر سزبیہ مہ کمر و تہندین احکام من تعمیل کرنہ نشہ روگردانی درحالیہ تہہ
 چھوہ خدایہ سند کلام، پیغمبر سند و عظم بوزان۔ تی چھوہ اعتقاد بوزان۔ تہہ پٹھہ کمر و تمن حکمن پٹھہ عمل
 تہہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تہہ مہ آسوتمن لوکن ہی سم زیوہ سمیت
 و نان چھہ بوزاسہ، مگر بوزان چھہ نہ بہنہ یعنی عمل چھہ تہہ پٹھہ کران نہ بہنہ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ
 الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ہز پٹھہ ساروی جاندار و اندرہ چھہ بدتر اللہ تعالیٰ اس نشہ
 تہہ تم پڑتہ بوزنہ نشہ زر آسن، پڑتہ وند نشہ کل آسن۔ تمن نہ پڑتہ عنہ قسمہ فکرہ تران آسہ۔ پتہ
 گے تم سم اعتقادہ باوجود عملہ اندر کوتاہی کرن یعنی مسلمان آتہ کرن تعمیل احکام کرن اندر سستی تم
 گئے نہ بدتر مگر بدتہ چھہ گئے ضرور تمن ہزہ تمہ نشہ پتہ روزن وَلَا عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْعَهُمْ
 وَلَوْ أَسْعَهُمْ لَتَوَكَّلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ہہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ تمن کافرن منز زانہ ہا کانہہ خیر و بر کتہاہ تلہ
 شاید بوزہ ناوہ بیکہ یعنی توفیق دیہ بیکہ بوزنک۔ تو پتہ ہر گاہ بوزہ ناوہ بیکہ تہ، توتہ ثلہ ہن تہ روگردانی
 کرہ ہن تم ہزہ نشہ تہہ بھر تہہ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
 يُحْيِيكُمْ ای باایمانو آسہ بس حکماہ کور توبہ سمہ برونتہ کہ تعمیل احکام تہ اطاعت و فرمانبرداری کرو،
 تہہ کر آسہ تہندی فایدہ خیطرہ تمہ سمیت بنہ تمنز حیات ابدی۔ لہذا مالو حکم خدایہ سند بہ پیغمبر خدایہ سندیلہ
 ناددیہ توبہ سو پیغمبر خداتہ کامہ گن یاسوہ توبہ زندہ تھاوہ یعنی وینس گن۔ سمہ سمیت دائمی زندگی میسر
 سپدان چھہ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ہہ زانو کتہہ کہ اللہ تعالیٰ چھہ ٹھور سپدان

مَنْ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
 تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾
 وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ
 عِنْدَ أَجْرٍ عَظِيمٍ ﴿۳۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَنْ تَسْقُوا اللَّهَ
 بِجَعَلِ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكْفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ

تَشْكُرُونَ بپہ کر نوہ رت رزق عطا ہتھ تمہہ شکر گزاری کرو۔
 وَالرَّسُولَ ای با ایمانوں اس چھہ تو بہہ مخالفتہ نہ تا فرمانی نشہہ سمہہ موکھہ نماحت کر ان کہہ تو بہہ پیٹھہ چھہ
 خدایہ سبتہ نہ پیغمبر خدایہ سبت کہنہ حق مٹہ۔ تم بجائنتہ سبت واتہ تو بہہ نفع نہ فائدہ۔ تا فرمانی سبت چھو تم
 حقوقن اندر خلل نہ نقصان واقع سپدان۔ سمہہ سبت تمہدہ سب نفیس نہ فایدس منز خلل نہ نقصان واقع
 سپدان چھو۔ بلکہ یہ کتھہ تو بہہ فخرہ ترہ۔ لہذا مہ تراوو خلل بیہ مہ کرو خیانت خداور سولہ سبتین حقن اندر
 وَتَخُونُوا أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ گو تھتھتھس اندر تمہد پنے نین قابل حفاظت چیزن اندر خلل نہ نقصان
 واتاؤن۔ ویدہ ودانتہ۔ زانتہ کرتھ۔ اکثر اوقات چھو مالگ۔ نہ اولادن ہند محبت نخل سپدان خداو
 رسولہ سزہ فرمانبرداری۔ لہذا ویدہ تمہہ خداور سولہ سبتس محبت و اطاعتس ترجیح مال و اولادن ہندس
 محبتس پیٹھہ۔ یٹھہ اس و چھو کہنہ اکھاہ چھو مال و اولادن ہندس محبت ترجیح دوان سانس محبتس پیٹھہ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَجْرٍ عَظِيمٍ وارہ زاؤ کہہ تمہد مال نہ اولاد
 چھہ کہہ آزمائش نہ امتحانک چیز یہ زاؤ کہہ اللہ تعالیٰ اس نشی چھہ بدمزور تمن لوکن ہندہ خیطرہ تمہد ہندوی
 محبت زیادہ تھاوان چھہ بین سارنی ہندہ خوتہ یایٹھا الذین امنوا ان تاسقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ای
 با ایمانو ہر گاہ تمہہ کھو ترو خدا سب، تمہز کتھ و پور اطاعت سوتہ تو بہہ امتیازی نشانہ عطا و یکفر عنکم
 سبائیکم و یغفر لکم و اللہ ذو الفضل العظیم یہ کہہ دور تمہزہ بدیہ یہ کہہ مغفرت تو بہہ سارنی
 گنہن۔ اللہ تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول۔ پنے فضلہ سبت کہہ سوامہ علاوہ خبر کم چیز عطا۔ تم نہ وہم و

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۹﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿۳۰﴾ وَإِذْ اتَّكَلَى عَلَيْهِمْ ائْتِنَا قَالُوا
قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۱﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا
هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ

گمناں اندر میکن چھہ وَاذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ بھہ پاوڑ تمیں یلہ
کافر توہمہ متعلق تدبیرتہ مشورہ کران آس دار الندوس اندر سوچان آس تہندہ خیطرہ قید کرنہ خیطرہ یا
قتل کرنہ خیطرہ یا جلاوطن کرنہ خیطرہ مختلف تدابیر وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ تم آس پنہ خیالہ تدبیر
سُوچان اللہ تعالیٰ تہ اوس پنہ تدابیر کران تہندہ تدابیر باطل و بیکار کرنہ خیطرہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ
اللہ تعالیٰ چھو بہتر تہ رت مضبوط تدبیر کرہ ون۔ چنانچہ تہندہ ساری تدبیر سپد ناکام۔ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم اتناو اللہ تعالیٰ اَن تَمْنَى کافرَن برون تھ کن پکناوت تھ وارہ کارہ بصحت و سلامتی مدینہ متورس منز
وَاذْ اتَّكَلَى عَلَيْهِمْ ائْتِنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا بھہ یلہ پر نہ آس یوان تمن
کافرَن برون تھ کنہ سان آیات۔ ونان آس تم بیشک اُسہ لوزیہ کلام بھہ چھونہ کانہہ مُعْجَزہ۔ ہر گاہ اس ارادہ
کرو آس تہ بھکو تھ کلام پیش کر تھ اِن هَذَا اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بھہ چھونہ کنہ تہ مگر بے دلیل
تھہ پونشہ۔ سمہ تھہ برون تھن نشہ نقل کرنہ آمزہ چھہ وَاذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ
عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَو ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ اُمہ خوتہ چھہ قابل ذکر بھہ تھہ کہ تم
آس ونان کہ خدایا ہر گاہ بھہ قرآن مجید پڑپا تھ چھو چانی طرفہ تلہ تراوت تھ نہ مانہ خیطرہ اُسہ پیٹھ آس تھہ
طرفہ کنہ رُود۔ نتہ اتناو اُسہ نشہ کڈر عذاب۔ بھہ آس نہ تمن خبر کہ خدایہ سنزن کالین اُندر چھہ خاص
مصلحہ آسان عذاب نہ کرہ نُس منز چھہ کھنہ وجوہ آسان تمن وجوہن تہ مؤانعن ہند بیان چھو اُمہ پتہ۔

أَوْ أَتَيْنَا بِعَذَابٍ إِلَيْهِمْ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
 فِيهِمْ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝
 وَمَا لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
 وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ
 عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصَدِيقًا لِمَا قَدْ نَزَّلَ اللَّهُ
 بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللَّهُ تَعَالَى كَرِهَ نَهْرُ كَزِ تَمِنَ عَذَابَ نُهْمَ تَمِنَ مَنْزِ مَوْجُودِ آسِجَسِ
 حَالَسِ أَنْدَرِ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بِهِي تَهْمَ پَاهْمَ كَرِهَ بِاللَّهِ تَعَالَى تَمِنَ عَذَابَ بِهِي
 حَالَسِ أَنْدَرِ تَمِ آسَمِنَ كُنْهَ كُنْهَ وَقْتَهُ هُكْرَمَهُ رَسْمَهُ مَطَابِقِ مَغْفِرَاتِ مَكَانِ - طَوَافِ كِرَانِ كِرَانِ "غَفَرَ أَنْكَ"
 پَرَانِ وَمَا لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ تَمِنَ كِيَاهِ خُصُوصِيَّتِ آسِ كَمِ تَمِنَ كَرِهَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَذَابَ وَهُمْ يَصُدُّونَ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَالِجِهِ تَمِ آسِ بَدِغَانَهُ كِرَانِ لَوْ كُنَ تَهَ بِتَيْمَبِرِ بِرِ حَقْسِ آسِ پَتَهَ رِثَانِ مَسْجِدِ حَرَامِ
 نَجْهَ إِنَّ نَشْمَ - وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ حَالِجِهِ آسِ نَهَ تَمِ لَوْ كَهَ مَسْجِدِهِ هَمْدِ مَتَوَلَّى تَهَ اخْتِيَارِهِ وَآلِ - كَجِ قَابِلِيَّتَيْهِ
 آسِ نَهَ تَمِنَ - كُنْهَ طَرِيقَهُ أَوْسِ نَهَ تَمِنَ تَهَ كَرْمُكَ حَقِ إِنْ أَوْلِيَاءَ وَكُلَّ إِلَّا الْمُتَّقُونَ تَمَكِ اخْتِيَارِهِ وَآلِ تَهَ مَتَوَلَّى
 آجِ قَابِلِيَّتِ جَهْنَمِ مَكْرٍ بِهِي زِ كَارِ بِنْدَنِ تَمِ گَنَ بِآيْمَانِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَكِنَ تَمَوَ أَنْدَرَهُ چَهْمِ
 وَبِهِي كَيْتِ تَمِنَ نَهَ آجِ يَعْنِي پَنَبَهُ نَا قَابِلِيَّتِ خَبْرِي چَهْمِ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً
 وَتَصَدِيقًا بِهِي آسِ نَهَ نَمَازِ تَهْمَزِ خَانَهَ كَعْبَسِ نَشْمَ مَكْرِ آسُوسِيَّتِ شَرِينِ وَآلَمِنَ - بِهِي أَتْهَوَسِيَّتِ ثَرَهُ پُوبِ
 كِرَانِ أَتْهَ نَا مَعْقُولِ حَرَقْسِ آسِ نَمَازِ دُونَانِ فَذُو قُوَّةِ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ لَهَذَا تَهْ وَوَدُونَ عَذَابِ
 تَمَمَ هُكْرَهُ بَدَلِ نَسِ نُهْمَ كِرَانِ آسُوهَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿۳۷﴾ لِيَبَيِّنَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَدْتَهُمْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَآ قَد سَلَفَ ۗ وَإِنْ يَعُودُوا

ہر پاپہ تم کافر جہنم جہنم مال میں خرچ کر ان لوگوں میں خدایہ سزا دینے کے لئے ہتھیار بنائے۔ ہر گویا تہنزی بدنی عبادت یہ گنہگار مالی عبادت فسینفقونہا ثم تكون علیہم حسرۃ ثم یغلبون آئندہ تہ روزن تم امہ خیر ہ مال خرچ کر ان۔ پتولا کہ سپدہ سوماں تہندہ خیر ہ حسرتک سبب۔ پتولا کہ سپدن مغلوب تہ ذلیل۔ یہ گوکہ دنیاک عذاب۔ آخر تک عذاب گو کہ الگ والذین کفروا الی جہنم یحشرون تمہو لو کو کفر کور تم ساری میں سونبراونہ قیامتک دودہ جہنم من سوزنہ خیر ہ لیبیز اللہ الخبیث من الطیب تمہ اللہ تعالیٰ الگ کرہ ناپاک لو کن پاک لو کونشہ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض یہ دیکہ بر تہ ناپاک لو کن اکہ اس پیٹہ فیرکبہ جمیعاً فی جہنم یعنی اکہ اکس سیت تمہ تمہ تھو تھہ کھارہ تم ساری اکہ ڈیرا۔ تو پتہ دیکہ یکہ دہ بر تہ جہنم من اولیک ہم الخسرون تمہ لو کہہ کیا گئے تاوان زدیتہ تاوان زدگی نہاتھی جھونہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَدْتَهُمْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَآ قَد سَلَفَ فرماوے کہ تمہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرین میں برو ٹھم مضمون یوز تہ کھنہ اثر سپد مت آسہ کہ ہر گاہ تم کفر ہ تہ شر کہ نشہ پتہ روز تہ مسلمان سپدن تم لیہ برو ٹھس ساری بخشاش کرنہ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُذُكُ الْأَوَّلِينَ ہر گاہ دوبارہ یہ کفرے کرن بدستور روزن کفر سی پیٹہ۔ پس چھہ برو ٹھمین کافرین ہنز روش گذرے موی۔ تمہو کیاہ کور تہ تم کیاہ بیوہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ تُمَسَّوْا بِهَا وَلَا يَكُونَ لِلدِّينِ عَدُوٌّ كَبِيرٌ ہر گاہ تم کفر سی

فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۸﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۹﴾ وَإِن تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۴۰﴾
 وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُصَّةً وَ
 لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ

پیٹھ روزن یاتان یہ شرک و کفر کفنہ سپہ ختم۔ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ پریتھ طرفہ پھیلے
 دین خدایہ سُدوی فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ توپتہ ہر گاہ تم پتھ روزن کفرہ نشہ
 اللہ تعالیٰ چھو تہنزہ سارے کامہ و چھان وَإِن تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ
 وَنِعْمَ النَّصِيرُ ہر گاہ تم روگردانی کرن۔ تہہ رُوذو مضبوط۔ خدایہ سُنَد ناو پتھ کفر و تہند مقابلہ۔ تہہ
 زانو پز پاٹھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو تہند رفیق۔ سُوی چھو رت رفیق تہ رت مددگار تہند وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا
 غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُصَّةً وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ یہ زانو یہ تھہ وارہ کہہ تھقین یہ کیڑہ ہاہ توبہ کافر ان نشہ مال غنیمت حاصل کروئس چھو تمیک
 حکم۔ تھہ سارسی گروہن پانژہ حصہ کرنہ من۔ توپتہ گروہن تھہ پانژہ مس حصس یہ پانژہ حصہ کرنہ من۔
 تمہہ منزہ پانژہ سُم حصہ خدایس تہ تہندس بیغمبرہ سندہ خیطرہ تھاون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن
 نیابہ خدایہ سُنَد حصہ وصول توپتہ کرن تم خرچ تمہہ منزہ پنہ نین ذاتی اخراجاتن پیٹھ۔ یہ پنہ نین اہل
 قرابتن پیٹھ سہمو ابتداء پیٹھ تمن لُصرت و مدد کور۔ بنی ہاشم، بنی مطلبو اندرہ سکن زکوٰۃ رٹن چھہ حرام،
 یہ تھمن تہ حاجت مند مسلمانن پیٹھ۔ یہ مسافرن پیٹھ۔ تمہہ پتہ سم ژور حصہ مال غنیمتک باقی چھہ تم من

الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِينَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾
 إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصْوَى وَ
 الرِّكْبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي
 الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ
 مَنْ هَلَكَ عَنْ آيَاتِنَا وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ آيَاتِنَا وَإِنَّ

لشکرہ پیٹھ تقسیم کرنے۔ سوارس زہ حصہ، پتھر یکہ ونس اکھ حصہ۔ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى
 عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِينَ ہر گاہ توہمہ پڑھ کر وہ خدا ناس۔ بیہ کور وہ تس پیٹھ یقین۔ بیہ
 تھ پیٹھ یہ اسم نازل کور پنہ نس بندہ خاص، حضرت محمد س پیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دوہہ۔ یعنی
 جنگ بدر کہ دوہہ۔ سمہ دوہہ زہ جما ژبا ایمان تہ کافر، اورہ یور مقابل سپدہ۔ یوم الفرقانہ اندر چھو مراد
 جنگ بدر کہ دوہہ۔ سمہ دوہہ ہیز تہ اہیز س فرق آیہ کرنہ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللّٰهُ تَعَالٰى چھو
 پر تھ چیز س پیٹھ یور قدر تہ وول إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصْوَى سمہ دوہہ
 تہہ آس وہ اے با ایمانو میدان چھہ کس بنارس پیٹھ نئس مدینہ شریف س نزدیک اوس۔ کافر آس میدانہ
 کس تھہ بنارس پیٹھ نئس مدینہ شریفہ نشہ دور اوس۔ وَالرِّكْبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ أَبُو سَفِيَانَةَ سُنْد قَاتِلَه
 اوس توہہ یونمہ طرفہ سمندرہ کس بنارس قریب پکان وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ہر گاہ
 تہہ فریقین پانہ وان جنگ کرنہ خیرہ کانہ وقاہ مقرر کرہ ہو۔ تھہ و قس منز گروہہ ہوہ توہمہ اختلاف تہ
 نئس و پیش ممکن اوس کہ پنہ کم سامان آسنہ موکھہ ملیہ ہوہ تہہ و قس پیٹھ وَلَكِنْ مگر اللہ تعالیٰ ہن
 سونبر اووہ تہہ اورہ یور وقت مقرر کرنہ وراى لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا اللّٰهُ تَعَالٰى جاری کرہ
 سُوْحُم نئس تمس کردن اوس یعنی عزت اسلام شکست کفر لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ آيَاتِنَا وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ
 عَنْ آيَاتِنَا یہ تدبیر کمر اللہ تعالیٰ اَن یٹھہ یہ نئن قدرت و چھت ہلاک گروہہ و ن تہ ہلاک گروہہ ذلیل
 و چھت۔ زندہ روزہ نئس زندہ روزہ ذلیل و چھت۔ یعنی پر تھہ اکس سپدہ معلوم قدرت خدا۔ تھہ پاتھ

اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا
 وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۳﴾ وَ
 إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَاتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقَلُّكُمْ
 فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ
 تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۳۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذِ الْقِيَامَةُ فَمَنْ

کمر تم تن یاری مسلمان۔ ساز و سامانہ و رای کمر تھ فتح عطا و ان الله لسمیع علیہ بیہ چھو بیٹک الله
 تعالیٰ سوری بوزہ ون، سو زوی زانہ ون اذ یریکہم اللہ فی منایک قلیلاً سو وقت بیہ چھو یاد کرس
 قابل یلہ اللہ تعالیٰ ان ہا و وہ تو بہ کافر ن ہنز لشکر خواہس منز کم ولو اراکم کثیرا لفشلتم ہر گاہ
 تو بہ ہا و وہ سو لشکر زیادہ تعدا دہ کن تلہ سپدہ ہو تہہ کم ہمت و لتنازعتم فی الامر بیہ کرہ ہو تہہ
 ضرور اختلاف جہاد کرس اندر و لیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ ان تھا و وہ تمو دو شوی چیز و و
 نعمہ بسلامت۔ نہ کمر وہ تو بہ اختلاف نہ سپدہ تہہ کم ہمت انہ علیہم یدات الصدور ہر پاتھ سو
 چھو پور زانہ ون و کن ہنزہ تہہ۔ و اذ یریکم وہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلاً و یقلکم فی اعینہم
 بیہ پا و و تیس یلہ اللہ تعالیٰ ان ہمز ن نظرن اندر ان تم کی سمہ ساتہ تو بہ مقابلہ ہیو توہ کرن۔ تہمز ن
 نظرن منزہ انہو تہہ کمی تہہ جانینن مقابلک جذبہ مضبوط سپدہ۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا بیہ
 بیہ کور اللہ تعالیٰ ان تہہ سو پورہ کرہ تہہ خمس یس خمس بہر حال کرن اوس۔ عزت اسلام۔ شکست کفر
 و الی اللہ ترجع الامور خدایہ سی گن چھہ سارے کامہ رجوع کران یا ایہا الذین امنوا اذا
 لقیتم فتنۃ فاقبضوا و اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اکی با ایمانویلیہ تہہ جہادس
 منز سمکھان آسو کافر ن ہندس منہ جماعتس سیت۔ تمہ ساتہ گڑھہ سمن چیز ن ہند پورہ خیال تھا ون آھہ
 گڑھہ ثابت قدم روزن، ژکن گڑھہ نہ۔ بیہ گڑھہ سیٹھایا د خد اکرن تہہ تہہ کامیاب سپدہ۔ یاد خدا سیت

فَأَشْبِتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۵﴾
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعُوا فَعَشَلُوا وَتَذْهَبَ
 رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۳۶﴾ وَلَا تَكُونُوا
 كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَ
 يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۳۷﴾
 وَاذْذَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لِأَغَالِبَ لَكُمْ
 الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَيْنِ

چهودل قوی سپدان و اطیعوا الله ورسوله بیه گزوه خدلیه سنزیه تهنیدس پیغمبره سنز فرمانبرداری
 کرن کانه کاما گزه نه خلاف شرع سپدن و لا تتازعوا فاعشالوا و تذهب ریحکم بیه گزه نه پانه
 وان هره هره ته قضیه کرن تمه سیت گزه پست تمت ته سنت - بیه دوتهم تهنیدر عب و داب لو کنی همزن
 نظرن اندر و اصبروا بیه کمر و صبر ان الله مع الصبرین پز پاهه الله تعالی چهود صبر کره و نین
 سیت سیت - تمند سیت آسوی چهود نصر تک باعث و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم
 بطرا و رثاء الناس بیه مه آسوتهم تمن کافر لو کن ہی یم درای آتھ جنگس منز پنه نیوشهر و منز
 تکبر و غروره سان - بیه لو کن تھیکان تھیکان و یصدون عن سبیل الله بیه درای لو که تھه رنه خیره
 خدلیه سنزه و تهنه - و الله بما یعملون محیط الله تعالی چهود همزن سارنی کاین احاطه کره ون و
 اذ ذرین لهم الشیطان اعمالهم بیه کمر و سودوه یاد سمه دوهه شیطان تمن کافرن اندر و سوسجه ذریه
 زینت ذیت و قال لا غالب لکم الیوم من الناس دوهه آز پوشنه ته توبه کانه ته لو کواندره و انی
 جار لکم لو چهودس پانه تهنه مدگار فلما ترأت الفیتین نکص علی عقبیه اده سمه سته

نَكَصَ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ
 إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۳۸ إِذْ يَقُولُ
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرْهُوَلَاءَ دِينُهُمْ
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۳۹ وَ
 لَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ
 وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۴۰ ذَٰلِكَ

دو شوے جماعت (با ایمان سے کافر نہ ہنر) کہہ افس مقابلہ لہر شیطاں آؤ بوزنہ ملائکہ ہند نازل سپن۔ شیعہ
 ثول سوہوت پوئے وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ فندو، فریبو سے ایز یو وعدو سیت ناو والبتھ
 لوگھہ دپنہ مہ چھونہ توہہ سیت کانہ واسطہ۔ یو چھوس وچھان تی یہ نہ توہہ بوزنہ یوان چھو۔ اِنِّي
 أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ یو چھوس کھوژان خدائس۔ اللہ تعالیٰ چھو سخت عذاب کرہ ون۔
 خطرہ چھومہ کہ چھہ جسک اندر مایہہ کوٹھس کانہ ژنڈاہ۔ عمرہ خیطرہ گڑھہہ کوٹھہ برہم اِذْ يَقُولُ
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرْهُوَلَاءَ دِينُهُمْ سمہ دوہنہ منافق بیہ تم لوکہ یہندین
 و لن اندر شج بیماری آس و نان آس مغزور چھہ کرمت سم لوکہ یعنی مسلمان دین پن۔ ہلائس منز چھہ
 زورہ پن پان تراوان۔ تعدادہ کن کم آتھہ۔ سامانہ کن کم آتھہ چھہ یم مسلح فوجس سیت مقابلہ کرنہ
 خیطرہ آمادہ سپدان وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یمن
 چھو پور توکل سے اعتماد پنہ نس خدائس پیٹھہ۔ لہذائس اکھاہ معبود برحقس پیٹھہ توکل کرہ تمسند ول سپدہ
 ضرور مضبوط سے محکم۔ کیا زہند مددگار چھو اللہ تعالیٰ بیشک سوچھوز بردست حمتہ وول۔ وَلَوْ تَرَىٰ
 إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ہر گاہ نہہ وچھو تمہہ سائک حال
 سمہ ساتہ تم ن کافر ن قبض روح کران آس ملائکہ، توہہ پیہ ہا بوزنہ عجیب واقعہ۔ تم ملک آس سمہ
 ساتہ نازہ ویو ڈیسو سیت کافر ن ہندین تمہین سے ٹھرن پیٹھہ چوب ودان۔ گویا لائھی چارج کران

بِمَا قَدَّمْتُمْ أَبْيَدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ۝
 كَذَابٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
 فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝
 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَيْهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ
 يُغَيِّرُوا أَمْرًا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝
 فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

وَذُو قُوَّةٍ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۖ بِهِ آمَسُّهُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَهُمْ ۖ لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ لَهُمْ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۖ
 وَذُو قُوَّةٍ ۖ آخر یہ کس عذاب نسبت کہنی ذلک بمآقدمات ابیدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبيد یہ
 جھوٹو توہم تمہیں عمل کن ہند بدلہ سمجھ توہم پنہ نیو اتھو برو نہہ کن سوزوہ۔ یہ زانو تہہ وارہ کہ اللہ تعالیٰ
 جھنہ ہرگز بندن ظلم کرہ ون۔ ناحق کرہ بجھ عذابس گرفتار کذاب ال فرعون والذین من قبلہم
 سمن کافرن ہنز حالت چھہ تھہ اندر کہ کفر و نافرمانی پیٹھ او تمہن سزا ون۔ یشہی بڑھ فرعونہ سدہ قوی
 یہ تمہن کافرن ہنز حالت چھہ تھہ اندر کفر و آیات اللہ تموتہ کیا کور کفر تہ انکار خدایہ سندس
 آیاتن فأخذہم اللہ بذنوبہم کس رٹ تم اللہ تعالیٰ ان تہنزن نافرمانین ہندہ وجہہ ان اللہ قوی
 شدید العقاب پڑاٹھ اللہ تعالیٰ جھو سیٹھاہ طاقتہ دول سخت عذاب کرہ ون ذلک یان اللہ لَمْ یَکُ
 مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَيْهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا أَمْرًا بِأَنْفُسِهِمْ یہ تھہ کہ اس کیا جھہ تجرمہ و رای سزا و ان
 چھہ امی وجہہ کہ آسہ بشرہ جھو اکھہ قانون تہ قاعدہ مقرر۔ سو گوزہ اللہ تعالیٰ جھو نہ کنہ تھہ نعمت بدلا و ان
 یوسہ نہ قومس تم عطا کر مرث آسہ۔ توتان یوتان نہ تے تم کائین بدلا و ان سمجہ تمہن سپردتہ منہ آسہ
 کرنہ آمزہ یعنی عبادت تہ اطاعت وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ تھہ چھہ ثابت کہ اللہ تعالیٰ جھو سوزوی
 بوزہ ون، سوزوی زانہ ون۔ جھہ حالت بدلا و عکس معاملس اندر تہ جھہ تہنزن حالت کذاب ال فرعون
 وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ توشہی یشہ قوم فرعون تہ بین کافرن ہنز حالت آس۔ تم تمہن برو تھہ

يَذُنُّوهُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواظِلِيْنَ ﴿٥٢﴾
 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾
 الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ
 مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَمَاتتَّ شَقَقْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَسَرَدْتَهُمْ
 مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ
 خِيَانَةً فَاذْنَبْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٦﴾

آس کذبوا یا ایة ربهم تمو کتر پنہ نس پروردگارہ سیدین آیات انکار تہ تم زانکھہ اپز فاملکنکم
 یذننوبهم نس گال تم اسہ تمنی گنہن تہ نافرمانین ہمدہ وجہہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بیہ پھاؤ اسہ
 فرعونہ سُنہ قوم دریاؤس اندر وَكُلُّ كَانُواظِلِيْنَ تم ساری آس سیٹھاہ سرکش تہ ظالم اِن
 شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بزپانکھہ مخلوقو اندرہ جہہ بدتر اللہ تعالیٰ آس نشہ
 تم لو کہ سمو کتر کور۔ پس ان نہ تم سُنہ طریقہ ایمان الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ
 فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ یمن سیت توبہہ صلک عمدا و بیان کردہ۔ تو پتہ جہہ تم پریتھہ لہہ
 پھر او ان سو پین معاہدہ۔ بیہ جہنہ عہد شکنی کر نس کھو ژان تہ فَأَمَاتتَّ شَقَقْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَسَرَدْتَهُمْ مِّنْ
 خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پس ہر گاہ تہہ لیو کہ تم عمد شکنی کرہ ون جسکس اندر مقابلہ کران۔ تم پیتھ
 گروہہ شیتھ حملہ کران۔ تہندہ سیت گروہن ژاروان تم تم تمن پتہ آسن مددگار یا تمن پتہ اوہ وان آسن۔
 بیتھ تم عبرت رنن وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً بیہ ہر گاہ تہہ کھو ژوتہ اندیشہ کروئنه تو پتہ
 عہد شکنی فَاذْنَبْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ پس واپس سُر و تہند سو عمد تمنی کن۔ یعنی سو عمد پھڑ اوو۔ مگر تمہہ عمد
 کہ پھڑ اونچ خبر گروہہ سیدن دوشون فریقن برابر برابر یعنی تمن کرو خبر جنگ واقع کرنہ بروئنه کہ چونکہ
 تہہ جہوہ سمہ سمہ قسچہ حر کر کران لہذا پس عمد اہ توبہہ سیت کرنہ آمت جھوسو گو ختم۔ بیتھہ تم توبہہ
 پیتھ بُور کھارن۔ بیتھہ صاف اطلاعہ و رای تمن سیت جنگ کران گیبہ خیانت إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْزِرُونَ ﴿۵۹﴾ وَ
 أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
 تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لِلَّهِ وَعَدُّوْكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
 لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَأَسْتَفْقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ يَوْمَ الْيَكْمِ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلَمُونَ ﴿۶۰﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ
 فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۱﴾

الْحَائِبِينَ ہز پانچہ اللہ تعالیٰ جھونہ خیانت کرہ و نین ہند کران وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا گمانہ
 مہ کرن کافر کہ تم کیا ژل اسہ نشہ۔ وون بیکو کہ نہ اس تم قابو کرتہ۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْزِرُونَ ہز پات تم
 بیکن نہ اسہ عنتر چیزہ سیت عاجز تہ تنگ کمر تہ۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
 الْخَيْلِ ای مسلماؤ تیار کمر و کافرن سیت جہاد کرنہ خیطرہ ہیہ ممکن سپدہ تہ سامانہ اندرہ، گور گندت
 تھاوند اندرہ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لِلَّهِ وَعَدُّوْكُمْ تمہ سیت کھوڑہ ناویو کہہ تمہ خدایہ ہند دشمن تہ ہن
 دشمن تہ یعنی مکب کافر وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ہیہ مکہ کین کافرن و رای تہ باقی دشمن لَا تَعْلَمُونَهُمْ
 اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ تم نہ تمہ زانیجہ بلکہ زانیجہ اللہ تعالیٰ پور وَأَسْتَفْقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ
 الْيَكْمِ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلَمُونَ ہیہ نیس چیزہ خرچ کمر و تمہ خدایہ سزہ وتہ اندریتہ منز جہاد تہ شامل جھو
 تمگ بدلہ ہیہ توبہ پور عطا کرنہ۔ توبہ نسبت ہیہ نہ کانہہ کمیہ تہ اندر کرنہ۔ حدیث شریفن اندر جھہ
 تیر اندازی پچھ نچ مشق کرنچ، گرز پچھ نچ، گرس پیٹھ کھسن پچھ نچ سیٹھاہ فضیلت آثر۔ اکرہ وقتہ گو
 بندوق، توپ تہ باقی آلات جدیدہ چلاون پچھن تمگ قائم مقام۔ عام طور و رزش کرن تہ تہ منز
 داخل وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا ہیہ ہر گاہ کافر صلحس کن مایل سپدن توبہ تہ جھو اجازت کہ
 ہر گاہ تمہ تہ سپد مایل تہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ہیہ کمر و تمہ اعتماد اللہ تعالیٰ اس پیٹھ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ہز پانچہ سو جھو سو زوی بوزہ ون۔ سُورَى زانہ ون وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخُدُّوكُمْ فَإِنْ حَسَبَكَ

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُواكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي
 آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۲﴾ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 آَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۶۳﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ
 مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۴﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ
 عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
 مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ

اللَّهُ بھ ہر گاہ تم توہمہ ڈھوکہ پڑھن دین، بس چھو بیٹک اللہ تعالیٰ توہمہ مدد کرنہ خیرہ، حفاظت کرنہ
 خیرہ کافی۔ چنانچہ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ سُوگو سُوی سم توہمہ غیبی مدد کور
 ملا جو سیت۔ ظاہری مدد کور با ایمانوسیت وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ سم پروردگارن آلفت تروو با ایمان
 ہندمن دلن اندر لَوَ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آَلَفَ بَيْنَهُمْ
 ہر گاہ تمہہ خرچ کرہ ہوتہ سوزوی مال نیس زمینس بیٹھ چھو توتہ بیکہونہ آلفت سپدہ کتر تھ تہندمن دلن
 اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فی تروو آلفت تمن منز۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پزپاک سُو چھو زور آور حکمت وول
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ای پیغمبر بس چھو توہمہ اللہ تعالیٰ بھ سم توہمہ
 سیت چھہ با ایمان يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ای پیغمبر شوق تہ ترغیب دیو با ایمان
 جمادک۔ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ہر گاہ توہمہ منزوہ (۲۰) زن صبر
 کرہ ون آسن تم پوشن کافر و اندرہ دون تن (۲۰۰)۔ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
 کفرؤا یا انہم قوم لایفقہون ہر گاہ توہمہ منزہ اکھ تمہہ مجاہد صبر کرہ ون آسن تم پوشن اکس
 ساس کافر س بیاہہ تم چھہ قومہ نا سبجہ اَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٤٥﴾ أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ
 وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
 مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
 مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ
 يَتَّخِذَ فِي الْأَرْضِ ثَرْبًا وَلَا يَرْضَىٰ لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يَرِيدُ
 الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٧﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ

مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ گوڈوہیک حکمیلہ صحابہ صمیمین پیٹھ دشوار سپد، اللہ تعالیٰ ان کورسو
 حکم منسوخ۔ فرمویں دون کر اللہ تعالیٰ ان توہمہ پیٹھ تھقیف۔ تم زون کہ توہمہ اندر چھہ سستی۔ لہذا
 ہجوون یہ حکم کہ اگر توہمہ منز آسن اکھ ہتھ مجاہد ثابت قدم تم سپن غالب دون تہن کافرن پیٹھ۔ ولان
 یکن منکم الف یغلبوا الفین باذن اللہ واللہ مع الصبرین ستنہ پاتھ ہر گاہ توہمہ منزہ آسن اکھ ساس
 مجاہد تم سپن غالب دون ساسن کافرن پیٹھ خدایہ سندہ حکمہ سیت۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ ہجو صبر کرہ ونین
 سیت سیت تمن مدد کر ان ماکان لنبی ان یكون له اسری حتی یثخن فی الارض ای مسلمانو
 توہمہ دیوتوہ مشورہ نبی کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم قید سن زخمیہ کہنہ مال ہیتھ تم تراوانا نگ۔ یہ گونہ جان۔
 کیا زہ نبی کریمہ سندس شانس شوہ نہ کہہ جہد قیدی کیامن چھڈ نہ قتلہ وراي بلکہ گدھن تم قتل کرنہ
 من۔ تا اینکه زمینس منز سپدہ کافرن ہنز خونریزی، شرتہ فساد دفع ثربون عرض الدنیا ای
 مسلمانو تہمہ ہجوہ ژھانڈان دنیاک سامان تمی موکھ دژوہ رائے نبی کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم تم قیدی
 فدیہ رتھ تراوس پیٹھ واللہ یريد الآخرة اللہ تعالیٰ ہجو تہمہ خیطہ راضی آخر جس سامانس واللہ
 عزیز حکیم اللہ تعالیٰ ہجو زبردست حممتہ ول۔ سو کہہ ہا توہمہ کافرن پیٹھ غلبہ دتھہ سیٹھہ مالدار
 لولا کتاب من اللہ سبق لکم فیما آخذتم عذاب عظیم ہر گاہ لے اللہ تعالیٰ ان در روز ازل
 لیوکھمت آسا کہ ہجو قیدیو منزہ ان بعضی ایمان سمہ سیت نہ کا نہہ فساد واقع سپدہ، سمیوک احتمال اوس نتہ

لَسْتُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ
 حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٩﴾
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَٰعْلَمَ اللَّهُ فِي
 قُلُوبِكُمْ خَيْرًا لِّأَبْوَابِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿٨٠﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ
 فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨١﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا هَاجَرُوا

سیدہ ہاتھ پیٹھ یمنِ نغمہ یہ فدیہ رنہ مٹو کہہ لود عذاب نازل۔ چونکہ کانہ فسادہ واقع سپدنہ۔ تہنہ مشورہ
 دراؤ اتفاقاً توی۔ سمہ مٹو کہہ تہہ سزاء نغمہ محفوظ رود وہ۔ فکلو ا مٹا غنیمت حلالا طیباً وون کھو تہہ
 منزہ یہ توبہ حاصل کور وہ تمن نغمہ فدیہ پاٹ۔ حلال طیب زانہ۔ واتقوا اللہ ان اللہ غفور
 رحیم۔ یہ کھو ترو اللہ تعالیٰ اس۔ آیندہ مہ کمر و پڑھہ کام زانہ۔ بزپاٹھ اللہ تعالیٰ چھو مغفرت کرہ
 ون۔ رحم کرہ ون۔ گنہس کمر نوہ بخشائس۔ یہ گو مغفرت۔ مال فدیہ کرنوہ حلال یہ گنہ رحمت۔
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ای پیغمبر فرما وون قیدین سم تہنہس قبض منز چہہ ان
 يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا لِّأَبْوَابِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ ہر گاہ اللہ تعالیٰ تہنہس دن کن اندر نیکی تہ رثر
 وچہہ اسلام قبول کرنس اندر تلہ کرہ سو توبہ عطا بہتر مال تمہ مالہ محو تہہس توبہ نغمہ وصول کرنہ او
 فدیہس اندر و یغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ یہ کرہ توبہ مغفرت۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھا مغفرت کرہ ون،
 رحم کرہ ون وان یُریدوا خیانَتک ہر گاہ تہنہس خواہش آسہ توبہ دھوکہ دین اسلام آنہ سیت، یا
 رسول اللہ، سو کہنہ نوتہہ چھنہ فقد خانوا اللہ من قبل ہس تھنہس تمہ چھو ازمہ برو تہہ تہ خدا ہس
 پنہ خیالہ دھوکہ دیت۔ مگر خدا ہس ہی کہ نہ کانہ دھوکہ دتہہ فامکن منہم ہس موقعہ دیت اللہ تعالیٰ
 ان توبہ تمن نغمہ انتقام ہنک برو تہہ لہ واللہ علیہ حکیم اللہ تعالیٰ چھو زانہ وول۔ تمس چہہ خبر
 خیانتہ وول تہہ چھو۔ حکمتہ وول پنہ حکمتہ سیت کرہ سو بہہ کانہ صورت پیدہ۔ سمہ سیت تم بہہ گرفتار

وَجَهْدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا
وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يُهَاجِرُوا وَمَالَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا
وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۶۲﴾ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ

سپدن۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِزَيٰتِ سَمُوْكَو كُو اِيْمَانِ
اَوْنِ بِيْهِ سَمُوْ بَجْرَتِ تَرَكْمَر، بَنُوْ دَطْنِ مَكَّةَ شَرِيْفِ تَرُوْكَهْ وَيَكْمَحْ مُحَبَّةٌ۔ بِيْهِ سَمُوْ جَمَادِ كُو رَمَالِ وَجَانِهْ سِيْتِ
خَدَلِيْهِ سَبْرَهْ وَتِيْ اَنْدَرِ تَمْنِ صَحَابِهْ صَمِيْنِ چَهْهْ وَنَانِ مِهَاجِرِ وَالَّذِيْنَ اَوَّوْا وَنَصَرُوْا بِبِيْهِ سَمُوْ لُو كُو تَمْنِ
مِهَاجِرِنِ پَنِهْ نَسْ شَهْرَسِ اَنْدَرِ جَايِ وَثَر، بِيْهِ مَدَكُوْر، تَمْنِ چَهْهْ وَنَانِ اَنْصَارِ۔ مَدِيْنَهْ مَتُوْرِكِ صَحَابِهْ صَيْبِ
اَوَّلِيْكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ تَمِ چَهْهْ پَانِهْ وَانِ اَكْهْ اَكْسَدُوْ سَتِ بِيْهِ وَاِرْثِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا
مَالَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوْا بِبِيْهِ سَمُوْ لُو كُو اِيْمَانِ اَتْتَهْ بَجْرَتِ كَرْمَهْ تَمْنِ چَهْهْ وَنَهْ تُوْبِهْ
سِيْتِ نَهْ دُوْسْتِيْ هِنْدِ كَانِهْ تَعْلَقِنِ نَهْ وَرَا تَمْنِ كَرْمَهْ۔ يُوْتَانِ نَهْ تَمِ تِيْ بَجْرَتِ كَرْمَهْ۔ تَلِيْهْ چَهْهْ تَمِ تِيْ تَهْ كَمْسِ اَنْدَرِ
دَاخِلِ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ هَرِ گَاهِ تَمِ تُوْبِهْ نَشِيْهِ وَبِيْچِيْ كَمِيْهِ اَنْدَرِ مَدَدِ زَهَانْدِنِ۔
بِعْنِيْ كَاْفِرِنِ سِيْتِ جَمَادِ كَرْمَسِ اَنْدَرِ تُوْبِهْ پَزِهْ تَمْنِ تَهْ اَنْدَرِ مَدَدِ كَرْمِنِ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيْثَاقٌ مَكْرُوْ كُو هِيْ كَمِهْ مَدَدِ كَرْمِنِ۔ يَلِيْهْ تَمْنِ مُقَابَلِهْ اَسْمَهْ كَرْمِنِ تَمْنِ لُو كِنِ سِيْتِ تَمْنِ تِيْ تُوْبِهْ پَانِهْ وَانِ كَمِيْهِ
مُعَاوَدِهْ اَسْمَهْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ اللّٰهُ تَعَالٰى چَهْهْ تَهْمَزَهْ سَارِهْ كَامِهْ وَچَهَانِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ كَاْفِرِ تَمِ چَهْهْ تَمِ تِيْ چَهْهْ اِذَا دِيْنِ هِنْدِ دُوْسْتِ وَاِرْثِ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ
اَلْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ هَرِ گَاهِ تَهْهْ چَهْهْ كَمْسِ پِيْطِهْ عَمَلِ كَرْمَهْ وَنَهْ بِيْعْنِيْ مُسْلِمَانِ مُسْلِمَانِ پَانِهْ وَانِ اَكْهْ اَكْسَدِ مَدَدِ
مَدَدِ گَارِ نَبُوْنَهْ تَمِيْلَهْ وَتَهْهْ مَلِكْسِ اَنْدَرِ فِتْنَهْ۔ بِيْهِ وَتَهْهْ بُوْذِ فِئَسَادِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَهَدُوْا فِيْ

وَفَسَادٌ كَبِيرٌ^{۴۳} وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدِ وَأَرَادُوا
 سَبِيلَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
 حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ^{۴۴} وَرِزْقٌ كَرِيمٌ^{۴۵} وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ
 وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدِ وَأَمَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
 بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{۴۶}

سَبِيلَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا بیه سہو لو کو ایمان انتھ ہجرت کمر بیه
 خدایہ سزہ و تہ اندر جہاد کور۔ بیه سہو مہاجر ن جای دژبہ امداد کور تم ساری مہاجر تہ انصار چہہ پڑ پانھ
 مسلمان کہم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ہندی خیطہ چھو بوذ مغفرت آخر کس منز بیه باعزت روزی جنتس
 منز وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدِ وَأَمَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ۔ بیه تم لو کہ سہو ہجرت نبویہ پتہ
 ایمان اون۔ توپتہ ہجرت کمر، بیه توہہ سیت شامیل روز تھہ کافر ن سیت جہاد کر، تم لو کہ تہ چہہ توہی
 اندرہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تم رشتہ دار چہہ مہاجرین سابقین ہند تم
 چہہ زیادہ حقدار کہ اکس غیر رشتہ دار ن نسبت، خدایہ سندہ حکمہ موجب إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ پڑ پانھ
 اللہ تعالیٰ چھو پر تھہ چیزہ از انہ دن تمی چھو پر تھہ وقتہ مصلحتہ موجب احکام مقرر کر ان۔



سُورَةُ التَّوْبَةِ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ①
 فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجْزِي اللَّهِ
 وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكٰفِرِينَ ② وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى

یہ سورہ شریف ہے۔ بسم اللہ پر نہ بیان کیجیے۔ کیا یہ بسم اللہ چھو نہ نازل سپد مت آتھ سیت۔
 یوسہ عبارتھ قرآن مجیدہ کس حائیس پیٹھ لیکنہ آمش چھ سو چھ فرضی تمیک ہر ان چھو نہ
 ضروری۔ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یہ چھو خدا اُس تہ تہندس پیغمبرہ
 سندہ طرفہ تمہ معاہدہ دست برداری کس توبہ مشرک سیت کورمت اوسوہ۔ یہ صلح حدیبیہ و نان
 چھ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی ۶ ہجریس اندر عمرہ کرنے خیرہ۔ یلہ تم بمقام
 حدیبیہ وات۔ کافرودیو تہکنہ نہ مکہ شریف منزا اژنہ۔ چنانچہ اتھ مقامس پیٹھ سپد کافران سیت صلح۔ امہ
 معاہدہ صلح مدت اوتھانہ دہ وری۔ مکہ شریف منزم یہ قبیلہ روزان آس تمن متعلق سپد یہ
 فیصلہ کہ یہو قبیلو اندرہ کس خوش کرہ سوروزہ نبی کریمس سیت۔ کس خوش کرہ سوروزہ مکہ کین قریش
 سیت۔ چنانچہ بنی خزاعہ رود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی بکر رود قریش سیت۔ اُس
 وریس تان رود یہ صلح قائم مگر دو سیمہ و رہہ ۱۷، ۱۸ ارتھ آسہن گیمت صلحہ پیٹھ کہ بنی بکر کس
 قریش سیت رلتھ اوس کور ارتھ گیمت اکھ حملہ بنی خزاعہس پیٹھ کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سیت رلتھ اوس۔ تمہ دیت امیک اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ تمہ ہنہ تیاری کرن
 قریش سیت جنگ کرن ۱۸ ہجریس اندر کورکھ فتح مکہ۔ اللہ تعالیٰ ان کور اعلان کہ حدیبیس اندر کس
 صلح کرنہ آمت اوس تمہ نشہ چھو خدا یہ تہند پیغمبر دست بردار سپدان۔ سو صلح پھڑ و قریشو۔ لہذا
 چھہ ون گنہ جلیہ کافران ہنہ خیرہ امن و امان صور تھ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کس پھیر یو
 یہ ملکس اندر ژون ریتن خوف تہ خطرہ واری۔ تم ژور رتھ گئے ذیقعدہ، ذی الحجہ۔ محرم تہ رجب
 وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجْزِي اللَّهِ یہ زانو کہ تہہ بیکیون نہ اللہ تعالیٰ عاجز کر تھ۔ تہہ کیا ہیر و تہندہ قبضہ

النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ إِنَّا فَتَنَّا قَوْمًا فَأَخَذُوا مَا نَسُوا فَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجْزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ

منزہ نیر۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُجْزِي الْكَافِرِينَ یہ زانیو یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ چھو کافر ن سوا کرہ دنیا و آخرتس اندر عذابس گرفتار کرنہ سیت۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ یہ چھو اعلان عام یوان کرنہ خدا کیس نہ تھندس پیغمبرہ سندہ طرفہ بڈہ حجہ دوہہ۔ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ سمہ گوی زہ اللہ تعالیٰ نہ تھند پیغمبر چھو بالکل الگ تمن مشرک نشہ سمو پانہ سو عہد پھڑو و کیس حد نہیں منز کرنہ اوس آمت۔ مگر باوجود آن چھو وندہ یوان تمن کہ۔ فَإِن يُبْذَلُوا فَوَاحِشًا لَّكُمْ۔ وون ہر گاہ تہہ گفرہ نشہ توبہ کروتہ باز ایوتہ چھو بہتر تھندہ خیطرہ دوشون جمانس اندر۔ دنیاس اندر بچو قتلہ نشہ آخرتس اندر عذابہ نشہ۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجْزِي اللَّهِ ہر گاہ تہہ اسلامہ نشہ اعراض کروتہس زانو تہہ کہ ہرگز بیکیون نہ توبہ پکرہ آنتہ نہ عاجز کرتہ اللہ تعالیٰ کنتہ طرفس کن ثلنہ سیت نہ کھٹھ روزنہ سیت یا یہ گنہ چیزہ سیت۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بوزہ ناویو کہ تہہ کافر دردناک عذاب خبر سمہ نشہ نہ سم پھٹھی یکن کنتہ۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا۔ مگر پھٹنہ تھندیہ عہد تمن کافرن ہندہ حقہ سمو توبہ سیت معاہدہ کورمت چھو۔ توبہ آسکھہ نہ گنہ چیزس منز توبہ نسبت عہد پورہ کرنس منز کی کر مشر۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا۔ یہ آسکھہ کانہہ اکس تھندس دشمنو اندرہ توبہ مقابلہ مدد کورمت۔ فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ۔ تمن سیت کروتھند معاہدہ پورہ ہتھ مدلس تان تمن سیت مقرر کرنہ آمت آسہ یعنی تم چھہ بدستور امنس اندر۔ تھندہ حقہ چھنہ انج دست برداری کی نہہ نہ۔ تم گے بنی خمرہ بنی مدنج۔ سم نہ قبیلہ آس بنی

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۳﴾ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ
 وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ
 آتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵﴾ وَإِنْ
 أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ
 اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶﴾

کنائس اندر، یمونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت معاہدہ کورمت اوس تہجدس معاہدس آس باقی ونہ نوریتھ۔ یمو آس نہ عمد شکنی کر مشکینہ تہ۔ لہذا زدویدہند معاہدہ باقی بدستور إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
 بزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو بد عمدی نشہ پرہیز کرہ وین دوست تھاوان فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کس بلہ
 گذرن تعظیمہ وال ریت فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کس مار یوکھ مشرک یتہ ہینہ تہ متہ
 وَخُذُوهُمْ گرفتار کر تھ تھاویوکھ قید وَأَحْصُرُوهُمْ پتھ ریٹوکھ تم خانہ کعبس طواف کرنہ نشہ۔
 وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ زاگنہ زودو تین پریتھ موقس تہ زانن جلیہ پیٹھ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ توپتہ ہر گاہ تم توبہ کرن گھر نشہ بیہ بین کرنہ اسلامچہ کامہ،
 مثلاً نماز پر بن بیہ دن زکوٰۃ، پتھ تراویولہ ہنز و تھ۔ دیوکھ پختہ اورہور إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہز پاپٹھ
 اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہون سیٹھاہ حم کرہون وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
 بیہ ہر گاہ مشرکواندرہ کانہ توبہ پناہ منگہ توبہ سیت ملاقات یشہہ کرن۔ نہہ دیوکھ پناہ تہ اجازت
 حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ تا ایچہ توبہ نشہ بوزہ سوکلام خدا۔ ممکن چھو تمیک پیہ کس پیٹھ کانہ اثر تھ
 أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ توپتہ واتا دیون سو پناہ تہ اچہ جلیہ۔ تمس دیون سیت حفاظتہ خیطرہ پین کانہ شخصاہ۔
 یوتان سو پناہ کس جمائس نشہ ولتہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ بیہ گڑھہ امی خیطرہ کرن کہ تم چھہ
 بے خبر اسلامہ کیو احکامو نشہ ممکن چھو ہر گاہ نہہ کس دیوکھ توبہ پائس نشہ پینہ، سو یوزہ توبہ نشہ اسلامچہ تھہ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ
 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا
 لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ
 يَظْهَرُ وَأَعْلَيْكُمْ لَا يُرْجَوُ فِيكُمْ إِلَّا الْأَلْزِمَةُ تَرْضَوْنَ كُمْ
 بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ۚ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ۝
 اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ ۝

سمہ سیت متاثر سیدت بنن نشہ تہ واتا وہ تمہہ دلیلہ۔ تم تہ سیدن متاثر کئیف یگون للمشرکین عہد عند
 اللہ وعند رسولہ تمہہ پانہہ ہیجہ آتہہ مشرک خدائس نشہ کانہ عمدہ یا تہمدس پیغمبر نشہ۔
 کس عہد قابل رعایت یہ زانہ۔ کیا زہ رعایت یہ تہہ عہدس کرنہ تہہ نہ دو سم فریق پانہ پھرا وہ
 إلا الذین عہدتم عند المسجد الحرام مگر تم لو کہ سمو معاہدہ کور توہہ سیت مسجد حرامس کھ تل
 فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ایس کالس تم سیود روزن توہہ سیت تہہ تہ روزو تہن سیت
 سیود إن اللہ یحب المتقین بیشک اللہ تعالیٰ چھو دوست تھاوان بدعہدی نشہ پتہ روزہ ونین
 کئیف وإن یظہر وأعلیٰکم لا یرجوٰ فیکم الا الالزمۃ تمہہ پانہہ روزہ تہمد عہد قابل رعایت تہمدین
 وکن اندر چھو کھوچر۔ چنانچہ ہر گاہ تم توہہ پیٹہ غلبہ کرنگ موقعہ لبین تم کرنہ کانہ وایاہ تہ لحاظ نہ رشتہ
 داری ہند نہ عہدک یرضونکم بأفواہہم وتآبی قلوبہم تہن پیٹہ چھونہ کانہ اعتبار تم چھہ
 توہ راضی تھاوان تھو سیت دل چھک تہن تھن انکار کران دل چھکنہ تہن تھن سیت واکثرہم
 فسقون تمہو اندر چھہ زیادہ سرگش تہ شریر۔ تم چھنہ یڑھان عہد پورہ کران ایشتروا بآیات اللہ
 ثمنًا قلیلًا فصددوا عن سبیلہ حاصل کرتہو خدایہ سندین اکامن بدل دنیا بک متاع ناپائیدار۔
 توپتہ رچھہ پتہ لوک تہمزہ وتہ نشہ۔ لوکن دیو بچھہ تہمزہ وتہ پیٹہ پچنہ یعنی اسلاس منزد داخل سپدنہ
 انہم ساء ما كانوا یعملون ہر پات تم سمہ کامہ کران چھہ تمہہ چھہ سیٹھاہ چھہ کامہ لا یرقون فی

وَهُمْ بِأَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ
 اتَّخَشَوْهُمْ ۖ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾
 قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ
 وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَ
 يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۵﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ
 تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا

تہندس ہم قسم تو مس بنی خزاعس سیت جنگ اتَّخَشَوْهُمْ کیاہ تہہ چھوہ تمن کھوثرانی فاللہ احق ان
 تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ سُد خوف گڑھہ توبہ آسن زیادہ ہر گاہ تمہ بالیمان چھوہ
 قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ تہہ کمر وجگ تمن سیت تہہ گرفتار عذاب کرہ تمن اللہ
 تعالیٰ تہندس یوی اتھو۔ بیہ کرہ تمن اللہ تعالیٰ رسواتہ ذلیل وَنِصْرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ
 مُؤْمِنِينَ بیہ دیہ توبہ اللہ تعالیٰ تمن پٹھہ غلبہ، بیہ عظمہ شفا اللہ تعالیٰ بالیمان ہندس دن تہندس جگر
 شہلاوہ وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ بیہ کرہ دور اللہ تعالیٰ تہندس دن ہندس غمس تہ غمس وَيَتُوبُ
 اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بیہ کرہ اللہ تعالیٰ پن توجہ تمن پیٹھہ ہندس سوڑھہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو
 سوزوی زانہ ون۔ تس چھہ پور خبر پر پٹھہ اکتسدہ انجام گمندا انجام چھو اسلام۔ گمندا انجام چھو کمر سو
 چھو سیٹھاہ جمتہ وول۔ تمی پنہہ جمتہ سیت چھو مناسب احکام جاری کران۔ تہہ چھوہ کافر سیت مقابلہ
 کرنے نشہ پٹھہ ہوان أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ کیاہ توبہ چھہ گمانہ کہہ تہہ
 کیا ایو تراونہ اتھہ حاکس پیٹھہ امتحان وراہی۔ حالانکہ ونہ سپد نہ ظاہر توبہ اندرہ گمو کور جہاد کیا زہ جہاد چھہ
 کہوٹ۔ امی سیت چھو ہنان مخلص تہہ چھو غیر مخلص تہہ چھو وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولَهُ وَلَا
 الْمُؤْمِنِينَ وَابْتِغَاءَ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ
 کانہہ پو شیدہ دوستاہ نلس نشہ سر باوان آس مسلمان بیہ پر کھاونہ دوہو چیز وسیت اکھ گڑھہ نہ گنہہ قسمہ لیت

مَنْ دُونَ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ
شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۱۸﴾ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ

و لعل ہلہ ڈلہ کرن جہادس اندر۔ یہ گڑھنس نہ پو شیدہ تعلقات دوستی ہند آسن کافر ن سیت۔ واللہ
خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ خدائس چھہ تمہہ سارچی پور خبر یہ تمہہ کران چھوہ۔ مگر سو چھو پڑھان یہ تہس پانس
خبر چھہ تہ گڑھہ نئن تہ آشکارا سدن مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ مُشْرِكِينَ چھہ تہ قائلتھی
کہہ تم کیا کران آباد خدایہ سزہ مجدہ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكَفْرِ سبھہ حاکس منزکہ تم آسن اقرار
کران کفر چن کھن تہ کائین ہند۔ یہ آسن معبود برحقس ورا ی پو تیلن ہنز پرستش کران أُولَٰئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ سمن لوکن ہنزہ سارے رزہ عملہ عمارت مسجد وغیرہ ہمیشہ
چھہ ضایع شرکہ سبہ۔ تے چھہ روزہ ون ہمیشہ نارس اندر کیا زہ ذریعہ و سبب نجات چھو تمن ضائع
سہمت إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آباد کران نہ خدایہ سزن مسجد ن مگر تے
سمو ایمان اون معبود برحقس یہ پتہس دوہس دلہ سیت تو پتہ کرن تائو سیت تمیک اظہار تہ گو۔
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ یہ تھا وکھہ برپا نمازیہ کمر کہہ ادا زکوٰۃ۔ یہ کھوژ نہ کانہہ
خدائس ورا ی فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ نپس چھہ امید تہ توقع یعنی وعدہ کہہ تے لو کہہ
آسن ہدایت کہہ و نیواندرہ۔ منزل مقصودس وائہ و نیواندرہ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ کیاہ توہمہ کورودہ حاجین آب زمزم چاون، یہ مسجد حرامگ آباد تھاون برابر کَنَّنَ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمس شخصہ سندن عملن سیت سم ایمان اون معبود برحقس

الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَ
 اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
 هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾
 يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَوَجَدَتْ لَهُمْ فِيهَا
 نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿۲۱﴾ خُلِدِينَ فِيهَا أَلَا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ آجُرٌ

بہ پچیس دوہس یعنی قیاس۔ بیہ کرن جہاد خدایہ سزہ وتہ اندر۔ خدایہ سندہ کلمہ تھزہ خیطرہ لا
 یستون عند اللہ خدایس نفعہ چھنہ تم کو کھہ برابر واللہ لایہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ چھونہ
 وتھ ہاوان ظالم لو کن تمن ہھنہ یہ تھہ فخرہ تران۔ تمن چھو خیال حاجین آب زمزم چاون، مسجد حراج
 آبادی کرن یہ چھہ بڈ نیکی مگریہ ہھو کنہ فخرہ تران کہ یمن نیکن چھو تل اعتباریلہ شر کہ نشہ دور آسہ،
 قیاق پور پڑھہ آسہ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ تم لو کہ سمو ایمان اولن بہہ ہجرت کمر خدایہ سندہ خیطرہ، بیہ کو رکھ جہاد
 خدایہ سزہ وتہ اندر پنہ نیو مالو تہ جانوسیت، تم ہجہہ سیٹھا تھہ، درجہ کن، خدایس نشہ آب زمزم چاوه ونیو
 تہ تعمیر مسجد کرہ ونیو خوتہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تے لو کہ ہجہہ پورہ کامیاب سپدہ ون
 يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَوَجَدَتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خوش خبری چھو دوان تمن
 ہن پروردگار پنہ ہجرت، بیہ پنہ ہجرت رضامندی ہنز۔ بیہ تمن جشن ہنز تمن منز تھنہہ خیطرہ پو شہ ونہ
 نعمو چھہ خلدین فیہا آبدان ان اللہ عندہ آجر عظیم تمن جشن اندر آسن روزہ ون ہمیشہ۔ بیشک

عَظِيمٌ ﴿۳۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ
 إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ
 يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ إِن كَانَ
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَ
 أَمْوَالٌ بِاقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ
 مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
 جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ

اللہ تعالیٰ اسی بے حد بڑے بڑے منزہ بیہ یمن سے عطا کرنے لایا تھا اللہ تعالیٰ آمِنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ
 وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ای با ایمانوں کو توہیں جو کہ مال، پین، بائی پین دوست سے رینق، ان اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ
 عَلَى الْإِيمَانِ ہر گاہ تم گھری ٹوٹھ تھاؤں سے پسند کرن ایمانہ خوتہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ پس تھین کافر مالین سے باسن سیت سم دستانہ تعلق تھاؤں توہیں اندرہ ہس تے کیا چھہ
 خدا ہس نشہ نافرمان۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوَالٌ
 بِاقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ای پیغمبر خہہ فرماؤ کہ ای مسلمانو ہر گاہ توہیں آسنوہ مال پین پیچو پین، بیہ بائی پین،
 بیہ جورہ پین، یعنی مردس زنانہ پین، زنانہ مرد پین، بیہ قبیلہ کروں پین، بیہ زیونمت مال پین بیہ تجارت
 پین سمہ کس نقصاں خہہ کھوڑاں چھوہ، بیہ مرغوب کرہ جلیہ پندہ زیادہ ناٹھہ خدایہ سندہ خوتہ بیہ تہمزہ وہتہ
 اندر جہاد کرنے خوتہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ تلہ پیارو
 ٹوتان یوتان سوزہ اللہ تعالیٰ پین حکم یعنی عذاب، یعنی ہجرت نہ کرنک سزا۔ اللہ تعالیٰ چھونہ وتھہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۲﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي
 مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
 فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا
 رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
 عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا
 وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿۲۴﴾

ہاوان نافرمان لوکن منزل مقصود حاصل کرئس کن۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ
 وَيَوْمَ حُنَيْنٍ تھمیں اللہ تعالیٰ ان کمر توبہ مدد دے یاری وار میں جاسن خصوصاً جنگِ خلیس منز راڈ
 اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا یلہ توبہ عجیب آو بوزنہ پندہ لشکر ہند زیادہ آسن تمہ سائے
 اوس تہزہ لشکر ہند تعداد باہ ساس ۲۰۰۰ کافرن ہنزہ لشکر ہند تعداد اوس ژور ساس۔ کس دیت نہ
 توبہ تمہ لشکر زیادہ آسن کانہہ فائیدہ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ بیہ سپد توبہ پیٹھ
 زمین کھول آتھہ تنگ سخت خوف زدہ سپد نہ موکھ۔ کافرن ہندہ توبہ پیٹھ بکثرت تیر لاینہ سیت تھ
 وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ چنانچہ تہہ ژلوہ پپاسپد تھ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 توپتہ ترو اللہ تعالیٰ ان دلک قرار پنے نس پیغمبرس بیہ بایمان پیٹھ۔ چنانچہ ساری یلہ ژل حضرت نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ژو و ثامت قدم سفید کاترس پیٹھ سوار۔ سیت آسکھ حضرت عباس، بیہ
 ابو سفیان رکائس تھپ کمر تھ حضرت عباس اتھہ دوو کھ لوکن آلو تم ژلت آس بیہ پور کھ پانہ باواز بلند
 اَنَا النَّبِيُّ لَكَذِبَ اَنَا ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تمہ آوازہ سیت کافرن دہشت پیوتہ اہرہ بیو تھ وَأَنْزَلَ جُنُودًا
 لَمْ تَرَوْهَا بیہ سوز اللہ تعالیٰ ان آساکھ طرفہ لشکر اہ یوسہ نہ تہہ وچھان آسوہ یعنی ملائک تمہ سیت
 بیہ اثر سپد کہ مسلمان سپد بیہ جمع۔ توپتہ ہمزہ تمود دوبارہ لڑای کرن وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا بیہ کرن
 پتولا کہ کافر عذابس گرفتار۔ فتح کرن عطا پنے نس پیغمبرس وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ یوہے چھو

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
 نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمَلِهِمْ هَذَا ۚ وَ
 إِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۸﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَئِيْمُونَ بِاللَّهِ
 وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ
 رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

کافرن ہند سزاؤنیاءس منز ثَمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ توبتہ کرہ اللہ تعالیٰ توبہ
 نصیب سمو اندرہ بس خوش کرئیس۔ چنانچہ واریاہ سپد سمو منزہ مسلمان وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ
 چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ اے
 مسلمانو مشرک چھہ ناپاک ٹر کچہ ناپاکی سیت بہہ بچھہ اعتقاد و سیت فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
 عَمَلِهِمْ هَذَا کس مہ سپدن تم نزدیک مسجد حرامس سمہ ورہہ پتہ وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ ہر گاہ چھہ تھندہ نہ ایچہ سبہ فقرس یا تجار بچس نقصاں کھوژو، چھہ روزو
 خوش، اللہ تعالیٰ کرہ توبہ مالدر پندہ فضلہ سیت ہر گاہ سو یٹھہ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ پڑھاٹھ اللہ
 تعالیٰ چھہ سو روی زانہ ون سیٹھاہ حکمتہ وول قَاتِلُوا الَّذِينَ لَئِيْمُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اے
 مسلمانو جنگ کمر و تین لوکن سیت سم نہ پور پڑھہ کران چھہ معبود برحق بہہ چھہ پور پڑھہ کران قیامتس
 دوہس وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بہہ چھہ حرام زانان تم چیز سم خداکس نہ تھندہ
 پیغمبرن حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم حرام کمر۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ بہہ سم نہ پوزدین،

أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَغِيرُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
 النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
 يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
 قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۲۰﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
 وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ

دین اسلام قبول نہ تسلیم کران چھہ من الذین اوتوا الکتاب تمو لو کو اندرہ تمن کتاب
 عطا کرنہ آہ یعنی یهود و نصاریٰ ان سیت، سوی جنگ کمر و توتان حتی یعطوا الجزیة عن ید
 و هم صغیرون یوتان نہ تم باج تارن یس پیش کرن پنہ نیواتھو ماتحت روز تھہ۔ ذلیل تہ
 خوار سپد تھہ۔ ان ماتھہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ بیہ
 چھہ ونان بہو دواندرہ بعضی لو کہ زہ عزیر علیہ السلام چھو خدایہ سندچو، بیہ چھہ نصاریٰ اواندرہ اکثر ونان
 کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام چھو خدایہ سندچو ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ سمہ چھہ تہنزہ تھہ، تہنزہ و چانیو۔
 حقیقتس سیت چھونہ یمن تھن کاہنہ تعلقاہ یضاهئون قول الذین کفروا من قبل
 سمہ تہ چھہ تمنی کافرن ہنزہ تھہ ہشہ کران تم تمن برونھہ آس قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اللہ
 تعالیٰ گالن تمن کوئن چھہ گوشان تم پزہ نشہ ڈلتھہ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ تمو چھہ بناومت عالم تہ عابد ہن مطاع۔ حلال و حرامس
 منز چھہ تہنزہ اطاعت تہھی کران یشہ خدایہ سز شوبہ کرن۔ صریح حکم نصس پیٹھ چھہ تہندین اقوالن
 ترجیح دوان یشہ اطاعت کرن کنیہ عبادت کرن۔ یہ شوبہ باخاص معبود برحقہ سزنی یاثر کرن۔ امہ
 اعتبارہ چھہ تم تہ مشرک بیہ چھہ عیسیٰ بن مریمس علیہ السلام رب زانان۔ تمن چھہ خدایہ سندچو
 زانان۔ یہ تہ گوشرکی وَمَا أَسْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا حالانکہ تمن آیونہ حکم کرنہ خدایہ

ابن مریمؑ وما أمرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا
 لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾
 يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى
 اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ
 الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
 عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ

سبزن کتابین اندر۔ مگر معنی معبود بر حقس عبادت کرنگ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ کس درای چھونہ
 معبودی کانہہ عبادتس لایق کانہہ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ سو چھو مژہ تہ پاک تہندہ شرکہ
 نشہ یُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یرشان چھہ تم کہہ تھیہہ کرہ ہن خدایہ سُنْدُ نوری
 دین اسلامی پنہ نیو چھو کوسیت یعنی آسوسیت چھہ اسلامس پیٹھ اعتراض کران وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا
 أَنْ يَشَاءَ نُورَهُ خدا چھونہ پسند کران مگر فقط ہن نور پور کران۔ سونور کما س و اتان و لَوْ كَرِهَ
 الْكَافِرُونَ اگرچہ ناخوشی اتین کافرن۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ سُو
 معبود بر حق گو سوی تم سوز ہن پیغمبر بر حق بوڈ ہدایت ہتھ ہیہ دین حق ہتھ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
 ہتھ تھ غلبہ دیہ سارنی دین پیٹھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ ناخوش اتین مشرکن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ آمَوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ آی با ایمانو پڑپاٹھ
 واریاہ عالم یہودن ہند، سیہ عابد نصاریٰ ان ہند چھہ لوکن ہند مال کھیوان ناحق۔ یعنی ہن کھم چھہ کھٹان۔
 عوامن ہنزہ مرضی موافق چھہ فتویٰ لیکھان تہن نشہ نذرانہ وصول کران وَيَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا
 فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
 هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۳۸﴾
 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي

آی و جہہ چھہ تم لوکن پتھ رٹان خدایہ سزہ وتہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ۔ یکمازہ تہند یواہر یو فتویٰ او
 سیت چھہ لوکھ ڈھوگن منز تھہ، گمراہی منز بوڈتھ روزان۔ پوز چھنہ قبولی کران۔ بلکہ پوز تھانڈنگ
 چھوکنہ خیالی گھوہان۔ غایت حرص و ہوسہ موکھ چھہ مال جمع کران تھہ متعلق یہ سخت و عید چھوکنہ
 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ ہم لوکھ جمع کران تہ
 سونبر او ان چھہ سون تہ روپھ تو پتہ چھہ تھہ خرچ کران خدایہ سزہ وتہ اندر فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ
 الْيَوْمِ نَس و بون کڈرہ عذاب بشارت یَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سمہ دہنہ نار جہنم پتھ
 گرم ایہ کرنہ سون تہ روپھ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ نَس یہ داغ کرنہ تمہ سیت و یکن تہندین
 وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ یہ لہہ کا نین تہنزن، یہ تھرن تہ کٹشن تہندین۔ ونہہ ایچھہ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ
 لِأَنْفُسِكُمْ یہ چھو سونہند مال نَس توہہ سونبر واتھ اوسوہ پنہہ خیطرہ۔ فَذُقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ نَس
 ژہو مزہ تمیک یہ تہہ سونبر او ان آسوہ۔ چوئیکہ امہ بروئھہ آہہ حج ذکر کرنہ۔ مشر کو اوس خلط و ملط
 کورمت ریتن ہندس حساس اندر۔ فخر مس آس صفر بناوان۔ ذی القعدس آس ذی الحجہ بناوان پنہ نیو
 مصلحتو موجب۔ تمی موکھ فر مو واللہ تعالیٰ اَن اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
 پزپاٹھ اللہ تعالیٰ آس نَس چھہ ریتن ہنز گریندہ باہ رتھہ رِقِ كَتَبَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ خدایہ سزہ کتابہ یعنی لوح محفوظ آندر۔ سمہ دہنہ پتھہ آسمان تہ زمین پیدہ کورن و منها

كَتَبَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا
 أَرْبَعَةً حُرْمًا ط ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا
 فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
 يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ط وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾
 إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ

أَرْبَعَةً حُرْمًا تموریو اندرہ چھہ ژور ریتھہ تعظیمک۔ ذی القعدہ۔ ذی الحجہ۔ محرم۔ رجب
 ذلک الدین القیم یوہے امر مذکور چھو حساب، دین مستقیم۔ یعنی ریتن ہند باہ آسن۔ تعظیم و
 حرمتک ریتھہ ژور آسن۔ اتھہ بدل یوسہ جالپتج طریق آس۔ تم آس بہوریتو علاوہ یکہنہ ریتھہ ہرہ راوان
 تہ زیادہ کران۔ بیہ آس تعظیمہ کین ریتن اندر تہ رد و بدل کران۔ یہ گنیہ بد دینی۔ دین گوئی یہ اللہ تعالیٰ
 ان مقرر کرور فلا تظلموا فیہن أنفسکم پس مہ آسویکن ژورن ریتن اندر پانہ وان لڑای
 کمر تھہ تمکن ژون ریتن ہنز بے حرمتی کمر تھہ پأس پیٹھہ ظلم کران وقاتلوا المشرکین کافۃ
 کما یقاتلونکم کافۃ بیہ آسوسارنی مخر کن سیت جنگ کرنہ خیطرہ تیار روزان۔ تھہ پاٹھہ تم توہیہ
 سارنی مسلمان سیت جنگ کرنہ خیطرہ آمادہ چھہہ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بیہ زانوہ اللہ تعالیٰ
 چھو پرہیز گارن سیت سیت۔ تمہہ تھا و ایمان و تقویٰ پنن شعار کھو ژومہ کانسہ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي
 الْكُفْرِ ریتن ہند اورہ یور کرن، تعظیمہ کین ریتن رد و بدل کرن چھونہ مگر کھر س اندر زیادتی کرن
 يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا عام کافر چھہ امہ سیت گمراہ یوان کرنہ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا
 کافر چھہ اتھہ تعظیمہ کس ریتس اکہ ور یہ پنے نیو اغراض نفسانیو موکھہ حلال زانان۔ تھہ پاٹھہ پيس ریتس
 ئس نہ تعظیمک ریتھہ اوس تعظیمک ریتھہ زانان لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تھہ برابر تھا و ان تعداد

اللَّهُ فَيَجْلُو مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۳۲﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۳﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ

ریتن ہند سم اللہ تعالیٰ ان محترمہ بناومت آس فیجولو ما حرم اللہ مجھ حلال بناوہ عن تمن ریتن سم اللہ تعالیٰ ان محترمہ معظم مقرر کرمت آس زین لہم سوء اعمالہم زینت آؤنہ جہزن تجھ کاین۔ ممکن جھہ تمہ تجھہ کامہ جان تہ رتہ بوزنہ یوان واللہ لایہدی القوم الکفرین اللہ تعالیٰ جھونہ تھہ ہوان تہ توفیق دوان کافر قومس یایہا الذین امنوا مالکم اذا قيل لکم انفرؤا فی سبیل اللہ اکی بایمانو توہم کیاہ سپدوہ۔ توہم یلہ وننہ یوان جھونیر و خدایہ سزہ وتہ اندر جہاد کرنہ خیطرہ انا قلتم االی الارض ما یل سپد و جہہ زمیس عن یعنی کسل و کمال تزار و و تہہ ارضیتہم بالحویۃ الدنیامن الآخرة کیاہ توہم آیوہ بوزنہ جان دنیاہ ج زندگی آخرتہ خونہ فماتاع الحیوۃ الدنیامن الآخرة اقلیل حقیقت جھہ بیجہہ دنیاہہ زندگی ہند مال و متاع جھونہ آخرتس نسبت مگر سیٹھا کم انا تنفرؤا یعدبکم عذابا الیما ہر گاہ تہ جہہ جہاد کرنہیر واللہ تعالیٰ کرہ وہ نڈر عذاب۔ ویستبدل قومًا غیرکم بیہ انہ توہم بدل بیس قومس جہہ خم کمر تھہ ولا تضروہ شیئا جہہ بیجونہ خدایہ سندس ونیس عنہ قسمہ ضروراتا و تھہ واللہ علی کل شیء قدير اللہ تعالیٰ جھو پر تھہ چیزس بیٹھ قدر تہ دول انا تنصرؤہ فقد نصرؤہ اللہ ہر گاہ تہ جہہ امس پیغمبر بر حقس مدد کمر و کانہہ پروا جھونہ۔

الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا
السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۱﴾
إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

بیشک اللہ تعالیٰ ان کمر تین بن یاری سے مدد دتمہ وقتہ سہمہ وقتہ زیادہ پریشانی ہند وقت اوس اذ اخرجہ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ یلہ تم کافر ونگ کمر تمہ بن شہر سے وطن تراؤس پیٹھ مجبور کمر ثانی اثْنَيْن ۗ یلہ تم
آس دویو منزہ دو سہم صاحب بیاکھ صاحب اوس ابو بکر صدیق تین سیت اذْ هُمَا فِي الْغَارِ ۗ یلہ تم
دشوے آس گو پھ اندر سیتھ غار ثور آس وٹان اذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ۗ یلہ بنی مبر حق پنہ نس یار
غارس ابو بکر صدیق فرماوان اوس لَا تَحْزَنْ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۗ کھوڑمہ، غم مہ بر۔ بیشک اللہ تعالیٰ
سند مددھو اسہ سیت فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ۗ نس ترود اللہ تعالیٰ ان وک قرار سے تسلی تین پیٹھ
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ۗ بیہ کور تین مدد اللہ تعالیٰ ان ملائک ہنزہ تمہ لشکرہ سیت یوسہ نہ توہہ
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ بیہ ترود اللہ تعالیٰ ان کافرن ہنزہ تھ یعنی شرک و کفر کہ
اشاخ تھ سیتھ بون سے پست تم کمرن خوار و ذلیل وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ اللہ تعالیٰ سند کھی جھو
سیتھہ ہند وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۗ اللہ تعالیٰ جھو غالب حمتہ وول۔ اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ۗ ای
مسلمانو نیر ان آرو جہادہ خیطرہ سہمہ ساتہ جہہ نیر نہ خیطرہ اعلان آسہ یوان کرنہ۔ سلاح و رای سے سلاح
پور تھ سے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ بیہ آرو جہاد کران خدایہ سزہ و تہ اندر
مال و جانہ سیت۔ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ای جھو جہدہ خیطرہ بہتر ہر گاہ جہہ زمانہ جھوہ
لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا ۗ ہر گاہ آسہ ہامالاہ جلد حاصل سپدہ و ن بیہ آسہ ہاسفراتہ تھوٹ

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ
وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ
لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ
وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۳۷﴾ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ
أَذْنَتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ
الْكَاذِبِينَ ﴿۳۸﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

لَاتَّبَعُوكَ تلبه نيره بن منافق توبه سبت ولكن بعدت عليهم الشقة لکن تموزون کہ سفرج
مسافت چھ سیٹھاہ زیتھ تمی لگ تم ارہ سرہ کرنہ و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا
معمکم ہیر ون تم خدایہ سندا قسم ہاوتھ زہ ہر گاہ اسہ وسعت آسہا اس تہ نیرہ ہو توبی سبت۔
یہلکون انفسہم اہر قسم ہاؤ ہاؤ چھہ تم ہن پان ہلاک کران مستحق عذاب کران واللہ یعلم
انہم لکاذبون اللہ تعالیٰ چھوزانان زہ بیشک چھہ تم ایزیر عفا اللہ عنک لہم اذنت لہم اللہ
تعالیٰ ان کور توبہ عفو۔ توبہ کیا ہر دیو تہ تم اجازت جگہ نشہ پتھ روز نگ۔ تہہ بیار زہ ہے حتی
یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکذبین یوتان توبہ نہ ہا کووون پوز، ہیر زانہ ہو کہ تہہ ایزیر۔
لا یستأذینک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم
توبہ نہ حض مگن نہ اجازت تم کو کہ تم پتھ کران آس معبود بر حقس ہیر پتمس دوہس یعنی قیامتس
دوہس تم کیا روزن تہہ مال و جاوسبت جہاد کرنہ نشہ واللہ علیکم بالمتتین اللہ تعالیٰ چھو پوزانان
پرہیز گارن انما یستأذینک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر اجازت مگن تم کو کہ

وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۳۵﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ۗ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعْدِيِّنَ ﴿۳۷﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ۚ وَلَا أَوْضَعُوا خِلْفَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ

هم نه پر شه کران چه معبود بر حقش نه پشمس دوس وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون
 بیه تمن شک چھو کن اندر کس چه تم تمنی شکن اندر حیران سرگردان پھیران ولو ارادوا الخروج
 لاعدوا له عده ہر گاہ تمن جمادس نیرہ نگ ارادہ آسہاتلہ کرہ بمن تیاری تمہ خیطرہ سلاح
 سامانہ سیت بیه کرہ بمن و تہ خرچک بندوبست و لکن کرہ اللہ انبعائتم فثبطتم لیکن اللہ
 تعالیٰ ان کرنا پسند نہوند نیرہ خیطرہ آمادہ سپدن کس کمرن تم گانگلہ۔ اوکن دژنگہ نہ اتھ و تھ۔ وقیل
 اقعدوا مع القعدیین و نھ آو تمن بیو بیو ان سیت یعنی زنان نابالغن تہ معذوران سیت
 لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا ہر گاہ تم نیرہ بمن توہم سیت توہم منز ہر اوہ
 بمن نہ کیمہ تہ خرابی تہ نقصانہ و رای و لا اوضعوا خلفکم بیه کرہ بمن سیٹھاہ جلدی توہم منز
 تفرقہ تراونہ خیطرہ یبغونکم الفتنۃ تم چه تلاش کران توہم منز قنہ تہ فساد واقع
 سپدن و فیکم ستمعون لھم توہم منز تہ چه کاتیہ ہمز ان تھن کن تھوہون واللہ علیکم
 بِالظَّالِمِیْنَ اللہ تعالیٰ اس چه پور معلوم مفید تہ ظالم لقتبا ابتغوا الفتنۃ من قبل و قلوبوا

وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾
 لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ
 حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۳۸﴾
 وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أُنذُنُ لِي وَلَا تَفْتِنِّي إِلَّا فِي
 الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۳۹﴾
 إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُوءُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ
 يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ

لَكَ الْأُمُورَ تحقیق تمویز بر او تھہ نہ کوشش فسادچہ بیہ آس ووان در تہنزن کابین حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ
 وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ یو تان پڑوعدہ آؤ۔ غالب سپد خدایہ سُنْد حُم۔ وَهُمْ كَرِهُونَ تم آس نہ تھہ
 پسندی کران۔ تھہ پانھہ سپدہ آیندہ تہ تہہ مہ بز وکانہہ فکر وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُنذُنُ لِي
 وَلَا تَفْتِنِّي سمومنافقو منزہ چھوسو شخص تہ سم وون مہ دیو حص اجازت میہ مہ تراو وخرابی اندرمہ مہ
 حص کمر ورومہ چن حسین زنان ہندہ سببہ گر قاربلا آلا فی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وارہ یوزو تم چھہ بیس
 بلایہ منزہ پیمتی۔ سونوکیہ نافرمانی ہنز بلای کیازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنزہ نافرمانی تہ کفرہ خوتہ
 چھہ تہہ کابنہ خرابی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ پز پانھہ جہنم چھو کافرن تہ نافرمانن احاطہ کرہ
 وَنَ إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُوءُهُمْ ہر گاہ توہمہ کابنہ رت چیزہ واتان چھو، رتجاتا ہ پیدہ سپدان
 چھہ تہن چھوتہ ناخوش یوان وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ بیہ ہر گاہ توہمہ واتان چھو کابنہ غمماہ يَقُولُوا
 قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وناں چھہ تم تہہ آسہ چھہ ہن گوم برو نٹھی پوختاومر۔ پان ہن
 بچوومت ویتولوا وَهُمْ فِرْحُونَ بیہ چھہ توہمہ نٹہ نیران تہ گوہان، خوشیہ ماران تہ شادیانہ کران۔

فِرْحُونَ ﴿۵۰﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ
 مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ
 هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ
 نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِي
 أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿۵۲﴾ قُلْ
 أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِتْكَمُ كُنْتُمْ قَوْمًا
 فَسِقِينَ ﴿۵۳﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا

اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تمہیں و جو حضرتہ جو اب زئی تمہہ۔ کہہ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
 تمہہ فرماؤ کہ یارسول اللہ ہرگز ولتہ نہ آسہ کا نہہ چیز مگر سوی بس سائہ خیرہ مقرر کورمت آسہ اللہ
 تعالیٰ ان ہُوَ مَوْلَانَا سوی چھو سون مالک تہ آغہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ
 تعالیٰ سی پیٹھ گروہہ بالیمان ہند اعتماد کرن۔ بس گروہن پندہ سارے کامہ سپرد کرن۔ بیا کہ تمہہ یہ کہہ
 قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ تمہہ فرماؤ کہ تمہہ چھو نہ پاران سائہ خیرہ مگر
 دویو خوبیواندرہ اکس خوبی۔ سوگیہ نصرت یا شہادت وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ
 مِّنْ عِنْدِي اس چھہ پاران تمہہ خیرہ چھہ تمہہ کہ خداوند تعالیٰ و اتا وہ توہمہ پندہ طرفہ کا نہہ عذابا
 اَوْ بِأَيْدِينَا یا سانوی اتھو دیہ توہمہ کا نہہ سزا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ بس پیارو تمہہ اس تہ
 چھہ توہی سیت پاران قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا تمہہ فرماؤ کہ یارسول اللہ کہہ ای منفقو تمہہ کر تو
 خرچ، خوشی سان یا ناخوشی سان لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ تمہہ خیرات و صدقات ہرگز قبول لیہ نہ کرن۔
 إِتْكَمُ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ کیا زہ تمہہ چھو نہ فرمان لو کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا

أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
 إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۵۳﴾
 فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
 بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵۴﴾
 وَيَجْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مَالُهُمْ مِنْكُمْ وَلَا كَيْفَهُمْ قَوْمٌ
 يُفْرَقُونَ ﴿۵۵﴾ لَوْ يَشَاءُونَ لَمُجِبِّدُونَ مَلْجَأًا مَغْرِبًا أَوْ مَدْخَلًا
 لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ﴿۵۶﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتُرُكَ

أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ کاہنہ چیز چھوٹے منع کران تہند خیرات و صدقات قبول کرنے نشہ۔
 مگر یہ ہے بوڈ چیز کہ تم کو کور انکار محبوب برحقس یہ تہندس پنہبرس وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا
 وَهُمْ كُسَالَىٰ یہ چھنہ تم نماز پران مگر کہا نہ سان وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ یہ چھنہ
 تم مال خرچ کران مگر نا خوشی سیت فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ توبہ مہ این جان تہ عجایب
 بوزنہ تہند مال یا یہند اولاد۔ یہ تہندہ خیرہ نعمت چھنہ بلکہ چھو عذاب إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ چھو نہ یڑھان مگر بی زہ تمن تمہ مالہ سیت تہ اولاد ان ہندہ سیت عذابس
 گرفتار کرن دُنیا چہ زندگی اندری وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ یہ نیرن تہند زوہر سی اندر یعنی
 تم مرن در حالت کفر وَيَجْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مَالُهُمْ مِنْكُمْ یہ چھنہ تم قسم ہاوان خدا لہ سہ سیت
 پیٹھ کہ تم چھنہ توبی منزہ۔ حقیقت چھنہ کہ تم توبہ منزہ چھنہ وَلَا كَيْفَهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ مگر تم چھنہ
 جماعتھاہ بڑول۔ کھو تران توبہ۔ لَوْ يَشَاءُونَ لَمُجِبِّدُونَ مَلْجَأًا مَغْرِبًا أَوْ مَدْخَلًا ہر گاہ تم لہن کاہنہ
 چھین جایاہ یا کاہنہ سر تاباہ تہ گوچھاہ یا کاہنہ اثر خج جایاہ لَوْ لَوَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ضرور دورہ ہن تمن
 جانن کن ووتہ تمان وَمِنْهُمْ مَن يَسْتُرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ یہ چھو تمکو منافقو اندرہ تم توبہ طعنہ

فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا
 مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿۵۹﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
 وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۶۰﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ

دوان چھ صدقائے ماس تقسیم کرئیں اندرونان چھہ نعوذ باللہ امہ کس تقسیمس اندر آؤنہ عدل کرنہ
 فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ کس ہر گاہ تم تہنزہ خواہشہ مطابق
 کینہہ عطایہ ہا کرنہ تلہ گوشہ ہن تم خوش یلہ نہ تم تہنزہ خواہشہ مطابق آؤ عطا کرنہ۔ لہذا چھہ تم بے
 زار نہ ناخوش وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ہر گاہ تم راضی سپدہ ہن تمہہ سیت یہ
 تم خدائیں تہ تہنہہ پیغمبرن دژوو وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ بیہ ہر گاہ
 تم ونہ ہن بس چھو اسہ تہ یہ اللہ تعالیٰ ان اسہ عطا کور ہن فضل بیہ تہنہہ پیغمبرن إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ
 اس چھہ گوڈہ پیٹھے اللہ تعالیٰ اس کُن راغب سپدہ ون۔ کس نش چھہ اس امیدوار إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
 لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ صدقات و خیراتن ہند مال چھونہ مگر محتاجن ہندہ خیطرہ بیہ مسکین ہندہ خیطرہ بیہ
 صدقاتن ہند مال وصول کرہ ونین ہندہ خیطرہ۔ بیہ ہندہ دل اسلامس کُن مائل کرن آسن۔ بیہ غلامن
 ہنزہ گردنہ آزاد کرنہ خیطرہ۔ بیہ قرضدان ہندہ خیطرہ۔ بیہ خدایہ سزہ وتہ اندر جہاد کرہ وتین ہندہ
 خیطرہ بیہ مسافرن ہندہ خیطرہ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہوی چھو فرض تہ مقرر کرنہ

النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ اذُنٌ قُلُّ اذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ مِنْ
 بِاللهِ وَيَوْمَ مِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ اٰمَنُوا
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾
 يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ
 اَحَقُّ اَنْ يَرْضَوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا
 اَنَّهٗ مِنْ يُّحَادِدِ اللهُ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

آمت خدایہ سیدہ طرف۔ اللہ تعالیٰ چھو پور زان و ن حمتہ و ول و مِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ تہم
 مناقبو اندرہ و چھہ بعضی تم تکلیف چھہ و اتنا وان نبی کریمؐ کس کھوسیت۔ وَيَقُولُونَ هُوَ اذُنٌ دبان
 چھہ نموذ باللہ کنہ نیڈ سارنی ہنزن کھن گن تھوان۔ لہذا چھو تمن اُپڑونتھ دھوکہ دین آسان قُلُّ تہہ
 فرماؤ کہ کہہ اذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ تم چھہ تہندہ خیطرہ بہتری سارنی گن تھوان تمن چھو فخرہ تران تہہ
 شخص کہہ تم چھہ تھو وان۔ مگر تم چھہ تہنرہ فریب کاری پیٹھ چشم پوشی کران۔ تم ہنزن کھن ایمان
 انہ و ن چھنہ یَوْمَ مِنْ بِاللهِ بلکہ تم چھہ خدایہ پاکہ سندس کلام پاکس ایمان اتان تہ یقین کران
 وَيَوْمَ مِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ بیہ چھہ تم با ایمان ہنزن کھن سمہ ایماندارانہ تہ مخلصانہ آسان چھہ ایمان
 اتان تہ یقین کران وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ بیہ چھہ تم مہربان تمن ہندہ خیطرہ سمہ ایمان
 اُون توبہ اندرہ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بیہ تم لو کہہ ایدانہ تکلیف و اتنا وان
 کھوسیت پیغمبر خدایس تہندہ خیطرہ چھو کڈر عذاب يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ قسم چھہ
 ہوا ان خدایہ سید توبہ برو نہ کھن تہہ راضی کرنہ خیطرہ وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يَرْضَوْهُ اللہ
 تعالیٰ تہ تہند پیغمبر چھو زیادہ حق تھوان تم کیا بن راضی کرنہ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ہر گاہ تم پڑ
 پاٹھہ با ایمان آسن اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهٗ مِنْ يُّحَادِدِ اللهُ وَرَسُوْلَهُ اَيَا تَمَن چھنا خیر زہ بس اکھاہ مخالفت
 تہ مقابلہ کرہ خدایس تہ تہندس پیغمبرس سیتِ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا بیشک جہندی

وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ تَسْوَأُ
 اللَّهُ فَنَسِيهِمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۶۷﴾ وَعَدَّ اللَّهُ
 الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكٰفِرَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدًا
 فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۶۸﴾
 كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكْثَرَ
 أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ

بدستور بجزم کران۔ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ مناق مرد و مناق زنانه چه آه
 اکس ہی نفاقس اندر۔ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ پیچھے کا مین ہند چھ لوکن
 صلاح و ان۔ کفر و مخالفت اسلام چھ لوکن تعلیم و ان۔ رڈ و کامیو ایمان سے متابعت نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے چھ پھر ان سے پیچھے رٹان وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ موبچھ پنہ چھ و پتھ ٹھوان۔ خدایہ
 سزہ و پتھ اندر چھ کینہہ سے خرچ کران تَسْوَأُ اللَّهُ فَنَسِيهِمْ تم و مشر و خدا۔ فرمانبرداری نہ کرنہ
 سیت۔ بس مشر او تم سے خداین پنہ نیو لطف و مہربانی و پتھ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ پڑ پتھ تم
 مناق چھ سیٹھ سرگش سے نافرمان وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكٰفِرَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدًا
 فِيهَا وعدہ کور اللہ تعالیٰ ان مناق مردن ہیہ مناق زنائن ہیہ نہ و انہ کافر ن نار جہنمک، پتھ منز تم
 ہمیشہ روزن ہی حَسْبُهُمْ سؤی نار جہنم چھو تم بس وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ تم کر
 اللہ تعالیٰ ان دور پنہ رحمتہ نے۔ ہیہ چھو تم ہی خیطرہ ہمیشہ روزہ و ان عذاب كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 کانو اشدا منکم قوۃ و اکثر اموالا و اولادا ای مناق چھ ہیہ تم لوکن، ہی سم توہم برو پتھ

بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ
 وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹۹﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ
 نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۗ وَقَوْمِ
 إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمُ رُسُلُهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

گڈ رے۔ تم آس طاقت و توانائی کن ٹھنڈہ خوتہ زیادہ بیہ آس ٹھنڈہ خوتہ زیادہ مالہ کن بیہ اولاد و کن
 فَاَسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ لیس تُل تموتمتع تہ فایده پنہ نصیبہ موجب فَاَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ نہ
 تہ تلوتمتع پنہ نصیبہ موجب۔ کَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ بیٹھ پاٹھ تموتمتع تُل پنہ
 نصیبہ موجب تم توہہ بروٹھ آس وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا نہ تہ زاوہ بیچھ کاین اندرتھے پاٹھ
 بیٹھ پاٹ تم ژامت آس اُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تے لُوکھ گے تم سمن ہنزہ
 رثہ عملہ ضائع کنیہ دنیا س اندرتہ آخرتس اندرتہ اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تے ہتھہ بیہ تاوان زد
 دنیا آخرتہ راحت و آرامہ نشہ محروم اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ
 وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ کیاہ سمن چھنا واٹر مژ تھن لوکن ہندہ گنج خبر
 سمن یکن بروٹھ آس، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم۔ بیہ شہر مدینہ کین لوکن،
 بیہ قوم لوط سمن ہنزہن ہشین تلک پیٹھ سہ اَتَتْهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تھن نشہ تہ آئیے پیٹھ ہند
 نہ دلیلہ ہتھ۔ مگر تمبو کرنا فرمانی تہی نافرمانی سیت گے بُر باد تہ ہلاک فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ
 كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ امیہ بُر بادی سیت کورنہ اللہ تعالیٰ ان تھن پیٹھ کھنہ ظلم تم آس پنہ نین پان
 پیٹھ پائے ظلم کران، خدایہ سزنا فرمانی کرنہ سیت۔ سمن مُنَافِقُنَ ہند تہ گڑھہ کھو ژن اتھہ عذابس
 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ بِالایمان مردہیہ بالایمان زنانہ تم ہتھہ اوڈین ہند

يُظَلِّمُونَ ﴿۴۰﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۴۱﴾
وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَدَّتِ عَدْنٌ
وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۴۲﴾

دینی رفیق سے دوست یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تم مجھ پر رزن کا مین ہند
امر کران، مجھ کا میونسٹر پتھ رنان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ بیہ مجھ تم نماز
برپا تھا وان بیہ زکوٰۃ ادا کران وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیہ مجھ حکم مانان خدا بیہ سند بیہ جہنم س پیغمبرہ
سند۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ سے لو کہ گئے تم مین پیٹھ ضرور اللہ تعالیٰ رحم کرہ۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ بیشک اللہ تعالیٰ مجھو سیٹھا غالب سیٹھا حکمت وول وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وعدہ کور اللہ تعالیٰ ان با ایمان مردن سے با ایمان زنان تمن جتن ہند سمو
منز جو بیہ پکان آسن خلدین فیہا تمنی جتن منرزوزن ہمیشہ وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ بیہ نفیس نفیس مکان
ہند فی جَدَّتِ عَدْنٌ ہمیشہ روزہ نہ گن جتن منرز وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ بیہ رضامندی اللہ تعالیٰ
منرز۔ سو مجھ ساروی نعمتو اندرہ بدنعت ذلک هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سے گنیہ بڈر ستگاری سے کامیابی
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلظْ عَلَيْهِمْ ای پیغمبر برحق جہاد کرو کافرن سے منافقن
سیت۔ بیہ کمر ودرشتی سے سختی تمن پیٹھ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيْسُ الْمَصِيدُ تمنز جاب مجھ جہنم کا تراہ مجھ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِهِمْ جَهَنَّمُ وِبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۴۲﴾ يُحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يُبَالِغُونَ فِي إِتْيَانِهِمْ لِلْإِلَهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ أَعْيُنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا

جاہد چھ سو تہمہ و اتنے خیرہ یحلفون باللہ ما قالوا تم منافق چھ قسم ہاوان خدایہ سُنَدِکَ اَسْمَہِ دُونَ نہ تمہ قسمک بہنہ تمیوک توہم پیغام دوت۔ مثالیہ تہم کہ تم آس دپان اس کرون شہید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بیشک و نہ تمو کفر چہ تہم چھ لفظ نسبت بذات مقدس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تہمہ قتلک ارادہ کزن۔ یہ تہ گو کفری وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اِسْلَام ظاہر کرتہ کوز کہ کفر وَهُمْ يُبَالِغُونَ فِي إِتْيَانِهِمْ لِلْإِلَهِ یہ نہ حاصل سُد کہ۔ جنگ تبوکہ نیشہ واپسی اندر کریو کہ قصد بے خبری اندر نبی کریم پیٹھ حملہ کتر تہ تہمہ شہادتک۔ مگر تہ منز سپد ناکام۔ تمہ ساتہ آس نبی کریم سیت حذیفہ بن یمان یہ عمار بن یاسر۔ لشکرہ نیشہ الگ سپد تہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہم کوہہ پیٹھ آس ترن یرشان۔ باہ شخص مباحقو اندرہ تم نقاب پوش آس، تہنہ کانہہ تمن پر زہ ناوہہ۔ تم دورے تمن ترین صاحبن پتہ۔ چنانچہ عمار بن یاسر کور تمو گیر۔ حذیفہ بن یمان رُود تہمدین دوشن ہند چانٹ دگان۔ یوتان تم ساری ثل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مو تو تمن بہن ۱۲ شخص ہند ناوہ پتہ نین دون رفیقن۔ مگر فر مو و بھ و ن گزہ نہ کانہہ۔ وَمَا نَقَبُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَبَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ یہیہوت نہ تمو مئہ چیزک انتقام مگر سمہ گو کہ اللہ تعالیٰ ان تہ تہمدہ پیغمبرن کیا کتر تم منافق مالدار تہ دولت مند پتہ فضلہ سیت۔ تمہ گو بدلہ چھہ تم ہوران۔ خدائس تہ رسولس سیت دعا بازی کران إِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کس ہر گاہ تم منافق توبہ

يَعِدُّ بِهِمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ
 فِي الْأَرْضِ مِنْ دُولِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٤٣﴾ وَمِنْهُمْ مَنُ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ
 أُتِنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٤﴾
 فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٥﴾
 فَأَعَقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا
 اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٤٦﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا

کرن، تمہو حرکاتو نیشہ بازیں، بصدق دل سپدن مسلمان تہ گوشہہ تہندہ خیطرہ بہتر۔ ہر گاہ تمہ نشہ
 زوگردانی کرن بدستور روزان دعا بازی کران اللہ تعالیٰ گرہ تلہ تمہ سخت عذاب دنیاس اندرتہ
 آخرتس اندرتہ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دُولِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بیہ چھو نہ تمہ تمام روی زمینس اندر کانہہ
 دوستاہ نہ کانہہ مدگارہ۔ وَمِنْهُمْ مَنُ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ أُتِنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ
 الصَّالِحِينَ تمہو منافقو اندرہ چھہ تمہو خدا نئس سیت عہد کورمت اوس زہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ اسہ عطا کرہ
 پن فضل یعنی مال و دولت اس کرو ضرور خیرات و صدقات بیہ بخواس نیکو کار و اندرہ فَلَمَّا أَتَاهُمْ
 مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اڈہ یلہ اللہ تعالیٰ ان عطا کور تمہ پن فضل یعنی مال تہ
 منز کورکھ نخل۔ بیہ پھرکھ بچہ۔ تم آس ہمیشہ بچہ پھرہ ولی فَأَعَقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ
 يَلْقَوْنَهُ تمہو اللہ تعالیٰ ان سزاتمیک۔ ہفاق تروون تہندین دلن اندر تہہ دو جس تان تمہ دوہہ
 تمہ تمہن گروہن یعنی مرچس و قس تان بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ ائی سببہ کہ تمہو کور خلاف تہہ
 وعدس نئس تمہو خدا نئس سیت کورمت اوس۔ اگرچہ سو وعدہ اوس کورمت تمہو نبی کریمس سیت صلی اللہ
 علیہ وسلم۔ مگر تمہن سیت عہد کرن گو خدا نئس سیت عہد کرن وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ بیہ امہ سببہ کہ
 تمہ آس ہمیشہ اپزونان أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیاہ تمہن چھتا نج خبر کہ اللہ
 تعالیٰ چھو زمانان تہندس، راز۔ بیہ تہزہ کن تہہ، بیہ تہہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہ

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ
 الْغُيُوبِ ﴿۴۸﴾ الَّذِينَ يَلْبِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
 فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۹﴾
 اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
 فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۵۰﴾ فَرِحَ الْخَلْفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ

تعالیٰ چھو سارے غیبیہ چہ تمہے زاندون۔ الَّذِينَ يَلْبِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ
 تم منافق چھہ تہقی کہ تم چھہ طعنہ دوان تم با ایمان تم فلک صدقات دوان چھہ وَالَّذِينَ
 لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ بیه تم با ایمان تم نہ زیادہ بنان
 چھو کیہنہ۔ تم چھہ یوان ستوی بہتہ یوت تم ممکن نہ ہیر سپد کہ محنت مزور کمر تہ۔ تم منافق چھہ تم
 ٹھہہ کران۔ اللہ تعالیٰ تہ چھو تم منافق ٹھہہ کر تک سزا دوان وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تہندی
 خیطرہ چھو کڈر عذاب اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ تہہہ معفو مغفرت تہندہ خیطرہ یا متہ معفو مغفرت
 تہندہ خیطرہ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ہر گاہ تہہہ تہندہ خیطرہ ستہہ پھر ہہہ مغفرت معفو
 لَهُمْ توتہ کرہ نہ اللہ تعالیٰ تم مغفرت ہرگز ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ چھو امی مو کہ
 زہہ پز پاتھہ تمو کو کفر وانکار کنس خدا بس یہہ تہندس بنیمبرس وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ
 چھونہ و تہہ ہوان تہتمن نافرمان تہہ سر کش لو کن فَرِحَ الْخَلْفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ
 يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جہاد نشہ پتھ روزن و آل چھہ خوش کہ تم کیاہ رود رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم برخلاف پتھ بہت بیه ناگوار گو تم جہاد کرن پنہ نیو جانو تہ مالو سیت خدا یہہ سزہ

خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرَهُوْا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ
 حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ ﴿۸۱﴾ فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا
 جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ
 مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا
 وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

وہ اندر امیک باعث سپہ تہن زہ (۲) چیز۔ اکھ کفر بیہ آرام طلبی وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ بین لوکن
 تہ لگ ونبہ مہ نیر ویشہہ تیز گرمی اندر جہاد کرنہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا تہی فرماویو کہ جہنمگ نار
 جھو زیادہ گرم تہ چہ گرمی خوتہ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ کیاہ جان اوس ہر گاہ تہن زانن جھہ ہا
 فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا تہس استہن تم دنیاس اندر کہ کہنہ کالاہ۔ دنیاء ک مدت جھو کی۔
 دوتن وار تہس کالس آخرتس اندر۔ تہہ جھو تہن ہمیشہ ودنوی۔ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تہن تھہ
 کاین بدل یمہ کامہ تم کران آس دنیاس اندر، کفر، نفاق مخالفت۔ یلہ تہند حال توبہ معلوم سپہ فَإِنْ
 رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تہس ہر گاہ اللہ تعالیٰ وانہس نیہ توبہ مدینہ شریفس کن، توبہ و اتناوہ
 توبہ سمومنافقواندرہ کنبہ جماعتس کن فَاَسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ توبہ مکن تم اجازت جہادس اندر
 توبہ سیت نیرنہ خیطرہ۔ بروظھمس الزامس رفع کرنہ خیطرہ۔ سوتہ آس نہ بہ نیک نتی بلکہ آسہ تہندس
 دس اندر یوہہ خیال زہ وقتہ وزہ کانہہ بہانہ کرتہہ روزن پتہہ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا
 مَعِيَ عَدُوًّا تہہ فرماویو کہ تہہ جھوہ زمانہ سازی موجب تھہ کران مگر اللہ تعالیٰ ان کتر تہندس کن دکن ہند
 خیالات ظاہر۔ چنانچہ پورہ اعتمادہ سان جھو سو ونان کہ تہہ مہ نیر وکنبہ وقتہ جہادس اندر مدد کرنہ
 خیطرہ۔ بیہ مہ کتر و تہہ لڑای میانین دشمن سیت۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ توبہ کورہ
 ناگوڈہ بیٹھے گرہ بہنوی پسند۔ وکنس تہہ جھو سو ارادہ۔ بیہ جھوہ سو روی زیوہ سیت دنان فَاَقْعُدُوا مَعًا

فَاقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ ۖ وَلَا تَقْصِبْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتًا
 أَبَدًا ۖ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَمَّا
 وَهُمْ فَيُسْقُونَ ۖ وَلَا تَعْجَبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ

الْخُلَفَاءِ ہنس بہو برو تھم پاٹھ آہن نشہ یعنی تمن نشہ تم پتھ روز نس سزاوار چھہ۔ زنانہ، شرتہ بڈہ
 وَلَا تَقْصِبْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتًا أَبَدًا یار سؤل اللہ تموناقو اندرہ ہر گاہ کانہ مرہ تھندس جنازس پیٹھ منہ
 ہز آہو نماز جنازہ پران وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ بیہ منہ آہو تھنزہ قبرہ پیٹھ سوڈفن کرنہ خیطر ہو وودن روزان
 إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کیا زہ تمون کور کفر نہ انکار اللہ تعالیٰ آس بیہ تھندس پیغمبرس وَأَمَّا وَهُمْ
 فَيُسْقُونَ بیہ مود تم کفرس پیٹھ۔ ہنس کفرہ کس حاکس پیٹھ مرہ، تسنہ خیطرہ دُعَاو استغفار مکن۔
 تھندس کھنس دھنس شامل سڈن چھو نا جائیز۔ سمہ آئیہ کرسمگ شان نزول چھو کہ یلہ عبد اللہ بن
 ابی منافق ہند سردار مود، تھندس چو ہنس ناؤ اوس عبد اللہ بن عبد اللہ آؤدر خدمت رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم سؤ اوس مخلص مسلمان۔ تم کور عرض ہن قمیض مبارک دیو حض سؤ تراؤو تمس کھنس سیت۔
 چنانچہ تمون دیت ہن قمیض مبارک ہنس تمہ ساتہ تمن نال اوس بیہ نیو کہ تشریف تھند گھرہ۔ تمس
 ترو کہ ہن لعاب دہان مبارک آس منز۔ تو پتہ پور ہنس نماز جنازہ۔ بیہ کور ہنس دُعَاوی مغفرت۔ تمی
 ساتہ سڈیہ آئیہ کریمہ نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو ہنس معاہدہ کور عبد اللہ بن ابی سیت تھہ اندر
 آسہ واریاہ حکمو۔ چنانچہ امیک نتیجہ دراؤزہ واریاہ لو کہ سڈ مسلمان بیہ وچھت۔ تمون دُوپ کہ بیہ پیغمبر
 برحق چھو دشمن سیت امہ قسمگ مہر و محبتگ سلوک کران۔ دوستن نہ باایمان سیت آسن زیادے
 لطف و مہربانی کران۔ بیہ نر و تمون بیہ کرنہ سیت شریعت اسلامیک اکھ بوڈ مسئلہ۔ سؤ گوئی زہ ایمان و
 عمل صالحہ و رای دیہ نہ کانہہ اکس کانہہ چیزاہ فائیدہ نہ ٹوسل نہ ٹبرک۔ تمون فرمود گوئی کہ بوامام آسن،
 صحابہ صیب مقتدی آسن تو پتہ پور اسہ نماز جنازہ عبد اللہ بن ابی پیٹھ۔ بیہ مونگ اسہ تھندہ خیطرہ
 مغفرت۔ بیہ آؤ تراوند میون قمیض تھندس کھنس سیت۔ بیہ آپر مہ نس ہن لعاب شریف ہنس تھندس
 بد نس منز ووت۔ باوجود آل چھہ جای تھنز فی الدرک الاسفل۔ جھنمہ کس ٹکس تل۔ ام میان نماز

اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸۵﴾
 وَإِذْ أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ
 اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۸۶﴾

جنازہ پر تُوں۔ دُعاء مغفرت کرہ تُوں قمیض مبارک کھنس سیت ترواؤن۔ لعاب شریف بدنس منزواتاودہ تُوں کوڑس نہ کاہنہ سئوچھ۔ سئو چیز دیوتس نہ کاہنہ فائیدہ۔ ای گڑھہ تھاون یاد تھن لوکن ہندیم تھر وی دعوئی چھہ دوان نبی کریمہ سندہ محبتک مگر ایمان و عمل تھہ شوبہ ہاتھہ نشہ چھہ خالی۔ یہ تمہ بیتھہ آی، توحید و سنت تمہہ نشہ چھہ بے بہرہ تہ عاری۔ تیس شخص عمرہ روزہ کران تہنز مخالفت تیس روزہ خیال کہہ مہ کرن تمہ شفاعت یہ گو محض شیطانہ سُنڈ دُھوکہ۔ اتھہ بنہ تی یہ عبد اللہ بن ابیس ہیندو تھہند شفاعت کرہ تُوں دیت نہ تیس کاہنہ نفع تہ فائیدہ۔ لہذا چھہ سخت ضرورت نجات حاصل کرنہ خیرہ ایمان و عملہ ہنز۔ تھہ پانچ گڑھہ زان تھن لوکن ہندیم بزرگن اولیاء اللہ تُوں ایمانہ و عملہ و رای پائس نسبت کران چھہ تھن خدیہ سندین ٹاٹھن تہ محبوب ہند تُوں سئو پیندہ عمرہ چھہ صرف کرہ مڑہ کتاب و سٹس پیٹھہ عمل کر تیس اندر۔ جاٹل لو کہ کرن مخالفت کتاب و سنت تمہہ پتہ روزیکہ خیال اسہ کرن تمہ خدا تیس نشہ سفارش یا شفاعت۔ ایس خیال است محال است و جنون وَلَا تَعْبُجْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ تھند مال و دولت یہ گھبر مہ ہر تراون توہہ تھیس اندر کہ تھن نافرمان تھہ پانچہ چھو اللہ تعالیٰ دُنیا س اندر سمہہ نعرہ عطا کران سمہہ نہ حض چھہ یہ ہندہ خیرہ نعرہ بلکہ چھہ سم چیز ہیندہ خیرہ عذاب سامان اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا اللَّهُ تَعَالَى چھونہ یڑھان مگر تھن سئو چیز و سیت گرقار عذاب کرن وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ یہ گڑھہ تھن زو تھن کھرہ کس حالتس اندر۔ سمہہ سیت آخر تیس اندر تہ سزاوار عذاب روزن وَإِذْ أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ یلہ تُوں وقتہ قرآن مجید ک کاہنہ حصہ نازل یوان چھو کرنہ تھہ منز یہ مضمون چھو آسان کہ پڑھہ کھر و کھنس معبود برحق مخلوس دل۔ یہ نیر و جہادس تھندس سئو ہر س سیت سیت اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ اجازت چھہ منگان توہہ تھو اندرہ مال دار لو کہ۔ زبان چھہ اسہ ترا و حض چھہ۔ اس

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ^(۸۷) لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^(۸۸) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^(۸۹) وَ
جَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ
كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

روز و پتہ روزہ و نین سیتِ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
کاژاہ شرمہ ہنزگتھہ مجھ کہ تم لو کہ سپد رضا مند گھرن اندر زان سیتِ روز نس پیٹھ۔ تہندین دلن پیٹھ
مجھ مہر امڑ کر نہ۔ تمی ہتھونہ تمن فکری تران لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیہ ہم با ایمان تمن سیتِ مجھہ تمومون حکم خدا
تمو کور جہاد مال و جانہ سیتِ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی لو کن ہندہ خیطرہ
مجھہ سارے خوبہ سے لوک مجھہ کامیاب تہ رستگار۔ سہ خوبی تہ کامیابی کنیہ۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ تعالیٰ ان مجھہ تہندہ خیطرہ تہ باغ تیار تھاومت سہمو
منز جو یہ پگان آن۔ تمنی جشن منز روزن ہمیشہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یعنی کنیہ بد کامیابی و جَاءَ
الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ ہیہ آئی کہہند بہانہ باز لو کہ گامو پیٹھ۔ مجھہ تمن گھرن اندر بہند
خیطرہ اجازت لیہ و نہ۔ جہاد س پدن نہ تم شاملِ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہیہ پیٹھ گھرن
منز تم لو کہ سہمو ایمانہ کس دعویٰ اس اندر خدا نئس تہ پیغمبر س سیتِ بالکل اپزو و ممت اوس۔ تم آئی نہ
عذر پیش کر نہ تہ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تمو اندرہ ہم آخر س تان گھرس

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۹۱ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا
 عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ
 رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۹۲
 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتُمْ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُمْ لَا
 أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَعَيْنُهُمْ تَقْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ
 حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ۹۳ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
 يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا

پیٹھے روزان۔ تمن وانیہ آخر تیس اندر دگ تہ دود تلہ دن عذاب۔ تم تمواندرہ توبہ کرن باخلاص دل
 مسلمان سپدن تم لمن تمہ عذابہ نشہ نجات لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی ولا علی الذین لا
 یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ کم طاقت لوکن تہ بیمارن تہ بیہ نہ تمن لوکن
 یمن نہ خرچہ خیطرہ کینہ موجود چھو چھونہ کانہہ گناہ یلہ تمن خیر خواہی تہ خلوص آسہ خدا بس تہ جہندس
 پیغمبرس نسبت ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم تمن نیکو کارن پیٹھ چھنہ کانہہ
 وتھاہ اعتراض کرچ اللہ تعالیٰ چھو بوڈ مغفر تہ دول بوڈ رحمتہ دول۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک
 لتحمیلہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ بیہ چھونہ تمن لوکن پیٹھ تہ کانہہ گناہ تہ الزام۔ یلہ تم توبہ
 نش آئے توبہ کیا کمر یو جہندہ سوار ی ہند انتظام۔ توبہ فرمود کہ میہ نشہ چھونہ کانہہ چیز پیٹھ بوٹہ
 سوار کرووہ تولوا و اعینہم تقیض من الدمع حزنا الایجدوا ما ینفقون تم درای وائس توبہ
 نشہ پیٹھ حاس اندر کہہ اچھہ تہزہ آسہ اوش ہاران کی غمہ موکھ کہ یمن سپدہ نہ مہیانہ پنہر جاہ نہ بیہ گنہ
 جاہہ خرچہ خیطرہ کہینہ مال بس تم پیٹھ جہادس منز صرف کرہ یمن۔ تمن تہ چھونہ کانہہ گناہ انما السبیل
 علی الذین یستأذنونک وھم اغنیاء بس الزام تہ گناہ چھو تمن لوکن پیٹھ تم مالدار آتھ توبہ

مَعَ الْخَوَافِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾
 يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا
 تَعْتَذِرُونَ لَنَا مِنْ نَفْسِنَا وَلَٰكِن نَحْنُ نَعْتَذِرُ
 لِنَفْسِنَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْخَائِبِينَ ﴿۹۴﴾
 سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
 وَاللَّهِ شَٰهِدٌ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۵﴾ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ
 لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ

جہادس نہ نیر نہ خیرہ اجازت مکان چھہ رضوایان یتکونوا مع الخوایف شرم چھہ تہندہ
 خیرہ تم سپدراضی زانن سیت روزنس پیٹھ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون اللہ تعالیٰ ان
 چھہ موہر کمر مژ تہندین دلن پیٹھ سمہ موکھ تم زانن چھونہ تنگان ثواب کتھ منز چھوہ تنگاہ کتھ منز
 چھوہ۔ **يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ** سم لوکھ کرن عذرت بہانہ توبہ نش، یلہ والنس
 گدھو تم نیش۔ **قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لَنَا** لہذا فرمادیو کہ تمہ بہانہ نہ عذرتہ ونو۔ اس ہرگز
 تہندس ونہ نس پڑھہ گرونہ **قَدْ بَيَّأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ** بیشک اسہ کمر خبر اللہ تعالیٰ ان تہندین اصلی
 حالاتن ہنز کہ تہند کاہنہ عذراوس نہ پوزتہ صحیح۔ **وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ** بیہ نہ وجہہ آیندہ
 اللہ تعالیٰ بیہ تہند پیٹھ تہنزہ کاملہ۔ سمہ سیت معلوم سپدہ توبہ اندر کوتاہ اخلاص نہ فرمانبرداری چھہ
تُمْ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَاللَّهِ شَٰهِدٌ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ توپتہ ایو تہہ والنس پنہ نس
 پروردگارس نشہ نس سوڑی پوشیدہ نہ نون زانن چھوہ۔ نس گرہ سو توبہ خبر تم سارنی چیزن ہنز سم
 تہہ کران آسہ توپتہ دیوہ تجرورور **سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ** وون بین
 تم توبہ نشہ توپتہ ہاؤن تم قسم خدلیہ سند یلہ تہہ والنس ایو تم ن۔ تہہ تہہ درگذر کر و تم نشہ
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ نس کمر وتہہ تم نشہ درگذر۔ تم تراویو کہ پنہ نس حاس پیٹھ۔ ہز پاپٹھ
 تم چھہ مکر تہ گندہ۔ **وَمَا لَهُمْ حِجَابٌ عَنِ اللَّهِ** ہما کاؤا یکسبون تہند انجام چھو سیٹھاہ خراب۔ بتولا کہ

اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۵﴾
 يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاعَنَّهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْاعَنَّهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ
 لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۹۶﴾ الْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ
 نِفَاقًا وَّ اَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى
 رَسُوْلِهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۹۷﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ
 مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُلِّ الدَّوْاِءِ اَيْرَ عَلَيْهِمْ

چھو واٹن تمن جہنم اندر۔ یہ چھو تمن سزا تمن کا میں ہند سمہ تم کر ان آس۔ نفاق سے خلاف وغیرہ
 یَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاعَنَّهُمْ تم قسم چھہ تم ہوا ان تو بہہ برو نہ کہہ بیٹھ تہہ راضی گدھو تمن نشہ۔ اول
 گدھنہ خدایہ سندن دشمن نشہ راضی سپدن۔ بالفرض ہر گاہ تہہ تمن نشہ راضی سپدو۔ فَاِنْ تَرْضَوْاعَنَّهُمْ
 فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ہر گاہ تہہ تہند یواپز یو قسمو سیت متاثر سپد تہہ راضی گدھوتہ۔
 مگر اللہ تعالیٰ سپدہ نہ ہرگز راضی تہمین شریرتہ تا فرمان لو کن نشہ الْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا تمن
 منافقن منز تم گامک لو کہ چھ تم چھہ زیادہ سخت کفرہ کن تہ نفاقہ کن حکما زہ تم چھہ علمائ
 تہ عاقلن نشہ دور روزان وَّ اَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ بیہ چھہ تم
 اتھہ قابل کہ تم زان نہ تم احکام تم اللہ تعالیٰ ان چھہ پنہ نس پیغمبرس پیٹھ نازل کمر مت وَاللّٰهُ
 عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اللہ تعالیٰ چھو سوری زانہ ون، سیٹھاہ حکمتہ وول وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ
 مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُّ بِكُلِّ الدَّوْاِءِ بیہ چھو سمو گامہ کیو منافقو اندرہ بعض لو کن کفر و نفاق و جہلہ
 علاوہ نجل و عد او تکب صفات بدتہ۔ تمہہ چھہ زنان خدایہ سزہ و تہ اندر خرچ کر نس چیت تہ تجرمانہ بیہ
 چھہ پیاران تم تو بہہ پیٹھ پوت کھوریش کا نہہ حادثہ واقع سپدنس، بیچھہ وقاہ نپس علیہم دَاوْرَةُ
 السَّوْءِ پوت کھور بیہ تمن پانس۔ بیچھہ وقت بین تمن پانس۔ زمانگ حادثہ سپدہ واقع تمن پیٹھ وَاللّٰهُ
 سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اللہ تعالیٰ چھو سوری بوزہ ون سوری زانہ ون وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ

دَايِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ (۹۸) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا
عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۙ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ
سِيدٌ خَلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ (۹۹)
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ أُولَئِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۙ (۱۰۰) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۗ وَمِمَّنْ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ بیه چہہ گامکیا اندرہ تم تم پور پڑھہ چہہ کران کنس خدانس۔ بیه تمس دوہس لعنی قیاس
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۙ بیه چہہ تم گنجز ران خدایہ سندہ و تہ اندر
مال خرچ کرنس تسدہ قربک تہ پیغمبر خدایہ سندہ دعای خیرک اکھ رت ذریعہ ۙ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ
لَّهُمْ ۙ وارہ یوزو واقعی چھو سو خرچ کرن تہند تہندہ خیرہ قربک ذریعہ سِيدٌ خَلَهُمُ اللَّهُ فِي
رَحْمَتِهِ ۙ ضرور و اتا وہ تمن اللہ تعالیٰ پنہ نس رحمتس منز کیا زہ ۙ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ بیشک اللہ
تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت تہ سیٹھاہ رحم کرہ ون ۙ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۙ بیه تم بروٹھ گڑھہ ون۔ گوڈنی مشرف
باسلام سپدہ ون مہاجر و تہ انصار و اندرہ۔ بیه تم لوکھ سموی تہمز پیروی کمر رتہ طریقہ۔ تمن سارنی نغہ
چھو اللہ تعالیٰ راضی۔ تم تہ چہہ نس نشہ راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ۙ بیه تھاؤ اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیرہ تیار تم جنت سموی منز جو یہ پکان چھہ تمنی جشن منز روزن تم

أَهْلَ الْمَدِينَةِ تَسْمُدُوا عَلَى النِّفَاقِ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ
 نَعْلَمُهُمْ سَعْدٌ بِهِمْ مَرَّتَيْنِ تَمِيرُدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝
 وَالْآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا
 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

ہمیشہ ذلک الفوز العظیم یعنی کہیہ بڈ کامیابی و مین حوالکم من الاعراب منفقون و من اهل
 المدینة بیه ایم توبہ آید پک گائن ہند یو لو کو اندرہ بیه شہرہ کیو لو کو اندرہ تہ سم منافق چھہ مردوا
 علی النفاق ڈاڈ کر تھہ چھہ نفاس بیٹھہ لاتعلمہم نحن نعلمہم سعد بہم مارتین تہہ
 زانیو کہ نہ تم۔ اس زالو کہ تم جلدی و مو اس تین دنیاء س اندر سزا دو گن تَمِيرُدُونَ إِلَى عَذَابٍ
 عَظِيمٍ تو پتہ بین تم سوزنہ آخر جس بڈس عذابس گن وَالْآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا
 عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا بیه چھہ سمَن ورا ی کہہ نہ لوک سموا اقرار کور پنے نین گو نہن۔ سموملہ ناوہ رتہ عملہ
 چھہ عملہ سیت۔ یعنی شو گو اعتراف گناہ کرن پنے بس گنہس اقرار گن عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ شاید اللہ تعالیٰ کرہ تہندہ توبہ قبول۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو بیشک مغفرت کرہ
 ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ سمو صحابہ صیو اس پن پان گنڈ تھہ تھامت مسجد شریفہ کین گن سیت۔ بھند
 توبہ قبول سپد سمو مزار او پنے نین پان ہند گنڈ۔ تو پتہ ایٹھہ بارہ در خدمت حضرت رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم۔ اتی سپدیہ آیہ کریمہ نازل حُنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا رُوْحُ
 سمَن توبہ کرہ و نین نغہ تہندہ مالہ اندرہ بس تم پیش کران چھہ بطور صدقہ۔ کریو کہہ تم پاک پاکیزہ تمہ
 صدقہ سیت وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ بیه کمر یو کہ دعای خیر۔ پڑ پائھ تہندہ دعای خیرہ
 سیت چھو سمَن تسلی تہ اطمینان حاصل سپدان۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو تہندہ اعتراف

اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ
 عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ وَآخِرُونَ مُرْجُونَ
 لِمَا لِلَّهِ آتَايَعْدُ بِهِمْ وَامَّا تَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 حَكِيمٌ ﴿۱۶﴾

واقرارگناه، تہمت نہ امت و ارہ بوزہ و ن پورہ زانہ و ن اَلْمُيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰہَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
 وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ کیا تم جھنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ای جھو توبہ قبول کران پنہ نین بدن ہند۔
 بیہ جھو سؤی صدقات قبول کران و اَنَّ اللّٰہَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بیہ جھنا تم معلوم کہ اللہ تعالیٰ ای
 جھو سیٹھا توبہ قبول کرہ و ن۔ سیٹھا رحم کرہ و ن وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
 وَالْمُؤْمِنُونَ بیہ فرما یو کہ تہہ کہ ای لو کو کران گدہو تہہ عمل، اللہ تعالیٰ جھوپانہ و چھان تہمت عمل۔
 بیہ بیٹہر تہمت، بیہ بایمان۔ جھہ کائین ہند نتیجہ نیرہ توبہ دنیاء سی اندر، ذلت بیہ خواری وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
 عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ای تہہ و اتا و نہ تہ ذات پاکس نفسہ سوزوی پو شیدہ تہ نون زانہ و ن
 جھو۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تہس گرہ سؤ توبہ خیر تم سارنی کائین ہمت سمہ تہہ کران آسہو
 وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لِمَا لِلَّهِ آتَايَعْدُ بِهِمْ جھہ کینہہ لو کہ جھہ روز و نیو اندرہ تم پیاران جھہ خدلیہ سندس کھمس۔
 تمین متعلق جھو اَتَايَعْدُ بِهِمْ وَامَّا تَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ یا کر کیکہ عذاب، ہر گاہ توبہ کر تہ
 اندر خلوص آسکہ نہ۔ یا کرہ تہمت توبہ قبول۔ ہر گاہ توبہ باخلاص کورمت آسکہ۔ اللہ تعالیٰ جھو پر تہہ
 کھند حال پورہ زانہ و ن۔ تہہ خبر اخلاص و عدم اخلاص۔ سؤ جھو سیٹھا حمتہ و ول۔ مدینہ شریفس
 قریب جھو اکھ محلہ تہہ جھونا و ”قبا“۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو یلہ مٹہ شریفہ پیٹھ
 ہجرت کمر۔ گوڈنی ٹھہرے تم اتھ مجلس اندر۔ تمہ پتہ کینہہ کالاہ گدہو تہہ اٹو کہ تشریف مدینہ شریفہ کس
 شہرس اندر۔ ایٹس کاس اتھ محلہ قبا س اندر قرار کو رکھ تہٹس کاس۔ تہہ جاءی تم نماز پر تہہ جایہ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
 وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
 لَكٰذِبُونَ ﴿۱۴﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ

بنوا امیہ محلہ کیو مخلص بالایمانو کہ مسجد اہ۔ تھ مسجدہ وجہہ ونان مسجد قباء اتھ جلس منزسم مناقب بسان
 آس تمن اوس میل جول ین من گروھن ائس شخصس سیت ئس ناو اوس ابو عامر راہب۔ سو اوس
 اسلامگ سخت دشمن۔ تمو مناقبو کورئس سیت مشورہ کمر تھ کہ کتھاہ مقرر کہ اس تہ بناؤوتھ مسجدہ
 سیت بیا کہ مسجد۔ تھ منز جمع سپد تھ آسو اسلامس خلاف مشورہ کران۔ ام ابو عامر ن وون یمن مناقب
 کہ یو سمجھ ہر قلس وغیرہ بادشمن۔ تمن سیت فوج ولشکر حاصل کمر تھ تھاؤوا کے ساتہ مسلمان ہند
 بیول گالٹھ۔ تمہ پتہ ینلہ مسجدہ ہنزہ شعلہ تمو مناقبویہ مکان بنو توپتہ آئی در خدمت حضرت رسول
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمن کور کہ عرض تھہ ابو حض تشریف اتھ سانہ مسجدہ اندر۔ اللہ تعالیٰ ان
 کمر نازل اتھ موقعس پیٹھ تم آیات کریمہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
 الْمُؤْمِنِينَ بیہ وجہہ بعضی لو کہ تمو مسجد اہ بناؤ اسلامس ضرورتاؤونہ خیطرہ۔ بیہ بیٹھ تھ منز کمر چہ یعنی
 عداوت رسولہ چہ کتھ کرن۔ بیہ بیٹھ مسلمان منز تفرقہ تراؤن زہ جتہ کرن وَلَا رِصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ بیہ بیٹھ زاگج جای بند تمن ئس شخصہ سندہ خیطرہ تم برو نطھی مخالفت کمر
 خدائس تہ تہندس پیغمبرس یعنی ابو عامر مذکور وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ توپتہ وجہہ تم ہوا ان
 کہ اسہ اوس نہ اتھ اندر یعنی مسجد بناؤئس اندر بہتر ورا ی عنہ چیز ک ارادہ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
 لَكٰذِبُونَ خدا ہجو گواہ کہ بیشک وجہہ تم اپز زبیر۔ ینلہ امہ مسجدہ ہنزہ حالت وجہہ لَا تَقُمْ فِيهِ
 أَبَدًا تھہ مہ حض گروھو تھ منز نماز پرنہ ہرگز لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِي يَوْمٍ أَحْسَنَ أَنْ
 تَقُومَ فِيهِ البتہ سو مسجد بیٹھ کنن آمت وجھو دنہ گوڈیجہ دوہہ پیٹھ پر ہیز گاری پیٹھ، یعنی مسجد قباسوی

مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
 يَتَّطَّهَرُوا لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۸۸﴾ أَفَمَنْ أَتَسَّ بُنْيَانَهُ
 عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَتَسَّ بُنْيَانَهُ
 عَلَى شَفَا حَرْفٍ هَارٍ فَانْهَارِيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۹﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا
 رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹۰﴾

ہتھ سزاوار سمیہ خیطرہ کہ تہہ پتر و تہہ منز نماز و فیہ رجال یحبون ان یتطہروا تہہ مسجد قباء س
 منز چہہ تم لو کہ کن پاکی چہہ سیٹھاہ ناٹھہ واللہ یحب المظہرین اللہ تعالیٰ تہ چھو زیادہ پاک روزہ
 دینن ٹوٹھ تھوان آفمن اتس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ و رضوان خیر کیاہ سو شخص سم کن دیت
 پنہ نس گرس یعنی مسجدہ خدا س کھو ٹکھو تہ تہنر رضا مندی ژھا نڈان سو شخص چھا ہتر ام من اتس
 بنیانہ علی شفا حریف ہار فانہاریہ فی نار جہنم کنہ سو شخص سم پنہ گرج بنیاد تہ کن دیوت
 کھو کھرہ چہنہ کس اندس پیٹھ۔ یتھ پھراٹ تہ گامز اس، نس و س پئیس تیار۔ نس پیو سو و تھہ نار
 جہنم اندر، نس تھہ منز اوس سو تہ پیو جہنم اندر۔ کیا زہ یہ مکان بناونہ اندرہ اوس غرض مخالفت
 اسلام و پیغبر اسلام۔ نس سراسر کھر اوس۔ کھر تہ کافر ن ہنز جای چہہ نار جہنم۔ واللہ لا یھدی
 القوم الظالمین اللہ تعالیٰ چھونہ تھہ ہوان تھنن ظالم دینہ چن کا مین کن لا یزال بنیانہم الذی
 بنوا ریبہ فی قلوبہم ہمیشہ روزہ یہ گره نس تمو ہنو و تھندین دکن اندر شکگ سبب۔ تو پتہ یلہ سو گره
 منہدم کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو زودلکہ ون تھندین دکن اندر۔ الا ان تقطع
 قلوبہم واللہ علیہم حکیم سو ژ لیکنہ مگر اینکہ ریزہ ریزہ گڑھہ تھندین دکن مڑ تھہ قبرن اندر اللہ
 تعالیٰ چھو سو زوی زانہ ون، حمتہ و ول ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان
 لہم اجتہتہ پتر پاٹھ اللہ تعالیٰ ان ہست مثل با ایمان لشہ تھند پان تہ تھند مال، جتس بدلہ۔ خدا نس

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
 بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ
 يُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
 وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
 بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱﴾
 التَّائِبُونَ الْعِبَدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّابِحُونَ الرَّكْعُونَ
 السَّجِدُونَ الْأُمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

ممکنہ اندازہ چھو مطلب کہ تم ہجرت مال پکتن تہ جان بن خدایہ سیدہ خیرہ صرف کران یَقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ تم خدایہ سزہ وتہ اند جہاد کران چھہ ہتھ منز مکنتہ وقتہ دشمن ماران
 چھہ مکنتہ وقتہ پانہ شہید سپدان چھہ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا اتھہ جہاد وقتا کس پیٹھ کس وعدہ تمن سیت کرنہ
 آمت چھہ سو چھہ پوز وعدہ۔ امیک وعدہ چھہ کورمت اللہ تعالیٰ ان پوز وعدہہ فِي التَّوْرَةِ
 وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ توراتس منزتہ، انجیلس منزتہ، قرآنس منزتہ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
 یہ تھہ چھہ مسلم کہ خدایہ سیدہ خوتہ کس اکھاہ چھہ زیادہ وفا کرہ ون پنہ نس عہدس فَاَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ
 الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ کس گزہ خوش پنہ نس یٹھ سودا کس پیٹھ کس توبہ کورہ خدائس سیت۔ وَذَلِكَ
 هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بیٹے گنیہ بڈ کامیابی یعنی جنت حاصل سپدان التَّائِبُونَ الْعِبَدُونَ
 الْحَمِيدُونَ السَّابِحُونَ الرَّكْعُونَ السَّجِدُونَ الْأُمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ
 لِحُدُودِ اللَّهِ تمن مجاہد با ایمان ہند صفت چھہ تم چھہ توبہ کرہ ون شر کہ نشہ، نافرمانیوں نشہ، تم چھہ
 عبادت کرہ ون، تم چھہ حمد پہ ون، تم چھہ روزہ دار روزہ ون، تم چھہ رگوع کرہ ون تہ سجدہ ودہ ون

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ مَا كَانَ
 لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ
 لَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
 إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
 لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿۱۱۴﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ

یعنی نماز پڑھو، بیہ چھہ تم رٹن کتھن ہنز تعلیم و وہ ون تہ پیچھ کتھون شہ پتھ رٹھ ون۔ بیہ چھہ تم خدایہ
 سندین کھن راجھہ کرہ ون عملہ سیت و بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ خوش خبری فرماؤ تمن با ایمان تمن
 اندر جھاؤک جذبہ تہ تم صفت آسن مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
 جائیز چھونہ بنی کر تمس بیہ با ایمان کہہ تم کیا مگن مغفرت مُشْرِكِينَ ہندہ خیطرہ و لَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ
 ادہ آستھہ تم آشناوی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ تمن وارہ بیہ کتھ نندہ پتہ کہہ
 تم کیا چھہ نارک لوکھ، جہندہ کفرس پیٹھ ہر نلکہ سبہ ہر گاہ حضرت ابراہیمہ سندہ قصہ سیت شبہ سپدہ کہہ
 تمو کیا زہ مونگ مغفرت پنہ نس مال سندہ خیطرہ، تمیک جواب چھو وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ
 لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ بیہ اوس نہ مغفرت مگن حضرت ابراہیم سندہ پنہ نس مال سندہ
 خیطرہ مگر اکھ وعدہ پور کر نہ خیطرہ نس تمو تس سیت کورمت اوس۔ تیج ذکر اللہ تعالیٰ فرماوان چھو
 ساستغفر لک ربی ائیس اندر فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ ادہ یلہ تمن نینو کہ سو چھو
 دُشمن خدایہ سند تم سپد تس رٹھہ بیزار۔ استغفار مگن تروو تمو کیا زہ اتھ صورتس اندر دُعَايِ مغفرت
 کرن چھو بیکار۔ وون رُوزیہ کتھ کہہ تمو کیا زہ اوس تمس وعدہ کورمت تمیک وجہ چھو إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ
 حَلِيمٌ پڑپاٹھ حضرت ابراہیم اوس نرم دل، حلیم الطبع، ژالہ ون، ژاید کرہ ون۔ باوجودیہ تمن
 ونہ مال سخت ناگوار کتھ مگر تمو ہنرہ جلس کوم۔ از بس شفقت و مہربانی کورہس وعدہ استغفار۔ سو تہ تو تھی

لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا
يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۱۶﴾ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى
النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ
مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۷﴾

تَانِ یُوْتَانِ تَمَنِ اِمْكَانِ مَغْفِرَةٍ اَمِيْدَ اَسْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ اللّٰهُ تَعَالٰى
جھونہ ڈالان کنہے قومس تمن ہدایت کرنے پتہ۔ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ یُوْتَانِ تَمَنِ واره
بیان کران جھو تم چیز سمونہ تمن بچن تہ پتہ روزن آسان جھو إِنَّ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہنز
پاٹھ اللہ تعالیٰ جھو پر پتہ چیزہ پورہ زانان إِنَّ اللّٰهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ
پزپاٹ اللہ تعالیٰ سنزی چھہ پادشاہت آسمان تہ زمین ہنز۔ سوئی جھو زندہ کران تہ ماران وَمَا لَكُم
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بیہ جھونہ تہندہ خیطرہ خدائس وراى کانہہ دوستاہ تہ مددگارہ
لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ اللّٰهُ
تعالیٰ سپد موجہ رحمتہ سیتہ بنی کر تمس۔ تمن کوڑن عطا بتوت تہ امامت جہاد۔ بیہ سارے خوبیہ بیہ
کران تمن مہاجرن تہ انصارن کن توجہ برحمت سمونہ ہنز پیروی کمر سختی ہندہ وقتہ کہ تمن دینن توفیق
استقامتک مشقت و تکلیف برداشت کر نک مِّنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ سمہ
پتہ کہ قریب اوس کہ اکہ جماعتک دل ڈلہ کن تمہ نشہ، تہنز پیروی کرنے نشہ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ
بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ تو پتہ پھیور سو تمن کن ثابت قدمی عطا کرنے سیت کیا زہ سو جھو تمن پیٹھ

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
 الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن
 لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ
 حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَ
 لَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ

سیٹھا مہربان تہ سیٹھاہ رحم کرہ ون وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا بیہ کور توبہ قبول اللہ تعالیٰ ان
 تمن ترین شخص ہند ہند معاملہ ملتوی اوس تھانہ آمت۔ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
 بِمَا رَحُبَتْ یوتان تمن پیٹھ زمین وسیع تہ کھول آستھ تنگ سہد وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ بیہ آئی
 تم پانہ سیٹھاہ تنگ تہ عاجز وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ بیہ زون تمبو کہ کانہہ چھمن جای
 چھنہ خدایہ سندہ عذابہ زخم چنہ خیطرہ ٹس ورا ای ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا توبہ سپد سو تمن کن متوجہ
 رحمتہ سیت۔ یٹھ تم توبہ کرن اِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پڑاٹ اللہ تعالیٰ چھو توبہ قبول کرہ ون
 رحم کرہ ون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ای بایمانو کھو ترو خدا ئس بیہ روزو
 عملہ اندر پمز زیارین سیت۔ یمن ہنزیت تہ کھہ ڈرست تہ پڑہ چھہ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ
 وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ شوہ ہانہ، پڑہ ہانہ مدینہ متورہ کین لوکن
 بیہ تمن لوکن سم لہد پک گاٹن اندر روزان چھہ پتھ روزن تہ شمولیت نہ کرن پیغبر خدا ئس ہمراہ
 جہادس اندر نیر نہ زخمہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ بیہ شوہ ہانہ تمن پن پان زیادہ ناٹھ زان تہندہ
 خوتہ۔ تم یلہ پانہ بہ نفس نفیس درا ای اتھ جنگ تبوگس اندر پتھ روزہ ون تہ پنہ نین پان آرام واد تہ ناوہ ون۔

ظَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا غَمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُؤُونَ
 مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَا إِلَّا كَيْتَبَ
 لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾
 وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ
 وَادِيًا إِلَّا كَيْتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ
 مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

تم کیا ہجرت ہندہ خوتہ ذلک یا تمہم لا یضییہم ظمًا ولا نصابًا ولا غمصۃ فی سبیل اللہ
 ولا یطؤون موطئًا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدوینا یہ تم سیت شمولیت کران آس ضرور
 سمہ مؤکھ کہ اتھ اندر اوس اکھ مجت پیغمبر خدایک حق ادا کرن تمہ علاوہ سمہ سمہ مہربانیہ تہ ثواب
 مجاہدن حاصل سزہ تم تہ سپدہ ہن تمہ مہربانیہ حاصل۔ چنانچہ تم دوت نہ کانہہ تکلیف خدایہ سزہ
 وتہ اندر۔ تم لجنہ تریش۔ بوہجہ۔ تم یک نہ کنہ وتہ مگر بشان وشوکت سمہ سیت کافر ن ژکھ کھوتہ وانج
 دز تم بے کور نہ تمہو حاصل دشمن رعہ کانہہ چیزہ الا کیتب لہم بہ عمل صالح مگر سمو
 ساروی چیز و بدل آہ تم نامہ اعمال اندر رتہ بکیمہ لیکنہ ان اللہ لا یضیعہ اجر المحسنین ہنر
 پاٹھ اللہ تعالیٰ ہتھونہ ضالچ کران نیکو کارن ہنر مزور ولا ینفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ
 ولا یقطعون وادیًا الا کیتب لہم بے کران نہ تم کانہہ خرچ لوگٹ یا بوڈ۔ بے ژھنڈن نہ کانہہ
 میداناہ۔ مگر تمہو بدل تہ بکھہ بکیمہ لیکنہ۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون بکھہ اللہ
 تعالیٰ تم ر ژمزور عطا کرہ تمی کاین ہنر۔ سمہ تم کران آس۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃً بے
 ہزہ ہانہ بالیمان نیرن اکہ وٹہ سارنی ہنڈ فلولا انفروا من کل فرقة منهم طائفة بکھہ پاٹھ کیا زہ آہ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۲۲﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ
الْكَفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۳﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ
إِن كُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ آيَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۲۴﴾ وَأَمَّا
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ


نہ عمل کرنے کہ آبادی ہندہ پرستہ حصہ منزلیہ ہن کینہہ لوکھ لیتفتھووا فی الدین یتھ تم
شہرہ کین عالمین نشہ دینک احکام حاصل کرن و لیئذیروا قومہم اذارجعوا الیہم لعلہم یحذرون
تاکہ پنے نین لوکن کن واپس گڑھتھ کرہ ہن تم نین یتھ تم نافرمانیو نشہ احتیاط کرن۔ یایہا
الذین الامتواقاتلوا الذین یلونکم من الکفار ای باایمانو جہاد کمر و تم ن کافر ن سیت یم توہہ
نکھ تلہ چھہ و لیجدوا فیکم غلظتہ تم ن لکن بوزنہ کہ توہہ اندر چھہ سختی تم ن نشہ مہ روزو
کھوڑتھ تہ دیتھ۔ و اعلموا ان اللہ مع المتقین بیہ زانوہ تھ کہ اللہ تعالیٰ سمد مدد چھو پیشک
پرہیزگار ن متقین سیت۔ و اذاما انزلت سورة فمنہم من یقول ایکم زادتہ ہذا آیاتنا
بیہ یلیہ نوو سورہ شریفہ نازل کرنہ یوان چھو کس چھہ بعضی مناقبو اندرہ تم و نان چھہ ٹھٹھ پاٹھ۔ تلہ سا
وستو توہہ اندرہ کسند ایمان ہر یوہ سورہ نازل سپدنہ سیت۔ فاما الذین امنوا فزادتهم ایمانا
وہم یستبشرون کس سمو لو کو برو نطھی ایمان او نمٹ چھو تم ن ہرہ روو ضرور قران مجید ک
تم سورن سیٹھاہ ایمان چنانچہ تم چھہ ترقی ایمان سیت سیٹھاہ خوش و اما الذین فی قلوبہم
مرض وون گئے تم لو کہ یہندین وکن اندر نفاک مرض چھو فزادتهم رجسا الی رجبہم کس

رَجِبِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۱۲۵﴾ أَوْ لَا يَرَوْنَ
 أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا
 يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿۱۲۶﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ
 نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ
 انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
 يَفْقَهُونَ ﴿۱۲۷﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

بہرہ رو تو تم قرآن مجید ک تم سوزن ناپاکی پیٹھ ناپاکی کیا زہ لہ برو تھ اوس تمو قرآن مجیدہ کس اہس
 حصص انکار کورمت۔ وڈن کوزکھ پس حصص وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ بیہ مود تم کفر کسی حالس
 پیٹھ۔ قرآن مجید ک خاصیت ہتھو پیشک ایمانس اندر ترقی پیدہ کرن۔ مگر جای گزھہ تھہ قابل آسن۔
 دل گزھہ نفاقہ نغمہ پاک آسن اَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ آیا
 وچھان چھنا تم زہ تمہن ضرور آزمائش یوان کرنہ پر تھہ و رہہ لہ بھر ہ یا دویہ بھر ہ، کُنہ تہ کُنہ آفس
 تہ بلا یہ منزبتلا کرنہ سیت۔ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ تو پتہ تہ چھہ تم بازیوان نہ
 چھہ تم نصیحت رٹان وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ بیہ یلہ کانہہ نوو سورہ نازل کرنہ
 یوان ہتھو تمہ ساتہ چھہ تم اکھ اکھ کن وچھنہ لگان۔ اشار و سیت چھہ اکھ اکھ اس پر ژھان اَلْ يَرَاكُمْ مِنْ
 أَحَدٍ وچھان ماچھو تو بہ کن کانہہ مسلمانو اندرہ ثُمَّ انصَرَفُوا اُتٰی چھہ ژکن ہیوان نبی کریمہ سزہ
 جلسہ منزہ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ تعالیٰ ان بھر تہہ دل دین حقہ نغمہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
 يَفْقَهُونَ کیا زہ تم چھونہ پوز فخری تران لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ای لو کو تھیق آو
 تو بہ کن پیغمبرہ تو ہی منزہ یعنی از جلس بشر۔ تھہ تو بہ تم نغمہ فیض حاصل کرن آسان سپدہ عَزِيزٌ
 عَلِيٌّ مَاعِنْتُمْ تم سیتھاہ ناگوار تہ دشوار ہتھو تو بہ کانہہ تکلیف وائن حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ سیتھاہ

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ يَا مُؤْمِنِينَ رَدُّوهُ
 رَجِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ اللَّهُ لَالِئَةً إِلَّا هُوَ
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۹﴾

خوایش چہ تہم تہندہ فایدہ بیج۔ یا المؤمنین ردوہ تہجیم۔ با ایمان کت چہ تم سیٹاہ مہربان تہ
 سیٹاہ شفیق۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ اللَّهُ لَالِئَةً إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ ہر گاہ یہ آستہ تہ لو کہ روگردانی کرن تہہ فرماؤ کہ کانہہ پرواہ چھونہ۔ بس چھومہ اللہ
 تعالیٰ۔ کانہہ معبود چھونہ تہس وراہی۔ تہس پیٹھ کورمہ اعتماد۔ سوی چھوڈہ عرشک مالک۔



سُورَةُ يُونُسَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 الرَّسْفَتِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۱ أَكَانَ لِلنَّاسِ عِجْبًا أَنْ أَوْحَيْنَا
 إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ
 قَدْ مَصَدَّقَ وَعْدُ رَبِّهِمْ قَالِ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۲
 إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَنْ شَفِيعٌ إِلَّا مَنِ

الرَّامِكِ مَطْلَبِ زَلِةِ اللَّهِ تَعَالَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ سَمِ آيَاتِ بَرُو تَهْ بِيَانِ مَن كَرَنَهْ سَمِ جَهْه
 آيَاتِ پُرْ حَمَتِ تَهْ مَضْبُوطِ كِتَابِهْ هَمِدْ۔ یعنی قرآن مجید کِ سَمِ آيَاتِ پَنَزِ آسَنَهْ مُوَكَهْ قَابِلِ قَبُولِ تِ جَهْه۔
 یَمِنِ پِیْئَهْ سَمِ آيَاتِ نَازِلِ سِدَانِ جَهْهْ کَافِرِهْ جَهْهْ تَهْمَدِسْ نَبُو تِسْ اِنْکَارِ کِرَانِ۔ تَمَنِّیْ جَهْهُو اللَّهُ تَعَالَى جَوَابِ
 فَرَمَاوَانِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عِجْبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ کِیَاہْ یَمِنِ مَکَهْ کِیْنِ لُو کُنْ جَهَا عَجَابِ بُو زَنَهْ یُو اِنِیْ
 تَهْهْ کِهْ اَسَهْ سُو زُو جِی تَمُو ی اِنْدِرَا کِسْ شَخْصِ پِیْئَهْ لِسْ تَمَنِّیْ هَبُو بَشْرَهْ اِنْسَانِ جَهْهُو۔ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ سُو جِی
 جَهْهُو اِی کِهْ بَیْمِ کَرُو تَمِنِ لُو کُنْ سَمِ خَدِیْہِ سَمْدِیْنِ حَمِنِ خِلَافِ کِرَانِ جَهْه۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْ مَصَدَّقَ
 وَعْدُ رَبِّهِمْ سَمُو اِیْمَانِ اَوَّلِ تَمِنِ فَرَمَاوِیْہِ خُو شْ خَبْرِ کِهْ تَهْمَدِهْ خَیْطَرِهْ جَهْهُو تَهْمَدِسْ خَدَا لِسْ نَشْہِ تَهْوَدِ
 مَرْتَبَهْ قَالِ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ کَافِرِ یَلِهْ حِیْرَانِ گَنے یِهْ کَلَامِ پَاکِ لُو ز تَهْ۔ دِپَنَهْ لَگْ پَنَزِ پَاٹْہِ
 جَهْهُو یِهْ شَخْصِ نَعُوذْ بِاللَّهِ سَاحِرَهْ جَاوُو کِر اِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ پَنَزِ
 پَاٹْہِ جَهْهُو تَهْمَدِ پَرُو دِگَارِ اللَّهُ تَعَالَى۔ سَمِ پِیْدَهْ کَرِ آسَمَانِ تَهْ زَمِیْنِ شَمِیْنِ دُو اِنِ بَرَابَرِ مُدْتِسْ مَنَز۔ لِسْ جَهْهُو سُو
 اَعْلَى دَرْجَتِ قَادِرِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ تُو پَنَهْ سَهْدِ سُو مَسْتَوِیْ عَرِشِ پِیْئَهْ تَهْہِ پَاٹْہِ تَهْہِ پَاٹْہِ تَهْہِ پَاٹْہِ تَهْمَدِسْ
 شَأْسِ شُؤَبِه۔ چِنَا نِچَهْ فَرَمَاوَانِ جَهْهُو يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سُو ی جَهْهُو پَرِ تَهْہِ کَامَهْ ہُنْدِ مَنَاسِبِ تَدْبِیْرِ کِرَانِ لِسْ جَهْهُو سُو

بَعْدَ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۳﴾ إِلَيْهِ
 مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۴﴾
 هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ
 لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ

حکیم مابین شفیق الامین بعد اذنیہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ کس بروئہ کنہ بیکہ نہ کانہ اھ
 شفاعت کمر تھ تہدہ اجازتہ وراہ۔ کس چھو سو عظیم تہ۔ یوہے معبود برحق چھو تہدہ پروردگار، حقیقی
 رب۔ کس کمر و تہزی پر تہش۔ شر کہ نہ روز و تہہ افلا تذکرون کیاہ۔ سمہ دلیلہ یوز تہہ تہ چھوہ
 ناتوبہ فخرہ تران کینہہ۔ سمہ سیت تہہ نصیحت رتو ایلہ مرجعکم جمیعاً وعد اللہ حقاً تہس کن چھوہ
 توبہ سارنی واثن۔ یہ چھو اللہ تعالیٰ سہ پوز وعده ایلہ یبدؤ الخلق ثم یعیدہا پز پات سوی چھو گوہ
 پیدہ کران مخلوقن۔ تو پتہ کرہ سوی بیہ دوبارہ تہن پیدہ قیامتک دہہ لیجزی الذین امنوا و عملوا
 الصالحات بالقسط تہہ بدلہ دیہ سو تہن لو کن پوزہ پوزہ سمو ایمان اون بیہ کر کھ رتہ عملہ، عدل و
 انصافہ موجب۔ تہہ منزکرہ نہ کنہ قسمہ کی بلکہ کرہ زیادے عطا والذین کفروا لهم شراب من حمیم و
 عذاب الیم بما کانوا یکفرون بیہ سمو لو کو کھر کور۔ تہدہ چنہ خیطرہ چھہ آخر کس منز کھر سہ بیہ
 تمہ علاہ عذاب کڈر۔ کیاہہ تم کیا آس کھر کران هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً سو قادر
 مطلق گو سوی سم آفتاب کور نہ پتہ کرہ ون۔ زون کمرن پر یزلہ ون وقدرکہ منازل مقرر کمرن سمو
 اندرہ پر تہہ اکسدہ سیرہ خیطرہ برج تہ منزل۔ آفتابہ سیت چھہ یوان دہہ پر زاونہ تہ زونہ سیت چھہ یوان
 رتہہ تہ وریہہ پر زاونہ لتعلموا عدد السنین والحساب تہہ تہہ زانو و رہن ہنز گریند تہ رتین تہ
 دوہن ہند حساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق اللہ تعالیٰ ان کمر نہ سم چیز پیدہ مگر پز پات کھر کھر جمعون

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾
إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ
مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ يَهْدِي اللَّهُ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ

پیٹھ مشتعل يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ویرشہ ناوان چھو اللہ تعالیٰ پنہ قدر تجہ دلیلہ زان والین
ہندہ خیرہ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ پزپاٹھ
راتہ کس تہ دوہہ کس اختلافس کہ اکس پتہ یس اندر، بیہ تم چیز اللہ تعالیٰ ان آسمان وزمین اندر پیدہ
کر، تمین اندر چھہ بڈ بڈ نشانہ تہ دلیلہ خدا یہ سندس آسئس پیٹھ تمین لوکن ہندہ خیرہ تم خدائیس کھوڑہ
وون چھہ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا پزپاٹھ تم لو کہ امید چھنہ تھاوان سانہ ملا قاتج تھہ چھہ انکار
کران وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیہ تم راضی سپد دنیاہ چہ زندگانی میٹھی آخر تک طلب چھونہ تمین
کہنی وَاطْمَأَنُّوا بِهَا بیہ تم تنہہ دنیاہ سی پیٹھ مطمئن سپد۔ دل لکھہ چھہ توکن متوجہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
آيَاتِنَا غَافِلُونَ بیہ تم سانیو آیا تو نشہ چھہ پیجری تمین منزمر نہ پتہ بیہ زندہ گڑھنچ لکر چھنہ أُولَٰئِكَ
مَأْوَاهُمُ النَّارُ تمین لوکن ہنز جای چھہ نار جہنم بہا کائو ایکسبُونَ تمین چھہ کائین ہند سز اسمہ
تم کران آس إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِي اللَّهُ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ پزپاٹھ تم لو کو ایمان
اون بیہ کر کیکہ رتہ عملہ تمین ہاؤہ و تھ پئن پروردگار تھندہ ایمانکہ برکتہ جنئس کن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الأنهر في جنت النعیم سمو جتو منز رنگارنگ جو یہ پکان آسن نعمون ہندین جتنن اندر دَعْوَاهُمْ فِيهَا
درخواست تھند آسہ جنئس اندر۔ یعنی کانہہ چیزے طلب کرین آسیکہ تمہہ ساتہ پرن تم سماک اللہم،
یکدم آسہ سو چیز پیش سپان سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ منزہ تہ پاک چھوک تہ یا اللہ وَتَجِبْتَهُمْ فِيهَا سَلَامًا تھند

الْأَنْهَرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ⑨ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ
تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ⑩ وَأُخْرَدَعُوا لَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ⑪ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ
لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑫ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا
لِحَبْنِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ
كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ

تعظیم و تکریم اسم جنس اندر سلام، ملائک آسن تمن نعمہ یدان۔ تم آسن تمن سلام کران۔ جنتی آسن
اکھ آس سیت ملاقات کران تم آسن تمنہ ساتہ سلام کران وَأُخْرَدَعُوا لَهُمْ آخری دعا اسمہ تمنہ
أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساری تعریف وجہ سزاوارتس معبود برحق نئس عالمین ہند رب جھو
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ہر گاہ اللہ تعالیٰ لوکن پیٹھ تمنہ
جلدی شر ژھانڈئس موافق جلدی عذاب واقع کرہ ہاتھ پاتھ تمن خیر ژھانڈئس اندر بے تابلی کران
جھہ نہ اللہ تعالیٰ جھو خیر تمن جلد واتانوان۔ ہر گاہ تھہ پاتھ شرہ جلدی واتانواہ ہیکھہ۔ تیلہ آسہا تمنہ
عذابک وعدہ ڈیٹھ کنہ پورہ سد مت فَنذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ نئس
جھیکھہ آس تمن لو کہ تمن نہ اسمہ نعمہ واتج نہ اسمہ سیت ملاقات کرن امید جھہ یلہ تراوان، جھہ تمن سرکش
اندر اورہ یور پھیرن بالآخر کرو کہ اس تمن عذابس گرفتار وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِحَبْنِهِ
أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا بیہ یلہ کانسہ انسانس کانہہ سختیاہ واتان جھہ لئی جھہ ہیوان اسمہ سو مٹن پر ہتھ
حاکس اندر۔ شوکت تہ بہت تہ دو تھون تہ۔ تمنہ ساتہ جھوس نہ معبودان باطلواندرہ کانہہ تہ ژئیس
ہیوان فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيَوْمِنَا كَذَلِكَ يَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَإِذْ اتَّكَلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْءُ مِنْكُمْ وَإِنْ غُرِّهَذَا أَوْ بَدَّلَهُ فُلٌ مَا يَكُونُ لِيَ

يَعْمَلُونَ تو پتہ یلہ اس سہ سختی چھس دور کران تہندہ ممکنہ تہ اسہ کن التجا کرنہ پتہ۔ تو پتہ چھو سو واتان پتہ نس اصلی حاس کن بیہ چھو شرکیہ کامہ تہ تہہ کران۔ یکان چھو اسہ سیت تمہ طریقہ زن نہ اسہ کن عتہ سختی وزہ حاجشی پیومت چھو تس۔ اسہ سیت چھو بے تعلق ظاہر کران۔ تہہ پاٹھ چھو زینت ونہ آمت حدہ نشہ تجاوز کرہ ونین ہنزن تمن پتھ عملن سہ تمہ تم کران آس وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا تہنن گاجہ تہ ہلاک کرہ اسہ مختلف عذابو سیت واریاہ جماژ توبہ بروٹھ یلہ تمو ظلم کور یعنی کھر و شرک کوزکھ وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تمن نشہ تہ آس واتمت پیغمبر تہندہ ننبہ دلیلہ بیہ وَمَا كَانُوا لِيَوْمِنَا آس نہ تمہ تمہ قسمک کہ پشہ کرہ ہن تہ ایمان نہ ہن كَذَلِكَ يَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ تہہ پاٹھ یکیاہ چھہ آس بزم کرہ ونین سزا دو ان ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تو پتہ کمر وہ اسہ تہہ تمن پتہ دنیا س اندر تہنزہ جایہ آباد۔ تہہ آس وچھو تہہ تہہ پاٹھ کمر و کوم (لہذا ہر گاہ توبہ تہ تی کور وہیہ بروٹھ میو کور تلہ بہ توبہ تہ تی یہ تمن ہنیو وَلِذَٰئِكَ اتَّكَلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ بیہ یلہ پرنہ چھہ یوان تمن پیٹھ سان واضح تہ روشن آیات قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْءُ مِنْكُمْ وَإِنْ غُرِّهَذَا وان چھہ تم لو کہ تمن نہ امید ی چھہ اسہ سیت ملاقات کرئ۔ ای پیغمبر سہہ قرآن مجیدہ بدل ابو بیا کہ قرآن تہہ منزہ تمہ قسمک مضمون آسن سہم سانس مسلکس خلاف آسن أَوْ بَدَّلَهُ یا کھر واتھ اندر عتہ قسمہ ترمیم۔ تم آیات کڈو امہ منزہ تم اسہ

أَنْ أَبَدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
 إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ قُلْ
 لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ
 فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
 الْمُجْرِمُونَ ﴿٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

خلاف چہ قُلْ تمہہ فرمادو کہ مایکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی مہ چھونہ اختیاری بوکیاہ
 بدلاوہ اتھ کہینہ پنہ طرفہ کیا زہ یہ چھامہ پن کلام ان اکیبہ الامایوحی الی لئو چھوس نہ پکان مگر
 تمی حکمہ موجب بس مہ گن سوزنہ یوان چھو لئی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم ہنز پاٹھ
 بو چھوس کھوژان ہر گاہ بو نا فرمانی کرہ پنہ بس مالکہ سنز بدہ دوہنہ کس عذابس سو گو روز قیامت قُلْ تمہہ
 فرمادو کہ ہز لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یزہہ ہا بو پدہ ہانہ توہہ پیٹھ
 قرآن مجید۔ یہ کرہ ہانہ توہہ ایچ خبر فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ یورودس توہہ منز عمرہ ہندس
 اکس ہڈس حصص، ژ پنجن ۳۰ ورہن سمہ بروٹھ (ہر گاہ مہ پنہ طرفہ یکہنہ پیش کرن آسہاتلہ کرہ ہا بو تھ
 وقس اندر تہ پیش۔ مگر توہہ چھو معلوم میون سوزی حال لو کچارہ پیٹھ) أَفَلَا تَعْقِلُونَ کونہ چھوہ تمہہ
 عقل کران فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ بس تمہہ اکھاہ چھو یژ عالم بس
 شخصہ سندہ خوتہ بس اپز نو رواوہ معبود بر حقس پیٹھ یازلہ اہز تہند آیات إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ
 ہنز پاٹ کامیاب گرہ صن نہ نا فرمان۔ خدا بس شریک ٹھراوہ ون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا
 لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ بیہ چھہ سیم پرستش کران معبود بر حقس ورا ی تمن چیزن ہنز سیم نہ تمن کانہہ
 ضرر بینکن و اتاوتھ۔ نہ کانہہ فایدہ۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ بیہ چھہ ونان تم مشرک سیم
 چیز کرن اسہ سفارش خدا بس زہہ (تمی چھہ اس بہنز پرستش کران) قُلْ أَتَشْتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَآءَ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ طُغْيَانًا
 اتَّبَعُوا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
 سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۸﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ
 إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
 رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۹﴾ وَيَقُولُونَ
 لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ فَقُلُوبُنَا سَامِعَةٌ

فی السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تمہہ فرمادیو کہ کیا تمہہ چھوہ خدا کیس دنان تمہہ خبرہ سمہ نہ سوزا لہ نہ
 آسمانس اندر نہ نہ زمین اندر (یعنی یلہ تس کا نہہہ شریک آسہ ہائے چیزس اندر تلہ ونہ ہاسو پانہ تھہ
 متعلق) سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ منزہ تہ پاک چھوسو تموسا روی چیز ونشہ تم چیز لو کہ تس
 شریک چھہ ٹھہراوان۔ معلوم سپد شرک چھو عقلا تہ شرعاً باطل آسہ علاہہ منزے ٹھہراونہ آمت۔
 چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرمادان وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا بیہ آس نہ لو کہ
 ابتداءس اندر مگر اکی امتہاہ مؤحدن ہنز کیا زہ حضرت آدم علیہ السلام تم آس مؤحد۔ تمن پتہ تہند
 اولاد تم تہ آس مؤحد کسی عقیدس پیٹہ۔ پس کر تمو اندرہ بعضید اختلاف۔ تم سپد مشرک
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ہر گاہ تہ فیصلہ ازل آسہا
 برو تھہ سپد مت ٹھہندس پروردگار ہ سندہ طرفہ، سوگو دنیا چھو داز العمل آخرت چھو داز الجزاء۔ نتہ بیہہ ہا
 ضرور تمن در میان فیصلہ کرنہ تھہ منسلک منز تھہ منز تم اختلاف کران چھہ۔ یعنی تم مشرک یمن
 دنیا سی اندر عذابس گرفتار کرنہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ بیہ چھہ دنان تم
 منکب مشرک محض عبادہ کن باوجود ظہور مجرات شیراہ کہ اس پیغمبرس پیٹہ کونہ سپد نازل برو ٹھہمن ہند
 پاٹھ فرمایشی معجزاہ۔ چوبیہ معجزہ اندرہ چھو مقصود ثبوت نبوت۔ بیہ سپدہ حاصل پر تھہ مجزہ سیت۔ لہذا
 چھہ ضرورت فرمایشی معجزن ہندہ واقع سپد بخ۔ مگر ممکن چھو تمو معجز و اندرہ سپدن واقع یکہنہ معجزہ یا

الْغَيْبِ لِلَّهِ فَإِنَّظِرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٥﴾
 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذِ الْأَمُّ تُكْرَهُ
 فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ ﴿٢٦﴾
 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَ
 جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ تَهَارُجُهُمْ عَاصِفٌ
 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُم أُحِبَطَ بِهِمْ لَعَنُوا

سپدن نہ۔ یہ جھوٹے نبی امور و اندرہ اکھ چیزہ۔ بو علم غیب زانہ کہینہ تہ۔ **فَعَلُوا إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ**
فَأَنْتَظِرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ کہیں فرماؤ لو کہ تمہ کہ شیخ خبر چھنہ مگر خدایہ سی یاثر۔ کہیں
 پیار و تہہ یونہ جھوس توی سیت پیارہ و نیولندہ۔ اتھ جھونہ منصب رسالت سیت کاہنہ تعلق **وَإِذَا أَذَقْنَا**
النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ یلہ اس مزہ چھکھ ژہہ ناوان تم لو کہ کھنہ نعمتک۔ تمی سختی پتہ
 یوسہ تمہن واثر مش آسان چھہ **إِذَا أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ فِي آيَاتِنَا** تان چھہ ہیوان تم شرارت گرن سائین آیاتن
 نسبت۔ یعنی تمہو آیاتونشہ چھہ اعراض کران۔ تمہن پیٹھ چھہ اعتراض کران تمہن نسبت چھہ ٹھٹھ تہ
 استہزاء کران **قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا** تہہ فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ جھو تہندہ خوتہ تیز کار سازی اندر۔ امہ
 شرارتک سزا دیہ سوتوبہ سیٹھاہ جلد **إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ** پزپاٹھ سان سوزمت لیجھن وال
 چھہ لیگان سکو کار سازی تہ شرارت یوسہ تہہ کران چھوہ۔ پروردگار س معلوم آسکھ علاوہ چھہ تہنہ
 شرارتچہ کامہ سانس دفتر س اندر تہ محفوظ **هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** سوگو سوئی پروردگار کہیں
 توبہ سیر کرہ ناوان جھو خشکی پیٹھ تہ دریاؤن منز تہ۔ یعنی سکو آلا توتہ سامانوسیت برسی و بحر ی وتھ طے
 کران چھوہ تم ساری آلات و اسباب چھہ اللہ تعالیٰ انی عطا کرمت **حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ**
بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ تالیجھہ یلہ تہہ کھنہ ساتہ دریاؤس منز چھوہ آسان ناوان تہ جہازن منز سوار۔ ناوہ تہ
 جہاز چھہ آسان موافق ہواوہ سیت پکان **وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ تَهَارُجُهُمْ عَاصِفٌ** ساری سوار چھہ آسان

زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنتَهَا
 أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا إِنْ كَانَ لَمْ تَعْنِ
 بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَاللَّهُ
 يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٤﴾
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا
 ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا

زُخْرُفَهَا تا یعجزم بیلہ زمین پورہ رتان چھو پن رونق وَازَيَّنَّتْ بے سپد زمین سر سبزی سیت مزین
 وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا خیال کورزیند ازو کہ ہنر پانچہ آسہ چھو ووان یہ زراعت امرہ زینک
 پیداوار پنہ نس اٹھس منز انہما أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا اتی چھو واتان تھہ سون حکم رات گیت یاد بلہ
 فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا إِنْ كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ کس چھن تراوان اس سو کو تھہ۔ زن نہ او سموی
 اوس کینہہ یوہ۔ تھہ پانچہ عالم بالکہ طرفہ روح یوان بدن انسانس سیت رلہہ، قوت حاصل کر تھہ، پور
 طاقتور تہ ہنر مند انسان بنان، اس انسان سد تعلق دار چھہ امیدوار روزان اس نغہ فائیدہ تکلن پیٹہ۔
 اتی چھو ناگہانی موت یوان تہ سوانسان چھو ہنک تہ معکہ مران۔ امندین متعلقن ہند ساری خیالات چھہ
 ووان۔ زن نہ یہ انسان پیدے سپد مت چھو آسان کَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ تھہ پانچہ
 چھہ اس پنہ آیات ویرھہ ناوتھہ بیان کران تمن لوکن ہندہ خیطرہ سم فخر کرن۔ کس سپد ثابت کہ دنیا
 چھو دارالبروال وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ اللہ تعالیٰ چھو نادوان لوکن دارالسلامس کن۔ سلامتی
 ہندس گرس کن (سوگو جنت) وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے چھو وتھہ ہاوان تمن یرشہان
 چھوراہ راستس کن لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ تمن لوکن ہندہ خیطرہ چھہ رثمزور، یعنی جنت۔
 سم رث عمل گرسن بے تمہہ خوتہ زیادہ (رثمزور گو جنت، تمہہ خوتہ زیادہ گو دیدار خدا) وَلَا يَرْهَقُ
 وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ولنہ بے نہ ہندین تھن سیاہی بے نہ رسوائی۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
 مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ
 جَبَعًا تَمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ
 فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿۲۸﴾
 فَكْفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
 لَغْفِيلِينَ ﴿۲۹﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو أَمْكُلَ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ

خَلِدُونَ صحیح کیا گئے جب تک لو کہ تھے آس جن میں منز ہمیشہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا یہ سمولوگو کو تمہے کامہ کرہ یعنی کفر سے شرک۔ تمہے کامہ ہنر مزور سے جھٹھ تو ہی سے توئی ایڑ سے بیڑھ سو بڑی آس۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ تمہے علاوہ یہ تہندین تمہیں و لہ خواری و رسوائی مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ آس نہ تم خدا سے نہ کہ نہ بجاؤن و ولہ زَن تہند بھتہ آس و لہ آمت تاریک راژ ہنر و جھلو سیت أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا مُظْلِمًا مئے کیا گئے ناریک لو کہ۔ تمنی و جھور و زن تھ نارس اندر ہمیشہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبَعًا سُو دودہ سے جھو قابل ذکر سمہ دودہ اس ساری مخلوقات سو نہر و کہ میدان محشر منر۔ قیامتگ دودہ کہ وَنُهُ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ تو پتہ و نو اس مشر کن۔ ای مشر کو ٹھہر و تہہ یہ تہند شریک۔ پنہ نی جلیہ زوزو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ تو پتہ ترا و اس تمن منر تفرقہ سے دوریر۔ تم کرن پانہ وان اکہ اس سیت مقابلہ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ون تہند باطل معبود تہہ آسوہ نہ سان عبادت کران فَكْفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ لہس جھو بس اللہ تعالیٰ گواہ آس نہ کن آسہ منز سے تو بہ منز تھہ پیٹھ کہ اس آس تہنرہ عبادتہ نہ لہس بالکل

مَوْلَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۰﴾ قُلْ مَنْ
 يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَبْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
 مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ
 الْأُمُورَ فَيَقُولُ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۱﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ
 فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿۳۲﴾ كَذَلِكَ
 حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾

بے خبر کیا زہ اس اس بے جان ہُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا سَأَلَتْ اِی وقتہ گزرا امتحان پر تھہ اگاہ
 تھہ ساری یہ تم کورمت آسہ بروئھہ وَرُدُّوَاللَّی اللَّهُ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ و اتاوندہ یں تم خدایہ سندس
 عذابس گن بس تھہند حقیقی معبود چھو وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم ساری باطل معبود تسم تمبو
 ٹھہراومت آس، تمکن ہنز تم پرستش کران آس گڑھن تمکن نشہ غائب تہ ختم۔ تمواندرہ یہہ نہ تمکن
 کانہہ تہ بکار قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہر ژھو تھہ یارسول اللہ تمکن مشرکن یہ سو تھہ چھو بس
 توہہ رزق عطا کران چھو آسمان وزینکہ طرفہ یعنی آسماکہ طرفہ بارش تراوان زمینہ منزہ غلہ کھاران
 بس تھہند رزق بنان چھو اَمَّنْ يَبْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ یہہ ونو تھہ چھو مالک تھہندہ بوزکہ تہ وچھکہ
 توستک وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ یہہ تھہ چھو زندس کڈان مردس نشہ،
 مردس کڈان زندس نشہ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمُورَ یہہ تھہ چھو سارنی کاین ہند تدبیر کران۔ فَيَقُولُونَ
 اللَّهُ تمکن سارنی تھن ون تم جواب کہ سمہ سارے کامہ کرہ ون چھو اللہ تعالی قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تھہ
 فرماؤ کہ اوہ کونہ چھو تھہ تس شریک انہ نشہ پتھ روزان فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ سمسدیم اوصاف و
 افعال چھہ بس یہوی چھو معبود برحق تھہند حقیقی پروردگار فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ ہزہ تھہ پتہ کیاہ
 چھو باقی روزان گرا ہی ورائی فَأَنَّى تُصْرَفُونَ بس پوز تراوتھہ کیا زہ چھو تھہ اہزس گن گڑھان
 كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تھہ پاتھ سپز ثابت تھہندس

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ
 يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتِ تَوَكُّونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ
 مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي
 إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ
 كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
 مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ هَذَا

پروردگارہ سزازی تھے تم نے نافرمان پیچھے کہ تم اس نے زانہہ تہ ایمان قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ یہ تہ پر تھو کہ تہہ یار سؤل اللہ کہ ای مشرگو کیاہ تہند یو سمو ایزو معبودو آندرہ
 چھا کا نہہ ئس گوڈہ مخلوقات پیدا ہیچہ کمر تھہ تو پتہ ڈوبارہ بیہ پیدا ہیچہ کمر تھہ - اتھہ پھور نہہ تمن جوابی
 کیہنہ - قُلِ اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ تہہ فرما یو کہ اللہ تعالیٰ چھو گوڈہ پیدا کران، سوی کرہ بیہ
 ساری مخلوقات پیدا - یہ چھہ تہنزی کام فَاَنْتِ تَوَكُّونَ ادہ کو گن چھوہ پز معبود تراو تھہ ایزین
 معبودن گن گھہان قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ اتہ پر تھو کہ تہہ زہ ای مشرگو کیاہ تہند یو
 ایزو معبودو آندرہ چھا کا نہہ ئس پز س گن و تھہ ہاوتھہ ہیچہ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ تہی فرما یو کہ کہ اللہ
 تعالیٰ ای چھو پز س گن و تھہ ہاوان اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ
 کیاہ ئس معبود و تھہ ہاوہ پز س گن سو چھا زیادہ سزاوار پیروی کرئس کنہ ئس نہہ پانہ بے سندہ و تھہ ہاونہ
 ورا ی و تھہ لبان چھو فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ئس کیاہ گووہ توہہ بیہ کیتھ لغو فیصلہ چھوہ کران توحید تراو تھہ
 چھوہ شرک اختیار کران ئس نہہ ابنا عس قابل ہیچہ آتھہ سو ہیجا عبادتس قابل آتھہ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ
 إِلَّا ظَنًّا بیہ چھہ اکثر سمو لو کو آندرہ پیروی کران مگر فاسد خیالاتن ہنزی اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
 شَيْئًا پز پٹھہ فاسد خیال چھونہ کا نہہ فاسدہ دو ان پز س برو تھہ کنہ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ پز پٹھہ
 اللہ تعالیٰ چھو پوز زانانہ یہ تم کران چھہ - و قس پیچھہ زہہ سو تمن پائے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ

الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي
 بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾
 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ
 اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٧﴾ بَلْ كَذَّبُوا
 بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

مَنْ دُونِ اللَّهِ یہ قرآن مجید چھوٹے تھوڑے کتاباں یوسہ ٹھہراونہ آئیہ پندرہ طرفہ خدائیس وراى وَلَكِنْ
 تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بلکہ چھوٹے نازل کرنے آمت تصدیق کرہ و ان کن کتابن سمہ امہ بروٹھ چھ
 نازل کرنے آثرہ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ یہ چھوٹے تمنی کتابن ہند تفصیل تہ توضیح بیان کران لَأَرِيْبَ فِيهِ
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کانہ شک چھوٹے امہ کس کتاب آسانی آس اندر یوہے چھو نازل آمت کرنے
 عالمین ہندس پروردگارہ سندہ طرفہ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بلکہ باوجود آل چھہ سم لوکھ و نان یہ قرآن
 مجید چھو پنے نی طرفہ ٹھہر وومت حضرت محمدن (نعوذ باللہ) قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ نہہ فرماو یو کہ
 کہ تلبہ آتو نہہ اتھ ہوا کہ سورہ۔ نہہ تے عربی زبانہ ہند ماہر فصیح و بلیغ چھوہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہہ دیکھو ناد تمکن نہہ ہمکو تہ تمن پندرہ مددہ خیطرہ معبود برحقس وراى
 ہر گاہہ پوزونہ دن چھوہ۔ یعنی ہر گاہہ یہ قرآن مجید میون تصنیف چھو نہہ تہ آتو اتھ ہوا کوى سورہ
 تصنیف کر تھہ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ بلکہ چھہ سم انکار کران اپز زانان تھہ چیزس تہ گنہ
 تمن پورہ واقعتھس چھہ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وندگتہ تے یہ تمن ای حقیقت كَذَّابَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ یہ ہندی پاھہ کور تکذیب تمو لو کو تہ سم تمن بروٹھ آس پنے نین پیغمبرن فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ کس وچھہ کیاہ اوس انجام تمن ظالمن ہند تھوی انجام آسہ تمن ظالمن ہند تہ وَمِنْهُمْ
 مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ یہہ چھہ سموا ندرہ بعضی سم آئندہ پڑھہ کرن اتھ قرآن مجیدس،

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
 بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۴۰﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَلَىٰ وَكُومٍ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۱﴾
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا
 لَا يَعْقِلُونَ ﴿۴۲﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ
 وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿۴۳﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ
 النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۴﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانُوا يُبْشِرُونَ إِلَّا

بہیہ چھہ بعضی سم نہ پڑھ کرن اتھہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ نہند پروردگار چھو پور زمانان مُفْسِدِينَ
 وقت مقرر یلہہ واتہ تمہ ساتہ کرہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہن عذابس گرفتار وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَلَىٰ وَكُومٍ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
 وکن ہر گاہ تمکن دلیمان ہندہ باوجود ایم لوک توہمہ انکار کرن، نہہ فرماو یو کہ مہ چھہ مزور پنہ
 کامہ ہنز توہمہ چھوہ مزور پنہ کامہ ہنز۔ اَنْتُمْ بَرِيضُونَ وَمِمَّا عَمَلُوا وَاَنَا بَرِيضٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ نہہ
 چھوہ بری میانیہ کامہ نشہ، بو چھوس بری تہنہزہ کامہ نشہ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ نہہ مہ تھاوہ
 توقع تم کیانن ایمان اگرچہ تمہو منزہ چھہ بعضی یم کن تھاوان چھہ سمہ ساتہ نہہ قرآن مجید پران چھوہ۔
 مگر نہند بو زن نہ بو زن چھوہ برابری۔ کیا زہ تم چھوہ ایمانک ارادہ لہذا چھہ تہنہز حالت زرین ہنز ہش
 أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ کیا توہمہ بیحو کھہ زربوزہ ناوتھہ بہیلہ نہ تمہن عقل تہ آسہ کینہہ
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ بہیہ چھہ تمہو اندرہ بعضی سم توہمہ مُجْرَات وکمالا توسان وچھان چھہ۔ مگر طلب
 حق نہ آسہ مو کہ چھو تہند وچھن بے کار أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ کیا نہہ چھوہ
 یرشہان امین و تھہ ہاون یلہہ نہ تمہن درنیشی ہوان آسہ کینہہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ
 أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہنز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو نہ کانسہ ظلم کران قابلیت عطا نہ کمر تھہ مواخذہ تہ گرفت

سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۵۵﴾ وَأَمَّا نُرِّيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي
نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا رَجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا
يَفْعَلُونَ ﴿۵۶﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن

کران۔ لیکن لو کہ چھہ ظلم کران پان پائس عطا کرنے آما قرابلیت ضایع کرنے سیتِ و یوم یخترهم کان لکم
یَبْئُتُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ تم پاپو سو دوهه ژتیس سمه دوهه اللہ تعالیٰ تم سارنی تھہ پاٹھ سو نیراوه
کہ تم کرن خیال زن تم رومت آسن دنیاس منزیا قبرن منز ساروی دوهه منزہ اکس گرہ۔ یَتَعَارَفُونَ
بَيْنَهُمْ لو کہ آسن اکس پر زہ ناوان لیکن اکھ اکس یمن نہ کانہ مدد کر تھہ۔ ساری آسن پنہ پنہ
پریشانی گرفتار قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ تحقیق تاوان یہ نقصان آسہ تمہ
دوهہ تم لو کن سمو پوزون خدا بس سیت ملاقات کرن بیہ آسن نہ تم دنیاس منز ہدایت کہہ دن۔
وَأَمَّا نُرِّيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ بیہ ہر گاہ تو بہ ضرور ہا دوهہ آس تمو عذابا آندرہ بعضی عذاب تم ہند
وعدہ آس تم کرن چھہ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ یا ہر گاہ اس سو عذاب نازل کرنے بروٹھی جہہ سمہ عالمہ
نمووہ، توتہ کیاہ گو فَإِنَّمَا رَجِعُهُمْ آخِر کار چھو تم واٹن اسی نشہ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ تو پتہ
چھو اللہ تعالیٰ ای شاہد تھہ ساری پیٹھ یہ تم کران چھہ۔ سو دیہ تم پائے سزا دنیاس منز تم سزا
ایتن دنہ یا متہ ایتن دنہ مگر آخر تس منز ایچہ ضرور پنہ نس موقس پیٹھ سزا دنہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ بیہ
چھو پریتھہ امتہ خیرہ احکام و اتا دنہ خیرہ اکھ پیغمبرہہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ آدہ یلہ جہم پیغمبر تم نشہ آد
تہ پیغام و اتوون تم قَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فیصلہ چھو تم منز کرنے ایوان عدل و انصافہ موجب و ہم
لَا يُظْلَمُونَ بیہ پیہ نہ تم لو کن ہنہ قسمہ ظلم کرنے۔ کیا زہ اتما مجتہ پتہ سزا دیون ظلم گونہ وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ دپان لو کہ عذابک و عید یوزت تھہ انکار کرنے خیرہ کہ ای

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ
 اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
 وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا
 مَّاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۰﴾ أَلَمْ إِذَا مَا وَقَعَ امْتُنَّم بِهٖ
 النَّارَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۴۱﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْرُونَ إِلَّا بَأْسَكُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۴۲﴾

پیغمبر کرسپده واقع یہ وعدہ عذاب۔ ہر گاہ تمہے یوزوانان چھوہ تلہ کونہ چھو عذاب واقع سیدان قُلْ لَا أَمْلِكُ
 لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تمہے فرماؤ کہ جواب یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوحسوس نہ خود
 پنہ پانہ خیطرہ تہ اختیار تھاوان، نہ عنہ نفعک نہ عنہ ضررک مگر تنوی اختیار یوت اللہ تعالیٰ اس منظور
 آسہ۔ پس تمہہ پاٹھہ بیحہ یوتہمہ عذاب انتہہ یا وعدہ عذاب تھاوتہہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ پر تمہہ اتمہ عذابہ
 خیطرہ تہ تباہی خیطرہ چھو اللہ تعالیٰ اس نیشہ اکھ وقاہ مقرر دنیا اس اندریا آخر اس اندر إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
 فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یلہ سو مقرر کرنہ آمت وقت تمہندواتہہ پس ہمکن نہ تم نہ تمہہ
 گڑھتہہ اس سائس نہ بروٹھہ تمہہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ
 تمہے فرماؤ کہ تلامہہ وینو ہر گاہ توہمہ خدلیہ سڈ عذاب ولتہ رات کیت یادولہ تمہہ منزہ تمہہ چیز چھو سویتہ
 جلد چھہ ژھانڈان تا فرمان از چھوہ انکار کران تہہ۔ حال چھہ یہ اوس اقرارک تہ تصدیق وقت اتمہ إِذَا
 مَا وَقَعَ امْتُنَّم بِهٖ کیاہ یلہ سو عذاب واقع سپدہ ادہ انوہ تمہہ تمہہ ساتہ ایمان۔ تہہ ایمان انہ نس فائیدہ چھو
 نہ کینہہ النَّارَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (ونہ ایہ توہمہ تمہہ ساتہ) ای مکر دوون کمر وناپڑھ تمہہ مگر بے
 سؤد۔ حالانکہ یہ گو سوی عذاب پس تمہہ جلد ژھانڈان آسوہ ٹھٹھہ پاٹھہ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا توپتہ
 ایہ ونہ تمن لوکن سمو ظلم کور یعنی مشرکن ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ژبوہ مزہ ہمیشگی ہندہ عذابک ہل
 تُجْرُونَ إِلَّا بَأْسَكُمْ تَكْسِبُونَ توہمہ چھنہ سزادہہ یوان، مگر تمنی کائین ہندہ تمہہ کران آسوہ

وَيَسْتَبِشُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾
 وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ
 لَمَارَأَوْا الْعَذَابَ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾
 إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْآرَاتِ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾ يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ

وَيَسْتَبِشُونَكَ أَحَقُّ هُوَ ^{بہ} ^{جہ} تم تو بہہ نشہ دریافت کران تہ پر ژھان لسنہ پاٹھ تہ ٹھہ پاٹھ کیاہ عذاب
 چھا پوزوی قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ^{جہ} فرماو یو کہ اوہمہ چھو پونہ نس پروردگارہ سُنہ قسم بہ لے پوز چھو وَمَا
 أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ^{جہ} بیکیون نہ اللہ تعالیٰ عاجز کمرت کمنہ صور نس اندر۔ سو چھو قادرِ مطلق۔ نس ہیجہ نہ
 کانہہ اکھاہ عاجز کمر تھہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ^{سُو} عذاب آسہ تیوت سخت کہ
 ہر گاہ آسہ پر تھہ ٹھگار شخصس تیوت مال سمہ سیت سوزوی روی زمین ہر سپدہ ہے، سوتیوت مال تہ
 دیہ ہے پنن پان بچاونہ خیطرہ تمہہ ڈہیکہ عذابہ نشہ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَارَأَوْا الْعَذَابَ ^{بہ} تھاون تم ٹھگار
 ندامت تہ خجالت پو شیدہ، یلہ وچھن سُو عذاب ٹیٹھ تھاونہ خیطرہ عذابہ نشہ۔ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ^{بہ} ایہ فیصلہ ٹھنہ عدل وانصافہ موجب کرنہ۔ تم ایہ نہ ظلم کرنہ۔ یہ وڈمت آسکھ
 تلوئن الْآرَاتِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ^{وارہ} یوزوای لو کو، یہ آسمان تہ زمین منز چھو تہ سوزوی چھو
 ملک معبود برحقہ سُنہ۔ تھہ منز آی تم مجرم الْآرَاتِ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ^{وارہ} یوزہ خدایہ سُنہ وعدہ چھو حق تہ
 پوز۔ نس قیامت ایہ ضرور وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ^{لیکن} اکثر لوک چھہ زانان تہ یقین کران هُوَ
 يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ^{سوی} چھو زندہ کران سوی چھوماران نس کیاہ مشکل چھو نس نشہ دوبارہ
 پیدہ کرن۔ بہ ایو جہہ ساری نس گن واتاوندہ تو پتہ بہہ سوسارنی حساب ^{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ}
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ^{ای} لو کو تھقین آو تو بہہ گن ٹھنہ س پروردگارہ سُنہ طرفہ سُو چیز نس

وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۸﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ
لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفَتَّرُونَ ﴿۵۹﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۰﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ

پہچھ کا میونسٹہ پتھ رنہ خپتر ہوڈو عطا تہ نصیحت چھو، نئس شخص تمہہ وعظہ سیت چھہ کامیونسٹہ پتھ روز
تہمدہ خپتر ہچھو بوڈ شفا۔ تمن سارئی مرض ہمدہ خپتر ہ سم وکن منز چھہ گنہوسیت پیدہ سپدان وَهْدَىٰ
وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ چھو سو بوڈ ہدایت رتہ کامہ کرنہ خپتر ہ۔ یہ ہڈ رحمت بالیمان ہمدہ خپتر ہ
(سوگو قرآن مجید) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فرماو یو کہ تہہ قرآن مجید یلہ پتھ
بابرکت چیز چھو لہذا شو بہ لوکن خدایہ سدہ فضل ورحمتہ سیت خوش سپدان۔ یہ قرآن مجید گرشہ زان
بڈ دولت هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ قرآن مجید چھو بدرجہا بہتر تمہہ خوتہ یہ سم سونہران چھہ مال دنیا
اندہ۔ کیا زہ دنیا عک نفع چھو کم تہ فانی۔ قرآن مجید ک نفع تہ فاسدہ چھو سیٹھاہ تہ پوشہ ون قُلْ أَرَأَيْتُمْ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فرماو یو کہ تہہ تلاوتو، خداین نئس رزق نازل
کور تہمدہ نفعہ خپتر ہ تہہ کمر وہ پائے بے دلیل تمہہ منزہ او چیز حرام تہ او چیز حلال قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ
أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفَتَّرُونَ تہہ پر ژھتو کہ کیاہ خداین دیتہ توبہ امیک اجازت۔ کہہ بل چھوہ خدائس پیٹھ اپز
نووراوان وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ کیاہ خیال چھو تم کن لوکن سم خدائس
پیٹھ اپز نووراوان چھہ قیامتک دوہ (تم چھازانان کہ تمن پیہ نہ تمیک پر ژھنے کینہہ تمہہ دوہہ) إِنَّ اللَّهَ
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ پز پاطھ اللہ تعالیٰ چھو لوکن پیٹھ فضل کران۔ گنہ تہ
نافرمانی کرتھئے چھو کہ نہ گرفتار عذاب کران۔ بلکہ چھو کہ مہلت دووان دیوہ توبہ کرن، معافی منگن۔ مگر

جَمِيعًا ۶۵ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۶۵ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مِنْ فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا
يَخْرُصُوْنَ ۶۶ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا
فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُوْنَ ۶۷ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ

خدايہ سزنا کتھن یعنی وعدن۔ تمہند وعدہ چھو ہختہ تہ پوز وعدہ ذلک ہوا الفوز العظیم بحکمہ کتھن
بدرستگاری تہ کامیابی وَاَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ بپہ منہ کمرن توبہ غمگین تہ آزرده دشمن ہنزہ بیہودہ کتھہ
اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ہنز پات عزت، بپہ قدرت تہ غلبہ چھو سو زوی خدا ئیس۔ سو کرہ توبہ پنہ
وعدہ موجب پور حفاظت تہ راہبہ۔ دشمن ہیکن نہ توبہ پیٹہ غلبہ لبتہ ہُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سو چھو
سو زوی بوزون ساریچہ خبر تھادون اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مِنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وارہ بوزو تم مخلوق
آسمان تہ زمین منز چھہ۔ ملا یک جن تہ انسان تم ساری چھہ خدایہ سندی ملک تمکن اتھہ کینہہ چھونہ
وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ کچہ سنا پیروی کران چھہ تم لوک ہم لوک اللہ
تعالی اس ورائی بین معبودن ہنز عبادت چھہ کران۔ خدا ئیس چھہ خبر کچہ پیروی چھہ تم کران۔ تمن نشہ کیاہ
سنا لیل چھہ لمہ اعتقاد چہ اِنَّ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ تم چھہ پیروی کران مگر
بے سند خیالن تہ اوہا من ہنز بپہ چھہ تم مگر اندازہ تہ قیاساہ لگاوان۔ حقیقتھاہ چھہ کچہ کینہہ ہُوَ الَّذِىْ
جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا سو پورردگار گو سوی تم رات کمر پیدہ ہتھہ
تھہ تھہ منز آرام کمر بپہ تم دوہ کمر پیدہ ہتھہ تھہ منز وچھت کمر تھہ پن ضروریات پورہ کمر۔ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ ہنز پاتھ شب وروز پیدہ کرس اندر چھہ قدرتک بڈبڈ نشانہ توحید چہ چہ
چہ دلیلہ تمن لوکن ہندہ خیطرہ تم دلایل قدرت وارہ بوزان آسن۔ مٹرک چھہ تمکن دلیلن اندر غور

أَمْرُكُمْ وَشُرَكَاءِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ
 لَا تَنْظُرُونَ ﴿٤٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتَنِي
 إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوا
 فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَعْرَقْنَا
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٤٨﴾

تمیگ پروا کران کیا زہ فعلی اللہ تو کلت مہ چھو خدایہ سی بیٹھ اعتمادتہ ڈو کہ کورمت فاجمعوا امرکم
 وشرکاءکم میہ ضرورتا تاونہ خیطرہ کتر و تہہ پوختہ ہن کوم۔ معبودان باطل (یم تہہ خدایہ سند شریک
 چھوک زانان) تم رہو کہ پائس سیت تم لا یکن امرکم علیکم غمۃ تو پتہ مہ آکن سو کام یوسہ توہہ مہ
 نسبت کرن چھہ توہہ اندرہ کانسہ بیٹھ پو شیدہ۔ یعنی تین پائھ کرایوہہ توہہ کرن چھو تم اقضوا الی و
 لا تنظرون تو پتہ یہ توہہ مہ نسبت کرن چھوتہ کتر و تار کرنہ و رای یو چھوسنہ توہہ کتہ قسمہ کھو ژان۔ نہ
 تراوہ یو تہندہ بیمہ و عظ ہرن تہ تبلیغ کرن فان تولیتم ہر گاہ تہہ توتہ زو زو یو ٹھوی پھر ان تمیگ وجہ
 کیا چھو فمآسألتکم من اجر۔ مہ منج نہ توہہ اتھ و عظ و نصیحت کرنس بیٹھ کانہہ مزدوریاتہ عوضاہ۔
 یو کیا زہ منگہ ہا توہہ مزدور ان اجیری الاعلی اللہ میان مزدور چھنہ کانہہ منہ خدائس و رای۔ غرض نہ
 چھوس یو تہہ کھو ژان نہ چھسوہ کینہہ منگان و امرت ان اکون من المسلمین مہ او حکم کرنہ کہہ
 بوروزہ فرمانبردار و اندرہ۔ لہذا چھوس یو تعمیل حکم کترت توہہ و عظ و نصیحت کران۔ ہر گاہ تہہ مانو نہ۔
 میہ کیاہ نقصان چھوتہ اندر فکذابوا تہہ بلغ و عظ تہہ یشہ فہمالش کرنہ پتہ تہہ کور جموئس انکاری۔
 اتھہ انکار کرنس بیٹھ سوزاسہ تہن بیٹھ عذاب طوفان۔ سمہ سیت تم ساری ہلاک سپد فنجینہ و من
 معہ فی الفلک نہل دیت نجات اسہ حضرت نوحس، بیہ سم تہن سیت آس ناوہ منز، ز تجہ مرد تہ
 ز تجہ زانہ وجعلنہم خلیفہ بیہ کمر اسہ تم زمیس بیٹھ آباد و اعرقنا الذین کذبوا بالیننا باقی چھاٹو
 اسہ تم لو کہ سموا انکار کور سائین آیان فانظر کیف کان عاقبہ المنذریں نہل و چھوہ تہہ یار سول اللہ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا كَانُوا لِلْيَوْمِ مُؤَابِهًا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى
قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٤٦﴾
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿٤٧﴾
قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّقُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُفْعِلُ

کیتھ سپد پچھہ انجام تمن لوکن ہند تمن بيم کرنہ یوان اوس یعنی بیجری منزد شوکھ نہ سز الہیمہ وارہ فجرہ
تار تھ کچھواتھ مگریلہ نہ تمومون ادہ آکھ سزا دہ یوہے حال بہہ تمن تہ تم توہہ انکار کران چھہ
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ توپتہ سوز اسہ حضرت نوح پتہ بے پیغمبر پتہ نین پتہ نین
تومن کن فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ہس آی تم پیغمبر تمن نش نہہ دلیلہ ہتھ فَمَا كَانُوا لِلْيَوْمِ مُؤَابِهًا كَذَّبُوا
بِهِ مِنْ قَبْلُ ہس آس نہ تم تمہہ قسمک لوکھ، تم کیا کرہ ان پڑھ تھہ تھہ تمو امہ برو تھہ انکار کورمت
اوس كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ تھہ پاھہ کیا چھہ اس مہر کران حدہ ڈلہ و نین ہندین دلن
پیٹھ۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا توپتہ سوز تمن پیغمبر پتہ اسہ
حضرت موسیٰ بیہ حضرت ہارون فرعونس تہ تھندین ہشتین کن ہن مُجْرَاتِ عَصَا تہ بیضا ہیٹھ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ہس کور تمو تقدیق کرنہ نشہ سبجہ۔ بیہ آس تم لوکھ جرائمن ہند
خوگر۔ تمہ موکھ کرنہ تمو اطاعتت فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا ہس یلہ واثرہ تمن نشہ نبوت موسیٰ
پیٹھ سانہ طرفہ صحیح دلیلہ یعنی مُجْرَاتِ قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ دہنہ لگ تم بیشک یہ چھو نون
سحر تہ جود قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّقُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ حضرت موسیٰ ان دو پکھہ اکی کافر و کیاہ جہہ چھوہ
یڑھہ تھہ ونان اتھ صحیح دلیلہ یلہ سو توہہ نشہ واثرَ اَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُفْعِلُ السِّحْرُونَ کیا یہ چھا جود تہ سحر۔
حالانکہ جادو گر چھنہ کامیاب سپدان نبوتک دعویٰ کرنس اندر قَالُوا اِحْتَنَلْنَا لِتَلْفِئِنَّا تم لگ تورہ ونہ

السَّحَرُونَ ﴿۴۸﴾ قَالُوا أَجِئْنَا لِنَتْلِفَتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۴۹﴾
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿۵۰﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ
قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنتُمْ مُتْلِفُونَ ﴿۵۱﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى
مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿۵۲﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۳﴾
فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

ای موسیٰ کیاء تہ آکھہ اسیہ تمہہ کامہہ نشہ پھر نہ خیطرہ عتہا وجدنا علیہ آبائنا یسہ کام کران و پھہہ اسیہ
پانہ پن مال تہ بڈب۔ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ بپہ چھوہ تہہہ یڑھان کہ توبہہ گنہہہ اسیہ بیٹھ
سرداری تہ زھل حاصل سپدن ذنیاس آندر وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ اَس ہرگز توبہہ پڑھہ گزونہ
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ بپہ دون فرعون پنہ نین ہنشن تہہہ دیو کہ اتھہہ ساری زان
وال جاؤگر فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ اودہ یلہ آی تم جاؤگر قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا اَنتُمْ مُتْلِفُونَ تم
دوپ حضرت موسیٰ ان تراو پتھر میداں منزیہ توبہہ تراون چھو جاہہ آندرہ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا
جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرَ اہس یلہ ترود تہوہہ تراون اوسکھ، حضرت موسیٰ ان دو پکھہ اکی سا جز تہہہ یہ بیٹھ
آمت چھوہ، یہ گو جود۔ تہ چھونہ جودیتھہ فرعونہ سد لو کہ جودونان چھہ۔ تم گئے مَجْرَات اِنَّ اللَّهَ
سَيُبْطِلُهُ اللہ تعالیٰ گرہ اتھہ تہندس جاوس ضرور باطل تہ بے کار اِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ
پڑاٹھ اللہ تعالیٰ چھونہ شیران تہ سنبھالان مفسدن ہنزہ کامہہ۔ تم مَجْران سیت مقابلہ گزن وَيُحِقُّ اللَّهُ
الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ بپہ چھو اللہ تعالیٰ پزس مضبوط تہ حکم کران حسب وعدہ پنتہ حکمہ سیت۔
اگرچہ ناگواری گزھن کافرن تہ نافرمان فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

وَمَا لَهُمْ أَنْ يَفْتَنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ
لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۸۳﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿۸۴﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۸۵﴾ وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَا
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا

وَمَا لَهُمْ أَنْ يَفْتَنَهُمُ ہنس پڑھ کر نہ حضرت موسیٰ اس گوڑہ گوڑہ مگر پندہ قومہ کیونکر شو شخصو سم تہندہ
رشتہ دار آس۔ سو تہ فرعونس تہ تہندین ہشتین نشہ کھوڑ کھوڑ۔ ہتھہ سو تہن سختی کمر تھہ پانس کن
پھرہ۔ واقعی تہند کھوڑن بے معنی اوس نہ کیا زہ۔ وَان فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ فرعون اوس نا
زبردست بادشاہ زمین مصرس منز وَانَّ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ہیہ اوسا سو سیٹھاہ زیادتی تہ ظلم کرہ ون۔
حضرت موسیٰ ان یلیہ وچھہ سم ہجھہ فرعونس نشہ سخت تھار سمیت وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَ إِنْ كُنْتُمْ
آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ہر گاہ توہہ پڑھہ کمر وہ کئس خدائس ہنس کمر و تھہ پیٹھہ
اعتماد، ہجھوے تہہ فرمانبردار فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہنس ون تہو اسہ کمر تس معبود بر حقس پیٹھہ
واقعی توکل تہ اعتماد (توپتہ کروکھ دعا) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ای سائہ پروردگارہ اسہ
مہ بناؤ تھتہ مشق سکن ظالم لوکن ہنز وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ہیہ وہ نجات اسہ محض پندہ
رحمتہ سمیت سکن کافر ن نشہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَا الْقَوْمِ كَمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ہیہ سوز
اسہ وحی حضرت موسیٰ ہیہ تہندس برادر حضرت ہارونس کن کہ تہہ تھہ او بد ستور پندہ قومہ خیرہ رہائش
انتظام مصرس اندر یو تھہ فرعونین ہند یو گرو منزہ نیر تھہ ژلو۔ اس گرو تہنز حفاظت وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ
قِبْلَةً ہیہ آسومہماز ہندہ وقتہ تہہ ہن گرہ ہلاوان مسجد۔ نماز آسو گرہ نی منزہ ہران وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
ہیہ ہجھو سیٹھا ضروری کہ نماز تھادو برپا۔ ہتھہ نمازہ ہندہ برکتہ اللہ تعالیٰ جلد مصیبت دور گرہ وہ

الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۷﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ
 آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَكَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
 عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَرُوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۸۸﴾
 قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾ وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ای موسیٰ بشارت دیو بالا ایمان نجات کا میابی ہنز وَقَالَ مُوسَىٰ یہ کسر مناجات حضرت موسیٰ ان رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَكَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ای سانہ پروردگارہ بیشک تری دیو تھے فرعونس یہ تہند من الہکارن دنیاہس اندر بودشان وشوکت یہ واریاہ مال و دولت رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ای سانہ ہروددگارہ یہ کر تھکھ تھہ تم ڈالن لوکن چلنہ وتہ نشہ۔ کس یلہ نہ ہدایت تہندہ نصیبہ چھو، یوسہ حمت اتھ منز آس سوسہز حاصل۔ وون کیا زہ من تم تہ تہند مال باقی تھاونہ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ای سانہ ہروددگارہ پھش پھر تہندین مانن تہ جائیدادن و اشدد علی قُلُوبِهِمْ سخت کمر کہ دل تہند فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَرُوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ تھنہ تم ایمان آنن توتان یوتان نہ کڈر عذاب پنہ نیو اچھو و تھن۔ حضرت موسیٰ آس یہ دعا کران تہ حضرت ہارون آس آمین آمین کران قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ اکی موسیٰ، ای ہارون تھیق قبول آو کر نہ دعائہند (آمین کرن تہ گودعاءس منز شامل سپن) کس روز دتھہ پنہ نس فرض مصیبت پیٹہ استقامت کمر تھہ وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تھنہ پیروی کمر و تھہ کن لوکن ہنز تم بے علم چھہ۔ ممکن نہ معلوم چھو سانہ وعدہ کہ یوز آسک۔ یلہ فرعونہ سندہ ہلاک وقت قریب ووت اسہ کور حکم حضرت موسیٰ آس کہ بنی اسرائیل کڈ یو کہ مصرہ منزہ نیر۔ چنانچہ درای تم بنی اسرائیل پتھ مصرہ منزہ وتہ آکھ بروٹھ دریای قلمز۔ حضرت موسیٰ سندہ دعاءہ سیت بنی اتھ

فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغِيًّا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ
 اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوۡا۟ اِسْرٰٓءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۹۱﴾
 اَلَّذِيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۹۲﴾
 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ
 اٰيَةً وَّاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيَتِنَا لَٰغِفُوْنَ ﴿۹۳﴾
 وَاَنَا بِنَبِيِّ۟ اِسْرٰٓءِيْلَ مُبَوِّصٌ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيْبِ ؕ

دریاوسی باہ کوچہ و جوزو نابینا اسرائیل الغرق یہاں یلہ پور تاہر اسہ بنی اسرائیل دریای قلزمس
 قَاتَبَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغِيًّا وَعَدُوًّا نَس دور یونمن پتہ فرعون بن لشکر ہیتھ ظلمہ کن بہ حدہ نغمہ
 تجاوز کرنے کن۔ خیال اوس کہ دریاء نغمہ پور تتر تھ کر کہ یوساری بنی اسرائیل قتل۔ لیکن تم گئے اُپور
 ترے برو نطھی ہتھ دریاوس اندر غرق حَتَّىٰ اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ تا لیجہ یلہ فرعون پھٹن ہیوشن قَالَ
 اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوۡا۟ اِسْرٰٓءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ تمہ ساتہ لگب دہنہ ایمان
 اون مہ۔ کانہ معبوداہ جھونہ تس ذات پاکس ورا ی نَس ایمان اون بنی اسرائیلو۔ یہ جھوس بویتہ
 فرمانبر دار و آندرہ اَلَّذِيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ اللہ تعالیٰ ان فرموس ملائکن
 ہندہ ذریعہ اکی فرعون و نکس جھو کہ فرمانبر داری ہند اقرار کران۔ سمہ ساتہ نہ اقرار کر نَس کنہی فائیدہ
 جھوی۔ کیا زہ عالم آخر تک معاینہ کرنے پتہ جھونہ اقرار کر نَس کانہ اعتبار۔ تحقیق اکہ برو نٹھ کا زاہ
 تا فرمانی تہ سر کشی کمر تھ۔ یہ اوسکھ تباہی کرہ وینواندرہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ
 اٰيَةً نَس جھن از اس چون بدن بچاوان نیست ونا بود گوہہ نغمہ۔ ہتھ تریہ پتہ پینہ والین ہندہ خیطرہ
 عبر تک اکھ نشانہ روزن۔ چان بد حالی تہ تباہی و جھتھ روزن احکام الہین ہندہ مخالفتہ نغمہ ہتھ وَاِنَّ كَثِيْرًا
 مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيَتِنَا لَٰغِفُوْنَ بیشک لو کو اندرہ جھہ واریاہ سانو قدر تہ کیونشا نونغمہ بے خیر۔ مخالفت
 احکام کرنے نغمہ جھن کھوژان تہ پتھ روزان وَاَنَا بِنَبِيِّ۟ اِسْرٰٓءِيْلَ مُبَوِّصٌ پز پٹھ فرعونہ

فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۹۳﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ
مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۹۴﴾
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿۹۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا

سندہ ہلاک کرنے پہنچے بسا اوسہ بنی اسرائیل رثہ جلیہ۔ تم سید مصر ک مالک وُرِدَتْهُمْ مِنَ الطَّبَاطِبِ یہ
کورسہ تمہیں عطار زق، رت رت چیز اتھ مصرس اندر۔ اتھ کُن نظر کمر تھ پڑہ ہاتھن سان اطاعت تہ
فرمانبرداری کرن۔ مگر تمہو کور تھ بدل۔ تمہو کور دینس اندر اختلاف۔ افسوس کہ یہ اختلاف تروونہ
تمہو نادانی تہ جہلہ کن فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ہنس کورنہ تمہو اختلاف مگر احکامن ہند علم داتنہ پہنچے
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پڑ پڑ تھند پروردگار کرہ فیصلہ
تمہن اختلاف کرہ وینمن منز قیامتہ دوہ۔ تمہن سارنی چیزن ہند تمہن منز تم اختلاف کران آس فَإِنْ
كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ یا رسول اللہ ہر گاہ بالفرض توہہ عنہ قسمہ ترود تہ شک آسہ قرآن
مجیدس منز لیس آسہ کُن نازل کور۔ یہ شبہ رفع کرنے خیطہ ہجھواکھ سہل طریقہ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ تھہ کمر و دریافت تمہن لو کُن نشہ ہم لو کھ بڑ و تھمہ کتابہ پران چھہ۔ تم و ن توہہ
بے شک قرآن مجید چھو خدلیہ سندہ طرفہ نازل سدان لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ تھتھن شک و شبہہ
ورای آسہ توہہ کُن پڑ کتاب تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ہنس مہ حض آسہ
تھہ شک تہ ترود کرونیو اندرہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ
مہ آسہ ہر گز تھہ تمہو لو کواندرہ تمہو لہزانتھ انکار کور خدلیہ سندس آیتن۔ ہنس سید و تھہ تہ نقصان تلہ
وینو اندرہ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ پڑ پڑ تھن لو کُن ہندہ خیطہ یہ

يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾
 فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً أَمِنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَبَا
 امْنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخُزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ
 إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا
 أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ
 أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا

ازلی حکم چانس بدورد گارہ سندہ طرفہ ثابت سپد مت جھوتم زانہہ ایمان ان نہ **وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ** ہر گجے تم نیش ساری آیات تہ وآن تو تہ اُن نہ تم ایمان یوتان نہ وچھن کڈر عذاب۔ مگر تمہہ وقتہ ایمان اُن جھو بے کار تہ بے اعتبار **فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً أَمِنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ** بس آس نہ کنہہ شرک لو کہ سمو عذاب وچھت ایمان اُون۔ تو پتہ دیکھ تم ایمان فاسیدہ حضرت یونسہ سندہ قومہ ورا کی۔ تم پیٹھ یلہ عذاب ہیوئن نازل سپن اتی اون تمو ایمان **لَبَا امْنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخُزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ** یلہ تمو ایمان اُون اتی کل اسہ تمین خواری ہند عذاب دنیا چہ زندگی اندر۔ بیہ تاناؤ تم زندگی ہند متع مرتجس و قس تان **وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا** بیہ ہر گاہ تمہند پروردگار بیٹھہ ہاتلہ انہ بن ایمان تم ساری لو کہ تم زمینس پیٹھ جھہ یجہ وٹ۔ مگر تم یوٹھہ نہ تہ بعض جتن کن نظر سمر تھ **أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ** کیاہ تمہہ کریو کہ لو کہ مجبور ایمان انہ نس پیٹھ تا اینکه ساری بن با ایمان **وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ** حالیکہ ممکنی جھونہ کانسہ شخصس ایمان اُن خدایہ سندہ حکمہ ورا آئی تہندہہ بیٹھہ ورا آئی۔ **وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ** بیہ جھو اللہ تعالیٰ ٹرچہ نافرمانی اندر تراوان بے عقلن، سم نہ عقلہ کوم ہیوان چھہ۔ **قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** فرماو و تمہہ یار رسول اللہ لو کن، ای لو گو و جھو کہ کیا جھو آسمان تہ زمین اندر اللہ تعالیٰ ان پیدہ کورمت می سیت سپدہ ہاتوہہ معلوم خدایہ سندہ

يَعْقِلُونَ ﴿۱۰۰﴾ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْبِرُ
 الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۱﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا
 مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَا عَمَلُكُمْ
 مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿۱۰۲﴾ ثُمَّ نَبِّئِي رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ ۗ
 حَقًّا عَلَيْنَا نَسِجَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۳﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي
 شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ


آسکب بیہ سُکوی آسکب وَمَا تُعْبِرُ الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بیہ کیاہ فاسیدہ دن آیات بیہ نیم
 گرن وال یعنی پیغمبر، تمہن لوکن تم ازی بی ایمان آسن فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
 قَبْلِهِمْ نِس چھنہ سیم لوکہ انتظار کران مگر تھنئی مشکل دوہن ہند سیم ڈرے سمن برونھہ قُلْ فَانظُرُوا
 إِلَىٰ مَا عَمَلُكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ تہہ فرماویو کہ کمر و انتظار تہہ بوتہ چھوس تو ہی سیت انتظار کرہ و نیو اندرہ تہہ
 تُنَبِّئِي رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا توپتہ آس اس نجات دوان پنہ نین پیغمبرن بیہ تمہن لوکن سمو ایمان اون
 كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَسِجَ الْمُؤْمِنِينَ تہہ پاٹھ چھو مٹہ آسہ پیٹھ نجات دمن سارنی بالیمان۔ نِس ہر گاہ یکن
 کافر ن پیٹھ کاہنہ عذابہ نازل سپدہ بالیمان لیکن تمہہ عذابہ نشتہ نجات۔ خواہ دنیاس اندر خواہ آخرتس
 اندر قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فرماویو کہ تہہ یار رسول اللہ، ای لوکو ہر گاہ توہہ
 شک چھو میانس دینس متعلق نِس وارہ صاف صاف چھسوہ یو فرماوان فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ نِس بوچھوسنہ عبادت کران تمہن معبودان باطلن ہنز سمن تہہ عبادت کران چھوہ معبود
 برحقس وراکی وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بلکہ چھوس یو عبادت کران نِس خدایہ سنز نِس توہہ
 قبض رُوح کران چھو وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بیہ آومہ کھم کر نہ خدایہ سندہ طرفہ بالیمانو

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۵﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ
 لَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۶﴾
 وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ
 بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۷﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ
 رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا

آندره آسک وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا بیه آومہ کرم متوجه روز تک دین توحید س کن
 ساری باقی دین تراوتھ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیه آم وندہ یتھنہ ہرگز نہ آسکھ مشرک آندره وَلَا
 تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ بیه یتھنہ خدائس وراى بیه کانہ منگان آسکھ۔ یوسنہ نہ
 تهنز عبادت کمرت کانہ نفع ہیکى وائتہ ناوتھ۔ عبادت نہ کمرتھ کانہ ضرر ہیکى وائتاوتھ فَإِنْ فَعَلْتَ
 فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ نھس ہر گاہ ژہ یرھہ کام کر کہ یعنی معبود بر حقس وراى بیه کانہ عبادت
 کر کہ نھس جھو کہ ژہ تلہ ظالمو آندره۔ ستمو خدایہ سمد حق ضالع کور وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا
 كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ بیه آومہ وندہ کمر ہر گاہ اللہ تعالیٰ کانہ سختیاہ وائتاوى ژہ۔ نھس جھو نہ کانہ سو سختی
 دُور کرہ ون نھس وراى وَلَنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ بیه ہر گاہ سو یرھہ کانہ خیراہ چانہ خیرہ نھس بیه کمر نہ
 پتھ رتھہ کانہ اکھا تهنس نھس یصیب بہ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بلکہ جھوسو فضل پئن وائتاوان پنے
 نیوبند واندہ نھس یرھان جھوسہ نھس وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بیه جھوسو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم
 کرہ ون قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فرماو و تھہ لو کن ای لوگو تھنق آوتوہہ کن دین
 حق پنے نھس پرورد گاہ سدرہ طرف۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ
إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

نہیں سیرہ و تیرے پیٹھے ایسے سوایہ پتیرہ فاسیدہ خیطرہ ہیہ نِس شخص تمہہ نغمہ ڈلہ، سو ڈلہ پتیرہ پانچم ضررہ خیطرہ
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ مہ چھنہ تہنہز کام پُشر نہ آمر۔ یو کروہ توہمہ ہدایت قبول کرنس پیٹھ مجبور
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ہیہ کتر و تہہ پیروی
تتھ یہ توہمہ گن وحی سوزنہ یوان جھو۔ ہیہ کتر و کافرن ہندس کترس تہ تکلیف پیٹھ تہہ صبر۔ یوتان اللہ
تعالیٰ پُن فیصلہ تہ حکم جای کرہ۔ سوی جھورت حکم تہ فیصلہ کرہ ون۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 الرَّكْبُ أَحْكَمْتُ ابْنَهُ ثُمَّ فَضَلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ① أَلَا
 تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ② وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ
 يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
 عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ③ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④

الرَّكْبُ أَحْكَمْتُ ابْنَهُ ثُمَّ فَضَلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ امیک معنی چھو معلوم خدایہ سئیہ قرآن مجید
 چھو کتاباہ۔ مسک آیات تہ احکام چھہ مضبوط تہ محکم کرنہ آمت دلیلو سیت۔ توپتہ چھہ تم احکام ویشہناونہ
 آمت حمتہ والس تہ بانبر خدایہ سیدہ طرفہ۔ سمیک مقصد چھوای زہ اَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تمھو حکمو
 منزہ چھو گوڈنحوی حکمہ کہ عبادت تہ پرستش مہ کتر وکانسہ ہنز کنس خدائس وراکی۔ اِنِّی لَكُمْ مِنْهُ
 نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ بوچھوس تہندہ خیطرہ تہندی طرفہ بیم کرہ ون تہندہ عذابگ۔ خوشخبرونہ ون تہندین
 انعامس ہند وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بیہ معنوی پنے نین گنہن ہندہ خیطرہ مغفرت پنے نس
 پروردگارس۔ توپتہ کتر ورجوع تس کن یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تھہ فایدہ تھناونہ توہہ
 رت فائدہ اکس مقرر کرنہ آتس و قس تان یعنی مرئیس و قس تان و یُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ بیہ
 کرہ عطا پر تھہ زیادہ عمل کرہ ون زیادہ مزدور وَاِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ اگر تھہ
 ایمان آنہ نشہ تھہ پھر وتلہ چھوس بو کھوژان تہندہ تھہ بڈہ دُبکس عذابس (سوگو قیامتگ دوہ) اِلَى اللَّهِ
 مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ سی کن چھو تہہ پونس و اُن سُو چھو پر تھہ چیزس پیٹھ قدر تہ

الْأَنْهَامِ يَنْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ الْأَجِينَ يَسْتَعْشُونَ
 ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ
 يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ
 عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتِ

دَوْل الْأَنْهَامِ يَنْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ وارہ یوزو تمکن کافرن ہند حرکات۔ تم جھہ سینہ
 نومراوتھ اکھ اکس سیت کتھ کران۔ یتھ پو شیدہ تھاؤن تمہ کتھ خدائس نشہ الْأَجِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ
 يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وارہ یوزو۔ تمہ ساتہ تم کھ پیٹھ ژادر تراوتھ جھہ پانہ وان کتھ کران۔ اللہ
 تعالیٰ جھوتہ سو زوی زانان۔ یہ تم پو شیدہ کران چھہ۔ یان پاٹھ کران جھہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہز
 پاٹھ سو جھو پورہ زانان دلن ہنزہ اندر مہ کتھہ۔ وون گوژ ہنا زان بہنزن ز یون ہنزہ کتھہ۔ وَمَا مِنْ
 دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
 روئے زمیں منز چھنہ کانہہ تہ پکون جاندارہ مگر اللہ تعالیٰ اسی چھہ تمنسز روزی مط، سو چھو تمسد جائے
 قرار تہ جائے پناہ زانان تمس تمیک پور علم آسجہ علاوہ جھو، تہ سو زوی لیجھت روشن کتابہ اندر یعنی لوح
 محفوظ اس اندر وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ سو پروردگار گو سوی تم آسمان
 تہ زمین پیدہ کمر شین دوہن برابر و قس اندر وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ یہ اوس عرش ٹھنڈا آبس پیٹھ۔
 عرش تہ آب اوس امہ برو نٹھی پیدہ آمت کرنہ یہ سو زوی کوزن پیدہ۔ اتھ منز کمرن ٹھنڈ ساری
 ضروریات پیدہ۔ یتھ ٹھہ یہ وہجھت توحیدس پیٹھ استدلال کمرہ ہو ہنزہ نعمو کھتھ تہنز شکر گذاری کرہ
 ہو عبادت تہ رژ عمل کمرہ ہو۔ توہہ اندرہ بعضیو کوریہ۔ بعضیو کوراتھ بدل ناسپاسی تہ شرک لِيَبْلُوكُمْ
 أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یتھ توہہ آزمایش کرہ۔ توہہ اندر ٹھہ آسہ رت عمل کرنہ کن وَلَئِنْ قُلْتِ

إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
 هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ
 مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُ سُهُ الْيَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا
 عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَا
 الْإِنْسَانَ مِتَارِحَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۝ ۹
 وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ

مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ بیه ہر گاہ تہہ ونان چھوہ لوکن ای لو کو تہہ ایو مر نہ پتہ بیه زندہ کرنہ قیامتک
 دودہ لَیَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تمہو اندرہ تم کافر چھہ تم ون ضرور قرآن مجیدس
 متعلق کہ چھونہ بیه قرآن مجید تہہ منز قیامتہ مر نہ پتہ بیه زندہ گزنج خبر چھہ ، مگر نون سحر اہ۔ کیا زہ چھہ
 ونان قرآن مجید چھونون سحر تہہ جوہ۔ یکن اوس خیال کہ تہہ پائٹھ جوہ باطل چھو گوا ابتداءس اندر چھو
 آسان مؤثر۔ تہہ پائٹھ چھو ثعوذ باللہ قرآن مجید تہہ باطل۔ اگر چہ اتہ چھو ابتداءس اندر مؤثر سپدان
 وَلَئِنْ آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُ سُهُ بیه ہر گاہ اس پتہ نموتن نشہ سو
 عذاب سیمک تمن وعدہ یوان چھو کرنہ گزرنہ آمتین کیون دونن تام۔ تم چھہ بطور استہزاء ونان کہہہ
 سنا چیز چھو تہہ عذائس پتہ رنان واقع سپدنہ نشہ یعنی ہر گاہ عذاب کانہہ چیز اہ آہاتلہ آسہ ہانازل آمت
 کرنہ الْيَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وارہ یوزوسمہ دوہہ سو عذاب پنہ نس موقس پیٹھ تمن
 نازل سپدہ چھونہ سو عذاب کہ پتہ کیا ایہ رنہ تمن نشہ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ولنہ بیه تمن
 سو عذاب پنہ نس موقس پیٹھ تہہ تم ٹھہہ کران آس وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِتَارِحَةً بیه ہر گاہ
 آس انسانس پنہہ مر بانی ہند تہہ تمنک مزہ چھہ ہاوان۔ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ توپتہ چھس سو نعمت اٹھہ ہوان
 إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۝ ضرور چھو سو نامید تہہ ناشکر گذار سپدان وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ
 مَسْتَه بیه ہر گاہ آس انسانس سختی پتہ یوسہ تمن واثر مشر آس نمون ہند مزہ چھہ ہاوان لَيَقُولَنَّ

السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ
صَدْرُكَ ۖ أَن يَقُولُوا الْوَلَا يُنزلُ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ

ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ضرور چھو تمہ سائے و نان خنی گئیہ مہ نشہ دور۔ وَن آسہ نہ خنی کینہہ لائے
لَفَرِحٌ فَخُورٌ پڑیاٹ سو چھو سبتر کران۔ لوکن پیٹھ فخر بہان کرنہ۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ مگر نہ تم لو کہ تمو ہمیشہ پریتھہ حالس پیٹھ صبر
کور نعمون ہندہ زوالکھ وقتہ کوزکھ صبر۔ عطای نعمتہ وقتہ دوپچھ شکر۔ بہہ کرکھ رزہ عملہ تے گے تم
بہندہ خیطرہ یوڈ مغفرت تہ بڈمزور چھہ۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ
صَدْرُكَ پس شاید چھو ہنہ تراون یرٹھان کانہ حصہ تموا احکامو منزہ تم توہہ کن نازل کرنہ یوان
چھہ۔ بہہ چھو ہنہ تمہ مکھ ہن دل تنگ کرہ و ان۔ کیاہ یہ چھا ممکن کہ ہنہ کیاہ تراود تبلیغ کرن۔ یہ کتھ
چھہ ظاہر کہ ہنہ بیکونہ تہ ہرگز کرت پس کیاہ فائیدہ چھو دل تنگ سپد تک۔ کیاہ تہند دل مبارک چھا
سپدان تنگ دشمن ہندہ بہہ و نہہ سیت۔ اَن يَقُولُوا الْوَلَا يُنزلُ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ تم
دشمن کیاہ چھہ و نان۔ ہر گاہ تم پیغبر آسہن تلہ کونہ چھو و النہ یوان تمن پیٹھ خزانہ۔ یا کونہ چھو و سان
تمن سیت ملک تصدیق کرنہ خیطرہ۔ تموتھو سیت مہ ہز سپد و ہنہ دل تنگ اِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ہنہ چھو نہ مگر ہم کرہ و ان لوکن اللہ تعالیٰ ای چھو پریتھہ چیزس پیٹھ اختیارہ
وول۔ توہہ تمیک اختیار چھونہ۔ لہذا کیاہ چھو امہ سبہ نمگین اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیاہ تم دشمن
چھاوانان کہ یہ قرآن مجید چھو سمو یعنی حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم پنے دل طرفہ ٹھہر وومت قُلْ

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۳﴾
 فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۴﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ
 زِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿۱۵﴾
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا
 صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ

فَأَنزِلَ عَشْرَ سُوْرٍ مِّثْلَهُ مُفْتَرِيَاتٍ تَبَهُ فَمَا لَوْ يُوْكَ هِرْ گَاهِ تِي جَهْوِ تَلِهٖ اَنْبُوْ جُهْمِهٖ تِهٖ دِهٖ سُوْرَهٗ تَهْتَهٗي پَنِهٖ طَرَفِهٖ
 بِنَاوِ تَهٗ وَاْدْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ بِيِهٖ دِيْتُو نَادِ مَدَدِهٖ خَيْطِرَهٗ لَيْسَ لَيْسَ تَهْمِهٖ يَبْكُوْ نَادِي تَهْمِ حَدِ اَيْسَ
 وِرَاكِي۔ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ جَهْوِے تَهْمِهٖ پُوْرُوْنَا نَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ لَيْسَ
 هِرْ گَاهِ تَمْ كِيْنِهْمِهٖ جَوَابِ وَاَنْ نَهٗ تَوْبِهٖ لَيْسَ زَاوِوْ تَهْمِهٖ كَمِيَهٗ قِرْآنِ مَجِيْدِ جَهْوِ نَاذِلْ كَرْنِهٖ اُمَّتِ حَدَلِيَهٗ سِنْدِهٖ عِلْمِهٖ بِيِهٖ
 تَهْمِنْدِهٖ قَدْرَتِ كَامِلِهٖ سِيْتِ۔ وَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ بِيِهٖ كِرُوْ سَمِيْگِ تِهٖ لَيْقِيْنَ كَمِهٖ كَانَهْمِ مَعْبُوْدُوْا هٗ جَهْوِوْنَهٗ لَسْ مَعْبُوْدِ
 بَرِ حَقْسِ وِرَاكِي كِيَا زِهٖ مَعْبُوْدِ گُوْهٗ اَسْنِ الوَيْتِهٖ كِيْنِ صِفَاتِنِ اَنْدَرِ كَامِلِ۔ هِرْ گَاهِ لَسْ وِرَاكِي بِيِهٖ كَانَهْمِ اَسْبَا تَسْ
 اَسْبَا تَلِهٖ پُوْرِ قَدْرَتِ تِهٖ تَمْمِهٖ پُوْرِهٖ قَدْرَتِهٖ سِيْتِ كَرِهٖ هَا سُوْ تَوْبِهٖ قِرْآنِ مَجِيْدِ كِ مِثْلِ پِيْشِ كَرْنِسِ اَنْدَرِ مَدَدِ۔ اَكِي
 كَا فِرُوْ تَهْمِهٖ سِيْدِهٖ وَاوْنِ مِثْلِ اَنْ لَسْ مَنْرَ عَا جِزِ (لِهَذَا سِطْرُ الْمَسْئَلَةِ تَوْحِيْدِ وِرْسَالَتِ ثَابِتِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
 كِيَا هٗ اَمْرِهٖ پَتِهٖ تِهٖ كَرُوْهٗ تَهْمِهٖ پَرَهٗ كَمِنَهٗ نَهٗ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا لَيْسَ اَلْكَاهِ پَنِهٖ نِيُوْرُ ثُوْ عَمَلُوْ اَنْدَرِهٖ
 مَحْضِ دِيْنَاچِهٖ زَنْدِگِيْ مَنْدِ فَايْدِهٖ تَلْنِ يَرَهٗ بِيِهٖ تَمْمِهٖ چِي اَرَايشِ حَا صِلِ كَرْنِ يَرَهٗ، شَهْرَتِ هَشْ، يِيْنِيْنَامِي هَشْ
 عَزْتِ دِجَاهِ هِي۔ اَخْرَتِ حَا صِلِ كَرْنِچِ اَسْ نَهٗ لَسْ نِيْتَهٗ نُوْفِ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ
 اَدِهٖ اَسْ دِمُوْ پُوْرِهٖ تَمْنِ عَمَلِنِ هِنَزِ مَزُوْرِ دِيْنِ اَسْ اَنْدَرِ۔ تَمْنِ بِيِهٖ نَهٗ تَهْمِ اَنْدَرِ كَمِنِهٖ قَسْمِهٖ كِي كَرْنِهٖ اُولَئِكَ
 الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ تَمْنِ لُوْ كِهٖ گَمْنِ تَمْنِ نَهٗ اَخْرَتِ اَنْدَرِ كِيْنِهْمِهٖ تِهٖ اَسِهٖ نَارِهٖ وِرَاكِي
 وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا بِيِهٖ گُوْهْمِهٖ ضَايِعِ تِهٖ سُوْرُوِي بِيِهٖ تَمْنِ كِرَانِ اَسْ رِثُوْ كَا مِيُوْ اَنْدَرِهٖ دِيْنِ اَسْ اَنْدَرِ

بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ
 إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ
 الْأَحْزَابِ فَأَلْئَا مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ
 مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۶﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ

وَبَطِّلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ **بہ گزشتہ سہ سو زوی خراب تہ تباہ، یہ تم کران آس رثو عملو آندرہ۔ کیا زہ**
نیت تہنز آس خراب **أَمَّن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ** **کیاہ مکر قرآن کریا**
 برابری تس شخصس سیت بس قرآن مجیدس پیٹھ قانیم روزت آسہ بس قرآن مجید تہندس پروردگارہ
 سندہ طرفہ دو تہمت چھو۔ **بہ چھو تہتہ** قرآن مجیدس سیت امہ کس حق تہ پوز آسئس پیٹھ گواہ تہ۔ سو گو
 سمیک فصیح و بلیغ آسن تمہہ درجہ کہہ لو کہ چھہ تمکہ مقابلہ کرنہ نشہ عاجز۔ یہ گئیہ دلیل عقلی **وَمِن قَبْلِهِ**
کُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً **بہ چھہ امہ برو تھہ اکہ کتاباہ یوسہ حضرت موسیٰ اس پیٹھ نازل سپز مژ چھہ اچہ**
 گواہی ہندہ خیطرہ موجود۔ یوسہ کتاب احکام بیان کریکہ اعتبارہ امام چھہ۔ تمہ احکامن پیٹھ بس اجر و
 ثواب حاصل سپدہ تمہہ اعتبارہ چھہ رحمت۔ یہ گئیہ دلیل نقلی۔ **یَمُوسَىٰ دُوشَوَىٰ** دلیلو سیت سپد ثابت
 قرآن مجیدک پوز تہ صحیح آسن **أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ** **یم لو کہ تمہ ہنز ذکر کرنہ آہ چھہ اتھ قرآن**
 مجیدس پڑھ کران **وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ** **بتیم لو کہ قرآن مجیدس انکار چھہ کران بیو فر قو یعنی**
 کافر و آندرہ **فَأَلْئَا مَوْعِدُهُمْ** بس نار جنم چھو تہندہ و اتج جای۔ بس تھہ پاٹھ ہیچہ قرآن مجیدس پڑھ کرہ
 ون برابر آتھہ۔ **فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ** **بس مہ آس تہ ای مخاطب امہ کس شکس اندر واقع سپدہ ون**
إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ **بیشک یہ چھہ پڑ کتاب یوسہ چانس پروردگارہ سند طرفہ واژ مژ چھہ** **وَلَكِنَّ أَكْثَرَ**
النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ **مگر باوجود آں چھہ واریاہ لو کہ یم نہ اتھ پڑھ کران چھہ** **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ**
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا **بہ کہہ اکہ چھو پڑ ظالم تس شخصہ سندہ خوتہ تم لہز نور و و کئس خدائس پیٹھ، توحیدس،**

وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝^{۱۸} الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝^{۱۹}
أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضَعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝^{۲۰} أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

قرن مجیدس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے سے اُولَٰئِكَ یَعْرَضُونَ عَلٰی رَبِّهِمْ تھے
کیا ہن پنے نس پروردگارس بروٹھ کن انہ مفتری آسجہ حیثیتہ **وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ**
كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ تمی ساتہ کیا ون گواہ یعنی تم ملا یک تم لو کن ہندین اعمالن پیٹھ گواہ چھہ تے
لو کہ کیا گئے سموا پز نورو، اپزہ کتھ لاجھہ پنے نس پروردگارس پیٹھ **أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ**
ساری بوزو وارہ کہ تھنی ظالمن پیٹھ چھہ خدایہ سنز زیادہ لعنت **الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ**
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا تم پانہ کافر تہ ظالم آتھہ تین لو کن آس خدایہ سنزہ وتہ لغبہ پتھ رٹان۔ بیہ آس
تلاش کران تھ وتہ منز گوٹھ ظاہر سپدن کانہہ ہجرہ **وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ** بیہ آس تم
آخر تے انکار کران **أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ** تم لو ک ممکن نہ تگ آتھہ اورہ یوز
ژلتھہ تمام روی زمینس اندر۔ سمہ ساتہ تم کن گرفتاری ہند وقت وتہ **وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ**
مِنْ أَوْلِيَاءٍ بیہ آسہ نہ تم خدایس ورا ی کانہہ دوستاہ یس موکلاوتھ ہیجہ ہیجہ **يُضَعِفُ لَهُمْ**
الْعَذَابُ یمن بیہ کرنے تین ہندہ خوتہ دو گن عذاب۔ اکھ پنے گمراہی ہند بیہ تین لو کن گمراہ کرہ نک۔
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ آسہ تم سخت نفرتہ کن ہزن تھن کن تھاوان تہ
بوزت ہیکان۔ بیہ آسہ تم سخت عنادہ کہ سبہ سبیز وتھ یوان درنیٹھ **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا**
أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تے لو کہ کیا گئے تم سموا نقصان کورپنہ نین پانن بیہ راوہ تم

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۱﴾ لَأَجْرَمَ
 أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ﴿۲۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۳﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ
 وَالسَّيِّعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مِثْلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۵﴾ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
 اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ﴿۲۶﴾ فَقَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ

تمہ سارے گتھے، سمجھ ٹھہر او ان آس یہ تم ساری معبودان باطل تمن پر ستش کران آس۔ و تمین
 آکھنہ کانہہ تہ بکار لاجرم انہم فی الاخرۃ ہم الاخسررون لازمی چھہ یہ تھہ کہہ ساروی اندرہ چھہ تہ
 یقیناً سیٹھاہ تاوان رد۔ ان الذین امنوا و عملوا الصالحات و آخبتوا الی ربہم بیشک سمو کو کو ایمان
 اولن یہہ کریتھہ رتھہ عملہ، یہہ کوڑکھ رجوع عاجزی سان، دلہ کن پنہ نس ہروردگار سن اولیک
 اصحاب الجنۃ ہم فیہا خلدون تہ چھہ جنک لوکھہہ تہ روزن تمن جشن اندر ہمیشہ مثل
 الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر مثال دو شون جماعتن بالیمان تہ کافرن ہنز چھہ۔ آکھ
 شخصہہ چھو اون تہ زور تہ (یہ گنیہ کافرہ سنز مثال) بیاکھ شخصہہ چھو و چھو ڈن تہ بوز ڈن تہ (یہ گنیہ بالیمانہ
 سنز مثال) هل یستوین مثلا کیاہ سم دو شوے چھا برابر ی مثالیہ اندر افلاتن کون کیاہ جہہ چھو
 تمن دون جمائن اندر یہہ فرق زانان ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ یہہ سوزا سہ بیشک حضرت نوح پنہ
 نس قوم سن انی لکم نذیر مبین ای قوم بیشک یو چھوس تھندہ خیطرہ بیم کرہ ون ن پاتھ۔ یو ہے
 پیغام واتناوہ ون کہ ان لا تعبدوا الا اللہ کہہ مہ کرو کانہہ ہنز عبادت معبود بر حقس وراکی انی
 اخاف علیکم عذاب یوم الیوم یو چھوس کھوژان تھندہ خیطرہ (ہر گاہ توہہ تس وراکی کانہہ ہنز پر ستش

كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِي
 اتِّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرِي
 لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ
 إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ
 فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْلِزُ مَكُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرِهُونَ ﴿۲۶﴾
 وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَإِنُ اجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا

کرده) کذره دو بکس عذاب سوگو قیامتگ دوہ۔ فَقَالَ الْبَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ پس دُوب جواب
 تمن پنے قومہ کیو کافرن ہند یوزھو مَآ نَرِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا اِسہ چھو کھنہ ژہ بوزنہ یوان مگر اسی ہیہ
 انسانہ۔ سانہ خونہ چھا ژہ اندر کانہہ فضیلتاہ و مَا نَرِي اتِّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِہ چھنہ
 اَس و چھان چان پیر و کار مگر تھے ہم ہونمہ در جب لوکھ چھ۔ بَادِي الرَّأْيِ سَمو تامل کرنہ و راکی جلد
 جلد چان پیر وی قبول کر و مَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بیہ چھنہ لبان اَس توہمہ تہ ٹھنہ دین پیر و کارن
 کانہہ فضیلتاہ پانس پیٹھہ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ بلکہ چھہ اَس توہمہ زانان اپزیر۔ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
 كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ حضرت نوحن دو پچھ ای میانہ قومہ مہ و نتو تہہ
 ہر گاہ بو آسہ پنے نس پروردگارہ سزہ نہہ دلیلہ پیٹھہ قائم سیمہ سمیت میان تبوت آسہ ثابت سپدان بیہ
 آسہ تم مہ پن بڈرحمت تہ مہربانی عطا کر مثر فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمْ سُونوت تہ تہج و دلیل بیہ نہ توہمہ بوزنہ
 تھہ کیاہ علاج چھو، اَس چھہ جُورُ أَنْلِزُ مَكُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرِهُونَ کیاہ اَس بیکوہہ توہمہ سُو رحمت و
 مہربانی دعوی و دلیل زورہ پُشر اوتھہ در حالتیکہ تہہ آسوتھہ ناپسند کران وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَإِنُ
 ای میانہ قومہ بیہ سوچو توہمہ ذرا کہ اگر ہونو تک غلط دعوی کرہ ہاتھہ منز آسہامہ کانہہ مطلبہ۔ تہ گو
 بیٹھوی ہیہکہ تمکہ ذریعہ کرہ ہا بومال و دولت جمع بیہ کتھ چھہ توہمہ معلوم کتھ بو چھوس نہ مکان توہمہ بیٹھ
 تبلیغ کرنس پیٹھہ، صحیح و تھہ ہاونس پیٹھہ، کانہہ مالہ، کتھہ قسمہ مُزوریہہ کیاہہ إِنْ اجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ

بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا إِلَيْهِمْ وَلَكِنِّيَأَرَاكُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُونَ ﴿۳۱﴾ وَيَقَوْمٍ مِّنْ يَبْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ﴿۳۲﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا
لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۳﴾ قَالُوا يُونُسُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدَالَنَا

میان مزدور چھنے کا نہ یہ مگر خدا ہی و مَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا یہ یہ سمجھ نہ ہو با ایمان پانس نشیہ
الگ تراو تھ نہ صورتس منز۔ لَأَنَّهُمْ مُلْقُوا إِلَيْهِمْ ہز پالٹ تم چھہ ملاقات گرہون پنہ نس پروردگار س
سیت باعزت صورتس اندر۔ لہذا چھہ مقربان در بار الہی۔ بوتھہ پالٹ ہیکھہ تم پانس نشیہ الگ کر تھ
وَلَكِنِّيَأَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ مگر بو چھسوہہ ہہہ و چھان جماتھہ نادانی ہنزہ تھہ کران وَيَقَوْمٍ مِّنْ
يَبْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ ای میانہ قومہ اگر بالفرض والتقد یروی تم بو نمہہ در جک لوکھ تمو میانس
نبوتس پڑھ کر پانس نشیہ دور کر کھ تھہ صورتس اندر گوہ اکھہ پچاوہ مہہ تہ مدکرہ مہہ خدا یہ سندہ گرفتہ نشیہ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا زہ چھوہہ نہ ہہہ غور کران وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ یہ چھوس نہ بو توہہ
وانان زہ مہہ نشیہ چھہ خدا یہ سند ساری خزانہ موجود وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ یہ چھوس نہ بو دعوی کران غیب
زانہ نک وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ یہ چھوس نہ بو ونان بو چھوس ملک وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا یہ چھوس نہ بو تمن لوکن ہندہ حھہ تمن نہہہ چہ نظرہہ و چھان چھوہہ تمن کیا کرہ
نہ اللہ تعالیٰ بن خیر عطا۔ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ سی چھہ خبر ہندین دکن ہنزہ راقی إِذَا
لَمِنَ الظَّالِمِينَ ہر گاہ بو تڑھہ تھہ کرہ تلہہ چھوس بو ظالمو آندرہ کیا زہ بے دلیل بس کا نہہ کتھہ کرہ
سُوچھو ظالم۔ یلہ تم ساری تھن اندر لاجواب گئے قَالُوا يُونُسُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدَالَنَا قَاتِنَا بِمَا
تَعَدْنَا دہنہ لگ تم ای نوح ژہ کوڑ تھہ آسہ سیت بحث۔ سوی کوڑ تھہ واریاہ بحث۔ وئن تراو وبحث۔

فَاتَّبَعْنَا بِمَا تَعُدُّنَا إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۳۷﴾ قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ
 بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۳۸﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصِيَّ اِنْ
 اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ
 وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۹﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ اِنْ افْتَرَيْتُهُ
 فَعَلَىٰ اِجْرَامِي وَاَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَجْرِمُوْنَ ﴿۴۰﴾ وَاُوْحِي اِلَىٰ نُوْحٍ
 اِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ
 بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَاَصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوْحِيْنَا

دون ان تہ سو عذاب ہمیک خوف تہ آسہ روان چھو کہ ان کنت من الصديقين ہر گاہ تہ پوزوان
 چھو کہ۔ قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ حضرت نوحن دو چھ سو عذاب ہمیک نہ
 آنتھ کانہہ تہ خدا پس وراي۔ ہر گاہ سو تھہ تیلہ بیکیون نہ تہہ سو عاجز آنتھ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصِيَّ اِنْ
 اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ بیہ دیہ نہ توہہ کانہہ نفع میان نصیحت ہر گاہ بو
 توہہ نصیحت کرہ نگ ارادہ تہ کرہ۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ سندا ارادہ تہہ گمراہ کر گھوی آسہ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ
 تُرْجَعُوْنَ سو چھو تھندا مالک تس گن ایو تہہ واتانہ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ سم مکک لوک تہ چھہ ونا
 حضرت محمدن ٹھہر ووپنہ طرفہ تہ قرآن مجید قُلْ تہہ فرما وایہ کہ یارسول اللہ اِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ
 اِجْرَامِي وَاَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَجْرِمُوْنَ ہر گاہ بالفرض یہ مے ٹھرومت آسہ تو تہ چھو سو جرم مے پیٹھ۔
 تہہ چھوہ تمہہ جرمہ نشیہ بری۔ بو تہ چھوس تمو جرمونشیہ بری سم تہہ کران چھوہ وَاُوْحِي اِلَىٰ نُوْحٍ اِنَّهُ
 لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ بیہ آدوچی سوزنہ حضرت
 نوحس گن کہ پڑھہ کرن نہ توہہ ہر گز پنہہ قومہ آندرہ مگر تھی لو کہ سمو وکلام پڑھہ کر پس مہ کھیو تہہ غم
 تمن چیزن ہند سم چیز تکلیف، ٹھہہ مسخرہ گی سم کران آس توہہ نسبت۔ چوبیہ سون ارادہ چھو وون

وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿۲۷﴾
 وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قُوِّهِ سَخِرُوا مِنْهُ
 قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿۲۸﴾ فَسَوْفَ
 تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
 مُقِيمٌ ﴿۲۹﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ
 كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

تم غرق کرن تہ پھاٹون آہس اندر۔ وون چھو طوفان ینہ وول لہذا تمہ طوفانہ نشہ پچہ خیترہ
 وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ يَاعِيزُنَا وَوَحِينَا بناوونہ ناوسانہ نگرانی اندر بیہ سانیو تجوزو مطابق تمی ناوہ ہندہ
 ذریعہ لبونجات۔ تہ تہ باقی بالایمان تہ وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ یہ بو زو
 وارہ کہ مہ سیت گونہ نہ کا نہ تھ کرن تم لوکن ہندہ حقہ سمو ظلم کور کفرہ تہ شرکہ سیت۔ کیا زہ تم
 چھو ضرورتہ طوفانس اندر غرق گوٹن تہ پھٹن۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ امہ پتہ ہیوت حضرت نوحن ناوہ
 ہند سامانہ جمع کرن۔ تو پتہ ہنہ کہ سو ناوگران وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قُوِّهِ سَخِرُوا مِنْهُ سمہ سمہ سمانہ
 پکان آس رسین ہنز کا نہہ جماتھہ تہندہ قومہ منزہ امہ جلیہ کن تھہ جلیہ یہ ناو تم گران آس تم آس
 اتھ اہندس ناوگرانس پیٹھ ٹھٹھہ کران۔ دپان آسکھ پیغمبر آسکھ بنے وہ دون تہہ چھان قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا
 مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ تم آسکھ دپان ہر گاہ تہہ امہ ٹھٹھہ کران چھوہ موقعہ ولتہ آس تہ کرووہ
 توہہ ٹھٹھہ تھہ پاٹھہ تہہ ٹھٹھہ کران چھوہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
 عَذَابٌ مُقِيمٌ بروٹھہ کن زانو تہہ پانے کس ایہ سو عذاب پس تس خوار کرہ دنیا کس اندر بیہ کس پیٹھ
 سپدہ ہمیشہ روزہ ون عذاب نازل حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا تا اینکہ سمہ سمانہ جاری سپدسون حکم عذابس
 متعلق وَفَارَ التَّنُورُ آب در او ذرہ ونہ تنورہ منزہ یہ اوس نشانہ تہ علامت طوفانچہ شروع شروع سپد نک
 قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا اسہ فرمو حضرت نوحس کھاریو کہ اتھ ناوہ منز مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۳۰﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ
 اللّٰهِ حَجْرُهَا وَمُرسِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۱﴾ وَهِيَ تَجْرِي
 بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَفْتَضِلُ وَنَادَى نُوْحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
 مَعْرَلٍ يُبْنَى ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ سَارُوْا
 إِلَى جَبَلٍ يَّعِصْمُنِي مِنَ الْمَاءِ ط قَالَ لِعَاصِمِ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ

ساروی جاندار و اندرہ زیز ۲۲ زیز ۲۲ نر تہ مادہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بے کھارو پشن عیالہ
 مگر نہ سولیس پیٹھ غرق سپد تک کھم جاری سپد مت چھو۔ تم گئے اکھ تہنر گروا جن بے کھعان نچو تہند۔
 وَمَنْ آمَنَ بے کھاریو کھ اتھ ناوہ تم ساری سمو ایمان اودمت چھو وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ مگر پڑھ
 آس نہ کر مشر تہن مگر کموی لو کو (تم آس شہ زن۔ ونہ چھو اومت کل آس ناوہ منز شیتھ زن۔ ژتجہ مرد،
 ژتجہ زنہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بے ڈپکھ حضرت نوح و لو کھ سو بیتھ ناوہ پروامہ بروکتہ طوفا تک بِسْمِ
 اللّٰهِ حَجْرُهَا وَمُرسِهَا خدلیہ سندی ناوہ سیت چھو اُمہ ناوہ ہند چکن بے امیک ٹھہرن۔ إِنَّ رَبِّي
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ پڑپاٹھ میون پروردگار چھو ضرور سیتھہ مغفرت کرہ ون۔ سو چھو بندہ رحمتہ سیت گناہ تہ
 خشہ ون، بے راچھہ کرہ ون۔ غرق سپد نہ نشہ نجات دودہ ون۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
 بے آس سوناوپکان تم بیتھ تموی موجودہ ملرو منز تم کو ہن برابر آس وَنَادَى نُوْحٌ ابْنَهُ وَكَانَ
 فِي مَعْرَلٍ آکو دیت حضرت نوح چن پچوس پنس (کھعانس) سواوس ناوہ نشہ نیر الگ اس جلیہ پیٹھ کافر
 آسنہ موکھہ اوس نہ ناوہ پیٹھ سوار اومت کرنہ يُبْنَى ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ اکی سانہ ٹاٹھہ
 گو برہ۔ دولہ سوار سپد اُمہ سیت ناوہ منز۔ مہ روز کافرن سیت ایمان آن تہ ناوہ منز کھس قَالَ سَارُوْا
 إِلَى جَبَلٍ يَّعِصْمُنِي مِنَ الْمَاءِ سولوگ دپنہ بوکھسہ ٹنہ کو ہس پیٹھ، سولی رچھہ مہ سمہ آہ نشہ کیا زہ
 آب اوس نہ ونہ زیادہ ٹھد یومت قَالَ حضرت نوح و ہس لِعَاصِمِ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ الْاَمْنُ نَحْوُ از
 بیچہ نہ کا نہہ چیز چھتھہ خدلیہ سدہ عذابہ نشہ مگر روزہ محفوظ سولی شخص ہس پیٹھ سولی پروردگار رحم کرہ

اللّٰهُ الْاَمْنُ رَحْمَةٌ وَحَالَ بَيْنَهَا التُّوَجُّ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرُقِيْنَ ﴿۳۳﴾
 وَقِيلَ يَا اَرْضُ اْبْلِعِيْ مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءِ
 وَقَضِيَ الْاَمْرُ وَاُسْتُوتَتْ عَلٰى الْجُوْدِيِّ وَقِيلَ بَعْدَ اللُّقَوْمِ
 الظُّلَمِيْنَ ﴿۳۴﴾ وَنَادٰى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ
 اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۳۵﴾
 قَالَ يُنُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ فَلَا

ایمانہ برکتہ۔ وَحَالَ بَيْنَهَا التُّوَجُّ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرُقِيْنَ سم آس کتھ با تھی کران کہ تمّن منز آو
 آبگ ملراہ اکہ۔ کس سہد سونکعان پھوہ و نیو آندرہ۔ چنانچہ کافرن سیت پھوٹ وَقِيلَ حکم آو کر نہ
 زمین تہ آسانس يَا اَرْضُ اْبْلِعِيْ مَاءَكَ ای زمینہ بیگل ہن آب وَيَسْمَاءُ اَقْلِعِيْ ای آسانہ بند
 کر ہن رُودتہ بارش وَغِيْضَ الْمَاءِ اتی ہیوئن آب وئن تہ کم کڑھن وَقَضِيَ الْاَمْرُ کوم سپز پورہ۔ قصہ
 سہد ختم یعنی نافرمان ہنز تباہی وَاُسْتُوتَتْ عَلٰى الْجُوْدِيِّ بیہ ن ناؤ کوہ جو دیس سیت۔ وَقِيلَ بَعْدَ
 لِلْقَوْمِ الظُّلَمِيْنَ بیہ آوونہ کافر ہجھ خدایہ سہدہ رحمتہ نشہ دور وَنَادٰى نُوحٌ رَبَّهُ بیہ مونگ
 حضرت نُوح بن پروردگار س پنہ نس کنعانہ سہدہ غرق سہدہ بروئھ فَقَالَ رَبِّ کس مونگس ای
 میانہ ہر وردگارہ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ پز پاتھ میون پُجوتہ چھو میانہ اہل و عیالہ منزہ۔ ژہ چھتم وعدہ
 کورمت عیالہ بچلاک۔ سم با ایمان آسن۔ اگرچہ کنعان نجاس مستحق چھونہ مؤمن نہ آسنہ مؤکھہ وَاِنَّ
 وَعْدَكَ الْحَقُّ چون وعدہ چھو پوزتہ حق وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ بیہ چھوک ژہ ساروی آندرہ
 بوڈ حاکم کاسل اختیارہ وول۔ ہر گاہ ژہ بیھجھ تس کر کہ ایمان عطا۔ تاکہ سوتہ کبہ نجات طوفانہ نشہ
 قَالَ يُنُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ فَرْمُوْس اکی نُوح میانس علم ازلیس اندر چھونہ
 کنعان ہر گز چاہہ اہل و عیالہ منزہ سم با ایمان آتھ مستحق نجات سہدن اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ بلجہ چھوسو
 آخر تس تان تباہ کار حالت کُفْر س پیٹھ روزہ ون فَلَا تَسْئَلُنْ مٰلَکَ لَکْ بِہِ عِلْمٌ کس مہ کربو

تَسْأَلُن مَالِيَسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّي اَعْطُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ
 الْجُهِيْلِيْنَ ﴿۳۶﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَالِيَسَ لِيْ
 بِهِ عِلْمٌ وَّالَا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۳۷﴾
 قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّمٍ
 مِّنْ مَّعَكَ وَاْمُرْ سَبِيْعَهُمْ ثُمَّ يَسْأَلُكُم مَّتَاعًا ذٰبًا اِلَيْكُمْ ﴿۳۸﴾
 تِلْكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ
 وَاَقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۹﴾

در خواست مہ نشہ تمہ چیز ک تج نہ ثیہ کینہہ خہر چھہ اِنِّي اَعْطُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجُهِيْلِيْنَ بو
 چھو سے ثیہ نصحت کران، ذمہ آس نہ زانہ ویو اندرہ متھ دعا کرہ نادانی بو ت قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ
 اَنْ اَسْأَلَكَ مَالِيَسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ حضرت نوح ن دوپ میانہ ہرورد گارہ بیشک بو چھو سے پناہ منگان
 نتیجہ چیز ممکنہ نشہ تج نہ مہ کینہہ خہر چھہ واقعی کر مہ متھ چیز ممکنہ سیت بد غلطی۔ اتھ غلطی کرزم
 بخشائیش وَاَلَا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ہر گاہ نے ذہ مغفرت تہ بخشائیش تہ رحم کر کہ
 مہ تلہ سپدہ بو نقصان تلہ ونیو اندرہ۔ بلہ اودہ آب۔ ہنہ ہنہ بون دو تھہ قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا
 وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ حکم او کر نہ اکی نوح و سو ا مہ ناوہ منزہ زمینس پیٹھ سانہ طرفہ سلامتی سان تہ برکتو
 سان سمہ نازل سپدن توہر پیٹھ وَعَلٰى اُمِّمٍ مِّنْ مَّعَكَ بیہ تمن جماعتن پیٹھ یم ذہ سیت چھہ۔ تم
 گئے بالیمان وَاْمُرْ سَبِيْعَهُمْ ثُمَّ يَسْأَلُكُم مَّتَاعًا ذٰبًا اِلَيْكُمْ بیہ تہ آسن آئندہ کینہہ جما ژسمہ نافرمانی تہ
 کفر و شرک کرن۔ سم تلناوہ کہ ذنیاء س اندر کینہہ کالاہ تمنج۔ تو پتہ والہ تمن سون کڈر عذاب آخر تس
 اندر تِلْكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ یہ قصہ چھو غیبہ جو خبر اندر وہ بیہ اُس دجیمہ ذریعہ توہر نش
 واتناوان چھہ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَاَقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا توہر تہ چھدس قومس (یارسول اللہ) اوسنہ

وَالِی عَادِ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
 اِلٰهِ غَیْرِهِ ۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ۝۵ یَقَوْمِ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ
 اَجْرًا اِنْ اَجْرِی اِلَّا عَلَی الَّذِیْ فَطَرَنِیْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۵
 وَیَقَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَاَرْبَابَكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَیْهِ یُرْسِلُ السَّمٰوٰتِ
 عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا وَّیَبِّدُكُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا

یہ قصہ سابقہ بیان کرنے بروج معلومی۔ امی سیت سپد معلوم تہہ جھوہ نبی برحق۔ مگر تم لوک جھہ تہمز نبوت ثلاث سپدنہ
 پتہ تہ تہمز مخالفت کران فاصیڈ لہذا کرد تہہ صبر (یہ قصہ بوزت) اِن الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ - یقین زانویہ رت
 انجام جھو خدا بس کھوڑوہ زمین ہمدہ خیطرہ۔ تہہ پاتھ تہہ قصہ اندرہ معلوم سپد کہ کافر ن ہند انجام جھو خراب، مسلمان
 ہند انجام جھو رت تہہ پاتھ سپدہ تہندین مخالفن ہند حال۔ چند روز روزہ تہمدہ مخالفک زور شور۔ بتولا کہ سپدہ غلبہ ہنس
 تہ پزیدین۔ تہمد دشمنہ سپدن بالآخر تباہ و برباد **وَالِی عَادِ اَخَاهُمْ هُوْدًا** بیہ سوزاسہ قوم عادس کن تہمزنی
 برادری منزہ آکھ صاحب ہود علیہ السلام پیغمبر **قَالَ تَمْبُوْدُوْنَ** پنہ نس قومس **یَقَوْمِ** ای میانہ قومہ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهِ غَیْرِهِ تہہ کرو پرستش فقط معبود برحقہ سنزی یاڈ۔ تہس ورا ای جھو نہ تہمد
 کانہ معبوداہ بس عبادتس لایق آسہا اِن **اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ** تہہ جھوہ نہ بت پرستی سیت۔ خدا بس ورا ای
 بیہ کانہ قابل پرستش زانہ سیت۔ مگر لہز تہہراوہ و ن لمہ کس باطل آسس پیٹھ جھہ دلیل۔ **یَقَوْمِ لَا**
اَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا ای میانہ قومہ بو جھوس نہ توہمد منگان اتھ تہلیغس پیٹھ کانہ مزدوریاہ **اِنْ اَجْرِی**
اِلَّا عَلَی الَّذِیْ فَطَرَنِیْ میان مزدور جھہ تہس مہ سم بو عدم محضہ نغہ پیدہ گورس **اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ** کیاہ توہمد
 جھوہ تابیہ گتہ فکرہ تران۔ **وَیَقَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَاَرْبَابَكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَیْهِ** ای میانہ قومہ تہہ منگو پنہ نس
 پروردگارس گہونغہ، کفر و شر کہ نغہ بخشایش، مغفرت یعنی تہہ اَنو ایمان۔ توپتہ کرد ایمان اتھ تہس کن رجوع
 عبادتہ سیت بیہ تہمز فرمانبرداری کرنے سیت ایمان و عمل صالحہ برکتہ۔ **یُرْسِلُ السَّمٰوٰتِ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا**
 تراوہ سو توہمد پیٹھ، تہمدس زمینس زراعتس پیٹھ گڈل رود۔ **وَیَبِّدُكُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوَّتِكُمْ** بیہ ہرہ

مُجْرِمِينَ ﴿۵۲﴾ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ
 بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۳﴾
 إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوٓءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ
 وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۵۴﴾ مِنْ دُونِهِ فُلْكَدُونَ نِي جَمِيعًا
 ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ ﴿۵۵﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ
 إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۶﴾ فَإِنْ

راوه توبه بیه بن قوت پس انوایمان ته کروئس پڑھه وَلَا تَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ بیه مه سپد و رُوگردانی
 کرت گھکار قَالُوا يَهُودُ تم لگ دینہ ای ہود مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ تہہ آوہ نہ اسہ نشہ پنے نس پیغمبر
 آسں پیٹھ کا نہہ دلیلاہ ہتھه وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ بیه
 ہیکو کھ نہ اس تراوتھ ہن معبود محض تھمدہ و دنہ سمیت بیه ہیکو نہ اس توبہ کنہ صورتس منز پڑھہ کرتھ
 إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوٓءٍ اس جھنہ کینہہ تہ وان توبہ متعلق مگر ای زہ توبہ جھوہ سانہ
 بعضی معبود و جذبہ کورمت، دماغس تکلیف و اتوموت کیا زہ تہہ جھوہ تہنز برخلانی کران۔ تمی جھوہ تہہ
 اورک یورکتھ کران سمہ نہ اسہ نشہ قابل تسلیم جھہ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ *
 مِنْ دُونِهِ ہود علیہ السلامن دو پٹھہ پڑاٹھہ بو جھوس خد گواہ تھاوان بیه رُو زوتہہ تہ گواہ تھہ تھہ پیٹھہ کہ
 بیشک بو جھوس بیزار تموساروی چیز و نشہہ تم تہہ عبادتس اندر خدایہ سہد شریک جھو کہ ٹھہراوان تس
 و رای فُلْكَدُونَ جَمِيعًا پس تہہ ساری سمٹھہ کرو سز میانہ تکلیف و اتاود نک ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ تو پتہ مہ
 پیارومہ کنہی۔ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ہز پانہ مہ جھو اعتماد تہ ڈوکھ کورمت کنس خدایس پیٹھہ پس
 میونہ تھمدہ پروردگار جھو مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا کا نہہ جاندارہ جھونہ سمسز مگ (موی
 پیشانی) نہ تمسڈس اتھس منز جھہ إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پڑاٹھہ میون پروردگار جھو سزہ وتہ
 پیٹھہ پنے سمیت حاصل سپدان۔ تمہہ پیٹھہ پگن و الین را جھہ تہ حفاظت کران فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا

تَوَلَّوْا قَدْ اَبْلَغْتُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ وَسَيَتَخَلَّفُ رِبِّيْ قَوْمًا
 غَيْرَكُمْ ۗ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا اِنَّ رِبِّيْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۙ و
 لَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا و
 نَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۙ و تِلْكَ اَعَادُ جَدُّ وَاٰبَاۡتِ رَبِّمُ
 وِعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاَتَّبَعُوْا اَمْرًا كُلًّا جَبَّارِعِنِيْدٍ ۙ وَاَتَّبَعُوْا فِی
 هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَلَا اِنَّ اَعَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۙ

اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ پس ہر گاہ تہہ میانہ ایہ تہلیغہ تہ تبلیغ بیان کرنہ پتہ تہ ہتھ پھر و۔ اعراض کرو مہ
 چھونہ تھ اندر کا نہ نقصان کیا زہ مہ واتنوو توہہ سو پیغام پس ہتھہ بوسوزنہ آمت اوس۔ امہ میانہ
 پیغام نہ مانہ نج شامت پھرہ توہہ پانسی توہہ کرہ اللہ تعالیٰ تہاہ تہ برباد و سَيَتَخَلَّفُ رِبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ توہہ
 بدل لہ میون پروردگار پس قومس آکس تمہی گرہ ہتھہ زمینس اندر آباد و لَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا تہہ چھوہ
 نہ تس کہنہہ نقصان واتناوان بلکہ چھوہ پنہ نین پانن نقصان واتناوان اِنَّ رِبِّيْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ پزپاٹھ
 میون پروردگار چھو پرتھہ چیزس راہتھہ کرہ ون۔ پرتھہ اکند حال چھو تس معلوم و لَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا
 بَجَّيْنَا هُوْدًا وَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ادہ یلہ سون حکم تھندہ عذابہ خیطرہ جاری سپد (تم گال
 اسہ ساری) نجات دیت اسہ حضرت ہودس بیہ تمہن کو کن سموا ایمان اوس اونمت تس سیت پنہہ رحمتہ
 سیت و بَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ نجات دیت اسہ تمہن مشکل عذابہ نشہ و تِلْكَ اَعَادُ جَدُّ وَاٰبَاۡتِ
 رَبِّمُ وِعَصَوْا رُسُلَهٗ بیہ اوس قوم عادیموانکار کور پنہ نس خدایہ سندین آیآن بیہ کمر کہ تھندین پیغمبرن
 ہنزافرمانی وَاَتَّبَعُوْا اَمْرًا كُلًّا جَبَّارِعِنِيْدٍ بیہ کر کہ پیروی سرکش تہ ضدی مخالفن ہندین کمن ہنز
 تمک نتیجہ دراکہ وَاَتَّبَعُوْا فِی هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تمہن آہ پتہ تھاونہ لعنت تھہ ذبیاعس
 اندر بیہ آیتھ پتہ لعنت قیامتگ دہہ اَلَا اِنَّ اَعَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ وارہ ہوزو قوم عادن کور انکار پنہ نس

الْأَبْعَدَ الْعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۶۷) وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقُومُ
 اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ
 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
 مُّجِيبٌ ۶۸) قَالُوا يُصَلِّهِ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا
 أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۶۹)
 قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَنِي مِنْهُ

مردودگار س الْأَبْعَدَ الْعَادِ قَوْمِ هُودٍ واره بوزو قوم عاد آودور گرنه خدایه سنده رحمتہ نیشہ۔
 وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا بیه سوز اسہ قوم ثمودس کن تھند نوی صالح علیہ السلام قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا
 اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ صالح علیہ السلام دو پچھ ای میانیہ قومہ عبادت تہ پر ستش کمر و معبود بر حقہ سنز
 کا نہہ معبوداہ چھونہ توہہ تس و رای هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا تمسز چھہ ہڈ
 مہربانی توہہ پیٹھ تم کمر وہ تہہ پیدہ زمینہ کس ماڈس میوہ نیشہ۔ بیه کمر نوہ آتھ ز مینس پیٹھ آبادر نگارنگ
 لعمو کر نوہ عطا۔ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ نچس معو مغفرت تس پنہ نین گھنن ہمدہ خیطرہ شر کو کفرہ
 خیطرہ توپتہ کمر و رجوع تس کن ایمان آتھ تہ پڑھہ کمر تھ توپتہ کمر ورثہ عملہ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ
 بیشک میون پروردگار چھونکھہ بندن پنہ نین۔ اجابت کرہ ون۔ بندن ہندس مگنس قَالُوا يُصَلِّهِ قَدْ
 كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا دپنہ لگ تم ای صالح لچھنن اسہ آس سمہ بروٹھ ژہ متعلق خبر کیاہ امید تھہ
 ساری کور تھہ ژیہ اولہ بدل أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا کیاہ ژہ چھونکھہ اسہ منع کر ان تین
 معبودن پر ستش کر نس تین پر ستش کر ان آی سان مال ہڈ ب۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ
 مُرِيبٌ اسہ چھو ضرور شک تہ ٹپہ تمیک تھہ کن ژہ اسہ نادروان چھو کھ کس شک پریشان کرہ ون چھو
 قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّي صالح علیہ السلام دو پچھ ای میانیہ قومہ مہ و نتو تہہ
 ہر گاہ بو پنہ نس مردودگارہ سنزہ ہنہ دلیلہ پیٹھ قائم آسہ وَأَتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ

رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُ وَيُنِي غَيْرُ
 تَحْسِيرٍ ﴿۶۳﴾ وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي
 أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿۶۴﴾
 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرِ
 مَكْدُوبٍ ﴿۶۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
 بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۶۶﴾

عَصَيْتُهُ بے آسہ تم مہ بن رحمت تہ عطا کر مژ۔ یعنی نبوت۔ تہ آتھ ہر گاہ بوہمز نا فرمانی کرہ تبلیغ نہ
 کرنہ سیت اوہ تمہ بیکہ مہ مدد کر تھ خدا بس نشہ فَمَا تَزِيدُ وَيُنِي غَيْرُ تَحْسِيرٍ تمہ چھوہ نہ میانہ خیطرہ
 نقصانہ ورا کی کانہہ چیز ہرہ راوان تہ زیادہ کران وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ای میانہ قومہ تمہ بس
 مُجْرَہ ژہانڈان چھوہ، سُو چھو یکبار۔ بے ہتھ خدایہ سنزورنن تمہدہ خیطرہ میانہ صد اقس پیٹھ اکھ بوڈ
 نشانہ تہ دلیلہا۔ اَسْمَد تہ چھہ توبہ پیٹھ کینہہ حق فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ بس
 تراویون سُو۔ کھیوان روزہ خدایہ سدس زمینس اندر گاسہ وغیرہ اس مہ لاگو اتھہ تکلیفہ کہ قصدہ ہر گاہ
 توبہ کینہہ تکلیف واتوودہ تس فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تلہ رتہ توبہ بوڈ عذاب سیتی فَعَقَرُوهَا
 ہس باوجود اک ایڑہ فہمائش کمر تھہ ماسو ورتن تمو فَقَالَ ہس دو پچھ صالح علیہ السلامن تَمَتَّعُوا فِي
 دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تلو متع زندگی ہند گرن پنہ نین منز روز تھہ۔ ترین دو ہن۔ تمہ پتہ چھو توبہ تباہ
 گوہن ذلک وَعْدُ غَيْرِ مَكْدُوبٍ بے چھو وعدہ بس نہ اپز آسہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا تریہ دوہ گروہنہ
 پتہ بلہ سون حتم عذابس متعلق جاری سپد تَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ
 نجات ڈیت آسہ صالح علیہ السلامس بے تمین لوکن تمو ایمان اون تس سیت پنہ رحمتہ سیت تمہ عذابہ
 نشہ بے تمہ ڈپہ رسوائی نشہ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ پز پٹ چوٹوی پروردگار چھو قوتہ وول غلبہ
 وَاخُذِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ تم ظالم رٹ سخت کریجہ یوسہ جبریل

وَآخِذِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿۶۷﴾
 كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الْآرَانَ ثَمُودَ أَكْفَرُوا وَارَبَّهُمْ ط الْأَبْعَدَا
 لِثَمُودَ ﴿۶۸﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا سَلْمًا
 قَالَ سَلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿۶۹﴾ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ
 لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا
 أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿۷۰﴾ وَامْرَأَتُهُ قَابِلَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا

ایسے سنز کر کچھ آس۔ پس مجھ کن دستھ پیتھ گئے تم روزت۔ تہیت صاف سپد سو شہر کان لَمْ یَغْنَوْا
 فیہا زن نہ تم تھ شرس منز بسمتی آس زانہہ الْآرَانَ ثَمُودَ أَكْفَرُوا وَارَبَّهُمْ الْأَبْعَدَا لِثَمُودَ وارہ
 بوڑو قوم ثمود کن کور انکار پنہ نس پروردگار وارہ بوزہ خدلیہ سدہ رحمتہ لشمہ سپد سیٹھاہ دور قوم ثمود۔
 بوزت رٹو عبرت ای بوزن والیو خدلیہ سزہ نافرمانی ہند نتیجہ کیاہ چھو آسان وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا
 إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا سَلْمًا قَالَ سَلْمٌ بیہ آی پز پانھ سان سوزنہ آمت ملایک انسان صورتس اندر
 ابراہیم علیہ السلام نیشہ فرزند اسماعیل علیہ السلامہ سنز خوشخبر ہتھ۔ تمبو کمر ابراہیم علیہ السلام
 سلام۔ تموتہ کمر کہ تورہ سلام۔ تمن گو خیال ہتھوہ آئے فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ توپتہ
 ثیرتہ تار کرنہ وراى آی تمن لشمہ وٹھہ سُد بڑمت ماز ہتھ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ يَلِدُ وَجْهَهُ
 تمبو ٹھند اتھ نہ وٹھانی تھہ کن (تم نہ مازانی مازس کن) نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً دوپرتہ غیر زان
 لگ تمن زانہہ بیہ لگ ولہ سی اندر ٹھند خطرہ محسوس کرنہ۔ خبر کمرہ غرضہ چھہ تم آمت۔ کیا زہ تمہ
 وقتہ یس شخصس کانہہ ہندہ تکلیف کہ قصدہ یوان اوس سو اوس نہ تھندہ گرہ کینہہ کھوان چوان۔ تمبو ملائکو
 ثیون یہند کھوٹن قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ دُپس آس ہز چھہ ملک آس چھہ آمت
 سوزنہ قوم لوطس کن تمن سزای کفر و نافرمانی دنہ خیطرہ وَامْرَأَتُهُ قَابِلَةٌ تھنز آشین حضرت سارہ آس
 وودنہ پڑھین ہنز پڑھہ لازمی کرنہ خیطرہ۔ تمبو یلہ پڑھین ہندہ نہ کھینک حال وچھہ بیہ قوم لوطکھ گچ خبر

يَا سَحْقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٤١﴾ قَالَتْ يُوَيْلَتِي ءَايِدُ
 وَاَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ ﴿٤٢﴾
 قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ
 الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ
 وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ مُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
 لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٤٥﴾ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرَضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ

لوز سوکویہ خوش فضحکت خوش گڑھے لُجِ اَسْمِه فَبَشْرُنْهَا يَاسْحَقُ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبُ لَيْسَ
 وَنِ اَسْمِه لَس بَشَارَتٌ مَعْنَى مَلِكُنْ هَمْدِه ذَرِيْعَه فَرَزْنَدَه سَنَز۔ لَيْسَ اَلْحَقُّ نَاوْ اَوْ تَهَانَه۔ بِيَه اِسْحَاقُ سِ پَتَه
 تَسْدِس فَرَزْنَدَه سَنَز بَشَارَتٌ لَيْسَ يَعْقُوبُ نَاوْ اَوْ تَهَانَه قَالَتْ يُوَيْلَتِي ءَايِدُ وَاَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي
 شَيْخًا سَعُوْجٌ وَنِيَه كِيَاَه كَدْر يَوْم۔ بُوِي هَجَسٌ وَاوْنِ بَدَسْمُو۔ وَاوْنِ پَرَسَاوِيَه تَه بَجْرَس مَنَز۔ بِيَه هَجُوِيَه
 مِيُوْن خَاوْنَدَتِه بَدَسْمُو۔ اِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ وَاَقْبَى اَسْمِه دُوْنِ بَدُنِ نَشْرِه اَوْلَادِ پِيْدَه سِ پَدُنِ هَجُو عَيْبِ
 كَتَاه قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ تَمُوْ مَلِكُو دُوْپ كِيَاَه تَه
 هَجُوَه خَدَلِيَه سَدِس كَحْمَسْ نَسْبَتِ تَعْقِبِ كِرَانِ خَاوْدَانِ بُوْتَسْ مَنَز رُوْز تَه۔ بِيَه چَهَا تَهَنْدِه قَدْرَتِه نَشْرِه
 دُوْر كِيْنَه۔ خُصُوْصًا هَجُو تَهَنْدِسْ خَاوْدَانِسْ پِيْطِه خَدَلِيَه سَنَز رَحْمَتِ تَه بَرَكْتِ نَاوَل۔ اِي اِبْرَاهِيْمَه سَنَدِ يُو اِهْلِ
 يَحُو اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ پَنَز پَاْطَه اللّٰهُ تَعَالَىٰ وَهَجُو حَمْدِ دِيْنِه اُمْتِ، سِيْطَهَا بُوْر كِ۔ لِهَذَا بَجَايَ تَعْبِ كَرُو تَهَنْزِ
 تَعْرِيفِ تَه حَمْدِ شَايَا نِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ اَوْدَه يَلِيَه حَضْرَتِ اِبْرَاهِيْمِسْ نَشْرِه خَوْفِ دُوْر
 سِ پَدِ تَمْنِ هَمْدِه وَنَه سِيْتِ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ بِيَه لُوْز تَمُوْ خُوْشْبَرِ فَرَزْنَدَه سَنَز مُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ
 تَمِ لَكِ بَحْثِ كَرْنِه اَسْمِه سِيْتِ قَوْمِ لُوْطِسْ مَعْتَلَق۔ تَمْنِ سِ پَدِ قَوْمِ لُوْطِ كِ هَلَاكِ سِ پَدُنِ نَاوَاوَر اِنَّ اِبْرَاهِيْمَه
 لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُنِيْبٌ پَنَز پَاْطَه اِبْرَاهِيْمِ عَلِيَه السَّلَامِ هَجُو حَلِيْمٌ الطَّعِ، نَزَمِ دِلِ، رَجُوْعِ كَرُوْنِ خَدَا لَيْسَ كُنْ
 يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرَضْ عَنْ هَذَا اَسْمِه فَرَمُوْتَسْ اِي اِبْرَاهِيْمِ اَمِه خِيَاَلِه نَشْرِه پِيْرُو اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ

جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿۶۱﴾ وَلَمَّا
 جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا
 يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿۶۲﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ
 كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَوْمَ هُوَ لَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ
 لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
 رَشِيدٌ ﴿۶۳﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقِّ

پنہ پانچ تہندس ہر در گارہ سُد حکم ووت قریب وَإِنَّهُمْ لَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ بیشک تمن پیٹھ
 چھوواتہ دن سُو عذاب یس نہ دُور کرنہ ایہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِئًا بِهِمْ تُوپتہ یلہ سان فرستادہ
 ملایک وات حضرت لو طس نغیہ نہایت خوبصورت لو کئین ہنزہ شگلہ۔ آزرده سپد تم تہندہ ینہ سیت کیا زہ
 تم آس حسین نوجوان ہندس صورتس اندر تس لو طس گو خیال یم ماچھ انسان پنہ قونج خراب
 ذہنیت نامعقول حرکت خیال کر تھ سپد مغموم منھجر وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا تمی سبب سپد دل تنگ تہندہ
 ینہ سیت وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ تم لگ ونہ از چھو تختی ہند دودہ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ تمہ پتہ آی
 تہندہ تو مک بد معاش لو کہ یکن خوبصورت لو کئین ہند لوز تھ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ دُور ان دُور ان تمن نغیہ
 وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ تم آسن برو تھ پیٹھ پیٹھ کلمہ کرن قَالَ يَقَوْمُ لوط علیہ
 السلامن دو پکھ اکی قوم هُوَ لَاءِ بَنَاتِي تیک چھوہ سمہ میانہ کورہ (یعنی میانہ اُمچہ کورہ) یمہ تہند ین گھرن
 اندر چھہ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ سمہ چھوہ بڑ پاک تہندہ خیطرہ تمن مہمان لو کئین ہندہ خوتہ فَاتَّقُوا اللَّهَ
 ہس گھو ژو خدا ہس وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي مہ مہ مندہ چھا و پڑھین منز اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ
 افسوس تہ تعجب چھو کیاہ توہمہ منزہ چھنا اکھ زون تہ گائل تہ سمجھدار یس یہ کتھ فجرہ ترہ ہاس ین تہ
 فجرہ تارہ ہا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقِّ تمود و پکھ توہمہ چھہ خبری اُسہ چھہ ٹھنزن
 تمن قومی کور ین ہنز کئی ضرورت کیا زہ اُسہ چھو نہ زنان گن ر غبھی وَأَنَّكَ لَتَعْلَمُنَّ مَا تَزِيدُنَّ بِهِ چھو

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ
 آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝ قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّهُ سُرِّسُوا بِرَبِّكَ
 لَنْ يَّصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا
 يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ
 إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝

توہم معلومی کہ سون مقصد کیا ہے پھو اس کہہ خیرہ چہرہ یور آمتِ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً لَوْ عَلِيهِ
 السلام دو کچھ مجبور سپد تھ ای کاش ہر گاہم تہ توہم سیت مقابلہ کرنک طاقت آسہا تہند شر کر ہا پوپائے
 دفع مگر یونہی زون کیا ہے کہہ کر تھ **أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ** نتہ سمہ ہا بوئمتہ محکم دیوارہ کس
 ہنہس تل۔ مَرَادُ جُھو امہ اندرہ کانہہ قبیلہ آسہامہ تم مہ مدکرہ ہن۔ اوتان چہہ تم ملک لوتہ پانٹھ
 بہتہ ہنہد حال وچھان سمویلہ وچھ لوط علیہ السلام سخت پریشان سپدان **قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّهُ سُرِّسُوا بِرَبِّكَ لَنْ**
يَّصِلُوا إِلَيْكَ تمہو ملکو دو کچھ ای لوط غم مہ برو کینہہ۔ آس چہنہ انسان آس چہہ تہندس پروردگارہ سندہ
 طرفہ سوزنہ آمت ملک آسہ ہیکن نہ تم کینہہ تہ کر تھ بلکہ ہیکن نہ تم توہم تہ بچہ ہتھ کانہہ تکلیف واتنا
 و تھ۔ آس چہہ تمہن پیٹھ عذاب نازل کرنہ آمت **فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ**
أَحَدًا إِلَّا أَمْرَاتَكَ ہنس نیرورات گیت راتر ہندس گنہ حصص اندر پین عیال ہتھ۔ ہتھنہ توہم اندرہ
 کانہہ پتھ گن نظر دیہ۔ مگر نہ تہمز آسن سوگڑھہ نہ پانس سیت تلن کینہہ کیا زہ سوچھنہ مسلمان۔ بلکہ آس
 سوا ہندس گرس منز روز تھ جاسوسی کران **إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ** پزپاٹس تس چھو واتون سو
 عذاب ہنس بین لوکن واتون وچھو **إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ** بیہ چھو تم عذاب واتنک وقت صبحس تمی
 چہہ آس دنان توہم کالہ کالہ نیر وسمہ شہرہ منز لوط علیہ السلام آس تیوت پریشان سپدمت تمہو دیپک
 صبحس تان پیارنج کیاہ ضرورت چھہ کالہ کالہ گایو کہ **أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ** ملاکیو دیپک صبح
 چھہ نازدیک۔ لوط علیہ السلام درای رات کیو تو می امہ شہرہ نشہ دور آس جاہ **فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا**

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
 حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ذَمَّنُودٍ ﴿۸۷﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ
 مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿۸۸﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
 قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا
 تَنْقُصُوا الْكَيْلَ وَالْإِيْزَانَ إِنِّي أَرِكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿۸۹﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا
 الْكَيْلَ وَالْإِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

عَلَيْهَا سَافِلَهَا پس یلہ سون حکم جاری سُد تہندس عذابس متعلق آسہ کورتھہ شہرس تلک پیٹھ
 تمیک ہیرم طرف کور بون گن۔ بو نیوم طرف کور ہور گن وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ
 ذَمَّنُودٍ * مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ بیہ کور آسہ تمین پیٹھ کنہ زود سمہ کنہ کھنگر آسہ پوئس پتھ۔ تم کنہ آسہ
 چانس خدائیس نغیر علامت تہ نغمانہ تھاونہ آسہ و مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ تم شہر چھنہ تمین ظالمین
 مکہ کین کافرین ہند یو شہر ونشہ کینہہ دور وَاِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا بیہ سوزاسہ شہر مدین کین لوکن
 گن بوی تہند شعیب علیہ السلام قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تمود ویکھ ای
 میانہ قومہ بندگی کرو گئس خدائیس توہہ پچھونہ تس وراکی کانہہ معبود وَلَا تَنْقُصُوا الْكَيْلَ وَالْإِيْزَانَ
 بیہ مہ چھنہ راوومین بانہ بیہ تر کر۔ میان آسو پور، تولان آسو پور إِنِّي أَرِكُمْ بِخَيْرٍ مہ چھوہ تہہ
 بوزنہ یوان ترس حالس منز مالکہ اعتبارہ لہذا تس چیز پچھو توہہ آمادہ کران لوکن چھون دس پیٹھ وَرَأَىٰ
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ مہ پچھو تہندہ حقہ خطرہ باسان تمہہ دہیکہ عذابگ بس دوہ بے شمار
 عذابن احاطہ کر تھہ یاسنہ دوہ اولینن تہ آخرین احاطہ کر تھہ آسہ وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْكَيْلَ وَالْإِيْزَانَ
 بِالْقِسْطِ ای میانہ قومہ بیہ آسو میان پور تولان تہ پور عدل وانصاف سان وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝۸۵ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝۸۶ قَالُوا أَإِشْعَبُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا نَفْعَلُ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ۝۸۷ قَالَ يَقَوْمِ آءِيتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ كُفَرَاءُ بِهِ مَهْ

بہ مہ آسولو کن ہندین چیزن اندر کی تہ نقصان کران وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بہ مہ تلوز مینس منز شر کہ سیت تہ بددیانتی سیت فساد بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پور مینتھ، پور تولتھ پس خدلیہ سند رزق توہہ پتھ کن روزہ سو پتھو تہندہ خیطرہ سہمہ کماہی خوتہ سیٹھاہ بہتر۔ کیا زہ حرامس منز اگر چہ زیادہ آستن، برکت پتھنہ بہ پتھو انجام تمیک نار جہنم۔ حلال اگر کی آسہ تھہ منز پتھہ برکت انجام تمیک پتھو رضای الہی تہ جنت۔ ہر گاہ توہہ سہمہ تھہ ہند یقین پتھو تلہ مانو وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ پو پتھوس نہ تھند شکر د ر بوروزوہ را ہتھہ پر پتھہ وقتہ۔ پو پتھوس پیغمبر توہہ نیم کرہ ون قَالُوا يُشْعِبُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا نَفْعَلُ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ تہودوپ بہ سو روی وعظ ولیسحت بوز تھہ ای شعیب کیاہ توہہ چھادپان یہ وہی تقدس ہن نماز آس کیا تراؤ و تن چیزن ہنز پر سٹش کرن سکن چیزن سان مال ہڈبب پر سٹش کران آئی اَوَانُ نَفْعَلُ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ بہ کیا تراؤ و آس پنہ نس مائس اندر پنہ خواہمہ موجب تصرف کرن إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ بیشک توہہ پتھو ہڈ معتبر پتھہ گاہ جار چہ تھہ کران (یہ دو ٹھٹھ ٹھٹھہ پاتھہ) قَالَ يَقَوْمِ فرموو کہ ای میانہ قومہ آءِيتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا تہہہ ونومہ ہر گاہ پو پنہ نس خدلیہ سندہ طرفہ نہہ دلیلہ پیٹھہ قایم آسہ سہمہ سیت توحید و عدل ثابت پتھو۔ بہ آسہ مہ تم پنہ طرفہ اکھ بہترین دولتہ عطا کر مثر یعنی نبوت۔ سہمہ سیت مہ تبلیغ کرن واجب پتھو۔ لہذا تھہ پتھہ تراوہہ بو تبلیغ کرن وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ

عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهٗ اُنْيَبُ ﴿٨٨﴾
 وَيَقُوْمُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ
 قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ
 بِبَعِيْدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرْ وَاٰرَبَكُمْ ثُمَّ تَوَبَّوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ
 وَدُوْدٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا اِشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيْرًا مَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا
 لَنَرٰكَ فَيٰنَا ضَعِيْفًا وَّلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا نَتَّ عَلَيْنَا

مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ بوجھوں سے یڑھان سو کوم پانہ کرن سمہ نشہ توبہ منع کران چھسوہ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا
 الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ بوجھوں سے یڑھان مگر اصلاح کرن تہ سنہالان۔ یوت بوجھہ تہ توت
 وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ بیہ چھونہ میانین کائین ہند اسہل تہ آسان سپدن مگر خدایہ سندی یاری تہ
 مددہ سیت عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهٗ اُنْيَبُ تس پیٹھ کورمہ توکل تہ اعتماد تس کن چھوس پوریتھ
 وقتہ رجوع کران۔ وَيَقُوْمُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ ای میلانہ قومہ میون عدوت تہ مخالفت تہ زینہ راون توبہ
 اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ کہ توبہ کیاہ بنہ سوی باش یوسہ قوم
 نوحس یا قوم ہودس یا قوم صالحس بنہ یہ سم زمانہ کن دور چھہ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ قوم لوٹک
 حال چھونہ توبہ نشہ دور کینہہ تہ وَاسْتَغْفِرْ وَاٰرَبَكُمْ ثُمَّ تَوَبَّوْا اِلَيْهِ وون منگو مغفرت کفر وشر کہ
 خپترہ پنہ نس ہرورد گارس توپتہ کردتس کن رجوع طاعت و عبادتہ سیت اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ
 بیشک میون پروردگار چھو سیٹھاہ رحم کرہ وون مغفرت معہ وین پیٹھ دوست تھوہ وون توبہ کرہ وین
 قَالُوْا اِشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيْرًا مَّا تَقُوْلُ ای شعیب اسہ چھنہ چانہ اکثر تھہ فکری تران تمو کھو
 اندرہ سمہ ژہ ونان چھو کہ کیا زہ اس چھنہ تمہ تھہ توجہ تہ فخرہ سان بوزان وَاِنَّا لَنَرٰكَ فَيٰنَا ضَعِيْفًا بیہ

بِعَزِيْزٍ ۹۱) قَالَ يُقَوْمِ ارْهَطِيْ اَعْرُ عَلَيْكُمْ مِّنْ اَللّٰهِ وَ
 اتَّخَذْتُمُوْهُ وِرَآءَكُمْ ظَهْرِيًّا اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۹۲)
 وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْۤ اَعْمَلٌۭ سُوْفَ تَعْمَلُوْنَ لَا
 مَنۢ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَاذْتَقِبُوْا اِنِّىْ
 مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۹۳) وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ

جھوکھ ژہ آسہ بوزنہ یوان اسہ اندر سیٹھاہ پست کمزور وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ہر گاہ لے چاہے
 خاندانک تہ قبیلک پاس آسہ تم سان تم مذہب چھہ اس کرہ ہوت ژہ گنہ گنہ (یعنی سنگسار) وَاَنْتَ
 عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ بیہ جھوکھ نہ ژہ آسہ نشہ گنہ قسمہ قابل عزت تہ قَالَ يُقَوْمِ ارْهَطِيْ اَعْرُ عَلَيْكُمْ مِّنْ
 اللہو شعیب علیہ السلامن دوکھہ ای میانہ قومہ افسوس کیاہ میون قبیلہ چھا توہمہ نش خدایہ سندہ خوتہ
 زیادے قابل عزت۔ مہ پچھہ پنہ نس پانس نسبت کر مرخدا نس گن وَاَتَّخَذْتُمُوْهُ وِرَآءَكُمْ ظَهْرِيًّا کیاہ
 اللہ تعالیٰ جھوونہ توہمہ تر وومت تھر پتھہ گنی تمسند جھنا توہمہ کاہنہ خیالاہ تہ لحاٹاہ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
 مُحِيْطٌ ہوش کر و میون پروردگار جھو یقینا جھنزن سارنی تھن احاطہ کر تھہ وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ
 اِنِّىْۤ اَعْمَلٌ ای میانہ قومہ جہہ تہ روزو پندہ جاہہ کوم کران۔ بوتہ جھوس پندہ جاہہ کوم کران
 سُوْفَ تَعْمَلُوْنَ مَنۢ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ برو تھہ پہن زانو جہہ کہہ کہہ شخص آسہ سو
 بس خوار تہ ذلیل کرہ ون عذاب ولتہ۔ بیہ کہہ شخص آسہ لہزونہ ون وَاذْتَقِبُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ پیارو
 جہہ بوتہ جھوس توہی سیت پیاران وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اودہ
 یلہ سون حکم تہندس عذابس متعلق جاری سپد نجات دیوت حضرت شعیبس بیہ تمنی سیت ایمان انہ
 ونین پندہ رحمتہ سیت وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ ظالم تہ نافرمان رٹ جبریل اینہ سزہ گنی
 کریکہ فَاصْبِرْۤ اِنِّيْۤ اَبْرَاهِيْمَ جَبِيْنٌ پس پے تم پنہ نین گرن اندر تھہ کن وستھہ توہ پتہ مود کاَن

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿۹۳﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا
 بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ نَهْرُودٌ ﴿۹۵﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ
 بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۹۶﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
 فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿۹۷﴾
 يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ
 الْمُرْوَدُ ﴿۹۸﴾ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِئْسَ
 الرَّقْدُ الْمُرْفُودُ ﴿۹۹﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرٰنِ نَقَّصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا

گم یغناؤا فیہا زن نہ تم سمن جانن اندر بسانی زانہہ آس الّا بعدّ المدینن کما بعدت نھود وارہ
 یوزوتہ عبرت رثو شہر مدینک لوکھ تہ گئے خدایہ سزہ رحمتہ نشہ دور تھے پاٹھ پاٹھ قوم شوڈ گئے۔
 ولقد أرسلنا موسیٰ بالآیاتنا وسلطان مبین * الیٰ فرعون و ملائکہ یہ سوز اسہ پڑ پاٹھ
 حضرت موسیٰ پنن آیات تہ روشن دلیلہ ہتھ فرعونس تہ تہندہ قومہ کین زھین کن بس نہ مون فرعونن
 تہ تسمندہ قومہ کیوز ٹھبو فاتبعوا امر فرعونن بس پک تم تہ فرعونہ سزای رلیہ موجب موسیٰ علیہ
 السلامہ سندہ حقہ وما امر فرعونن برشید حالانکہ آس نہ فرعونہ سزای صحیح کینہہ تہ یقدم
 قومہ یوم القیامۃ بروٹھ بروٹھ آسہ پکان فرعون پنہ نس قومس قیامتک دوہ فأوردھم النار بس
 والیکھ نار جہنمن اندر وبئس الورد المرود سیمٹاہ بچھ وچ جایاہ بھ نار جہنم۔ واتبعوا فی ہذہ لعنۃ
 ویوم القیامۃ دنیا اس منز تہ روز تمین لعنت پتہ یہ روزیکھ پتہ قیامتک دوہ تہ۔ یہ سپد غرق آس تہ
 بین نار جہنمن اندر بس الورد المرود بچھ انعاماہ جھو بس انعام تمین آوونہ یعنی لعنت فی
 الدارین ذلک من انباء القران نقصنہ علیک منہا قالہم وحصید تمہ چھ بعض خبرہ تباہ کیمتین شہرن
 ہنزہ سہہ آس توہ و نان چھ۔ تموشہر و اندرہ چھ کینہہ شہر و نہ تہ موجود۔ بعضی چھ مولہ موجب ختم گمت

قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۱۰۰ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا
 آخَذَتْ عَنْهُمْ إِلَهَهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ۱۰۱ وَكَذَلِكَ
 آخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ
 شَدِيدٌ ۱۰۲ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ط
 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ۱۰۳ وَمَا
 نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ۱۰۴ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۱۰۰ امہ کورنہ تمین کا نہ ظلم بلکہ کور تمہو پان پانس ظلم سان نافرمانی
 کرنہ سیتِ فَمَا آخَذَتْ عَنْهُمْ إِلَهَهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۱۰۱ کس ہیوک نہ کا نہ
 فائدہ و اتا تو تھ تمین تہند یو تمہو معبودو تمین تم پرستش کران آس معبود برحقس وراى۔ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ
 رَبِّكَ يَلِيهِ چانس ہروردگارہ سُنْدُ کھم جاری سُنْد تہندہ عذابہ خپترہ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ۱۰۱ بیہ ہیوک نہ
 تمہو تمین کینہہ تہ ہرہ او تھ تہ زیادہ کر تھ تاوانہ تہ نقصانہ وراى وَكَذَلِكَ آخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ
 وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۱۰۲ بیچہ پاٹھ کیا چھو آسان چانس پروردگارہ سُنْد رٹن تہ گرفتار کرن۔ یلہ سونمہ شہرہ کین
 لوکن تہندہ ظلمہ تہ کفرہ سببہ رٹان چھو۔ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۱۰۲ پزپاٹھ تہند رٹن چھو سیٹھاہ
 کڈرتہ سخت آسان ۱۰۲ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ط پزپاٹھ تھ منز چھ عبرت تمین
 لوکن ہندہ خپترہ ہم کھو ژان چھہ آخرتہ کس عذابس ۱۰۳ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ سُو آخر تک دوہ گو
 سُوى سہمہ دوہہ سونبر نہ بین ساری لوکھ۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ۱۰۳ سُو دوہہ گو سُوى سہمہ دوہہ ساری
 مخلوقات سن حاضر کرنہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ۱۰۴ چھہ تھ منز تاخیر کران مگر اکہ گزرنہ
 آمتہ مدتہ خپترہ (یعنی تمہہ انگ چھو وقت مقرر کرنہ آمت سُو یوتان نہ وائہ تو تان قیامت ایہ نہ

يَاذِينَهُ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿۱۵﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِى
 النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿۱۶﴾ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
 السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا
 يُرِيدُ ﴿۱۷﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِى الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
 السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ ﴿۱۸﴾
 فَلَا تُكْفِرُ فِى مُرِيَّةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلا كَمَا
 يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَنُوقِفُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ

يَوْمِيَّاتٍ لَّا تَكْفُرُ نَفْسٌ إِلا بِإِذْنِهِ سَمِعَ دَوْبَهُ سَوْ قِيَامَتِ لِيهِ تِيذٌ هُوَ لَنَا كَ آسَهُ حَالَتِ كَمَ كَاهِنَهُ
 اَكْهَاهُ بِيَكَمَ نَهَ كَمَهُ كَرْتَهُ خَلْدِيَهُ سَنَدَهُ كَمَ وَرَأَى فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ لَوْ كُنَ آسَنَ زَهَ قَتَمَ أَوْ آسَنَ اَهْلِ
 شَقَاوَتِ كَافِرَةٍ نَافِرَمَانَ - أَوْ آسَنَ سَعَادَتِ مَنَدِ بَا اِيْمَانٍ - فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِى النَّارِ لَيْسَ تَمَ
 لَوْ كَهَ شَقِيٌّ آسَنَ تَمَ وَأَنَّ نَارَ سَ اَنْدَرِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ تَمَ آسَنَ تَهَهُ جَهَنَّمِ سَ اَنْدَرِ كَرِيكِهِ دَوَانَ
 گُوذَه گُوذَه تَهَزَه كَرِيكِهِ - پَتَه يَلِيهِ تَهَكَانَ آسَنَ اَدَه آسَنَ دَوَانَ لَوْتَه لَوْتَه - خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
 السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ هَمِيْشَه رُوْزَنَ تَهَهُ نَارِ جَهَنَّمِ سَ اَنْدَرِ لُوْ تَانِ آسَانَ تَهَ زَمِيْنِ قَاتَمَ جَهَهُ إِلا مَا شَاءَ
 رَبُّكَ مَكْرِيَه چُونِ پَرُوْرِدْ گَارِيْزَهه اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ بِيْزَاپَاتِ چُونِ پَرُوْدْ گَارِ هَجْهَوْتِي كَرَنِ يَه
 يَرْهَانَ هَجْهَوَ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِى الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ بِيَه تَمَ سَعَادَتِ مَنَدِ
 لَوْ كَهَ آسَنَ تَمَ وَاتَنَ جَنَّتِسَ مَنَزَتَمَنِ تَمَتِ رُوْزَنَ هَجْهَوَ هَمِيْشَه - يُوْتَانِ آسَانَ تَهَ زَمِيْنِ قَائِمَ جَهَهُ إِلا مَا شَاءَ
 رَبُّكَ مَكْرِيَه چُونِ پَرُوْرِدْ گَارِيْزَهه عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ بِيَه هَجْهَهُ شَخْشَاهَه تَهَ مَهْرَبَانِيَاهُ لُوْ سَه نَهَ زَهِيْنَه وَنَ تَه
 خَتَمَ گَرَه وَنَ آسَه فَلَا تُكْفِرُ فِى مُرِيَّةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ لَيْسَ مَهَ آسَ زَهَ عَنَه قَسَمَه شَخْسَ اَنْدَرِ تَمَنِ بَاطِلِ
 مَعْبُوْدَانَ مَتَعَلَقِ يَمِيْنِ هَنْزَمِيْمَ مَكْرَاهُ لَوْ كَ پَرَسْتَشِ كَرَانَ جَهَهُ - مَا يَعْبُدُونَ إِلا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ

أُولِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُكُوعًا
 مِّنَ الْبَيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي
 لِلذَّكِرِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۵﴾ فَلَوْلَا
 كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهُونَ عَنِ
 الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ أَجْبِنًا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۱۶﴾ وَمَا


رُحِمَ تَوْبَهُ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِيَاءَ بِمِثْلِ آسِئَةٍ تَوْبَهُ خَدَائِعُ وَإِي كَانَتْ رِفَاقَتُ
 كَرِهَتْهُ دَوَاتُهُ دَوَاتُهُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ تَوْبَةُ الْيَهُودِ تَوْبَهُ مَدْرَكُنَهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُكُوعًا مِّنَ
 الْبَيْلِ بِمِثْلِ تَهَاوُ بِرِ بِنَا مَزَهَبَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ دُوْبَهُ كَيْنَ دُونَ طَرَفِي أَنْدَرِ - لَيْعْنِي صَبْحَ بِيْشَنَ تَدْرُكُ - بِمِثْلِ رَاثَهُ بِنَدِ
 اِكْسَ حَصْرُ أَنْدَرِ - سُوْغُو شَامَ تَدْرُكُنَ - سَمْعَهُ بِمِثْلِ بَا نَزَهَ نَمَا زَهُ پُورَهُ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ بِمِثْلِ
 نَيْكَ كَامَهُ بِمِثْلِ كَالَانَ بَدَمَانَ تَدْرُكُ كَامِينَ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكِرِينَ بِمِثْلِ تَهَهُ كَهَ نَيْكُو سَيْتِ بِمِثْلِ تَهَهُ مَنَاهَ مَعَا
 سِدَانَ بِمِثْلِ بَدْرُ نَيْسِحَتِ، نَيْسِحَتِ رُحِمَ وَنَمِينَ، مَانَهُ وَنَمِينَ مَهْدَهُ خَيْطَرَهُ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
 الْمُحْسِنِينَ مَعْرَنَ مَهْدَهُ طَرَفَهُ لَيْسَ مَعَا مِثْلِ بِوَانِ بِمِثْلِ تَهَهُ بِمِثْلِ كَرِ وَصَبْرَهُ - لَوْ كُنَ بِنَدِ تَكْلِيْفِ بِمِثْلِ
 يَا نَمَا زَهُ بِنَدِ قَاتَمَ تَهَاوُنَ بِمِثْلِ - لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى بِمِثْلِ هَرُ كَزَا ضَاعَ كِرَانَ نَيْكُو كَارَانَ بِنَزْمُ زَوْرٍ فَلَوْلَا
 كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ لَيْسَ كُونَهُ آسَ تَمَعَهُ لَوْ كَوَانَدَرَهُ تَمَ تَوْبَهُ بَرُونَهُ آسَ أُولُوا بَقِيَّةَ صَاحِبِ
 شَعُورَ جَمَاعَتَهُ يَتَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ تَمَ مَعَ آسَبِنَ كِرَانَ زَمِينِ مَنَزَرَ شَرَكَ وَكُفْرَهُ سَيْتِ
 فَسَادِ تَدْرُكُ نَشِيءَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ أَجْبِنًا مِنْهُمْ مَكْرَ تَمَ كَيْنَهُ لَوْ كَ آسَنَ تَمَ آسَهُ نَمُو عَذَابَ كَرَنَهُ
 آسِيُو أَنْدَرَهُ بِجَاوَمَتِ آسَ - تَمُو تَهَهُ بِمِثْلِ پَانَهُ كَفْرُ وَبُرْ كَهَ نَشِيءَ تَوْبَهُ كُورَتَهَهُ بِمِثْلِ آسَ مِينَ تَدْرُكُ وَبُرْ كَهَ نَشِيءَ
 مَعَرَ كِرَانَ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ ظَالِمٌ تَدْرُكُ نَا فَرَمَانَ لَوْ كَهَ رُوْدِ عِشَ وَآرَامَ كَسَ حَالِسَ پَنَ -
 وَكَانُوا مُجْرِمِينَ بِمِثْلِ آسَ تَمَ كَهْ كَارَ نَا فَرَمَانَ جَرَامِينَ بِنَدِ خُوْ كَرِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ


كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ ﴿۱۱۵﴾
 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ
 مُخْتَلِفِينَ ﴿۱۱۶﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ
 رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۱۷﴾ وَكُلًّا
 نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ
 فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا

الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ یہ چھوٹے تہند پروردگار سو کیا گالہ عنہ شرہ کین لو کن ظلم کرت یلہ تمہ شرک لو کہ اسن اصلاح کرہون۔ بین لو کن تبلیغ دعوت دہون و لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ہر گئے یرہہ ہاتھند پروردگار سو کرہ ہاضرور ساری لو کن گئی (جماعت بعض جتنن گن نظر کر تھ۔ بھہ نہ تم تہ بلکہ بناوین واریہ جماڑ سمو اختلاف کور و لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ یہ روزن تم ہمیشہ اختلاف کرہون إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ مگر کرن نہ اختلاف دین حقس اندر تم کن پیٹھ چھند پروردگار فضل تہ رحم کرہ و لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ امی خیطرہ جھن کرم تہ پیدہ۔ یعنی اختلاف کرن وال اختلاف خیطرہ۔ رحمتہ وال رحمتہ خیطرہ۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ یہ چھو پورس پدمت چانس پروردگارہ سندیہ لحم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ ضرور کرن بو پد نار جنم، جعوتہ انسانوسیت امہ و نہ و كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ یہ چھہ اس تم ساری قصہ، حضرات انبیاءن ہند یو قصواندرہ تو بہ بیان کران مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ تمہ قصہ سموسیت اس چھند دل مضبوط کران چھہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ واژ تو بہ نشہ اتھ منز پر تھ۔ یہ چھو اتھ منز بو ڈو وعظ بد نصیحت تہ یاد دہانی با ایمان ہندہ خیطرہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا نَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ یہ و بو تم لو کن تم نہ باوجود قطعی دلیلہ تمن نشہ و اسنہ ایمان اتان چھہ۔ ای لو کو کران گو ہو تھہ کوم پندہ جایہ۔ اس تہ چھہ کوم کران پندہ جایہ و أَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ یہ پیار و تھہ پندہ نین اعمالن ہندس

يَوْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَمِلُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اِنَّا
 مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ
 كُلُّهُ فَاَعْبُدُوْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾

تینجس اَس تہ چھہ پیران پنہ نین اعمالن ہندس تینجس عنقریب ننبہ پوز کیاہ چھو تہ اہز کیاہ چھو وَاللّٰهُ غَيْبُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاَعْبُدُوْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ بیہ چھو خدا یہ سی معلوم تہ سوروی یہ
 آسمان تہ زمین اندر پھوشیدہ چھو۔ تہس اُن ین و اتا ونہ ساری معاملات پس کرو تہنزی یا اثر عبادت تہ
 بندگی۔ بیہ کرو تہس پیٹھ توکل تہ اعتماد وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھو نہ چون پروردگار بے خبر
 تمہو کا میونشہ تہمہ تہہ کران چھوہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 الرَّقَّتِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ③ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ
 الْغَافِلِينَ ④ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ
 عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ⑤
 قَالَ يَبْنَىٰ لَاتَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ

الرّ ائیک معنی چھو خدایہ سی معلوم تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ بیہ چھہ تم آیات اسہ واضح تہ
 صاف کتابہ ہندہ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا پڑ پانھہ اسہ کرنازل سو کتاب قرآن مجید عربی پانھہ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ چھہ تہہ گوڈہ ای مکہ کیولو کو فجرہ خرہ۔ تہہدہ واسطہ ترہ فجرہ بین لوکن تہ۔
 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ اس گرو بیان توہہ یار رسول اللہ
 قصو اندرہ بہتر قصاہ۔ سمہ ذریعہ اسہ سوز توہہ گن یہ قرآن مجید یعنی بذریعہ وحی وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
 لَمِنَ الْغَافِلِينَ آسوہ تہہ سانہ بیان کرنہ برو تھہ امہ نشہ بالکل بے خبر کیا زہ نہ او سوہ پورمت کینہ نہ او سوہ
 کانہہ نشہ پوزمت کینہہ۔ نہ اوس لوکن نشہ سمہ طریقہ صحتہ سان یہ قصہ مشہورہ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ
 يَا أَبَتِ سُو وقت چھو قایل ذکر یلہ حضرت یوسف بائس پنہ بس وون بابہ صیامہ حض وچھہ خواب
 إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ مہ حض وچھہ خوابس اندر
 کاہ تارک بیہ آفتاب تہ زون۔ تم ساری دتھم مہ سجدہ ووان قَالَ يَبْنَىٰ لَاتَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ

كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ
يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكَ وَعَلَى الْآلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ
وَآخُوْتِهِ آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ

میانه گو بره لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ آخُوْتِكَ ۖ یہ خواب باوزنہ نہ بائیں نشہ۔ تم آس کاہ (۱۱) پای حضرت
یوسف وراى۔ (۱۰) واہ آس اکس ماجہ آتھ۔ زہ ۲ آس حضرت یوسف تہ بنیامین یس ماجہ آتھ
فَیُکَلِّمُکَ وَالکَ کَیْدًا ۖ تمین پیہ نہ پیہ خوش کینہہ تہ۔ کس کرن تم چاہنہ تکلیف تہ اذواتاوندہ خیطرہ
خاص تدبیر شیطانہ سندہ وسوسہ سیت۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۖ ہنر پات شیطان چھو
انسانہ سندن دُشمن ۖ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۖ یہ خواب تریہ
ۖ چھتھہ تہ ایہ نعل۔ پیہ کری تڑہ پن پروردگار منتخب ہو تہ خیطرہ ہرگزیدہ پنہ نیو مر بانو سیت۔ پیہ پنچھہ
ناوی تڑہ خوانن ہندہ تعبیر ک علم ۖ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ ۖ پیہ کرہ سو پورہ پن نعمت تریہ پیٹھ۔
پیہ حضرت یعقوبہ سندس خاندانس پیٹھ۔ کَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۖ چھہ
پاٹھ تم پورہ کر پن نعمت چانس بڈیس تہ بڈہ بڈیس پیٹھ۔ یعنی حضرت ابراہیمس تہ حضرت اسحاقس پیٹھ
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ہنر پاتھ چون پروردگار چھو سیٹھا علمہ وول تہ حمتہ وول۔ پریٹھ اکس چھو
مناسب فیض عطا کران لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَآخُوْتِهِ آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ۖ تھیق حضرت یوسف پیہ تھندین
بائیں ہندس قصص منز چھہ بڈ بڈ نشانہ خدایہ سندہ قدر تک۔ پیہ تھندہ ہو تک۔ یارسول اللہ تمن لو کن
ہندہ خیطرہ ہم توہہ ہمہ قصک پر تڑھان چھہ۔ کیا زہ حضرت یوسف آتھ ہیکسی اندر سلطنت تہ
تھود مرتبہ عطا سپدن چھہ خدایہ سنزی کوم۔ امہ سیت سپدہ مسلمان بڈ عبرت حاصل۔ پیہ قوت
ایمان إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۖ یہ کتھہ چھہ قابل ذکریلہ تمو

إِلَىٰ آيِنَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَ لَعَفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ۝۸
 اِقْتُلُوا يُوْسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ اَبِيكُمْ وَ
 تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهِ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝۹ قَالَ قٰبِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا
 يُوْسُفَ وَالْقُوَّةُ فِيْ غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهٗ بَعْضُ السَّيَّارَةِ
 اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝۱۰ قَالُوْا يَا اَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ
 وَاِنَّا لَنَصْحُوْنَ ۝۱۱ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّزْتَعِرْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا

دوره با یواسف دوهه پانه وان دوپ۔ ابلته یوسف ته تهنده حقیقی بوی بنیامین چھو زیادہ ٹوٹھ سانس بابہ
 صینس سانہ خونہ حالانکہ اس چھ واریاہ بائی۔ اکھ جماعت تم چھہ زہ بائی۔ حالانکہ تم زہ چھہ کم سن تہ
 لوکت۔ کم سنی مؤکھ سن نہ تهنده آتھ تمہہ کامہ سوخذ مت یوسہ سان کن ایہ۔ آس چھہ اکھ بدجماعت۔
 سون گوڑھہ تم زیادہ محبت آسن اِن اَبَانَا لَعَفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ بیشک سون بابہ صیب چھونہ غلطی
 پیٹھ اِقْتُلُوا يُوْسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ اَبِيكُمْ صلاح چھو یوسف ماریون یا تراویون
 دُور کُنہہ جایہ۔ ادہ روزہ بابہ صینس رخ توہی کن موکل۔ تھند توجہ سپدہ پورتوہی کن وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهِ
 قَوْمًا صٰلِحِيْنَ تمی پتہ سپدہ تهنز کوم درست قَالَ قٰبِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ تمونزہ دو تھہ اکھ
 ونن وولاہ۔ تم دو چھہ یوسف مہ ماریون۔ قتل تہ مازن چھونہ مناسب۔ وَالْقُوَّةُ فِيْ غَيْبَتِ الْجَبِّ
 يَلْتَقِطُهٗ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ بلکہ تراویون سونہ کیرچہ پو شیدہ جایہ منز۔ یٹھ تمس
 کانہہ قافلہ تمہہ منزہ کھارت پانس سیت بیہ کُنہہ شہرس منزواتاوہ۔ ہر گاہ توہمہ یہ کوم کرن چھوہ
 میانہ مشورہ تلہ کتر ویتھہ پاٹھ۔ ساری سپد آتھ کتھہ پیٹھ مُسْتَق۔ چنانچہ اکھ وُلہ گئے حضرت یعقوبس
 نِشہ قَالُوْا يَا اَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ نہنہ لگ ای سانہ بابہ صیبہ آسہ پیٹھ کونہ ہز چھوہ تھہ
 اعتبار کران حضرت یوسف سدس حقس منز۔ تم کونہ حض چھو کہ اسہ سیت پھیرنہ تہ سیر کرنہ
 سوزان۔ وَاِنَّا لَنَصْحُوْنَ حالانکہ اس چھہ تمسد بد خیر خواہ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّزْتَعِرْ وَيَلْعَبْ

لَهُ لِحْفُظُونَ ﴿۱۲﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ
 أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ﴿۱۳﴾ قَالُوا لَئِنْ
 أَكَلَهُ الدِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَآخِسُونَ ﴿۱۴﴾
 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْحَبِيبِ
 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾
 وَجَاءُوا بِأَمْرِهِمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿۱۶﴾ قَالُوا يَا بَانَ بَانَ إِنَّا نَذْهَبْنَا

سوسوزیون پگاہ آسہ سیت جنگل اندر کھیہ میوہ۔ بیہ پھیہ تھوہرہ اورہ یور۔ ذرا کدہہ واشاہ۔ تہہ مدہ ہتر وکابنہ
 اندیشہ وَاَنَّا لَهُ لِحْفُظُونَ اس ساری چھہ تیس راچھہ تہ حفاظت کرہ ونِ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ
 تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ حضرت یعقوبن دیکھ مہ چھو تہندیہ
 پانس سیت نیون پریشان کران (کیازہ آسمنز دوری چھس نہ یوزرہ وان) بیہ چھوم خطرہ گرہہان آس
 مکھیہ رامہ ہون (اتھ شہرس منز آس سیٹھاہ رامہ ہون) تہہ آسوپنہ کامہ سیت مشغول آس ن روزہ
 وہ نہ خیالی۔ افسندہ حالہ نغہ روزو بے خبر قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الدِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا
 إِذًا لَآخِسُونَ تمو دوپ آس ایٹبڈ جماعت سیت آستھ ہر گاہ آس رامہ ہون کھیہ تلہ چھہ اس بڈہ تاوان
 زد تلہ چھونہ آسہ اعتباراہ کینہہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ تیس یلہ بیہ حضرت یوسف تموپانس سیت نیو
 وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْحَبِيبِ بیہ کور تموساروی اتفاق سابقہ فیصلہ موجب کہ بیہ تراویون
 کیر چہ پوشیدہ جاییہ منز (چنانچہ اکھ کیوراہ اوس آسہ طرفہ۔ تھہ منز تروکھ) وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ
 بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ آسہ سوزوجی حضرت یوسفن کن (غم مدہ برکینہہ۔ اکھ وقتاہ واتہ) تہہ
 پاوکھ تمکن بیہ سوزوی کر ثوت تیس تم آسنہ تہہ پرزہ ناوانی وَجَاءُوا بِأَمْرِهِمْ عِشَاءً يَبْكُونَ توپتہ
 آئی تم بابہ ضعیس پنہ نس نشہ کلچن ودان ودان قَالُوا يَا بَانَ بَانَ إِنَّا نَذْهَبْنَا نَسْتَيْقِنُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ
 مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الدِّيبُ دینہ لگ اے سانہ بابہ صیہ چھوہ نا یوزان اس لجیای پانہ وان دورہ اندرمان مان

نَسْتَيْقُ وَتَرَكْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَآكَلَهُ الذِّبُّ وَمَا
 أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ وَجَاءُ وَعَلَى قَيْصِهِ
 بِدَمٍ كَذِبٌ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ
 جَمِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ
 فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ
 وَأَسْرُوكُمْ يُضَاعَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَشَرَّوْهُ

کرنہ یوسف تھا دیو اسہ سامانس رنہ راہجہ اتی آورامہ ہون تھی کھیو سو ۱۷ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا
 صَادِقِينَ مگر جہہ جتہ کمر و اسہ پڑھہ ہر گاہ اس پوزتہ ونان آسو ۱۸ وَجَاءُ وَعَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ بیہ
 اٹھہ تمن بروٹھہ کن تہنز کرنن اُپر تھہ مٹھتھہ قَالَ حضرت یعقوبن دو پکھہ بیہ تھہ جھنہ یوسہ جہہ ونان
 چھوہ۔ ہر گاہ بیہ رامہ ہون سنز کوم آسہاتلہ آسہنی اتھہ کر تہنہ رامہ ہون سندین ژو پین ہند زخم۔
 حقیقت بیہ جھنہ بیہ جہہ بیان کران چھوہ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا بلکہ چھوہ جہہ نفس پنہ نین
 بیہ کویستان مشکل کوم کرنہ خیطرہ تنبلاومتِ فَصَبِرْ جَمِيلٌ وون چھو میانہ خیطرہ صبر کرنوی جان
 وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ بیہ چھوس بو اللہ تعالیٰ سی یاری منگان تھہ دردناک واقفس پیٹھہ نیس
 جہہ ونان چھوہ ۱۹ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ بیہار پیو و اتھہ اکھ قافلہ اکھ تھہ کیر س نکھ تل بیٹھہ منز حضرت یوسف
 اوس فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ پس سوز تمونچن آب سازن وول تم تر و بچہ پن کیر س منز
 تورہ کھوت کجس اندر نندہ یون محبوباہ حضرت یوسف قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ تمس یان کس کن نظر
 پیہ سولوگ کر یکھ تلکھ نہنہ ہالو کو خوشخبر پوزیتوہ۔ بیہ چھو اکھ خوبصورت فرزندہہ وَأَسْرُوكُمْ يُضَاعَةٌ
 تو پتہ ٹھو کھ کھنٹھہ مال تجارت بناو تھہ۔ خیال کوڑ کھ کہ بیہ ہیتھ گزہ ہو مبصر س منز کانہہ بڈس امیر س
 کنون ہتہ۔ خوب نفع تہ فائیدہ سپدہ حاصل وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ ای اوس تہ سوزوی پوز

بِشَمَنِ بَعْضٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿۲۱﴾
 وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ
 عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ
 فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ

زاناں یہ تم کران آس۔ وورہ باہی آس گنہ گنہ وقتہ اتھہ گیرس کھتھل یوان کھین چین واتاوان تم آس نہ
 یڑھان حضرت یوسف گڑھہ کیرس منز ہلاک سپڈن۔ بلکہ گڑھہ کا نہہ شخصہہ تمس کیرہ منزہ کڈتھہ بیہ گنہ
 شہرس واتاوان۔ بیہ گڑھہ نہ گنہہ طریقہ حضرت یوسف اطلع سپڈن۔ غرض تمہہ دوہہہ آئی تم کیرس
 کھتھل۔ تہہ وجھہ نہ حضرت یوسف کینہہ تہ۔ توپتہ آئی تم اتھہ قافلہ شخصہہ۔ تمن دوپچھہ بیہ چھو سون
 ژولمت غلام اس چھن نہ یڑھان بیہ پانس نشہہ رٹن **وَشَرَوْكَ بِشَمَنِ بَعْضٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ** توپتہ گن
 تمو وورہ باہو حضرت یوسف کم مونس کیشرن درہمن لہہ قافلہ کین کیشرن شخص یا کن اہل قافلہ **وَكَانُوا فِيهِ مِنَ**
الزَّاهِدِينَ تم ہینہ وال آس تہدس موی ہمیس اندر بے میل تہ بے رغبت لاگان (توپتہ نیو تمو بیہ
 حضرت یوسف پانس سیت تہ واتو وکھ مصر۔ مصرس منز آو یکن نیلام کرنہ۔ آخری بول سپز عزیز
 مصرس پیٹھ ختم۔ بالاخر ہیوت تمی حضرت یوسف مل **وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ**
أَكْرِمِي مَثْوَاهُ توپتہ وون مصرک تم شخص یم حضرت یوسف چولا کہ ممول ہیوت (یعنی عزیز
 مصرن) زنا نہ پنہ نیس زلیخا ناواوس سمس لوکت سز جای تھاوڑہ سیٹھاہ ہلند یعنی اہس کرڑہ سیٹھاہ قدرتہ
 تعظیم **عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا** شاید یہ ماواتا وہ اسہ فایدہ۔ تھہ پاٹھ رو چھمت لوگٹ بکار یوان چھو
أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا بلکہ رچھون اس بیہ گو برہ گرنز (کیاڑہ اسہ چھو نہ پانس اولاد کینہہ) **وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا**
لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ امی طریقہ ڈیت اسہ حضرت یوسف تھو و مقام مصرہ کس سرز مینس اندر۔ تھہ
 سو مصرس اندر تھدس مقاس پیٹھ روز تھہ امور ^{سلطنت} مہارت حاصل ہیچہ کتر تھہ۔ **وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ**
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ بیہ تھہ اس سو پچھنا وون کھن ہند معنی تہ مطلب (تمی منزہ گو خواہن ہند تعبیر۔

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۱﴾ وَلَمَّا بَلَغَ
 أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۲﴾
 وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ
 وَقَالَتْ هَيْبَتُكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ
 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۷۳﴾ وَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ
 رَأَىٰ بَرَّهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ

غرض اوس تمن نجات دینہ آندرہ دولت ظاہری و باطنی سیت نوازش کرن واللہ غلب علی امرہ
 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ چھو غالب پنہ نس یشھتس امرس پیٹھ۔ یہ سو یشھان
 چھوتی چھو بنان مگر واریاہ لوکھ چھنہ زمان و لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا توپتہ یلہ حضرت
 یوسف ووت تو بھس کما کس یعنی کامل جوانی عطا کورسہ تس گانہ جارتہ علم و کَذَٰلِكَ نَجْزِي
 الْمُحْسِنِينَ نتھے پاٹھ چھہ اس رتھہ کامہ کرہ و نین رت جزا و دان و رَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ
 نَفْسِهِ بیہ ج پتہ حضرت یوسف سو زمانہ سمسیدس گرس منز سو اوس ٹھنہ حسن و جمال و بھت
 چھہ کامہ خیطرہ۔ اکہ دوہہ لو بن موقعہ رٹن تم خلوت و غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ ٹھن ہند دروازہ کرن بند
 وَقَالَتْ هَيْبَتُكَ توپتہ ج پتہ جلد پہن ولہ۔ میون تمنا کر پورہ تمود و ٹھس بیہ کس چھکھ و نان۔ دوہن
 رتھہ چھسی و نان بو کھر تھس تارہ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ حضرت یوسف دو ٹھس پناہ بخدا یشھہ تھسی مہ مگر اِنَّهُ
 رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ پنز پاٹھ ام چان خاندازن عزیز مصرن رو چھس بو، پولس یور رتھہ جلیہ تھو و ٹھس
 بو کیاہ بو کرا تھہ احسانس بدل تمسند عزت و انعداریہ گو سراسر ظلم اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ پنز پاٹھ
 ٹھن ظالمن تہ حق فراموش ہندہ خیطرہ چھنہ کانہہ کامیابی۔ اکثر چھہ امہ قسمک لوکھ زیادہ دنیا سی منز
 ذلیل تہ رسواسپدان آخر تک و بال گو آتھی و لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ بَرَّهَانَ رَبِّهِ
 پنز پاٹھ زلیخایہ کر یو قصد تمن لٹھہ پیٹھ کامہ ہند۔ تموتہ ہر گاہ نے تم و چھہ بن پنہ نس ہرود گارہ سزمن

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۲۳﴾ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۴﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲۵﴾

دلیل مگر تمہند ارادہ غز۔ محس در جس ووت نہ۔ بلکہ تمہند ارادہ اوس روزہ دارہ سند آب سرد و پھت آہس
 کن رغبت سپدن ہیو۔ تمہ رغبتہ سیت و ہنہ روزہ پھٹان۔ بلکہ چھور رغبت سپد تھ پئن پان پتھ رُن تہ صبر
 کران باعش اجرو ثواب بنان کذلک لِنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ تھ پانھ ڈیت اسہ تمن توفیق
 عصمتک تھ دور کرو اس تمن نشہ بدی تہ پیچھ کوم اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ بے شک سو حضرت
 یوسف چھو سانو بر گزیدہ بندواندرہ، پیغمبر واندرہ تمن عصمت و پاک لازم چھہ۔ امہ زلیخا یہ کوریہ پئن
 خیال پیش۔ حضرت یوسف تُل پئن پان بچاونہ خیطرہ سو دور پیچھ پتہ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ
 قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ دو شوے دورے یہ دروازس کن حضرت یوسف تُلنہ خیطرہ، زلیخا تمن رہنہ
 خیطرہ۔ تمہ لای تمن تھپ سو آہ ہنزہہ کرہینہ تھز کن کرتن آہہ تھیتھ تَوَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ
 دو شون سمکھ خاوند زلیخا یہ ہند دروازس تل زلیخا ویر یہ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ
 يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ زلیخا یہ دوپ کاہنہ سزا چھونہ تس شخص لیس چانین باذن سیت تھہ کامہ
 ہند ارادہ گرہ مگر ای زہ سو یہ جیلخانس منز بند کرنہ یا ایس سخت دردناک عذاب کرنہ قَالَ هِيَ
 رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي حضرت یوسف دوپ یہ چھہ مہ کن اشارہ کران حالانچہ یہ چھہ پتہ لجرہ مہ۔
 مہ نشہ پئن مطلب کڈنہ خیطرہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا اتھ موقعس پیچھ دژ گواہی تمسندوی رشتہ
 دار و منزہ اک شیر خوار بچن حضرت یوسف سندس بری تہ پاک آس پیچھ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ
 قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ تمو دوپ ہر گاہ حضرت یوسف سز کرتن برو تھمہ طرفہ تھیمو

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ
 الصّٰدِقِيْنَ ﴿۷۸﴾ فَلَمَّا رَأٰ قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ
 كِبِدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿۷۹﴾ يُوْسُفُ اَعْرَضُ عَنْ هٰذَا
 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ۗ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ﴿۸۰﴾ وَقَالَ
 نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتْحَهَا عَنْ
 نَفْسِهَا قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ إِنَّا لَنَرٰهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۸۱﴾
 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا

آسہ، تلبہ، چھہ زینجا پوزوان۔ حضرت یوسف چھو تھہ بدل وانان وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ
 فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ہر گاہ تہنہ کرتن تہنہ کنن ژ ھیمہ آسہ تلبہ چھہ زینجا پوزوان حضرت
 یوسف چھو پوز زبور فَلَمَّا رَأٰ قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ عَظِيْمٌ ھیمہ
 تمسہہ خاوندن وچھہ تہنہ کرتن تھنہ کنن ژ ھیمہ وہن زینجا یہ کن یہ چھہ تہنہ شیطنت تہ چالاک۱۔ پوز پاٹھ
 تہنہ مکرو فریب تہ شیطنت چھہ سیٹھاہ ہنڈ یُوْسُفُ اَعْرَضُ عَنْ هٰذَا اے یوسف امہ نشہ پھیرو، یہ
 تھہ ژٹو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ۗ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ای زینجا ژہ منگ معافی پنہ نہ
 قصورہ خیطرہ۔ بیشک ژی وچھہ خطاکار تہ مجرم۔ تو پتہ سپدیہ معاملہ مشہور شہرس اندر چنانچہ وَقَالَ
 نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتْحَهَا عَنْ نَفْسِهَا مصرس اندر لجرہ واریاہ زنانہ ونہ عزیز
 مصرہ سزہہ آسہہ چھو دل لوگمت پنہ نس غلامس پتھہ۔ سنو چھہ لجرہ پتہ تس غلامس پنن ناجاز مطلب کڈنہ
 خیطرہ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا تمسہہ دل چھو پھمت تہنہہ محبتہ سیتہ اِنَّا لَنَرٰهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اس
 چھن سوزانان ڈھمہ۔ کیاہ گوس وارہ کارہ رُون آسٹھہ نو کرس پتھہ پھس۔ یہ کاژاہ سوائی تہ نجالت چھہ۔
 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ہس ھیمہ زینجا یہ بو ززانن ہنہ یہ بدگوئی تہ ملامت کرن۔ تمہہ

وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿۳۱﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فاستَعصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرْنَا لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصُّغَرِيِّنَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ

سوزن نادر دوتیک ای زمان تو به همه میانہ گره دعوت و اعتدات لهن منکا سجاوتھ تھادن تہندہ
 خیرہ مندہ، تکیہ وار تو پتہ یلہ تمہ زمانہ آہ تم برونھ کنہ آہی تھانہ کھینہ چینک چیز بیہ واریاہ میوہ تمو
 منزہ واریاہ میوہ شر اکہ پچوسیت ژئس قابل آس۔ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا لہذا وئن پریتھ
 اکس تموز ناواندرہ اکہ اکہ شر اکہ پچاہ میوہ ژئس خیرہ (یلہ تمہ زمانہ مشغول سپرہ میوہ کھینس سیت
 وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ زلیخایہ ڈوپ حضرت یوسف ہم بیہ کنہ محض منز آسہن تہہ نیر وناپیر تم
 زنان برونھ کن۔ چنانچہ درای تم قَلَمًا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ لہس یلہ تموز ناواندرہ حضرت یوسف وچہ سینھاہ
 بوڈگنز روڈکھ حسن وجمال اندر۔ سو وچھتھ ویر بیہ ہوش روڈکھ نہ کینہہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ توپتہ
 سپرہ بے اختیار میوہ بدل ژئکھ آہہ پن وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ بیہ دوچھ منزہ تہ پاک چھو اللہ تعالی ماہنکا
 بَشَرًا بیہ حضرت یوسف چھونہ بشر (بشر اندر چھونہ تھہ حسن وجمال آسہ وچھنوی) إِنْ هَذَا
 الْأَمَلَكُ كَرِيمٌ بیہ چھونہ مگر عزت وول ملاک۔ انسان اندر کتہ چھو تھہ حسن وجمال آسان البتہ ملکہی چھہ
 آسان تھہ نندہ بان قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ زلیخایہ دوچھ یوہے کیا گو سو صاحب سمندہ محبتہ
 چہ پامہ وژدہ توہہ مہ کہہ زلیخایہ چھو غلامس پتھ دل لوگمت۔ آوہ وون بوزنہ بوما چھس بل متھو۔ خیرئس
 بیہ ونہ تہ تہ مہ چھونہ کانہہ ہزن پامن ہندہ ووا۔ بوچھس نن پاٹھ ووان وَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ پز
 پاٹھ مہ کمرئس اتہ گھہ۔ تھند دل پائس کن پھرنہ خیرہ کہہ سوکرہ نامیان خواہش پورہ فاستَعصَمَ مگر تم
 کمر کوشش معصوم تہ پاک روزئج۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرْنَا وَنہ تہ چھس بونان ئس ہر گاہ نہ سو میان

إِلَى مَّيَايِدُ عُونِنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
 إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۳﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ
 كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ بَدَأَ الصُّورَ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا
 الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴿۳۵﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنٌ قَالَ

خواہش پورہ کرہ لَيْسَجُنَّ وَلِيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ تلو لہ سو ضرور قید تھاوند۔ بیہ سپدہ سو بے قدر تہ
 بے اعتبار۔ یمہ زنانہ اتھ جلسہ منز آسہ تمو دوپ زلیخا یہ کہ اس مانراوون یہ۔ آسہ دکھنا اس سیت تھ
 بات کرنک اجازت۔ تمہ دو پکھ ادہ کیا۔ کنیزہ ہا ہے کمرہ ہو۔ چنانچہ تمہ در لہ لہ اس سیت اس بت
 فریفتہ سہزموہ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَيَايِدُ عُونِنِي إِلَيْهِ حضرت یوسفن یلہ وچھہ زنانن ہند یہ
 حال کہ کو پاٹھ کنیزہ سہہ اگادہ سمن کیاہ بنہ۔ چنانچہ تمو کو روعا۔ مویکھہ خدا بس ای میانہ پروردگارہ قید
 خانے چھومہ زیادہ ہند تمہ پکھ کامہ خوتہ تھہ گن مہ سہہ زنانہ نادووان چھہ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ
 أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ای میانہ خدا یہ ژہ لے دور کرکھ تہ پھیر کہ مہ نشہ تھند مکرو فریب
 خبر چھا بوماسپدہ مایل سمن زنانن گن۔ بیہ بند بوناد انواندرہ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ
 پس کور اللہ تعالیٰ ان اجابت تھندس مگننس سمن زنانن ہند مکرو فریب پھرن سمن نشہ
 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑپاٹ سو چھو دعا بوزہ ون سیٹھاہ زانن وول۔ ثُمَّ بَدَأَ الصُّورَ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا
 الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّى حِينٍ تمہ پتہ آو بوزنہ سمن قرین مصلحت کینہہ کالاہ حضرت یوسف
 قید تھاون۔ باوجود اینکہ تمو آس واریاہ نشانہ تہ علامات تھندہ براء تک تہ پاکی ہند وچھمت۔ مگر عوامن
 اندر تمیک چرچہ منقطع کرنہ خطیرہ ہیہ ووپر شہرک اکھ بے کس انسان غلامی ہندس حالس اندر سمن ٹہہ
 کرہ ہاسمایت چنانچہ تھاوک تم بے جرم کینہہ کالاہ جیل خانس اندر وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنٌ بیہ وات
 سمن نشہ قید خانس منز نوجوان جورا پادشاہ سند یو خد متگا رواندرہ۔ اکھ اوس ساتی۔ بیاکھ اوس ژوچہ
 ٹھران۔ سمن دون متعلق اوس یہ جرم سمن پیٹھ اوس شبہ کہ سمن آس پاد شہس زہر د تھ مارن یشھان

لَنَآنُ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا
 وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۸﴾ يُصَٰجِبِي
 السَّجْنَ ءَآرِبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرَ ٱمْرِءٍ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿۳۹﴾
 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا ٱسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ
 ٱبَآؤُكُمْ مِمَّا أُنزِلَ ٱللَّهُ بِهَِا مِنْ سُلْطٰنٍ ۙ إِنَّ ٱلْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ
 ۙ أَمَرَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ ۙ إِلَّا ٱيَّاهُ ذٰلِكَ ٱلَّذِينَ ٱلْقِيَمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ يُصَٰجِبِي السَّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمْ

چیزه ائنه چیزس اندر ذلک من فضل الله علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ستمه
 قسمگ صحیح اعتقاد آن چھو خدایہ سزبڈ مہربانی تہ بود فضل اسمہ پیٹھ تہ بیہ سارنی لوکن پیٹھ۔ لیکن واریاہ
 لوکہ چھنہ اتھ نفس قدر کران۔ اسمہ حاصل کرچ کوشش کران یصاجبی السجین ءآرباب
 مُتَفَرِّقُونَ خَيْرَ ٱمْرِءٍ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ای میانو قید خانہ کیو دو یور فیقو تھی ونسو کیاہ واریاہ معبود آن
 الگ الگ چھارت بکنہ کنوی معبود آن۔ نس قوتہ ول چھو۔ امیک جواب چھو ظاہر کہ کنوی معبود
 چھورت مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا ٱسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَٱبَآؤُكُمْ تہ چھو نہ عبادت کران
 خدائس ورای مگر کنہون ناون ہنز ستم توبہ بیہ تہند یو مایو بڈ بیو تھومت چھہ کنہون پو تیلن مقرر کمر تھ
 مِمَّا أُنزِلَ ٱللَّهُ بِهَِا مِنْ سُلْطٰنٍ ۙ اللہ تعالیٰ آن چھنہ سوز مژ تہندہ معبود آسنہ خیطرہ کانہہ دلیلاہ۔ نہ عقلی
 نہ نقلی۔ إِنَّ ٱلْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ستمہ کلمہ ہندہ حکم دنگ اختیار چھونہ کانہہ خدائس ورای أَمَرَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ
 إِلَّا ٱيَّاهُ تم چھو حکم کورمت ای زہ کانہہ ہنز عبادت مہ کمر و مگر تہزی یاژ۔ اتھ حکم پیٹھ گڑھہ عمل
 کران ذٰلِكَ ٱلَّذِينَ ٱلْقِيَمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ یوہے چھو یعنی اللہ تعالیٰ ای مخصوص
 کوزن توحید و عبادتہ سیتہ راہ راست تہ سیز و تھ۔ مگر واریاہ لوکہ چھنہ زانان۔ یہ کتمہ چھنہ اختیار

فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ
 مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝۳۱ وَقَالَ
 لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ
 الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝۳۲
 وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُودَاتٍ خُضِرَ وَأُخْرِي بُسَّتْ بِأَيْهَا

کران یصاحبی السجین اما احدکما فیسقی ربہ خمرًا ای میانو قید خانہ کیور نیتو توہمہ اندرہ
 نئس اکھ شخص پادشہس شراب اوس چاوان۔ سو سپدہ جزومہ نشہ بزی۔ تو پتہ سپدہ پنہ کامہ پیٹھہ بیہ
 بحال۔ تو پتہ ہیہ سو بیہ پنہ نئس مالکس شراب چاون کام کرن و اما الآخر فیصلب فتاکل الطیر من
 رأسمہ وون نئس بیاکھ زون چھو نئس پادشہہ سُد باورچی تہ ژوچہ ٹھرہ ون اوس تمس پیٹھہ سپدہ جزم
 ثابت۔ تو پتہ ہیہ سو پھہہ ونہ۔ تو پتہ کھن جانور تمسدہ کلک کوڈ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ
 یہ فیصلہ چھو آنت کرنہ خدلیہ سدہ طرفہ۔ سمیک تہہ پر ژھان چھوہ۔ اتھ سپدہ نہ ادلہ بدل وَقَالَ
 لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا تو پتہ وون حضرت یوسفن سمو دویو اندرہ تس شخص نئس نجات لئین
 اوس تہدہ گمانہ اذکُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ میون تذکرہ کور تھ ژہ پنہ نئس آغس تہ مالکس نشہ یلہ ژہ تس
 نشہ واتک کہ قید خانس منز چھو اکھ شخصاہ بے قصور فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ نئس مشروو تس
 شیطان آغس نشہ حضرت یوسفن حال بیان کرن فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ تمہ موکھ رود
 حضرت یوسف قید خانسی اندر کیمنون ورنن وَقَالَ الْمَلِكُ مصرک پادشہن دوپ مہ وچھہ خواب۔
 ساری ارکین سلطنت کرن جمع إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ مہ وچھہ
 خوابس اندرست (ک) گاوہ وچھہ وچھہ۔ تمنی کھیوان ست (ک) گاوہ ہو چھمڑہ تہ لاغر وَسَبْعٌ سُودَاتٍ خُضِرَ
 وَأُخْرِي بُسَّتْ بیہ وچھم ست (ک) ہیل غلک سبز تازہ بیہ (ک) ہیل ہو کھمت۔ تے وولنہ یوان سر سبز ستن

الْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿۳۳﴾
 قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿۳۴﴾
 وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا وَادَّكَّرَ بَعْدَ آيَةِ أَنَا أَنْبَأُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ
 فَأَرْسَلُونِ ﴿۳۵﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
 سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
 يَبْسُتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ

ہمیں تو پتہ تم سے ہو کت گڑھان یَا أَيُّهَا الْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ای
 درباریو بیان کمر و تعبیر میانہ خواہگ چھوے نہہ خوانن ہند تعبیر زانان قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ
 وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ تمودوئس سم چھہ پریشان خیالات۔ اس چھنہ امہ قسمہ کین خوانن
 ہند تعبیر کینہہ زانان۔ کیا زہ اسہ چھہ ملکی انتظام کرنی مہارت۔ تعبیر خواب بیان کرنی مہارت چھنہ
 اسہ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا تُوپتہ دوپ تم شخص نس قید خانہ منزہ موکلیومت اوس، مقدس منزبری
 سپد مت اوس پادشہس نشہ بیہ وومت اوس تمودویدو زینو اندرہ یم قید خانس اندر حضرت یوسف سیت
 آس وَاذْكَرْ بَعْدَ آيَةِ تَس بِه زیتس واریاہہ کال حضرت یوسفہ سنزوصیت یوسہ تموقید خانہ منزہ
 نیریحہ وقتہ کر مرآ اسہ۔ تم دوپ أَنَا أَنْبَأُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسَلُونِ بودوہہ توہہ تعبیر مہ دیو نہہ
 اجازت قید خانس تان گڑھگ۔ تمودیت ہس اجازت تہ سُو آو حضرت یوسف نشہ۔ عرض کوزن
 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ ای حضرت یوسف نہہ ہز چھوہ سیضہہ پوزتہ صحیح تعبیر کردون أَفْتِنَا فِي سَبْعِ
 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتُ اسہ کمر تو بیان سمہ خواہگ
 تعبیر کہ ستن و پھن گاوان چھہ (سب) ہو چھوہہ گاوہ کھوان۔ بیہ چھہ ست ہیل سبز تہ ست ہیل
 ہو کھمت۔ تم ست ہیل تہ چھہ ستن ستن ہیلن ونہ سیت ہو کھراوان۔ ای چھو اکھ شخصہہ خواہس
 منزو چھان۔ نہہ فرماو یو امیک تعبیر لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ پتہ بو واپس گڑھہ ہاتن

سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
 مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۳۷﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا
 قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۳۸﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿۳۹﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَوَيْتُمْ
 إِلَيَّ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ
 النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿۴۰﴾

لو کن کن سمو بوسومت چھوس۔ سخن بو تھیجھ آمت چھوس تھیجھ تمن امیک تعبیر معلوم سپدہ۔ تمی
 ذریعہ سپدہ تمن تہمز حقیقت کمال معلوم قَالَ تَرْزَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا حضرت یوسف دوپس تہہ
 وودوارہ پاٹھ غلہ سخن ورہن پونس تہہ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ پس
 یہ کہنہ ہائہہ لونوتہ سوزوی تھاووتہہ ہلینی منز جمع کمر تہہ۔ مگر نہ کم کہنہ ہاہ ہس توہہ کہنہس پوشہ تھو یاتی
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ تو پتہ سن یہ (ک) وری سیٹھاہ سختی ہندتہ قحطک يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ تم (ک) وری کہن تہہ غلہس ہس توہہ جمع کمر تہہ تھوومت آسوہ ذخیرہ کر تہہ یمن
 سختی ہندین ستن ورہن ہندہ خیطرہ مگر نہ سوجھہ ہس تہہ مخصوص تھاووبیالہ خیطرہ۔ ستوگاوتہ ستوہیلو
 اندرہ چھو اشارہ یعنی سخن ورہن کن۔ تھو یاتی مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

تمہ پتہ پیہ آکھ وریاہ۔ تہہ منزایہ لو کن پیٹھ رود تراونہ کافی۔ تہہ ورہس منز چیرن لو کہ میون ہند رس
 یٹھ شراب تیار کرن۔ یہ تعبیر بلہ بوزاد شہن سگو خوش چنانچہ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَوَيْتُمْ إِلَيَّ پادشہن کور حکم
 یہ تعبیر بیان کرہون شخص دیون مہ انتہ۔ بو چھن یہ کہہ صاحب چھو فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ
 إِلَىٰ رَبِّكَ ہس بلہ تمن نشہ پادشہہ سندا قاصد آو پیغام یٹھ تھوودو ہس تھہ گڑھہ واپس پتہ ہس مالگس نش۔
 فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ہس پر تھہ گوڈہ کیاہ تس چھا معلوم تمن زمانن ہند حال
 سمو بوو چھت پنن اتھ تچای۔ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ پنز پاٹھ میانس خدایس چھو تہند مکر تہ

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِي يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ
 لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ
 أَحْكُنَّ أَنْ رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۵۱﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ
 أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿۵۲﴾
 وَمَا أBRئِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا

فریب پورہ معلوم۔ تمہن زنانہ ان نادرتھ تمہن پر ژہن میون حال۔ بو چھو سہ بے قصور کنہ مہ چھو
 کانہ قصورہ چنانچہ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِي يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ پادشہن اَنہ ناوہ تمہ سارے زنانہ
 نادرتھ۔ تو پتہ پڑھکھ کیاہ کیفیت چھہ تمہن یلہ تمہ تہلاوان آسوں حضرت یوسف پتہ پانہ خیطرہ کیاہ
 توہرہ وچھوہ تمہہ ساتہ حضرت یوسف توہہ گن مایل سپان قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ساروی
 زنانو ڈوپ خدا چھو مٹرہ تہ پاک۔ اسہ وچھہ نہ حضرت یوسف منز کانہ خرابیاہ کانہ عیباہ۔ سو چھو
 بالکل پاک قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ أَحْكُنَّ الْحَقُّ عزیز مصرہ سزہ زنانہ (زیلیخا) یوسہ تمہہ ساتہ
 حاضر آس تہ وون۔ پترتھ سز وون سارنی پیٹھ روشن اَنَّا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ واقعی بوی آس تمہن
 اَنہ گتھ کران ہن خواہش تہ مطلب تمہن نیشہ پورہ کرنہ خیطرہ ہبہ تہند دل پانس گن پھر نہ خیطرہ کوشش
 کران وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ تمہ چھہ بے شک پوزونہ دینواندرہ۔ تمہو فر موگوونی ہی راودتنی عن
 نفسی تی چھو پوز۔ بوی آس کوشش کران تم پانس گن مایل کرن۔ مگر بوسپس تہ منز ناکام۔ یہ
 ساری کاروائی تفتیش یلہ قاصدن حضرت یوسف نیشہ بیان کمر تمو ڈوپ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ
 بِالْغَيْبِ تفتیش کر نوومہ امی موکھ یٹھ عزیز مصرس وارہ معلوم سپد کہہ مہ آسہ ہرگز تس خیانت کر مرث
 تسزہ عدم موجودگی منز تسدس عزتس و آبرواس پیٹھ دست درازی کمر مرث وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ
 الْخَائِنِينَ یہ یٹھ ساری زانن کہ اللہ تعالیٰ چھونہ سیزر کران خیانت کرہ و نین ہندس گنہ تدیرس۔
 وَمَا أBRئِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ بو چھو سہ نہ پٹن پان بری زنانہ کیا زہ پر تھ اکس

مَا رَجَعَرَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۳﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿۵۴﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ ﴿۵۵﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوهُمِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۶﴾ وَلَا جُرْأِخْرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۷﴾ وَجَاءَ

چھو نفس پیچھ کا میں ہند امر کران الا ما رجع ربي مگر تیس میوں پروردگار رحم کرہ ان ربی عفور رحیم پڑ پانچھ میوں پروردگار چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي بیہ کور حکم پادشہن ایون جلد حضرت یوسف مہ نش۔ یوناون سو پین مشیر خاص فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ اودہ یلہ حضرت یوسف آو پاد شہس سیت کر کیہ واریاہ کتھہ۔ کتھواند رے سپڑس معلوم تھند فضل و کمال۔ دمن تمن بیشک تہہ چھوہ از اسہ نشہ سیٹھاہ تھزہ جایہ۔ معزز، معتبر تہ امانت دار خولہ کہہ تعبیر ک آؤ تھن اندر ذکر۔ پادشہن دو پکھ۔ ایہہ بڈہ قحطک انتظام کرن چھہ بڈ کوم بیہ کس گزوسپرد قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ حضرت یوسف فر موس مہ بناو تہہ حاکم سہہ ملکہ کین خزان ہند (یعنی مشیر مال، وزیر خزانہ) اِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ پتر پانچھ بو چھوس ماس پور حفاظت کرہ ون۔ مالگ پورہ حساب و کتاب زانہ ون۔ چنانچہ بجای اینکہ تمن کیا دیہ ہاکانہہ خاص عہدہ تہ مصباہ، پین ساری اختیارات کرن سپرد تمنی۔ تحقیق اندر آس پادشاہ تہ۔ بادشاہ رُود پانہ برای نام۔ سم سپد مشہور عزیز مصرہ کہ لقبہ سیت وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ بیہ دیت اسہ پور قبضہ تہ اختیار حضرت یوسف اتھ سر زمین مصرس اندر يَتَّبِعُوهُمِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ڈیرہ اوس دوان، عیش و آرام اوس کران تیتس خوش کرہ، ہس تہہ زمینہ اندرہ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ اس چھہ واتناوان پین رحمت تیس یضو تہ تہس۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اس چھہ ضایع

اِحْوَةَ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُوْنَ ﴿۵۸﴾
لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ اِنتُوْنِيْ بِاِخِيْ لَكُمْ مِّنْ اٰبِيْكُمْ اَلَا
تَرُوْنَ اَنِيْٓ اَوْفِي الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۵۹﴾ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ
بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرُبُوْنِ ﴿۶۰﴾ قَالُوْا سَرُّوْا دُعَاۡنَهٗ

کران نیکو کارن هنرمزور واکبر الاخوة خیر الذین امنوا وکانوا یَتَّقُوْنَ بیه جهه آخرت مزورته آخر
سیٹھا بہتر تمن لوکن ہمدہ خیرہ سمو ایمان اون بیه آس کھوژان خدائیس۔ بعضی تفسیرن اندر چھو کہ
تمنی دوہن اندر گومنز تھ بروٹھیوم عزیز مصر۔ زلیخا ہمد نکاح سپد حضرت یوسف سیٹ۔ الغرض
حضرت یوسف سپد باختیار پادشاہ۔ سمو وہ نووز مینس اندر سیٹھا غلہ توپتہ تھو کہ سو جمع کمر تھ
مھو ظ۔ قحطک (سٹ) ڈرہ یلہ شروع سپد سمو ہیوت سو غلہ لوکن اندر تقسیم کرن۔ ڈورہ ڈورہ پیٹھ ہین
لو کہ غلہ حاصل کرنہ خیرہ ہین۔ کنعانس منزرتہ سپد قحط وچآء اِحْوَةَ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ
وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُوْنَ توپتہ آی حضرت یوسف سد بائی تہ کنعانہ پیٹھ۔ توپتہ ژای تھندس دربارس اندر۔
تمو پرزہ ناو تم۔ مگر سمو پرزہ نوونہ کینہہ حضرت یوسف کیا زہ واریاہ کال اوس منزہ گو مت۔ بیه اوس نہ
تھندس وہم وگمانس منزکہ تم کیا آسن اتھ تھندس مھس پیٹھ واتمت۔ تم کیا آسن بادشاہ بیٹمت۔ سمو
پر ژھکھ ٹہہ کیا زہ آوہ ہتھ شرس منز۔ دوپہک غلہ خیرہ۔ سمو دوپہک غالباً آسو ٹہہ جاسوس۔ سمو
دوپ پناہ بخدا اس ہجہ کنعانہ اہم تھہ خاندانک افراد۔ سون بابہ صیب چھو حضرت یعقوب خدایہ
سند پیغمبر۔ سمو پر ژھکھ ٹہہ کمرہ بائی چھوہ۔ سمو دوپ اس اس باہ بائی۔ اکھ یوی چھو لاپتہ۔ سو اوس
زیادہ ٹوٹھ بابہ صییس سانس۔ تمند سکھ بوی روٹ بابہ صیین پینہ تسلی خیرہ پانس نشہ۔ باقی وہ (۱۰)
بای آی اس توہہ نشہ غلہ معجہ۔ سمو کور حکم تم تھو یو کہ شاہی مہمان خانس اندر۔ تمن کمر و جان پاٹھ
خاطر و تواضع و لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ توپتہ یلہ تیار کورن تھند سامان غلہ وغیرہ قَالَ اِنتُوْنِيْ بِاِخِيْ
لَكُمْ مِّنْ اٰبِيْكُمْ دوپکھ یلہ تہہ بیه پیو یو مال بوی ہن انزان مہ نشہ بو چھہ تھندون چھا واقعی پوز۔ اَلَا

فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۶۴﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا
مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا بَانَ مَا
نَبَغِيَ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَنَا
وَنَزِدُكَ كَيْلًا بَعِيرٍ ۖ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿۶۵﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ
مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ
يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا اتُّوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۶۶﴾

پیٹھ۔ لہذا اگر بنیامین نیون پانس سیت خدائیس حوالہ فاللہ خیر حفظاً وھو ارحم الرحیمین کس اللہ
تعالیٰ ای چھوڑت راچھہ کرہون۔ بیہ چھوسوی یژرم کرہون ساروی اندرہ۔ میانہ محبتہ تہ شفقتہ سیت
کیاہ اندہ۔ ولما فتحو متاعہم وجدوا بضاعتہم ردت الیہم امہ گفتگو پتہ یلہ تموسامانہ پن
موروتہ منز وچھکھ غلک قیمت نیس سمودیمت اوس ستہ تمن واپس کرنہ آمت قالوایا باناما
نبغی دینہ لگ تم ای سانہ بابہ صبیہ امہ خوتہ کیاہ ژھانڈواس ہذہ بضاعتنا ردت الینا کیا اسہ
چھو کہ غلک قیمت تہ واپس دیمت۔ امہ قسمگ چھو پادشاہ مصر فیاض تہ محسن۔ لہذا چھونہ مناسب
تہمدس حکمس بدل کرن۔ دیون امہ سیت بوی سون بنیامین ونمیر اھلنا ونحفظ اخانا ونزدا کیکل
بعیر ذلک کیل یسیر تہمدہ سیت انواس کافی غلہ عیالہ خیطرہ۔ بیہ گرو باس راچھہ۔ بیہ انواس علاوہ
اکس ووتس لد تھ غلہ تھند حصہ۔ موجودہ غلہ چھوسانہ خیطرہ کمی یہ پوشہ نہ زیادہ کاکس قال لَنْ
ارسلہ معکم حتیٰ تؤتوون موثقاً من اللہ لتأتونی بہ إلا ان یحاط بکم حضرت یعقوب بن دوطکھ
خیر تھتھس صورتس اندر چھونہ چارہ کینہ سو توبہ سیت ولس اندر۔ مگر بوکتہ دمن یہ توبہ سیت یوتان نہ
نہہ خدایہ سند قسم باوتھ مہ سیت عہد کمر کہ نہہ کیاواتہ تاویون سو ضرور واپس مہ نشہ مگرے نہہ ساری
ولنہ بیوکتہ بلا یہ سیت تلہ چھہ مجبوری۔ چنانچہ ساروی کوراتھ پیٹھ قسم فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی
ما نقول وکیل ادہ یلہ تموس حضرت یعقوبس عہد و قرار دیت تموس دوط اللہ تعالیٰ ای چھوسانس ونہ نس

وَقَالَ يَبْنَیْ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنْ
 أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
 إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۶۷﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا
 كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ
 يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

پیٹھ گواہ تہ شاہد امہ پتہ دیو یٹھ بنیامین تیکن بائیں سیت۔ رخصتمہ وقتہ دو پیٹھہ وقال یبئی لاتدخلوا
 من باب واحد ای میانو فرزند و پیٹھہ مصرس منز اثر و تہہ ساری اکی دروازہ کن خبر چھاتمہ سیت
 مالگوہ چشم زخم و ادخلوا من ابواب متفرقة مصرس منز اثر زہ الگ الگ دروازو کن ترہ ترہ شور
 شور زن۔ مصرس آس تمہہ وقتہ شور دروازہ و ما اغنی عنکم من اللہ من شیء بو پیٹھ نہ دور
 کمر تھ توہمہ نیشہ تمہہ تجویزہ سیت خدایہ سدہ تقدیرہ نیشہ کانہہ چیزہہ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ
 حکم چھونہ مگر خدایہ سندوی حکم عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ تِس پیٹھ چھوس بو اعتماد تہ ڈوکھ کران
 وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ تِس پیٹھ گواہہ توکل کرہہ و نین ہند توکل کران بیہ نہ کانہہ پیٹھ۔ تِس
 تِس پیٹھ توکل کرہہ تِس چھوسو تِس و لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ تِس یلہ زای تم مصرس
 منز پیا رکن تجویز او سٹھ کورمت بابہ صمین پنن مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ امہ تجویزہ
 سیت بیٹھ ہانہ تمن بچاوتھ خدایہ سدہ حکمہ نیشہ کانہہ چیزہہ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا
 مگر امہ تجویزہ اندرہ اوس مقصد حضرت یعقوبس پنن اکھ ارمانا پورہ کران۔ تِس تمہہ وقتہ تمہو ظاہر کور
 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ بیشک سو چھوزان وول تمن چزن تم اسہ سو چھوسو و لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوکھ چھنہ کینہہ زانان تم چیز و لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ توپتہ یلہ زای تم
 حضرت یوسفس نیشہ اُوئی اِلَيْهِ اَخَاهُ تم روٹ یوی پنن (بنیامین) پانس نیشہ قَالَ اِنِّي اَنَا اَخُوكَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ
 أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷۹﴾
 فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رُحْلِ
 أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ۹ أَيَّتَهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ ﴿۸۰﴾ قَالُوا
 وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿۸۱﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ
 الْمَلِكِ وَلَيْنَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۸۲﴾
 قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دو پئس بوی چھوس چون بوی (یوسف) ژہ مہ بر غم تمیک کینہہ یہ ہای
 آسہ نسبت کران آس فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ تو پتہ یلہ تیار کرنوون ٹہند سامانہ جَعَلَ
 السِّقَايَةَ فِي رُحْلِ أَخِيهِ حضرت یوسفن تھادہ نوو پتہ آب چینگ بانہ ہای سندس سامانس منز۔
 تو پتہ یلہ تم روانہ سیدت شہرہ نمبر واتِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتَهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ تم پتہ دیت
 آلو اک آلودہ ون ای قافلہ والیو تہہ چھوہ پزپاٹ ژور قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ تم لگ
 ونہ تم ن پھیر تھ تہہ کیاہ چھوہ رومت قَالُوا حضرت یوسفہ سند یو ملازمو دو پتہ نَفَقْدُ
 صَوَاعِ الْمَلِكِ آسہ چھہ رومت بادشاہ سندہ چینگ بانہ سمہ سیت سو تو بہ غلہ دو ان اوس من من
 وَلَيْنَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اُس سو بانہ تو بہ اندرہ اتھ دیہ تہ پیش کرہ کس دمواکھ ووتہ
 بار غلک انعام۔ بو آلودہ ون چھوس تمہہ خیطرہ ذمہ دار قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي
 الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا لَسْرِقِينَ تم دوپ قسم خدا تہہ چھوہ وارہ زمان کہ اس چھنہ آمت تباہی کرنہ
 خیطرہ یورہیہ چھنہ سان کوم ژور کرن قَالُوا فَمَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا لَسْرِقِينَ

كُنَّا سَرِقِينَ ﴿۴۳﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۴۴﴾ قَالُوا
 جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي
 الظَّالِمِينَ ﴿۴۵﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ
 اسْتَخْرَجَهُمَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا
 كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ
 دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ ﴿۴۶﴾ قَالُوا إِنْ

وَن اڀرڊر او تله ڪيا ه ڇو ته منڊ سزا قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ تمودو ه ڇو ته ميگ
 سزا ه ڇو ته نس شخصه سنڊه سامانه منزه سو چيز نيره۔ سوئ شخص ه ڇو ته ميگ سزا يعني سو گرهه گرفتار ڪرڻ نه
 غلام بناون كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ تهه پاڻ ه ڇو ته آس ظالمين يعني ٿورڻ سزا اوان ڇنه دينه
 موجب۔ توپه ان ه ڇو ته تم وائس حضرت يوسف نسه فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ توپه ڪرناو
 تم تلاشي ٿيڻ بائن هندين خور جنڊن ڀنه نس باي سنڊس خور جنڊس تلاشي ڪرڻه برو نه ه ڇو ته
 اسْتَخْرَجَهُمَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ڀنولا ڪه ڪڏه نوون سو چيز ڀنه نس باي سنڊه خور جنڊه منزه۔ ڀه ڪور تمو
 ا ه بهانه بنيامينه سنڊه پائس نسه رنه خيتره تمن سبت مشوره ڪر تهه كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ تهه پاڻ ه
 ڀڄهه ناواسه تدبير حضرت يوسف بذريعه الهام مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ نه اوس نه
 ممڪن سو ڪيارهه ها بائس ڀنه نس پائس نسه بادشاهه مصره سنڊه قانونه موجب ڪيازه تمسنڊس قانونس
 منزه اوس نه ٿور گرفتار ڪرڻ بلڪه اوس ٿورس ڪينبه تنبيهه ڪر تهه يله تر اوان إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مگر
 خدائيه سنڊي يرهنه سبت تمهي يو ٿهه ته ڀه آو بعل۔ تم تر ووا الهام حضرت يوسف سنڊس ولس اندر
 يعقوبن شريعته موجب ٿورس سزا اديون۔ تي ونه نوون تمنن بائن هنزه زيوه تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ
 تهه ر اوان ه ڇو ته اس درجه علمس اندر تس شخصه سنڊ سنڊس اس يرهنه۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ
 پر تهه علمه ولس ڀڄهه ممڪن ه ڇو ته منڊه خوته زياده عالم۔ الله تعالى ه ڇو سارني مافوق۔ تمسنڊ علم ه ڇو سارني

يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُو لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي
 نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
 بِمَا تَصِفُونَ ﴿۴۷﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا
 كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۸﴾

احاطہ کثرت علم مخلوق چھو ناقص۔ علم خالق چھو کامل۔ لہذا چھو مخلوق محتاج پنہ نس علم و تدبیر س
 اندر خالقه سندس الہام والقاء س کن۔ حضرت یوسف دو چھ تو ہے دیوہ اس چھ پیغمبر زادہ یہ کیاہ
 کو روہ۔ ای پڑہ ہا توہہ کرن۔ تم گے سیٹھاہ شرمندہ۔ بنیامین آؤ تدبیرہ سیت تھاو نہ حضرت یوسف نشہ
 قَالُوا إِنَّ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُو لَهُ مِنْ قَبْلُ تمودوپ اگر بنیامین ژور کر تجب چھو نہ کینہہ کیا زہ
 اسمند سکھ با ی یوسف تہ چھ بروئھ ژور کر مر۔ سو قصہ چھو تھہ پاٹھ کہ حضرت یوسف یلہ والدہ پنہ
 سمہ عالمہ گبہ تمہ ہمز پرورش کرن تہزہ پو پھ یلہ حضرت یوسف بوڈ بہن گو ہو شیار ہو سپد حضرت
 یعقوب بن دوپ وون رٹن بو پانس نشہ۔ یہ گو تہزہ پو پھ ناگوار۔ تمو کوراکھ حیلہ دو چھ مہ روو کر بند۔
 سیٹھاہ ژھونڈ کھ مہ آونہ اٹھ۔ پتولا کہ وھ کھ اکہ دوہہ حضرت یوسف کرس گنڈ تھ۔ دو چھ یہ اوس
 حضرت یوسف ژورہ نیومت۔ لہذا ژورہ ہندمال نیس نشہ نیرہ سو چھو تھہ ماس بدل رنہ یوان۔ بورٹن
 حضرت یوسف پانس نشہ۔ یہ اوس اکھ حیلہ اکھ تہنڈہ پانس نشہ رنہ خیطہ تہزہ پو پھ پائے کورمت۔
 اٹھ کن کور اشارہ سمو وورہ بابو فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّدِهَا لَهُمْ کس تھاویہ تھہ پوشیدہ
 حضرت یوسف پانس نشہ۔ ظاہر کورن نہ تمن نشہ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ
 پان پانس سیت دو من جہہ چھوہ زیادہ بدتر ژور کر نس اندر نوی کھیوون بابہ صیس ژورہ کتھہ یکمنون
 پونس۔ ژور چھو مال غائب کران۔ توہہ کورون انسان غائب۔ یہ کتھ چھہ ظاہر کہ انسان ژورہ تھاون
 انکو اکرن چھو زیادہ بدتر مال ژورہ نہ خوتہ۔ اللہ تعالیٰ ای چھو بہتر زانان تہ یہ جہہ مہ نسبت ونان چھوہ۔
 ژورہ ہمز ہانژہ لاگان چھوہ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ دہنہ

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ الْإِمْنَ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ
 إِنَّا إِذًا الظَّالِمُونَ ﴿۹﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا
 قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ
 أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ

لگ ای عزیز مصر پڑپاٹھ تمس بنیا مینس چھو بڈہ عمر رسیدہ بابہ صیب تس چھویہ سیٹھاہ ٹوٹھ تس گڈرہ
 سیٹھاہ مشکل امس بدل رمعون اسہ منزہ اکھاہ سوی بناو تون پنن غلام انا اتراک من العینین اس
 چھت ژہ زانان بڈہ احسان کرہ ون۔ یہ تہ بے ژہ اکھ اخساناہ اسہ پیٹھ کرہ بچھ اس سپدہ ہو سیٹھاہ مشکور
 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ الْإِمْنَ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ حضرت یوسف دو پچھ خدائس چھوس بو
 پناہ منگان سمہ تھہ نشہ کہ اس کیار ٹون تس شخصس ورا ی ہہ کانہ تمس نشہ سون چیز دراؤ۔ ہر گاہ اس
 یژہ تھہ گرو انا اذ الظالمون تلہ چھہ اس سخت بے انصاف فلما استیسوا منہ خلصوا نجيا
 ہس یلہ یم حضرت یوسف نشہ نامید سپد بنیامینہ سندس ہیس اندر الگ سپد تھہ ہو پچھ پانہ وان مشورہ کرن۔
 اکثرن ہنر ای سپر کہ واپس پڑہ گوہن قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ہڈہی با ی دو پچھ ٹہہ چھوہ نازانان کہ بابہ صمین پنن چھوہ ٹہہ خدایہ سند قسم ہا ناومت
 تہ عہد کرناومت بنیامینہ سندہ حقہ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ بیہ چھوہ نازانان سمہ بروٹھ
 کثیر زیادتی کمر وہ توہہ حضرت یوسف سندس حقس اندر۔ تمن سیت اس بر تاو کورو، توہہ تمہ سیت کیتاہ
 حقوق سپد ضایع بابہ صمین۔ سو بروٹھم شر مندگی کیاہ کم چھہ وون گڑھویہ بیاکھ شر مندگی بیتھ بابہ
 صمیس نشہ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي کہس نیرہ نہ یوسفہ شہرہ اندرہ ہر گڑھنے جلیہ
 یوتان نہ اجازت دبیہ مہ بابہ صیب پنن۔ نت گمہ ہتھہ بیچہ یوسف بروٹھ کن ہتھہ۔ اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي
 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ یا کرہ اللہ تعالیٰ میانہ حقہ کانہہ فیصلہ۔ سو چھو بہتر فیصلہ تہ حکم کرہ ون۔ سو گوگنہ

خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ﴿۸۰﴾ اِرْجِعُوا اِلَىٰ اٰبِيكُمْ فَقُولُوا يَا اَبَانَا اِنَّ
 اِبْنَكَ سَرَقٌ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا
 لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا
 وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيْهَا وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۸۲﴾ قَالَ بَلْ
 سَوَّلْتُ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيْلٌ ط عَسَىٰ اللّٰهُ اَنْ
 يَّاتِيَنِيْ بِهِمْ جَبِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۸۳﴾ وَتَوَلَّى
 عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِيْ عَلٰى يُوْسُفُ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنْ

طریقہ سپدہ بنیامینہ سز رہائی تھہ سویتھہ سمہ بوبابہ صیس نشہ۔ اِرْجِعُوا اِلَىٰ اٰبِيكُمْ فَقُولُوا يَا اَبَانَا اِنَّ
 اِبْنَكَ سَرَقٌ بوروزہ ہیت جہہ گڑھو بابہ صیس نشہ۔ وینوئس بابہ صیائتھہ فرزند بنیامین حض کمر
 ژور تمہ موکھ آؤ سو گر فقا کر نہ۔ سو دیکھ نہ اسمہ سیت واپس وَا مَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا اس چھہ
 ونان مگر تی یہ اسمہ معلوم چھو۔ اسمہ وچھہ پنہ نیو اچھو تمسدہ باردانہ منزہ پادشہہ سند مین بانہ نیر ان
 وَا مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ اس ما آس غیبہ جن کھن راپھہ گرہ ون۔ معاہدہ کر چھہ وقتہ ماؤس اسمہ
 معلوم یٹھہ ہیو مشکل تہ لپہ پیش وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيْهَا سانہ
 تہ پڑھہ بہوہ جہہ پر ژھتو تمہ شہرہ کین لوگ تھہ منز اس آس یاتھہ قافلہ مین سیت اس واپس آئے
 وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ یقیناً چھوہ اس پوزونہ ون قَالَ بَلْ سَوَّلْتُ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَمْرًا حضرت
 یعقوبن دوپھہ بنیامین چھونہ ژور کر نہ موکھ گر فقا آنت کر نہ بلکہ چھوہ جہہ پنہ نی دلہ کتھہ تیار کران
 فَصَبْرٌ جَبِيْلٌ از تہ کرہ بو صبر برو تھمی پاتھہ شکایت کر نہ تمہہ قسمہ عَسَىٰ اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهِمْ
 جَبِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ شاید اللہ تعالیٰ ماواتا وہ تمن سارنی فرزندن مہ نش کیا زہ سو چھو پیشک
 سو روی زان وول سیٹھاہ حمہ وول وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِيْ عَلٰى يُوْسُفُ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنْ

الْحَزْنَ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۸۳﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَوَاتٌ ذٰكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى
تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿۸۵﴾ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا
بَنِيَّ وَحُزْنِيَّ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۶﴾
يٰۤاِبْنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاٰخِيَهٗ وَلَا تَايَسُوْا
مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَآئِسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۷﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا

الْحَزْنَ فَهُوَ كَظِيمٌ امہ پتہ پھر کھ بھجھ تمہن نشہ میں طرفس کن تو پتہ لگ ونبہ ہائے کوتاہہ غم ہجھوم
حضرت یوسف سند غمہ سببہ ودان ودان گمہ آہجھہ سفید۔ یہ غم آس اندر اندری شو پر او ان۔ سمہ سببہ
دس اوسکھ ہول قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَوَاتٌ ذٰكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ تم اولاد
لکھہ نہنہ قسم خدا جہہ جھوہ ہمیشہ، پر ہتھ وقتہ حضرت یوسف سند یاد کر ان یوتان جہہ سپد یوہ کنزورتہ لاغر
یاسد و امی وجہہ ہلاک۔ یوت غم کھینہ اندرہ کیاہہ فائیدہ جھوہ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنِيَّ وَحُزْنِيَّ اِلَى اللّٰهِ
تمبو دو پھکھ توہہ کیاہہ جھوہ میانس و دس تہ روس سیت۔ یو جھوس نہ پتہ رنج و غم گراؤ کر ان کا نہ تہ
خدا یس وراے توہہ جھسوہ نہ کھنہ تہ وناں وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ خدایہ سند معاملہ یوت
بوزانہ بیوت زانو نہ جہہ۔ جھند لطف و کرم جھوہ بے شمار یکتی اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاٰخِيَهٗ
وَلَا تَايَسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ای میانو فرزند و اظہار غم گڑھہ کرن خدایہ سی نشہ۔ مسبب الاسباب جھوہ
سوی یوت۔ لیکن ظاہری تدبیر کرس جھوہ کا نہہ حرج۔ جہہ گڑھو نا کھہ بھہرہ بیہ مصرس کن تہ کمر و
تلاش حضرت یوسف سند بیہ کر تو کوشش بنیائینہ سزہ رہائی ہنز۔ نا امید متہ سپد تو خدایہ سندہ رحمتہ نشہ۔
اِنَّهٗ لَا يَآئِسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ بے شک تہمدہ رحمتہ نشہ سپدہ نہ کا نہ تہ
نا امید کافر وورای۔ تو پتہ درای تم و ات بیہ مصرس منز عزیز مصرس سمکھہ خیطہہ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ
قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِهٖ ضَاعَةً مُّزْجٰةً تو پتہ یلہ تس نشہ ژاے۔ دو پھس

وَاهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُّزُجَّةٍ قَاوِفِ لَنَا الْكَيْلَ
 وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۸﴾ قَالَ
 هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۸۹﴾
 قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي زَكَرِيَّا
 قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَشْتَقِ وَيَصْبِرْ فَأَنَّ اللَّهَ
 لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ اشْرَكُوا

ای عزیز مصر در آگہ سببہ دوت آسہ تہ سانس عیالس سخت تکلیف۔ و ن چھ اس آمت رڈی سامانہ مؤیہ ہناتہ۔ کیا زہ وون رُودنہ آسہ نش کہنی مال قَاوِفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وون دتہ آسہ ژہ پور غلہ (نہس آسہ پوشہ ہا) خیر اتاہ کرتہ آسہ پیٹھ۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ پز پاتھ اللہ تعالیٰ چھو خیرات کرہ و نین اجر و ثواب عطا کران حضرت یوسفن ہیو کنہ بہنزہ مسکت آمیز تھہ یوز تھہ تاب کمر تھہ کم تم کیاہ تھوہ ہن و نہ ہن حال پوشیدہ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ حضرت یوسفن پز ژھکھ توبہ چھو یاد توبہ کیاہ کور وہ یوسفن تہ تہمدس بایس بنیا مینس نسبت پلہ ناتھہ نادان آسہ۔ تم گے حیران یہ عزیز مصر کیاہ چھو آسہ پز ژھان۔ اوتان اوس حضرت یوسفن تھس پیٹھ نقاب تراو تھہ مین سیت تھہ کران۔ تموتل نقاب تھود تھن پیہ تھہ پیٹھ نظر تہ پزہ ناوکہ۔ مگر یقین حاصل کرنہ خطرہ لگس پز ژھنہ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ تم لگس پز ژھنہ ژئی محض چھو کہ حضرت یوسفن قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي دوپکھ یوی چھوس یوسفن۔ بیہ پیہ بنیامین چھو میون یوی تھن تھہ ژھانڈنہ درامت چھوہ۔ اس دوشوے چھہ جمع سہمت کسی جایہ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا پز پاتھہ بدمت تھو اللہ تعالیٰ ان آسہ دوشون پیٹھ۔ گوڈہ دشن آسہ توفیق صبر و تقویٰ اک۔ تمکھ برکتہ کوزن سون تکلیف بدل را تھس سیت۔ سان جدالی کمرن بدل اکھ اکس سیت ملاقات کرئس سیت۔ تنگدستی کرن بدل و تھس سیت إِنَّهُ مَنْ يَشْتَقِ وَيَصْبِرْ فَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُطِيئِينَ ﴿۹۱﴾ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ
 الْيَوْمَ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۹۲﴾ اذْهَبُوا
 بِقِمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا
 وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۳﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ
 الْعِيْرُ قَالَ أَبُوهُمَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ
 تَفْتَدُونِ ﴿۹۴﴾ قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿۹۵﴾

البتہ جس کھوڑہ اللہ تعالیٰ اس پر کبھی تکیفین پیٹھ صبر۔ پس اللہ تعالیٰ چھوڑنے نیلو کارن ہنرمز و درضایع کران۔ تم
 ساری واقعات پی سین تیش تم سپد شرمندہ قَالُوا تاللهِ لَقَدْ اَشْرَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُطِيئِينَ
 تم ساری لگ و نہ خدایہ سزوری ہنر پاپ اللہ تعالیٰ ان ذیت توہم فضیلت اسہ پیٹھ۔ پزپاپ سان کن
 آؤ اثر۔ یہ کہنہ ہاہ اسہ کورتھ اندر چھہ اس خطا کار۔ خدایہ سدہ خیطرہ کمر و تھہ ساری اسہ بخشائش
 قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ حضرت یوسفن دو چھ میانہ طرفہ چھنہ کانہہ ملامت تہ گراؤ۔ کانہہ
 الزام توہم پیٹھ از۔ دل میون سپد صاف توہم پیٹھ بے فکر روزو یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ
 اللہ تعالیٰ تہ کرن توہم بخشائش تہ مغفرت۔ سو چھو یژر حم کہو ان اذْهَبُوا بِقِمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَىٰ
 وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا گوہو وون دیو بشارت بابہ صمیس۔ سیت نیو یہ میان کزرتن۔ یہ تہ تراو
 تہدس تھس پیٹھ۔ سمہ سیت سپدن تہزہ اچھہ روشن۔ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ تم ان
 یورمہ نشہ تشریف۔ یہہ پیو تہہ سو روی اہل و عیال ہتھہ نشہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ یلہ مصرہ نشہ
 یہند قافلہ سپروانہ قَالَ أَبُوهُمَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تَفْتَدُونِ یہند بابہ صمین دوپ
 بیشک از چھوس بو یوسفہ سندی خوش محسوس کران تہہ نے نہ۔ بجزہ سببہ بے عقل زانو قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ
 لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ تمودو پھس واقعی چھوہ تہہ تھہ پرائس غلط خیالس اندر مبتلا۔ توہم چھوہ خیال

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ آتَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بِصِيرًا ۖ
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي آتٍ مِّنَ اللَّهِ مَآ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾
 قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿۹۷﴾
 قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۹۸﴾
 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُونُسَ الْأَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُو يَهُودَىٰ وَقَالَ ادْخُلُوا
 مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿۹۹﴾ وَرَفَعَ أَبُو يَهُودَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

کہ یوسف چھوڑ دے۔ یہ گروٹس سیت ملاقات۔ امی خیالکہ غلبہ سیت چھو سپدان توہمہ محسوس ٹھہند
 خوشبو۔ تم کو کرڑھویہ۔ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ آتَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بِصِيرًا حضرت یوسف سہندہ
 صحیح و سلامت آج خوشخبراندون یلیہ آؤکرتن ہیتھ توپتہ تراؤتم سہو حضرت یعقوبہ سندس تھس پیٹھ یکدم
 سہزہ تہمزہ اچھہ روشن۔ یہ کورتم بیان سوزوی حال حضرت یوسف سہند قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي آتٍ مِّنَ
 اللَّهُ مَآ لَا تَعْلَمُونَ حضرت یعقوبن فرموکہ مہ و نیوودہ ناتوہہ کہ خدایہ سنزن تھن یوت بوواقف
 چھوس تہوت زانونہ تہہ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ تموساروی دوپچھ ای
 سانہ بابہ صبیہ سانہ خیطرہ مگوبہز گنہن مغفرت۔ بے شک اس آس خطاکار، سانہ وجہہ ووت توہمہ
 سیٹھاہ تکلیف قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تم دوپچھ عنقریب مگہ بو تہمدہ
 خیطرہ مغفرت خدائس۔ تہجد کہ وقتہ کیاہز تہمہ وقتہ چھودعا قبول۔ بے شک سہو چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ
 ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ توپتہ کرکہ تیاری درای۔ ساری سپد روانہ شہر مصر س گن۔ حضرت یوسف
 دراؤتچھہ بابہ صعیس استقبالہ خیطرہ۔ مصرس نزدیک اہس جلیہ اوس حضرت یوسفن اہک عالیشان مکانہ
 بنوومت۔ گوڈہ نیک ملاقات سپد تھن تھہ مکانس اندر فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُونُسَ الْأَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُو يَهُودَىٰ
 ہس یلیہ ژای تم اتھہ مکانس اندر حضرت یوسفن نشہ تمو وژپانس کھتل جائے حضرت یعقوبس یہ
 والدس یاخالس تعظیمہ کن وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ حضرت یوسفن دوپچھ وون اثر و شہر

وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا وَقَالَ يَا بَيْتِ هٰذَا تَوَلُّوْا وِلَّيُّكُمْ مِنْ
 قَبْلِ وَاذْخُرْجَنِیْ مِنْ السَّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِّ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ تَنْزِعَ
 الشَّیْطٰنُ بَیْنِیْ وَبَیْنَ اِخْوَتِیْ اِنَّ رَبِّیْ لَطِیْفٌ لِّمَا یَشَآءُ
 اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ۱۰ رَبِّ قَدْ اَتٰتٰنِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکِ

مصرس منز۔ خدا سے پوڑھہ تیرے روزوڑھہ خاطر جمع سان۔ جدائی ہندہ قحطک نم کوس اللہ تعالیٰ ان۔ تو پتہ یلمہ مصرس منز ژای تیرہ واتا و تم حضرت یوسف شاہی مملاتن اندر و رَفَعَ اَبُو یُوْسُفٍ عَلٰی الْعَرْشِ بِیْنِ بَنٰوِل و تم دو شوے پانس سیت شاہی قحطس پیٹھ۔ تمہ ساتہ سپز تہن عجیب کیفیہ۔ حضرت یوسف عظمت سپز تہندین دن پیٹھ و خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا تمہو ساروی دیت تہن سجدہ و قَالَ يَا بَيْتِ حضرت یوسف و پ ای میانہ باہ صیہ ہذا تَوَلُّوْا وِلَّيُّكُمْ مِنْ قَبْلِ ای کیا حض اوس میانہ خوابک تعبیر۔ اُس بروٹھ مہ وہممت اوس قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا پز پانھ میان پروردگارن کور میون خواب حق تہ پوز و قَدْ اَحْسَنَ لِيْ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السَّجْنِ پز پانھ رنگہ رنگہ گورمہ نسبت میان پروردگارن احسان۔ اکھ کوڈس بو قید خانہ نشہ باعزت، جزمہ نشہ بالکل بری تو پتہ واتو نوس سلطنت جس مرتس و جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِّ تہہ ساری واتا و تہہ یوت مہ نشہ نمبرہ پیٹھ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ تَنْزِعَ الشَّیْطٰنُ بَیْنِیْ وَبَیْنَ اِخْوَتِیْ یہ سوری سپد شیطانہ سندہ سبہ۔ مہ منز تہ میانین بائن منز اختلاف تہ فساد تراونہ پتہ۔ تم تراویو و اسہ منز سو اختلاف۔ تمہند خیال اوس ساری عمرہ مایکونہ اس اکھ اس سیت۔ اِنَّ رَبِّيْ لَطِیْفٌ لِّمَا یَشَآءُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ پز پانھ میون پروردگار چھوڑت تدبیرہ کرہ دن۔ تمہہ خیلرہ یہ سو یرھان چھو۔ بے شک سو چھو سیٹھہ زانہ دن سیٹھہ حکمتہ و ول۔ امہ پتہ روزو تم ساری اتھ مصرسی اندر خوش و خوشحال۔ یوتاتن حضرت یعقوبس سمہ عالمہ گڑھنگ وقت ووت۔ تمہو کر وصیت ای زہ بو گڑھہ ملک شامس اندر واتا و تہن کزن پنہ نین بز رگن سیت۔ تمہ پتہ سپد حضرت

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي
 بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾
 وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ

یوسف سے آخر تک اشتیاق۔ تم کو رُوحاً رَبِّ قَدْ اتَّعَبْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
 الْأَحَادِيثِ ای میانہ ہر دو گارہ ہمز پانچ ڑہ کر تھم مہ عطا پر تھہ رنگہ نمو۔ ظاہری تہ تہ باطنی تہ۔
 ظاہری گنیمہ سلطنت، پادشہت، باطنی گنیمہ کہ یو چھو و تھس خوانن ہند تعبیر فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 ای آسمان تہ زمین ہندہ پیدہ کروندہ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ڑی تھو کہ میون کار ساز دنیا س
 منز تہ آخر تہس منز۔ تھہ پانچ میانہ سارے کامہ ڑہ دنیا س منز انجام د ڑ تھہ تھہ پانچ و اتنا میانہ آخر تھہ
 کامہ تہ انجام تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ سمہ عالمہ نہ مہ فرمان برداری ہند س حاکم
 منز۔ بیہ و اتنا مہ نیو کارن سیتِ ذَلِكَ یہ قصہ چھو مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ غیبہ چو خبر و
 اندرہ تھس اسمہ وحیہ پانچ سوز تو بہ گن یار رسول اللہ۔ کیا زہ تو بہ نشہ اوس نہ وحیہ و رای بیہ کینہہ ذریعہ سمہ
 سیتِ تو بہ یہ قصہ معلوم سپدہ ہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ بیہ آہونہ تھہ
 حضرت یوسف سندین بائین نشہ تمہ ساتہ یلہ تمو چن ارادہ ہختہ کور حضرت یوسف چھس منز تراوندہ
 خیطر ہیہ آس تم تمہ خیطرہ تدبیر کران کہ بابہ صیس و نو تھہ پانچ تہ تم کڈو کہ تھہ پانچ۔ یہ تھہ چھہ
 یقینی کہ تھہ یو زوندہ یہ قصہ کانہہ نشہ لہذا چھہ یہ صاف دلیل تھہندس نبوتس پیٹھ تھہندس صاحب دئے
 آسٹس پیٹھ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ باوجود آل کرن نہ پڑھہ تو بہ واریاہ لو کہ اگر چہ
 تو بہ آسٹن سیٹھہ خوانش گج۔ تھہندہ ایمان نہ ائنہ سیتِ چھونہ تو بہ کانہہ نقصان وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ أَجْرٍ کیا زہ تھہ چھو نہ منگان تمن نشہ امہ قرآن مجیدہ خیطرہ کانہہ مزوریہ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

مِنْ أَجْرَانٍ هُوَ الَّذِي كَرَّمَهُ لِلْعَالَمِينَ ۚ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝
 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ أَفَأَمْنُوا أَنْ
 تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

لِلْعَالَمِينَ چھو نہ یہ قرآن مجید نُسُخہ تمکن پیٹھ ہر ان چھوہ مگر بد نصیحت عالمین ہندہ خیرہ۔ نُسُخہ
 اتھ مانہ تمس چھو پائس نقصان وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
 مُعْرِضُونَ چھو پاٹھ تم لو کہ مگر نبوت چھو تھے پاٹھ چھو تم مگر توحید تہ۔ کیا زہ کا تیاہ آیات تہ نشانہ
 خدایہ سندس گن آسئس پیٹھ تم آسمان تہ زمین منز چھو تم کو کن لو کہ پکان چھو۔ تم آیات و چھان چھو
 تم چھو تمہو آیا تو نفع بے توحیدی کران وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بیہ چھو اکثر لو کہ
 تم خدائس پر شہ تہ کران چھو باوجود آل چھو تم مشرک، شرکچہ کامہ کران۔ یعنی زیوہ سیت چھو ساری
 ونان کہ اللہ تعالیٰ ای چھو مالک تہ رزاق۔ مگر باوجود آل چھو نس شریک ٹھہراوان۔ چنانچہ کفار مکہ
 آس ونان سون رُب چھو اللہ تعالیٰ تو پتہ آس پو تلین سجدہ کران ملا تیکن خدایہ سنزہ کورہ ونان۔ یہود
 چھو خدائس مانان مگر تھ سیت چھو ونان حضرت عزیز چھو خدایہ سندیٹو۔ تھے پاٹھ چھو بعض لو کہ عالمین

تہ راہن خدایہ سنزن کائین اندر اختیارہ وال زمانان۔ واریاہ لو کہ چھو قبر پرستی پیر پرستی، تعزیہ پرستی
 سیت توحیدہ کس چشمہ مصفیٰ اس مکرر تہ گدل کران۔ کیتیاہ چھو توحیدک دعویٰ کثرت ہوا پرستی
 سیت، پٹن سود دعویٰ باطل کران، بدعتن، پائے ٹھہراو متین چیزن ہنز پیروی کران۔ سچ دلیل نہ
 کتاب و سنتس اندر گنہ جایہ موجود چھو۔ لہذا توحیدہ ورا ای خدائس ایمان ان تہ پر شہ گرن چھو بے کار۔
 تھ ایمان ان تہ نہ ان چھو برابرئ۔ لو کن ہنز یژہ حالت آتھ أَفَأَمْنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ
 عَذَابِ اللَّهِ چھو تم سو کھس تہ اطمئناس اندر بہتھ سمہ لغتہ کہ تم کیا پیہ خدایہ سندہ عذاب تھہ بلا یاہ
 واتھ یوسہ تم پر تھ طرفہ ولتہ بیہ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تہ تھہ واتھ قیامت ہتھ

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰۷﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَفَعَلِي
 بِصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۸﴾
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكِنْ الْأَخْرَجْنَا خَيْرًا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰۹﴾

تہ معہ تم زمین نہ یہ کپار آئی۔ غرض شرک و کفر چھو متقاضی عذاب اس۔ سو دنیا سے اندر ایتن یا آخر اس
 اندر۔ تھہ گن نظر کمر تھہ اوس لوکن لازم عذاب اس کھو ژن۔ کفر و شرکہ نشہ پتھہ روزن۔ عذاب دنیوی
 تہ عذاب اخروی نشہ پن پان بچاون قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَفَعَلِي بِصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
 فرما یو کہ تہہ یار سول اللہ توحید پوز اس نے چھہ میان و تھہ۔ نادھوس یودوان لوکن معبود بر حق
 گن کامل واقفیت حاصل آتھہ۔ اکھ یوبیہ سمو میان پیروی کمر۔ یعنی مہ نشہ چھہ توحید و رسالتس پیٹھہ
 دلیل۔ سمو لو کہ مہ پڑھ کمر تموتہ کمر پڑھہ دلیل نو ز تھہ بے دلیل تھہ گن چھوس نہ بو کانسہ دعوت
 دوان۔ لہذا چھو حاصل ہے تھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو کھوی۔ بو چھوس تھہ گن لوکن نادوان وَسُبْحَانَ اللَّهِ
 منزہ تہ پاک چھو اللہ تعالیٰ شریک آسنہ نشہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیہ چھوس نہ بو ہرگز خدا اس
 شرک آنہ دنیو آندرہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا بیہ سوزنہ آسہ توبہ برو تھہ پیغمبر۔ مگر تم ساری
 آس مرد، انسان، ملک آس نہ نُوحِي إِلَيْهِمْ وحی آس آس سوزان تم گن مِنْ أَهْلِ الْقُرَى
 تہ آس شہرن ہند روزن وال۔ گامن ہند۔ سمو نہ تم ایمان اون تہ پڑھہ کمر تم کمر آسہ عذاب اس
 گرفتار۔ تی ہند تمکن مکہ کین کافرن تہ۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ کیاہ سم لو کہ چھنا پھیر مت ز مینس منز گنہ طرفس پس و چھہ بن تم کیاہ انجام چھو سہد مت
 تمکن مکرن ہند سمو تمکن برو تھہ خدیہ سندین پیغمبرن انکار کور مت چھو۔ یاد تھا ووی تھہ دنیا سے منز
 روز تھہ تہہ کھرونا فرمانی اختیار کر وہ سو دنیا چھو فانی وَلَكِنْ الْأَخْرَجْنَا خَيْرًا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ البتہ

حَتَّىٰ إِذِ اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ
 نَصْرُنَا فَنَبَّحْنَاهُمْ مِمَّنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۰﴾
 لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ
 حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
 تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

آخر تک گره چھو بہتر تمن لو کن ہندہ خیطرہ ہم خدائس کھوژن۔ فر کہ زبہ روزن پتھ کیاہ ونبہ چھوہ نا
 توہم فخرہ تران کہ فانی ناپائیدار چیز اختیار کرن چھا جان کہہ سو چیزئس باقی تہ پائیدار آہ۔ ہر گاہ توہم
 تاخیر عذابہ سیت تہبہ تہ شک پیدا سپدان چھو عذابہ کس واتس اندر۔ یہ چھوہ جنہر سخت غلطی کیاہزہ
 بروظنمین کافرنتہ آیہ زتھمہ زتھمہ مہلکہ ونبہ۔ حَتَّىٰ إِذِ اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ تا اینکه یلہ نامید سپد پیغمبر
 تہمدہ ایمان انہ نشہ و ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا بیہ کورمانہ تمو کہ بیشک تمن سیتئس وعدہ آوود کرنہ سو
 آونہ ونبہ پورہ کرنہ۔ خبر چھا اس ماگے قومس نشہ اپز زبہر جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنَبَّحْنَاهُمْ مِمَّنْ نَشَاءُ تم آس یہ
 خیال کرانی۔ اتی دو چھ سون مدد تہ یاری۔ ئس آونجات ونبہ تمن یہند آہ یوژہ۔ یعنی با ایمان تہ
 مؤحدن۔ کافر آی امہ عذابہ سیت ہلاک کرنہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ کیاہزہ پتھ چھوہ
 یوان رنبہ سون عذاب نافرمان نشہ۔ بلکہ چھو عذاب تمن پیٹھ ضرور واقع۔ پدان۔ اگرچہ ژیر گڑھن تھ
 اندر۔ لہذا مہ روزن اتھ خیالس اندر کھار مہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ پز پاپھ
 چھ حضرت یوسف تہ تہمدین بائن ہندس قصص منربذ عبرت عقلہ والین ہندہ خیطرہ مَا كَانَ حَدِيثًا
 يُفْتَرَىٰ آس نہیہ کتھاپائے ٹھہرونہ امر ۗ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
 بلکہ چھوہ تصدیق تھ مضمونس ئس امہ بروٹھ کتابن منز بیان کرنہ آمت چھو۔ بیہ چھو تفصیل تہ
 وضاحت پرتھ چیزج۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بیہ چھو بوڈ ہدایت تہ بڈر رحمت تمن
 لو کن ہندہ خیطرہ ہسمو ایمان اون۔

سُورَةُ الرَّعْدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْكَرْبُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ
 عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ② يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ③ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

الکتاب اسم گئے حروف مقطعات یمن ہند معنی زابنہ پانہ خدا تِلْكَ الْآيَاتِ الْكِتَابِ اسم چھہ قرآن مجید آیات۔ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ بیہ توہر کن نازل آؤ کر نہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ تہ چھو بالکل ہز۔ تہ اوس منگان کہ سارنی لوکن ہنز گڑھہ تھہ پڑھ گرن۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ مگر واریاہ لوکہ چھہ پڑھ کران تمن شیطان و تھہ راوہ راؤ۔ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا خدا گوسوی قدر تہ دول اسم آسمان بلند کر تھہو وراہی۔ وچھان چھو کہ تہہ تم آسمان تھہ پاٹھ۔ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ تُو پتہ سپد مستوی عرش پیٹھ۔ تھہ پاٹھ تھہ پاٹھ تھہدس شائس شوبہ۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى بیہ کران آفتاب تہ زون مسخر تہ رام پریتھ اکھاہ چھو۔ مودو یو آندرہ پکان پنے نس پنے نس مدارس پیٹھ مقررہ و قس اندر۔ چنانچہ آفتاب اکس و رہس پکن مدار طے کران۔ زون چھہ اکس ریتس طے کران یڈپڑ
 الرَّحْمَنِ الْفَصْلُ الْآيَاتِ سؤی چھو تم سارنی کائین ہند تدبیر کران۔ سمہ عالس آندر واقع سپدان چھہ۔
 سؤی چھو تفصیل تکوینی تہ تشریحی دلیلہ صاف صاف بیان کران لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ تھہ تہہ قیامتک دوہ پنے نس پڑ و ردگار سیت ملاقاتک تہ نس نشہ حاضر سپد نگ یقین کر و وَهُوَ الَّذِي

رَوَّاسِيَّ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَافًا مُتَمِيزًا
يُغْشَى الْبَيْلَ النَّهَارَ طَائِفًا فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۰﴾ وَ
فِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَبَعَاتٌ وَجُدَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ
صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقِضَلُ بَعْضُهَا
عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۱﴾ وَ
إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إنا لَنَعْلَمُ خَلْقَ

نَدَا الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّاسِيَّ وَأَنْهَارًا) بیہ گو خدا سومی تم زمین و ہر دو آہس پیٹھ۔ بیہ کمرن تھہ منز پیدہ
کوہ ناوہ مند لنگر ہی تھہ سو آہس پیٹھ قرار کرہ۔ بیہ پھرہ ون تھہ زمینس اندر جو بیہ تہ دریاو) وَمِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَافًا مُتَمِيزًا) بیہ کمرن پر تھہ میوک اتھہ منز زین قسم مجورہ جو رو، مدر تہ ژوک۔
یُوٹھ تہ میوٹھ۔ اک کمرہ رنگہ بیاکہ بیہ رنگہ۔ اک ژھوٹ بیاکہ زبوٹھ۔ اک رود بیاکہ ڈلوم یُغْشَى الْبَيْلَ
النَّهَارَ سومی ہجھور اژ ہنزہ تاریکی سیت ڈبگ گاش ولان تہ پوشیدہ تھاوان) إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ) بے شک اتھہ منز چھہ واریاہ دلیلہ۔ خدایہ سندہ وحدانیتہ چہ۔ فجرہ کرہ ونین ہندہ خیطرہ۔
تھہ پاٹھ چھہ بیہ دلیلہ خدایہ سندہ وحدانیتہ چہ) وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَبَعَاتٌ) بیہ چھہ زمینس منز زینک
واریاہ لکمرہ، قطعہ، بچھہ بچھہ۔ تم باوجود کھتلہ آسجہ بیون بیون تاثیر تھاوان چھہ۔ وَجُدَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ
بیہ چھہ دچھہ باغ وَزُرْعٌ) بیہ چھہ مختلف کھہ۔ یعنی زرعی زمین وَنَخِيلٌ) بیہ چھہ خزر کل صِنَوَانٌ
وَغَيْرُ صِنَوَانٍ) دو شاغل بیہ اک شاغل یُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ) یعنی چھوسگ یوان دنہ اکی آہ سیت
وَنُقِضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ) باوجود اک چھہ فضیلت دوان آس اڈین اڈین پیٹھ میون اندر
(یعنی زمین کئی، آب کئی، مگر میوہ تہ پھل بیون بیون) إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) پڑپاٹھ
اتھہ اندر چھہ بچہ بچہ دلیلہ خدایہ سندس کن آس پیٹھ عاقل تہ سمجھدار لوکن ہندہ خیطرہ) وَإِنْ تَعْجَبْ
فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إنا لَنَعْلَمُ خَلْقَ جَدِيدًا) بیہ ہر گاہ تمہہ کتہہ پیٹھ تعجب کر تلمہ چھہ

جَدِيدُهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ فِي
 أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵﴾
 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ
 قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ
 ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۶﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

تجس لایق کافرن ہنزیه تھے کہ کیاہ سالیہ آسہ میزہ گامز آسہ توپتہ سموہ آس دوبارہ بیہ پیدہ کرنہ قیامتگ
 دوہ۔ تجس لایق چھہ یہ تھے امی کہ تمہن احمقن چھونہ تران فخرہ کہ تم ذات پاکن ساری مخلوق کمر پیدہ
 کرن گوڈنی۔ تمہن نش کیاہ عجائب چھو دوبارہ تم پیدہ کرن اُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ تم لو کہ چھہ
 تھے سمو انکار کور پنے نس پروردگار س کیاہہ سمو کور پروردگارہ سندس دوبارہ پیدہ کرنس پیٹھ قدرتہ دول
 آسسن انکار اُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ یعنی لو کن ہزنن گردن منز آسہ نال جھننگ طوق
 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تمے لو کہ چھہ نارس منزواتن وال۔ تھے منز چھہ
 روزن ہمیشہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ بیہ چھہ تم کافر توبہ نشہ بانبر کران عذابہ کس
 واتہ نس اندر۔ عافیتک معیاد ختم ہونہہ بروٹھی چھہ تم مصیبتک تہ عذابک مطالبہ کران وَقَدْ خَلَتْ
 مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ حالہہ تمہن بروٹھ چھہ کافرن تہ نافرمان پیٹھ عذابک واقعات گذر سمہت۔
 یمن پیٹھ عذاب نازل کرن کوسہ بدتھ چھہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ مگر تھہ
 چھہ یڑی کہ تہمدس پروردگارہ سندشان حلم و عفو چھونہہ پریتھہ لو کٹس بڈس گنہس گرفتار کرن یڑشان۔
 سو چھو لو کن ہند ظلم و ستم و چھان توپتہ چھو و گذر کران وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ بیہ چھہ یہ تھے
 تہ کہ تہمد پروردگارہ چھو سخت عذاب کرہ ون یقیما۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس منز چھہ دوشوے صفت مگر پریتھہ
 صفحہ ظہورہ خیطرہ چھہ شرط تہ اسباب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ بیہ

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝۸۰ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ
 الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدَرٍ ۝۸۱ عِلْمُ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝۸۲ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَ
 مَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝۸۳
 لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

چھہ دنان تم کافر کیا زہ چھونہ امس پیغمبرس پیٹھ کانہہ خاص معجزہ (سُ اسِ ژھانڈان چھہ) نازل
 سپدان اُسندس پروردگارہ سندہ طرفہ اِنَّمَا اَنْتَ مُنذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ نہہ نہ حض چھوہ نہ مگر سیم
 گروہ دن۔ بیہ چھوہ نہہ و تھ ہاودہ دن۔ تھ پانچ پر تھ قومہ خطیرہ اکھ اکھ و تھ ہاودہ ناہ از تال گذر یومت
 چھو۔ توہہ چھونہ امیک اختیار کہ نہہ کیا ہاودہ من سو معجزہ سس تم طلب کرن **اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ**
أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ اللہ تعالیٰ چھو زانان تہ سو روی یہ تلان چھہ پنہ ید منز پر تہ
 زنانہ۔ گور چھانہ پٹو۔ پور چھانہ اوڈی۔ بیہ چھو زانان بچہ دلہ ہند ژھولن تہ زٹھن۔ ژمن تہ مہر نہ سن۔
 یعنی کم سپدان تہ زیادہ سپدان **وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدَرٍ** پر تھ چیزہ چھو تس نشہ خاص اندازہ موجب
 مقرر کرنہ آمت **عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ** سو چھو پر تھ پو شیدہ چیز تہ نون چیز زنانہ
 دن۔ سوی چھو بوڈ تہ تھو **سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ**
وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ برابر چھو خدلیہ سندس علمس نشہ توہہ اندر سو شخص سس لو تہ تھہ کرہ بیہ سو شخص سس
 بڈہ تھہ کرہ۔ بیہ سو شخص سس راتر ہنزہ انہ بگہ منز کھت روزہ بیہ سو شخص سس دوہلہ نن پانچ کامہ کران
 آسہ۔ اورہ یور پھیران آسہ۔ تھ پانچ سو پر تھ اکس زانان چھو تھ پانچ چھو پر تھ اکسز حفاظت تہ کران
لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ پر تھ انسانہ سزہ حفاظتہ خطیرہ
 چھہ تم تھاومت تہ مقرر کرمت کیہنہ ملک تم اکھ اکس پتہ کامہ پیٹھ یوان چھہ تہ گڑھان چھہ تے چھہ
 روزان امس انسانس بروٹھ کن تہ، تھر کن تہ۔ راچھہ تہ حفاظت چھہ امس انسانس کران وار یہو بلا یونشہ

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
 بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ
 مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاِل ۱۱ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
 وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۱۲ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ
 مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ

خدايہ سندہ حممہ سیت۔ امہ سیت گدھہ نہ زان کہ یلہ ملا یک چھہ پر سٹھ اکس حفاظت تہ را چھہ کران لہذا
 یہ خوش کرہ تہ تہ کمر و۔ کفر و مصیبت تہ نافرمانی کمر و۔ کیاہ پروا چھو۔ ملا یک چھہ را چھہ۔ یہ خیال کران
 چھو محض لغو۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ اگر چہ سو چھو نہ ابتداء کا نہہ عن اس گرفتار کران چنانچہ فرماوان چھو
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ہنز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو نہ بدلاوان کنہ قومہ
 کس رتس حالس صلا حیتس یوتان نہ تم پائے بدلاوان چھہ رتس حالس تہ صلا حیتس نافرمانیو سیت یلہ تم
 پنہ نس صلا حیتس منز خلل تراوان چھہ۔ اللہ تعالیٰ چھو تہمدہ خیطرہ عذاب تہ مصیبت تجویز فرماوان
 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ہیہ یلہ اللہ تعالیٰ ہشان چھو کنہ قومہ خیطرہ عذاب تہ مصیبت اوہ چھو
 نہ تھہ عذابس تہ مصیبتس کا نہہ چیز اوہ دفع تہ دور ہیکان کر تھہ سو چھو ضرور واقع سپدان وَمَا لَهُمْ مِنْ
 دُونِهِ مِنْ وَاِل ہیہ چھو نہ تہن کو کن تہمہ وقتہ کا نہہ اکھاہ مددگار ہیکان سپد تھہ تس ورا ی حتی کہ تم
 ملا یک تہ چھہ ہیکان حفاظت تہ مدد کمر تھہ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ
 السَّحَابَ الثِّقَالَ سو پروردگار گوسوی نیس توہمہ بارشہ ہندہ وقتہ ہاوان چھو وز ملہ نیہ نیہ کرہ و نہہ تھہ اندر
 تمہہ پھر پنک خوف تہ آسان چھو تہ تمہ منزہ بارش تہ رود پچ امید تہ آسان چھہ۔ ہیہ چھو سو ی پیدہ
 کران تھہ ابرس نیس رودہ سیت گو بیومت چھو آسان۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ
 خِيفَتِهِ ہیہ چھہ گکرایہ تسبیح پران تہمدس حمدس سیت ملو تھہ تسنز پاکی بیان کران تہمد
 تعریف کران ہیہ چھہ ملا یک تہ تسبیح تہ حمد پران تس پروردگارہ سندہ خوفہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿۱۳﴾
 لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ
 لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا كِبَاسٌ مَاءٍ لِيَبْلُغَ قَاهُ وَمَاهُو
 بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿۱۴﴾ وَبِاللّٰهِ يَسْجُدُ
 مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمَهُمُ بِالْغَدُوِّ
 وَالْاَصٰلِ ﴿۱۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ

فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ بيه چھو سؤی تر تہ تراوان۔ سؤی تر تھ چھو اتاوان تہس پیٹھ یُسند سؤ
 یژھان چھو وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ تم کافر تہ مکر چھہ بحث ہیوان کر دن
 توہہ سیت یار سؤل اللہ تہس خدایہ سندس حقس اندر نیس عظیم الشان چھو۔ بیه چھو سخت رٹن وول۔ تہس
 پزہ کھوژن۔ مگریم چھنہ تہس عنہ قسمہ کھوژان تہس چھہ شریک ٹھہراوان۔ بیه چھو سؤ بدن ہندس
 منگنہس اجابت تہ کران کہ دَعْوَةُ الْحَقِّ تہس شوبہ ہنز پاٹ ناد تہ آلودین حاجتہ وقتہ کیا زہ اجابت
 کرنج قدرت چھہ تہس یاژ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ تم لو کہ تہس درای بین باطل معبودن آلو
 دوان چھہ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْئًا تم چھنہ تہندس منگنہس عنہ قسمہ اجابت کران کنہ چیزہ سیت۔
 إِلَّا كِبَاسٌ مَاءٍ لِيَبْلُغَ قَاهُ وَمَاهُو بِبَالِغِهِ مگر تہہ پانہ پانہ پانہ کاہنہ شخصہ دورہ آہس
 گن اتھ زہ دہراوتھ خیال کرہ سؤ آب گڑھیم پانے آس منزواتن۔ حالانکہ سؤ آب بیہ نہ پانے
 اسندہ دورہ اتھ زہ مڑہراونہ سیت آسندس آس منزواتھ۔ یے چھہ مثال تم لوکن ہنز تم معبود
 برحقس درای بین معبودن مکان چھہ۔ منگن تہ آلودین شوبہ تہس نیس پریتھہ قسمہ نفع و ضرر ک مالک
 چھو۔ تہس پانہ عاجز تہ محتاج آہہ۔ تہس آلودنہس منز کیاہ فاسدہ چھو۔ وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي
 ضَلٰلٍ کافرن ہند منگن چھونہ مگر بے اثر تہ بے فاسدہ۔ وَبِاللّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمَهُمُ بِالْغَدُوِّ وَالْاَصٰلِ بیه چھہ معبود برحقہ سی تم ساری نماان تہ سجدہ کران تم

اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِانْفُسِهِمْ نَفْعًا
 وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الِاعْمَىٰ وَالبَصِيرَةُ اَمْ هَلْ
 تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
 كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
 وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ

آسمان سے زمین اندر چھہ۔ بعض مخلوق خوشی سیت۔ بعض مجبور سپت۔ یہ چھو تہند سایہ تہ تس نمان
 صبحس تہ شامس قُلْ مِنْ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تہہ پر تھہیک آسمان سے زمین ہند رب تہہ چھو
 تہہ جواب وند نس اندر تیر کرن قُلِ اللّٰهُ تہہ فرماؤ کہ یوزے اللہ تعالیٰ ای چھو تہن ہند رب تہہ
 مالک۔ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ فرماؤ کہ کیا ہسمہ توحید چہ دلیلہ یوزت بناؤ کہ تہہ تس
 ورا ای ہن دوست تہ مددگار تم معبود لَا يَمْلِكُونَ لِانْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا تہہ تہن نہ اختیار تہہ
 طاقت چھو پنہ نین پان ہندہ خیرہ تہہ نفعک تہہ تہہ ضررک بین نفع یا ضرر و اتاؤ چھہ تہہ قُلْ هَلْ
 يَسْتَوِي الِاعْمَىٰ وَالبَصِيرَةُ پر تھہیک گاشدار تہہ اون چھہ برابر ای اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ
 وَالنُّورُ تہہ چھہ تہہ گاش برابر ای۔ یعنی موجدس تہہ مثر کس منز چھہ تہہ فرق ایڈ گاشدارس تہہ انس
 منز چھہ۔ تہہ پان چھہ توحیدس تہہ شرکس منز تہہ فرق ای چھہ تہہ گاشس منز چھہ۔ اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ
 شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ تہہ تھہ او خدا نس تم شریک سمو خدا یہ سندی
 پان چھہ مخلوق پیدہ کرمت چھہ۔ تو پتہ آہ تہہ تہن کا تہہ فرق بوزنہ خدا یہ سندی مخلوق اتن منز تہہ تہندین
 مخلوق اتن منز قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ تہہ فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ای چھو
 پر تہہ چیزک پیدہ کر ہون۔ مخلوقات چھہ ساری تہندی یات یہ چھو سونوی پنہ ذاتہ کن تہہ صفا تہہ کن۔
 سارنی مخلوقاتن پیٹہ چھو غالب، ایچ مثال اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ تعالیٰ ان ترود آسمانہ طرفہ
 زوداہ فَسَالَتْ اَوْ دِيَةً بِقَدَرِهَا یوسے زود پوک نالو منز پنہ پنہ اندازہ موجب۔ یعنی بڈہ نالہ منز

أَوْ دِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمِلِ السَّبِيلَ زَبَدًا زَابِيًا وَمِمَّا
 يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ
 مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ هُ فَاَمَّا
 الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
 فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝
 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ

زیادہ لوگ نہ نالہ منزک فاحتمل السبیل زبدا زابیا پس تل ام رود وون پانس پیٹھ پوس ہتھ سیت
 ژھوٹھ تہ لوشہ آس۔ بیا کہ مثال ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیة اومتاع زبدا
 ومثله بیہ چھو تھان تمو چیز واندہ تم چیز تم نارس پیٹھ گالان چھہ (سون، رُو پھ تہ ترام ہیو) گہنہ
 زیور یا سامان بناونہ خیطرہ پوسا ہتھ آہ کس پٹس ہیو۔ کذلک یضرب اللہ الحق والباطل اللہ
 تعالیٰ چھو ہتھ پٹھ پزج تہ لہزج مثال بیان فرماوان یعنی ایمانج تہ کھرچ توحیدج تہ شرح کج مثال فرماوان
 فاما الزبد فیدھب جفاء تو پتہ ٹس پوس چھو آسان سیلابک یا سونک تہ رو پک سو چھو پائے
 ہو کھت گڑھان تو پتہ چھو سوتراوتھ یوان شیرنہ واما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض
 مگر ٹس چیز لو کن کیت مفید چھو آسان آب یا سون تہ رو پھ سو چھو روزان موجود تہ باقی دنیا س اندر۔
 ہتھ پٹھ چھو اہز گلان۔ پوزہ چھو ظاہر تہ نون نیران۔ اگرچہ ایزد باوشن کینہہ کالاہ ہزس مگر پتولا کہ چھو
 پوزوی پزان کذلک یضرب اللہ الامثال ہتھ پٹھ چھو اللہ تعالیٰ لو کن کتھ فخرہ تارنہ خیطرہ مثالہ
 بیان کران للذین استجابوا لربهم الحسنى سمولو کو خدا یہ سند احکام مان توحید و طاعت اختیار کرنہ
 سیت تہندہ خیطرہ چھہ رژمزور۔ سوز رژمزور گنیہ جنت تہ چتچہ نعمو والذین لم یستجیبوا لہ بیہ سمولو کو نہ
 خدایہ سند احکام مان کفر و مصیبتس پیٹھ قائم روزنہ سیت۔ تہندہ خیطرہ چھو جہنمک عذاب۔ لو ان
 لهم تانی الارض جميعا ومثله معه لا فتدوا به ہر گاہ تم ن نشہ تہ سوزوی مال آسہ بیہ ساری زمینس

لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ
 سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا أُولَئِكَ بِهِمْ جَهَنَّمَ وَيَسُورُ الْبِهَادِ ۚ أَفَمَنْ يَعْلَمُ
 أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ
 الْأَلْبَابِ ۚ ۱۹ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْبَيْتَانَ ۚ
 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ
 يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ ۲۱ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ

منز چھو بیہ تھہ سیت بیہ ثبوت مال ضرور دین بدلہ تمہ عذابہ نشہ موکنہ خیرہ اولئک لھم سوء
 الحسب یعنی لوکن ہمدہ خیرہ چھو چھ حساب وما اولئک جھنم ویسور البھاد بیہ چھ تہنزی جایی
 نار جھنم۔ کاتراہ چھہ جلیا چھہ سو افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعلیٰ ایسو شخص
 ئس زانان چھو بیہ کینہہا توہہ پیٹھ نازل آو کر نہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ تہ سوروی چھو حق تہ
 پوز۔ سو چھاتس شخصس ہوںس اونس ہرگز بیہ چھہ مثال بایمانس تہ کافرہ سنز انما یتذکر اولوا الالباب
 نصیحت چھہ رمان مگر عقلہ والی الذین یوفون بعھد اللہ ولا ینقضون البیتان عقلہ وال گئے تے سم
 پور چھہ کران خدایہ سندس عمدس بیہ چھہ پھروان تھہ عمدس نافرمانیہ سیت والذین یصلون ما
 امر اللہ بہ ان یوصل بیہ گئے عقلہ وال تے کو کہ سم ملہ ناوان چھہ تمن حکمن تمن ہمدہ ملہ ناوک حکم
 کور اللہ تعالیٰ ان یعنی صلہ رحم و یخشون ربھم و یخافون سوء الحسب بیہ سم کھوژان چھہ پنہ نس
 خدائس بیہ چھہ سخت عذابک اندیشہ کران والذین صبروا ابتغاء وجه ربھم بیہ سمو صبر کور
 فرمانبرداری پیٹھ بلائسن تہ مصیبین پیٹھ۔ بیہ گھوننشہ پتھ روزنس پیٹھ پنہ نس پروردگارہ سند رضا حاصل
 کرنہ خیرہ واقاموا الصلوة بیہ تھوا کہ نماز برپا۔ وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانیة بیہ کور کھ خرچ تمہ مالہ

بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقَبِي الدَّارِ ﴿۲۲﴾ جَنَّتْ عَدْنٍ
يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۲۳﴾ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
عُقَبِي الدَّارِ ﴿۲۴﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿۲۵﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

منزہ ہنس اسے عطا کر رکھ، پوشیدہ پائٹھ سے ن پائٹھ ویدر سون بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ بیہ ہجہ دور کران نیکو
سیت بدیہ کا گئے تین نسبت بدی کرہ تم ہجہ تس نسبت نیکی کران أُولَئِكَ لَهُمْ عُقَبِي الدَّارِ تمنی لو کن
ہمدہ خیرہ ہجو رت انجام آخر تیس گرس اندر سو رت انجام گو جنت عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا عے
جنت بیٹھ منز تین واتن ہجو تہ روژن ہجو وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ بیہ تہمدین مالین
بُدین بیہ تہمدین جوزن۔ یعنی مردن زنانہ۔ زنان خانہ۔ بیہ تہمدین ثمرین مرین۔ یمن جنس واتن
صلاحیت تہ قابلیت آسہ۔ یعنی سم با ایمان آسن۔ تم تہ واتن جنس تہمدہ برکتہ تہدر جس منز تہدر منز
تم آسن وَالْمَلَائِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ بیہ آسن ملایک اتران تمن نشہ پر تہدر دروازہ کن۔ ونان
آسٹھ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقَبِي الدَّارِ ای جنتیو سلام بوزیوہ۔ بیہ بدمزور بنیایہ توہیہ صبر کہ
برکتہ۔ تہہ کیا روودین حقس پیٹھ مضبوط۔ ہنس کیاہ رت ہجو سو مقام ہنس توہیہ حاصل سپد وَالَّذِينَ
یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وون گئے تم لو کہ تم پھرواوان ہجہ خدایہ سند عہد تمہہ مضبوط تہ
محکم کرنہ تہ۔ و یَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ بیہ ہجہ ژان تم چیز تمن ہمدہ ملہ ناو تک اللہ تعالیٰ ان
حکم کورمت اوس یعنی آشنائی و یُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بیہ چھہ دنیا عس منز فساد تلان کفرہ تہ نافرمانی سیت
أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ تمے لو کہ کیا گئے ہمدہ خیرہ لعنت ہجہ۔ سو گویہ خدایہ سزہ ہر حمتہ نشہ دوری ولہم
سوء الدار بیہ ہجو تہمدی خیرہ ہجہ گرہ سو گونا جہنم۔ کافرن ہنز ظاہری دولت و ثروت و ہجھت

وَفِرْحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿۴۷﴾
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
 يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿۴۸﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ
 قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۴۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي كِتَابِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي

گروهی نه به دھوکہ لگن کہ تم لو کہ ما آن مورد رحمت کیا زہ رزق کی کیفیت چھ اٹلہ یسٹرزق لمن
 یشاء ویقللہ اللہ تعالیٰ ای چھو رزق ہرہ راوان کس یزھان چھو تہ نس بیہ چھو سوی رزق منر تنگی
 کران کس یزھان چھو تہ نس۔ بیہ چھو نہ رحمت وغضبک معیار وفرحوا بالحیوة الدنیا کافر چھہ خوش
 سپدان دنیاچہ زندگی سیت۔ بیہ نہوند خوش سپدان چھو فضول کیا زہ وما الحیوة الدنیا فی الآخرة الامتاع
 حالانچہ آخرتچہ زندگی مقابلہ چھنہ دنیاچہ زندگی مگر حقیر اکھ چیز اہ۔ سمہ سیت تمتع یوان چھو ٹلنہ کم کہہ نہ
 کالا ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیة من ربہ بیہ چھہ ونان کافر ٹھندس نبوتس پیٹھ اعتراض کرنہ
 خیطرہ کہ کیا زہ آونہ نازل کرنہ حضرت محمدس پیٹھ ٹیٹھ معجزہ پنے نس پروردگارہ سندہ طرفہ۔ بیٹھ
 بروٹھمن پیغمبران پیٹھ نازل سپدان اوس۔ حضرت موسیٰ سند عصاہیو۔ حضرت صالح سز ووثن ہش
 قل ان اللہ یضل من یشاء ویھدی الیہ من اناب ٹہہ فرمادیو کہ کہ پتر پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو و تھ راوہ
 راوان کس یزھان چھو تہ نس۔ بیہ چھو سوی و تھ ہاوان پائس کن نس کس ایہ، متوجہ سپدہ نس کن۔ بیہ
 کس پزہ وتہ ہند طالب آسہ۔ الذین امنوا و تطمین قلوبہم بذكر اللہ سمو لو کو ایمان اون۔ بیہ چھہ تھند ول
 قرار نان خدایہ سندہ یادہ سیت ارا بذكر اللہ تطمین القلوب وارہ یوزو کہ یاد خدا کر تک خاصیت چھو کہ
 تمہ سیت چھو با ایمان ہندین ولن قرار تہ سکون حاصل سپدان الذین امنوا وعملوا الصالحات
 طوبی لھم وحسن ما لب سمو لو کو ایمان اون بیہ کر کیکہ رتھہ عملہ تھندہ خیطرہ چھو دنیاچہ س اندر رت
 حال۔ بیہ آخرتس اندر رت انجام۔ باعزت و اجسی کذالک ارسلناک فی آیتہ قد خلت من قبلہا امم بیہ

أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿۱۳﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِسَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا لِيُنْزِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَصِيبَهُمْ

بتھہ پاتھ آسہ توہمہ بروئھ پیغمبر سوز بروئھن اُمتن کن یتھ پاتھ سوزوہ آسہ توہمہ تہ یار سول اللہ اکیس اُمتن کن پیغمبر۔ سیمہ اُمتہ بروئھ واریاہ امر کڈر سموہ ہجھہ لَتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ یتھ تہمہ پترو تہن پیٹھ سو کتاب یوسہ آسہ توہمہ کن بطریق وحی نازل کتر۔ تہن پڑہ ہا تھ تجر نعمو پیٹھ شکر دمن۔ اتھ نفیس قدر زانن وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ مگر تم ہجھہ ناسپاسی تہ کتر ان نعمت کر ان رحمتہ ولس خدا نلس قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ تہمہ فرماو یو کہ سوی رحمتہ وول خدا ہجھو میون پروردگار۔ کانہہ معبوداہ ہجھونہ تس ورا ی۔ تس پیٹھ کیاہ کورمہ اعتماد تہ توکل۔ بیہ ہجھوس تس کن یو رجوع کران۔ تس نشہ ہجھومہ وائنن وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى بیہ ہر گاہ کانہہ قرآنہ یعنی کتابہ آسہ ہاسمہ سیت کوہ کلمہ جلیہ پیٹھ بیس جلیہ کن پکانانہ بیکن یا سیمہ سیت دور درازو تھ طے کرنہ بیہ ہایا بیمہ سیت مرده تھہ بیکن کرناونہ یعنی مرده سپد ہن زنده تمہ سیت کیاہ ہنہ ہا۔ تم کافر انہن نہ تو تہ ایمان کیا زہ تم چیز ہجھنہ مؤثر حقیقی بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا بلکہ ہجھو سوری اختیار کنیس خدا نلس اتھہ۔ سوی نلس ہدایت کرہ تس بیہ ہدایت أَفَلَمْ يَأْتِسَّ الَّذِينَ آمَنُوا كَمَا يَأْتِسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً یتھ نہ کینہہ تہ۔ مُجْزَاهُ تھہ ہجھن یا متہ و ہجھن۔ ہسندہ حقہ سو ہدایت یژھنہ تس ہنہ نہ کینہہ تہ۔ مُجْزَاهُ تھہ ہجھن یا متہ و ہجھن۔ وَلَا لِيُنْزِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَصِيبَهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً ہمیشہ روزہ کافرن تہ مٹکن کفرہ تہ

بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهُ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ ۚ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُمْ
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا تَأْتُمُّوهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۚ ﴿۳۲﴾ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ
 عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا مَّشْفُوفَةٌ
 بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا
 مَكْرَهُمْ وَوَعْدُ وَعَيْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۚ ﴿۳۳﴾

نا فرمائی سببہ کا نہہ نہہ کا نہہ مصیبتہا سے بلا یاہ و اتان اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ یاواتیجہ بلای گرن نزدیک
 حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ یوتان وانہ اللہ تعالیٰ سُنَد وَعَدہ یعنی آخر تک عذاب نِس مرنہ پتہ شروع سپدہ اِنَّ
 اللَّهُ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ پنہ نِس وَعَدَس بَدَل کران۔ لہذا چھو تین پیٹھ عذاب
 واقع سہن یقینی۔ تم ن لوکن ہند انکار یا استہزاء سے ٹھٹھہ یہ چھونہ تو ہی سیت مخصوص بلکہ
 وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُمْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تَأْتُمُّوهُمْ پزپاٹھ ٹھٹھہ آئی کرنہ کا تہن
 پیغمبرن تم توہہ بروٹھ آس نِس تراومہ یکہ کینہہ کالاہ تم ٹھٹھہ گرہ ون کا فر۔ تمہ پتہ رٹ مہ تم سے
 کرم گر فنان عذاب فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ نِس چھو توہہ معلومی میون سزاکیتھ اوس تین نسبت۔ میو
 ٹھوی سزاکیا دمہ بو تم ٹھٹھہ کرہ ونین لوکن سے تم توہہ ٹھٹھہ سے استہزاء کران چھہ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ
 عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ آیسو پروردگار نِس قاسم روزتھ پر تھہ شخصہ سزہ کامہ و چھان سے ڈر ڈران
 چھوسو تراویا تم توہہ ٹھٹھہ کرہ ونین سزاونہ و رای وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا مَّشْفُوفَةٌ بیہ ٹھہراو مشر کو
 خدا نِس شریک۔ تہہ فرماویو کہ یارسول اللہ تلاتین ہند ناؤ ونیو۔ اَمْ تَشْتَكُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي الْأَرْضِ کہ تہہ
 چھوہ خدا نِس تیج خبر کران یہ نہ نس معلوم چھو تمام دُنیا س اندر اَمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْقَوْلِ کہ محض ظاہری
 نظر ہندہ اعتبارہ چھہ تین شریک ونان۔ حقیقت چھندہ تین لفظن ہنز کہمی بَلْ زَيْنٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ
 بلکہ چھہ تم کافر ن پنہ مغالطہ تھہ جان یوان بوزنہ سمو کتھو سیت تم شرکس بتلا سپد مت چھہ

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿۳۴﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿۳۵﴾ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ

وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ بِهِ آی تم پتھر رنہ تہ مخروم کرنہ سبزہ ویتہ نغمہ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ نَسْ خد او تھ راورہ تسبہ حقہ جھونہ کانہہ اکھاہ و تھ ہاہون لہم عذاب فی الحیوۃ الدنیا تہنہہ خیطرہ جھو بوڈ عذاب دنیاچہ زندگانی اندر تہ سو گو قتل و ضرب و لعذاب الیخرۃ اشقی تہنہہ خیطرہ نَسْ آخر تک عذاب جھو سو جھو زیادے مشکل تہ دشوار وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ بہ جھونہ تہنہہ خیطرہ خدایہ سبہہ تمہ عذابہ نغمہ کانہہ بچاؤن وولاہ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ حال تہ کیفیت جھہ تمّن جتن ہنز یمن ہند وعدہ کرنہ آؤپر ہیز گارن یم شرک و کفرہ نغمہ پتھر روزن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تمہہ کیو گلیو تہ لریو منز آسن جو بہ پکان اکلہا دایمہ و ظلما کھینہ چیز تمّن جتن ہند جھہ پو شہ وین۔ بہ سایہ تمّن جتن ہند جھو ہمیشہ روزون تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا یہ انجام جھو تمّن تمّن لوکن ہند تمّ شرکہ نغمہ پتھر روزن و عُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ کافرن تہ مشرک ہند انجام جھونار جھنم وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ تم لوک تمّن کتاب آیہ عطا کرنہ یعنی تورات تہ انجیل تم چھہ خوش سپدان تمہہ کتابہ سیتہ یوسہ توہمہ پیٹھہ نازل آیہ کرنہ یعنی قرآن مجید وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ بہہ چھہ سمو جماعتو اندرہ تم انکار جھہ کران قرآن مجیدہ کس اہس حصّس یتھہ منز تہنزہ کتابہ خلاف احکام چھہ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ تہہہ فرماؤ کہ مہہ آؤنہ ہمّ کرنہ توحیدس متعلق مگر تمہہ کوئی مہہ عبادت کرہہ بوکنس خدایہ سنز۔ بہہ اندہ نہ بوئس شرک کئہہ قسمہ إِلَيْهِ

أَدْعُوا وَاللَّيْه مَابِ ۳۷ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ
 اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَمَأَلِكَ مِنَ اللَّهِ
 مِنْ وَرَائِي وَلَا وَاقِ ۳۸ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ
 جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
 بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۳۹ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ
 وَيُثَبِّتُ ۴۰ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۴۱ وَإِنْ مَا نُرِيدُكَ بَعْضَ


أَدْعُوا وَاللَّيْه مَابِ ناد چھوس یو دو ان سارنی لو کن تس کن بیہ چھو تس کن سارنی رجوع کرن
 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا بیہ کور اسہ نازل بیہ قرآن مجید حکمہا عربی پاٹھ۔ چھ پاٹھ بین پیغمبرن
 خاص خاص زیوہ اندر خاص خاص احکام نازل کمر۔ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
 مَأَلِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَرَائِي وَلَا وَاقِ بیہ ہر گاہ تہہ بفرض محال ممکن ہنزن خواہش، نفسانی خیالاتن
 یعنی احکام منسوختہ یا احکام محرفن ہنزی پیروی تہ اتباع کمر۔ توہہ نش صحیح علم واتنہ پتہ۔ تلہ چھونہ توہہ
 خدائس نشہ کانہ حمایت کرہ وناہ۔ بیہ تہندہ عذابہ نشہ کانہ بچاوہ وناہ۔ یہ یلہ گوئی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلمت سیت معاملہ بائین ہنزی چھنہ کھی۔ اہل کتابو اندرہ بعضیو کور اعتراض کہ نبی کریم کیازہ چھہ
 واریاہ زنانہ۔ تمیگ جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ
 أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً بیہ سوز اسہ پیغمبر توہہ بروٹھ، بیہ کمر اسہ عطا کن ٹر باڑ۔ تہہ تہ چھوہ تہندی پاٹھ
 پیغمبر۔ توہہ اہل وعیال آسن کیازہ چھہ تم ہو کتھاہ زنانان۔ یہ چھنہ تڑوہہ کتھاہ یوسہ رسالتس تہ نبوتس
 خلاف چھہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بیہ اوس نہ کانہ پیغمبر اہئس خدایہ سندہ
 حکمہ ورائی کانہتہ آیہ یا معجزاہ پیش ہیکہ ہاکر تھ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ پر تھ وقتہ خیطرہ چھہ مناسب احکام
 تہ مناسب واقعات مقرر کرنہ آمت تموی منزہ گے معجزہ تہ آیات يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
 وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ تموی احکامو منزہ چھو نہوان اللہ تعالیٰ تم حکم تم سوتھان چھو۔ باقی چھو تھوان تم

الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفَّيْتِكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا
 الْحِسَابُ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
 وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَمْ يُعَقَّبْ لِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۶۱
 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَلَّغَهُمُ اللَّهُ الْبُكْرَ جَمِيعًا يُعَلِّمُ

حکم ہم سُو پڑھان چھو۔ تَس نِسْہ چھو اصل کتاب لوح محفوظ تہ منز سوزی چھو تفصیل لیکھنہ آمت وَاِنَّا
 مَا نُرِيَّتْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ تَوَفَّيْتِكَ کافر چھ انکار نبوت کرن۔ تو پتہ چھہ دپان بیمہ
 عذابک وعید کرنہ یوان چھو سُو عذاب کونہ چھو نازل سپدان۔ سمہ عذابک اس تمن وعده کران چھہ
 تمہ منزہ ہر گاہ کھ حصہ اس توہمہ ہادوہ یعنی توہی تھی کرو کھ اس تم تھہ عذابس گرفتاریا تہندہ سمہ عالمہ
 گرہسکھ پتہ سپدہ نمن پیٹھ سُو عذاب واقع خواہ دُنیا س منز سپدہ سُو عذاب واقع یا آخرتس منز پر تھہ
 صورتس منز چھونہ توہمہ تمیک خیال لازم کرن۔ کیا زہہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ پس توہمہ چھونہ منہ مگر
 پیغام وَاِنَّا وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اَسہ چھو منہ پر ژھہ گار کرن حساب ہیون تہ عذاب کرن۔ تہہ مہ سکر و
 اِنج کا نہہ فجر۔ سمَن کافر ن ہند تہ چھو تَجَب کہ تم کیا زہہ سنا چھہ تمہ عذابہ کس واقع سپد س انکار کران۔
 کیاہ تم چھنا و چھان کہ مقدمات عذاب ہین تہندہ خیطرہ ظاہر سپدان اَوَلَمْ يَرَوْا آیا تم چھنا و چھان
 اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ کہ اس چھہ اسلامچہ روز بروز فتح سیت تہندین ملکن اندر نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا کھ
 کھ حصہ زمینگ تہندہ قبضہ اندرہ کڈ تھہ مسلمان ہندس قبض اندر وَاِنَّا وَعَلَيْنَا۔ سمہ سیت ظاہر چھو
 سپدان اسلامس سپدہ روز بروز فتح تہ نصرت خدایہ سندہ لحمہ۔ تہنز عملداری چھہ روز بروز کم گڑھان پتہ
 چھو تہندہ خیطرہ کہ قسمگ عذاب نُس بڈہ عذابک مقدمہ چھو وَاللَّهُ يَحْكُمُ اللَّهُ تَعَالَى نُس حکم صادر
 کران چھو سُو چھو صادر کران لَمْ يُعَقَّبْ لِحُكْمِهِ کا نہہ اکھاہ چھونہ تہندس لحمس پتہ رٹ و ن۔
 عذاب دُنوی آسن یا عذاب اُخروی۔ تہند یو معبودان باطلو اندرہ تمن تم شریک خدایچھہ ٹھہراوان
 ہیچہ نہ کا نہہ اکھاہ تھہ عذابس پتہ رٹھہ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بیہ چھو سُو جلد حساب ہیوہ و ن۔ حسابہ

مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ﴿۴۲﴾
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿۴۳﴾

پئے آسہ تین عذاب وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پز پانٹھ سم کافر تین برونٹھ آس تموتہ چھہ کم کم
 تدبیر برو نظمین پیغمبرن ہندس مخالفس منز کتر مت۔ چھہ پانٹھ ازک کافر چھہ ٹہندس مخالفس منز کم کم
 تدبیر کران کس ٹہہ مدہ بر و تمیک کانہہ پروا قَبْلَهُ الْمَكْرُ حَمِيْعًا اللہ تعالیٰ سی نشہ چھہ ساری تدبیر کیا زہ
 يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ کس چھو معلوم کس شخص کیا چھو کران وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ
 الدَّارِ عنقریب زانن کافر زت انجام کتہدہ خیطرہ چھو مسلمان ہندہ خیطرہ کنہ کافر ن ہندہ خیطرہ
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا بیہ چھہ دنان کافر کہ ٹہہ چھو نہ پیغمبر قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ٹہہ فرمادو کہ ٹہندہ انکار کرنہ سیت کیا چھو۔ بیہ چھو بے اعتبار کس چھو اللہ تعالیٰ گواہ
 مہ منز تہ توہہ منز میانس پیغمبر آس پیٹھ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بیہ چھو گواہ میانس پیغمبر آس
 پیٹھ سو شخص کس نشہ تورات وانجیلک علم چھو۔ مثل عبد اللہ بن سلام وغیرہ۔





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
 الرِّسَالَةُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
 النُّورِ لِئَاذِنَ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝^۱ اللّٰهُ الَّذِي لَهُ مَا
 فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝^۲
 الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ
 سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۝^۳ أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝^۴ وَمَا

الَّذِي سَمَّيْتَهُ حُرُوفٍ مَّقْطَعَاتٍ خَدَائِعِيٍّ هُوَ مَعْلُومٌ مِّنْ حُرُوفٍ هُنَّ مَعْنَى كِتَابِ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ فِيهِ قُرْآنٌ
 مجيدٌ هُوَ كِتَابُهُ يَوْمَ تَهْمُكُنْ نَازِلٌ كَرِيْمًا رَّسُولَ اللّٰهِ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ هُوَ تَهْمُ
 امِيكٌ مَّضْمُونٌ بِيَانِ كَرَمِ تَهْمُ لَوْ كَهْ كَلْدُو كَهْ كَهْرٌ يُّوَكِّنُو مِنْهُ اِيْمَانًا وَتَوْحِيدًا كَسْ نُوْرَسْ كُنْ يٰ اِذْنِ تَهْمُ تَهْمُ سْ
 پُروردگار ه سده حكمه سببیت إلى صراط العزیز الحمید تیس غالب تہ تعریف کرنے آتس خدایہ سزہ وتہ
 كُن اللّٰهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تیس معبود برحق چھو۔ یسند تہ سو زوی وھو یہ آسمان تہ
 زمین منز ھو یلہ یہ کتاب خدائس كُن و تھ ہاوان ھھہ و وَّيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ و یل تہ افسوس
 تمن کافرن عذاب شدیدک تم نہ یہ و تھ اختیار کرن لا الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
 بلکہ تم ہند ھھہ تھ اوان دنیا ج زندگی آخرتس بیٹھ۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِہ تم ھھہ ھھہ
 رٹان لو کن راہ راستس خدایہ سزہ وتہ بیٹھ پختہ نشہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا بیہ ھھہ ژھانڈان تہ تلاش کران
 سیزہ وتہ منز جڑ لو کن اندر ھھہ شہات تراون اُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ تہ لو کہ ھھہ ز ھھہ گمراہی اندر
 بتلا یعنی یوسہ گمراہی پڑو نشہ سیٹھاہ دور ھھہ۔ یعنی کافرن ھھہ شبہ کہ یہ قرآن مجید کیا زہ ھھہ عربی پاٹھ

أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ
 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴﴾ وَقَدْ
 أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۵﴾
 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
 أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

تمسوی جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ بے سوز نہ اسے
 کا نہہ پیغمبر اہ مگر تمی زیوہ کلام تہ بیان کرہ و ن یوسہ ہندہ قونج زیو آس بیٹھ سووارہ تمن بیان کرہ خدایہ
 سند احکام فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ منہ کر تھ تہ کس اللہ تعالیٰ یرشان چھو تھس چھو ٹھراہ
 کران۔ سو چھو نہ تم احکام مانان کس یرشان چھو تھس چھو و تھ ہوان راہ راستس کن۔ سو چھو تم احکام
 قبول کران تہ مانان وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سوی چھو غالب تہ حکمتہ و ول وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بے
 سوز اسے موسیٰ علیہ السلام پن آیات ہتھ۔ اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ حکم کوزس اسے کہ
 کڈن پنن قوم ٹھہرہ چو گو منزہ ایمانہ کس نورس کن وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا اللَّهُ بے پاوکھ ژیتس نعمون تہ
 مہربائین ہندوہ بے تکلیف تہ مصیبتن ہندوہ اِن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ پز پناٹھ تھ ژیتس
 پاوکھ منز چھہ بڈ نشانہ پر ہتھ صبر کرہ و نہ تہ شکر کرہ و ن سندہ خیطرہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا
 نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بے پاو و ژیتس یلہ موسیٰ علیہ السلام ن ڈوپ پنہ کس
 قومس ای قوم یاد کتر و خدایہ سز نعمت یوسہ توہہ عطا کر تھہ یلہ ن نجات دیت تھہ فرعونہ سندہ قومہ نعمہ
 یسومونکم سوء العذاب سم توہہ واتاوان آس کڈر عذاب وَيَذِّكُّونَ أَبْنَاءَهُمْ مَارَانِ اس
 تھہرین پنچوین وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ بے آس زندہ تھوان تھزن کورین سمہ بڈ تھ زانہ نہ پن و فی
 ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ آتھ منز آس تھہدہ خیطرہ بڈ آزمائش تھہدس پروردگارہ سندہ طرفہ وَإِذْ

وَيَذَّبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
 مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۖ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ
 لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۗ وَقَالَ
 مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ
 اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۸۵ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
 قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثمودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ أَتَىٰ
 يَعْلَهُمُ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا

تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ کمر و یاد کی بنی اسرائیل کو یلیہ عام اعلان کور تمہید
 پروردگار ان اگر تمہ شکر گذاری کر وتلہ ہر رواوہ بونعت ولکن کفر تم ان عذاب لشدید ہر گاہ
 کفر ان نعمت کمر وتلہ چھو میون عذاب سیٹھا سخت۔ سوخت عذاب گو نعمت آتھ بن۔ وَقَالَ مُوسَىٰ
 إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا یہ فر مو موسیٰ علیہ السلام پنہ نس قومس، ہر گاہ تمہ
 کفر کمر ویافر ان نعمت کمر وتہہ تہیہ تم ساری زمینس منزجہہ جتوتہ انسانو اندرہ کانہہ پروا جھونہ تمیک
 فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ کیا زہ اللہ تعالیٰ جھو بالکل بے نیاز تمام مخلوقن نشہ۔ سو چھو سزاوار حمد و ثنا
 حمد پیشس کانہہ یامتہ د پیشس اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ای کافر و کیاہ تو بہہ جھنا و اثر مثر خبر
 تمین لوکن ہنز تم تو بہہ بروٹھ آس قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثمودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مثلاً نوح
 علیہ السلام سندہ قوچ، یا قوم عاد، ہود علیہ السلام سندہ قوچ یا قوم ثمود، صالح علیہ السلام سندہ قوچ
 خبر۔ یہ تمین لوکن ہنز تم تمین پتہ آی لَا یَعْلَهُمُ إِلَّا اللَّهُ تم آس بے شمار۔ حیث زہ تہندہ گریند
 زانہ نہ بہ تفصیل کانہہ تہ خدا نس و رای جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ تمین نشہ وات پیغمبر تمہزہ نہہ
 دلیلہ ہیٹھ، خدایہ سزہ کتابہ ہیٹھ فَرَدُّوا أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّهُمْ فِي آفَاہِہُمْ کس واتا و تموا تھہ پن تہندین آس

اَيْدِيَهُمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ
 وَاِنَّا لَفِيْ شَكِّ مِمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهٖ مُّرِيْبٍ ۙ قَالَتْ رُسُلُهُمْ
 اِنِّىْ اللّٰهُ شَكُّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَدُّ عُوْكُمْ
 لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُوْخِّرَكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ۙ
 قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا
 عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ ۱۰
 قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ تَخٰنُوا الْاِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ اٰوٰىهُ فَلَيْسَ
 بِاَبِيْكُمْ وَرَبُّكُمْ اَللّٰهُ يَبْدَا لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْكُمْ سُلْطٰنًا
 مَّخْفًىۙ ثُمَّ يَخْتَارُ ۙ لَئِنْ اَرَادْتُمْ اَنْ تُخٰنُوْهُ فَاِنَّكُمْ
 لَخٰنُوْهُ ۗ لَئِنْ اَرَادْتُمْ اَنْ تُعٰوِزُوْهُ فَاِنَّكُمْ لَعٰوِزُوْهُ
 ۗ لَئِنْ اَرَادْتُمْ اَنْ تُجٰنِبُوْهُ فَاِنَّكُمْ لَجٰنِبُوْهُ ۗ اِنَّكُمْ
 لَعِنْدَ رَبِّكُمْ لَمُبِيْنٰ ۙ ۱۱

اندر یعنی تم کہہ ناؤ کہڑھوپ۔ ورنہ ڈیت، بکھ نہ کینہہ۔ وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ دہنہ لگ
 اس چھہ انکار کران تھہ ساری یہ ہتھ تہہ سوزنہ آمت چھوہ یعنی توحید و ایمان وَاِنَّا لَفِيْ شَكِّ مِمَّا
 تَدْعُوْنَآ اِلَيْهٖ مُّرِيْبٍ بیہ چھوہ اسہ شک تمہہ دینک بیجھ کن اسہ تہہ نادووان چھوہ کس شک تردڈ پیدہ
 کرہ ون چھوہ قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنِّىْ اللّٰهُ شَكُّ تہند یو پیغمبر دووان تہن کیاہ معبود برحقس منزتہ چھا شکی
 تہہ نہ نہ ہرگز کیا زہ تہندہ توحید چہ دلیلہ ہتھ ظاہر تہہ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کس کس پیدہ کرہ
 ون چھوہ آسان تہ زمین ہند یَدُّ عُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ سوی چھوہ توبہ نادووان ایمانس کن
 تہ اسلامس کن بیجھ توبہ برو تھمین گنہن مغفرت کرہ وَيُوْخِّرَكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى بیہ بیجھ مہلت
 دیہ توبہ عمرہ ہندس اکس مقرر کرنہ آتس و قس تان قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تم لگ دہنہ تہہ
 چھوہ نہ مگر آس ہوانسان۔ توبہ اندر کیاہ زیادتی چھہ سیمہ سبت اس تہندون مانوہ تَرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا
 عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا بظہر چھوہ تہہ یڑھان اسہ پتھ رکن تہن معبودان ہنزہ عبادتہ نشہ یکن ہنزہ
 عبادت سان مال بدبب کران آس۔ ہر گاہ فی الحقیقت تہہ یوز و تان چھوہ فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ
 تلہ انواسہ نشہ کانہہ نذ لیلہا قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ تَخٰنُوا الْاِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ اٰوٰىهُ فَلَيْسَ
 بِاَبِيْكُمْ وَرَبُّكُمْ اَللّٰهُ يَبْدَا لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْكُمْ سُلْطٰنًا مَّخْفًىۙ ثُمَّ يَخْتَارُ ۙ لَئِنْ اَرَادْتُمْ اَنْ تُخٰنُوْهُ فَاِنَّكُمْ
 لَخٰنُوْهُ ۗ لَئِنْ اَرَادْتُمْ اَنْ تُعٰوِزُوْهُ فَاِنَّكُمْ لَعٰوِزُوْهُ ۗ لَئِنْ اَرَادْتُمْ اَنْ تُجٰنِبُوْهُ فَاِنَّكُمْ لَجٰنِبُوْهُ ۗ اِنَّكُمْ
 لَعِنْدَ رَبِّكُمْ لَمُبِيْنٰ ۙ ۱۱

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ وَمَا لَنَا إِلَّا
 نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا ۖ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا
 أَذِيْتُمُونَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۲﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِي مَلٰئِكِنَا
 فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّٰلِمِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ
 مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ ﴿۱۴﴾ وَاسْتَفْتَحُوا

بے شک اس چھنہ مگر تو ہی ہو انسان وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لیکن اللہ تعالیٰ چھو
 پن فضل تہ مہربانی کران پنہ نیو بندو آندرہ نس پیٹھ یڑھان چھو وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا
 بِإِذْنِ اللَّهِ سانس اختیارس منز چھنہ یہ کتھ کہ اُس کیاہ اَنُو توبہ نہ پائے کانہہ دیلاہ ان خدایہ سدہ
 حکمہ وراے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ باایمان ہزہ خدایہ سی پیٹھ توکل کرن وَمَا لَنَا إِلَّا
 نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا اُسہ کبہ چیز ہیکہ پتھ رتھ خدائس پیٹھ توکل کرنہ نشہ۔ حالانکہ
 اسہ باوہ تمسی سارے رڑوہ تہ۔ تمن منز دنیاو آخر تک نفع چھو۔ ہر گاہ توبہ سون و ن ناپسندیتھ اسہ توہ
 تکلیفی دیو کانہہ غم چھونہ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذِيْتُمُونَا اُس گرو ضرور صبر تھندین سارنی تکلیفن پیٹھ
 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرن والین ہزہ خدایہ سی پیٹھ توکل کرن وَقَالَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِي مَلٰئِكِنَا بیہ دُوپ کافر و پنہ نین پیغمبرن اُس
 کڈوہ تہہ ضرور پنہ نیو شرو منزہ تہ پھیر واپس سانس دیش گن۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
 الظَّٰلِمِينَ * وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ پس سوز اللہ تعالیٰ ان وحی تمن پیغمبرن گن کہہ پروانہ سز و
 کینہہ یو چھوس قسم ہاو تھ فرماوان کہ بوگا لکھ سم ظالم۔ تھنہہ گالنے پتہ بساودوہ تھی تھندین شہرن اندر

وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ^{۱۵} مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ
صَدِيدٍ^{۱۶} يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ط وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ^{۱۷} مِثْلُ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ
لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الصَّلْوُ الْبَعِيدُ^{۱۸}
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَاءُ يُهَيِّئْكُمْ

ذَلِكَ لِيَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ یہ مہربانی ہے تم کو کون بندہ خیرہ کھوڑن مہ بروٹھ کنہ
جواب دہی خیرہ وودنہ روزئس۔ یہ کھوڑہ میانہ عذابکس وعیدس وَأَسْتَفْتُوا وَحَابَ كُلِّ جَبَّارٍ
عَنِيدٍ تو پتہ رنج فتح پیغمبر و۔ اللہ تعالیٰ ان کفر تم فتح عطا۔ تو پتہ گو تہند پر تھہ کا نہہ سر کش دشمن نا امید
تہ خوار مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ تئس جہار عیدہ سندرہ خیرہ چھوڑنیوی عذابہ علاوہ بروٹھ نار جہنم تھہ منز
تم واتن۔ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ یہ یہ چاونہ سوتھہ تئس منز سو آب تھہ سیت جہنم ہند پیل
تہ پاک آسہ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ دامہ دامہ آسہ سو چوان سخت یوٹھ آسہ موکھ۔ سو آسہ نہ
تھہ تھہ تھہ ہیگان۔ پھکہ لدتہ بد مزہ آسہ موکھ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ یہ آسہ تئس موچ سختی
محموس سپدان بدنہ منزہ پر تھہ جاہہ۔ والہ گڈو منزہ تان وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ مگر مران آسہ نہ وَمِنْ
وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ تھہ پتہ تہ آسہ امہ خوتہ سخت عذاب مِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مثال تم
لو کون ہنزہ سمو انکار کور تہ مفر کور پتہ نس پروردگارس أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ
تہنزہ رژہ عملہ پھہ تھہ سورہ ڈیرس ہشہ تھہ واوہ ہکراوہ سخت واوکہ دوہہ۔ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا
عَلَىٰ شَيْءٍ تم ہیہ کہ نی نہ تم محلن ہند کا نہہ فاسیدہ حاصل کمر تھہ ذَلِكَ هُوَ الصَّلْوُ الْبَعِيدُ یہ گنیہ
دور و دراز گمراہی یوسہ رشڈو ہدایہ نشہ سیٹھاہ دور چھہ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ ژہ چھو کھنا وچھان ای وچھہ ونہ کہ پز پاٹ اللہ تعالیٰ ان کفر آسمان تہ تہ زمین تہ پیدہ۔ ہنز پاٹھ

وَيَاتِ بِمَخْلِقٍ جَدِيدٍ ۱۹ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۲۰
 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعْفُورُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا
 كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْعِنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ
 شَيْءٍ ط ۱ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سِوَاءَ مَا عَلَيْنَا أَجْرِعْنَا أَمْ
 صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۲۱ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ
 إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ

یہ سیت تہند قادر مطلق آسن ثابت سپدان چھو اِن تَشَافِئِدْ هَبْكُمْ وَيَاتِ بِمَخْلِقٍ جَدِيدٍ ہر گاہ سُو
 یزہیم توہمہ سارنی گرہ فنا۔ توپتہ کرہ پیدہ توہمہ بدل بین مخلوقن وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ یہ تمہ
 چھنہ نس نشہ کینہہ دشوار وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا بیہ نیرن قیامتک دوہ قبر منزہ ساری مخلوق خدا نس
 بروئٹھ کنہہ جمع سپدنہ خیطرہ۔ فَقَالَ الضُّعْفُورُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تہ تابع لو کہ زورا
 وارن تہ زٹھین اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا بیشک آس آس ناؤ نیاس اندر توہمہ تابع فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْعِنُونَ عَنَّا
 مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ نس بیو کہ تہہ از خدایہ سدہ عذابہ نشہ کانہہ حصاہ آسہ نشہ دور کتر تھہ قَالُوا
 لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ تم زٹھہ ڈپٹک ہر گے آسہ رٹو تھہ ہاو مثر آسہا اللہ تعالیٰ ان ضرور ہاوہ ہووہ اس
 توہمہ تہ سوسی و تھہ سِوَاءَ مَا عَلَيْنَا أَجْرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ برابر چھو وون آسہ جزع و فزع
 کرو آس یا صبر کرو آس بہر حال چھنہ آسہ موی کلخ کانہہ صورتھہ اسمہ عذابہ نشہ وَقَالَ الشَّيْطَانُ بیہ
 ویکھ شیطان لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ تمہ وقتہ اسمہ حکم خدا جاری سپدہ جتین ہندہ خیطرہ جتس منز و ایتک
 جہنمن ہندہ خیطرہ جہنمنس منز و ایتک۔ توپتہ لگن ساری جہنمی الییس ملامت کرنہ۔ سو ڈپکھ اِنَّ اللَّهَ
 وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ پیز پاٹھ اللہ تعالیٰ ان فرما یووہ توہمہ وعدہ۔ سوی پوز
 وعدہ بیہ کرمہ تہ تہمہ سیت وعدہ مگر سو در او ایز وعدہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بیہ آسہ نہ مہ
 نشہ توہمہ پیٹھ کانہہ دلیلہہ تہ تجھہہ یا طاقتہہ تہ غلبہہ اسمہ سیت یو تہہ مجبور کر ہووہ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ

لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُمْ فَاَسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلاَ
 تَلُوْمُوْنِيْ وَلَوْ وَا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِبَصِيْحِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِبَصِيْحِيْ
 اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ
 عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾ وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ
 تَحِيّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿۲۳﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً
 طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿۲۴﴾

فَاَسْتَجَبْتُمْ لِيْ صرف سُدّ يُوّى کہ مہ دیت تو بہ کفر س کن ناد۔ تو بہ کمر وہ تھ سو چنہ وراى اجابت
 تسليم فَاَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلَوْ وَا اَنْفُسَكُمْ کس نہ کمر و تہ مہ تج ملامت بلکہ کمر و ملامت پنہ نین پانن مآ
 اَنَا بِبَصِيْحِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِبَصِيْحِيْ وون بیکو وہ نہ بو تہ عذابہ بشرہ موکلا و تھ کیا زہ تو بہ کمر وہ میانس
 و نئس پیٹھ عمل خدایہ سُد فرمان مونوہ نہ۔ نہ بیکو تہ مہ عذابہ بشرہ موکلا و تھ۔ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا
 اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ یو جھوس انکار کران تہ اظہار بیزاری کران تہندس مہ شریک خدایانہ نس پیٹھ
 از کہ برو تھ دنیا س اندر اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بیٹھ تھہ اندر جھونہ کاہہ شک کہ
 مثر کن ہندی خیطرہ جھو کڈر عذاب وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
 تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ بیہ بین و اتاؤ نہ تم لو کہ سمو ایمان اون بیہ کر کیر رتہ عملہ تمن جتنن اندر سمو منز جو بیہ
 پکان آسن خلدین فیہا یادین رَبِّهِمْ ہمیشہ روزن تمن جتنن اندر خلدیہ سدہ ححمہ سیت تَحِيّتُهُمْ
 فِيْهَا سَلٰمٌ دعا تہند آسہ جتنن اندر بلفظ سلام۔ دنیا س منز چھہ سلام سلامتی ہند دعا جتنن اندر آسہ
 سلام سلامتی ہند مہار کباد۔ تمن جتنن بیہ تھہ پاٹھ سلام کرنہ۔ السلام علیکم اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ
 مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ کیاہ تو بہ جھنا معلوم کہ اللہ

تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۵﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ
 خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۲۶﴾
 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿۲۷﴾
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ

تعالیٰ ان رکوعہ رثہ موجع مثال کمر بیان کلمہ طبع یعنی کلمہ توحید بچ۔ فرمو ان کہ سو چھو افس رتس نہ
 پاکیزہ کلس ہیو۔ تمہ اندرہ چھو مراد خضر کل۔ میوک مول چھو محکم ز مینس منز۔ سبک شاخ چھہ
 آسان اندر تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا افس پن میوہ چھو دو ان پریتھ فصلس اندر خدایہ سندہ
 حکمہ سیت۔ تھے پاٹھ چھو کلمہ توحید لالہ الا اللہ امیک مول یعنی اعتقاد افس با ایمانہ سندس دلس اندر
 مضبوط نہ محکم چھو۔ امہ کلک شاخ گئے رثہ عملہ سمہ اتھ ایمانس پیٹھ مرتب چھہ سپان۔ سمہ
 قبولیتھ درگاہہ اندر آسان کن واتان چھہ۔ توپتہ چھو تھ پیٹھ رضای الہیک دایمی میوہ لگان وَيَضْرِبُ
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بیہ چھو اللہ تعالیٰ امہ قسجہ مثالہ بیان کران لوکن ہندہ
 خطرہ پیٹھ تم معانی مقصودہ وارہ بوزن وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ
 مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ پیٹھ نہ گندہ کلچ مثال چھہ۔ تھہ کلچ مثال۔ یعنی شر سمہ کلچ مثال چھہ تمہ پیٹھ کلچ مثال
 پیٹھ نہ ز مینس منز مول لٹھہ آسہ۔ سو آسہ زمینہ منزہ پیٹھ پیٹھی مولہ نیران۔ سو کھہ نہ قرار آسہ نہ تھہ
 کلس عنہ جابہ۔ سو گویدہ وانکن يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 مضبوط چھہ اللہ تعالیٰ کران با ایمان تمہ مضبوط کلمہ سیت (یعنی کلمہ توحیدہ سیت) دنیا چہ زندگی منزہ
 آخرتہ زندگی منزہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ گمراہ چھو کران ظالمین یعنی کافران تمہ مٹوس نہ گندہ کلمہ
 سیت وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ بیہ چھو سوتی کران یہ یشہان چھو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

دَارَ الْبُورِ ۲۸ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيُسُّ الْقَرَارَ ۲۹ وَجَعَلُوا لِلَّهِ
 اِنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۳۰ قُلْ تَسْعُوا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ
 اِلَى النَّارِ ۳۱ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
 وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ
 يَّآتِيَ يَوْمُ الْاَبْعِ فِيْهِ وَاِخْلَلُ ۳۲ اِنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ
 مِنَ الشَّجَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ

لَقَدْ وَاخْلَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ آیا توبہ و جھوہ تا من لو کن کن یعنی مکہ کین کا فر کن کن سمو نعمتہ شکر
 گذاری بدل نھر ان نعمت کو ربیہ و اتنو وہ کہ قوم ہن ہلاکتہ کس گرس منز۔ کیا زہ تمن تہ کر کہ کفرج تعلیم
 جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيُسُّ الْقَرَارَ سو گو جہنم یتھ منز تم و ائن۔ کا زاہ یتھ جای جھ سو قرارج
 وَجَعَلُوا لِلَّهِ اِنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ بیہ ٹھہراو سمو معبود بر حقش شریک۔ یتھ لو کن ڈا کن تہزہ
 وَتَرٰ نِسْرًا قُلْ تَسْعُوا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ٹہہ فرماؤ کہ یارسول اللہ تلو متع دنیاس اندر کینہہ
 کالاه کفرس پیٹہ روزنہ سیت۔ پزپاٹ بہر حال جھو توبہ پتولا کہ وائن ناری کن قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ٹہہ فرماو میانین بالیمان بندن کہ تم کرن خدایہ سزین نعمون شکر گذاری۔ یتھ پاٹھ
 کہ تم تھاؤن برپا نماز پبندی سان وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمُ
 الْاَبْعِ فِيْهِ وَاِخْلَلُ بیہ کرن خرچ تمہ مالہ منزہ بس اسی تمن عطا کو رہو شیدہ پاٹھ تہ ن پاٹھ تہ سو دوہ
 بینہ بروٹھ سمہ دوہہ نہ خریدو فروخت آسہ نہ دوستی ہند سلسلہ آسہ اِنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ معبود بر حق گو سوی تم
 آسمان تہ زمین پیدہ کر۔ بیہ سم آسماکھ طرفہ ترورود بس کنڈن تمی سیت میوہ تہ پھل۔ سوی کو زن ٹہند

يَا مِرَّةٌ وَسَخَّرْ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۚ وَسَخَّرْ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 دَائِبِينَ ۚ وَسَخَّرْ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَاتَّكُم مِّن كُلِّ مَا
 سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ
 لَقَلُومٌ كَفَّارٌ ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
 الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ ۝۳۵
 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۗ فَمَنْ

رزق وَسَخَّرْ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ يَا مِرَّةٌ وَسَخَّرْ لَكُمُ الْأَنْهَارَ یہ تھو این تہندس اختیارس اندرناوہ تہ جہاز۔ مٹھ تمہ تہندی حکمہ سیت دریاون اندر اورہ یور رکن۔ یہ کرن تہندس اختیارس اندر کولہ جو یہ تہ دریاؤ وَسَخَّرْ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ یہ کرن تہندہ نفعہ خیرہ مسخر آفتاب تہ زون سم ہمیشہ پکان چھہ پنہ کامہ سیت وَسَخَّرْ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ یہ کرن مسخر تہندہ نفعہ خیرہ رات تہ دوہ وَاتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ یہ دیت نوہ توہہ تمہ منزہ یہ توہہ مونگوکس پنہہ پڑھہ موجب وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا یہ ہر گاہ تمہ شمار تہ گر بندہ ہو کرن خدایہ سز ن نعمون تمہ ہیكونہ تمہ شمار کتر تہہ إِنَّ الْإِنسَانَ لَقَلُومٌ كَفَّارٌ پنہ پاٹھ انسان چھو سخت بے انصاف ناشکر گزار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا یہ پاوور تیس یلہ ابراہیم علیہ السلامن حضرت اسماعیل تہ حضرت ہاجرہ خدایہ سہہ حکمہ میدان مکس منزانتہ تہ تراو۔ ٹھی وقتہ منگوکھ دعا۔ ای میانہ پروردگارہ یہ شہر (یعنی متحدہ شریف) کرتن آمنہ وول شہراہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ یہ تھو تہ دورمہ تہ میانین خاص اولادان تہ پوتلین ہنز عبادت کرنہ لغہ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ پروردگار پنہ پاٹھ ڈال سمو پوتلیو واریاہ لوکھ۔ یعنی سم بنیای تہنزہ گرائی ہند سب فَمَنْ تَعْبُدْنِي فَإِنَّهُ يَتَّقِنِي وَمَنْ عَبَدَ الصُّوْمَ فَإِنَّكَ عَفْوَماً تَجِيبُوهُ ۗ وَإِن سَمَّ سُمُّوْا أُنْدَرہ میان متابعت تہ پیروی کتر سوہ چھو میون یہہ سم میان نافرمانی کتر، ڈہ کرن ہدایت کتر تھہ مغفرت۔ کیا زہ

تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي^{۳۶} وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ^{۳۷} رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ
 ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
 الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
 وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ^{۳۸} رَبَّنَا
 إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ
 مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ^{۳۹} الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

بے شک تُوہ جھوک سیٹھاہ مغفرت کرہون سیٹھارحم کرہون رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ
 غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ پروردگار اہنز پانٹھ مہ بسوؤ پئن فرزند اسماعیل علیہ
 السلام تہندہ واسطہ تمسند اولادیتھ میداںس منزئس نہ زراعتہ وول جھوچانس تعظیمہ والس گھرس خانہ
 کعبس محفلئس برونٹھ پیٹھ یتس موجوداوس یتھ لوکھ ہمیشہ تعظیم وادب کران روزن۔ پئن فرزند
 بسوومہ آٹھ محفل رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ پروردگار یتھ تم نماز برپا تھاون نمازہ ہند خاص اہتمام
 کرن۔ وئسکن جھویہ میدان خشک، بالکل بے آب و گیاہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
 ئس کر تھ بعضی لوکن ہمدول مائیل تمن کن۔ یتھ تمن سیت آباد پدن۔ چونکہ یتھ جھونہ زراعت
 وغیرہ کینہہ تہ لہذا وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ کھیا وکھ تم میوہ پنتہ قدرتہ
 سیت یتھ چان شکر گذاری کران رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ پروردگار لئہ سون دُعا
 جھو محض محتاجی تہ عبوؤئس پیٹھ مہنی ورنہ تُوہ جھو کہ زانان تہ سو روی یہ اس پُو شیدہ تھوان جھہ بیہ تہ
 سو روی یہ اس ظاہر کران جھہ۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بیہ
 جھونہ پُو شیدہ اللہ تعالیٰ اس نشہ کا نہہ چیزاہ زمینس اندر تہ آسمانس اندر الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ

وَهَبْ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ
 الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
 رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿۳۹﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿۴۱﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ
 اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
 لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿۴۲﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي
 رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِئْتُهُمْ هَوَاءَ ﴿۴۳﴾

لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ حمد یونین کس معبود بر حقس سم مه عطا کر بدتھ زه فرزند۔ اکھ
 اسمعیل یلہ بونمتہ وراوس۔ بیاکھ فرزند اسحاق یلہ بواکھ بت تہ باوہر اوس (۱۱۲) إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ
 پزیاٹ میون پروردگار چھو سیٹھاہ بوزہ ون مگنس۔ یعنی دعا قبول کرہ ون۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ
 الصَّلَاةِ پروردگار امہ گرتہ نماز گزار وَا مِنْ ذُرِّيَّتِي بپہ کر مچھ میانو فرزند واندوہرتہ بعضی نماز گزار
 رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ پروردگار اپہ کرتہ میان سم دعا قبول رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ پروردگار امغفرت کر میانس ماس ماجہ بپہ سارنی با ایمان
 سمہ دوہہ حساب قاسم سپدہ یعنی قیامتگ دوہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ بپہ مہ
 کر ژہ گمانہ اکی مخاطب اللہ تعالیٰ ماچھو بے خبر تمہو کامیوشہ سمہ کلمہ کافر تہ مشرک کر ان چھہ اِنَّمَا
 يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ سوچھونہ تمن مہلت دو ان مگر تھہ دوہس تان سمہ دوہہ
 ذرہ لگن تمن لوکن ہنزہ اچھہ تمہہ ڈہک خوفناک تہ خطرناک عذاب و مہمت مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي
 رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِئْتُهُمْ هَوَاءَ دوران آسن تم حسابہ کس مو قفس کن کلمہ
 پن تھو در تھہ۔ اچھہ آسکھہ وٹنے یوان تم آسکھہ درہ لجموہ ہیورگن۔ بپہ آسکھہ دل خالی عقلہ نشہ۔ بالکل

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّسُبِّ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ أُولَٰئِكَ تَكُونُوا آقِسْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَمْ مِنْ زَوَالٍ ۖ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۖ وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۖ فَلَا تَحْسَبَنَّ لِلَّهِ فُجُوفًا

بدحواس آسن گامت وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ بیه کھوژہ ناویو کھ نجه لوکھ یارسول اللہ تته دوہس سمہ دوہہ سم پٹیہ عذاب ولتر فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ عذاب وچھتھه ون سم ظالم پروردگار اہملت وتہ آسہ کم کالس تان نَجِبُ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ تته مدتس اندر کرہ ہو آس تہ سوزوی یہ ژہ فرماوہکھ۔ بیه کرہ ہو متابعت تہ پیروی چانین پیغمبرن ہنز۔ ومنہ ایک اسہ دژایہ نا توہہ ذنیاعس اندر پور اہملت أُولَٰئِكَ تَكُونُوا آقِسْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَمْ مِنْ زَوَالٍ کیاہ نجه آسوہ نا قسم ہاوان ازکہ برونھہ ذنیاعس اندر کہ تودہ چھونہ ذنیاندہ نیر نوئی زانہہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بیه آسوہ نا نجه ہسان تمن لوکن ہندین شہرن اندر سمو ظلم کورپان پانس سان نا فرمانی کمر تھہ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ بیه نیندوہ نا توہہ آسہ کیاہ معاملہ کور تمن سمیت۔ اتھہ نا فرمانی پٹیہ کتیہ سزادیت اسہ تمن لوکن وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ بیه کرہ نا سہ بیان تودہ تہزہ مثالہ تہ تہندہ قصہ وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ پز پانھہ سمو کریای پن ساری تدبیر بیشک تمہ قسمک سمو سمیت کوہ تہ پنہ جایہ ڈلہ ہن مگر تم ساری تدبیر سپد بیکار فَلَا تَحْسَبَنَّ لِلَّهِ فُجُوفًا وَعَدِيدًا رُسُلًا ای مخاطبہ ژہ منہ گر ہرگز یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کیاہ چھو بدل کرہ ون پنہ نس وعدس نس تم پنہ نین پیغمبرن سمیت کور اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ پز پانھہ اللہ تعالیٰ چھو غالب انتقام ہینہ وول۔ نس ہیچہ نہ پتھہ رتھہ انتقام تہ بدلہ ہینہ نشہ کاہنہ۔

وَعْدِهِ رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۳۶﴾ يَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ
 غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۳۷﴾ وَتَرَى
 الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿۳۸﴾ سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ
 قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿۳۹﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا
 كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۴۰﴾ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا
 بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا الْأَبَابِ ﴿۴۱﴾

غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ سمہ دوہہ بدلاو نہ پیرہ یہ زمین میں زمین سے سمیت سمیت یہ آسمان میں آسمان
 سمیت وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ساری لو کہ نیرن پنہ نیو جایو اندرہ کئس قہرہ والس خدا کس برو تھ
 کنہ جواب دنہ خیرہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ پیرہ وچھو کہ توہہ نافرمان ہا لکن
 تہ تھہ کرین منزاکہ اکس سمیت بند کرنہ آمت۔ سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ کر تہنہ تہنہ آسن تار کولچہ
 وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ولہ تہندین تھین نار۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ یُتھ اللہ تعالیٰ
 بدلہ دیہہ پریتھہ اکس جرمس تمہہ سارہ گوی یہ تم کورمت آسہ دنیاء س اندر إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
 پز پانھ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب ہیوہ ون۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ
 وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا الْأَبَابِ یہ قرآن مجیدیہ سورہ شریفہ چھو کافی نصیحتہ خیرہ یہ یٹھہ تمہہ
 سمیت نیم کرنہ پیرہ۔ یہ یٹھہ تم زان اللہ تعالیٰ چھو معبود برحقہ گوی یہ یہ یٹھہ امہ سمیت نصیحت رلن عقلہ وال۔

سُورَةُ الْحَجَّرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الرَّقَّتِ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ①
 رَبِّمَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ②
 ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ
 يَعْلَمُونَ ③ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا كِتَابٌ
 مَّعْلُومٌ ④ مَا سَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ⑤

الر - سم چھ حروف مقطعات سم ہندہ معنی چھ خدیہ سی خبر تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ سم چھ آیات سج کتابہ ہند۔ بیہ روشن قرآن مجید۔ رَبِّمَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ یتھ قیامتک دود سپدہ ، کافر آسن واریاہ قسمہ کین عذابن منزبتلا۔ تی وقتہ کرن پھیر پھیر تمنا، کونہ آس آس یتھ مسلمان۔ سمہ سمہ سادہ تم وچھن مسلمانن ہنز کامیالی یا سمہ سمہ سادہ تم نوس عذابس آسن گرفتار سپدان ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تراویک تم پنہ نس حاکس پیٹھ کھین وارہ پاٹھ۔ بیہ نکلن تمتع مال دُنیاک۔ غافل یتھ آور چھہ کران تمین زہتھ آرزوتہ بڑھ مقبویہ۔ نس برونتھ پھن زانن تم پائے۔ مَرَّتْ تَحْتِي سَدَةٌ تمین حقیقت حال معلوم وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ بیہ کمر نہ اسہ ہلاک کُنہ شہرک لوکھ۔ مگر تہندہ خیطہ اوس ہلاکک وقت لیکنہ آمت، مقرر کرنہ آمت۔ تی سببہ چھنہ یکن یتھ نافرمانی پیٹھ فوراً سزایوان دنہ۔ مَا سَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کانہہ اُمّتاہ گڑھنہ برونتھ پنہ نس مقرر کرنہ آقس و قس نہ گڑھہ پتھ۔ یتھ پاٹھ سمہ سادہ یکن لوکن ہند گنکک وقت ولتہ تمہ سادہ گنن سم

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿۶﴾ لَوْ
 مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۷﴾ مَا نُنزِلُ
 الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴿۸﴾ إِنْ أَنْحَنُ
 نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿۹﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ
 قَبْلِكَ فِي شِعْرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۰﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
 كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۱﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۲﴾
 لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا

شُرور وَا قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ یہ لگ کہ تمہیں تمہیں کافر تو ہے یا رسول
 اللہ، اے شخص کس بیٹھ نازل آ کر نہ قرآن، بے شک تمہیں وہ موت سے دیوانہ۔ وہ تمہیں نبوت تک غلط
 دعویٰ کران لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ورنہ ہر گاہ تمہے آتھ دعویٰ اس اندر
 پر زبر چھو۔ تلمہ کونہ چھو کہ اسمہ بروٹھ کن ملائکہ اناں اسم اسمہ نغمہ تمہیں تصدیق کرہ بن۔ اللہ تعالیٰ چھو
 فرماوان مَا نُنزِلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ اس چھو کہ ملائکہ سوزان مگر فیصلہ ہیتمہ وَمَا كَانُوا إِذًا
 مُنظَرِينَ تھہ صورتس اندر ہیتمہ نہ تمن تمہہ وقتہ مہلت دنہ۔ تمہہ ساتہ چھو تمن ایمان انن یا عند انس
 گرفتار سپدن إِنْ أَنْحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ بیشک اسی کمر نازل یہ قرآن مجید۔ کج دلیل
 چھو تمیک مجرہ آسن۔ ہیتمہ چھہ اسی تھہ راجھہ گرہ ون۔ تھہ اندر ہیتمہ نہ کا نہنہ نہ کی کمر تھہ نہ زیادتی کمر تھہ
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْرِ الْأَوَّلِينَ پتر پاٹھ سوزہ اسمہ توہہ بروٹھ تہ یار رسول اللہ پیغمبر
 بروٹھنن جماعتن کن وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اوس نہ دیوان تمن نغمہ کا نہنہ
 پیغمبر مگر تم آس کس استہزاء تہ ٹھہہ کران كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ تھہ پاٹھ چھہ آس
 انبیاءن ٹھہہہ کران خیال۔ نافرمان ہندین دلن اندر پیدہ کران لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةَ

عَلَيْهِمْ بِآبَائِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿۱۲﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ
 أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ
 بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿۱۶﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
 رَجِيمٍ ﴿۱۷﴾ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ ۖ يَشَآءُ مَبِينٌ ﴿۱۸﴾
 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ ۖ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ ﴿۱۹﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۖ وَمَنْ

الْأُولَئِكَ تَمِ سَبِيه كَرْن نَه تَم پَرَه اَتَه قَرَا ن مَجِيْد سِيَه نُو كَتَاهَه هَهْنَه سِيَه هَهْوَر سِي رُوْدُمْت بَرُو تَهْمِيْنَ
 لُو كُنْ هُنْدَه لَهْزَا مَه سَهْدُو تَه اَزْرَدَه تَه نَمَكِيْنَ هَهْنَه عَنَا دَج كِيْفِيْت هَهْه زَه مَلَا كِيْنَ هُنْدَه اَسْمَا كِيَه طَرَفَه نَا زِل
 سَهْدَان تَه وَسْن تَهَاو تَوَا نَهْسِيَه هِرْ گَاه تَمِي لُو كَه اَسْمَا نَس يِيْطَه كَهَا رُو كَه تَهْه پَا تَهْه كَه وَلَوْ فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بِآبَائِنَ
 السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ هِرْ گَاه اَسْمَا نَس مَوْرَاوُو تَهْنَه هَ خِيْطَرَه اَسْمَا نَك دَرَوَا زَه تُو پِيْتَه بِيْن كَهْسَن تَم دُو بَلَه
 (بِيَه وَقْتَه نَه نَنْدَرَه هُنْدَه مَوْ قَع اَسْمَه) تَهْمَه دَرَوَا زَه كُنْ اَسْمَا نَس كُنْ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا تَوْتَه يِيْ كَهْه نَه
 پَرَهْدَه دِهْنَه لَكُنْ سَا نَه اِ چَهْه هَهْنَه مَ گَر بَنْد كَرْنَه اَمْرَه اَسْمَه هَهْنَه اَسْمَا نَس كَهْسَان بَلْ كَهْه اَسْمَه نَظَر بَنْدِي كَرْنَه
 اَمْرَه بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بَلْ كَهْهْوَا سَه پِيْطَه حَر تَه جُوْد كَرْنَه اَمْتَه اَسْمَه عِلَاوَه تَه كِيْ نِهْه هَاوْنَه
 بِيَه تِيْتَه اَسْمَه اِيْ يَعْنِي حَر تَه جُوْد وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ پَنَز پَا تَهْه بِيَه كَمْر اَسْمَه
 اَسْمَا نَس اَنْدَر بَرَج پِيْده بِيَه كَمْر اَسْمَه تَم اَسْمَا نَس مُزِيْنَ وَحَهْنَه وَالِيْنَ هِنْدَه خِيْطَرَه وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ
 شَيْطَانٍ رَجِيمٍ بِيَه كَمْر اَسْمَه تَهْه رَا چَهْه پَر تَهْه كُذْ تَهْه ذَهْنَه اَقْس شَيْطَا نَس نَهْه اِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ
 السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ ۖ يَشَآءُ مَبِينٌ مَ گَر يَم شَيْطَا نَس ثَوْرَه پَا تَهْه كُنْ دُو يْتَه ، كَا نِهْه خَبْرَا هُو زَنْ تَمِس هَهْوَو پِيْتَه
 دُوْرَا ن رُو شَن تَا زَكَا هَرِيْهَه تَرَاوَا ن سَمَه سِيْت سُو شَيْطَا ن هَهْوُو هَلَا ك سَهْدَا ن يَابَد حَوَا س سَهْدَا ن اِيْ طَرِيْقَه
 هَهْه اَسْمَا نَس شَيْطَا نَس نَهْه اَسْمَا نَس حَفَا ظَت كَرَا ن وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ ۖ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ بِيَه دِهْرُو اَسْمَه زَمِيْنَ هَهْه تَهْه مَنَز لَكُنْ اِنْسَان تَهْه حَيَوَا نَا تَهْه تَهْه مَنَز تَرَاوَا سَه گُو بَرَه

لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ﴿۲۰﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
 نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿۲۱﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزِيرِينَ ﴿۲۲﴾ وَ
 إِنَّا لَنَحْنُ مُعْتَبِرٌ وَنُيُبِتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿۲۳﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
 الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿۲۴﴾ وَإِنَّ
 رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

تہ ثقہ خیطرہ لنگریختے پڑ پڑ کوه۔ بیہ کھوراسہ تمہ زمینہ منزہ پرستھ چیزاہ میٹھ تہ وزن کمر تھہ وجعلناکم
 فیہا معایش بیہ کمر پیدہ اسہ اتھہ زمینس منز تھہ خیطرہ زندہ روز نک سامان۔ کھینک چیز تہ چینک
 چیز، لباس تہ پوشاک وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ بیہ کمر اسہ تھہ فایدہ خیطرہ تم مخلوق پیدہ سکن
 روزی دودہ وان تھہ چھوہ نہ بلکہ چھہ اسی تمن رزق عطا کران۔ تھہ چھوہ تمن نشہ فائدہ تھان ولان من
 شئی إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَأَنْزَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ بیہ چھوہ نہ کابہ چیزاہ از قسم رزق مگر تمک خزانہ
 ہمد خزانہ چھہ اسی نشہ۔ اسی چھہ تراوان تہ نازل کران مگر اکہ مقدارہ موجب وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ
 بیہ چھہ اسی سوزان داویم ہر چھہ کران ابرس آبہ سیتِ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاکُمُوهُ توپتہ
 چھہ اسی تراوان آسمانک طرفہ رود۔ توپتہ چھہ اس توہہ سیراب کران وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزِيرِينَ تُوہہ بیہ
 ہونہ تیوت آب اسی جلیہ جمع کمر تھہ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُعْتَبِرٌ وَنُيُبِتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ بیہ چھہ اسی زندہ
 کران تہ ماران۔ بیہ چھہ اسی ساری مارت پتھ کن باقی روزہ ونِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ
 وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ پتھ پاتھ اسہ چھہ خبری توہہ آندرہ برو تھہ گوشہ ونین ہنز۔ بیہ چھہ پتھ
 پاتھ اسہ خبری توہہ آندرہ پتھ روزہ ونین ہنز وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ پتھ پاتھ
 تھہ پروردگاری سونہرہ تمن سارنی اولینن تہ آخرینن۔ پتھ پاتھ سوی چھہ سیٹھاہ جمتہ وول، سیٹھاہ
 زان وول۔ اسی چھہ خبر گس مخلوقہ سد کم کم اجزاء تھہ تھہ جلیہ چھہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۶﴾ وَالْجَانَّ
 خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ﴿۲۷﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
 لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۸﴾
 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿۲۹﴾
 فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۳۰﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ط ابى أَنْ يَكُونَ مَعَ
 السَّاجِدِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ
 لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۳۳﴾

صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ بیه کمر اسه پیده پتڑ پاٹھ انسان خشک گامرہ زبہ۔ بیتھ تر نو تر نو
 گوہان اوس بیتھ وار تہس کالس آہس منز روزنہ سبب مشک و دشمت اوس وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ
 قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ بیه کمر جن پیدہ امہ بروٹھ، نارہ چہ رہیہ بیتھ سمیت زوہ اوس۔ وَإِذْ قَالَ
 رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ سو وقت یہ ہتھو قابل ذکر یلہ تہند
 پروردگارن فرمود ملائکین ای ملائکو بو کرن پیدہ اکھ مخلوقہ اکھ سمند پوست نوئے جزوہ رای آسہ تغیر
 گمہوہ زبہ بوسہ خشک گڑھت دزان آسہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِينَ تو
 پتہ یلہ بوسو مکمل کرن بیه برہ بو تہندس بدئس منز بہن روح تمہ سائہ گڑھہ تہند فوراً اُس کن ٹمن سجدہ کس
 حالتس اندر روزن میاہہ روجہ تعظیمہ خیطرہ فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو پتہ یلہ سو وقت دوت
 ساروی ملائکو دیت سجدہ اکہ وٹہ إِلَّا إِبْلِيسَ مگر دیت نہ سجدہ البیسن ابی أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
 تم کور انکار سجدہ دنہ والین سیت شامل سپنہ نشہ قَالَ خدائسن فرموس يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ
 مَعَ السَّاجِدِينَ ای ابلیس ژہ کیاہ سپدوی ژہ سپدکھ نہ شامل سجدہ دنہ والین سمیت قَالَ البیسن دوپ
 لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ بو گوس نہ سو شخص بو کیا دمہ سجدہ کس

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ^{۳۶} وَإِنَّ عَلَيْكَ
 اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ^{۳۷} قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
 يُبْعَثُونَ^{۳۸} قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ^{۳۹} إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ
 الْمَعْلُومِ^{۴۰} قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ^{۴۱} إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
 الْمُخْلِصِينَ^{۴۲} قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ^{۴۳} إِنَّ
 عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ

بشرس نِسِ ثَرِه پیدہ کور تھن تغیر گمبہ رَبِّ۔ یوسہ خشک گجھت دزان آس قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ
 رَجِيمٌ خداین فر مووس تلہ نیر ژہ جتہ منزہ کیا زہ پز پانٹھ چھٹھہ ژہ مر دود۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ
 اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ پز پانٹھ بیہ چھ ژہ پیٹھ لعنت قیامتہ کس دوہس تام یعنی ہمیشہ قَالَ رَبِّ
 فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اہلسین دُوپ پروردگار اہر گاہ یو حضرت آدم سندی وجہہ مر دود
 کور تھس تلہ دمہ مہلت تھہ دوہس تان سمہ دوہہ ساری انسان دوبارہ بیہ زندہ کر تھہ قبر و آندرہ کڈنہ
 یں۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اللہ تعالیٰ آن فر مووس بیشک چھو کہ ژہ مہلت دنہ آتیو آندرہ
 إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تھہ مقرر کر نہ آتس دوہس تان قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ
 لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اہلسین دُوپ خدایا سمہ وجہہ کن ژہ کور تھس بو گراہ
 مہ چھو قسم بو کر کہ گراہ بنی آدم۔ معاصی تہ گنہن دمہ تمین زینت دنیا س اندر۔ چھہ کامہ آن بوزنہ
 یوان تمین جان بیہ کر کہ بو ساری گراہ سیزہ و تہ نشہ ڈالکھ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ مگر چلیم
 نہ کینہہ چانین مخلص بندن پیٹھ ہم ژہ میانہ اثرہ نشہ محفوظ تھو تھہہ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ
 اللہ تعالیٰ آن فر مووس نِسِ مہبوی اخلاصی کیا چھہ مہ تان و اتج سیز و تھہ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ

مِنَ الْغُيُوبِ ﴿۳۲﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۳﴾
 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿۳۴﴾
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۳۵﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ
 آمِنِينَ ﴿۳۶﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَى
 سُرِّ مُتَقَابِلِينَ ﴿۳۷﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا
 بِمُخْرَجِينَ ﴿۳۸﴾ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۳۹﴾ وَإِنَّ

عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُيُوبِ ہنز پانچ میانین ہندن پیٹھ چھوی نہ ژہ کاہنہ طاقت گمراہ
 کرنک، مگر تے سم چان پیروی کرن، چانہ تھ مان، ڈلیو آندہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
 بیشک نار جہنم چھو تین سارنی ہندہ وعدج جای۔ یعنی ژہ تہ چانین پیرون ہندہ خپرہ چھو جہنم تیار کرنہ
 آمت لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ تہہ جہنمست ہتھ ست (۷) دروازہ۔
 پر تہہ دروازہ خپرہ چھو تمونا فرمان لو کو آندہ اکھ اکھ حصہ مقرر کرنہ آمت إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي
 جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ہنز پانچ متقی تہ پر ہیزگار، سم خر کہ نشہ، نافرمانیو نشہ ہتھ رودمت آسن، تم آسن
 باغن اندر، تین منز کم چشمہ، ناگہ راد آسن پکان، تین بیہ ونہ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ای
 بالیمانو اثر و تین جہن اندر بسلامتی، امن و امانہ سان وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْوَانًا
 عَلَى سُرِّ مُتَقَابِلِينَ بیہ آسہ آسہ کو ڈمت بر و نطھی تھند دیو لو اندرہ سوزوی کینہ تہ حسد۔ تمہ
 سبہ آسن تم بای بای سیدہ سیود تھن پیٹھ بہتھ۔ اکھ اگی سُد درجہ و ہتھ آسکھ نہ رشک تہ حسد سپدان
 لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ و اتان آسہ نہ تین جہن منز کا نہہ تکلیفہ بیہ یکن نہ
 تم کڈنہ زانہہ تمو جنتو آندہ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
 فرماو وجہہ یارسول اللہ میانین ہندن بیشک بو چھوس سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن سیٹھاہ رحم کرہ و ن۔ بیہ
 چھو میون عذاب تہ سیٹھاہ کڈر عذاب وَتَبْتَهِمْ عَنْ صَيْفِ الْإِبْرَاهِيمَ بیہ کڑ و حص میانین ہندن خبر۔

عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿۵۱﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿۵۱﴾
 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿۵۲﴾
 قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلَيْكَ ﴿۵۳﴾ قَالَ أَبَشْرْتُمُونِي
 عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿۵۴﴾ قَالُوا ابْشُرْنَا
 بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَنِطِينَ ﴿۵۵﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ
 رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿۵۶﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا
 الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۷﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۵۸﴾ إِلَّا آلَ

حضرت ابراہیمہ سندین پڑھیں ہنز۔ پائے ترکیہ فخرہ تھہ پاٹھ جھہ اللہ تعالیٰ سد دوشوے صفت۔
 رحمک صفت تہ غصبک صفت ظاہر سپان ہنس ہنس موقس پیٹھہ اذ دخلوا علیه فقالوا سلمًا یلہ
 تم پڑھہ ژای تمن نش توپتہ کر کہ سلام قال انما منكم وجلون حضرت ابراہیمن دوپچھ اُس جھہ
 توہہ کھوژان قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلم عليك تمودو پیچھ کھو ژومہ بلکہ گوہو خوش کیا زہ
 اُس جھہ توہہ خوشبر واتاوان اُس عالم فرزندہ سز قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فيم تبشرون
 حضرت ابراہیمن فرمود کہ کیا جہہ جھوہ مہ فرزندہ سز خوشبر ونان۔ حالانکہ بو جھوس
 وون بڈ یومت۔ ہس کتھ پاٹھ جھوم خوشبر ووان قالوا ابشرك بالحق فلا تكن من القنطين تمودو
 دوپچھ اُس حض جھہ ہنز پاٹ توہہ خوشبر ونان۔ پس مہ سپد یوتہہ نامید قال ومن يقنط من رحمة
 ربه الا الضالون حضرت ابراہیمن فرمود کہ خدایہ سندہ رحمتہ نشہ کبہ سپدہ نامید گراہو ورا ی
 قال فما خطبكم ايها المرسلون توپتہ فرمود، کھ توہہ کیا کوم جھہ بیہ، ای خوشبر ہمت سوزنہ
 آتید ملکو قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين تمودو پیچھ بیشک اس جھہ سوزنہ آمت اُس نافرمان
 جرائم پیشہ قومس کن جہندہ ہلاک کرنہ خیطرہ۔ تمن سزاونہ خیطرہ إلا آل لوط انما نبؤهم اجمعين

لُوَطِطًا إِنَّا لَنَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۶۹﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّمَا لَيْسَ
 الْغَيْرُونَ ﴿۷۰﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿۷۱﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ
 مُنْكَرُونَ ﴿۷۲﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُّونَ ﴿۷۳﴾ وَ
 آتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۷۴﴾ فَأَسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ
 اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا
 حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۷۵﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَانَ دَابْرَهُوَأَلَاءِ

مگر نہ حضرت لوطہ سندس خاندانس پز پاپٹہ تین سارنی ہندہ خیطرہ جھہ اس نجات دودہ ون إلا امراۃ
 قَدَرْنَا إِنَّمَا لَيْسَ الْغَيْرُونَ مگر نہ حضرت لوط سوزنانه تمسدہ خیطرہ جھہ اسہ مقر کورمت کہ سہ جھہ
 کافرن سیت روزتھ عذابس گرفتار سپدن واجین۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ تمہ پتہ یلہ
 وات تم سوزنہ آمت ملک لوطہ سندس خاندانس نغہ انسان شکلہ اندر قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ تمو
 دوپہک جہہ جھہوہ بیشک بوزنہ یوان غیر زان جماعتہاہ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُّونَ تمو
 دوپہک نہ اس دوپہر جھہ بلکہ جھہ اس آمت توہہ نش سو چیز ہتھ ہتھ منزیم لو کہ شک نہ تردد کران
 اس یعنی ہند خیطرہ عذاب وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بیہ جھہ آمت اس توہیہ نشہ پختہ تھہ
 ہتھ بیہ جھہ اس یقینا پوزنہ ون فَأَسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ
 أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ہس کڈیون پن عیال سمہ شہرہ اندرہ رازہ ہدس ہتھ حصص اندر۔
 جہہ نہ نیریو کہ سیت پتہ پتہ۔ توہہ اندرہ ہتھہ پوت نظر کاہہ دیہ۔ بیہ گوہو تو ٹوہی ہتت توہہ حکم کرنہ
 او یعنی شہر شامس ن وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَانَ دَابْرَهُوَأَلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْحِفِينَ بیہ سوزاسہ حضرت
 لوطس نش بیہ حکم کہ پز پاپٹہ سمن لوکن ہند مول جھہوزنہ آمت یتھوی تم صحتس دو تھن وَجَاءَ أَهْلُ
 الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ توپتہ ای امہ شہرک لو کہ حضرت لوطس نشہ یمن خوبصورت مہمانس ہند
 بوزتھ خوشیہ نہ شادہ کران کہ شکار بیوہ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون حضرت لوط سپد

مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۶۷﴾
 قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿۶۸﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا
 تُخْرُؤْنَ ﴿۶۹﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿۷۰﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي
 إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۷۱﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۷۲﴾
 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۷۳﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَاو
 أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿۷۴﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿۷۵﴾ وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿۷۶﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

غمگین تمودوہیک تم ہاجہ میان مہمان بس مہ مندر چھاوومہ واتقوا اللہ ولا تخزؤون بیہ کھوژو
 خدا بس بیہ مہ مندر چھاوومہ قالوا اولم ننہک عن العلمین تمودوہیک اس چھنا توہیہ مع کران کہ
 ہتہ مہ آسبو کہ عالمک لو کہ گرہ انان تہ مہمان بناوان قال ہولاء بناتی ان کنتم فعیلین حضرت
 لوطن فرمود کہ پڑپاٹ یہ ٹہنڑہ زنانہ ہتہ میانین کورین برابر، ٹہنڑ خواہش پورہ کر نہ خیطرہ ہتہ تمہ
 کافی۔ حلال چیز تراوتھ کیاڑہ چھوہ حرام چیزس پتہ لاران لعمرك انہم لفي سكرتہم يعمہون تہنڈہ
 جانک قسم یار رسول اللہ قوم لوط اوس پنڈہ مستی منزگیران۔ تمن اوس نہ بوزئے یوان کینہہ سون دوگن
 حضرت لوط سدھ فرماو تک آس نہ کانہہ پروا کران فأخذتہم الصیحة مشرقین پس رٹ تم
 صمبس آفتاب کھسن وزہ جبریل اینہ سزہ کریکہ فجعلنا علیہا سافلہا و امطرناعلیہم حجارة من
 سجیل تہ پتہ کوراسہ تہندس شہرس تلگ پیٹہ۔ بیہ تروداسہ تمن پیٹہ سگ باران، میڑہ بھل یم
 نارس منزینہ آس آمت۔ تے آس کنہہ ہتہ گامت تے تر ویکہ پیٹہ رُودک پاٹھ ان فی ذلک لآیت
 للمتوسمین پڑپاٹھ اتھ قصس منزچہ واریاہ نشانہ تہ دلیلہ واروہ چھن والین ہندہ خیطرہ وانہا
 لسبیل مقیم پڑپاٹھ تہند شہر چھہ من و تہ پیٹہ۔ بس نیار پکان چھو تس چھہ تم تباہ و برباد گامت شہر

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۰﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿۷۱﴾ فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّمَا لِلْمُشْرِكِينَ ﴿۷۲﴾ وَاتَّيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۷۳﴾
 وَكَانُوا يُنَجِّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿۷۴﴾
 فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿۷۵﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا
 كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۷۶﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بوزنه یوان اِنْ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ پز پاپھ اتھ منز چھو بوڈ نشانہ با ایمان ہندہ خیطرہ
 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ بیہ آس پز پاپھ کلین تہ ڈھن تل روزہ دن، قوم شعیب سیٹھاہ ظالم تہ
 نافرمان فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ لپس ہیوت اسہ انتقام تمن دوشون قومس۔ ہز پاپھ
 تم دوشوے قوم آس بسان نہ و تہ پیٹھ۔ صاف سزیمہ پیٹھ۔ پچار مکہ شریفہ پیٹھ شام شریف لوکھ
 گوہان آس۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ہز پاپھ بیہ کور انکار حجرہ والیوتہ پیغمبرن۔ سوگو
 قوم نمود سمن کن حضرت صالح پیغمبر سوز نہ امت آس۔ اکس پیغمبرس انکار کرن گوسارنی پیغمبرن
 انکار کرن۔ تم آس بسان شہر حجرس منزئیس مدینہ منورس تہ شام شریفس در میان واقع اوس
 وَاتَّيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ بیہ واتناولسہ تمن نشہ تہ پن نشانہ تہ دلیلہ مگر تمو پھیر تمہ دلیلہ
 وچھتھ تہ بھہ کاہنہ التفات کوز کہ تہ آیتس کن وَكَانُوا يُنَجِّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
 تم آس کوہن منز گور تھ گرہ بناوان تمنی گرن منز آس امن و امانہ سان بسان فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ
 مُصْبِحِينَ لپس رٹ تم تہ کریمہ صبحہ وقتہ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ لپس دیوت نہ
 کاہنہ فایدہ تمن تمو مضبوط تہ محکم گرو۔ تم تم بناوان تہ تیار کران آس وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ بیہ کرنہ اسہ آسمان تہ زمین بیہ تہ تمن دون منز چھو پیدہ مصلحتہ
 بغیر بلکہ بھہ تھندس پیدہ کرنس اندر سیٹھاہ مصلحتہ بیہ گہ بد مصلحت کہ آسمان زمین وچھتھ کرن عقلہ

بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفِرِ الصَّفْحَةَ
 الْجَمِيلَ ﴿۸۵﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۶﴾ وَقَدْ آتَيْنَاكَ
 سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۸۷﴾ لَا تَمُدَّنَّ
 عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ
 عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا


وال استدلال اللہ تعالیٰ سندس وجود سے عظمیٰ پیٹھ۔ یہ تھ لازم چھو کہ تہ خدایہ سنز شوبہ اطاعت
 کرن۔ اُس شخص اطاعت کرہ تہ، تہ ایہ اجر و انعام عطا کرنہ۔ اُس نہ اطاعت کرہ تہ تہ تہ خیرہ
 چھو عذاب سو عذاب پیہ نہ ذنیاس اندر کرنہ۔ سولایہ قیامتگ دودہ کرنہ **وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ** سو
 قیامت چھ ضرور اودہ و تہ منزایہ نافرمان سزاوندہ۔ **فَاصْفِرِ الصَّفْحَةَ الْجَمِيلَ** لہذا مہ کھیو تہہ کاہنہ
 غم۔ بلکہ کرو نہایت خوبی سان تہندین شرارتن عفو، درگزر **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ** ہر پانچ
 تہند پروردگار چھو بوڈ پیدہ کرہ و ن۔ سو چھو سو روی زانہ و ن سارنی ہند حال چھو س معلوم۔ تہندہ
 صبرک تہ تہندین شرارتن ہند تہ۔ لہذا ہیہ سوتمن نشہ پورہ پورہ بدلہ تہہ مہ و چھو تہندس معاملس کن
 کہ سو چھو سپدان توہہ موجب غم تہہ و چھو سائیس معاملس کن کہ اُس کمرہ قسمہ چھہ توہہ سیت لطف و
 مہربانی ہند معاملہ کران۔ چنانچہ **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ** ہر پانچ
 کر عطا توہہ سنت آیہ کریمہ بیہ قرآن عظیم ہم سنت آیہ پھیر پھیر چھہ یوان پر نہ پر تہ نمازہ اندر بیہ سورہ فاتحہ چھو
 جامع بڈین بڈین مضمون۔ تہہ وجہہ چھو تہہ قابل کہ اتہ بیہ و نہ قرآن عظیم تہہ بوجہ عظمت ام القرآن لقب
 چھو۔ لہذا تہا و وجہہ نظریہ نعمت عطا کرہ و ن س کن تہ اتہ نفس کن، تہ سپدہ توہہ فرحت و سرورک باعث۔
 لو کن ہندس عنادس تہ مخالفس کن مہ کرو تہہ التفات۔ **لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
 مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ** مہ حض زبٹھ راو و نظر ہن تہہ مال
 ذنیاس کن سہمہ سیت تمتع ملہ نا و اُس سہمو کافر و اندرہ بعضی لو کہ۔ بیہ مہ کھیو تہند غم۔ بیہ تراو و بون بازوی

التَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿۸۹﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ ﴿۹۰﴾
 الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿۹۱﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسُدَّنَّهُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿۹۲﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
 وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۴﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿۹۵﴾ الَّذِينَ
 يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾ وَلَقَدْ نَعَلُمْ

مبارک پن بایمان ہندہ خیرہ۔ یعنی تمن آسویس یوان بتواضع نہ نرمی و قُلْ إِنِّي أَنَا التَّذِيرُ الْمُبِينُ
 بیہ آسوفرموان ہز پانہ بہ چھوس دن پانہ خدیہ سندہ عذابک نیم کردون توہہ سارنی کَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى
 الْمُقْتَسِبِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ آسہ کورنازل توہہ پیٹھ یہ قرآن مجید۔ ہتھ پانہ آسہ
 یہودونصاری ان پیٹھ کتاب نازل کرتمو تمن کتابن پارہ پارہ کور۔ یہ خوش اوسکھ کران تہ آس تھوان۔
 یہ نہ خوش اوسکھ کران تہ آس کڈان۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسُدَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کس
 چھو قسم ہندس پروردگارہ سند ضرور پرڑھو آس تمن قیامتگ دوہ تمہ سارگوی یہ تم کران آس توپتہ
 ومو پریتھ آس سزا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کس ن پانہ واتاودتھہ تم احکام
 تمن ہند توہہ ہم چھو یوان کرنہ رومی مبارک پھر و مٹر کن نغیہ۔ تمن ہندمہ کرد کانہہ پروای
 إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ آس کروہ توہہ کفایت ٹھہ کران والین ہند شردف کرنہ خیرہ الَّذِينَ
 يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ ہم معبود برحقس سیت برابر چھہ تھوان بین باطل
 معبودن۔ پس عنقریب زانن ہم امیک نتیجہ۔ وَلَقَدْ نَعَلُمْ أَنَّا كَفَيْنَاكَ صَدْرًا بِمَا يَقُولُونَ نتیجہ
 آس چھہ زانان کہ ہز پانہ ہند دل چھو تنگ سپدان تمو کتھوسیت سمہ ہم دشمن ونان چھہ تمیک علاج

أَنْتَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿۹۸﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ
مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿۹۹﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۱۰۰﴾

چھو فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين نس مہ برو تمیک جہہ کا نہہ پروا۔ جہہ کرو خدا لہ سہ یاد۔
پاکی کرو تہند صفت بیان۔ بیہ آسو تمس سجدہ دنہ والیو اندرہ و اعبد ربك حتى یأتیک الیقین بیہ کرو
پنہ نس پروردگارہ سنزی عبادت یوتان والیہ توہہ نش یقینی تہہ یعنی موت مر نہ کس و نفس تان کرو خدا لہ
سنز عبادت۔



سُورَةُ النَّحْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۱
 يُنزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ
 مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۲ خَلَقَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۳ خَلَقَ
 الْإِنسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۴ وَالْأَنْعَامَ

اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ خدایہ سُنْدِ حَمِ آو یعنی شرک و کفر کہ سزا دنگ مُوقِعہ و وُتِ نَزْدِیک۔
 اے کافر و تہمہ مہ کروتھ آندر جلدی۔ سو سپدہ واقع پنہ نَسِ و قَسِ پیٹھ۔ نَسِ چیزاہ اوہ و ن چھو سوزن
 آو۔ لہذا ای کافر و تہمہ مہ ژھاہڈواتھ منز جلدی سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ منزہ تہ پاک، بالاو
 برتر چھو اللہ تعالیٰ تموساروی شریکو نشیہ تم نَسِ مُشْرک ٹھہراوان چھہ تہندس کُنہ کھمسیکن نہ تم
 شریک بدل کرتھ۔ يُنزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا
 إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ سوزن چھو سو پروردگار ملاکن و حی ہتھ، پنہ کھم سیت نَسِ پیٹھ یژھان چھو سو پنہ
 نیو بند و آندرہ یعنی انبیاء و آندرہ ای زہ تہمہ کرویم لوکن بیہ بوزہ ناویو کہ کہ کانہہ معبوداہ چھو نہ مہ و رای
 نَسِ کھو ژومی یوت۔ پرستش مہ کرومہ و رای کانہہ ہنز خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰى عَمَّا
 يُشْرِكُونَ تمی کر پیدہ آسمان تہ زمین پڑپاٹھ سیٹھاہ بالاو برتر چھو سو تموساروی چیز و نشیہ تم نَسِ شریک
 ٹھہراوان چھہ لو کہ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ تمی کر پیدہ انسان حضرت
 آدمس پدہ منی ہندس آہ قطر س اکس نَسِ چھو یو ہے انسان زن پاٹھ مقابلہ کران یعنی بعضی انسان

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾
 وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ حِجِينَ تَرِيحُونَ وَحِجِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾
 وَتَحْمِلُ أُنْقَاكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ
 الْأَنْفُسِ ۗ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ
 وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾
 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ

چھ امہ قسمک غرض چھو کہ سائے طرفہ چھہ اناس سیمہ سیمہ نمو، تمسیدہ طرفہ چھہ اتھ مقابلہ
 ناشکری تہ ناسی والانعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تاکلون بیہ کرتی پیدہ
 چارپا، وونٹھ، گن تہ تیر تھندہ خیطرہ ای انسانو تمنی منز تھاون تھندہ وشیر کر نک سامان وندک۔ بیر،
 تھہ گرم لباس ژادرہ تہ کملہ بناوان چھوہ، بیہ چھہ تمن منز واریاہ فاند۔ دودھ تہ سواری۔ بیہ چھوہ تموی
 منزہ بعضین ہند ما کھیوان **وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ حِجِينَ تَرِيحُونَ وَحِجِينَ تَسْرَحُونَ** بیہ چھو تھندہ خیطرہ
 تمن منز زینت تہ عزت۔ سیمہ ساتہ تہہ شامکہ وقتہ تم گاسہ کھیٹھ واپس اتان چھو کہ بیہ سیمہ ساتہ صبحس
 گرواندہ گاسہ کھینہ خیطرہ کڈان چھو کہ **وَتَحْمِلُ أُنْقَاكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ**
الْأَنْفُسِ بیہ چھہ تم ٹٹان تھند بور۔ توپتہ و اتاوان تمن شہرن تمن تہہ بیکہ ہونہ تم بارواتاوتھ مگر پنہ
 نین پانن زون سیٹھاہ مشقت و اتاوتھ **إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ** بیشک پروردگار تھند چھو سیٹھاہ
 مہربان تہ رحم کرہ و ن۔ تھندہ آرامہ خیطرہ کم کم چیز کرن پیدہ **وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا**
وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیہ کرتی پیدہ گر کاتر تہ گھر، تھہ سوار سپد۔ بیہ چھو تمن منز تھندہ
 خیطرہ عزت تہ شان۔ بیہ کرہ سو پیدہ قیاس تان کھسنہ خیطرہ تمہ تمہ سوارہ۔ سیمہ نہ توبہ معلومی چھہ۔
 سیمہ سواریہ گیہ دنیا کیں مطمئن تان واتتہ خیطرہ۔ یہ گو بدنی تہ جسی سفر طے کر نک سامان۔ امہ پتہ
 فرماؤ اللہ تعالیٰ ان روحانی تہ معنوی سیرج ذکر **وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ** تہو بروظھو و دلیلو سیت

أَجْمَعِينَ ۙ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ
شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۙ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ
الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
الشَّجَرِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۙ وَسَخَّرَ
لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ وَالنُّجُومَ
مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۙ

یوسہ سیز و تھ ثابت بھ سپدان سو گویہ سو و تھ یوسہ اللہ تعالیٰ اس نش و اتج و تھ آسہ۔ و منما جاکو و تو
اند رہ پھ بعض و تہ بچہ و تہ۔ اڈلو کھ چھہ سیزہ و تہ بیٹھ پچھ خدانس نشہ واتان۔ اڈچھہ بچو و تو پکان تو پتہ
چھہ تم گن تہ واتان تم چھہ دچھن تہ کھو فر بال تہ چھنن ذلہ گڑھان و لوشآ لھذا کم اجمعیون بیہ
ہر گاہ اللہ تعالیٰ یرٹھہ باسو ہاوہ ہا تو ہہ سارنی سیز و تھ مگر سو چھو تمسی سیز و تھ ہاوان لیس تمیک طالب
آسہ ہو اللہ تعالیٰ انزل من السماء ماء لکم منہ شراب و منہ شجر فیہ تسیمون سو پروردگار گو
سوی تم تھندہ فاندہ خیطرہ آسما بچہ طرفہ رود تروو تہ منزہ چھو تہہ تریش چوان۔ بیہ چھو تہی سیت
گاسہ تہ کل کھسان تھہ منز چھو کھ تہہ چار پائین گاسہ کھینہ خیطرہ تراوان یُنبت لکم بہ الزرع
والزیتون والنخیل والأعناب و من کل الشجرت کھاران چھو اللہ تعالیٰ تہی رودہ سیت تھندہ
خیطرہ زراعت بیہ درخت زیتون بیہ خضر کل بیہ دچھہ کل۔ بیہ ساری میوہ جات تم دنیاس اندر پیدہ
سپدان چھہ ان فی ذلک آیة لقوم یتفکرون پز پاٹھ اتھ منز چھہ بچہ بچہ دلیلہ توحید چہ فکرہ والین
ہندہ خیطرہ وسخر لکم الیل والنهار والشمس والقمر بیہ کر اللہ تعالیٰ ان تھندہ آرام و آسائشہ
خیطرہ دودہ تہ رات، آفتاب تہ زون مسخر قدرت والنجوم مسخرت بامرہ چھہ باقی ستارہ تہ
تھندی جسمہ مسخر قدرت تم چیز تہ تم تھندہ فاندہ خیطرہ پیدہ کمرن تمام روی زمینس اندر تم چیز بیہ چھہ
تھہ پاٹھ کہ تم ہند اقسام چھہ بیون بیون ان فی ذلک آیت لقوم یعقلون پز پاٹھ عقلہ والین ہندہ

وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ وَهُوَ الَّذِي
 سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلًّا مِمِّنْهُ لِحِمَاطٍ يَأْتِي وَتَسْتَخْرِجُوا
 مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ
 فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۴﴾
 وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

خیطرہ چھہ یمن چیزن اندر خدایہ سدہ توحید چہ مجہ جبر دلیلہ وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا
 أَلْوَانُهُ تھے پانچ کرن مسخر تم چیز تہ سم تہندہ فائدہ خیطرہ پیدہ کرن تمام روی زمینس اندر تم چیز چھہ
 تھے پانچ کہ تم ہند رنگ ہتھہ بیون بیون إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ہر پانچ اتھ
 منز تہ چھہ مجہ جبرہ دلیلہ خدایہ سدہ توحید چہ نصیحت رنہ وین ہندہ خیطرہ - وَهُوَ الَّذِي
 السَّخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلًّا مِمِّنْهُ لِحِمَاطٍ يَأْتِي وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا بیہ گوسو پروردگار سوی یم
 دریاتہ سمندر کر مسخر قدرت تھے ہتھہ کھپو تمہہ منزہ کڈ تھہ گاڈن ہند تازہ تازہ ماز بیہ تھے کڈو تھہ تمہہ
 سمندرہ منزہ گہنگ تہ زینتک چیز لعل و جواہر تہ نمختہ - لیس ہتھہ ساری مرد تہ زنانہ لاگان پچھوہ زینتہ خیطرہ
 وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ بیہ چھو دریاون ہند فائدہ یہ تہ کہ ڈہ پھہک و چھان اے مخاطب ناوہ
 لوکھہ تہ جہ تہ ، بلکہ بڈ بڈ جہاز اتھہ سمندر س منز آس ٹان پکان وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ بیہ کرن دریا مسخر قدرت تھے ہتھہ تم سمندر ن تہ دریاون اندر مال تجارت تھے سفر
 کر تھہ خدایہ سدر زق تلاش کر و - بیہ تھے سم ساری فائدہ زہر نظر آتھہ کرو تہنز شکر گذاری وَالْقَىٰ فِي
 الْأَرْضِ رَوَاسِيَ بیہ تھا واللہ تعالیٰ ان زمینس پیٹھہ بڈ کوہہ أَن تَمِيدَ بِكُمْ تھے نہ سوز زمین تو بہہ پانس
 پیٹھہ تکتھہ و تل مجہ گرہ ، اورہ یورڈلہ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لِّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بیہ کرین جاری اتھہ زمینس
 منز کولہ تہ جو بیہ - بیہ گن اتھہ زمینس منزوتہ تہ سڑک تھے ہتھہ تمو تو پچھہ مقصد س و اتان آسو

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵﴾ وَعَلِمْتَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۶﴾ أَفَسَوْفَ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَ مَا تَعْلَنُونَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ أَمْثَلُ غَيْرِ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَا

وَعَلِمْتَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تمہے و تہ پر زہ ناو نہ خیطرہ واریاہ نشانہ قائم مسافرن ہندہ پکنہ خیطرہ ہمو نشانوسیت و تہ لبندہ یوان پھہ۔ یہ پھہ ستاروسیت تہ لوکھ و تہ لبان۔ تم سیت چیز کر پیدہ اللہ تعالیٰ ان آفمن یخْلُقُ کمن لا یخْلُقُ افلاتن ذکرون وون وبتوئی لس ذات پاک تم تم چیز پیدہ کرہ وون پھو سولکجا برابر تھاون تم سیت یم نہ کنہ چیزس سیکن پیدہ کر تہ۔ کونہ چھوہ تکی تھہ ژیتس پاوت تس ایمان اتان تہ پڑھ کران۔ تمسی پن معبودزاتھ عبادت تہ بندگی کران۔ یڑے یاڑہ پھہ تس معبود برحقہ سنز نعمو وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْصَوْهَا ہر گہے ہتہ شمارہو کر نہ خدایہ سنزہ نعمو ہر گز ہیکونہ شمار کر تہ۔ ادہ پھہ کتھہ تم نعمون ہنز شکر گذاری کر تہ۔ مثرک پھہ نعمون ہند شکر دپان نعمون ہنز قدر زانان۔ یہ جرم اوس تیوت بوڈئیس نہ کنہ صورتس منز معاف ہیکہ ہاسد تہ۔ اتھ جرمس پیٹھ اصرار کر نہ سیت گڑھ تم ساروی نعمو و نشہ محروم سپدن مگر اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ پھو سیٹھہ مغفرت کرہ وون مہربان ہر گاہ کانہہ شخص شر کہ نشہ توبہ کرہ تس پھو اللہ تعالیٰ مغفرت کران۔ ہر گاہ تے توبہ کرہ توبہ پھو اللہ تعالیٰ تس مرنس تام نعمو عطا کران وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَ مَا تَعْلَنُونَ اللہ تعالیٰ پھو زانان تہ سوروی یہ ہتہ پوشیدہ پاٹھ چھوہ کران وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ یہ تم لوکھ عبادت چھہ کران خدائیس ورا ی بین باطل معبودن ہنز تم نہ کانہہ چیزہ پیدہ ہیکان چھہ کر تہ بلکہ چھہ تم پانہ آسان بناونہ آمت، تیار کر نہ آمت، گرنہ آمت، گنو، پچو یا یہ کنہ چیزک۔ قاعدہ کلیہ پھو کہ خالق تہ غیر خالق ہر گز مساوی تہ برابر

آيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهًُ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَاحِرَمَ أَنَّ
 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾
 وَإِذْ أَقْبَلُ لَهُمْ مَادًّا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اسْطِطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْبِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلِيسَاءَ مَا

چھنہ امواتِ غیرِ اَحیاءِ تمہ علاوہ چھہ معبودانِ باطل مردہ بے جان چیز وَمَا يَشْعُرُونَ آيَانَ
 يُبْعَثُونَ یہ چھنہ تمہن خبرے کہ کہہ وقتہ من لو کہ دوبارہ یہ زندہ کرنے معبود برحق گو سوی کس خالق تہ
 چھو زندہ تہ چھو عالم الغیب تہ چھو سوی چھو إِلَهُكُمْ إِلَهًُ وَاحِدٌ تہند معبود برحق۔ معبود برحقہ کس
 ہیو یہ کہنہ چھونہ ذاتس اندر نہ صفتن اندر فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ
 مُسْتَكْبِرُونَ کس تم لو کہ ایثر وضاحت کر تھ تہ پڑھ چھنہ کران آخر کس، معلوم سپد تہند دل چھو
 توحیدس انکار کران۔ یہ سپد معلوم کہ تم چھہ قیاس ایمان اندہ نشہ عکبر کران لَاحِرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
 مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ضروری تھ چھہ یہ کہہ پڑھاٹھ اللہ تعالیٰ چھو زمانان تہ سوزوی یہ تم پو شیدہ کران
 چھہ۔ یہ یہ تم ان پاٹھ کران چھہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ پڑھاٹھ اللہ تعالیٰ چھونہ پسند کران تکبر کہہ
 ونین تم توحیدہ نشہ تہ تصدیق رسالتہ نشہ چھہ عکبر کران۔ یلہ تہند عکبر کرن معلوم سپد، سستی سپد یہ تہ
 معلوم کہ تم چھہ خدا کس ناپسند۔ لہذا دیہ سو تم ضرور سزا وَإِذْ أَقْبَلُ لَهُمْ مَادًّا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ
 قَالُوا اسْطِطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ یلہ ونہ یوان چھو تم کہ کیاہ کرنازل تہند پروردگارن، دپان چھہ تم یہ
 کہتہ چھو خدا یہ سدہ طرفہ سوزنہ آمت۔ یہ چھہ محض بے سند تھہ سیمہ برو تھمین نشہ نقل کرنے یوان چھہ
 لِيَحْبِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ نتیجہ یہ ونہ نگ آسہ کہ یمن لو کون آسہ تھن پنہ نین
 گنہن ہند بور قیامتگ دوہ پور پور وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ تم لو کون ہندین

يَزْمُرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى
 اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ
 فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾
 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
 كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ
 الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَكَةُ
 ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ

گنہگار ہند پور، ہم گمراہ کران آس علمہ وراى الالساہ ما یزمرؤن واره ہجوه بوزان سیٹھاہ پتھ پتھو سو
 پورس سم تئن قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ پزپاٹھ فند
 تہ تدبیر کرد خدائس خلاف تمہولو کو تم تمکن بروٹھ آس بس دوت خدایہ سُد عذاب تہنزن لرین
 ہندین کنن تل فخر علیہم السقف من فوقہم توپتہ پیووستھ تم لرہ ہند پتھ پتھ کن و آتہم
 الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بیہ دوت تمکن عذاب تھتھ تھتھنہ تمکن فکری ترہ بیہ حالت گیہ تہندہ
 عذاب دنیاء س اندر ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ تو
 پتہ کر گیہ خوار و ذلیل اللہ تعالیٰ قیامتگ دوہ بیہ دیکھ کتہ ہجوه تم معبودان باطل بیہندہ خیطرہ لڑایہ آسو
 کران قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ورن تمہ ساتہ زانن وال تہ عالم پز
 پاٹ خواری تہ پتھ عذاب پتھو از کافرن تہ نافرمان پیٹھ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ
 تمکن زو کو ذملا کیو پتھتھ حاس اندر کہ تم آس پان پانس ظلم کرہ و ان فَأَلْقَوْا السَّلَمَ بس پیش کرن تم تمہ
 ساتہ صلچتھتھ بیہ دین مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ اس آس نہ کانہہ پتھ کو ماہ کران ملایک ونہ کتھ بل ان اللہ
 عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بیہ کتھ پتھنہ یوسہ تہہ و نان ہجوه پزپاٹھ اللہ تعالیٰ پتھو پور زانان تہ سوروی بیہ تہہ

اللَّهُ عَلَيْهِم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فليُكْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۲۹﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۰﴾ جَدُّ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۱﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ

کران آسہ۔ سو دیہ پانے تچ مزدور توہہ ونہ بیٹھہ فادخلوا ابواب جہنم خالدين فيها اتر و جہنمہ کیو دروازو کن جہنم آندر ہمیشہ چھوہ ات روزن فلیکس مثنوی المتکبرین بس کاڑاہ پچھ جای چھ یہ متعبرن ہندہ خیطرہ۔ یہ گو عذاب آخرت۔ حاصل چھوہ یمن آیاتن ہند کہ ای لو کو تہہ بوزوہ برو تھمین کافرن ہندہ عذابک حال۔ بیٹھہ پاٹھ بس اکھاہ دین حقس مقابلہ کرہ، مکر و فریب کرہ۔ بیٹھہ پاٹھ تہہ کران چھوہ۔ یہ چھو تہہ لو کھ گمراہ کران۔ لہذا آسہ یہوی انجام تہندتہ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا بیہ چھو ونہ یوان تمن لو کن تم شر کہ نشہ گھرہ نشہ پتھ رود توہہ پیٹھ کیاہ کورنازل تہند پروردگارن تمبو ووب اللہ تعالیٰ ان کورنازل سو قران مجید تھ منز خیری خیر چھو للذین احسنوا فی ہذیہ الدنیآ حسنتہ تمن لو کن ہندہ خیطرہ سمور ژکامہ کرہ چھ بیٹھہ دنیآس اندر ژمزور وکدائر الآخِرۃ خیر بیہ چھو تہندہ خیطرہ آخر تک گمراہ زیادے رت باعث فرحت و سرور وکنعم دار المتقین بیہ چھو متقین تہ پرہیز گارن ہند گمراہ جڈت عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار متقین ہند گمراہ گئے ہمیشہ روز تک جنت یمن منز تم واتن تموی منز آسن پکان جو یہ لہم فیہا ما یشاءون تہندہ خیطرہ چھو تمن جنتن اندر تہ سوزوری بیہ تم برھان آسن کذالک یجزی اللہ المتقین بیٹھہ پاٹھ کیا دیہ اللہ تعالیٰ ر ژمزور سارنی پرہیز گارن الذین تتوفونہم الملکۃ طیبین تم گئے تہ ہند روح ملایک کڈن بیٹھہ حاس اندر کہ تم آسن پاک تہ پاکیزہ شرکو آلا بیٹھو نشہ یا آسن در کمال فرحت و سرور

الْمَلِئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلِئِكَةُ أَوْ
 يَأْتِي أَمْرٌ رَيْبِكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ
 اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۳﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ
 مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۳۴﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ
 مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا أَحْرَامُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ملائک وندیکھ سلام بویں توہم پیٹھ اترد جنتس
 کیا زہ تجہ آسوہ رث عمل کران هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة تم کافر جھنہ انتظار کران مگر
 ملائکین ہندس یس او یاتی امر ربک یا جھہ انتظار کران خدایہ سندس کھمس یس تہندہ گالہ وندہ عذابہ
 خیطرہ آسہ کذالک فعل الذین من قبلہم بیٹھ پاٹھ کور انکار تہ تکذیب شرک تہ کھر تمولو کو تم
 تمن برونھ آس وما ظلمہم اللہ ولكن كانوا انفسہم یظلمون اللہ تعالیٰ ان کر نہ تمن لو کن کمنہ
 قسمہ ظلم۔ مگر تم آس پان پانس ظلم کران فأصابہم سیئات ما عملوا وحقا بہم ما كانوا بہ
 یستہزئون پس واثر تمن بدی پنہ نین عملن ہنز بیہ آدولہ تمن سوی عذاب بیٹھ تم ٹھہ آس
 کران وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا بیہ جھہ
 ونان یم منک مشرک ہر گاہ خدایڑھ ہا آس کرہ ہونہ تس ورا ی بیہ کانہ ہنز عبادت نہ آس تہ نہ سان مال
 بڈبب وَلَا أَحْرَامُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ بیہ کرہ ہونہ آس حرام تہ تہندہ کھم ورا ی کانہہ چیزاہ۔ بیہ یوڈھ
 کی تہندی یڑھنہ موجب جھہ آس کران کافران ہنزہ۔ سمہ کھہ وندہ سیت مہ حض گڑھو ٹھہ آزدہ۔ بیہ

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
 الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ
 اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ
 وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴿۳۶﴾ إِنَّ تَحْرِيصَ عَلَى هَذَا مُمْ
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۳۷﴾ وَ
 اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ نَبْئٍ م

پہنہ نوکٹھاہ کا نہہ کذالک فعل الذین من قبلہم بیتھ پاٹھ پھو، ہودہ بحث کورمت تمولو کو تہ سم
 سم برونٹھ آس فعل علی الرسل الا البلغ المبین کس پھو نہ پیغمبرن منہ مگر ن پاٹھ احکام
 خداوندی و اتان و لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ پز پاٹھ بیہ
 سوز آسہ پر تھ اتس کن پیغمبر لوکن یہ پیغام و اتانہ خیطرہ کہ عبادت کرو معبود برحقہ سنز تہ پتھ روزو
 شیطانہ سندہ تجویزہ معبودان باطلن ہنز پرستش کرنہ نشیہ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ
 عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ کس آسہ تموا متواندرہ بعضے سم سیز و تھ ہاواللہ تعالیٰ ان۔ تمو کور حق قبول بیہ آس
 بعضی سم پیٹھ گرا ہی ثابت روز۔ سو تم ن نشیہ دورگیہ نہ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ
 عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ پس پھیر توه تہہ ای لو کوز مینس منز تو پتہ و چھو کیاہ بیو و پتولا کہ تم ن لوکن سمو پیغمبرن
 انکار کرو ان تَحْرِيصَ عَلَى هَذَا مُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ہرگاہ توبہ خواہش
 پتھ تہندہ ہدایت تہہ سبت ابدہ نہ کینہہ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھونہ و تھ ہاوان تم ن سم سو و تھ راورہ بیہ پھنہ
 تہندہ خیطرہ ہمدگاریم تم ن عذابہ نشیہ بچاوتھ ہیکن و اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ
 نَبْئٍ م بیہ ہا و تمو سخت زور دار قسم تھ پیٹھ کہ اللہ تعالیٰ کرہ نہ کا نہہ مرت دوبارہ بیہ پیدہ۔ تہہ فرما یو کہ

بَلَىٰ وَعَدَّٰ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾
 يُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۳۹﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ
 لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا
 ظَلَمُوا النَّبِيِّينَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَجْرٌ آخِرٌ أَكْبَرُ لَهُمْ
 كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۴۲﴾

بَلَىٰ وَعَدَّٰ عَلَيْهِ حَقًّا البتہ ضرور کرہ اللہ تعالیٰ ساری مرتبہ پیدہ۔ کیا زہ تم چھو امیک وعدہ
 کورمت پوزو وعدہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لو کہ چھنہ باوجود دلیل قائم آسجہ یقین
 کران۔ یہ دوبارہ زندہ کران چھو سیمہ خیطرہ کہ یُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ اللہ تعالیٰ کرہ
 ضرور مر نہ پتہ یہ پیدہ سارنی تھہ سونتر اوہ تین سو تھہ متھہ منز تم اختلاف آس کران وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ یہ زانن کافر کہ بیشک تم آس لہز زہر إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ
 نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ لمہ نفعہ کیاہ عجائب چھہ یہ پیدہ کران، یلہ آس کتہ چیز کہ پیدہ کر تک ارادہ کران چھہ
 اس چھہ ونان سپد۔ الی چھہ سہ چیز سپدان تہ وجود س اندریوان وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا
 ظَلَمُوا النَّبِيِّينَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ یہ سمولو کو محض خدایہ سندہ خیطرہ ہین وطن متھہ شریف تردوشہر
 حبش گن گئے، یلہ تین ظلم کر نہ آو، آس دم ضرور تین رتھ جانی دنیاہس اندر، آس رتھس شہر س منز
 یعنی مدینہ منورہس منزیتہ تم امن و راجت زندگی بسر کران وَالْأَجْرُ الْآخِرُ الْكَبْرُ لَهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
 یوسہ مزور آخرتس منز تین عطایہ کر نہ سو چھہ امہ خوتہ ہڈ۔ ای کاش تین کافر ن تے ایچ خبر آسہاسہ
 حاصل کر نہ خیطرہ سپد ہن مسلمان الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سمومہا جز و صبر کور وطن
 ترانس پیٹھہ یہ تم پنہ نس پروردگارس پیٹھہ توکل کران چھہ وطن تراوچہ وقتہ کور کھنہ یہ خیال کہ کھیمو
 چیمو تھہ پاٹھہ، درای پنہ نس پروردگارس پیٹھہ بھروسہ کر تھہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحيَ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ
 الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
 الذِّكْرَ لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾
 أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ
 أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ
 فِي تَقَدُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۶﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ
 رَبَّهُمْ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

إِلَيْهِمْ اسہ سوزنہ توہمہ بروئھہ یار سول اللہ مگر بشر تہ انسانی پیغمبرہ کیا زہ بشرتیس تہ رسالتس اندر چھنہ
 کانہہ منافات تمن کن اس پن احکام سوزان اس فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون پس پر زھتو
 علمہ والین تہ زان والین ہر گاہ توہمہ پاس معلوم چھنہ بالبیّنات والزُّبُر اسہ سوز تم پیغمبر نہ دلیلہ تہ
 معجزات ہتھہ بیہ کتابہ ہتھہ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ بیہ سوز
 اسہ توہمہ کن بیہ قران مجید ہتھہ تہہ وارہ نراوتھہ بیان کرو لوکن بیہ تمن کن سوزنہ او بیہ ہتھہ تم تھہ اندر
 فکر کرن أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا
 يَشْعُرُونَ کیاہ تم لو کہ سمو پچھہ حیلہ تہ تدبیر کرنی کریمہ سندس مخالفس اندر تم چھابے فخر تہہ
 گتھہ نشہ کہ تمن کیا نیہ اللہ تعالیٰ زمینس تل والٹ یا سمہ تھہ نشہ کہ عذاب کیا بیہ واتھہ تپاری پیار نہ تمن
 فخرہ ترہہ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَدُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ یا کیا رٹہ تمن اللہ تعالیٰ پھیران تھوران پس
 چھنہ تم عاجز کرو ان أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ یا کیا رٹہ تمن کھوڑہ ناوتھہ یا ہنہ ہنہ تمن کم کران تہ ختم
 کران خدا ایس چھہ پر تھہ چیزس بیٹھہ قدرت تس گڑھہ پر تھہ ساتہ کھوڑن فَإِنَّ رَبَّهُمْ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ پز
 پاٹ تھنہ رُب چھہ سیٹھاہ مہربان سیٹھاہ رحم کرو ان سو چھنہ جلد رٹان نہ چھہ مہلت دوان أَوَلَمْ يَرَوْا

يَتَفَيَّؤُا ظِلَّةً عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ
 ذَخِرُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَلَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
 دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
 وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْهَيْئِ اثْنَيْنِ
 إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا تَوَلَّى فَرَهِبُونَ ﴿٤١﴾ وَكُلُّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ وَكُلُّ الدِّينِ وَإِصْبًا أَفْغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بَكُمْ

إلى ما خلق الله من شئ كياه تم پهناو چهان تمن سایه دار چیزن کن تم الله تعالی ان پیده کرمت
 چه کل بی، کوه وغیره بی یَتَفَيَّؤُا ظِلَّةً عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَخِرُونَ نماز
 پیران به تمن چیزن هند سایه دهن ته کوه فر۔ خدا ایس سجدہ کران ته عاجزی هند اظهار کران تابع
 چه خدایه سندس خمس وَيَلَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ بی چه خدایه سی نماز
 ته سجدہ دوان تم ساری چیز تم آسمان اندر ته زمین اندر چه جاندار و اندرہ وَالْمَلَائِكَةُ بی چه
 ملائک ته تس سجدہ دوان وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ تم چه باوجود علوشان تس عبادت کر نه نشه کنه قسمه
 تکبر کران يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ تم چه کھوژان پنہ نس ہروردگار نس تمن
 پیٹھ کن ته بالادست چھ۔ بی چه تم تم قلیل کران تمن ساری حکمن تم تمن کر نه یوان چھ وَقَالَ اللَّهُ
 لَا تَتَّخِذُوا الْهَيْئِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا تَوَلَّى فَرَهِبُونَ بیہ فرمود الله تعالی ان پیٹھن ہندہ واسطہ
 ای لو کومہ تھاویو کہ زہیا واریاہ خدا۔ خدا چھ مگر کنی، اکوی۔ نس کھوژو ہندہ می یوت۔ کیا زہیلہ الو بیت
 خاص می چھ ہذا تمک لوازم تم چه کمال قدرت وغیرہ تم چه مے خاص انتقامک خوف گدھے می نش
 تھاون۔ شرک چھ مکان انتقامس۔ لہذا آدھنہ خدا ایس شریک ٹھہراون وَكُلُّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَكُلُّ الدِّينِ وَإِصْبًا بیہ چھ ہندی ته سوزی بیہ آسمان ته زمین منز چھ۔ بیہ شوبہ تہزی فرما ہر داری
 کرن ہمیشہ أَفْغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ سہ معبود بر حق آتھ چھو ہندہ تس ورا ی بین کھوژان۔ تمن کھوژ تھ

مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿۵۳﴾
 ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۵۴﴾
 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ وَيَجْعَلُونَ
 لَهَا آلِيَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَسُلْطَنٌ عَلَيْكُمْ
 تَفْتَرُونَ ﴿۵۶﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۷﴾
 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۸﴾

چھوہ تہنہ پرستش کران۔ یتھ پاٹھ نہ کہوژنس قابل چھو کاہنہ نس ورا ای یتھ پاٹھ چھنہ امید تھاوئس
 قابل تہ کاہنہ نس ورا ای وَمَا لَكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ چنانچہ توہہ نشہ یوسہ نعمتھا و اتان چھہ سہ چھوہ
 مغبود برحقہ سندی طرفہ و اتان ہیہ نہ کانسہ ہدہ طرفہ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ توپتہ یلہ
 توہہ کاہنہ سختیاہ و اتان چھہ تمہہ ساتہ چھوہ نس گن عاجزی کران کریکہ نادلاگان۔ دُعا کر نس اندر، فریاد
 کر نس اندر۔ تمہہ ساتہ چھوہ نہ ہیہ کانسہ تہہ مکانان ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
 توپتہ یلہ سہ سہ سختی دُور کران چھہ توہہ نشہ اتی چھہ توہی منزہ اکھ جماعتھاہ، تھے چھہ زیادہ پنہ نس
 پروردگارس بدستور سابق شرک اتان لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ یتھ تم کفران
 نعمت کران تمن نعمون ہنز سیمہ نعمو اسی تمن عطا کرہ کس تلوتع کینہہ کالاہ۔ عنقریب زانو امیک مزہ
 وَيَجْعَلُونَ لَهَا آلِيَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہیہ چھہ مقرر کران تم مشرک تمن مغبودان باطلان
 ہدہ خیطرہ تمن ہنز نہ تمن خبرے چھہ زہ تمن اٹھہ چھنہ کاہنہ خیر و شریاف نفع و ضرر اکھ حصہ تمہہ مالک
 یس اسی تمن عطا کو رمت چھہ تَاللَّهِ لَسُلْطَنٌ عَلَيْكُمْ تَفْتَرُونَ قسم ہیہ پنہ ذات پاکگ ضرور ہیہ
 پر ڈھنہ توہہ تمیک ہیہ تہہ پائے ٹھہراوان آسوہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ہیہ چھہ
 ٹھہراوان مغبود برحقس کوہہ حال اکھہ منزہ تہہ پاک چھہ سہ کوہہ آسنہ نشہ پنہہ خیطرہ چھہ ڈھانڈان تہہ ہیہ
 پانس پندہ چھہ یعنی گبر تہہ وَاِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ہیہ یلہ سہ

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكُهُ عَلَى هُونِ أُمَّ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلِاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ^{۵۹} لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَبِاللَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^{۶۰}
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^{۶۱} وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْفُرُونَ وَتَصِفُ

آندره کانسه خبر چھ یوان دنہ کورہ ہندہ زینچ اتی چھو تہندہ تھہ گڑھان کُرن، بیہ تھہ سپدان غمگین
يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ تھہپ تھہپ چھ کران، ژورہ چھ روزان لوکن نشہ تمہ
خبرہ ہنزہ شرمہ ہندہ سبہ۔ اَيَسْكُهُ عَلَى هُونِ أُمَّ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ سوچان چھ پانس سیت اس کورہ
کیاہ کرہ بوون۔ تھہ پاتھ تھانہ کنہ زندیا مار تھہ دو بردن ز مینس تل اَلِاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وارہ وچھو
کو تاہ پچھ چھ تھہ تجویز تھہ تھہ تم خدایس متعلق کران چھہ۔ یعنی تھہ کورہ ٹھہراوان پانس چھ تھہ
کورہ زینہ وزہ تھہ سیاہ گڑھان لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ تمہ لوکن ہند چھہ سیٹھاہ پچھ
حال تم پانس دو ہس انکار کران چھہ وَبِاللَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى خدایہ سندہ خپرہ چھہ تھہ تھہ صفت وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیہ چھہ سوی غالب تہ حمتہ وول وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ
بیہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ لوکن تھہ یوان فرمایو سبہ گرفتار کرہ ہاتھ تراوہ ہانہ اتھہ ز مینس پیٹھ کانسہ جاندار س تہ
تمہ نافرمان ہنز شامت وانہ ہابے گناہ چار ولسن تہ۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى مگر سہ چھہ تمہ
مہلت ووان آس مقرر کرنہ آتس و قس تان فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ تھہ یلہ وانہ تھہ سندہ وقت تمہ ساتہ بن نہ تمہ نشہ نہ پتھ کڈنہ نہ برو تھہ انہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ
مَا يَكْفُرُونَ بیہ چھہ معبود برحقہ سندہ خپرہ ٹھہراوان تم چیز سم پانس کھران چھہ وَتَصِفُ
الْسُّنَنُومُ الْكُذِبُ بیہ چھہ ونان تھہ زویوہ اپز اَنْ لَهُمُ الْحُسْنَى ای زہ کہ تھہ خپرہ کیا چھہ خدایس

أَسَدْتُهُمُ الْكُذِبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لِأَجْرِمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارُ
 أَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
 فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي
 اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾
 وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمُ

نغیر نیک لاجرم ان لهم النار و انهم مفرطون ثابت ہے کہ یقیناً جہنم ہندہ خیرہ نار تھ منزین
 تم ساری بروئے تراوند تالہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک خدایہ سند قسم پڑپاٹ اسہ سوز بیغیر
 توہم بروئہ وار یکن امن کن فزین لهم الشیطن اعمالهم کس زینت دمت شیطان تہزن بچہ
 کامین۔ تمن آیہ بوزنہ پندر بچہ کامہ جان فہو ولیہم الیوم ولہم عذاب الیم شیطان جہنم دوست
 ازتہ بیہ جہنم ہندی خیرہ دگ تلہ ون عذاب آخرتس اندر وما انزلنا علیک الکتب الا لتبین لهم
 الذی اختلفوا فیہ و ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون بیہ کرنہ اسہ نازل توہم بیہ یہ کتاب مگر
 بیہ تہہ لوکن وارہ بیان کرو پندر تمہ کتھ تمن منزتم اختلاف کران جہہ بیہ بوڈ ہدایت تہ بڈر حمت
 با ایمان ہندہ خیرہ واللہ انزل من السماء ماء فاحیایہ الارض بعد موتہا بیہ تر و اللہ تعالیٰ ان آسماحہ
 طرفہ رود تمی سیت کوزن زندہ مومت زمین۔ کس زمین رودنہ پندر سیت خشک اوس گو مت ان فی
 ذلک لایۃ لقوم یسمعون پڑپاٹ اتھ منز جہہ بوڈ نشانہ بوزہ ونین ہندہ خیرہ سم قرآن مجید بوژن
 جہنم مردہ دل سدن زندہ وان لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم متافی بطونہ من ابین قرنت و دم لبنا
 خالصا سائنا للشریین بیشک ہندہ خیرہ ہچھو چار و این اندر تہ سیمٹاہ غور کر نک مقام تہندین شیمکن

مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْتٍ وَدَمِ لَبْنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ ۝۱۳
 وَمِنْ شَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
 حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۱۴ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى
 النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝۱۵
 ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ
 بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

منزلہں فضلہ سے رتھ چھہ تمبوے دو یو چیز و منزہ چھہ نیر ان دوداہ صاف، ہتہ وسہ ون آسانی سان چنہ
 والین۔ سئی دود چھہ آس توہہ چاوان۔ وجھو سان قدرت اتھ دودس نہہہ آسان خوچ آلایش نہ فضلہ
 آلایش یا منیک وَمِنْ شَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا یہہ گزہہ خضرن تہ
 دچھہ اندر غور کرن۔ تیار چھوہ کر ان تہہ تھہ نیک چیز یہہ کھیک چیز۔ خشک خضر یہہ کیمش یہہ شربت تہ
 برکہ۔ اتھ منز تہہ چھہ جید دلیلہ خدلیہ سدہ تو حید چہ۔ یہہ چھہ ثابت سپدان سارے نعمہ عطا کرہ ون چھہ
 سئی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پڑپاٹ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ خدلیہ سدہ قدر تک عقلہ والین ہند
 خیطرہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ یہہ تھہ تہہ چھہ قابل
 غور کہہ الہام ترود چھہ پروردگارن ماچھہ ٹکرہ ای زہ تہہ بناو پئین گرہ کوہن منز، کلین منز یہہ لوکن ہندین
 گرن منز چنانچہ تمکن جاين منز چھہ سہ گرہ بناوان ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا تو پتہ
 کھیہ تہہ پریتھہ قسم میوہ آندہ۔ بس یہہ چکن واپس تہہ پنہ بس آلس گن پنہ بس پروردگارہ سزنان وتن اندر
 سمہ سہل تہہ آسان چھہ چانہ خیطرہ۔ دورودراز جا یو پیٹھ مین ہند رس تہہ چھہ چھہ یوان سو پنہ نس آلس
 گن تو پتہ چھہ ماچھہ تراونچ کوم کران يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ نیر ان چھہ
 سہ ماچھہ ٹکرین ہند یو شیمو منزہ اکھ چینک چیزہ میو تھہ تہہ موڈر یعنی ماچھہ سمک رنگ مختلف چھہ آسان
 تھہ منز چھہ شفاء لوکن ہندہ خیطرہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پڑپاٹ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ خدلیہ

لَايَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْسِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَمَلِهِمْ

سندہ قدر تک فجر سے تامل کر وہ نین ہندہ خیرہ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ بیہ کر وہ تہہ اللہ تعالیٰ نے پیدا۔ تو تان اسوہ نہ تہہ کہنی۔ از عدم انوہ بوجود کینہہ کالاہ گڑھت نیوہ سنی توہہ ہمہ عالمہ بیہ چھ توہہ اندر کانہہ شخصہہ چھ عمرہ تان واتاوانہ یوان۔ تہہ عمرہ منز نہ چھہ جسمانی قوت موجود روزان نہ عقلہ ہند قوت۔ یڑھ عمرہ نشہہ چھہ پناہ موعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ”وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر“ لَكِي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا تمیک اثر چھہ یہ سپدان کہ اکہ چیز ج خبر گھنہ پتہ چھہ یہ شخص تمہہ چیزہ نشہہ بیخ سپدان یاد و نثر چھنہ۔ بحرس اندر کینہہ روزان إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ ای چھہ سوڑی زانہ ون، ساری پیٹھ قدرتہ وول وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ بیہ دیت فضیلت اللہ تعالیٰ ان توہہ اندرہ بعضی لوکن بعضین پیٹھ رزقس اندر۔ اکہ کوڑن مالدار تمس تھاوون نوکر تہہ غلام تابع۔ تسمدہ واسطہ چھہ تم تہندین غلامن تہہ رزق واتاوان۔ کانہہ بیوون غلام تمس چھہ آغہ سندہ واسطہ رزق واتاوان۔ بیہ کوڑن کانہہ شخصہہ تمس نہ چھہ تیوہ دولت زہ غلام آسہ ہنس۔ نہ چھہ سہ پانہ کانہہ ہند غلام فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْسِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ لہذا تمکن لوکن رزقس اندر خاص فضیلت دنہ آہہ تمکن نشہہ چھہ مال تہہ دولت تہہ، غلام تہہ تمہیکن نہ سہ پٹن مال تمکن غلامن دتھ۔ کیا زہ تلہ سپدہ آغہ تہہ غلام برابر۔ کیا زہ غلام چھنہ کٹنہ چیزک مالکھی بنان۔ لہذا چھنہ غلامی تہہ مساوات تمکنی زانہہ۔ تھہ پاٹھ چھہ یم معبودان باطل ساری خدایہ سندہ مملوک۔ تمیک کافر چھہ پانہ اعتراف کران۔ لہذا مملوک آتھہ تھہ پاٹھہ تمکن تم خدائیس ہی آتھہ۔ یا تھہ پاٹھہ تمکن تم خدایہ سندہ کٹنہ چیزس منز شریک آتھہ۔ یلہ نہ تہندہ غلام تہندس مال و دولتس شریک تمکن سپدت۔ اللہ تعالیٰ سندہ غلام تہہ مملوک تھہ پاٹہہ تمکن تہندس الوہیتس اندر تس شریک

اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿۴۱﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
 الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿۴۲﴾
 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۴۳﴾ فَلَا تَضْرِبُوا
 لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۴﴾ ضَرَبَ

بنت۔ کیا تم مضامین بوزت چھاتم لو کہ خدا جس شریک ٹھہراوان سیمہ سیت عقلاً یہ کھ چھ ثابت
 سپدان کہ تم چھ خدایہ سزنا نعمون انکار کران کیا زہ ئس نعمو عطا کرہ ون آسہ سہ گزہہ زانن معبودتہ
 کئی۔ تس شریک ٹھہراونہ سیت چھ لازم کہ تس چھنہ تم نعمت عطا کرہ ون زانان۔ لہذا چھہ تم مشرک
 شرک انہ سیت تہندس نفس انکار کران **أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ** کیا تم چھا خدایہ سزنا نعمون انکار
 کران **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا** بیہ کر اللہ تعالیٰ ان پیدہ تہندی جسہ منزہ یعنی انسانو منزہ تہند جوہ
 یعنی آشین تہ زندہ تہنزہ **وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً** بیہ کر اللہ تعالیٰ ان پیدہ تہندہ خیطرہ تہنزہ و
 زناونو غیر گہر تہ اولاد بیہ اولادن ہند اولاد **وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ** بیہ کوزن عطا توہہ رزق پاک تہ
 رتو چیز و آندرہ **أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ** یہ کرت تہ چھاتم معبودان باطن ایمان
 اتان تہہ پیٹہ نہ کاہنہ دلیل چھہ تہ خدایہ سزنا نعمون چھہ انکار کران تس شریک ٹھہراونہ سیت **وَيَعْبُدُونَ**
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ بیہ چھہ تم
 عبادت تہ پرستش کران خدایس و رای تمنی چیزن ہنزیم نہ مالک تہ اختیارہ وال چھہ تہندہ خیطرہ کئہ
 قسمہ رزق نہ آسماچہ طرفہ بارش تراوت نہ زینچہ طرفہ کاہنہ چیز کھارت، نہ ممکن تم تہندہ خیطرہ
 کینہہ کرتھہ **فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ** جس مہ آسوتہہ بیان کران خدایہ سزنا مثالہ پٹنی خیالہ موجب کہ
 اللہ تعالیٰ چھہ بوڈا پادشاہ۔ تس ہیچہ نہ پریتھہ اکھاہ پن حاجت پیش کرتھہ، عام لو کن شوبہ تہندین نامین

اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ
 مِثْرًا فَاَحْسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ
 يَسْتَوْنَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾ وَضَرَبَ
 اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ
 كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لآيَاتٍ بَخِيرٍ هَلْ يَسْتَوِي
 هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶﴾

غیر بین حاجت پیش کرن تم کرن پیش خدا پس غیر اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بیشک پر مثال
 بیان کرن زانہ اللہ تعالیٰ ای جہہ زانہ نہ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا چنانچہ اللہ تعالیٰ چھ مثالہ بیان کران عِبْدًا
 مَمْلُوكًا اَکھ غلامہ چھو اَکس شخصہ سُنْدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ کس نہ کُنہ چیز س پیٹھ کانہہ قدرت یاکنہہ
 اختیارہ چھ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا فَاَحْسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا بیاکھ چھ سُنْدُ شخص کس
 آسہ پتہ طرفہ رُت رِزْق عطا کور۔ سہ چھ تمہ رِزْق منزہ خرچ کران۔ پو شیدہ پاٹھ تہ زن پاٹھ تہ هَلْ
 يَسْتَوْنَ تہی و نتو تم زہ چھا بر ابری۔ تم معبودان باطل بو ز تو کھ بے طاقت تہ بے اختیار غلام ہی۔ اللہ
 تعالیٰ زانتون مختار کُل۔ پر چھ چیز س پیٹھ قدرت تہ طاقت تھاون وول اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ساری تعریف تہ
 صیفت چھ تہ معبود بر حق کس زانہ کن تہ صفتو کن کامل چھ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھ تہ سمو
 آندرہ اکثرن معلومی کہ شرسکہ شامتہ کیاہ نہ تم وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ
 عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ بیاکھ مثال چھ اللہ تعالیٰ فرماوان۔ زن جوراہ چھ۔ اَکھ چھ تمو آندرہ
 ماجہ زانت کولوی کانہہ کوم نہ بیگان کر تھ۔ بیہ چھ سہ بور تہ وبال گردن پتہ نس آغس پیٹھ بنیومت
 أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لآيَاتٍ بَخِيرٍ یوت سوزان چھس تہ کانہہ رث کا ماہ کرت چھنہ یوان۔ هَلْ يَسْتَوِي
 هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تہی و نتو کیاہ یہ شخص چھا بر ابر کس شخص سیت
 کس فصاحت و بلاغتہ سان کلام آسہ کران کس لو کن رثن کا مین ہند اصرار آسہ کران بیہ آسہ سہ پانہ تہ

وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا
 كَلِمَةٍ الْبَصِيْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۷۷﴾
 وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّ
 جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۸﴾
 اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِى جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ
 اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۷۹﴾

سبزہ و تہ پیٹھ قاسم روز تھ و اللہ غیب السموات والارض بیہ چھ خدایہ سی آسان تہ زمین ہنزن
 پوشیدہ کھن ہند علم و ما امر الساعۃ الا کلمۃ البصر او هو اقرب بیہ چھ سہ قدر تس اندر نیوت
 کامل کہ پوشیدہ تھو اندرہ گیہ اکھ تھ قیامت۔ تمیک معاملہ آسہ نیوت جلد کہ سمہ ساتہ تمیک وقت
 والہ اگس الجھہ بیٹھ منز سیدہ قیامت برپا بلکہ تمہ خوتہ تہ نزدیک تہ جلد اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
 بیشک اللہ تعالیٰ چھ پر تھ چیز س پیٹھ قدر تہ وول وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
 شَيْئًا بیہ چھ قدر تہ چود لیلواندرہ تہ نعمتہ کیو قسمواندرہ بیہ امر کہ کڈوہ توبہ اللہ تعالیٰ ان پنے نین ماجن ہند
 یو شکمو اندرہ تھہ حالس اندر کہ تمہ ساتہ آسیونہ تمہہ زانان کہنی۔ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
 وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ تو پتہ کر نوہ تم بوزنہ خیطرہ کن، و چھنہ خیطرہ اچھہ، زاننہ خیطرہ دل عطا۔
 تھہ تمہہ تھنزن تمن نعمون پیٹھ شکر دپو اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِى جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا
 اللّٰهُ کیاہ تم لو کہ چھنا و چھان جانورن ہند حال۔ تھہ پاٹھ چھ خدایہ سندس کھمس تابع آسانس تہ
 زمینس منز باگ ہو اوس پیٹھ وڈان۔ کانہہ تہ چھنہ تمن تھپ کرت آسان اللہ تعالیٰ اس وراى اِنَّ
 فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ پڑیاٹ اتھہ منز چھہ واریاہ دلیلہ خدایہ سندہ قدر تھہ با
 ایمان ہندہ خیطرہ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا
 تَسْتَخِفُّونَهَا بیہ کر اللہ تعالیٰ ان تمہندہ خیطرہ تمہندین گھرن اندر تمہندہ روزی جاى یلہ نہ تمہہ در حالت

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ
الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ
وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا
إِلَىٰ حِينٍ ﴿۸۱﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِنَ الْجِبَالِ الْكُنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ
وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿۸۲﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ

سفر آسویہ کرن تہندہ خیطرہ چاروا این ہندین مسلمان ہند گھر۔ یعنی خیمہ۔ تم تہہ لوت زانتھ پانس سیت
سفرن اندر تلان چھوہ یوم ظعنکم و یوم اقامتکم سیمہ دوہہ تہہ سفرس نیران چھوہ بیہ سیمہ دوہہ تہہ
جالیہ ٹھہران چھوہ اقامت کران چھوہ و من اصوابہا و اوارہا و اشعارہا اثاناً و متاعاً الی
حین بیہ کرن تہندہ خیطرہ کٹھ موند، اونٹ موند، ژھاول موند، پوشاک تہ فرش و فروش بیہ گرج گروٹھ
اکس مقرر کر نہ آتس و قس تان یوتان تم چیز بھلان چھہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالاً بیہ کر اللہ
تعالیٰ ان تہندہ خیطرہ پنے نین پیدہ کر متین چیزن ہند سایہ پیدہ۔ سمن تل روزت تہہ آفتابہ گرمی نشہ
بچان چھوہ مثلاً گلین ہند سایہ، لرین ہند سایہ و جعل لکم من الجبال الکنانا بیہ کرہ اللہ تعالیٰ ان
تہندہ خیطرہ کوہن اندر گوچھہ تہ غارہ سمن تل روزت شینہ تہ رودہ نشہ بچان چھوہ و جعل لکم سرابیل
تقیکم الحرّ بیہ کرہ اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیطرہ پھرن تہ گرتنہ ییمہ توہہ بچاولان چھہ سردی نشہ تہ گرمی
نشہ و سرابیل بیہ کرین بیہ گرتنہ یعنی زرہ تقیکم باسکم سیمہ توہہ بچاولان چھہ جنگس اندر شمشیرن
تہ نیزن تہ تیرن ہند یوز خون نشہ کذلک یتم نعتہ علیکم لعلکم تسلمون تہہ پانچہ چھوہ اللہ تعالیٰ
توہہ پیٹھ نعرہ پنے پورہ کران تہہ تہہ تمسند ہم مانو فان تولوا فانما علیک البلاء البین پس

الْمُبِينُ ﴿۸۶﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ
الْكَافِرُونَ ﴿۸۷﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا
يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۸۸﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۸۹﴾ وَ
إِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا

ہر گاہ تم لو کہ امہ پتہ تہ تھ پھرن، پس توبہ چھونہ منہ مگر تبلیغ کرن ان پاٹ تہ صاف پاٹھ یعرفون
نعمت اللہ تہ یُنکرونها واکثرہم الکفرؤن تم لو کہ چھہ پرزہ ناوان خدایہ سز نعمت تو پتہ چھہ
زانتھ کر تھ تھ نفیس انکار کران۔ پس برتاو متمس سیت کرن گھہہ یعنی عبادت تہ اطاعت سو چھو تس
ورای بین سیت کران سمو آندہ چھہ واریاہ کافر ویوم نبعث من کل امة شہیدا بیہ پاو ورتیس
سمہ دوہہ آس تلون پر تھہ امة خیطرہ آکھ گواہ، سو گو تمہہ امتک پیغبر قیامتک دوہہ شو لا یؤذن
للذین کفروا تو پتہ بیہ نہ کافرن اجازت دنہ تھہ کرنگ عذرو معذرت پیش کرنگ قیامتک دوہہ
ولاہم یستعتبون نہ بیہ تمن نشہ عذر طلب کرنہ نہ بیہ تمن وننہ کہ اللہ تعالیٰ کریون راضی،، توبہ
کرد، یا کانہہ رث عمل کرد کیازہ تمہہ آس کاشرہ، آخرت چھو دار الجزا سو چھونہ داز العمل واذارا
الذین ظلموا العذاب فلا یخفف عنہم ولاہم ینظرون توبہ پتہ یلہ و پھن عالم تمہہ دوہہ عذاب،
پس نہ لیہ تمن تھہ عذابس منز کی کرنہ، نہ لیجھ مہلت دنہ واذارا الذین اشركوا شُرکاءہم بیہ
یلہ مثر کن نظر پیہ تمن شریکن پیٹھ تمن تم ٹھہراوان آس خدایہ سد شریک قالوا ربنا هؤلاء
شُرکاءونا الذین کُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ نہنہ لگن پروردگارتیہ کیاہ چھہ تم شریک تمن آس
پرستش تہ عبادت کران آس تہ وراي قالقوا الیہم القول انکم لکن یون پس کرن تم
معبودان باطل تمن کافرن سیت تھہ۔ دیکھ تھہ چھوہ بڈا ہزیر۔ آس کر آس وہ توبہ ونان کہ توبہ کر تو

إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۸۷﴾ وَالْقَوْلَ إِلَى اللَّهِ
يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَالسَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۸۸﴾
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۸۹﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ
أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ
هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۹۰﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ

اسم پر ستنش یا توہ معنی اسم بن حاجت۔ تہہ آسوہ پتہ نفسہ چہ خواہشہ تہ شیطانہ سہہ وندہ موجب تم چیز
کران وَالْقَوْلَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَالسَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ بیہ تراوان تمہہ دوہہ
کافر خدائس برو تھکن، اطاعت و صلح معاملہ۔ بیہ مشکہ تم ساری چیز تم ذنیاس منز پانے
ٹھہراوان آس الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
يُفْسِدُونَ تم لو کہ اکھ کفر کران آس۔ بیہ آس پتہ رنان بین لو کن خدایہ سزہ وتہ نشہ یعنی اسلام
قبول کرنہ نشہ تمہن ہرہ راووا اس عذابس پیٹھ عذاب۔ کیا زہ تم آس تباہی تہ بر بادی عالمس منز
پھیلاوان لو کن اسلامہ نشہ پتہ رنہ سیت وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بیہ
پاوسودوہہ ژیتس سمہ دوہہ اس تلون پر پتھ اتس منز تموی منزہ اکھ گواہ یعنی ری پتھ اتک پیٹھہر وَجِئْنَا
بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ بیہ انوہہ تہہ تہ یار سول اللہ گواہ تم لو کن ہندہ خپرہ یعنی پتہ ائمہ خپرہ پتھ
تہہ فرماویو کہ کومون تہند، کمو کور انکار وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ بیہ کرنازل اسمہ توہہ پیٹھ یار سول اللہ بیہ بد کتاب پتھ منز سار کوی بیان پتھوہ بیہ
بوڈ ہدایت۔ بڈ رحمت تہ بڈ بشارت ایمان مسلمان ہندہ خپرہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَهْيَ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹﴾ وَ
 أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ
 بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ
 يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا
 مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ

وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ پزیاٹ اللہ تعالیٰ چھو حکم کران عدل بہ انصاف کر نگہ یہ نیکی کر نگہ یہ آشناؤں
 امداد کر نگہ۔ وَيَهْيَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یہ چھو اللہ تعالیٰ منع کران بچھ کا میونشیہ یہ
 خلاف شرع کا میونشیہ یہ سرکشی بہ بغاوتہ نشیہ یعنی لوکن ظلم و ستم کرنہ نشیہ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
 اللہ تعالیٰ چھو وعظ پران، نصیحت کران ہتھ جہہ سو نصیحت قبول کرو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ
 یہہ کر و وفا خدایہ سندس عہدس یمہ عمدہ کہ پورہ کر نگہ شریعت حکم کران چھو۔ یہہ یمہ پانہ وان عہد
 آسو کران وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا یہہ مہ آسو قسم پھڑاوان سہ مضبوط کرنہ پتہ۔ تھہ
 منز آسوہ خدایہ سند ناوتہ در میانس منز اونمت سیمہ سیت قسم مضبوط چھو سپدان وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
 عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اللہ تعالیٰ آسون تھوومت گواہ یہہ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ پزیاٹ اللہ تعالیٰ چھو
 زانان بہ سوزی یہہ تہہ کران چھوہ۔ تہس نشیہ تہندہ کانہہ چیز پوشیدہ چھونہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي
 نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا یہہ مہ آسو تہہ اے لو کو قسم پھڑاوانہ سیت مکہ شریفچہ تہس دیوانہ
 زنانہ ہی بنان یوسہ زمان آس پٹن کو تھمت، مضبوط کرنہ پتہ، ٹکرہ ٹکرہ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا
 بَيْنَكُمْ ہتھ پات چھوہ تہہ بناوان قسم پٹن پانوان فساد کرنہ خیطرہ اکھ ہمانہ تہ ذریعہ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ
 أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ہتھ سپدہ اکھ جماعت بارہ تعدادس تہ قوس اندر یہہ جماعتہ خوتہ۔ تہہ کرو تہہ ساتہ رعایت
 زور آور جماعتک۔ قسمک کرو نہ تہہ کانہہ خیال اِنَّمَا يَبُوءُكُمُ اللَّهُ بِهِ امہ سیت چھونہ مگر چھو امتحان

تَكُونُ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۷﴾ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَكُسِّعْنَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾
وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ
ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَ
لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۹﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

کران توہمہ اللہ تعالیٰ کہ قسم کر تھہ تہ معاہدہ کر تھہ کرودہ تہہ قسمک رعایت کنہ ظاہری حالاتن ہند
یا زبردست جماعتک۔ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ بیہ تھہ توہمہ اللہ تعالیٰ
نہ راوہ قیامتگ دوہ تہ سوزی تھہ منز تہہ اختلاف کران آسوہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
بیہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یڑھہ ہا توہمہ سارنی کرہ ہائنی جماعت اختلافہ ورا ی مگر تمسز حجت تہ یڑھان
وَلَٰكِن يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ مگر سو چھو گراہ کران نیس یڑھان چھو تس۔ بیہ چھہ
ہدایت کران نیس یڑھان چھہ تس وَلَكُسِّعْنَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بیہ لیہ توہمہ ضرور پر زھنہ تمہہ سارہ
کوی یہ تہہ کران آسوہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا
الشُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ بیہ چھہ فرماوان اللہ تعالیٰ تاکیدہ خیطر ہمہ مہ بناو لو کہ قسم پن
ذریعہ پانہ وان فسادک تہ فنک۔ تمہ سیت ڈلن تھہد کھور تم ہندہ ڈرہ تہ مضبوطی پتہ۔ بیہ تہو تمیک
بچھ مزہ و نیاعس اندر عذابس گرافار سپدنہ سیت کیا زہ توہمہ کیاہ کورودہ آیندہ بینہ والین ہندہ خیطر ہ خدلیہ
سزود تھہ ہند وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بیہ چھہ آخر تس اندر تھہدی خیطر ہو عذاب وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بیہ مہ آسو حاصل کران خدلیہ سند قسم ہاوتھہ دنیاہک کم مال إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ هُوَ خَيْرٌ

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ مَا عِنْدَكُمْ
 يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ فَإِذَا
 قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾
 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ پزپاٹ یوسہ ثواب تہ مزور خدا کس نشہ پچھہ سوچھہ بہتر تہندہ خیر ہ ہر گاہ توہمہ
 زان سچہ بچہ ما عیندکم ینفد و ما عیند اللہ باقی یہ توہمہ نش پچھہ مال دنیا اندرہ تہ سوزی پچھہ موکلہ
 ون تہ خم ہوشہ ون۔ یہ اللہ تعالیٰ اس نشہ پچھہ باقی تہ پوشہ ون۔ سہ موکلہ نہ زانہ۔ و لنجزیئن الذین
 صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون بیہ دموا س صبر تہ استقامت کرہ و نین مزور تہنزن
 رثن کا مین تہ عملن ہند بدلہ من عمل صالحا من ذکر اوانثی و ہومؤمن فلنحییناہ حیوۃ
 طیبۃ سم دنیا س اندر رث عمل کرن مردویا زانو اندرہ با ایمان آستہ پس کروا س تہن عطار تہ زند گیاہ
 دنیا س اندر و لنجزیینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون بیہ دموا کھ اس پنن مزور تہن رثن
 کا مین بدلہ سمہ تم کران اس فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کس بلہ تہ
 ای پیغمبر برحق قرآن مجید پڑن ہیوان آس پس گڑھہ پناہ مگن اللہ تعالیٰ اس مردود شیطانس نشہ۔
 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ پزپاٹ کس شیطانس پچھہ کانہہ
 طاقت با ایمان پیٹھہ بیہ سم پنن کس پروردگار س پیٹھہ اعتماد تہ تکیہ کرہ ون آن ائسا سلطنہ علی الذین
 يتولونہ والذین ہوم بہ مشرکون شیطانہ سندا زور پچھہ چلان مگر تمنی پیٹھہ سم تہس سیت یارانہ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَنُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ
 هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
 لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾
 وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا عَلَّمَهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي
 يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾

لاگن۔ بیہ تمن پیئہ سم کنس خدائس شریک ٹھہراوان وَاِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
 بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بیہ یلہ اَس لہ آیہ کریمہ چہ جلیہ بیا کہ آیہ
 کریمہ نازل کران چہہ اللہ تعالیٰ ای چہہ بہتر زنان تمن احکامن ہنزہ مصلحو یم سہ نازل کران چہہ۔ تمہ
 ساتہ چہہ کافر ونان توہہ یارسول اللہ تہہ چہوہ نہ مگر پنتہ طرفہ سہہ تہہ ٹھہراوان۔ فی الحقیقت چہہ
 واریاہ تمہو آندرہ بے خبر قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ تہہ فرماویو کہ یارسول اللہ، دول
 یہ قرآن مجید جبریل امین کس پاک رُوح چہہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ پزیاٹ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ تہہ بالیمان ہندول مضبوط کرہ بیہ چہہ یہ قرآن مجید لاؤ ہدایت
 تہہ بدبشارت مسلمانن ہندہ خیطرہ وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا عَلَّمَهُ بَشَرٌ بیہ چہہ اسہ معلوم کہ سم
 دشمن چہہ ونان امس پیغمبرس چہہہ پنچھہ ناوان مگر کانہہ زانن دول انساناہ۔ خیال او سگھہ کینون بہودی یا
 نصرانی غلامن ہند۔ اللہ تعالیٰ چہہ تہندس اتہہ باطل خیاس رد کران۔ فرماوان چہہ لِسَانُ الَّذِي
 يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اے بے وقوفو کس غلامس نشہہ تہہ تمن چہہ تہ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ وَلَا مُمْسِكُ
 عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۱۰۴﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿۱۰۵﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ
 بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلٰكِنْ
 مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۶﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
 عَلَى الْآخِرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۷﴾

پرچ نسبت کران چھوہ تمسنز زیو چھ عجمی۔ مگر نئس کلام سم توہمہ یوزہ ناوان چھوہ یہ چھہ زیواہ عربی،
 صاف تہ واضح۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ وَلَا مُمْسِكُ عَذَابٍ أَلِيمٍ پڑپاٹ سم
 لوکھ نہ پڑھ کران چھہ خدایہ سندين آیاتن تمین ہاودہ نہ نجات و تھہ اللہ تعالیٰ۔ تہندی خیطرہ چھوہ کڈر
 عذاب إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ایڑ چھہ
 نورواوان مگر تے لوکھ ہم نہ خدایہ سندين آیاتن پڑھ کران چھہ تے گے ایڑ زہر۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ
 بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ نئس اکھاہ خدائس انکار کرہ اقرار کر تھہ مگر نہ سہ شخص
 نئس کفرہ خیطرہ زور تہ جبر کر نہ لیہ۔ زیوہ سیتہ کلمہ کفر ونہ در حال تہ دل آسئس ڈنجر ایمانہ سبت۔ وَلٰكِنْ
 مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ مگر نئس دل موزراوت کفر تہ انکار کرہ تھیں لوکن
 پیٹھ چھہ خدایہ سہ غضب تہ بیزاری وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بیہ چھہ تہندی خیطرہ یوڈ عذاب ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ بیہ چھہک امی موکھ کہ تموکیاہ کر پسنڈ دنیاء چ زندگی
 آخرتس پیٹھ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بیہ امی موکھ کہ اللہ تعالیٰ چھہ تہ ہاوان کافرین

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿۱۰۸﴾ لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ
 الْخٰسِرُونَ ﴿۱۰۹﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ
 مَا فِتْنَانَا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَّا بَعْدَهَا
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۰﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن
 نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾
 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً

تہ مَحْرَن اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ سے کیا گئے
 تم لو کہ تمہیں مہر کر اللہ تعالیٰ ان تہندین دکن بیٹھ بیہ تہندین کنن بیٹھ بیہ۔ بیہ تہنزن اچھن بیٹھ بیہ کیا گئے
 سے لو کہ غافل لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ پزپاٹ سے لو کہ آسن آخرتس اندر
 تاوان زد ثَمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا فِتْنَانَا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا توپتہ چھ
 پزپاٹ چون پروردگار تمہیں لوکن ہندہ خیطرہ سموکھر چہ سختی تلت گربار تراوتھ، ہجرت کر۔ توپتہ
 کوزک جہاد۔ بیہ کوزک صبر إِنَّ رَبَّكَ مِنَّا بَعْدَهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ پزپاٹ تہند پروردگارہ چھ تمہ پتہ
 تہندہ خیطرہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن
 نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ سہ دودہ پاووتیس سمہ دودہ پریت شخصاہ ایہ،
 گفتگو آسہ کران پنہ نی پانہ کہ طرفہ۔ بیہ لیہ پورونہ جزاتہ سزا پریتھ کانسہ۔ تھ بدل بیہ تم کرمت آسہ
 تمواندرہ ایہ نہ کانسہ ظلم کرنہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
 رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ بیہ کریان اللہ تعالیٰ ان مثال اکہ شہرہ کین لوکن ہنز تم آس امن والاس

يَا أَيُّهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ
 اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا
 يَصْنَعُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ
 فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۳۳﴾ فَكُلُوا مِمَّا
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ
 كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۳۴﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ
 الدَّمَّ وَاللَّحْمَ الْخَنِيزِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ

اندره رُویت۔ تمَن آس و اتان کھینہ چینک چیز بکثرت پریتھ طرفہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اتی کور تمو
 خدایہ سزنا نعمون انکار تہ ٹھران نعمت فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
 ہس ژہہہ نامو اللہ تعالیٰ مزہ بوچھہ ہند تہ کھوڑجیہ پو شاکک۔ یعنی بوچھہ تہ بد امنی آبیہ تمَن تہہ پاتھ ولنہ
 تہہ پاتہ بدنس چھہ آسان لباس ولتھ تمَن کاین ہندہ سبہہ سمہہ تم کران آس۔ حضرت عبد اللہ بن
 عباس چھہ فرماوان سمہہ مثالیہ منزہ چھہ مراد اہل مکہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ پز پات
 آو تمَن کُن پیغبرہہہ جلیل القدر ٹیس تموی منزہ اوس۔ تس کور کھ انکار۔ سوی زونجھ اپز زیور
 فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ادرٹ تم عذابن یعنی ٹھن تہ بد امنی۔ تہہ حاکس اندر کہ تم
 آس پان پانس ظلم کرہون شرک تہ تکذیب کرنہ سیتِ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
 ہس کھوسہ رزق یس عطا کور توہہ اللہ تعالیٰ ان حلال تہ پاک وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ
 إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ بیہ دپو شکر خدایہ سزنا نعمون پیٹھ۔ ہر گاہ چھوہ تس یا ژ بندگی کران إِنَّمَا حَرَّمَ
 عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَّ وَاللَّحْمَ الْخَنِيزِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ تم پروردگارن کورنہ توہہ پیٹھ
 حرام مگر مردار (پانے مومت) جانور، بیہ رتھ، بیہ سورہ مازیہ سہ جانور ٹیس خدانس ورا ی بیہ کانہ ہندہ

اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۵﴾
 وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا
 حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ
 الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۶﴾
 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَعَلَى الَّذِينَ
 هَادُوا حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِهِ ۖ وَمَا
 ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾

تعظیمہ خیرہ یا قرب ژھانڈنہ خطیرہ مارنہ ایہ فَمِنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 رَحِيمٌ پس پس اکھاہ فاتحہ وجہہ بالکل بیقرار تہ مجبور سپدہ سمو چیز و اندرہ کانہہ چیز کھینس پیٹھ سمو
 چیز و وراہی بنینس نہ کانہہ چیز بشر طیحہ لذت تہ مزہ حاصل کرہ و ن آسہ نہ۔ ضرورتہ نحو تہ زیادہ کھیوہ و ن
 آسہ۔ پس چھہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ و ن، رحم کرہ و ن وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ
 الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ بیہ مہ آسو و نمان تہن چیز ن یمن تہنزہ زویہ آس پانے اپز
 تعریف کران کہ یہ گو حلال تہ یہ گو حرام لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ خدا پس پیٹھ اپز نوراونہ خطیرہ
 إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ پز پاٹ سم اللہ تعالیٰ اس پیٹھ اپز نوراونہ تم
 سپد نہ زانہہ کامیاب مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بیہ چھہ فائدہ تلنک کم چیزہ۔ یعنی فائدہ
 موہیہ ہنہ۔ پو لاکہ چھہ تہندہ خطیرہ کڈر عذاب وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ
 مِنْ قَبْلِهِ بیہ کوراسہ یہودین پیٹھ حرام تم چیز سم آسہ بیان کرتوہم سمہ بروٹھہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آسہ کورنہ یمن پیٹھ کانہہ ظلم بلکہ آس تم پان پانس ظلم

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّعْرَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ ﴿۱۱۹﴾
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۰﴾ شَاكِرًا لِلْإِنْعَامِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۱﴾ وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
 الصَّالِحِينَ ﴿۱۲۲﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا


کران ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّعْرَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ توپتہ چھہ حقیقت یہی کہ بیشک تہند پروردگار چھہ تمن لوکن ہندہ خیطرہ یومو بیچہ کامہ
 کرہ نادانی سببہ توپتہ کورکھ تمہ پتہ توبہ خدائس کن رجوع بیہ سنبھا لک پن پان۔ اصلاح کورکھ پتہ نس
 پانس۔ پزپاٹ تہند پروردگار چھہ تمہ پتہ تہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ
 أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ پزپاٹھ حضرت ابراہیم تمن توبہ تہ چھہ مانان
 اوس کنی زن، بدس اتس برابر کیا زہ سوڑی عالم اوس شرک و کرس بتلا۔ یورہ کنہ اوس سہ کنی صاحب
 خدائس کنی زانان۔ سارنے اوس توحیدس کن دعوت دوان، خدایہ سُد فرمانبردار بندہ۔ نس ساروی نشیرہ
 الگ سیدت نس کن مایل سپدہ ون اوس۔ بیہ اوس نہ سہ خدائس شریک ٹھہراوہ ونیو آندرہ شاکر
 لِْلْإِنْعَامِ سہ اوس شکر گزار تہمن نعمون پیٹھ اجتباہ و ہدایہ الی صراطِ مُسْتَقِيمٍ سہ ثور اللہ تعالیٰ ان،
 برگزیدہ کورن بیہ مانس دتھ راہ اتس کن وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
 الصَّالِحِينَ بیہ کوراسہ عطاس دنیاس اندرتہ رت حال۔ حجہ حجہ مہربانیہ۔ نبوت، اجتباء، خلعت،
 ہدایت بیہ چھہ آخرتس اندر سہ اعلیٰ درجہ کیونیکو کارو آندرہ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا توپتہ سوزاسہ توبہ کن وحی یارسول اللہ کہ پیروی کرو تہہ حضرت ابراہیمہ سندس ملتس نس کنسی
 خدائس کن مایل تہ پیہرہ ون اوس وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیہ اوس نہ سہ مُشْر کو آندرہ إِنَّتَّاجِل

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۳﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ
 اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا
 كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۴﴾ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
 رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۳۵﴾
 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ

السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اختلفوا فيه بطور اہد تعظیم آوند مقرر کردند۔ مگر تمنی پیٹھ سمو تھ منز اختلاف
 کور وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بیہ کرہ فیصلہ چون رب قیامتہ
 دودہ تمن در میان تھہ چیزس منزیتھہ منز تم اختلاف چھہ کران۔ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ نادو دیو تھہ لوکن خدایہ سزہ وتہ کن۔ علمہ چو کتھو سیت بیہ تہ نصیحتہ سیت
 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بحث کرو لوکن سیت۔ تمہہ طرفہ سیت منز نہ شدت تہ خشونت آسہ۔
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ پڑیاٹ چون پروردگار چھہ یژانان تمن
 سم تھزہ وتہ نصیحتہ ڈل۔ بیہ چھہ سوی یژانان کھہ کھو لو ب ہدایت تہ کم چھہ راہ راستس پیٹھ پکان۔ اگر کھار
 جدال علمی نشہ ڈلت جدال عملیس کن رُح کر کن تو پتہ واتہ تاؤن اتھہ سیت یا زیوہ سیت تکلیف۔ تھہ
 صورتس منز چھہ توہہ بیہ تھندین تابعن بدلہ ہیون جایز۔ امیک چھہ توہہ رخصت بیہ چھہ صبر کزن تہ
 توہہ جایز۔ مگر تہ چھہ عزیمت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ دون ہر گاہ تھہ رخصت
 پیٹھ عمل کرو یعنی تمن ہیو بدلہ تہ انتقام سہ گدھہ ستوی ہیون یوت توہہ تکلیف آسہ واتا ونہ آمت
 وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ہر گاہ عزیمتس پیٹھ عمل کرت تھہ صبری کرو۔ تلہ چھہ صبر کرہ
 نوی بہتر صبر کرہ دین ہندہ خیطرہ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ بیہ کرو تھہ صبری کیازہ تھند شان چھہ

صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۳۷﴾
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۳۸﴾

بلند نہ ارفع۔ جہد صبر کران پچھنہ مگر خدایہ سندی توفیقہ تہ مددہ سیت تہ تھا وواطمینان کہ توبہ سپدہ نہ
 صبر کرئس اندر کئے قسمہ دشواری پیدہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ بیہ مہ
 برو تہدہ مخالف تک غم بیہ تم تدبیر تم تہدیس مخالف نفس منز کران چہہ تموسیت مہ سپد و متجدد لہ سیت
 سپدہ نہ توبہ کا نہہ نقصان کیا زہ توبہ چہوہ تقویٰ تہ احسانہ سیت موصوف إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
 وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چہہ پربہر گارن تہ متقین سیت سیت بیہ تمن تم نیو کار
 آس۔





سُبْحَانَ الَّذِي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ أَيَّتِنَا أَنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ ① وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا منزہ تہ پاک چھو سو ذات پاک پر ہتھ نقضہ نشہ، ضعفہ نشہ، عاجزی نشہ۔ تم یکہ نو پین بندہ خاص رات کیت۔ رات منزہ ہنہ اگس مسجد حرامہ پیٹھ۔ یعنی خانہ کعبہ چہ مسجدہ پیٹھ، مسجد اقصا س یعنی بیت المقدس تانِ الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ہتھ مسجد اقصا س اند اند اسہ دین و دنیا چہ بر کث تھا وہ مزہ ہتھ لُزِيَهُ مِنْ أَيَّتِنَا یکہ نوتہ سیر کرہ نو سو بندہ خاص ہتھ ہا و اُس تمں پینہ قدر تک بخانہ۔ چنانچہ اگس کم و قس اندر مکہ شریفہ پیٹھ شام شریفس تان و اتہ ناؤن یہ گواکھ بخانہ۔ بیت المقدس ہاؤن۔ ہتھ حضرات انبیائین سیات ملاقات کرہ ناؤن یہ گویا کھ بخانہ۔ ہتھ پیٹھ سیر آسمانی کرہ ناوت آسمان ہمد عجائبات ہاؤن۔ ہم گئے بے بخانہ عالم ہندس اصطلا حس اندر چھہ ونان مکہ شریفہ پیٹھ بیت المقدس تان سیرس، اسراء۔ بیت المقدسہ پیٹھ سدرة التہمی اس تان سیرس چھہ ونان معراج۔ ہنہ وقتہ چھو دو شون سیرن معراج ونہ یوان، ہنہ وقتہ چھو دو شون اسرا ونہ یوان۔ معراج شریفک حدیث شریف چھو تقریبات ہن صحابہ صیین ہندہ روایت۔ مجبور سلف و خلفن ہندا عقائد چھو مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم تمو کور معراج بروح و بجد، در حالت بیداری۔ اللہ تعالیٰ ان کور بیان واقعہ معراج کمال اہتمامہ سان۔ مخالفوتہ کور اتھ انکار نہایت زور و شورہ سان۔ یسے زہ چیز چھہ بوزہ ناواں کہہ یہ اوس نہ نندرہ مز روحانی طور یا بطریق کشف۔ کیا زہ سہ آس نہ کاہنہ عجایب کتھاہ یوسہ کمال اہتمامہ سان بیان ایہ ہا کر نہ۔ نندرہ منز چھہ کم کم لوک کم کم چیز و چھان۔ بیہ کرہ ہن نہ کفار مکہ خوابہ کس واقعت یوت انکار اِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ آلَاتِ تَحِيَّةٍ وَأَمِنُ دُونِ وَكَيْفًا ۝^٢
 ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝^٣
 وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
 مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝^٤ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا
 عَلَيْكُمْ عِبَادًا نَّانَأُولَىٰ بَابِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ

پڑھا اللہ تعالیٰ چھو سو روی بوزہ ون۔ سو روی وچھ ون وَاٰتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي
 اِسْرٰٓءِیْلَ یہیہ کر عطا اہم حضرت موسیٰ اس کتاب یعنی تورات بنی اسرائیلن ہمدہ خیطرہ بوذ سبب
 ہدایت۔ ہتھ اندر باقی احکامن سیت توحید ک عظیم الشان حکم تہ اوس اَلَا تَحِيَّةٌ وَاَمِنُ دُونِ وَكَيْفًا ای
 زہ ہتھنہ مہ ورا ای بناویون ہتھ کاہنہ اکاہہ یئن کار ساز لیس توہمہ پننہ کامہ ہتھراویو ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ
 نُوحٍ ای بنی اسرائیلو ہتھ گوہ تمنی لوکن ہمد اولاد ہم امہ ناوہ منزہ کھاہر حضرت نوحس سیت بدس
 طوفانس اندر۔ توہمہ ہزہ ہاسیٹھا شکر دہن اتھ نفیس پیٹھ یم یہ نعمت عطا کرہ سُوگڑھہ زان کئی۔ تس
 گڑھہ نہ شریک ٹھہراون اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا پڑھا حضرت نوح تہ اوس سیٹھا شکر گڈار بندہ
 وَقَضَيْنَا اِلٰی بَنِي اِسْرٰٓءِیْلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا یہیہ کراسہ بیان
 بطریق پیشین گوئی بنی اسرائیلن توراتس اندر کہہ ہتھ کرو ضرور ملک شامس منز دوہہ پھیرہ گنہن
 ہمدہ کثر تہ سیت خرابی تہ تباہی۔ اکہ پھیرہ کرو شریعت موسویج مخالفت، یہیہ پھیرہ کر وہ شریعت
 عیسویج ن مخالفت۔ یہیہ کرو ہتھ لوکن پیٹھ سیٹھا زبردستی ظلم تہ سرکشی۔ حقوق اللہ تہ کرو ضائع حقوق
 العباد تہ دوشون لٹن اندر گڑھو ہتھ سخت عذابس مبتلا۔ توہمہ ایہ سزا ونہ اِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَا بَعَثْنَا
 عَلَيْكُمْ عِبَادًا نَّانَأُولَىٰ توه پتہ بلہہ والہہ سمودویو اندرہ گوڈھجہ سزائے ک موقعہ آس گرو توہمہ سزا ونہ خیطرہ،
 توہمہ پیٹھ مسلط پنہ نین بدن ہنزاکہ جماعتھاہ اُولٰٓئِیْ شَدِيْدٍ ہم سخت قوتہ وال آسن فَجَاسُوا
 خِلَالَ الدِّيَارِ تھے آژن تھمدین شہرن تہ گھرن منز توہمہ گرفتار کرنہ خیطرہ مارنہ خیطرہ وَاَمِنُ دُونِ وَعْدًا

وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ
 وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝
 إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُوا لِنَفْسِكُمْ ۚ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ
 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
 الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۝
 عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ أَنْ يَرَحِمَكُم ۚ وَإِنْ عَدْتُمْ عَدُنَا ۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

مَفْعُولًا یہ محو وعدہ نِس ضرور پورہ کرنے ایہ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ تو پتہ یلہ توبہ کر وہ،
 نادم تہ پشیمان سپدہ اون اسہ واپس تہندہ خپترہ ہبہ تہند غالب سپدن تمن پیٹھ اکہ ہبتہ (۱۰۰) و ہر
 وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ہبہ کور اسہ توبہ مدد پنچو یوسیت ہبہ مال و دولت سیت وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ
 نَفِيرًا ہبہ کور وہ اسہ توبہ زیادہ لشکرہ تہ فوجہ اعتبار إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُوا لِنَفْسِكُمْ ہبہ دوپ اسہ
 توبہ کہ ہر گاہ توبہ رتہ کامہ کر وہ تہ محو رت توبہ پنہ نین پان ہبتہ خپترہ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ہبہ ہر گاہ
 پیٹھ کامہ کر وہ تمیک نقصان محوہ پنہ نین پانن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ادہ یلہ وائہ دو سمہ لہ فساد کر ہمہ
 سزائک موقعہ ہبہ سوز کہ آس لو کہ پن سم توبہ قتل و عارت کرن لِيَسُوءَ أَوْجُوهَكُمْ سم توبہ ہتھ
 دگان دگان تہندین تنگ ہند حلیہ تہ شکہ بد لاوان وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ہبہ
 ہتھ تم اژن مسجد اقصی اس اندر بے حرمتی کرنہ خپترہ تہ مسجد مہندم کرنہ خپترہ، ہتھ پاٹھ برو تھمہ کہہ
 ثلاث آس تھ منز قَلِيْتُتِبْرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ہبہ ہتھ تم ہتھ جاہہ واتن تھ جاہہ کرن تباہ و برباد۔
 چنانچہ بنی اسرائیل یلہ حضرت یحییٰ شہید کور، اللہ تعالیٰ اَن سوز تمن پیٹھ بخت نصر سم تمن قتل و
 عارت تہ لوٹ مار کرنہ سیت طوفان تل۔ ہبہ اوس تھ کتابہ منزائتہ لیکنہ آمت کہ ہر گاہ تمہ پتہ یلہ دور
 شریعت محمدیہ آسہ تہہ مخالفتہ تہ نافرمانی نشہ پتھ روزت شریعت محمدیک اتباع کر وہ۔ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ أَنْ
 يَرَحِمَكُم عجایب تہ دور تھنہ ہبہ تھ کہ اللہ تعالیٰ تہند پروردگار کیا کرہ توبہ پیٹھ رحم ہر گاہ تہہ توبہ کر وہ،

لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۗ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ
يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۙ
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ
وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۙ
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

پشیمان سپد وَاِنَّ عُدْتُمْ عُدْنَا مگر هرگاه تہمہ بیہ قہنہ و فساد تہ تا فرمانی کر و بدستور بیہ کر و وہ آس تہمہ عذابس
گرفار و نیاس اندر و جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا آخرتس اندر چھو اسہ جنہم کور مطوی کافر ن ہند
قید خانہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ پڑپاٹ یہ قرآن مجید چھو ہاوان سوی و تھ یوسہ سیز
و تھ چھ یعنی اسلام و يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بیہ چھو بشارت دووان
با ایمان تم رتہ عملہ چھہ کران زہ تہمدہ خظیرہ چھہ مزوریہ سیٹھاہ ہڈ وَاَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بیہ چھو بیہ قرآن مجید خبر دووان کہ تم لوکھ پڑھ چھنہ کران آخرتس تہمدہ خظیرہ
چھو اسہ تیار کورمت دود تہ دگ تلہ ون عذاب و يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ قرآن مجید چھو
لوکن رتین چیز ن گن و تھ ہاوان۔ بچھ چیز و نشہ پھہ رٹان۔ مگر انسان چھو تھہہ و زہ پانس یا پنہ نس
عیالس و وہوان۔ تھہ پاٹ۔ تھہ پاٹ دعای خیر چھو کران و كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا بیہ انسان اوس ڈاڈ جلدی
کرہ ون سوچنہ کچھہ و رای کوم کران و جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً بیہ کر اسہ دوہ تہ رات پنہ قدر تلک زہ نشانہ۔ نس تہمہ و اسہ راژ ہند نشانہ تاریکی سیت بیہ کور
دُہک نشانہ نر اوہ ون۔ تم چیز راژ ہمزہ تاریکی سیت پو شیدہ چھہ آسان تمن چھو دُہک نورانتر اوان
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابِ تھہ تہہ تھانہ و پنہ نس پد و ردگارہ سُد فضل یعنی
رزق و ہکس گاش اندر۔ یعنی ضروریات زندگی حاصل کرنہ خظیرہ کر و کار و بار۔ بیہ چھہ زانو تہہ شب و

وَالْحِسَابِ وَكُلِّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ۱۲) وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ
 طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۱۳)
 أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۱۴) مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
 يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
 وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۱۵) وَإِذَا أَرَدْنَا
 أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

روزہ کہ انہ گنہگار سے آفتابہ سے زونہ ہندہ کھسنہ سے لوسنہ سے تہ ور ہن سے ریتن ہنز گریند۔ بیہ دو ہن سے
 و قن ہند حساب و کُلِّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً پر ہتھ چیزہ کوراسہ بیان قرآن مجید س اندر بوضاحت۔ تمو
 چیز و آندرہ گوڈ ہک سے راتک سُن گھسن و کُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اسہ کر پر ہتھ کوم کرو نس
 انسانہ سنز کوم، ادہ نیک کوم آستن یا پتھ کوم آستن، مومن آستن یا کافر، عمل تہنز جان آستن یا پتھ
 نال تہنز ہ گردنہ منز یعنی پر ہتھ اکسند لقتدیر پتھو پر ہتھ اکس سیت تھاونہ آمت و نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا
 يَلْقَاهُ مَنشُورًا قیامتک دوہ کڈو اَس تہند نامہ اعمال تہند ہ و پتھہ خیطر ہ پتھہ سوارہ مڈراو تھہ و پتھہ سُو۔
 پر ہتھ اکس و اتہ پتھ نامہ اعمال خود بخود۔ بعضین د پتھس اتھس منز، بعضین کھو فرس اتھس منز اِقْرَأْ
 كِتَابَكَ پر ہتھ اکس بیہ ونہ پتھ نامہ اعمال پائے کفٰی بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا کافی پتھوک تہ از
 پتھہ پانہ خیطر ہ پانس حساب ہیوہ ون مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ بس اکھا سیزہ وتہ پوک سو پوک نہ
 سیزہ وتہ مگر پتھہ پانہ فاندہ خیطر ہ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا بیہ بس سیزہ وتہ نشہ ڈول سو ڈول نہ مگر
 پتھہ پانہ ضررہ خیطر ہ تھیک ضررہ پتھو تس پان پانس وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ بیہ تکلہ نہ کا نہ شخصہ
 بیس شخصہ سندین گنہن ہند بور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا بیہ چھنہ اَس کانہ عذاب کران
 یوتان نہ اَس پتھن احکام ہتھہ کا نہ پیغمبر چھن سوزان وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا بیہ یلہ
 یڑھان چھہ اَس گنہ شہرک یا گنہ گامک لوک ہلاک کرن تم کفر و مھصیتہ کہہ و پتھہ قابل ہلاک چھہ

الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۱۷) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ
 بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۱۸)
 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
 لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهُ مَا مَدَّ مُومًا مَدَّ حُورًا ۱۹) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا
 سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۲۰) كَلَّا لَمَّا هُوَ رَا

آسان۔ حکم چھہ کران اس پیغمبرن ہندہ ذریعہ تمہہ شہرہ کین مالدارن تہ زہین ایمانگ تہ
 فرمانبرداری ہند ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فد مرنہا تدمیرا تم زٹھیلہ عدول حکمی تہ نافرمانی
 چھہ کرن سانین احکامن ہنز، بیہ چھہ فتنہ وفسادنگان تھہ شہرس اندر آتی چھہ تمن پیٹھہ حجت پورہ
 سپدان تم چھہ عذابکس کھمس سزاوار بنان۔ آدہ چھک اس تم نافرمان گالان تہندس شہرس تاراج
 کران وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ بیہ کرہ آسہ حضرت نوحس پتہ کاژاہ امزہ ہلاک تہنزہ
 نافرمانی سببہ قوم عاد و قوم ثمود وغیرہ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کافی چھو تہند
 پروردگار پنہ نین بندن ہند گناہ پور زمان تہ پورو چھان تہ تمی چھو نیس بیتھہ سزا شو بہ نس چھو تنھی سزا
 دوآن مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ نیس اکھاہ پنہ نین نیک عملن ہنز مزور، فقط
 دنیاءک نفع ژھانڈہ، جلد و موآس نس تمہہ آندرہ ایڑہن آسہ خوش کرہ تہ نیس آسہ خوش کرہ دنیاءس
 اندر ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ توپتہ چھہ آس تیار کران تہندہ خیطرہ جنم یصلہ ما مَدَّ مُومًا مَدَّ حُورًا تھہ
 جہنمس منزواتاوندہ ایہ سوبڈلت و خواری۔ دکہ دی دی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا بیہ تم پنہ نین نیک عملن ہنز مزور ژھانڈہ آخر تک ثواب حاصل کر نہ خیطرہ
 سو کوشش یوسہ شو بہ۔ یعنی سو عمل آسہ شریعتہ کین قواعدن مطابق بیہ آس سُو شخص با ایمان،
 مشرک آسہ نہ۔ تمی قسمک لو کہ یم چھہ تہند سعی تہ کوشش چھہ قابل تعریف یوسہ رتھہ کھسہ۔ اللہ
 تعالیٰ قبول کرہ، سوی عمل بیتھہ ترہ شرط آسن اکھ آسہ نیت رتہ۔ دویم آسہ مطابق قواعد شرع۔ تریم

وَهُؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝۱۰ أَنْظُرْ كَيْفَ
 فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْآخِرَةُ الْكِبْرُورَاتُ ۝۱۱ وَأَكْبَرُ تَقْضِيًّا ۝۱۲
 لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَلْحُومًا ۝۱۳ وَقَضَىٰ رَبُّكَ
 أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ وَيَالِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَا بَلَغْنَ عِنْدَكَ الْكِبْرَ
 أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَاتَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
 كَرِيمًا ۝۱۴ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا

آسہ اعتقاد صحیح کلائیڈن مؤلک و ہؤلآء من عطاء ربک پر بیٹھ اگس سمو دو یو آندرہ یعنی دنیا تر ہانڈہ ونس تہ
 آخرت تر ہانڈہ ونس گرو آس امداد پتہ مہربانی سیت و ماکان عطاء ربک محظوراً ہجھہ تہندس پروردگارہ
 سز مہربانی دنیا س اندر کانسہ ہندہ خیطرہ بند آمز کرنہ تہ پتہ آمزرنہ انظر کیف فضلنا بعضهم على
 بعض ای پیئمبر بر حق و جھو تہہ آسہ کتھہ پاٹھ ہجھہ زیادتی عطا کر مشاؤین لوکن اؤین پیٹھ۔ حتی کہ اکثر
 کافر جھہ اکثر بایمان ہندہ خوتہ مالدار و لاخرۃ الکبرورات و اکبر تقضیلاً پزپاٹ آخرت ہجھہ سیٹھاہ بوڈ
 در جاتن ہندہ اعتبارہ۔ بیہ ہجھہ سیٹھاہ بوڈ فضیلتہ اعتبارہ۔ تمیک گتھہ اہتمام کرن۔ بیٹھ تم شرط ہجھہ تم
 گزھن پورہ کرن لا تجعل مع الله إلہاً آخر ف تقعد مذموماً ملحوماً و لا ای مخاطب مہ ٹھہراؤن خدا ایس معبود
 بر حقس سیت بیاکہ کانہہ معبوداہ۔ ورنہ روزک ژہ مذمت کرنہ آمت نیکیس وے بس وقضی ربک الآ
 تعبوا و الآیاتہ بیہ ہجھہ حکم کورمت چان پروردگارن کہ ای لوکو عبادت مہ کر و معبود بر حقس وراے
 کانسہ ہنز و یالی الذین احسانا بیہ کرد تہہ پنہ نس ماس ماجہ نسبت احسان، رت سلوک۔ انا بلغن
 عندک الکبر احدہما او کلہما فلا تقل لہما آف ولا تنہرہما ہرگاہ واتن چانس و قس اندر۔ بجز سمو آندرہ
 اکھ یادوشوے پس مہ آس تمن کنہ کتھہ پیٹھ تنگ بیٹھ آف و نان۔ بیہ مہ آس تمن زورہ تھہ یا حشم کرن
 وقل لہما قولاً کریماً تمن سیت آس کتھہ کران رتہ طریقہ نرمی سان و اخفض لہما جناح الذل من
 الرحمة بیہ کر پست تہندہ خیطرہ افساری ہند پز، نیاز مندی سیت، بیٹھ پاٹھ جانورہ سندرہ ہجھہ آپہ رحمتہ

كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٣﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صٰلِحِينَ
 فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَإِذْ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا يَبْدُرُ تُبْدِيرًا ﴿٢٥﴾ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
 الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٦﴾ وَإِنَّمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ أَيْتَاءٌ
 رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهُمَا فَتُلَّ لَهُمْ قَوْلًا مِّسُورًا ﴿٢٧﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ

وقتہ ماس ماجہ بروٹھ سٹنہ پر موروات روزان وقل رب ارحمہما کما ربیننی صغیرا بیہ آس تہندہ حقہ دعا
 کران۔ ای میانہ حقیقی پروردگارہ رحم کریمین دوشون پیٹھ پتھ پاٹھ ہم دوشوے مہ پیٹھ رحم کھیت
 میان ظاہری پرورش کران آس یلہ بولوٹ اوس ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صلحین تہند
 پروردگار چھو زیادہ زانہ دن تمن تمھن سمہ تہندین دن منز چھ۔ ہر گاہ تہہ حقیقتس اندر ولہ کن سعادت
 مند آسو۔ یعنی دلس منز ماس ماجہ ہنز شفقت تہ محبت آستھ بعضی سٹنہ وقتہ تہندہ طرفہ تمن نسبت
 تیزی لبنہ یوان آسہ تو پتہ آسو تہہ تمہ نغیرہ توبہ کر تھہ تم پانس نغیرہ راضی کران فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ
 غَفُورًا پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو توبہ کرن والین مغفرت کرہ دن وَإِذْ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَلَا يَبْدُرُ تُبْدِيرًا آشناون آس دوان تہند حق بیہ مسکینس محتاجس تہ مسافرس بیہ مہ آس کران
 مال خرچ کرنس اندر اسراف تہ فضول خرچی۔ سو خدلیہ سئد دیشمت مال خرچ کرن تہنزن نافرمانین
 اندر، یا مباح چیزن اندر توت زیادہ خرچ کرن سمہ سیت بروٹھ پیکہ نہ شخص ضروری حقوق ادا کر تھہ
 إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ پزپاٹھ اسراف تہ فضول خرچی کرہ دن چھہ شیطان ہند پای
 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا شیطان چھو گوڈ پیٹھ پنے نس پروردگارس ناشکری کرہ دن تمس شیطانس
 دژاہیہ اللہ تعالیٰ ان دولت عقل، تم کروسضائع اللہ تعالیٰ سزہ نافرمانی اندر۔ مہرزین کرن عطا دولت
 مال تم تہ چھہ سوضائع کران تہنزن نافرمانین اندر وَإِنَّمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ أَيْتَاءٌ رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهُمَا فَتُلَّ
 لَهُمْ قَوْلًا مِّسُورًا بیہ ہر گاہ سٹنہ وقتہ نجبوری ژہ یکن مسکین غریبن تہ محتاجن جوائی آسہ کرن
 بیہ ژہ آسکھ پنے نس رب سز رحمت ژھاٹدان تل کرن ژہ امن سیت نرم کلا ماہ۔

مَغْلُورَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ لَمُومًا مَّحْسُورًا ﴿۱۵﴾
 إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
 خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۱۶﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ
 وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ﴿۱۷﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْنَ إِنَّهُ كَانَ
 فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿۱۸﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
 بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلْيَبْسُفِ

تو تھ کلام گوہ کزان۔ مہر سیت نہ تہمز دل آزادی سپدہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُورَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
 كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ لَمُومًا مَّحْسُورًا بیہ مہ آس تھاوان اتھ زہ ہنن گردنہ منز بند یعنی کانسہ دہگ نہ کینہہ۔ نہ مہ
 آس اتھ بالکل یلہ تراوان یعنی پانس سخت ضرورت آتھہ بین دوان پس روز کہ ژہ ملامت کرنہ آمت
 ہیو کسی جابہ بندیا نوٹے بدن تھاوات إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ پزپاٹ چون پروردگار چھو
 رزقس اندر وسعت کران پس یشھان چھو بیہ چھو سوئی رزقس اندر تنگی کران پس یشھان چھو
 اِنِّهٖ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا پزپاٹ سو چھو پنہ نین بدن ہند حال پورہ زانہ ون تہندین حالاتن پور
 دچھہ ون وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ بیہ مہ آسئو کہ ماران ہنن اولاد ناداری ہندہ خوفہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
 وَإِيَّاكُمْ آس دمو تمن رزق بیہ توہہ تہ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا پزپاٹ تم مارن چھو بوڈگناہ۔
 وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا بیہ مہ ابو لکھ تہ بیچھ کامہ زناعس۔ بیشک یہ بیچھ کوم چھہ
 بد بے حیائی بیہ چھہ خراب و تھہ۔ امہ سیت چھو عداوت توان بیہ فتنہ و فساد قایم سپدان۔ بیہ چھو نسب
 ضائع سپدان وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بیہ مہ آسئون ماران سو شخص سمسند مارن اللہ تعالیٰ ان
 حرام کور سو گو بایمان لایا بالحق مگر مارنہ بیہ مٹہ مجرمس منز حکم شرع وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
 لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلْيَبْسُفِ فِي الْقَتْلِ بیہ پس شخصاہ ناحق مارنہ لیہ بیشک اسہ دیئت تہندس و لیس اختیار، قصاص
 پنک سوبلی حقیقی آستن یا کھمی کھمی ولی گو پادشاہ۔ مگر تمن ولین ہنز گڑھہ نہ بدلہ ہمیس منز زیادتی

فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿۳۶﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿۳۷﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿۳۸﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿۳۹﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ

کرن۔ جُر مس بدل غیر جُر میا کس بدل واریاہ مارن اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُورًا بیشک سوہو مدد کرنہ آمت۔
تس سیت چھ لوکن ہنز ہمدردی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ بیہ مہ بہو
نکھ یتیمہ سندس ماس مگر تمہہ طریقہ کس رت آسہ شرعاً عرفانہ یعنی سیمہ سیت اصل موجود روزت
تمہہ نفہ پیٹھے یتیمہ سند اخراجات پورہ سپن۔ یوتان سو یتیم پنہ نس طاقس ولتہ یعنی بالغ تہ سمجھدار
سپدہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ بیہ کروفا تھہ عمدس کس توہہ خدا کس سیت کورمت چھوہ۔ بیہ تمن
عہدن سم تہہ پانوان کران چھوہ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا بیشک پریتھہ کُنہ عہدک ایکی پرژھنہ
قیامتک دوہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ بیہ بلہ مینہ وینن چیزن تہہ میان آسو تلہ
آسو پور میان۔ بیہ آسو تولہ ون چیز پختہ سکرہ تہ پورہ پرمانہ سیت تولان ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا بیہ چھو
درذات خودتہ سیتھہ رت بیہ چھو امیک انجام تہ سیتھہ بہتر تہ سیتھہ رت امہ ست چھو اعتبار بڑان
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ بیہ مہ آس پتہ لگان تھہ چیزس یا تھہ کتھ تنگنہ ژہ خبری چھہ۔ بے تحقیق مہ
آس کُنہ چیزس پیٹھ عمدر آمد کران۔ یوتان نہ کاہنہ چیز تھہقہ سان زانان آسکھ توتان مہ وون زونم۔
یوتان نہ وارہ وچھان آسکھ توتان مہ آس ونان وچھم یوتان نہ وارہ بوزان آسکھ توتان مہ آس ونان
بوزم ہر و مومہ آس اپڑ گواہی تہ شہادت دوان کیا زہ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا پڑپاک کتہ ناچھہ تہ ول یکن سارنی نشہ لیہ پرژھہ گار کرنہ قیامتک دوہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ

طُولًا ﴿۲۷﴾ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿۲۸﴾ ذَلِكَ مِمَّا
 أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۖ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 فَتُلْفَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿۲۹﴾ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَ
 اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿۳۰﴾
 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿۳۱﴾ قُلْ

مَوْحًا بِمِ مَہ پچھ زمیں بیٹھہ کان تکر او تھ تکبرہ سان زور زورہ لتہ دو ان اِنَّكَ لَنْ تَخۡوِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبۡتُلۡہَ
 الْجِبَالَ طُولًا پز پاپاٹ ژہ بیٹھگنہ گود کر تھ پنہ نیو لتو سیت اتھ زمیں بیہ بیٹھگنہ پان زیشتر او تھ پچہ
 سیت کو ہن تان تھرہ گن واتھہ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنۡدَ رَبِّكَ مَكْرُوۡہًا سیمہ سارے پچھ کامہ سمن
 ہنز ذکر کرنہ آیہ سیمہ چھہ چانس پروردگار س ناپسند ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰی اِلَیۡكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِکْمَۃِ ای محمد سیمہ
 تھہ سیمہ بین آیہ کرنہ سیمہ چھہ تمہو حکمتہ چو تھو آندرہ سیمہ تھہند پروردگارن وحیہ پاٹ توہہ گن سوزہ وَلَا
 تَجْعَلْ مَعَ اللّٰہِ الْہَا الْاٰخَرَ فَتُلْفٰی فِی جَہَنَّمَ مَلُوۡمًا مَّدْحُوۡرًا ای مخاطب بیہ مہ ٹھہراون خدا بیسی معبود برحقس
 سیت کا نہہ معبوداہ۔ ہر گاہ ژہ معبود برحقس سیت بیا کہ معبود تجویز کر کہ تلمہ کلمہ ژہ تراونہ جہنمس اندر
 مجرم تہ ملزم ہنت دکہ دنہ آمت۔ وون یلہ ژہ بوزک کہ شرک کوتاہہ پچھہ چھوتہ بوزت تہ رود کہ نہ ژہ
 تمہو تھو نشہ پچہ سیمہ توحیدس بر خلاف آسن۔ ہتھہ پاٹ بعض جاہل چھہ اللہ تعالیٰ اس کو رہ ٹھہراون۔
 دپان چھہ ملائک چھہ (نعوذ باللہ) خدایہ ستزہ کو رہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اَفَاۡصَفُکُمۡ رَبُّکُمۡ بِالۡبَنِیۡنِ وَ
 اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِکَۃِ اِنَاثًا کیاہ تھہند پروردگارن کردہ توہنچو یوسیت خاص پانس رچن کو رہ ملائکو آندرہ
 کورے کورہ اِنَّکُمۡ لَتَقُولُوۡنَ قَوْلًا عَظِیۡمًا بیشک تہہ چھوہ ونان سیٹھاہ سخت کتھاہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِی
 ہَذَا الْقُرْآنِ لِیَذَّکَّرُوۡا وَمَا یَزِیۡدُہُمۡ اِلَّا نُفُوۡرًا بیہ چھو افسوس سیمہ تھہ ہند کہ بیشک اسمہ کرہ ہتھہ قرآن
 مجیدس منز پچیر پچیر بیان اثبات توحید ابطال شرکک مضامین ہتھہ لوکن وارہ فکرہ ترہ لیکن باوجود آل
 چھہ سمن توحید بچ نفرت ہران یوت زیادہ بوزان چھہ تیوت چھہ گرنہ یوان تہ پڑہ تھہ نشہ دور ژلان

لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿۲۲﴾
 سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿۲۳﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ
 وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا
 تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۲۴﴾ وَإِذْ أَقْرَأْتَ الْقُرْآنَ
 جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جَابًا مَسْتُورًا ﴿۲۵﴾

مُلِّ تَبَّه فرماؤ ۛکھ یار سؤل اللہ شرکے کس باطل آسن متعلق لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ہر گے معبود برحق سیت آسن معبودان باطل تہ تہ پائٹ مشرک ونان چھ تہ آسہا تمؤ مخالفانہ طریقس پیٹھ عرشہ والس خدائس نشہ واتج کاہنہ وتھاہ کڈ مشرکس سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ۔
 تس نشہ عرش مجید تحت شاہی اتھ ہیہ خیطرہ۔ تھ پائٹ دُنیاءک پادشاہ چھ آکھ اکس نشہ تحت واتج تیج کوشش کران۔ تھ صور تس اندر آسہا نظام عام تباہ و برباد سپد مت۔ حالانچہ تہہ چھوہ و چھان کجہ نظام عالم چھو بدستور قائم الان کماکان۔ پس سپد معلوم کہ سبب فساد یعنی واریہن معبودن ہند آسن چھو بالکل غلط تہ باطل۔ پس سپد ثابت کہ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ہم لو کہ سمہ کتھہ ونان چھہ تمؤ ساروی کتھو نشہ چھو اللہ تعالیٰ منزہ تہ پاک بیہ سیٹھاہ تھود تہ بلند تہ تھ بلند ی تہ تھز رس نہ نہایتھ کجہ چھو تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ تس معبود برحقس چھہ پیاکی یاد کران ست آسمان تہ زمین بیہ تم مخلوقات ہم تن منز چھہ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بیہ چھنہ کاہنہ چیز یسنہ تمسنز پیاکی بیان کران تہ تہز تعریف کران چھو وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ مگر اے کافر و توبہ چھوہ نہ بوژن تگان تہند تسبیح پران ائنہ کان حَلِيمًا غَفُورًا بیشک سو معبود برحق چھو سیٹھاہ حلیم تہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون تمن ہم شرک و کفرہ نشہ توبہ کرت تمہ نشہ پتھ روزن۔ حلیم آسنہ موکھ چھوہ نہ اللہ تعالیٰ یمن مشرک جلد گرفتار عذاب کران وَإِذْ أَقْرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جَابًا مَسْتُورًا بیہ سمہ وقتہ تہ تبلیغہ کس سلسلس اندر قرآن مجید پران چھو ہار سؤل اللہ آس چھہ تمہ وقتہ توبہ منز تہ تمن لو کن

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ الْكِتَابَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا
ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ آدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿۳۶﴾ نَحْنُ
أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ
يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿۳۷﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا
لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿۳۸﴾ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا

منزل میں نہ آخر تک پڑھ چھہ ٹھور تہ پردہ تراوان پوشیدہ سو پڑھہ گو بہوی کہ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ الْكِتَابَ أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا تراوان چھہ آس تہمدین دلن پیٹھہ پردہ سمہ سیت نہ تمن تمہہ قرانک مقصد
کینہہ فکرہ تران چھو۔ بیہ چھک کنن تراوان زرتہ گو بیر۔ تھوپ چھک کنن لگان۔ فکری چھنھہ تران آس
کیاہ چھہ بوزان وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ آدْبَارِهِمْ نُفُورًا بیہ یلہ ہنہہ یار سول اللہ پنہ
نسی پروردگارہ سندین صفاتن تہ کمالاتن ہند ذکر کران چھہ قرآن مجیدس اندر تمن کافرن چھونہ فخرہ
تران کینہہ تہ۔ تم چھہ نفرت کر تھہ تہ تھر بھرت وانس ژلان نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ
إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا اس چھہ پور زنان کہ تم کیا زہ چھہ
کن دارت تہمد کلام بوزان۔ سمہ ساتہ تم بوزان چھہ ہند غرض چھو آسان تھہ اندر اعتراض تہ طعن
کران۔ بیہ چھو معلوم اسہ سمہ ساتہ تم قرآن مجید بوزت پانہ وان کتھہ کران چھہ۔ سمہ ساتہ تم ظالم
با ایمان ونان چھہ تھہ چھو نہ پیروی کران مگر تس شخصہ سنزئیس جاڈیک اثر چھو سپد مت۔ سو جاڈیک
اثر گو جنون أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ای پیغمبر برحق وچھو کتمہ چھہ تھہ
چھہ تم دشمن توہہ نسبت ونان۔ کہ کہہ قسمک القاب چھہ توہہ نسبت تجویز کران۔ امی سبہ گے نام
گمراہ۔ پس لبن نہ تم پزرس کن و تھے زاہ۔ کیا زہ۔ سمو چیز وسیت چھو ہدایتک استعدادے ضائع سپدان۔
سمو کمر قرآن مجیدس سیت ٹھٹھہ تہ استہزاء۔ پیغمبرس سیت تہ ٹھٹھہ تہ استہزاء۔ امی خوتہ بدگمراہی
کو سہہ گنیہ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَمًا مَّا وَرَقَاءُ إِنَّا لَلْبُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تم کافر چھہ ونان کیاہ یلہ آس

عِظَامًا وَرَفَاتًا ۱۴ اِنَّا الْمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۱۴﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً
 اَوْ حَدِيدًا ﴿۱۵﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ
 يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ
 رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى اَنْ يَكُونَ قَرِيْبًا ﴿۱۶﴾
 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا
 قَلِيْلًا ﴿۱۷﴾ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ

مُزَّتْ اَوْجُهَ اُسُوْتَمْنِي اَوْجُنْ اَسِه سُوْرَتِه رِيْزِه رِيْزِه گُوْمَت كِيَاِه تُوْپَتِه يِمُوْه اَس قِيَاْمَتِك دُوْه بِيْه
 دُوْبَارِه قَبْر وَاَنْدَرِه كُذْنَه تِه زَنْدِه كَرْنَه قُلْ كُونُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا * اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُوْرِكُمْ تَهْمَه
 فَرْمَاوِيْوْ كِه يَا - رَسُوْلُ اللّٰهِ اَوْجُنْ هَنْز كِيَاِه وَجَهْه كَتْمَه - هِر گَاه تَهْمَه مَرْنَه پَتِه كَنِيْه يَاشْتَر يَاطْمَه خُوْتَه كَاْنَه سَخْت
 چِيْزِ بِنُوْسِ چِيْزِ تَهْمَه خِيَالَه زِيَادَه سَخْت تِه زِيَادَه بَعِيْد اَسِه زَنْدِگِي قَبُوْل كَرْنَه نَشَه وَجَهْتُوْ تَهْمَه اَسِه سَجِيَا سُوْ چِيْزِ
 دُوْبَارِه بِيْه زَنْدِه كَرْنَه نَه فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا دُوْنِ پَرِثْ هَنْ تَم اَسِه كَهْمَه كَرِه بِيْه زَنْدِه قُلِ الَّذِي
 فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ تَهْمَه فَرْمَاوِيْوْ كِه كِه تُوْپَه كَرِه سُوِي قَدْرَتِه دُوْلِ پَرُوْر دِگَار پِيْدَه بِيْه زَنْدِه تِه يَم تُوْپَه گُوْذَه پِيْدَه
 كُرُوْه - يِلَه تَهْمَه كَهْمِن تِه اَسُوْه فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هُوَ اَسِه پَتِه يَلِن تُوْپَه بَرُوْنَه
 كُنْ كَلَه گِلُوَان بَطُوْر اَنْكَار - دِهْنَه لُگْن سُوْ دُوْبَارِه بِيْه زَنْدِه سِپَدَنَك دُوْه كَر اَسِه قُلْ عَسَى اَنْ يَكُوْنَ قَرِيْبًا تَهْمَه
 فَرْمَاوِيْوْ كِه سُوْ دُوْه اَسِه جَلْدِي يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا يِه بِنَه
 تَمِي دُوْپَه يِمَه دُوْپَه پَرُوْر دِگَار تُوْپَه نَادَتِه اَلُوْدِيَه اَسْ مَلِكَه سِنْدَه ذَرِيْعَه لِيْس نَاوُ چُوْ اَسْر اَفِيْل - سُه دِپُوْه تُوْپَه
 هَاوُ كُوْ سِپَدُوْر زَنْدِه تُوْپَه سِپَدُوْجَم تِه حَاضِر مَحْشَرَه كَس مِيْدَانَس اَنْدَر - تَهْمَه نَادَس كُرُوْجَه مَجْبُوْر سِپَدَت اَجَابَت
 تِه تَسْلِيْم - نِيْر اِن هِيُوْ تَهْمَه قَبْر وَاَنْدَرِه سِنْدَه حَمْدَه تَعْرِيْف كَر اِن - پَر اِن اَسُوْ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ بِيْه
 كَرُوْه تُوْه خِيَال كِه اَس وَجَهْنَه زُوْ دَمْت دُنْيَا سَنْز قَبْر اَنْدَر مَكْر كَمْسِي كَالَس وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ
 اَحْسَنُ بِيْه فَرْمَاوِيْوْ مِيَا نِيْن مُسْلِمَان بِنْدَن كِه تَم اَسْن كَا فَر اِن سُوْ جَوَاب دِيَا نِيْن رُت اَسِه اَخْلَاقِن هِنْدَه

بَيْنَهُمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۵۳﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ
 إِنَّ يَشَاءُ رَحْمَتُكُمْ أَوْ أَنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿۵۴﴾
 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِهِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ
 النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاتَّبَعْنَا أَدَاؤَ دَاوُدَ زَبُورًا ﴿۵۵﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ

اعتبارہ۔ یہ منزنہ تیزی سے اشتعال انگیزی آسہ کیا زہہ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُنْزِعُ بَيْنَهُمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
 عَدُوًّا مُّبِينًا بیشک شیطان چھو سخت سے تیز جواب و نہ نایت لوکن منزنہ فتنہ سے فساد تراوان کیا زہ شیطان
 چھو گوڈہ پیٹھے انسانہ سُنْدُون سے مولى دُشمن۔ لہذا چھو نہ سختی سے تیزی کرئس اندر کا نہہ فائدہ کیا زہ
 ہدایت و گمراہی چھہ خدائس آتھہ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ رَحْمَتُكُمْ أَوْ أَنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ توبہ سارنی ہند حال
 زلنہ پور تھند پروردگار کہ گس شخص تھہ قابل چھو۔ ہر گہ سُوِزھہ توبہ اندرہ کانہہ پیٹھہ رحم کرن۔ رحم
 کر لیس یعنی ہدایت کر لیس۔ راہ راستس پیٹھہ انیس۔ بیہ ہر گاہ سُوِزھہ توبہ اندرہ کانہہ عذاب کرن کس
 کرہ عذاب یعنی کس دینہ ہدایتگ توفیق سمہ سببہ سوسز اواری عذاب سپدہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا بیہ
 نہ حض سوزنہ اسہ تھہ لوکن ہندہ ہدایتگ ذمہ دار بناوت لہذا ایلہ نہ تھہ باوجود نبوت و رسالت ذمہ دار
 بناوت سوزنہ آمت چھوہ۔ عام لوکن تھندین امتین کیا ذمہ داری چھہ امہ تھہ ہنز کہ تم چھہ زورہ اتھہ
 منز ہر سے قضیہ لاگان وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِهِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تھند پروردگار چھو پور زنان تم سارنی
 سم آسمان اندر سے زمین اندر چھہ یعنی ملائکن سے انسان سے جن۔ تمس چھہ خبر تم ساروی اندرہ تھہ چھو
 نبی بناونس قابل تھہ چھو نہ پس ہر گاہ تم تھہ نبی پیغمبر بناوہ اتھہ منز کیاہ تعجب چھو۔ توپتہ ہر گاہ توبہ تم
 فضیلت دیت تھہ منز کیاہ تعجب چھو۔ کیا زہہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاتَّبَعْنَا دَاوُدَ زَبُورًا
 تھقیق اسہ دیت فضیلت بعضی پیغمبرن، بعضی پیغمبرن پیٹھہ۔ بیہ ہر گاہ اسہ توبہ قرآن مجید عطا کور توبہ
 کیاہ تعجب چھو کیا زہ اسہ کورنا عطا داود علیہ السلام زبور۔ زبورک تخصیص آوامی کرنہ کہ زبورس منز
 چھہ خصوصیتہ سان بیان آمت کرنہ نعت و صفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیہ چھہ تھہ منز خبر دنہ
 آمز کہ حضرت پیغمبر آخر الزمان آسن صاحب ملک و سلطنت قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا

مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرْعِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿۵۶﴾ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ
 رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿۵۷﴾ وَإِنْ
 مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا
 شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۵۸﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ

یَعْلَمُونَ كَشْفَ الضَّرْعِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا تمہ فرماؤ کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن مشرکین کہ اے
 مشرکوں! تمہاری تو آلو تمہیں معبودانِ باطل سے منہ ہندہ معبود آسکے تو بہہ گمان سے خیال چھو کر ان یمن
 سختین سے پریشانین ہندہ وقتہ دیتو آلو تمہیں معبودوں۔ معبود برحقس ورا ہی تمہہ وچھو تمہیکوہہ تو بہہ کینہہ
 چارہ کمر تھہ۔ تم نہ ہیکوہہ تکلیف دور کمر تھہ کئے قسمہ نہ ہیکوہہ تھہ اولہ بدل کمر تھہ۔ تم چھو نہ تمہیک
 اختیار۔ اہہ تم ملائک آستن یا جن آستن یا انسان آستن اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ تم لو کہ یمن یم مشرک
 نفع حاصل کرنے خیرہ یا کانہہ ضرر دور کرنے خیرہ منگان چھہ یَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ
 رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ تم چھہ پانہ پنہ بس پروردگارس نشہ قرب سے نزدیکی ہند سے تس نشہ واتنگ
 ذریعہ تلاش کران۔ پریتھہ اکھاہ چھو کوشش کران کہہ بوی سے بوی گوڑھس زیادہ خود زیادہ تس ذات
 پاکس قریب سپدن۔ بیہ چھہ تم تمہدس رحمتس امیدوار روزان۔ بیہ چھہ تم تمہدس عذابس کھوڑان
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بیشک تمہدس پروردگارہ ہند عذاب چھو کھوڑا تس قابل۔ امہ اندرہ چھو
 مطلب یلہ تم پانہ خدایہ سز عبادت کرہ ون چھہ بین ہند حاجت تھہ پانہ ہیکن تم کڈت۔ یلہ تم پانہ
 تمہدس عذابس کھوڑان چھہ بین نشہ تھہ پانہ ہیکن تمہد عذاب سے تکلیف دور کمر تھہ وَإِنْ مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا
 نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا بیہ چھہ کافر نہ ہنز
 کانہہ بستیاہ یمن آس قیامتہ کہہ دوہہ بروٹھہ ہلاک وتاہہ کرہ ون چھہ یا تمہن اس قیامتگ دوہہ جہنمہ کس
 عذابس گرفتار کرہ ون چھہ۔ سے سوڑی چھو لوح محفوظس لیکھنہ آمت۔ بس ہرگاہ کانہہ کافرہ دنیا کہ

بِالآيَاتِ الْآنُ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْبِئْسَ ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً
 فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۵۹ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ
 أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرَّءْيَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

عذابہ نغمہ و جہ تہ مگر آخر مجھ عذابہ نغمہ ہیجہ نہ سؤمنہ صورتس اندر بچت و مامنعان ٹر سبیل
 بِالآيَاتِ الْآنُ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ بیہ رٹ نہ آس ہتھ گئے چیزن اس کیا سوز ہو تم مجزہ یمن ہنز لو کہ
 خواہش کرہ یمن۔ مگر برو ظہمین لوکن ہمدہ تمہہ قسمہ کین فرمایشی معجزن ہندا انکار کرن۔ کیا زہ تمہن لو کن
 ہمدہ تہ یمن لو کن ہمدہ طبیعت ہمدہ گئی قسمک۔ تمونہ پاٹھ بو زو تہہ اتھ متعلق اکھ قصہ نہ۔ وَالتَّيْمَةَ
 ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا چنانچہ قوم ثمود چہ خواہشہ مطابق کریو آسہ تمہن عطا بطور مجزہ
 حضرت صالح پیغمبرہ سندہ ذریعہ وونٹہ ہمدہ معجزہ یوسہ عجیب طریقہ پیدہ آسہ کرنہ۔ یوسہ معجزہ آسہ
 سببہ در ذات خود بصیرت حاصل کر نک اکھ ذریعہ اوس۔ مگر تمونہ لو کو کتر نہ تمہہ سیت کاہنہ بصیرت
 حاصل۔ بلکہ کوز کہ تس اونٹنہ نسبت بو ظلم۔ سو گوسو اونٹن مار تمونہ بیدردی سیت تھوی معاملہ کرن
 اڑ کہ ونگب کافر تہ۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا بیہ جھنہ آس پنن امہ قسمک نشانہ تہ معجزہ سوزان یم
 فرمایشی آسن مگر پنہ عذابہ نغمہ کھوژ نادہ خیطرہ۔ یعنی اگر ایمان انونہ تلہ کرووہ اس فوراً تباہ و برباد۔ ای
 ہٹھو آسان فرمایشی معجزن ہمدہ مقصود۔ وون ہر گاہ تم معجزات ظاہر سپد ہن تو پتہ انہ ہن نہ تم ایمان۔ اس
 کر ہو کہ تم پنہ وعدہ موجب ہلاک۔ ہتھ پاٹھ قوم ثمود وغیرہ کور۔ و نہ آسہمانہ ہمدہ ہلاک سپد نک وقت
 مقرر وونٹ۔ آس یہ کیوہاہ توبہ و نان چھہ کہ تم انن نہ معجزہ و چھت تہ ایمان یہ چھہ آس اتھ گن نظر
 کتر تھ و نان کہ اسہ ہٹھو معلوم گوڈہ پیٹھے۔ چنانچہ آسہ ہٹھو توبہ تہ امیک اطلاع برو نٹھی کور مت وَإِذْ قُلْنَا
 لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ چنانچہ تہہ پاوژ تیس یلہ آسہ توبہ فرمو کہ پیشک تہند پروردگار چھو پنہ علمہ
 سیت سارنی لو کن ہندین موجودہ حالاتن تہ ہٹھہ اوہ وونین حالاتن احاطہ کتر تھ۔ تک ہند ایمان نہ اٹنہ تہ
 چھو تمونہ حالاتو اندرہ۔ لہذا مہ ہر و تہہ کاہنہ پروا۔ تہہ روز و پنن کوم کر ان یعنی تبلیغ کوم وَمَا جَعَلْنَا
 الرَّءْيَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ بیہ کور نہ آسہ سو خواب یس آسہ توبہ ہو و مکہ معظمس اندر دین اسلامک
 ترقی متعلق۔ یا سؤدیدار خصوصی یس اسہ ہو و توبہ در شب معراج۔ مگر لو کن ہمدہ آزمایشہ خیطرہ۔ ہتھ

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُوحًا وَمَنْ فِيهِمْ قَائِمًا كَبِيرًا ۝۶۰
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ
 أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝۶۱ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ
 عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا

دارہ نہ کہ کم کرن پڑھ نہ کم کرن انکار۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ یہ کثر نہ اسہ تمہ کلج ذکر نہیں کل رحمتہ نشہ دور آمت چھو تھا نہ یعنی درخت زقوم۔ نُس جہنم منز آسہ۔ سمیک پھل جہنمی کھیا نہ آس یوان تمہ کلج ذکر نہ آسہ قرآن مجیدس اندر لوکن ہندہ امتحانہ نہ آزمائشہ خیطرہ۔ چنانچہ تمکن دوشون چیزن کور کافر وانکار۔ معراجس کوزکہ سمہ موکھ انکار کہ یہ آکھ عجایب بوزنہ کہ آکسی شمس منزوت زیٹھہ زیوٹھ سفر کرن۔ بالخصوص آسمان ہند سیر کرن۔ یہ اوس نہ تہمز فکرہ منز یوان۔ یتھہ پاٹھ کوزکہ شجرہ زقومس تہ انکار۔ دوپچھ تہ تھہ پاٹھ نہ کہ نارس منز کیا آسہ کل۔ نارچ ماہیت پھہ الگ کلج ماہیت پھہ الگ نارہ سیت چھو کل دزان۔ بہر حال یتھہ پاٹھہ سمو کافر و تمکن دون چیزن انکار کور۔ یتھہ پاٹھ کہ ہن تم فرمائیشی مجزون تہ انکار وَنُوحًا وَمَنْ فِيهِمْ قَائِمًا كَبِيرًا یہ پھہ آس تمکن آخر حکمہ عذابہ سیت ڈر پاوان۔ مگر تمکن چھنہ تمہ سیت کینہہ تہ ہران مگر بڈ سرکشی تہ شرارت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ یہ چھو سو وقت تہ قابل ذکر یلہ آسہ حکم کور ملائکن تمکن سیت تمہ وقتہ الیس تہ شامل اوس کہ سجدہ تعظیم دیو آدم علیہ السلام۔ پس دیت ساروی ملائکو تعمیل حکم کمر تھہ سجدہ مگر دیت نہ الیسین قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا سولوگ دپنہ کیا بہ دما سجدہ تس نُس ژبہ رپہ پیدہ کور تھن۔ اتھ عدول حکمی پیٹھ سپد سومرودد قَالَ نئمہ وقتہ لوگ سوونہ آرے تیک ہذا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا مہ ونسویہ شخص نُس تو بہ مہ پیٹھ فضیلت دیت وہ آس منز کوسہ خوبی پھہ۔ خیر ہر گاہ تہہ مہ مہلت دیو میانہ درخواستہ موجب قیامتہ کس دوہس تان زندہ روزنج تلبہ وچھو بوکیاہ بنز اوہ آسندین لو تین پو تین نسبت تم ساری

قَلِيلًا ﴿۱۲﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ
 جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿۱۳﴾ وَاسْتَفْزِرُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ
 وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ
 وَالْأَوْلَادِ وَعَدُوهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿۱۴﴾ إِنَّ عِبَادِي
 لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿۱۵﴾ رَبُّكُمْ الَّذِي
 يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ

ورجلاؤکھ تہ گمراہ کرکھ بوکینوں کم لوکن ورائی چانیو مخلص بند واندردہ قَالَ اذْهَبْ اللہ تعالیٰ اَن
 فرموس گڑھہ گڑھہ۔ یہ تگی تہ کر۔ اسہ سکتا فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ نَس اکھاہ تمو آندردہ چان بیروی تہ
 متابعت کرہ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا پس بیشک نار جہنم ہُو چانہ خیطر ہبہ تمن ہمدہ خیطر ہ پورہ
 پورسزا وَاسْتَفْزِرُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ہبہ ڈالتھ تہمد قدم سیزہ و تہ نشہ۔ ہبہ کھو ژناوتھ تہ
 بانبر اوتھ تم پنہ نیو آوازوسیت وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ہبہ انتھ تمن گمراہ کرنہ خیطر ہ پن
 پور لشکر۔ پیادہ لشکر تہ سوار لشکر تہ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ہبہ سپد تہ شامل شریک تہمدین
 مالن اندر تہ اولادان اندر یعنی تم دو شوے چیز کیا کرن تم حاصل ناجائز طریقوسیت وَعَدُوهُمْ ہبہ
 تھاوتہ تمن ژہ اہز اہز وعدہ کرنہ سیت۔ تمہ سیت اندی نہ کینہہ تہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا بیشک
 شیطان چھو لوکن سیت اہز وعدہ کران إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ کیاڑہ بیشک میان بندہ تم
 چھہ تمن پیٹھ چھوی نہ ژہ کئہ قسمگ غلبہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا تمس شیطانس تھ پیٹھ ہبہ غلبہ ہتھ۔ تہمد
 پروردگار چھو تہمد کافی کارساز رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ تہمد پروردگار
 چھو تھوی نعمت عطا کرہ و ان کہ سو چھو توبہ فایدہ و اتاوانہ خیطر ہ دریاون اندر ناوہ تہ جہاز پکہ ناوان۔ تھ
 تہ تہمد ہر زنگ تلاش کمر و ائہ کان بکم رَجِيمًا بیشک سو چھو تہمدس حالس پیٹھ سینٹھاہ مہربان۔ وَإِذَا
 مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاتُهُ ہبہ بلکہ توبہ دریاوس اندر یاسمندر س اندر کانہہ تکلفاہ

رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذْ أَمَسَّكُمْ الصُّرُفُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ
 إِلَّا آيَاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
 كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ
 عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالْكُمْ وَكَيْلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ
 يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ
 الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالْكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

واتان چھو تمہے ساتھ چھو توہمے مشان تم ساری معبودان باطل تمن نہہ عبادت کران آسوہ معبود
 برحقس وراہی۔ تمہے ساتھ چھوہ تش معبود برحقس نجات منگان فلما نجتکم الی البر اعرضتم پس یلہ
 سو تہندس منگس اجابت کمر تھ توہمے پھٹنہ نیشہ نجات دتھ بٹھس کن و اتاوان چھواتی چھوس بیہ تھ
 پھر ان تہ نافرمانی کران وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا یہ انسان اوس ڈاڈہ ہمیشہ کفر ان نعمت کرہ
 وئے۔ پنہ نس معمم حقیقی سندا انعام تہ پن ناگر عاجزی تہ زارہ پارہ مشراوان۔ دون یوسہ نہہ روگردانی
 کران چھوہ یہ تھہ بناءس چھوہ کران أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کیاہ توہمے لیبوہ امن وامان
 سمہ تھہ نیشہ کہ سو کیاہ والہ توہمے بٹھس پیٹھ واتھہ زمینس تل تھہ پاٹھ قارون وولن اویرسل علیکم
 حاصبًا یا سوزہ توہمے پیٹھ واواہ سمہ منزہ توہمے پیٹھ کنہ رود پیہ تھہ پاٹھ قوم عاوس پیٹھ کنہ رود سپر دو دتھ
 لَا تَجِدُ وَالْكُمْ وَكَيْلًا توپہ لیون نہ تھہ پنہ خیطہ کاہنہ مددگارہ تہ کارسازہ اَمْرٌ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ
 فِيهِ تَارَةً أُخْرَى کنہ تھہ چھوہ پنہہ جایہ خاطر جمع سمہ تھہ نیشہ کہ اللہ تعالیٰ کیاواتا وہ توہمے دوبارہ بیہ اتھ
 سمندر س منزئہ ضروری کامہ سوکھ فیرسل علیکم قاصفًا مِّن الرِّيحِ فیرقکم بما کفرتم پس سوزہ
 توہمے پیٹھ چھلہ کرون سخت واوئس تھندس جہازس چھلہ تہ کوچہ کمر تھہ توہمے سان پھاوہ تھندہ کفرہ سببہ
 ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالْكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا توپہ لیون نہ تھہ کاہنہ اکھاہ اسہ بازخواست تہ پرژھہ گار تہ جواب طلب
 کرہ ون وَلَقَدْ كُذِّبْنَا بِئِیْ اَدَمَ وَحَصَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بیہ دیت پزپاٹ لسہ حضرت آدم علیہ السلامہ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
 الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۴۰ يَوْمَ
 نَدْعُو كُلَّ آنَاسٍ بِإِذَا مِهِمْ ۚ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَأُولَٰئِكَ
 يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝۴۱ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ
 أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۲ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ

سندین اولادن یعنی انسان بعض خاص صفت عطا کرنے سمیت بجز تھے صفات تم نہ باقی حیواناتن عطا آئی
 کرنے۔ تم گے حُسن صورت سیودقدو قامت۔ عقل۔ ایجادِ صنایع۔ بیہ کمر آسہ تم سوار خشکی اندر
 مختلف جانورن ہندین پُشٹن پیٹھ۔ گُرین نہ اونٹن نہ کاترن نہ کھرن ہندین پُشٹن پیٹھ۔ دریاون نہ
 سمندرن اندر ناؤن نہ جہازن پیٹھ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ بیہ کوراسہ تمن عطارِ رزق نفیس نفیس صاف و
 پاک چیز و آندرہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا بیہ دیت آسہ تمن فضیلت پنہ نیو مخلو تو آندرہ
 وار یہن مخلوقن پیٹھ رُت فضیلتاہ۔ اتھ کُن نظر کمر تھہ پڑہ ہاتمن سمین سائین نمودن ہنز قدر کرن منعم
 حقیقی عُمی زانہ سمیت۔ بیہ تسز عبادت نہ فرمانبر داری کرنے سمیت۔ امہ نافرمانی نہ کُھر و شرکک محاسبہ ایہ
 ہنہ تمن قیامتک دوہ یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ آنَاسٍ بِإِذَا مِهِمْ سو دوہ گو سو وی سمہ دوہنہ اس نادو مو سارنی لو کن
 پُٹن پُٹن نامہ اعمال سمیت ہیٹھ۔ محشرہ کس میدانس منز جمع سپنہ خیلرہ۔ بعضی مفسر و فر موو و با ما مہم
 پنہ نیو سردارو نہ زُھو سمیت ایک نادونہ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
 کس تمن لو کن نامہ اعمال دنہ آیدہ چھنس اتھس کیتھ تو پتہ پڑن تم پن نامہ اعمال۔ و چھنس تم کہ تم
 ایہ نہ کُٹہ قسمہ ظلم کرنے۔ خضر آچہ ہمدہ منز مہ کھشہ چہ جایہ ہندہ پنہ داوہ برابرہ۔ یعنی تم ایہ ایما نگ
 نہ رزقن عملن ہند ثواب پورہ پورہ عطا کرنے۔ تم ایہ عذابہ نشہ نجات دنہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ
 فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا بیہ کس شخص دُنیا س اندر ذات کمر تھہ نجات و تھہ و چھنہ نشہ اون نہ اعلمی
 آسہ نیو مت۔ سو آسہ آخرتس منز نہ نجات کس گرس منز و اتھہ نشہ اعلمی نہ اون نہ نایبنا۔ بیہ آسہ دُنیا خوتہ

عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَقْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا اتَّخَذُوكَ
 خَلِيلًا ۖ وَلَوْلَا أَنْ نَبَتِّنَا لَقَدْ كُنتَ تَرَكُنَ الْإِيْمُ شَيْئًا قَلِيلًا ۖ ﴿۳۹﴾
 إِذَا الْأَذْقَمَكَ ضَعْفَ الْحَيَوَةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
 عَلَيْنَا نَصِيرًا ۖ ﴿۴۰﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ
 مِنْهَا وَإِذَا الْأَيْلُوثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴿۴۱﴾ سَنَّةٌ مِّنْ قَدْرٍ أَرْسَلْنَا

سیٹھاہ روومت تہ دور ہیومت منزل مقصود حاصل کرنہ نیشہ کیا زہہ دنیاہ س اندر اوس گمراہی تہ ضلالتس
 تدارک کرن ممکن توبہ استغفارہ سمیت۔ آخرتس اندر چھوٹھ گمراہی تدارک کرن ناممکن تہ دشوار۔ تمن
 لوکن لیہ نامہ اعمال دنہ کھو فرس اٹھس کیتھہ ۱۰ کادو الیفنونک عن الذی اوحینا الیک لتقتری علینا غیرہ
 واذ اتخذوک خلیلاً ۱۱ بیہ آس کافر سیٹھاہ نزدیک بیتھہ کوشش کران کہ تم ڈالسن توبہہ تمو احکامو نیشہ تم
 اسہ توبہہ پیٹھہ بذریعہ وحی نازل کمرمت آس۔ یعنی تہہ کرہ ہووہ تہزہ خواہشہ مطابق عام مسلمانن پانس
 نیشہ دور۔ یا دیہ ہو تمن اٹھس ورہس اسلام انہ نس مہلت۔ سمہہ دوشوے کتھہ آسہ خلاف شرع۔ مگر تہزہ
 کوشش آس کہ کتھہ پاتھہ کمر و نا تہہ یہ کتھہ منظور۔ اسہ پیٹھہ لاگو ناسانہ حکمہ و رای بیا کھ کھماہ۔ تلہ تلہ تھاوہن
 تم توبہہ پن جانی دوست ۱۲ ولولا ان نبتنک لقد کنت تترکن الایم شیئا قلیلاً ۱۳ ہر گاہ نے آس تہہ مضبوط تہ
 محکم ثابت قدم تھاوہ ہووہ پنہ نس کھمس بیتھہ تہ اوس احتمال کہ تہہ ماسپدہ ہو تمن گن مائیل موہیہ ہنا۔ تھہ
 صورتس اندر ۱۴ اذا الذقمتک ضعف الحیوة وضعف الممات ۱۵ ہر گاہ تہہ ایہہ ہالینہ یعنی تہہ کیاسپدہ ہو تہزہن
 کتھن گن مائیل تلہ تہ ہناوہ وہ اس تہہ دوگن عذابک مزہ دنیاچہ زندگانی اندر تہہ۔ آخرتچہ زندگانی اندر تہہ،
 مرنہ پتہ تہہ۔ ۱۶ لئن لایجد لک علینا نصیرا ۱۷ تو پتہ لیہ ہون نہ تہہ پنہہ خیطہ اسہ مقابل کاہنہ مددگارہ۔
 مگر چو کتھہ اسہ بناوہہ تہہ مہصوم تہ ثابت قدم تمہہ سببہ آونہ لبنہ تہہہ طرفہ کتھہ قسمہ تمن گن مائیل
 پدن۔ خداین کمر وہ توبہہ پن راہتہہ تہ حفاظت۔ تہہ لبو دنیاو آخر کتھہ دوگن عذابہ نیشہ نجات وان
 کادو الیستفرزونک من الارض لیخرجوک منها واذ الیلوثون خلفک الا قلیلاً ۱۸ بیہ کریو قصد تمو کافر و

قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسْتِنَا حُوبِلًا ﴿۷۶﴾ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ
 الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
 مَشْهُودًا ﴿۷۷﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ

توہمہ تکلیف و اتنا و تھ کرہ کن تم مجبور توہمہ متہ شریفہ منزہ نیر نس پیٹھ۔ ہر گاہ تہ لبنتہ ایہ ہاتلمہ روز بہ نہ
 تم کافر توہمہ پتھ تھ شہر س منز مگر کمہ سی کالس۔ چنانچہ تی آو بعل۔ یلہ خدایہ سدہ کلمہ موجب توہمہ
 ہجرت کمر وہ، متہ معظمہ منزہ در اوہ، مدینہ منورس کن نیوہہ تشریف۔ ڈو ڈوری گڑھتھ آئی کافر نہ ہند پڈ
 پڈ ڈاگر دشمنان اسلام ابو جہل، عقبہ، شبیبہ، ولید پلید جنگ بدرس منز قتل کرنہ تہ مارنہ۔ تمہ پتہ کمی
 کینہہ کالاہ گڑھتھ سپڈ فتح متہ۔ ساری جزیرہ عربس پیٹھ سہز اسلامی حکومت قائم۔ ٹھند یو دشمنو منزہ
 رُودنہ اکھ تہ باقی۔ سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا تَهْتَفُ بِأَهْلِ ثَمَنٍ يَتَغَيَّبُونَ هَدِيَّةً حَقَّةً سَوْنِ قَاعَدَه تہ
 طریق رُود، تم پیغمبر اسہ توہمہ بروٹھ سوزمت آس تمن تہ یلہ دشمنو تکلیف و اتنا، تو پتہ کڈ کہ تم پیغمبر
 پنے نیو شہر و آندرہ، اسہ گال تھند تم دشمن۔ تمن ڈیت نہ اسہ سو کہ تمن شہرن اندر رُوزت۔ تھتھ پاتھ
 گالو کہ آس تھند دشمن تہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَجِدُ لِسْتِنَا حُوبِلًا تھہ حض لبونہ
 سانس مقررہ طریقس تغیر و تبدیل سپدان۔ وون یو زونہہ سونخہ سمہ سیبت تھند ساری غم ڈور سپدان
 أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ای پیغمبر برحق تھہ آسو پر تھہ دوہہ نماز قائم تھوان،
 دوہلہ آفتاب ڈلنہ پتہ رازہ منزہ تاریک تہ لہ گٹھ سپڈس تان، اتھ منز آیہ ژور نمازہ۔ پیشن۔ وگر، شام
 تہ ختنن وَقُرْآنَ الْفَجْرِ بیہ آسو صبح نماز پران اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بیشک صبح نماز چھہ ملاکن
 ہندہ حاضر سپڈنگ وقت۔ چنانچہ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ دگر نمازہ تہ صبح نمازہ چھہ حاضر
 سپدان ڈہک تہ راتیک ملائیک۔ تم انسان ہندہ حفاظت و کتابتہ خیطرہ و سان چھہ۔ تمن چھہ تمینی دون
 و قن پیٹھ بدل سپدان۔ راتیک ملائیک چھہ صحن کھسان ڈہک ملائیک چھہ و سان۔ دگر س چھہ ڈہک
 ملائیک کھسان تہ راتیک و سان۔ صبح نمازہ تہ دگر نمازہ پیٹھ چھہ دو شوے کھسہ ون تہ وسہ ون جمع
 سپدان۔ خدایس نشہ گواہی و وان کہ۔ اس کھت چان ہندہ آس نماز پران آس و تھہ تم آس نماز پران
 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ بیہ رازہ ہندس آگس حصس منز و تھو تھہ یار رسول اللہ، پتر و تھہ اندر نماز

رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا^(۹) وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ
 اَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا^(۱۰)
 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا^(۱۱)
 وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَاٰيٰتٍ لِّمَنۡ يَّرٰى

تہجد۔ یہ نماز چھ پانچن نماز علاوہ زیادہ خاص تہجدہ خیرہ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا امید
 چھ یعنی وعدہ ہجوکہ تہجد پروردگار۔ دیر جای توہمہ مقام محمودس اندر یعنی واتاودہ توہمہ تہہ مقاس بس
 سیٹھاہ قابل تعریف چھو سو گو مقام شفاعت عمری۔ تہہ مقاس واتہہ کرن تہند تعریف اولین و
 آخرین۔ بیہ پانہ حضرت رب العلمین۔ تہند تہود شان وچہت تہود مقام وچہت کرن لوک تہند
 تعریف تہندہ محمد ﷺ و محمود آسک سپدہ ظہور وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ
 وَاَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا بیہ آسو تہہ یہ دعا پران کہ ای میانہ پروردگارہ مکہ شریفہ منزہ نیر نہ پتہ
 واتاومہ تہہہ جلیہ تہہ جلیہ ژہ یژک رتہ طریقہ بخیر و خوبی۔ مکہ شریفہ منزہ نیر نہ پتہ آسہ رتوی رت۔
 مدینہ شریفہ منز اثرن پتہ رتوی رت۔ بیہ کر میہ پتہ طرفہ نین یاری۔ مہ کر عطا من کافرن پیٹھ سو
 غلبہ تہہ اندر چون مدد تہ نصرت داعی سیت سیت آسہ۔ بس نہ زائل سپدہ ون تہ عارضی آسہ بلکہ آسہ
 پوشہ ون تہ پائیدار۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا بیہ آسو پران کہ وون سپد پوزہ
 دین ظاہر۔ اپزدین سپد باطل۔ بیشک اپز چھو آخر گلہ ونوی تہ خم گروہ ونوی۔ یعنی مضمون کن گروہہ
 تہنز کل تھاون غمگین آزد خاطر گروہہ روزن۔ چنانچہ ہجر تہ پتہ سپد فتح مکہ۔ ساری وعدہ سپد پورہ۔
 چنانچہ فتح مکس اندر یلہ حضرت نبی کریم خانہ کعبس منز ژاے۔ خانہ کعبس منز آس کافرو تھومت
 لہد یک تریہ تہہ تہ شیٹھ^(۳۶۰) پوتل۔ تمن آس دست مبارکس منز اکھ لورہ ہنا۔ تمی سیت آس پر تہہ
 پوتلس کن اشارہ کران۔ زبان مبارک سیت آس یوے آسہ کریمہ پران (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ
 اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا) بیہ بیاکھ آسہ کریمہ (جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيْ الْبٰطِلُ وَمَا يُعِيْدُ) پران۔ تم پوتل
 آس تھکن وکراوندہ یوان تہ پھر وس پوان وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ بیہ چھہ آس یہ

الظَّالِمِينَ الْاِخْسَارًا ﴿۸۶﴾ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا
بِجَانِبِهِ ۗ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَا ﴿۸۷﴾ قُلْ كُلُّ يَّعْمَلُ عَلٰى
شَاكِلَتِهٖ ۗ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿۸۸﴾ وَيَسْأَلُوْنَكَ

قرآن مجید نازل کر ان نُس بوڈ شفا چھو۔ بڈر حمت چھہ بالیماں ہمہہ خیطرہ یعنی تھہ پاٹ پڑکہ نہ سبیت
اپز گول تہ زائل سپد تھہ پاتھ چھہ اس قرآن مجید وارہ وارہ نازل کران۔ نُس روحانی مرضن تہ بیمارین
ہمہہ خیطرہ بوڈ علاج چھہ سمہ سبیت دلوا ندرہ ہد اعتقاد تہ لہز عقاید تہ پیچھہ اخلاق بہہ شکوک و شبہات دُور
سپد تھہ روحانی صحت چھو حاصل سپدان۔ بلکہ چھو بسا اوقات امکہ بڑکتہ جسمانی مرضن تہ بیمارین تہ شفا
بنان۔ بالیماں ہمہہ خیطرہ چھو حمت و شفا امی موکہ تم کیا چھہ تھہ قرآن مجید س ایمان اتان۔ امہ
موجب عمل کران۔ سمہ سبہ اللہ تعالیٰ چھو پن بڈر حمت تمن کن متوجہ کران۔ پیچھہ عقاید تہ پیچھہ عملو
نہہ چھو تمن شفا بخشان وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ الْاِخْسَارًا مگر ظالمن تہ ناانصافن سمہ امہ قرآن مجیدہ
موجب عمل کرن ہر نہ کینہہ تہ تاوانہ تہ نقصانہ ورا۔ کیاہہ تم چھہ امہ کیو ہدایت تہ ارشاد اتو موجب
عمل کران۔ سمہ موکہ تمن پیٹھ چھہ خدایہ سزبیزاری زیادہ سپدان۔ تم چھہ مستحق عذاب و سزا سپدان۔
یلہ ون یہ کیفیت چھہ لہذا تمن متعلق قبول اسلاج امید تھاون یا تہمہہ مخالفنگ غم کھيون چھو بیکاروبے
فاسدہ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَا بہہ یلہ اَس کانہہ
انسانس یعنی کافر س کانہہ نعمتہاہ عطا کران چھہ تس پڑہ ہاشکر گذاری کرن۔ تھہ بدل چھو سانو احکامو
نہہ تھہ پچھران۔ بہہ پہلو تہی کمر تھہ پس طرفس کن پچھران یعنی اللہ تعالیٰ چھوس پنہ فضلہ سبیت نعمت
مال و دولت عطا کران۔ مگر سو چھونہ احسان مانان۔ امہ نعمتنگ شکر ادا کران یوت اہس عیش و آرام چھو
حاصل سپدان، تیوت چھو سو منعم حقیقیس نہہ غافل سپد تھہ تمند یو احکامو نہہ اعراض کران۔ بہہ یلہ
تس کانہہ تکلیفہ و اتان چھو تمہہ ساتھ چھو نا امید سپدان دوشون حالتن منز چھو خدائس نہہ بے تعلق
سپدان۔ مگر بالیماں چھہ دوشون حالتن اندر خدایہ سی کن رجوع کران۔ نعمتہ وقتہ شکر دپان۔ تکلیفہ
وقتہ صبر کران۔ تکلیف دُور گرہنہ خیطرہ تس کن التجا کران۔ قُلْ كُلُّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ نہہ فرما یو کہ
یا رسول اللہ کہ بالیماں تہ کافر نیک تہ بد پریمتھہ اکھاہ چھو کوم کران پنہ پنہ طریقہ موجب تھہ تمسنز

عَنِ الرَّوْحِ قُلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

عقل صحیح یا جہل فبیج منگان آسہ۔ عقل صحیح چھو منگان اعمال خیرن جہل فبیج چھو منگان پیچھ عملن فریکو اعلو بہن ہوا ہندی سبیللا پس چھ ٹہند سی پروردگار س پور خبر گس چھوراہ راستس تہ سیزہ وتہ پیٹھ۔ تس چھ خبر گس چھو غلط وتہ پیٹھ۔ سوی دیہ پر چھ اگس پنہ پنہ عملہ ہنزمزور ویتس لونک عَنِ الرَّوْحِ بیہ ہز چھہ پر ژھان تم کافر توبہ بطریق امتحان رُحک سوال۔ روح حقیقت کیاہ چھ۔ قُلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ٹہہ فرما دیو کہ کہ روح چھو میانس پروردگارہ سند حکم بس بیہ نہ کینہہ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بیہ آونہ توبہ علم عطا کرنہ مگر سیٹھاہ کم۔ ٹہندہ استعدادہ موجب۔ بیہ تمن چیزن ہند علم تم ضروریات چھہ۔ چونکہ روح علم ضروریاتواندرہ چھہ۔ بیہ ترہ نہ توبہ فکری کم فہمی موکہ تمہہ موکہ آوتھانہ پوشیدہ روح علم وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بیہ ہر گاہ آس یٹھو واپس نحو اس قرآن مجید بس اسہ نازل کور توبہ پیٹھ بطریق وحی ٹھہ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا توپہ لیون نہ ٹہہ پنہ مددہ خیطرہ آسہ سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ کاہنہ مددگارہ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ مگر بیہ چھہ ٹہندس پروردگارہ سنزرحت تہ مہربانی تم کور نہ تہ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا کیاہہ بیشک خدایہ سند فضل چھو توبہ پیٹھ سیٹھاہ بوڈ۔ لہذا اگر ٹھہ ٹہند خدایہ سزہ بیہ نعمت تہ مہربانی یاد پاوت خوش روزن کانہہ ہندہ مخالفک گڑھہ نہ کاہنہ غم برن قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا بیہ قرآن مجید چھو تھوی مجزہ کہ ٹہہ فرما دیو کہ کہ ہر گاہ ساری انسان تہ جن سمن تہ جمع سپدن تہ کوشش کرن کہ پیش کیا کرن اتھ قرآن مجیدس ہیو کلامانہ

لِبَعْضِ ظَهِيرًا^{۸۸} وَقَدَّصَرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ
 كُلِّ مَثَلٍ فَاَبِي اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا^{۸۹} وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ
 حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَدْبُوْعًا^{۹۰} اَوْ تُكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ
 نَّخِيْلٍ وَعِنَبٍ فَتَقْعِرَ الْاَنْهَارُ خَلْفَهَا تَقْعِيْرًا^{۹۱} اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ
 كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كَيْسَفًا اَوْ تَاْتِي بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا^{۹۲}
 اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُرْحُوْبٍ اَوْ تُرْتَفَىٰ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَنْ نُؤْمِنَ
 لِرُقِيْبِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرُؤُهٗ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّيْ هَلْ

ہرگز ممکن نہ پیش کرتے اے ساری اڈاؤں پر مددگار بنے۔ اَلْقُرْآنِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ
 كُلِّ مَثَلٍ پڑپاٹ بیہ کرہ اسے ہتھ قرآن مجید س اندر لوکن فخرہ تارنہ خیرہ پر ہتھ قسمک عمدہ مضامین
 مختلف طریقوں بیان قَالِ اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا باوجود آں کورنہ اکثر لو کو کہنہ نہ انکارہ وراى نہ ناشکری
 وراى وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَدْبُوْعًا بیہ لگ تم لو کہ توہر دینہ اَسِ گزرنہ پڑھ توہر
 توتان یوتان نہ تہہ سانہ خیرہ ہتھ مہہ معظمہ کس زمینس اندر چشمہ ناگہ راد جاری کر و اَوْ تُكُوْنَ لَكَ
 جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَعِنَبٍ فَتَقْعِرَ الْاَنْهَارُ خَلْفَهَا تَقْعِيْرًا یایوتان نہ توہر خاص خضر کلین نہ دچھہ کلین ہند
 باغہ آسہ ہتھ باغس منز کمر و تہہ واریاہ کولہ جاری اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كَيْسَفًا یایوتان نہ تہہ
 آسہ پڑھ آسمان جھلہ جھلہ تراوہ سمیک تہہ ونان آسہ اَوْ تَاْتِي بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا یایوتان نہ تہہ
 پانہ خدایہ ملائک اسہ بروٹھہ کہہ دوٹھہ ذنہ تھاویو کہ ہتھ اس وارہ کارہ تم وچھو کہ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ
 مِّنْ ذُرْحُوْبٍ یایوتان توہر آسہ گراہ مکانہ سونہ سُنْد اَوْ تُرْتَفَىٰ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيْبِكَ حَتَّى تُنْزِلَ
 عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرُؤُهٗ یایوتان نہ تہہ کھسبو آسمانس پیٹھہ۔ اسہ ڈیشمان، اسہ بروٹھہ کہہ توتہ کرودہ نہ اَسِ پڑھ

كُنْتُ إِلَّا بَشْرًا رَسُولًا ﴿۱۳﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ
 الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشْرًا رَسُولًا ﴿۱۴﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي
 الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
 مَلَكَاتُ رَسُولًا ﴿۱۵﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ
 بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۱۶﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ

تہم جس آسمان کھس یوتان نہ تورہ والو سائہ خیطرہ اکہ کتاباہ تھہ منز تصدیق آسہ تہم جس آسمان پیٹھ
 واتس۔ یوسہ کتاب آس تہ پترتھ بیگو۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشْرًا رَسُولًا تہہ فرما یو کہ یارسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سارنی بیہودہ تھن ہند جواب کہ منزہ تہ پاک چھو میون پروردگار تہہ چیزس
 اندر عاجز آسنہ نہ۔ بوکیاہ زونوس توہہ بو چھوس نہ مگر بشر انسان پیغمبر بس میں حقیقت چھہ ایشی۔ مہ
 قدرتس تہ تہزہ فرمایشہ پور کرنس اندر کانہہ دخلہ چھونہ۔ یہ سوزی چھو قدر تہ والس خدا بس اتھہ۔
 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشْرًا رَسُولًا سمہ وقتہ تم لو کن نہہ
 ہدایت یعنی رسالتہ صحیح دلیلہ واثرہ مثلاً قرآن مجیدک بوڈ معجزہ تھہ لازم اوس تم ہند گوڑھہ فوراً
 ایمان ان تہ پڑھ کرین مگر تم سپدنہ کانہہ چیز ایمان نہ نس مانع مگر تم آہہ بوزنہ بشریتس تہ رسالتس
 اندر فرق۔ دہنہ لگ کیاہ اللہ تعالیٰ ان سوزہ اکہ بشرہ پیغمبر قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ مُطْمَئِنِّينَ
 لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَاتُ رَسُولًا تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ ہر گاہ آسہن زمینس پیٹھ ملائیک روزان
 لسان بسان اورہ پور پیچیران تل سوزہ و آس تم کن تہ آسمانہ طرفہ ملکہی پیغمبر بناوت قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ
 شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تہہ فرما یو کہ بس چھومہ منز تہ توہہ منز گواہ اللہ تعالیٰ۔ سوی چھو بہتر زمانان کہ
 بو چھوس پیغمبر تہند۔ اگر تہہ مانو نہ میون پیغمبر برحق آسن متہ مانو۔ اکہ دوہہ اکہ تلو پانے تمیک پیچھ
 نتیجہ ایتہ کان عبادہ خبیرا بصیرا کیاہ اللہ تعالیٰ چھو پنہن بدن ہند ساری حالات پورہ زمانان تہ
 پورہ چھان تہ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ توپتہ چھہ واقعی کتھاہ ای زہ یس اللہ وتھہ ہاوہ سوی چھو سیزہ

يُضِلُّ فَلَئِنْ تَجَدَّلْتُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ يُنْشِرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَّبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ
 زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿۹۵﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُ يَا نَهْمُ كَفَرُوا يَا بَيْتَنَا وَقَالُوا
 ءَاذَانُكُمَا عِظَامًا وَرَفَاتًا ءَاذَانُ الْبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۹۶﴾
 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ
 أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّيْسَ فِيهِ فَايَ الْظَالِمُونَ

وَتَرِ يَظِيهِ يَوْمَئِذٍ وَنَمَنْ يُضِلُّ فَلَئِنْ تَجَدَّلْتُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ بِمَنْ يَمُنُّ سُوِّتَهُ رَاوِرَهُ، كَمَرَاهُ كَرِهَهُ، وَتَرِ نَشْرَهُ
 ذَالِهِ۔ پس لیبون نہ تہہ تہند کا نہہ مدگار خدایس وراى وَنَشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكْمًا
 وَصُمًّا بِيہ پکہ ناوکه آس تم قیامتک دوہ تہہ کھہر آن۔ زرتہ کل مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ
 سَعِيرًا تہنز جای چہہ نار جنم۔ یلہ یلہ سونا سوتن آسہ ہیوان۔ آس آسون سو تیز کران ذَلِكَ
 جَزَاءُهُمْ یوہے نار جنم آسہ تہند سزا يَا نَهْمُ كَفَرُوا يَا بَيْتَنَا امی موکھہ تمہو کیا کور انکار ساین آیاتن
 وَقَالُوا ءَاذَانُكُمَا عِظَامًا وَرَفَاتًا ءَاذَانُ الْبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا بِيہ آس تم وان کہ یلہ اس مرو باقی
 روزہ نہ کینہتہ دور سمہ واذ جو وراى۔ کیاہ آس اموہ تہہ حال بکھتہ اذ جن آسہ سور گو مت، بیہ دوبارہ پیدہ
 کرنہ قبر و اندرہ کڈت ایآسہ نوزندگی عطا کرنہ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ
 أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کیاہ تمن لوکن چہندار نیٹہ آمت کہ بیشک اللہ تعالیٰ گوسوی پروردگار تم مخلوق اندرہ
 بڈزہ مخلوق آسمان تہ زمین پیدہ کرمت چہہ۔ سو چھو پور قدرتہ وول تمن ہی لوکتہ مخلوق انسان پیدہ
 کرنس پیٹہ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّيْسَ فِيهِ مگر تم پروردگارن تہندہ دوبارہ پیدہ کرنہ خیلرہ اکھ وقتہ مقرر
 کرمت۔ سو وقت واتس پیٹہ دوبارہ پیدہ کرنس اندر چھونہ کانہہ شکاہ فَايَ الْظَالِمُونَ إِلَّا لَقَوْمًا بِيہ بوزت
 تہ مرنہ ظالم لوکو کینہتہ تہ انکارہ وراى قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَسْتَكْتُمَنَّ حَشِيَّةَ
 الْإِنْفَاقِ فرما یو کہ تہہ یار رسول اللہ ہر گاہ تہہ مالک نہبو۔ توہہ اتہہ آسہن منیس پروردگارہ سنیدن

إِلَّا كُفُورًا ۙ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا
 لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝
 وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ
 فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝
 أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ الْآرَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ
 يُفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۝ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ

رحمن ہند خزانہ۔ تہہ کمر ہو کہ تم خزانہ بند خراج کر نہ خودہ۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا یہ انسان چھو
 اوسمت ہمیشہ دل تنگ تہ کنجوس وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ تحقیق یہ کراسہ موسیٰ علیہ السلا مس
 نو معجزہ تین تہ واضح عطا۔ تین ہنز ذکر ہو مہ سپارہ اندر شینہ مس رکوعس اندر چھ۔ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 تہہ پر ژھتو آڑ کہ وقتہ کین بنی اسرائیل تین آیاتن متعلق۔ یعنی پتھ پاٹ تہہ معجزات تہہ دلیلہ عطا کرہ
 پتھ پاٹھ پتھ اسہ عطا کرہ مژہ موسیٰ علیہ السلا مس تہ۔ تہہ پر ژھتو آڑ کہ وقتہ کین عالم بنی اسرائیل
 چنانچہ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا بلکہ موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل تبلیغ کر نہ آی
 فرعونس تہہ کر کہ دوبارہ یہہ تبلیغ۔ فرعون لوگ تین دہنہ ہنز پاٹ مہ چھو بوز نہ یوان توہہ پیٹھ چھو کمتان
 جود کورمت سمہ سبہ تہنزہ عقلہ پیٹھ چھو اثر پیومت۔ سمہ سبہ تہہ سمہ قسچہ تھہ چھوہ کران۔ قَالَ
 حضرت موسیٰ ان فرعونس ای فرعون لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ الْآرَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ تحقیق تہہ
 چھو کھہ دلہ کن زانان کہہ سم آیات چھنہ کانہہ ہندہ طرفہ مگر تہس پروردگارہ سندہ طرفہ نئس آسمان تہہ
 زمین ہندرب چھو۔ مگر زیوہ سیت چھو کونہ ظاہر کران وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا بو تہ چھت
 تہہ زانان ای فرعون عنقریب تباہ تہہ برباد سپدہ ون۔ چانہ تباہی تہہ گلنڈ دودہ چھہ واتمت۔ اوتان اوس
 موسیٰ کلیم اللہ فرعونس فرماوان کہ بنی اسرائیل کر کہ آزاد تم تراو کہ مہ سیت اس نیر و مصرہ اندرہ۔
 اس گہو ہو ملک شامس کن۔ مگر سو اوس نہ مانان۔ دون تالیہ تمس نچہ حضرت موسیٰ ما کرہ بنی اسرائیل

وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۱۰۳ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا
 الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنَّاكُمْ لَمِيفًا ۱۰۴ وَيَا حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ
 وَيَا حَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۱۰۵ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ
 لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۱۰۶ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

اندر قوت و طاقت حاصل۔ اسمیت کرن تم مقابلہ۔ فَأَذَانٌ يُسْتَفْزَهُ مِنَ الْأَرْضِ تھن کن نظر کمر تھ
 کور تم ارادہ تم بنی اسرائیل کڈھ بوسمہ شہرہ اندرہ بودمنہ تمن تھ شہر س اندر روزہ لے فَأَقْرَبْنَاهُ وَ
 مَنْ مَعَهُ جَمِيعًا مگر اسمہ برو تھ کہ سو کیا سپدہ ہاپنہ نس ارادس اندر کامیاب۔ اسمہ پھاٹو سو بحر قلزمس
 اندر۔ بیہ تم تس سمیت آس ساری اکہ وٹہ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ بیہ
 فر مو واسہ بنی اسرائیلن فر عومہ سدہ غرق سپدہ پتہ۔ ای بنی اسرائیلو بسو تھہ بیہ زمینس اندر سمہ منزہ
 فر عون توہمہ کڈن یر شھان اوس تھند دشمن گول اسمہ۔ توہمہ دیت اسمہ تھنزہ غلامی نشہ نجات۔ تھہ چھوہ
 وو ان سمہ زمینک مالک۔ خوش کردہ مصرس اندر روز تو یاشامس اندر۔ بیہ خوش کردہ تھہ بستو۔ مگر بیہ
 مالکیت چھہ توہمہ دُنیاچہ زندگی تانی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنَّاكُمْ لَمِيفًا تو پتہ بلہ آخر تک وعدہ ولتہ
 یعنی قیامت برپا سپدہ۔ تھہ ساری کردہ جمع اکہ وٹہ۔ دوست تہ دشمن تہ۔ سعید تہ شقی تہ۔ تو پتہ بوزناوو
 وہ آس تھہ ساری آخری فیصلہ نس دایمگی اسمہ۔ تھہ پاٹ اسمہ حضرت موسیٰ اس معجزہ عطا کمر تھہ پاٹھ
 کمر اسمہ توہمہ تہ معجزات عطا سمو معجزو اندرہ بوڈ معجزہ چھو قرآن مجید وَيَا حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَيَا حَقِّ نَزَلَ بیہ
 کور اسمہ بیہ قرآن مجید توہمہ پیٹھ نازل پنز پاٹ۔ بیہ ووت تہ سو قرآن مجید توہمہ نش پتر پاٹھ۔ منزہ
 سپدس نہ مکنہ قسمہ کانسہ ہند تصرف نس تغیر و تبدیل کرہ ہنس۔ مکنہ زیادتی یا کمی ورا ی۔ گوڈہ پیٹھ اندتان
 چھو سو قرآن مجید پوزوی پوز وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بیہ تھہ پاٹھ اسمہ سوز موسیٰ علیہ السلام
 لوکن گن۔ ہدایت اوس نہ تھندس اختیارس اندر۔ تھہ پاٹھ سوزوہ اسمہ تھہ تہ صرف لوکن ایمانس پیٹھ
 ثوابچ بشارت تہ خوشخبری بوزناونہ خیطرہ۔ کفرس تہ نافرمانی پیٹھ عذابگ نیم کرنہ خیطرہ۔ وون ہر گاہ
 کاہنہ شخصہ ایمان لہ نہ، پڑھ کرہ نہ متہ کمر تن تھند گڑھنہ آزدہ تہ نکلگن سپدن وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ

لَا تُوْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ
يَخْرُوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝۱۷ وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ
وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝۱۸ وَيَخْرُوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَسْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ
خُشُوْعًا ۝۱۹ قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَا تَدْعُوْنَ اِنَّ اَسْمَاءَ

عَلِ النَّاسِ عَلَىٰ مَكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا ۝۲۰ بھو قرآن مجیدس اندر سو پوز آسکیو صفتو علاوہ اللہ تعالیٰ ان پنہ
فضل ورحمتہ سیت تم صفت تھاومت سمو سیت تمکہ ذریعہ ہدایت بن زیادہ آسان سپدہ۔ سو گو اسمہ
کور یہ نازل امہ کین آیتن اندر تھا واسہ ژہین تہ فصل۔ بھہ تہہ لوکن پیٹھہ پران آسوارہ وارہ۔ بھہ تم
وارہ بوزان آسن بھہ آسکھ فخرہ تران۔ کیا زہ مسلسل زیوٹھہ تقریر چھو بعضی ذہنو منزہ نیران۔
سو یاد تھاون چھو مشکل گدھان۔ بھہ کور اسمہ یہ قرآن مجید نازل کم کم وارہ وارہ ترہ بن (۲۳) ذرین
اندر۔ یوبے کور اسمہ نازل واقعاتو موجب۔ بھہ امہ کین معاین ہند وارہ انکشاف سپدہ۔ تم صفت
آس منگان اتھ قرآن مجیدس گدھہ لوکن ہنز پڑھ کرن تہ ایمان ان۔ امہ موجب عمل کرن۔ ہر گاہ
وؤن باوجود آل تم ایمان ان نہ پڑھ کرن نہ تہہ مہ حض سپدو آزرده تہ غمگین تمہ سیت قُلْ اَلْمُنٰوِبَةُ
اَوْ لَا تُوْمِنُوْا تہہ فرما یو کہ صاف صاف تہہ ایمان انتویامتہ انتومہ بھونہ کا نہہ پروا۔ توہہ لو کو ہر گاہ
ایمان اونو نہ بدل لو کہ ان ایمان اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ چنانچہ یمن لوکن امہ قرآن مجید
کہ نازل سپدہ بروٹھہ دینگ علم عطا کرنہ امت چھو یعنی اہل کتابن ہمد منصف علماء اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ
يَخْرُوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝۱۷ یدہ یہ قرآن مجید ترن بروٹھہ کنہ پر نہ یوان بھو تمہ ساتہ چھہ تم تبت متاثر
سپدان تم چھہ بھہ کن وسٹھہ پیٹھہ سجدہ دووان ہو چھو کن وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا ۝۱۷ بھہ چھہ تم پران منزہ تہ
پاک چھو سون پروردگار وعدہ خلائی نشہ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝۱۸ بیشک چھو سانس پروردگارہ ہند
وعدہ ضرور پورہ آسان۔ نیس وعدہ تم کورمت اوس بروٹھہ کن کتابن اندر کہ بوکرہ فلان کتاب فلان
پینمبرس پیٹھہ نازل۔ سو وعدہ کور تم پورہ۔ قرآن مجید کرن نازل حضرت محمد عربیس پیٹھہ۔ وَيَخْرُوْنَ
لِلْاَذْقَانِ يَسْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝۱۹ ہو گینو کن چھہ سجدس منز پیٹھہ ودان۔ بھہ چھو تم قرآن مجید

الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلْدَانٌ مِّنَ الدِّينِ ۚ وَكَبْرَةٌ تَكْبِيرًا ۝

بوزنہ سبت زیادہ عاجزی سے خشوع پیدہ سپدان۔ اللہ تعالیٰ سند یونام پا کوند رہ اوس اللہ زیادہ معروف و مشہور۔ لفظ رحمان سبت آس کھر کہ کھیوان سے ڈران۔ چنانچہ یلہ تم بنی کریمہ سبہ زبان مبارکہ بوزان آس لفظ رحمان تم آس دپان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا زہ چھو آسہ خدا ئس ورا ی بین مگنس منع کران۔ پانہ کیا زہ چھہ خدا ئس ورا ی منگان اتی سپدیہ آیہ کریمہ نازل قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيُّمَا مَا دَعَوْتُمْ اِلَيْهِ سُبْحٰنَہٗ فَرَاوَدُوْکَہٗ یٰرَسُوْلَ اللّٰہِ اٰی لُو کُوْجُہٗ مَعُو اللّٰہُ تَعَالٰی اَسْ یٰ اللّٰہُ کُر تھہ سے یار حمن کھر تھہ تمسند نام پاک ہتھہ سمہ نام پاکہ سبت تس مگو سو گو تس مگن۔ کیا زہ تس چھہ رت رت نام پاک۔ تم دوشوے نام پاک چھہ اللہ سے رحمان سے تموی رت یونام پا کوند رہ۔ اتھ منز چھونہ شرکک کا نہہ تعلق۔ ناہ وول سئوی۔ ناہ تھس واریاہ۔ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ اندر بڈہ بڈہ قرآن آس پران۔ مٹرک آس قرآن مجید س جبریل امینس بیہ خدایہ سندس سے سانس نسبت گستاخی کران بیہ بیچہ لفظ استعمال کران۔ اللہ تعالیٰ ان فرمود **وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا** بیہ مہ حض آس یار سول اللہ نمازہ منز بڈہ بڈہ قرآن مجید پران۔ ئس بوزنہ سبت مٹر کن بیچہ تھہ وور نگ موقعہ آسہ یوان۔ سمہ سبت نماز گڈازن دل مشوش سے پریشان آسہ سپدان۔ نہ مہ آسہ بالکل لوت لوت پران ئس نہ نماز گڈازن سے بوزن تگان آسہ۔ اختیار آسہ کران یکن دون حالتن منز در میانی صورت۔ یعنی نہ زیادہ بڈہ نہ زیادہ لوتہ۔ سمہ سبت فاندہ سے آسہ واتان۔ مضر سے نشہ سے آسہ بجان **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلْدَانٌ مِّنَ الدِّينِ ۚ وَكَبْرَةٌ تَكْبِيرًا** بیہ آسہ علی الاعلان بیان کران کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ معبود برحقس یس نہ اولاد چھہ نہ بچو سے نہ کورہ۔ نہ چھو تس ملکس سے سلطنس اندر کا نہہ سے اکھاہ شریک سے نہ چھہ تس کمزوری سببہ کا نہہ مدد گارہ سنز ضرورت۔ بیہ کمر و ہز بیان تسد تھز رتہ بجز۔ بوڈ زانیون سئوی یوت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ یلہ تھمیدس خاندانس یعنی بنی عبدالمطلبس اندر کا نہہ لو کئس زیویوان آس، تھہ اوس ہیوان کر نہ تس آس بیچھناوان یوسے آیہ کریمہ **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَرَوَاهُ ابْنُ السِّنِيِّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔**

سُورَةُ الْكَهْفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ
 لَهُ عِوَجًا ۝١ قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ
 الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝٢
 مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا ۝٣ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ساری حمدتہ تعریف چھہ
 ثابثتہ سزوارتس معبود برحقس یم نازل کورپنہ نس خاص بندس حضرت محمدس پیٹھہ یہ کتاب یعنی
 اعلیٰ تہ اجمل قرآن مجید۔ بیہ تھوون نہ اتھ کتابہ اندرکئہ قسمہ ہجرہ۔ ہج کتھاہ اتھ منز چھہ۔ عبارت
 نہایت فصیح وبلغ طرز بیان نہایت موثر۔ تعلیم نہایت اعلیٰ متوسطہ معتدل۔ یوسہ پریتھہ زمانس اندر
 پریتھہ کانسہ ہندس طبیعتس موافق و مطابق چھہ۔ افراط و تفریط نشہ پاک و صاف قِيمًا یوسہ کتاب
 بالکل سیزتہ مکمل چھہ۔ یتھ منز بندن ہنزہ سارے مصلحو بیان کرنہ آمرہ چھہ۔ گمہ گمہ چیزہ سیت
 سپدہ تھند معاش و معاد دُرست لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ یتھ سبوتاب عموما کافرن کھوڑہ ناوہ
 تمہ سخت عذابہ نشہ یوسہ اللہ تعالیٰ سدہ طرفہ آخرتس منز کافرن واہ دون چھو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ
 الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا بیہ یتھہ یہ قرآن مجید خوشخبری
 تہ بشارت دیہ تمن بایمان تم رثہ عملہ آس کران۔ یتھے خوشخبری کہ تھندہ خیطرہ چھہ رثمزور یعنی
 جنت تہ جتھہ شعمو۔ تمنی جنن اندر چھو روزن تمن ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا
 بیہ کرہ یہ قرآن مجید یم تہ کھوڑہ ناوہ تمن لوکن تم دنان چھہ تہ تم لاگان چھہ اللہ تعالیٰ آس اولاد۔ یہ
 مضمون آوالگ وننہ بیہ امی موکھ۔ عرس اندر آس ساری مشرک تہ یہود تہ نصاریٰ تہ اتھ بلاہہ منز بیتلا۔
 مشرک آس ملائکن خدلیہ سزہ کورہ دنان۔ یہود آس دنان حضرت عزیر چھو خدلیہ سُنڈچو۔ نصاریٰ

وَلَدَا ۝۶ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً
تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ
بِآخِرِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ
أَسْفًا ۝۷ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا ۝۸ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝۹

آس و نان حضرت عیسیٰ چھو خدایہ سُندُچُو۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ اتھ پیٹھ آس نہ
تمن نش کا نہہ دلیلاہ نہ تہندین مالین بدین نیشہ کڈت کلمہ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ سیٹھہ بدکتھہ
چھہ یہ یوسہ نیران آس تہند یو چانیو منزہ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا تم لوک چھہ ونان یہ تھہ مگر
بالکل اپز تہتہان۔ فَلَعَلَّكَ بِآخِرِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا تہہ
چھوہ تہندس ایمان نہ انہ نس پیٹھ یوت غم کیوان۔ شاید تہہ ماوانتہ ناوونہ نس ذات مبارکس تکلیف
تمن پتھہ۔ تم کونہ چھہ پتھہ کلام پاکس قرآن مجیدس پڑھ کران۔ یہ چھوہ تہہ تہندس کفرس پیٹھ اصرار
کرنہ کہ سببہ یوت نمکنین کہ معلوم چھو سپدان تہہ ماکر و مارہ پن ذات مبارک تمی پتھہ افسوسہ کن۔
ہر گاہ نئے تم قرآن مجیدس پڑھ کران متہ کترن۔ تہہ مہ حض کھیو یوت غم تہند۔ یہ دنیا چھو عالم ابتلاء و
آزمایش۔ پتھہ منز چھہ اڈلوک کافر اڈمسلمان إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا بیشک آسہ کورتہ سوروی یہ پتھہ زمینس پیٹھ چھو امہ زینت زینت تہ رونق۔ پتھہ آس
لوکن آزمایش کرو کہ تہہ اکھہ چھو تمو منزہ رث عمل کرہ ون۔ تہہ اکھہ چھو امہ زمینہ کس رونق و زینتس
گن مائل سپدت عملہ نیشہ غافل سپدہ ون۔ آخرت مشراوہ ون۔ اتھہ دنیا س پاکدار یاہ کینہہ چھہ۔ یہ
چھو فانی سپدہ ون غرض یہ چھو عالم ابتلاء پتھہ منز چھو کا نہہ کافر کا نہہ بالیمان۔ اتھہ پیٹھ غم کیوان
چھو بے کار۔ تہہ کمر و بہن کوم۔ تہہ مہ سببو اتھہ کتھہ کہ کافرن کیاہ بنہ۔ سببو چھہ سان کام۔ چنانچہ اکھ
دوہانہہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اس چھہ تمن سارنی چیزن تم اتھہ زمینس پیٹھ چھہ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ الْإِتْنَاءِ عَجَبًا ۙ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا

فناکرہوں۔ اٹھ سارسی زمیںس گئی صاف میدان بناوہوں۔ سمہ دہنہ ساری فناپدت دوبارہ بیہ زندہ
 کرنہ یکن۔ توپتہ ایہ پریتھہ آگس جزاوسزاوہ۔ تم گتھہ وودمت آسہ سوئتھہ لونہ۔ قریشواآندرہ کینزہ وکافرو
 پڈرٹھہ بہودن ہندہ پتھناونہ سیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف ہند قصہ۔ تیتھہ
 متعلق چھو اللہ تعالیٰ امہ پتہ فرماوان **أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ
 الْإِتْنَاءِ عَجَبًا** کیاہ توہہ چھوہ خیال کہہ گوچھہ وال یکن ہنداو آسہ ترامہ پٹس پیٹھہ لیکنہ اُمّت (تھی کن آس
 تھی ونان اصحاب رقیم تہ۔ رقیم بمعنا مر قوم) ٹھند قصہ کیاہ چھو سانیو قدرتہ کیونشاؤ آندرہ زیادہ
 عجایب۔ تیتھہ پاٹھہ بہودن ان چھہ۔ حالانکہ سانہ قدر تک باقی نشانہ تم چھاکیہنہ کم تہ معمولی۔ تااینکہ تیتھہ
 معمولی قصص متعلق چھہ تم دریافت کران۔ آسمان وزمین۔ آفتاب تہ زون۔ دُک تہ راتک یکن تہ
 گروٹن۔ سمونشاو سیت گروٹن تہز عبرت رٹن۔ حضرت رب العالمین خالق موجوداتہ سہ حقوق یعنی
 توحید و طاعت گروٹن بجائن۔ تسدین پیغمبرن گروٹن پڑھہ کران۔ خصوصاً پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم تین گروٹن پڑھہ کمرن۔ بہر حال بوزواصحاب کہف ہند قصہ۔ شہر رومس اندراوس اکھ
 بادشاہت پرست۔ سواوس زورہ زبردستی لوکن بت پرست بناوان۔ امس پاد شہس اوس ناود قیانوس۔
 تیتھہ پاٹھہ بعضی لوکھ ونان چھہ۔ اچھہ و قس اندر پوکینہ نوجوانن ہندین دلن اندر تم حکومتہ کین لوکن
 سیت تعلق تھاوان آس یہ خیال پیدہ کہہ آس کیاہہ کرون آگس مخلوقہ سہہ خلیق کائنات ناراض۔
 ٹھند دل اوس خدایہ سہہ خوف و خشتیہ سیت، تقوایہ یقینہ سیت ہر۔ بیہ اوس دُیتمت اللہ تعالیٰ ان تمن
 صبر و استقلالک توکل۔ تبتلک توفیق۔ بیہ کمر اللہ تعالیٰ ان تھند دل مضبوط۔ تمو دوپ علی الاعلان
 سون رُب چھو آسمانن زمین ہند پروردگار۔ تس وراوی انونہ آس ایمان بیہ کانسہ معبودس۔ پاد شہس آو
 تہزہ نوجوانی پیٹھہ رحم۔ یاسد تہ پن کینہہ مشاغل یا مصلحتہ مانع تم کمرن نہ شہید۔ تمن دژن غور کرنہ
 خیطرہ مہلت۔ تمو کورپانہ وان مشورہ۔ ٹوپتہ سپد متفق امہ شہرہ آندرہ نیرنس پیٹھہ۔ کتھہ محفوظ جالیہ منز
 کھت روزنس پیٹھہ۔ تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ **إِذْ أَوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ** سووقت تہ چھو قابل
 ذکر یلہ نوجوانن ہنز جماعت آہ۔ آگس بیدین ظالم پاد شہس نعتہ ثلث آگس گوچھہ گن پناہنہ خیطرہ۔ اللہ

اِتَّامِنُ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰
 فَضَرْبَنَا عَلَىٰ اذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝۱۱
 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئْتُوا أَمَدًا ۝۱۲
 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
 وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝۱۳ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا
 رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُو مِنْ دُونِهِ الْهَالِقِ

تعالیٰ اس موصیٰحہ دعا فقَالَوْا رَبَّنَا اِتَّامِنُ لَدُنْكَ رَحْمَةً ای سامنے پروردگارہ اسے کر عطا پنے
 طرفہ رحمتک سامان وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا بیہ کر سامنے خیرہ تیار سمہ سیت اس سیتھہ کلمہ
 اندر روز و کامیاب۔ یعنی اس گروہونہ مٹر کن تہ بے دین ہندس زالس اندر پھنس۔ اس گروہو تہتہ شہ
 نعرہ محفوظ روزن فَضَرْبَنَا عَلَىٰ اذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا کس ثجربہ کن ثجربہ کن وژا سہ
 تہتہ دین کن پیٹھ ندر پاونہ خیرہ یعنی ندر پاوکھ اتھ گو پھہ اندر وار سہن ورسن۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ
 أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئْتُوا أَمَدًا تو پتہ واریاہ کال گروہت تل اسہ تم۔ ندرہ نعرہ کمر بیدار۔ سیتھ
 ظاہرہ پاب معلوم کمر و کہ تمہ منزہ کوسہ جماعت چھ تہتہس گو پھہ منز روز کس مدتس زیادہ یاد تھا وون
 ۔ کیا زہ تمواندرہ اس اکھ جماعت دپان اس رود سیتھ گو پھہ منز اکھ یا اودودہ۔ بیا کھ جماعت اس
 دپان تہتہس خدایس چھو معلوم تو بہہ کوتاہ کال گووہ سیتھ گو پھہ منز روزان نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ
 نَبَأَهُم بِالْحَقِّ اس کر وہہ بیان تو بہہ تہتہ قصہ پز پاتھ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى تم
 اس نوجوان ہنز اکھ جماعتھا۔ تموا ایمان اوس اونمت پڑھ آسکھ کمر مٹر پنے نس پروردگار س۔ بیہ اس
 اسہ تم ن ہدایتس منز زیادتی کمر مٹر وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ بیہ اس اسہ تہتہ دل صبرہ سیت ثابت
 قدمی سیت مضبوط کمر مت اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یلہ تم وچھ۔ تو پتہ
 دو پھہ علی الاعلان رب سون چھو سوی بس آسمان تہ زمین ہند رب چھو لَن نَّدْعُو مِنْ دُونِهِ الْهَالِقِ

قُلْنَا إِذْ أَشْطَطَا ۝۱۴ هُوَ لَكُمْ قَوْمًا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ
لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝۱۵ وَإِذْ أَعْرَضْتُمْ عَنْهُمْ وَمَا يعبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ
مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝۱۶ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارِعًا

قُلْنَا إِذْ أَشْطَطَا یہ ہنہ نہ ہر گز اس کیا کروئس وراى بيه كانه معبوده سز پرستش ته عبادت۔
اگر اس توه ہش کوم گرو تھ صورتس منز گرو اس سہو ح کتھاہ یوسہ پزہ نش دور چھ ہوا لکم قومنا
تتخذوا من دونه الہة یہ ئیس سون قوم ہتھو تمو چھ معبود برحق تراوتھ بدل معبود مقرر
کمرمت۔ یہ قوم ته تھند پادشاہ آس بت پرست لو لا یأتون علیہم سلطن بین سم کونہ چھ اتھ
بت پرستی پیٹھ پیش کران کانہہ دلایلا۔ تھ پاتھ موحد چھ خدایہ سدس وحدانتیس ته لاشریک آس
پیٹھ دلیل پیش کران فمّن اظلم مین افتراى علی اللہ کذباً ودن یلیہ توحید ثابت روشن دلیلو
سیت چھو ئیس تھہ اکھاہ چھو یئو ظالم تس شخصہ سدہ خو ته ئیس اپز نو رواہ کئس خدایس پیٹھ شریک
ٹھہر اونہ سیت۔ توپتہ لگ پانہ وان ونہ واذ اعرضتموہم وما یعبدون الا اللہ یلیہ تھہ تمن لو کن
نشر الگ چھوہ اعتقادہ کن۔ بیه چھوہ تھندین معبودان باطن نشر ته الگ ئیس پزہ آسہ روزن جایہ اندر ته
تمن نشر الگ ته دور بیه تھندین معبودان باطن نشر فأوالی الکھف پس ایو فلان گو چھہ منز
روزو کھشت لو کن نشر۔ محفوظ روزت گرو فراغتہ سان معبود برحقہ سز عبادت ينشركم ربکم من
رحمته ويهيئ لکم من امرکم مرفقا سو پروردگار کرہ نازل توہہ پیٹھ پن ہڈر حمت۔ بیه کرہ تیار
تھندہ خیطرہ تھنزہ کامہہ ہنزہ کامیالی خیطرہ یو ذو سامان۔ سمہ خیطرہ سمو دعا کورمت اوس۔ امر پتہ چھو
اللہ تعالیٰ فرماوان تمہہ گو چھہ ہنزہ جایہ متعلق سو گو چھہ تھہ مو قعس پیٹھ چھہ محفوظ وتراى الشمس اذا
طلعت توارعاً کھفہم ذات الیمین بیه وچھہ تھہ ای مخاطب آفتاب یلیہ کھسان چھو تا بیه

كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
 وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ
 الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۱۷ وَ
 تَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ ۱۸ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ
 ذَاتَ الشِّمَالِ ۱۹ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ
 عَلَيْهِمْ لَوَلَّيَتْ مِنْهُمْ فِرَارًا ۲۰ وَكَلْبَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا ۲۱

چھو بیوان تہزہ گوچہ نشہ دلہہ دچھنہ طرفہ وَاِذَا عَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ یہ لیلہ آفتاب
 لوسان چھو تمہ ساتہ تہ چھو تراوان تہن کھو فرس طرفس کن تمہ ساتہ تہ چھونہ گوچہ ہندس گلش پیٹھ
 تاچہ بیوان تہ نہ تہن تا پک تکلیف ولتہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ تم اصحاب کہف چھہ گوچہ ہنزہ
 اُس کشادہ جالیہ اندر۔ تہن تہن پورہ ہوا چھو واتان ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ یہ چھو خدایہ سند یوقدرتہ
 کیونشا نو اندرہ بوڈ نشانہ کہ یمن اصحاب کہف ہندہ تعدادہ کن کم آسکہ نہ مخالفن ہندہ زیادہ آسکہ باوجود
 لوب تمو ہدایت راہ راستس کن۔ اللہ تعالیٰ تہہ پاٹھ چھو پنہ نین برگزیدہ ہندن ظاہری اسبابن خلاف
 ہمت واستقلال عطا کران۔ یس معلوم چھو یہ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي یس سو و تہ ہاوہ سو چھو لبان
 و تہ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا یہ یس سو گراہ کرہ و تہ راورہ تسدہ خیطرہ لبہ ہن
 نہ ژہ کانہ مددگارہ یس تس و تہ ہاوہ ہا وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ ای مخاطب ہر گاہ تہن پیٹھ
 نظر پیٹی ژہ کر کہ خیال کہ تم چھہ ہشیار۔ کیا زہ تہزہ اچھہ چھہ موراو تہ درحالیچہ تم چھہ شوچھہ۔
 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ یہ چھہ اس تہن کرہ پھرن دوان دچھنہ طرفہ یہ کھوفرہ
 طرفہ۔ تہنہ تہن بدنس پیٹھ زینگ اثر سپدہ۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ یہ چھو تہند
 ہون یس تہن پتہ پتہ تہن سیت درامت اوس بڑھہ زہ پنہ موراو تہ گوچہ ہندس گلش پیٹھ۔ یہ کور
 اللہ تعالیٰ ان تہندہ حفاظتک اکہ سبب۔ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيَتْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلْبَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ط قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
 كَمْ لَبِئْتُمْ ط قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ
 أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ط فابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ
 إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
 مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝۱۹
 إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ

ای مخاطب ہر گاہ ثرہ نظر دکھ تم ن کن ہوت پھیرک ثرہ واپس ژلان ژلان۔ بیہ کیہ چون دل برنہ تم
 و جہت خوفہ سیت۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تھہ پاٹھہ آسہ تم ن نندراپا، زیٹھ نندر۔
 پنہ قدرتہ سیت تھہ پاٹھہ کمر آسہ تم بیدار۔ و زہ ناو آسہ تم زچھہ نندرہ نثہہ تھہ تم پانہ وان اکھ اکس
 ہر ژھن گو پھہ منز کیتس کالس رود تم قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ چناچہ تموا ندرہ اک شخصن وون
 باقین کہ آسہ کوت کال گو تھہ گو پھہ اندر روزان۔ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ تمودوپ اکس
 دوہس یا ڈس دوہس آسورودمت۔ تو پتہ پچھہ نظر پنہ نین نم ن تزلن کن تم و چھہ سٹھاہ ز ٹھمت۔
 حیران گئے قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ دہنہ لگ تھندس خدا کیسی چھو معلوم صحیح تھہ کیتس کالس
 چھوہ تھہ گو پھہ منز رودمت۔ یہ اختلاف تراو۔ وون کمر و کھینہ چیک کا نہہ انتظام فابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
 بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا کس سوزیون اکھ شخصہہ تھہ شہرس
 کن یہ روپے ہتھہ۔ سو و چھن کس شخص نثہہ آسہ پاک و پاکیزہ رت حلال غذا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ
 لْيَتَلَطَّفْ سو شخص کن شہرہ منزہ کینہہ کھینہ چیزہہ یہ ساری کوم کمرن سورتہ تدیرہ سان ولا
 يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا بیہ تھنہ سو شخص کا نہہ کس تھند نیب دیہ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
 يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْكَتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا بیشک سمہ شہرک لوکھ تم چھہ
 ہر گاہ تم تھند پتہ لگھہ تم مارن تو بہہ کنو سیت۔ نہ پھہرہ نوہہ تو بہہ جبر اپنے نس دیس کن۔ تھہ صور تس

فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝۵۰ وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا
عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا
رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا

منزہ بیكونہ تمہہ زانہہ کامیاب سپد تھہ وکذالک اعترنا علیہم نتیجہ پانچ کمر آسہ پندرہ قدرت وحمیت
سیت مطلع تہندس حاسل پیٹھ تمہہ زمانیک لوکھ۔ کیا زہ تمونزہ یلہ سواکھ شخص امہ شہرہ کس بازرسی
منزروت کھینہ چیز منول پندرہ خیلرہ۔ وانہ والس دکاندازس دیت تم طعامک قیمت۔ سو آس دقیاوسی
روپے۔ دقیاوس پادشہہ سندہ وقتہ پیٹھ اوس واریاہ کال گو مت۔ واریاہ پادشاہ آس اتھہ و قس تان
بدلیمت۔ سو دکاندارگو حیران پرلہ وقتہ روپے وچہت۔ تم ہڈ ژھس ژبہ کتہ پتہ انہویہ روپے۔ ژبہ
آسی گھر س منز خزانہ درامت۔ سو گو حیران یہ کیاہ چھومہ ونان۔ تم دونہس مہ ہتھہ اوترہ مال سندہ گرہ
پانس سیت خرچہ خیلرہ ٹمومہ۔ یہ روپے۔ ژہ کیاہ چھٹھ مہ ونان۔ بہند یہ گفتگو یوز بیولو کو۔ یکدم کھیہ
ساری بازرسی ایچ خبر۔ واتان واتان واثیرہ خبر پولیس تھانس تان۔ تمو کوریہ شخص گرفتار۔ ہڈ ژہ
ہس مالس کیاہ چھوی ناو۔ تمس زانہانہ امہ وقتہ کیولو کو اندرہ کانہہ تہ۔ توپتہ یلہ تموسو سخت تنگ کور۔
تم دوپٹھ مہ نیو دقیاوس پادشہس نشہ تمس چھہ میانہ حاج خبر۔ تمس آس تقریباً ترہ ہتھہ وری گامت
موتس۔ لو کو تہس ٹھٹھ کرن۔ واتان واتان ووت یہ قصہ امہ وقتہ کس پادشہس نشہ۔ تس نشہ تہ وون ام
شخص یوہے قصہ۔ پادشہن کمر جمع پن ساری اہل کار تہ تمہہ شہرک رئیس لوکھ تم ساری ہتھہ آوسو اتھہ
گوپھہ نشہ۔ بیتہ اسند باقی رفیق آس۔ پادشہن کدہ ناوسو ترامہ پٹ شای خزانہ منزہ ہتھہ پیٹھ تم سارنی
ہند ناو آس مع ولدیت کھنہ آمت۔ سو ترامہ پٹ ان پانس سیت لیلعلمو ان وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ نتیجہ
لوکھ زان کہ ہڈ پاٹ خدلیہ سند وعدہ چھو حق تہ پوز۔ بس تم مرنہ پتہ بیہ زندہ سپانس متعلق کورمت
چھو وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ یہ نتیجہ لوکھ زان کہ قیامتہ کس پیش منز چھونہ کانہہ شہکا اذ
يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ۔ یہ نتیجہ تہ ہتھہ قابل ذکر یلہ تمہہ وٹک لوکھ تہندس معاملس منز آس پانہ
وان قضیہ تہ تنازعہ کران۔ بعضی آس ونان امہ گوپھہ ہند گول گزوبند نتیجہ بدن تمن اصحاب کہفن ہند
مخفوظ روزن۔ تہندس یادگار س منز بناو اتھہ گوپھہ سیت اکھ مسجدہ ہتھہ منز لوکھ خدلیہ سز عبادت

عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا
عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنْ نَخْتَدِنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝۲۱ سَيَقُولُونَ
ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ
رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ
رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۝۲۲ فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ

کران آسن۔ یہ گوتی وقتے می وقتے لوک آس مر نہ پتے بے زندہ سپد نہ کس مسلس منز اختلاف کران۔ اللہ تعالیٰ ان کو راصحاب کہن ہندہ واقعہ سیت اتھ مسلس منز فیصلہ۔ چنانچہ اکثر لو کو اُون قیاس ایمان مر نہ پتے بیہ۔ زندہ سپد نس کر کہ پڑھ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا اُنس دوپ لو کو کہ کھا روت کن پیٹھ اکھ عمارتھاء رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ٹھند پروردگاری اوس زنان تھند حالات قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنْ نَخْتَدِنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا بِالْآخِرِ سم لو کہ پنے نس خیالس پیٹھ غلبہ لبان آس تم گئے اہل حکومت۔ تم آس امہ وقتے دین حقس پیٹھ۔ تم کو رارادہ اُس بناؤ اتھ گو پھ متصل اکھ مسجد اہ یوسہ مسجد روزہ علامت سمہ ٹھہ ہند کہ سم لو کہ یعنی اصحاب کہف چھہ آسمت خدایہ سہ بندہ خاص خدا بس عبادت کر ہون۔ تا اینکه تمن بنو نہ کا نہ معبود سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ سمہ وقتے اصحاب کہن ہند قصہ اُس بیان گرو تمہ وقتے ون لو کہ تھندس تعدادس متعلق مختلف تھ بعضی دین تم اصحاب کہف آس ترہ نفر ژور سم اوسکھ ہون بیہ ون بعضی تم آس پانژھ نفر شم اوسکھ ہون۔ مگر یمن دوشون جماعتن ہند ون چھو بے دلیل تے بے تحقیق۔ یہ گو نشانہ وچھنے، اھجہ وٹھ کنہ لائنہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ بعضے چھہ ونان تم آس تھ نفر او ٹھم اوسکھ ہون قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ٹہہ فرماو یو کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون پروردگاری چھو زیادہ زنان تھندس شمارس تعدادس۔ لو کو منزہ زنانہ ٹھند صحیح تعداد مگر کمی کینہہ اشخاص۔ حضرت عبد اللہ بن عباس آس فرماوان بوتے چھس تمواشخا صوآندرہ اکھ شخص۔

الْأَمْرَاءَ ظَاهِرًا مَّا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ
 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۗ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
 اللَّهُ ۗ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلَيَّ أَنْ يَهْدِيَنِي
 رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا ارشَدًا ۗ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ
 ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ۗ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

مہ چھو معلوم تم کہو نفر آس۔ تم آس سٹھ نفر۔ او ٹھم او سٹھ ہوں کیا زہ اتھ قوس فرمودنہ اللہ تعالیٰ ان
 رجبا با غیب فلا تشار فیہم الامراء ظاہرا پس مہ ہز کمر و بحث سخن اصحاب کہفن متعلق مگر
 سرسری پاٹھ۔ زیادہ مہ سبکو اتھ اندر وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا بیہ مہ حض پر ژھو یمن
 اصحاب کہفن ہند کانسہ آگس لو کو آندرہ۔ یہ ہندہ تعدادک تحقیق کر نس اندر تہ چھونہ کاہنہ فائیدہ۔ نہ
 کاہنہ اہم مطلبہ۔ ایشہن اتھ متعلق خداین بیان فرمود تیرہ ہن چھہ کافی۔ مٹر کو ہر ژھ حضرت نبی
 کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم بہودن مہدہ تحریر سیٹ اصحاب کہفن ہند قصہ۔ تمو فر موو، بچہ پگاہ ونودہ
 امیک جواب انشاء اللہ فر موو کہ نہ اتھ سیٹ کینہہ تہ۔ خیال کو رکھ کہ جبریل امین ایہ تس پر ژھو تمہ
 پتہ ونو یمن لو کن جواب جبریل امین اوس نہ یوان پانے پنہ خواہشہ۔ سو اوس یوان خدایہ سندی حکمہ۔
 امہ پتہ آونہ جبریل امین پنہ ہن دو ہن تان کینہہ۔ نبی کریم سپد سیٹھہ نمگین تہ پریشان۔ پنہ مہ ڈہہ
 او جبریل امین یہ آسہ کریمہ پتہ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ بیہ مہ
 حض آبو کٹہ چیزہ خیطرہ ونان بہ گرہ یہ کو م پگاہ۔ مگر آسو تھہ سیٹ ونان ان شاء اللہ۔ یو ژھے خداین
 وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ بیہ یلہ توہہ اتفاقا ان شاء اللہ ہر ن مشرت آسہ گڑھان تو پتہ آسہ کٹہ ساتہ ٹہہ
 یاد یوان کی ساتہ گڑھہ تہند ان شاء اللہ ہر ن وَقُلْ عَلَيَّ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا ارشَدًا
 بیہ ونو کہ مہ چھہ امید کہہ میون پروردگار ہا و مہ تھہ اصحاب کہفن ہندہ قصہ خوتہ کٹہ نزدیک امرس کن
 بس نبوت و دلیل بندہ خیطرہ زیادہ مفید آسہ وین اوس بیا کہ مسئلہ کہہ ہم اصحاب کہف کتیس کالس رو و اتھ

لِئْتَوَاهُ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا
 لَهُمْ مِمَّنْ دُونِهِ مِنَ الَّذِينَ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿۳۶﴾
 وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لِأُمِّدَّالِ لِكَلِمَتِهِ ^{تَف}

غاس اندر۔ تجھ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَلِئْتَوَاهُ كَهْفُهُمْ تِلْكَ مَائِدَةٌ بَيْنَيْنِ وَأَزْدًا مُتَسَاعًا
 بیہ تجھ پانچ اصحاب کہن ہندس تعدادس بیٹھ لوکن اختلاف اوس تھے پانچ اوس لوکن اختلاف تہزہ
 گوچھ اندر مندرہ ہندس مدتس اندر اُس چھہ بیان کران امر واقعی سُو گواہی کہ رود اصحاب کہف اتھ
 گوچھ اندر شو بخت ترین تہن وَرَبَّنَّ۔ بیہ ہرہ راوہس نووری سُو گوترن ورہن تہ نون وَرَبَّنَّ قُلِ اللَّهُ
 أَعْلَمُ بِمَا لِيَتَوَاتَرُ فَمَا لِيَتَوَاتَرُ فَمَا لِيَتَوَاتَرُ فَمَا لِيَتَوَاتَرُ فَمَا لِيَتَوَاتَرُ فَمَا لِيَتَوَاتَرُ
 اس گروہنا پور خبر آسن لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا زہ تھو آسمان وزمین ہندین سارنی
 پوشیدہ حالاتن ہند علم أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ کوتاہ زیادہ وچھون وچھو سُو۔ کوتاہ زیادہ بوزہون وچھو سُو۔
 سبحان اللہ۔ کانہہ کتھاہ چھاتس نَشْءِ كَهْفَتِ تہ پوشیدہ۔ ہر گاہ کانہہ شخصہہ تسدیس علم محیطس سیت معارضہ
 گرہ سُو وچھو مُتَمَتِّق سزاو عذاب۔ سزاونکہ وقتہ بیہ نہ کانہہ اکھاہ تمن کئہ قسمہ مدد کتر تھ مَا لَهُمْ مِنْ
 دُونِهِ مِنَ الَّذِينَ کانہہ اکھاہ وچھونہ تمولو کو منزہ آسمان وزمینہ کیو مخلوقو منزہ تہس اکتس معبود برحقس
 وراہی اختیارہ وول نہ کانہہ مالک۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا بیہ وچھونہ سُو معبود برحق سیت رٹان،
 شریک تھوان کانہہ اُس نہ عالم علویو مخلوقو آندرہ نہ عالم سفلی کیو مخلوقو آندرہ۔ یعنی نہ کانہہ ملک
 مقرر بس۔ نہ کانہہ نبی مُرْسَلَس پنے بس کُھْمَس اندر شریک رٹان۔ لہذا تھس جلیل القدر عالیشان
 پادشہس گوژھ سخت کھوژن۔ تہہہ مخالفتہ تہ نافرمانی نغہ گوژھہ سیٹھاہ پتھ روزن وَاتْلُ مَا أُوحِيَ
 إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ تہہز کوم چھہ صرف پیہ کہ تہہ پتر یوپنہ بس پروردگارہ سنز سُو کتاب
 یوسہ نازل آہی کرنہ توہہ سُن بطریق وحی۔ فخر مہ آسو کران بڈین بڈین لوکن ہندس مخالفت کرنس
 سُن۔ تہہزہ مخالفتہ سیت ماسپدہ دینچہ ترقی کرنس اندر کانہہ رُکاوٹ۔ دینچہ ترقی ہند وچھو آسہ توہہ سیت
 وعدہ کورمت۔ لہذا روزو تہہ مُطْمَئِنِّن لَأُمِّدَّالِ لِكَلِمَتِهِ کانہہ اکھاہ وچھونہ اولہ بدل کرہون تہندین کھمن
 وعدن۔ وون ہر گاہ تہہ کافر ن ہنز دل جوئی کتر وسمہ سیت احکام الہی متروک سپدنگ امکان سپدہ تلہ

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا^{۲۷} وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرَهُ فُرطًا^{۲۸} وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ

چھو تہمدہ خیرہ معاملہ سیٹھاہ مشکل۔ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا تھہ صورتس اندر لبونہ نہہ کا نہہ چھین جایاہ پناچ جایاہ تس وراہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند کافر ن ہنزہ لجوی احکام الہین مقابلہ کرن چھو شرعی دلیلو سیت محال۔ یہ آویان کرنہ صرف اسمہ موکھ امیک اثر چھو امی قسمگ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ تھہ پاٹ حکم آو کرنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافر ن سیت مہ تھاوو تعلق تھہ پاٹ آکھ حکم کرنہ مسلمان فقیر ن گن زیادہ التفات و توجہ کرنگ۔ یہہ تھاوو ہنزورہ ہن ذات مبارک تمنی لوکن سیت یم صبح و شام یعنی ہمیشہ پنہ نس پروردگارہ سنز عبادت چھہ کران۔ یم ژھانڈان تھندوی رضا چھہ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تھہ چھوہ دنیاجہ زندگی ہند زینت ژھانڈان۔ توہہ پڑوہ نہ نہ کرن وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرَهُ فُرطًا تھہ مہ حض ماہو تمن لوکن ہنزہ تھہ۔ فقیر با ایمان الگ کرنس متعلق۔ یمن ہند دل اسمہ بطور سزا چھہ غافل کمر مت پتہ ذکرہ نٹہ پتہ یادہ نٹہ اسمہ سبہ تمودین حق قبول کورنہ۔ یہہ تم پنہ نین نفسہ چن خواہش ہنزہ پیروی کران چھہ۔ یہہ تمن ہند حال اتباع ہوا کرنس اندر حدہ خونہ زیادہ سپدمت چھو۔ یعنی نفسہ چہ خواہشہ ہنزہ پیروی کرنس اندر چھہ تم حدہ دولت۔ تھہ ننی تھن شو بیاکن تھاون۔ بلکہ شو بن تم پانس نٹہ دفع کرن وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ یہہ فرماو کہ تھہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن کافر ن صاف پاٹھہ یہہ دین حق چھو تھندس

وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
 أَحَاطَ بِهَمُّ سُرَادِقِهَا وَإِنْ يَسْتَعِيبُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ
 كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۱۶﴾
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ
 أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿۱۷﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ

پروردگارہ سیدہ طرفہ نئس مہ توہمہ نئس وائہ نوو۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ دُونَ
 نئس اکھاہ یشہہ سُوکْرَن پڑھ۔ سُوْأَنْ اِيْمَان۔ نئس اکھاہ یشہہ سُوْزُوْن کُفْر سِی پیٹھ۔ اُسہ چھونہ تھہ اندرنہ
 کانہہ نفعنہ کانہہ نقصان۔ بلکہ ايمان انه نك نفع چھو توہمہ پائس۔ ايمان نہ انه نك، کُفْر سِی پیٹھ روزنگ
 نقصان تہ ضررتہ چھو توہمہ پائس۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَمُّ سُرَادِقِهَا بِشَكِّ اُسہ
 چھو ظالمین یعنی بے ایمان پڑھ نہ کردین ہمدہ خیطرہ سُوْنار جہنم تیار تھوومت یمہ چہ لبہ تہ دیوار آرن
 تمن کافرن پریتھ طرفہ احاطہ کثرت کانہہ دتھاہ اُسہ نہ تمن ژلہ نس۔ وَإِنْ يَسْتَعِيبُوا يَغَاثُوا
 بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بیہ ہرگاہ تم تریشہ دوسہ موکھ فریادوزاری کرن۔ تہنز فریاد سِی سپدہ
 تمہہ آہہ سیت نئس سیاہ پکلم ہیو اُسہ۔ گرم آہہ تیوت نئس دُوری زالہ تھہد تھہ۔ حدیث شریفس منز چھو
 آمت کہ بھٹیک سُوْروی والہ پیٹھ ہنرت تمہہ بہہ سیت۔ بِئْسَ الشَّرَابُ کوتاہہ پیٹھ تہ ناکارہ آہہ بیہ
 چند چیز (پناہ بخدا) تھہدہ خیطرہ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا بیہ کاژاہ پیٹھ جای چھہ جہنم تھہدہ روزنہ خیطرہ (الہی
 نجات) بیہ گو ايمان نہ انه دین ہمدہ ضررک حال۔ اُسہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان با ايمان ہمدہ نفع تہ
 فائدک حال إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا پز پانچہ سمو
 لو کو ايمان اون بیہ کرکھ رتھہ عملہ۔ پز پانچہ اس گرونہ تمن لوکن ہنز مزور ضایع سم جان کوم تہ رتھ عمل
 کرن أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تمنی لوکن ہمدہ خیطرہ چھہ ہمیشہ
 روزیک باغ سمو منزہ کولہ تہ جوہہ آسن پکان۔ يُحْكُونَ فِيهَا مِنْ آسَاورٍ مِنْ ذَهَبٍ تمنی جتن

تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ
يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ
فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا^(۳۱) وَأَصْرِبُ
لَهُمْ مَثَلًا لِرَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا^(۳۲) كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ
إِتَتْهُمَا وَكُلَّتَا مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا^(۳۳)
وَكَانَ لَهُ شِجْرٌ فَقَالَ لِمَ صَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا

اندر آسہ تین لوکن زیور گنڈنہ یوان سونہ سندس کر ڈیلےسون ثیابا خضر اقرن سندس و استبرق بیہ
لاگن تم پوشاک سبز جامن ہند۔ نس زاولہ پایک تہ و سٹھہ پایک آسہ نہ نہ کہہ ون مُتکین فیہا
علی الارایک تین جتن اندر آس تکیہ و تھ پلنگ پیٹھ بہتھ۔ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا کیاہ
رُت ثوابہ و جھویہ بیہ کیاہ ر ژمزوریہ جھہ بیہ۔ بیہ کاژاہ آرام و آسایشہ ہنز جای جھہ بیہ جنت و اصرِبُ
لَهُمْ مَثَلًا لِرَجُلَيْنِ بیہ فرماویو کھ تہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاجہ بے ثباتی تہ بے اعتباری تہ
آخر تجہ باقی پانداری پیٹھ مثال دون شخص ہنز جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا آس شخص آس دتمت آسہ زہ باغ دچھہ کلین ہند۔ سمن لہ لہ آس خضر کل۔
منزہ اوُس زراعت تہ و ونہ اُمّت کَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ اِتَتْهُمَا وَكُلَّتَا مِنْهُ شَيْئًا دو شوے باغ
آس دووان میوہ پٹن۔ ٹنہ کج کمنی آس نہ کران بین باغن ہند پاٹھ۔ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا بیہ آسہ
آسہ بین دو شوئی باغن منز جاری گر مرثہ کولہ وَكَانَ لَهُ شِجْرٌ بیہ آس تس شخص بیہ آسہ وراہ تہ
میوہ جات آمدنی ہند ذراعت۔ بیہ آس اولاد خر گبر فَقَالَ لِمَ صَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ پس دون اُم
شخص پنہ نس رفیس تھہ کران کران اَنَا أَكْرَمُكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا بو جھوس چانہ خوتہ زیادہ مال و

أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۲﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ
ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿۳۳﴾
وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ
خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿۳۴﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهَا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

دولتہ کن۔ یہ چھوس چاہے خود زیادہ عزت و ول اولاد نہ خریو گبر و کن نو کرو چا کرو کن۔ تہ چھوک پنے
نس طریق حق زانتھ خدا نس نغمہ پسندیدہ آسک دعوی کران۔ میںس طریقس چھوک باطل زانتھ
خدا نس نغمہ ناپسند زانان مگر نتیجہ چھواتھ برعکس سپدان۔ کیا زہ دشمن چھونہ کانہہ تہ فائدہ تہ نفع واتا وان
دوستس چھونہ کانہہ تہ نقصان واتہ ناوان۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ تو پتہ ژاویہ
شخص پنے نس اتھ باغس اندر سوریق سیت ہتھ۔ درحالیجہ سو اوس بزم یعنی گھر پانس پیٹھ قانیم
تھاوتھ یعنی خر کس منز اوس بُتلا۔ کبر و غرور ک اوس نغمہ دماغس منز میں لو کن اوس حقیر زانان
قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا دہنہ لوگ مہ چھونہ باسان یہ باغ کیا گڑھہ بُر باد زانہہ میانہ
زندگانی اندر۔ امہ اندرہ اوس نس غرض توحیدس پیٹھ اعتراض کرن اوس رفیقس دوہنن ژے چھکھ
خالق عالم سُنڈ قائل یہ چھکھ ونان کسہ سوزوی چھوتھس اتھ۔ مگر مہ چھونہ گمان کہ طبعی اسبابن کیا ہیجہ
کانہہ مُعطل تہ بے کار کمر تھ۔ مہ چھونہ بوزنہ یوان ہتھ میںس باغس ہتھ کارخانس سمجہ آبادی ہند
ساری سامانہ موجود چھہ کل تہ کلین ہند آب تہ موجود کوم کار کرن وال تہ ساری موجود خرچ
اخراجات کرنہ خیطرہ مال و دولت موجود مالکہ حفاظتہ خیطرہ سامانہ موجود۔ دوئے یہ بر باد گزھہ تہ ہتھ
پاٹھ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً یہ چھونہ مہ خیال کہ قیامت کیا سپدہ قانیم۔ اگر بفرض محال قیامت
آیہ تہ وَلَئِنْ رُجِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا یہ ہر گاہ بو واتا نہ امہ پنے نس پروردگار س
نغمہ بولہ ہتہ سمہ خود تہ بہتر جای۔ ام شخص کمر ژورد دعوی۔ اکھ ای زہ گھر چھونہ قابل مذمت۔ دو تم
کو ژن انکار توحید۔ تر تم کو ژن انکار قیامت۔ ژور تم کو ژن پنن پان خدا یس نغمہ باعزت تہ محترم
ثابت قَالَ لَهُ صَاحِبُهَا سمہ تھ بو ز تھ دون امس پنن رفیقس یس دیندار غریب اوس وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

اَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
 سَوَّاهُ رَجُلًا ﴿۳۸﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿۳۹﴾
 وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 إِنْ تَرَىٰ أَنَا قُلٌّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿۴۰﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن
 يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ
 فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿۴۱﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ

اَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا کیاہ ثبہ کور تھہ توحیدس تہ
 قیاس انکار کرنہ سیت انکار تس پروردگار س تم ثہ پیدہ کور کھ گوڈہ مزہ نشہ تو پتہ کور کھ ثہ پیدہ نطفس
 مئی ہمدس آس۔ تو پتہ کور تک ثہ تیار پورہ انسان۔ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدس انکار کرن گو خدیہ سندس
 قدر تس انکار کرن۔ تہمدس قدر تس انکار کرن گو وارہ تش انکار کرن۔ لَکِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ
 بِرَبِّي أَحَدًا لَکِنَّا سَمِیْک اصل چھو لکن انا یعنی بونس چھوس بو چھوس اعتقاد تھاوان اقرار کران ہمہ سوی
 چھو میون پروردگار۔ بو چھوس نہ پنہ نس پروردگار س کانہہ اکھاہ شریک زانان وَ لَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ
 جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثبہ کونہ پریوتھ پنہ نس باغس اندر اژنہ وزہ۔ بہا اللہ تعالیٰ
 یژھہ تی بنہ۔ کانسہ چھونہ کئی چیز س پیٹھ طاقت تہ قوت تہمدہ مددہ ورای۔ اللہ تعالیٰ ایتس کالس باغ
 روژن یژھہ تیتس کالس روزہ۔ اگر سو یژھہ سو سپدہ ویران تہ بر باد۔ تمندس یژھنس مقابلہ چھہ ساری
 اسباب بیکار۔ تہمدہ مددہ ورای ہیچہ نہ کانہہ سبہاہ کوم کمر تھہ إِنْ تَرَىٰ أَنَا قُلٌّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ہر گاہ ثہ
 مہ وچھان چھٹھ مالہ کن اولادو کن کمی کانہہ غم چھونہ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ مہ
 چھو بوژنہ یوان ہمہ سو وقت چھو نزدیک یلہ میون پروردگار مہ عطا کرہ سو باغ کس بہتر آسہ چاہہ بانہ
 خوتہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا بیہ سوزہ چانس باغس پیٹھ غیبی آفتاہ۔
 آساکہ طرفہ سمہ سیت بیہ چون باغ سپدہ صاف میدانہ ہیو۔ سمہ پیٹھ کھور آسن نیرت ژلان او

لَهُ طَلَبًا ۴۱) وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ ۴۲) فَاصْبِرْ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا
 أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي
 لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۴۳) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۴۴) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ
 لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۴۵) وَأَضْرِبْ لَهُمْ
 مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

يُصِيبُ مَاؤُهُ غَوْرًا فَلَئِنْ تَسَطَّيَعُ لَهُ طَلَبًا ۴۱) یہ گڑھہ تمہن باغن ہند آب زمینس منز شرتھہ پس یہ کھکھ
 نہ ژہ کھنہ صورتس اندر زمینہ کڈت سو آب ۴۲) وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ ۴۲) چنانچہ امہ گفتگو پتے آیہ ولنہ امس شخصہ
 سندین میوہ باغن آسمانی ناگمانی بلاے۔ آنا فانا منز گو یہ بارغ تباہ و برباد ۴۳) فَاصْبِرْ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا
 أَنْفَقَ فِيهَا سُونَا فرمان مغرور شخص لوگ افسوس کران کران گل پین موربہ۔ تھہ ماس نہ لاکس
 پیٹھ ورنہ یوسہ اتھ باغس پیٹھ خرچ کتر مرآسن۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۴۴) مگر اتھ باغس اوس
 امہ ساتہ وجہ و او اُمت۔ سُواوس ڈو کھیوسان پھر پیومت۔ دجھہ باغن چھہ ڈکھہ آسان وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي
 لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۴۵) یہ لوگ سُو شخص ورنہ ای کاش مہ نے آسہا پنہ نس پروردگارس کاہنہ نہ
 شریک ٹھہر وومت۔ تمہس تور فخرہ یہ بلای آیہ کو ٹھس کھرہ سبہ۔ یہ ندامت آس تس نقصان گڑھنہ
 مٹو کہ ۴۶) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۴۷) یہ آس نہ تمہس کاہنہ جماعتہاہ
 سم تمہس مدد کرہ ہن خدا نس وراے۔ نہ ہیوک تم پانہ اسہ نعرہ امیک بدلہ ہتھہ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ
 الْحَقِّ ۴۸) ہتھہ کیاسد ثابت کہ سو روی اختیار چھو ہزس خدا نس اتھہ۔ ہتھس موقفس پیٹھ مدد کرن تہ چھہ
 تہزی کوم هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۴۹) تہندوی ثواب اجر چھو سیٹھاہ رت۔ تہندوی نتیجہ چھو دنیاءس
 منز سیٹھاہ رت وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ۵۰) یہ کتر وٹھہ
 بیان یار رسول اللہ کوکن دنیاچہ زندگی ہنز مثال۔ سنو مثال گنیہ یے کہ امہ کور آسکھہ طرفہ باران رُود

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ
الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٣٥﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ
زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٣٦﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ
تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٣٧﴾
وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ

نازل۔ تمہے آج کہ ذریعہ کھوت زینہ منزہ گھاسہ سر سبز **فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ** کینہہ کالاہ گڑھتھ سپر سوسر سبز گھاسہ خشک نس واون اورہ یور پھسکر وو۔ یوہے چھو حال دہبگ۔ از چھو ترو تازہ بوز نہ یوان۔ کینہہ کالاہ گڑھت چھونہ تمیک نام ونشان تہ باقی روزان **وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا** اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزس پیٹھ پورہ قدر تہ وول **الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** مال تہ اولاد چھہ دُنیاء چہ زندگی ہند اکھ زینتہ تہ نیتاہ ناپائیدار تہ بے اعتبار **وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا** رتہ عملہ چھہ پائیدار ہمیشہ پوشہ ونہ چانس پروردگار س نشہ ثوابچہ اعتبارہ۔ بیہ چھہ تے بہتر امید واری بہدہ اعتبارہ۔ حدیث شریفس منز چھو آمت فرمود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوہ الا باللہ بیہ کلمات ہرن چھہ باقیات الصالحات **وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً** بیہ گڑھہ سووہہ یاد کرن سمہ دوہہ آس کوہ تہ بال پکناو کھہ۔ پنہ نیو جاونہ تلوکہ تہ ڈالوکہ توپتہ کروکھ ریزہ ریزہ۔ سمسٹر گروالس کوہن تہ لرین جاین۔ مکاناتن تہ باغن۔ وچھن ژہ زمین ای وچھہ ونہ نوئی اکھ اندہ پیٹھ بیس اندس تان ہموار تہ برابر۔ نہ آسن کوہ تہ بال کھہ۔ نہ آسن لہہ تہ جلیہ کھہ **وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا** بیہ کڈوکھ آس ساری لوکھ قبر واندہ توپتہ سمہر اووکھ اس محشرہ کس میدانس اندر۔ تمواندرہ چھڈونہ کاہہ اکھاہ **وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا** بیہ من ساری

اَوَّلَ مَرَّةٍ نَبَلُ زَعَمْتُمْ اَلَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۴۸ وَوَضَعَ
 الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ
 يَقُولُونَ يَوْمَلْتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً
 وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ
 لَا يُظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۴۹ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا
 لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلٰسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ

لو کہ حاضر کرنے نہیں دے پروردگار س بروٹھن صنف منزم قیاس انکار کران آس۔ تمن ایہ وینہ لَقَدْ
 جَعَلْنَا لَكُمَا كَلِمًا مَّا خَلَفْتُمَا اَوَّلَ مَرَّةٍ بیٹک تہہ واتوہ اسہ تہہ حاس اندر تہہ منزاسہ تہہ گوڈنی پیدہ
 کمرمت آسوہ یعنی نئی تہ چھنی توبہہ وچھوہ گوڈنچ پیدایش مگر پڑھ کثروہ دوبارہ بیہ پیدہ سپنس بل
 زَعَمْتُمْ اَلَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا بلکہ اوس توبہہ خیال کہ آس کرہ وی نہ تہندہ خپترہ پین وعدہ پورہ
 کرنگ کاہنہ وقاہ مقرر وَوَضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ بیہ سن تمہ
 دوہہ لوکن ہنزان عملن ہند دفتر تمن بروٹھن تراونہ۔ کانہہ دن دچھنس آتھس کیتھ۔ کانہہ دن کھو فرس
 آتھس کیتھ۔ پس وچھو کہ تہہ کافر کھوژان تہ نشان تمہ سیت بیہ تہہ منز لیکھت آسہ وَيَقُولُونَ يَوْمَلْتَنَا
 مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا بیہ ونن ہای افسوس کیاہ گوسانہ حقہ۔
 تم سان نامہہ اعماکن چھونہ ترودمت کاہنہ لوٹ گناہ نہ کانہہ بوڈ گناہ ٹس نہ لیوکھمت تہ درج چھن
 کورمت۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا بیہ لمن تم پنتہ سارے عملہ تمہ تمو کر مرہ آسن عمرہ دنیاءس
 منز پانس بروٹھ کنبہ وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا تہند پروردگار کرہ نہ ظلم کانہہ سیت۔ نہ کورمت گناہ
 کیا آسہا کانہہ شخص لیکھنہ آمت۔ یاثر مژنیکی کیا آسہا کانہہ شخص لیکھنہ روز مژر وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ
 اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلٰسَ بیہ چھو قابل ذکر سو وقت یلہ آسہ حکم کور ملاکن کہ سجدہ دیدہ
 آدم علیہ السلامس بروٹھ کنبہ۔ پس دیت تمو سار یو سجدہ ابلیس وراہی۔ ابلیس آس تیوہ عبادت کمر مژ

أَمْرِيهِ أَفْتَتَّخِذُ وَنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ
لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدُ تَهُمْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخَذَ
الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ

سُوْتِہ اوس ووثمت ملائکن ہندس در جس۔ تمی آوتمنس تہ ملائکن سیت سجدک حکم کرنہ مگر تم ڈیت نہ
سجدہ کان من الین ففسق عن امر ربہ سو اوس جنو آندرہ نس در او سو نپہر پنہ نس پروردگارہ سندہ
حکمہ نشہ عدول حکمی کرن۔ یعنی سجدہ دشمن نہ۔ سو نیلہ وون نہتھ شریر چھو افتتخذونہ و ذریتہ
أولیا من دونی و ہم لکم عدو ای بنی آدمو، ای انسانو توبہ چھو نہ سو ابلیس تہ تہنز ذریت بو معبود
برحق تراوتھ جن دوست زانان۔ حالانکہ سو چھو تہند سخت دشمن۔ کاژا چھہ شرمہ ہنز کتھ کہ سو تہند
دشمن تہندس بابہ صیب حضرت آدم علیہ السلامہ سند دشمن سو چھون تہہ زانان دوست ہن بو تہند
مہربان دوست آتھ میان چھوہ کران نافرمانی۔ حیف صد حیف تہنزہ عقلہ پیٹھ۔ بئس للظالمین بدلًا
یہ ابلیس تہ تہنز ذریت دوست بناون چھو ظالم ہندہ خیطرہ سیٹھاہ پیٹھ بدل۔ دوست گرہوس زانن تہ
رئن بو۔ تھ بدل چھوہ دوست رنان شیطانس۔ نس تہند دشمن قوی چھو۔ مَا أَشْهَدُ تَهُمْ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ مہ چھنہ تم شیاطین سیت رٹمت آسمان وزمین پیدہ
کر نکہ وقتہ۔ بیہ چھم نہ سیت رٹمت تمہ ساتہ سمہ ساتہ تم مہ پیدہ کر۔ تم کیاہ پر تھہ ہا بو کہ کتھہ پاٹھ
کرہ بو آسمان تہ زمین پیدہ۔ یا کتھہ پاٹھ کر وہ بو تہہ پیدہ۔ یا پر تھہ کتھ کہ یہ کورہ مہ جائے کتھہ جاہ
ما چھوس ہیور بون گو مت وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخَذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا بو اوس نہ تمہ قسمگ ناقص
قدرتس اندر بو کیاہ رٹہ ہک گمراہ کرہ ون میانس بدن جن مددگار یا بو کیاہ ہمہ ہا تم نشہ کا نہہ مشورہ
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ سُدُوْهُ تہ چھو یاد کرہ نس

مَوْبِقًا ۵۲ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَ
لَمْ يَحِجُّوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۵۳ وَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا ۵۴
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا
رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
الْعَذَابُ قُبُلًا ۵۵ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ

لائیق سیمہ دوہمہ اللہ تعالیٰ فرماوہ مُخْرَکَن تَلا آلودیو پَنتہ مددہ خَیْطَرہ تَمَن مَعبودان باطلن تَم مِیان
شَرِیک آسُوکَہ زانان۔ تو پیتہ دکھ آلو۔ تورہ ونہ تکھ نہ تم کانہہ جواب سیمہ سیت تم مایوس سیدن
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا بیہ گرو آس تَمَن منز نُھوراه اکھ نارہ خند قاہ بُس سخت مُہلک آسہ
وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا بیہ دَھن نافرمان نار جہنم یقین کرن کہ تم چھہ واتہ ون
اتھ نار س منز و لَمْ یَحِجُّوا عَنْهَا مَصْرِفًا بیہ لَمَن نہ تَمَنہ نَشرہ کَھنہ وتھہ۔ وَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا
الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ پَنز پات بیہ کور آسہ بیتھ قرآن مجید س منز بیان لو کن ہندہ ہدایتہ
خَیْطَرہ پری تھ کتہ قسک مضامین وار بیہو طریقو وَقَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا مگر باوجود آں چھو
انسان ساروی خوتہ ہر تہ قضیہ تہ تنازعہ کرہ ون وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ بیہ رُش نہ لو کہ کتہ چزن پتہ ایمان انہ نَشرہ۔ بیہ پَنہ بُس پروردگار س مغفرت مکنہ
نَشرہ۔ تَمَن نَشرہ ہدایت واتھہ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا مگر تمی
چیزن کہ تَمَن پیٹھ تہ کیاہ کُڈرہ سُوی حال بُس بردن تھن نافرمان پیٹھ کُڈرہ یومت اوس یا ولتہ تَمَن عذاب
تھن بردن تھن وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ بیہ چھکنہ آس سوزان حضرت انبیاء و
مرسلین مگر با ایمان فرما نبردان بشارت ونہ خَیْطَرہ۔ بیہ کافر نافرمان عذاب ک نیم کرنہ خَیْطَرہ۔ تمکہ
ثبوتہ خَیْطَرہ چھہ آس تَمَن کافی دلیلہ عطا کران۔ تمود لیلو خوتہ زیادہ چھہ تَمَن نَشرہ تم فرما شئی معجزہ

وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا
 بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿۶۱﴾ وَمَنْ
 أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ
 يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي
 آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا
 إِذًا أَبَدًا ﴿۶۲﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهم بِمَا

ژهانان۔ یہ چھو لغو تہ بیکار و مجادل الذین کفروا بالباطل لیُدْحِضُوا به الحق یہ چھہ کافر ایزہ
 کتھ پیش کمر کمر ہر تہ قضیہ لاگان۔ چھہ پنہ خیالہ ہر س مغلوب کرن۔ تہ ہنہ نہ۔ پوز چھو ہمیشہ غالب۔ سو
 سپدہ نہ مغلوب زانہ تہ واتخذوا الیاتی وما انذروا ہزواً بہ چھہ تموسان آیات بہ سمہ عذابک بیم
 آو تہن کرنہ روئمت تہ زومت اکھ ٹھٹھاہ تہ مسخر گیا۔ ومن اظلم ممن ذکریا لیت ربہ فاعرض عنها
 بہ سمہ اکھاہ چھو زیادہ عالم تس شخصہ سدہ خوتہ لیس خدایہ سند یو آیا توسیت نصحت کرنہ آیہ۔ تو پتہ پھیر
 تم تمو آیا تو نشہ چھہ ونسی ما قدمت یدہ بہ مشراون تم گناہ تم تم پنہ نیو اٹھو بروٹھ کن سوزمت
 چھہ۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان ینفقہوہ و فی آذانہم وقرا ہر پاپ اسہ چھہ تراومت
 تہندین دلن پیٹھ پردہ۔ چھہ نہ تمہن خدایہ سند آیات فخرہ ترن۔ بہ چھوک تراومت کنن ووگہ تہ زرتی
 سبہ چھو تہند حال کہہ وإن تدعہم الی الہدی فلن یتدوا إذا ابدا ہر گاہ تہہ تہن دعوت ویو
 ہدایتس کن تم لبن نہ ہدایت زانہ تہ۔ لہذا کیا زہ چھوہ تہہ بران امیک غم۔ تمکن چھو تاخیر عذابہ سیت
 خیال گوتھان کہ شاید تمکن آسہ عذاب کہینہ۔ مگر تاخیر عذابک وجہ چھو کہہ وربک الغفور ذو الرحمة
 تہند پروردگار چھو سیٹھہ مغفرت کرہ ون رحمتہ وول۔ کس چھو سو تہن مہلت ودان سمہ کتھ موکھ کہ
 شاید تمونزہ ماسپدہ کاہنہ مسلمان۔ کس کرہ اللہ تعالیٰ مغفرت تہ گتھن گذران لویواخذہم بما
 کسبو العجل لہم العذاب ہر گاہ سو تہن تہنز ویچھہ عملو سببہ گرفتار کرن یشہہ ہاتلہ کرہ ہاتھن پیٹھ

كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا لَنْ يَجِدُوا
 مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ۝۱۸ وَتِلْكَ الْقُرْآءُ أَهْلَكْتَهُمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
 لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝۱۹ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ

جلد عذاب نازل بَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا مگر تم چھو تہندہ عذابہ خیرہ اکھ وقاہ
 مقرر کورمٹ سمیہ نغہ نہ تم ہرگز کا نہہ چھین جایاہ لکن۔ یوہے قاعدہ آواستعمال کرنہ بروٹھمن کافر ن تہ
 نافرمان سیت تہ چنانچہ وَتِلْكَ الْقُرْآءُ أَهْلَكْتَهُمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا سمیہ بستی تمن
 ہند قصہ معروف و مشہور چھہ۔ یعنی قوم عادتہ نمود و غیرہ یلہ تمو ظلم کور نافرمانی کتر آسہ اوس تہندہ
 ہلاک کرنہ خیرہ وقاہ مقرر کورمٹ سو وقت دو ٹھ گئے ہلاک۔ تھ پٹھ چھو اسہ تمن از کین کافر ن تہ
 ٹھندین دشمن ہندہ خیرہ وقت مقرر کورمٹ۔ سو وقت یلہ و اتیکھ تم تہ گڑھن ہلاک تہ بر باد۔ بروٹھ
 آو بیان کرنہ کہ کافر ن ہند فقیر مسلمان سیت شریک تعلیم عار زان چھو سیٹھاہ چھہ اللہ تعالیٰ چھو
 فرماوان موسیٰ علیہ السلام قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود جلالت قدر تمو کرنہ کانہ عار خضر
 علیہ السلامس تم تمن نغہ بون مرتبس تہ در جس منز آس تمن نغہ علم حاصل کرنس اندر۔ تمیک وجہ
 سڈ ای کہ اکہ دوہہ پور حضرت موسیٰ علیہ السلام و عظ بنی اسرائیل ہندس جماعتس منز۔ تھہ مجلسہ
 اندر پڑ تھہ اک شخص تمن کہہ از کہ وقتہ کین لوکن اندر سہہ حض شخص چھو ساروی خوتہ بوڈ عالم۔ تمو
 فرمودہ کھہ بوچھوس ساروی خوتہ بوڈ عالم۔ اگرچہ یہ اوس بالکل صحیح لیکن اللہ تعالیٰ ان یڑھ یمن کلام
 کرنس اندر احتیاط کرنیج تعلیم کرن اللہ تعالیٰ ان فرمودہ تمن ای موسیٰ یہ کھہ پٹھ و نوہ توہہ۔ حالانکہ
 مجمع البحرین یہ نس زہ در بیانہ وان رلان چھہ مصل چھوسون اکہ بندہ۔ نس بعض چیزن اندر ٹھندہ خوتہ
 زیادہ عالم چھو۔ تمن سڈ تہندہ ملاقاتک شوق تھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ
 سو وقت پاوڈو تھس یلہ موسیٰ علیہ السلام دوپ پنہ نس خاد مس یوشع ابن نونس (تم آس ابتداءس
 اندر حضرت موسیٰ سند خاد م پتہ سڈ پیغمبر) یلہ تمن حضرت خضرس سیت ملاقات کرنہ گڑھن
 آوس اللہ تعالیٰ اس پڑ تھہ تمو خدایا تمن نغہ و تھ کیاہ صورت چھہ ارشاد سڈ کہ اکہ بُرت گاڈہ ہاتلو
 سیت تہہ تو پتہ نیر و سفرس۔ تھہ جایہ سو گاڈ زندہ گڑھت لوکرہ منزہ راوہ تھہ جایہ لیون تہہ سو

أَبْلَغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَى حُقْبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ
 بَيْنَهُمَا نِسْيَا حَوَّتُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا
 جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي نَادَيْتُكَ يَا لَقْدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾
 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا
 أَنْسَيْتُهُ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَذْكَرَهُ وَأَتَّخِذَ سَبِيلَهُ فِي

صاحب لا ابرو حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبًا یوروز نہ توتان پتہ یوتان نہ بولوات مجع البحرین۔ ادہ پے تن مہ وارمین ورمین سفر کرن فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا نس یلہ پکان پکان وات تم مجع البحرین یت نس زہ دریانہ وان رلان تہ میلان آس توتس واتتہ رود تم کس کتہ پلس سیت ڈوکہ دتھ تھکھ دہ۔ تھہ حاس اندر پیہ تم نندر سنو گاڈ سپز ٹوکرہ اندر بجکم خدا بیہ زندہ تو پتہ ڈژہ سو دریاس اندر۔ یوشع علیہ السلام یلہ بیدار سپدانہ وچھکھ نہ ٹوکرہ اندر گاڈاہ کینہہ تہ۔ ارادہ کورکھ یلہ حضرت موسیٰ تہ بیدار سپدن تمی ساتہ کرہ بو تم نیشہ بیہ واقعہ بیان۔ مگر یمین روزنہ مطلق یہ تھہ ذہنہ اندری۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تم ن دوشون گنیہ گاڈہ متعلق تھہ باتھ کرن مشرت۔ نس ہنو تمہ گاڈہ پن و تھہ دریاس منزگیہ اکھ سرونگاہ تہ گوچاہ نس گاڈہ ہندہ پختہ سیت فلما جاوزا تم زہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہ حضرت یوشع علیہ السلام یلہ امہ جلیہ نشہ برو تھگن پک بوچھہ لکھہ۔ قال لفتاہ ایتنا عداۃنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا موسیٰ علیہ السلام فرمو خاد مس پنہ نس کمر و پیش کون حون کھینہ خیرہ۔ اسہ تل تکلیف تھہ سفرس اندر۔ سمہ برو تھہ دہن منز لن پختہ سیت و اثر ونہ اسہ کانہہ تکلیفہ قال آریت اذ اوینا الی الصخرۃ ونس اس یلہ تھہ بحر کتہ تل و اثر اے یتہ نس تھک کڈنہ روزاے قانی نسیت الحوت و ما انسینہ الا الشیطان ان اذکرہ بیشک مہ گو مشرت گاڈہ ہند قصہ تو بہہ نشہ بیان کرن۔ تہ مشروونہ مہ مگر شیطان۔ مہ آونہ ذہنہ اندری سو معاملہ پیش کرن واتخذ سبیلہ فی البحر عجبًا تمہ گاڈہ یوسہ

الْبَحْرُ عَجَبًا ۷۳ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۷۴ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا
 قَصَصًا ۷۵ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
 وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۷۶ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ
 أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَنِي رُشْدًا ۷۷ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
 مَعِيَ صَبْرًا ۷۸ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۷۹
 قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۸۰

اسے بڑھ آس تھا و مرثو کرہ اندر کا جس کھینے خیرہ سو گویہ زندہ تو پتہ نچن دو ٹھہریہ ہنوں و تھہ دریاوس
 کن عجیب طریقہ۔ دریاؤک آب رُود معلق تھہ گویہ گوچہا ہش زبٹھہ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ موسیٰ علیہ
 السلامن فر مووی اوس تہ یہ آس ژھانڈان آس۔ ژہیہ کونہ و نیو تھہ تھہ جلیہ یہ قصہ فَارْتَدَّ عَلَىٰ
 آثَارِهِمَا قَصَصًا پس پھیر تم اتی پیٹھہ واپس پنہ نیو کھورن ہندیونشانو موجب۔ واتان و اتان وات
 تم بہیہ تھہ گنہ ٹھہٹل۔ تھہ سیت ڈوکھ و تھہ تم نندر پیٹھہ آس فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً
 مِّنْ عِنْدِنَا پس لوب تموسا نیو بند و آندرہ اکھ بندہ یعنی ملاقات کورکھ حضرت خضر سیت پس
 اسہ عطا کر مرث آس پنن بڈ رحمت نبوت یا ولایت وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا بہیہ اوس اسہ سو خضر علیہ
 السلام پکھو و مت پنہ طرفہ اکھ خاص علمہ۔ موسیٰ علیہ السلام اوس زانان علم اسرار الہیہ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ
 هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَنِي رُشْدًا موسیٰ علیہ السلام ڈوپ تم کیا حض بو پکا توہہ سیت
 سیت تھہ شرطس پیٹھہ کہ تھہ کیا پکھنا و دومہ تمہہ علمہ منزہ کینہہ پس مفید علم تھہ پکھناونہ آمت چھوہ قَالَ
 إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا خضر علیہ السلامن دوپکھ تھہ نہ حض ہیکونہ مہ سیت روزس پیٹھہ
 صبر کر تھہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا بہیہ تھہ پاٹھہ ہیکونہ تھہ تھہ پیٹھہ صبر کر تھہ تھہ
 توہہ احاطہ کورمت آسوہ پنہ علمہ سیت۔ یعنی یوسہ کہ نہ توہہ معلوم اسہ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
 صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا موسیٰ علیہ السلامن دوپکھ بو ژھہ خد اسن تھہ لبومہ صبر و ضبط کرہ ون۔ بہیہ

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۱۰ فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۝
 قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝۱۱
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۱۲ قَالَ لَا
 تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝۱۳
 فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا الْبَيَا عُلْمًا فَوَقَّتَهُ ۝ قَالَ أَقْتَلْت

کرہ نہ ہو توہم نے کامیہ اندر نہ فرمانی قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا خضر علیہ السلام دوپٹھ ہر گاہ تہم مہ سیت روز و تیلہ بیٹھنہ مہ پر ژھونکہ چیزس متعلق یہ کیا زہ نہ یہ کونہ۔ یوتان نہ بوپانے توہم بیان کرہ تہم متعلق کاہنہ کتھاہ فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا توپتہ پنک تم دوشوے صاحب بروٹھکن۔ بیٹھہ اوس تہن دریا و س تار وین۔ تمہ موکھ کھست آس تارہ ناوہ پیٹھ ناوہ والیو پرزہ نوو خضر علیہ السلام تمو ڈتھک پور تار مفت اجر تہ ورا۔ خضر علیہ السلام کور اتھ ناوہ نمس سوران تہ گڈ۔ سونو اکرن عیب دار۔ قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا موسیٰ علیہ السلام دوپٹھ کیا حض اکھ ڈیت سمونو ناوہ والیو اسہ تار پور تان مفت اجر تہ ورا یہ کور وکھ توہم اتھ ناوہ سوران۔ سم لکھ بچارہ پھکن ناوہ سوران سپد نہ موکھ آس لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا توہم کڑوہ یہ عجیب کاماہ۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا خضر علیہ السلام دوپٹھ مہ وینو وہ ناتوہم تہم نہ حض ہیکونہ مہ سیت روز نس پیٹھ صبر کر تھ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا موسیٰ علیہ السلام دوپٹھ مہ حض گو ٹمشت۔ اتھ پیٹھ مہ کڑوہ مہ باز خواست۔ بیہ مہ کڑوہ اتھ معاملس پیٹھ مہ پیٹھ زیادہ تنگی فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا الْبَيَا عُلْمًا فَوَقَّتَهُ قَالَ أَقْتَلْت نَفْسًا ذَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكْرًا پس پک تم تاہنکہ سمکھ تہن لوٹا اکھ۔ خضر علیہ السلام روٹ سو لوٹ توپتہ چورس ہوٹ تہ موزن۔ حضرت موسیٰ ان دوپٹھ کیا حض

نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿۴۲﴾
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿۴۵﴾
 قَالَ إِنْ سَأَلْتِكِ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ
 مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿۴۶﴾ فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا
 أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
 يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَمَخَّدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿۴۷﴾ قَالَ
 هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ

توہمہ موروثہ کہ مہموم تہ بے گناہ شخصہ تھے کانہہ مجرم کرنہ وراہی۔ کانہہ ہند خون کرنہ وراہی۔ یہ تہ
 کروہ توہمہ کہ عجیب کوماہ تہ بے جا حرکتہاہ **قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا**
 حضرت خضر علیہ السلامن دوپکھ مہ و نیوہ نا توہمہ تہہ بیحونہ مہ سیت پکہ نس پیٹھ صبر کمر تھہ۔ **قَالَ إِنْ
 سَأَلْتِكِ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي** حضرت موسیٰ ان دوپکھ ادہ حض وون ہر گاہ بو توہمہ بیہ
 پر ژھوہ کنہہ چیز ک تمہہ پتہ مہ رو تہہ مہ پانس سیت **قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا** واقعی تہہ پھوپانس
 سیت رٹہ نس منز میون بیہ ونن کافی عذر **فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ
 يُضَيِّفُوهُمَا** پس پنگ تم بردنٹھ گن بیہ۔ تاہیکہ وات تم آس گاس منز۔ یتہ کین لوکن مچ تمو ضیافت
 مہمان نوازی مگر تمو لو کو کر تین مہمان نوازی کرنہ نشہ انکار پس رود تم رات راتس فائے۔ صکس یلہ
 درائے تم امہ گامہ منزہ **فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ** پس وہجہ تمو اتھ گاس منز
 دوساہ اکھ دیوارہ اکھ ہول گومت۔ تیار اوس تینس۔ خضر علیہ السلامن لوگ تھہ دیوارس اتھہ۔ سہ دیوار
 کورکھ سیود روحانی طاقتہ سیت **قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَمَخَّدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا** موسیٰ ان دوپکھ کیا حض اکھ کمر نہ
 سموسان مہمان نوازی۔ بیہ کورکھ توہمہ مٹتے ہول گومت دیوار سیود۔ ہر گاہ تہہ انج اجرت تہ مزدور

صَبْرًا ۸۸) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِدَّهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ لِكُلِّ سَفِينَةٍ
غَصْبًا ۸۹) وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۹۰) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً
وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۹۱) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي

وصول کمر ہوئے اوس بہتر قَالَ هَذَا قِرَاءَتِي وَيَتِيمٌ خضر علیہ السلام دو کچھ بس وون بہتہ بہتہ
تھہ پیٹھ مہ منزہ توہہ منز جدالی ہند فیصلہ۔ سَأَلْتَنِيكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وون کرہ بو توہہ
خبر تم کتھن ہندہ تحقیق تمک پیٹھ توہہ صبر نہ تاب ہو کوہ نہ کمر تھہ۔ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ
يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِدَّهَا وون یوسہ ناو آس سو آس کینون غریبن مسکین ہنز تم بہتہ
دریاوس منز ہن مزور محنت کمر تھہ گذارہ کران آس۔ مہ کورارادہ تم فائدہ واتاوندہ خیطرہ تہنز
ناوعیب دار کران۔ وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ لِكُلِّ سَفِينَةٍ غَصْبًا کیاہہ تم لپارکن اوس اکھ ظالم
پادشہا اکھ بس پر بہتہ ارہ ناوہ (بے عیب) اوس جبر اقبضہ کران۔ یاہانزن (ملاحن) بیگارہ نوان۔ مہ
کر تہنز ناوعیب دار۔ بہتہ تم تہندہ ظلمہ نشہ نجات لبس وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ وون بس
لوگت اوس تہندہ مول موج آس باایمان۔ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا بس کھوڑ اس سہ گڑھہ
نہ تمک پیٹھ کران سختی نہ سر کشی گھرہ سیت تمک گڑھہ نہ سہ سبب بنن ایمانگ سلب کرنگ فَأَرَدْنَا أَنْ
يُبَدِّلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا بس یڑھہ اسہ یہے تھہ کہ تہندہ پروردگار دیہ تمک بس
لوگتس بدل تہندہ خوہ بہتر نہ رت فرزند پاکیزگی اندر یہیہ زیادہ نزدیک شفقت و بخش اندر۔ دپان چھ
امہ پتہ کمر اللہ تعالیٰ ان تمک دون باذن کور عطا۔ بس کورہ کج آو کر نہ اکس پیغبرس سیت۔ توپتہ بس
فرزند زاو تمک سوہ اوس پیغبرے۔ بس باعث ہدایت بنیو و بدس اکس قومس وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ
لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وون بس دیوار اوس سہ اوس شہرہ کین دون تیمک ہند وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ

الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۷۱ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۷۲ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝۷۳ فَاتَّبَعِ سَبِيلَ ۝۷۴ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْجُبُ فِي عَيْنٍ

لَهُمَا اتھ دیوارس تل اوس خزانہ یمن دون لوکٹین ہند **وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا** بیہ اوس یمن دون لوکٹین ہند مول موج صالح تہ نیک۔ تمن ہندہ نیک آسکھ سببہ تھا واللہ تعالیٰ ان یمن دون لوکٹین نابالغن ہند مال محفوظ۔ ہر گاہ دیوار دستھ پیہ ہاتھ تھندس ماس سپدہ ہالوث۔ سوگرشہ ہاضیح **فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ** کس یوژہہ چان پروردگارن تم گڑھن واتن چنہ نس بلغ سپدس توپتہ کڈن تم پائے پن خزانہ۔ یہ آس چانس پروردگارہ سز کمال رحمت تھندہ حقہ۔ **وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي** بیہ کمر نہ مہ تم چیز پائے بلکہ کرم خدایہ سندی حکمہ۔ **ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا** بیہ کیاہ چھ اصل حقیقت تمن تھن ہنز تمن پیٹھ توہہ تاب تہ صبر بیکوہ نہ کرنت **وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ** بیہ چھ لوکھ پرژھان توہہ یار رسول اللہ ذوالقرنینہ سُد حال **قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا** نہہہ فرما یو کہ بُو کرہ بیان توہہ عنقریب تھند حال۔ سہ ذوالقرنین اوس اکھ پادشاہا جلیل القدر **إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ** پز پائٹ اسہ کر عطا تمن تمام روی زینچ سلطنت بادشہت **وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا** بیہ کراسہ تمن پریتھ کھنہ قسمگ سامان عطا۔ سمہ سیت تم چنہ نین شاہی ارادن تہ عزامن پورہ ہیکان آس کمر تھ **فَاتَّبَعِ سَبِيلًا** کس رود تم تمن سامان تہ ذرا یمن پتہ سمو سیت تم واتھہ بیچہ ہن آفتاب غروب سپد نچہ جایہ **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْجُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ** تالیکنہ یلہ وات تم آفتاب لو نچہ جایہ وچھن سہ آفتاب لوسان اکس کر ہنہ رہہ ہندس ناگس اندر

حَبِئَةٌ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ
تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۗ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ
فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ۗ وَأَمَّا مَنْ
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا
يُسْرًا ۗ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ
عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۗ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا یہ وہ چھن تھے کہ قوماہ کافرن ہند قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ
تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اسے فرمود تم میں سے ذوالقرنین۔ اختیار چھوئی تھے سانسہ طرفہ خوش کری تم میں سارنی
کر عذاب۔ تم ساری مارا کہ یکدم۔ ہرگہ خوش کری تم میں پیٹھ تھا واحسان یعنی یمن کر دین جھک
تبلغ۔ اڈہ بس۔ سموا ندرہ اسلام قبول کرہ سوتراون۔ بس مہ واتا وئکہ قسمہ تکلیف۔ بس۔ سموا ندرہ انکار
کرہ سوزن ہلاک۔ چنانچہ تم کو دویم تھے اختیار قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا چنانچہ تم کو اعلان کہ بس اکھاہ ظلم کرہ کفرہ تہ انکارہ سیت۔ بس گرو اس ضرور
عذاب یعنی سہ کروں قتل اس۔ تو پتہ ایہ سو واتا نہ پنہ بس پد وردگار سہ نشہ سہ کر بس تھے سو عذاب بس
نہ تم وہ چھموی اسہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ یہ بس میانہ دعوت و تبلیغہ پتہ
ایمان آنہ تہ رتہ عملہ کرہ تسدہ خیرہ چھہ آخر بس منزر تر مزور وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا یہ
وَنُوَاسِ بس دنیاء س اندر پن اہل تہ آسان احکام تھے اتبع سببًا تو پتہ ہیوت سلطان سکندر سز تہ
سامانہ کرن مشرق بس گودھہ خیرہ تا اینکه مشرک شہر تہ کرن فتح حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ
وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا تا اینکه یلہ دوت سو آفتاب کھسہ نچہ جایہ وہ چھن
سو کھسان اس قوس پیٹھ یعنی تھے جایہ وہ چھن کہ قوماہ آباد۔ اوس نہ کورمت اسہ تم آفتاب نشہ کاہنہ
ٹھوراہ۔ یعنی تم لو کہ آس نہ لرین تہ جان یا جس منزر روزان۔ بلکہ آس تم تھے سی تا بس منزر روزت

بِمَالِدِيهِ خُبْرًا^{۹۱} ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَبِيًّا^{۹۲} حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ
وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لِيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا^{۹۳} قَالُوا يَا
الْقَرْنَيْنِ إِنَّا يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ
نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا^{۹۴} قَالَ مَا
مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
رَدْمًا^{۹۵} أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ

زندگی بسر کران۔ لباسہ تہ پوشاکہ وراى گنڈلک اتھہ جایہ تہ کور سلطان سکدرن سؤى معاملہ نئس
مغرئس منز کریون وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالِدِيهِ خُبْرًا پنز پاٹھ اسہ اوس احاطہ کورمت تھہ ساری یہ نئس
حاصل سپدمت اوس اتھہ سفرس اندر پنتہ علمہ سیت ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَبِيًّا توپتہ ہیوت سلطان سکدرن سنز تہ
سامانہ کران سفر کر نئک شمالی علاقئس کن حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لِيَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ قَوْلًا واتان واتان ووت سؤدون کوہنہ دَرَن منز باگ۔ تمَن کوہنہ دَرَن اپاران وچھٹھہ اکھ قوم
سم نہ نئئہ کچ کتھاہ بوزان آس۔ نہ آسہ ہنزہ کتھہ فجرہ تران قَالُوا يَا الْقَرْنَيْنِ تمودوپ آخر کانسہ
ترجمانہ سندہ ذریعہ ای ذوالقرنین إِنَّا يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ پزپاٹہ تہ چھہ یاجوج
ماجوجن ہنزہ اکھ جماعتھہ سمو سیٹھاہ تباہی چھہ کمر مژتھہ علاقئس اندر فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ
نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا نئس تھنہ اجازت چھہ اس گرو تھنہ خپترہ کہینہہ رقم چندہ کمرت جمع تھہ شرطس
پٹھہ کہ تھہہ کیاہ کمر و بنا آسہ منز تہ تمَن منز اکھ مضبوط قلابیہ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ سلطان سکدرن
دو پچھہ نئس مال و دولت مہ پزن پروردگارن عطا کورمت چھو۔ سو چھو سیٹھاہ بہتر۔ مہ چھنہ ضرورت
تھنہہ چندہ کمر تھہ رقم جمع کر نئج فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ہر گاہ تھہہ مہ سیت
تعاون کران یثھان چھوہ تیلہ کمر و تھہہ مہ مد پنتہ طاقت و محنتہ سیت۔ تاہنکہ بوکرہ توبہہ منز تہ تمَن منز
اکھ بوڈ قلابیہ محکم تہ مضبوط قانیم أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ تھہہ و اتا و مہ نئس شترک بڈ بڈ کمرہ تمیک قیمت

انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُّونِي أَفِرُّغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۖ ﴿۹۶﴾
 فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۚ ﴿۹۷﴾ قَالَ
 هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ
 وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۗ ﴿۹۸﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجًا فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ
 فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۗ ﴿۹۹﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ

ترورہ توہمہ سرکاری خزانہ منزہ۔ اتی ان تموشستر و لکرہ تمہ پتہ تھا وہ کہ تم آکھ اس پیٹھ لاکھ۔ تھہ پاٹھ دیوارس منزمنہ سیرہ ہتھہ تھاوندیوان۔ منزہ برہ ہگ ژنہ تہ زین۔ بیہ گنجھہ اتھ لہر لہر دمن بستہ۔
 حَتَّىٰ إِذَا سَادَىٰ بَيْنَ الصَّدَّائِنِ تَالَيْلَةَ يَلِيهِ تَمَمَ شِشْتَر كَهْفِجَہ برابر سپرہ کوہ تالین سیت دوشوی طرفو۔ قَالَ
 انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا دوپہکھ ویو اتھ ژکھ توپتہ دیوس دمن بستوسیت پُھو کہ۔ ادہ یلہ یہ شستر سوزی تنگل ہیووزلیو قَالَ اتُّونِي أَفِرُّغْ عَلَيْهِ قَطْرًا دوپکھ دون انوترام سوتر اوواتھ پیٹھ کار تھ۔
 چنانچہ تہ تہ آو کرنہ۔ توپتہ سپد دیواراہ اکھ تہ قلاباہ اکھ قائم سیٹھہا تھودتہ بلند فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ
 وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا بیہ پشول آسجہ سبہ سپد یہ تھوی کہ یاجوج ماجوجو ہیو کہ نہ اتھ پیٹھ کھنتھ۔ بیہ ہیو کھ نہ تھ گودتہ سورخ ٹر تھ ٹنہ جلیہ۔ اتھ ہتھہ ونان سد سکندری قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ
 مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا سلطان سکندرن دوپک یہ دیوار تہ یہ قلاے بنلاے تہ باتمام وان ہتھ محض میانس پروردگارہ سنز بڈ مہربانی۔ مگر یلہ اللہ تعالیٰ سند وعدہ
 قیامت واتھ دیوارس گرہ سمستر میانس پروردگارہ سند وعدہ جھو حق تہ پوز وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجًا
 فِي بَعْضٍ تمہ دوہنہ گرواس ہنز حالت امہ کج کہ تم آسن او اؤین منز اٹران۔ تھہ پاٹھ آبک موج ہتھہ اکھ آس منز اٹران۔ نیرن امہ جلیہ منزہ نیر فوجو فوجو۔ امہ پتہ آسہ قیامت۔ چنانچہ کینہہ کالاہ
 گڑھت پیہ پوغس منز گونیک پُھو کہ دند۔ تمہ سیت سپدہ سوزوی عالم فنا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ توپتہ لیہ دو تم پُھو کہ دند پوغس اندر سمہ سیت ساری بیہ زندہ سپدن فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا پس کرو کہ آس ساری

عَرَضًا ۱۰۰ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۱۰۱ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۱۰۲ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۱۰۳ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۱۰۴ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۱۰۵ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِبَابِيتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا

جمع کہ کہ محشرہ کس میدانس اندر وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا تمی دودہ انون اس نار جہنم کافرن برونھ گن دارہ کارہ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاٍ عَنْ ذِكْرِي یمن کافرن ہنزہ اچھ آسہ پردن تہ ٹھریں تل پو شیدہ میانہ یادہ لغہ۔ یعنی درنیٹھ اوسکھ نہ بیوان مین آیات قدرت سمہ سیت بوہمہ بھھ ژٹس۔ میون کرہ ہن یاد وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا بیہ آس نہ تم قرآن مجیدک آیات بوزنک تہ طاقت تھاوان أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ کیاہ گمان چھا کافرن کہ میانین ہندن کیا بناؤن تہ رٹن پرستش کرت مہ مقابلہ پن مددگار۔ تہ نہ نہ ہرگز إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا کیاہ اسہ چھو یعنی کافرن ہندہ خیطرہ نار جہنم تیار تھوومت گوڈنی پیش کرنک اکھ چیزہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا فرما بوکھ ٹہہ یارسول اللہ ﷺ اس کردوہ توبہہ بیان کہ کم لوکھ آسن سیٹھاہ نقصان و تاونس اندر عملکون۔ یعنی کمن ہنزہ عملہ گروھن ضالع تہ بے کار الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا تم چھ پنہ جاہہ گمان کہ تم چھہ یہ رٹکاہہ کران اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِبَابِيتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ مگر حقیقت چھ یہے کہ تم گے تمہو انکار کور پنہ نس پروردگارہ سندین آیاتن بیہ تسدس دیدارس تہ تس برونہ گن حاضر سپد نس فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا لہذا اتلونہ اس تہندہ خیطرہ قیامتک دودہ ترکرے تہنزہ عملہ تولنہ خیطرہ

نَقِیْمٌ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیْمَةِ وَزَنَّا ۝۱۰۰ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا
 وَاتَّخَذُوا الَّتِیْ وَرُسُلِیْ هُرُوزًا ۝۱۰۱ اِنَّ الدِّیْنَ اَمْنًا وَعَمِلُوا
 الصَّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝۱۰۲ خَلِیْدِیْنَ فِیْهَا
 لَا یَبْعُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝۱۰۳ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمٰتِ رَبِّیْ
 لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِسَبْءٍ مَّدَدًا ۝۱۰۴

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الَّتِیْ وَرُسُلِیْ هُرُوزًا ۱۰۰ یہ ہے کیا چھو سزا تہند نارِ جہنم کیا زہ تم
 آس اھ انکار کران یہ آس میانین آیاتن تہ میانین پیغبرن استہزاء تہ ٹھٹھہ کران اِنَّ الدِّیْنَ اَمْنًا
 وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۱۰۱ ہز پڑاٹ یمو لو کو ایمان اون تہ رتہ عملہ
 کر کیک تہندہ خیطرہ چھہ فردوسک باغ پیش کشاہ یعنی گوڈنچی ضیافتاہ یوسہ تمن پیش لیہ کرنہ خَلِیْدِیْنَ فِیْهَا
 لَا یَبْعُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۱۰۲ تمنی باغن منز آسہ روزن تمن ہمیشہ۔ خواہشی کرن نہ تم تموباغو منزہ نیرنچ۔ نہ
 کڈکھ تموباغواندرہ کاہنہ باوجود آس کرو کہ اس عطا تم تم چیز تم تمہ خوتہ بہتر تہ رت آسن قُلْ
 لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمٰتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِسَبْءٍ مَّدَدًا ۱۰۳ فرماو تہ تہ یا
 رسول اللہ لو کن ہر گاہ میانس پروردگارہ سزہ تھہ یعنی تم کلمات و عبارات تہندین کمالات و صفاتن
 پیٹھہ دلالت کران چھہ لیکھنہ خیطرہ سمندر آسن میلہ بدل، تم ساری موکلن تہ خم گڑھن۔ میانس
 پروردگارہ سند کلمات خم گڑھنہ بروٹھ۔ بیہ ہر گاہ اس تمن سمندر ن ہی بے سمندر تہ مدد تہ خیطرہ
 ملناو وک تمن سیت۔ تم تہ موکلن۔ لیکھان لیکھان مگر کمالات و صفات آہیہ سدن نہ خم کیا زہ تم چھہ
 غیر متنای۔ لہذا چھہ الوہیت تہ ربوبیت مخصوص تمنیات قُلْ تہہ فرماو لیکھ یار رسول اللہ تہ تھہ تہ کہ
 اے کافر و تہہ نُس انکارہ سیت مہ پیش یوان چھوہ کیاہ یو چھوسہ توہہ بروٹھ کن کاہنہ تہہہ کتھاہ پیش
 کران یوسہ ناممکن تہ دشوار چھہ اِنَّمَا اَنۡبَاۡتُ لَکُمۡ یٰۤاٰیۡہِیۡۤا اَلۡاَیۡمٰتُ الۡہٰکُمُ الۡوَاحِدُ ۱۰۴ یو چھوس نہ مگر تو ہی
 ہیوا کھ بشرہ۔ توہہ تہ مہ منز چھہ فرق ہیے کہ وحی الہی چھومہ پیٹھہ نازل سدان کہ تہند چھونہ اکس
 معبودس و رای کاہنہ تہ۔ نہ چھو وحی واٹن کاہنہ عجیب کتھاہ۔ نہ چھو توحید باری تعالیٰ کاہنہ وحشت

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أُمَّةٍ الْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ
 يَرْجُوا الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُحْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

ناک امر اہ۔ و سن ہے تمہہ مہ انکار کران ہجھوہ تہ کیا زہ۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُحْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وون نس اکھاہ امیدوار آسہ پنہ نس پروردگارہ سندہ دیدارک، تس سیت
 ملاقات کرہ نگ تمہند محبوب تہ مقرب ہنہ نگ ادہ سوکترن میانس پیغمبر برحق آسئس پڑھ کمر تھ میانہ
 شریعتہ موجب رثہ عملہ۔ بیہ مہ تھاون سو پنہ نس پروردگارہ سندس عبادتس منزکانسہ انس شریک۔
 یعنی توحید و رسالتک تھاون کامیل اعتقاد۔





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 كَهٰیضٍ ۱ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذَكْرًا ۲ اِذْ نَادٰی رَبَّهُ
 نِدًا خَفِیًّا ۳ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ
 شِیْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَاۤیِكَ رَبِّ سَقِیًّا ۴ وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ
 وَّرَآئِیْ وَكَانَتْ اِمْرَاَتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِیًّا ۵ یٰرَبِّیْ

كهلیص اسم چه حروف مقطعات۔ تمن ہند معنی چھو خدا ہی معلوم ذکرحصت ربك عبده ذکریا یہ چھو تہندس پروردگارہ سہدہ تمہہ رحمتک ذکریوسہ رحمت تم پنہ نس بندس حضرت زکریاس عطا کر۔ اذنادی ربہ نداء خفیا یلہ تمو کھنٹھہ راژ ہمزہ آنہ گلہ منز پنہ نس پروردگارس آلو دیت، پست آوازہ سمیت، ہٹھنہ بیہ کاہنہ بوزہ، کیا زہہ جُرس اندر اولاد ژھاندن زون تمو مند چھہ
 قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شِیْبًا دہن میانہ پروردگارہ، میانہ اوجہ، استخوان گنیہ کمزور بجرہ سببہ۔ بیہ چھتیوم کلہ سوزوی۔ تھتھس حاس منز اولاد ژھاندن اوسہ نہ شایان۔ مگر چانس قدرت کاملس نشہ چھونہ کینہہ دور۔ بیہ چھتھس بو ہمیشہ چاہہ قدر تک تہ رحمتک ظہور و چھتھک خوگر تہ عادی سپدنت۔ چنانچہ وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَاۤیِكَ رَبِّ سَقِیًّا بیہ چھوسنہ بو از تان ژہ منکنس اندر زاہنہ تہ ناکام تہ خالی رودنت۔ از کہ پتھ گن تہ چھتھس امیدوار چانس اجاتس۔ وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآئِیْ بو چھوس کھو ژان پنہ نین رشتہ دارن، تم ما کرن نہ میانہ مر نہ پتہ، میانہ مرضی موافق دینچ تہ شریعت خدمت۔ بہوی وجہ چھو کہ بو چھوس تھہ جُرس اندر اولاد ژھاندن وَكَانَتْ اِمْرَاَتِیْ عَاقِرًا بیہ آس آشین میان ہانٹھ گودہ پیٹھ۔ لہذا چھنہ مہ اولاد نہ نچ ظاہری کاہنہ صورتہا فَهَبْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِیًّا یٰرَبِّیْ وَیَرْثُ مِنْ اِلٰی یَعْقُوْبَ وون کر تہ ژہ پنہہ خاص لطف و مہربانی سمیت اسباب عادی ن ہندہ وساطتہ

وَبَرِّتْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝۶ يٰۤاِنَّا نُبَشِّرُكَ
 بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝۷ قَالَ رَبِّ اِنِّى
 يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ وَّكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّوَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
 عِتِيًّا ۝۸ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓيِنٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتُكَ
 مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝۹ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً ط قَالَ

ورای مہ تھیٹھ فرزندہ عطائس اکھ میانین خاص علمن ہند وارث بنہ ہایہ خاندان یعقوب علیہ السلام
 سندین موروثی علومن ہند وارث بنہ ہا واجعلہ رب رضیا میانہ پروردگارہ بیہ کرتن سؤ فرزند با عمل
 آسنہ منوکھ مقبول تہ محبوب پئن۔ چنانچہ بواسطہ ملائک سپد تمّن ارشاد یٰۤاِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ
 یَحْيٰى اے زکریا بیشک اَس چھی ژہ خبر دو ان اَس فرزندہ سز بسند ناو چھو سخی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ
 قَبْلُ سَمِيًّا اَس چھونہ کورمت پیدہ اَس بروٹھ اَسند ہنام۔ ازتاں چھونہ اَس ناؤک کانہہ انسان پیدہ
 آمت کرنہ قَالَ رَبِّ اِنِّى يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ حضرت زکریا علیہ السلامن وون پروردگار اَس کتھہ پاٹھ بنہ پئو
 وَّكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا میان آشین ہتھ ہانھ وَّوَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا بو چھوس پانہ دو تمست بجرہ
 کس نہایتس۔ مہ چھونہ معلوم سپدان ژے اَس فرزند عطا کر کہ تہ کتھہ پاٹھ۔ اس سپدوہ دو شوے باژ
 جو ان کہنہ مہ اَسہ نوو بکال کرن کہنہ موجودہ حسابے اندر کر کہ ژہ اَسہ فرزند عطا قَالَ كَذٰلِكَ اللہ تعالیٰ
 ان فرموس موجود حسابے اندر قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓيِنٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَكُ شَيْئًا چون
 پروردگار چھو فرماوان یہ چھو مہ نشہ آسان۔ ان کماہ چھہ حقیقتہ اَسہ خوتہ بجر کامہ تہ ہتھہ مہ گر مژہ۔ مثلاً
 ژہ چھو کہ پیدہ کورمت از کہ بروٹھ۔ ژہ اوسکھنہ کہنی۔ تھہ پاٹھ چھہ اسباب عادیہ تہ کینہہ چیز۔ یلہ بو پئنہ
 قدر تہ سیت نیستس چھس ہست کران، ناؤدس چھس یود کران۔ معدوس چھوس موجود کران۔
 اَس موجودس نشہ بیا کہ موجود پیدہ کرن یہ کیاہ مشکل چھوی ژہ مینس قدر تس نشہ بوزنہ یوان قَالَ
 رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً حضرت زکریا ان دوپ پروردگار اوعده سیت سپد م اطمینان۔ وون کر کھنہ میانہ

اَيْتِكَ الْاَلْتَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑩ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ
 مِنَ الْبَحْرَابِ فَأَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بِكُرَّةٍ وَعَشِيًّا ⑪
 يَمِيحِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ⑫ وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑬ وَحَنَانًا
 مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ⑭ وَكَانَ تَقِيًّا ⑮ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ
 جَبَّارًا عَصِيًّا ⑯ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ
 يُبْعَثُ حَيًّا ⑰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ اَنْتَبَدَتْ مِنْ اَهْلِهَا

مزید اطمینانہ خیطرہ کا بہہ علامتہا مقرر۔ سیمہ سیت مہ بحرہ ہافخرہ ژہ کوزتھ مہ عطا فرزند قال ایتک
 الْاَلْتَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا اللہ تعالیٰ ان فرموس چون علامت نہ نشانہ چھو ژہ نیکھہ
 تندرست آتھ۔ ترین شمن نہ ترین ڈوہن لوکن سیت تھہ کر تھہ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْبَحْرَابِ
 ہس دراؤتھہ منزہ پنہ نس قومس نشہ فَأَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بِكُرَّةٍ وَعَشِيًّا تھہ بچن نہ کتر تھہ کینہہ
 ہس ہوون تہن اشارہ کہ تھہ کمر و خدا یہ سزیا کی بیان صبحس نہ شامس۔ چنانچہ کینہہ کالاہ گوہہ حضرت
 محیی سپد پیدہ۔ تو پتہ یلہ سوووت بن شعورس اللہ تعالیٰ فرماوان اسہ فرموس یَمِيحِي خُذِ الْكِتَابَ
 بِقُوَّةٍ ای محیی کتاب یعنی توراہس کرزورہ تھپ۔ یعنی تھہ پیٹھہ کرزورہ عمل تھہ ساتہ نہ اوس
 تورا تھی تہب شریعت۔ انجیل اوسنہ ونہ نازل سپد مت وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا بیہ کتر اسہ حضرت محیی
 اس نبوت عطا لو کپارس منز وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا بیہ کتر اسہ عطاہس پنہ طرفہ
 رقت قلب بیہ اخلاقن ہنزیاکیزگی بیہ اوس سو سیٹھاہ پر ہیزگار وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا
 بیہ اوس سو فرمانبردار، خدمتگار مالس ماجہ ہند۔ بیہ اوس نہ سو مخلوقن نسبت سرکش نہ خالقس نسبت
 نافرمان۔ پروردگارس نشہ آس تھہ سیت مکرم نہ محترم کہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تہندہ حثہ وَسَلَامٌ
 عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا سلام بوہن تہن پیٹھہ سیمہ دوہہ تم زاکے بیہ سیمہ دوہہ
 تم سیمہ عالمہ گڑھن بیہ سیمہ دوہہ تم مر نہ پتہ بیہ تلمنہ یلن زندہ سپدت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ بیہ

مَكَانًا شَرِيفًا ۱۶ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا
إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۱۷ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ
بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۱۸ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
لِيُؤْتِيَكِ بِأَلْفِ عَلَيْهِاتٍ ۱۹ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ
مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۲۰ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ

پاؤو تیس قرآن مجید کس کس حصص اندر قصہ حضرت مریم
یلہ الگ روز سو پنے نین گرہ کین لوکن نشہ الگ کس مکانس اندر نئس بیت المقدسکہ مشرقہ طرفہ
اوس۔ ماہواری عذرہ نشہ پاکی ہند سران کرنہ خیطرہ **فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا** تروون آویزان
تمن۔ پارکن ٹھور تہ پردہ تہ تہ ٹھرس تل روز تہ سو سران کرہ **فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا** امہ پتہ یلہ
سران کمر تہ موکلے یہ، پلو لاگن اتی سوزا سہ تس نشہ پن روح یعنی جبریل امین علیہ السلام **فَتَمَثَّلَ لَهَا**
بَشَرًا سَوِيًّا یوسے زودا سس بروٹھ کنہ انسان بنت در کمال حسن و جمال **قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ**
مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا حضرت مرتس یلہ نظر پیہ تس بیٹھ۔ دپنہ لچ پناہ چھس بو مگان حضرت
رحماتس ژہ نشہ چھٹھ ژہ شریف تہ خدایس کھوژہ ون یمہ جایہ نش سپد دور فوراً۔ تمن گنہ راسے یہ ماچھو
کانہہ انسانی **قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ** جبریل امین دوئس بانبرمہ، بو چھوس نہ انسان بلکہ چھس
بو چانس پروردگارہ سئدہ طرفہ سوزنہ آمت اکھ ماکہ اکھ **لَا هَبَّ لَكَ عِلْمًا ذِكْرًا** تہہ بوژہ عطا کرے
خدایہ سئدہ طرفہ اکھ فرزنداہ اکھ نئس پاک و پاکیزہ تہ سئدہ بون آسہ۔ بو دے آس منزیا نالس منز پھوکھ
تمہ اثرہ سیت تہ خدایہ سئدہ حمتہ سیت روزی ژہ شمس منز حمل تو پتہ زیوی ژہ فرزندہ **قَالَتْ أَنِّي**
يَكُونُ لِي عِلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا حضرت مرتس دوئس مہ تہہ پاٹھ بہ فرزند
حالاکہ مہ چھونہ با قاعدہ کج کمر تہ اتھ تہ لوگت کانہہ انسان و ٹھتان بہ چھنہ بوہد کار تہ آسموژا نہہ
قَالَ كَذَلِكَ جبریل دوئس تہہ پاٹھ کانہہ بشرہ سئدہ تہپ کرنہ و رای سپدہ ژہ نشہ فرزند پیدہ بو چھوسے

هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ
 أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝۲۱ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝۲۲
 فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ
 قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۝۲۳ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا
 أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝۲۴ وَهَزِي

نہ یہ پانہ دنان قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ بلکہ چون پروردگار چھو فرماوان ماس وراي ژہ فرزند
 عطا کرن چھومہ نشہ سہل تہ آسان۔ بیه چھو چون پروردگار فرماوان کہ اس چھن بیه فرزند بلا اسباب
 عادیہ پیدہ کران وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا تہہ کرون سو اس پنہ قدر تک اکھ نشانہ لو کن
 ہندہ خیطہ، بیه لو کن ہندہ خیطہ پنہ رحمتک ذریعہ ذنیاس اندر وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا اس فرزندہ
 سُنَد بے پدر پیدہ سپدن چھو اکھ طے کرنہ آمت امرہ، نِس ضرور عملہ اندر بیه بیه چھہ کتھہ فیصلہ کرنہ
 آمُر فَحَمَلَتْهُ پس تل حضرت مریم فرزندہ سُنَد بار خود بخود، وچھان وچھان فَانْتَبَدَتْ بِهِ
 مَكَانًا قَصِيًّا نِس گدیہ سو گھرہ نشہ دُور سو حمل پتھہ الگ اکھ کو ہس تہ جھٹلس منز فَاجَاءَهَا
 الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ یلہ وضع حملک دود شروع سپدس تم داوواتا وسو اکھ خضر کلہ کس
 گوؤس تل اکھ تھزر س پیٹہ، تھہ سیت ڈوکھہ و تھہ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا
 دپنن لآے کاش بو کونہ مٹوے نِس امہ برو نٹھی، تا اینکه گمہ آسہانا بود، ژیتہ سی آسہ ہانہ کانسہ ناوی بیه
 ہم نہ کانہ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا نِس دس آلو جبریل امین امہ تھزرہ بون کن اَلَا تَحْزَنِي قَدْ
 جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا غمگین تہ آزرده مہ سپد۔ پزریاٹ چان پروردگار کن کور ژہ بون کن
 اکھ ناگہ رادہ اکھ جاری سمیگ آب اوس دواتمن سارنی عوارض ہند ہم پر سیکہ وقتہ زمانن لاحق چھہ
 سپدن بیه سبز سو خوش نمہ ناگہ راؤک آب وچھت۔ طبعیتس منز سپدس فرحت و سرور پیدہ۔
 وَهَزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَدِيًّا بیه دہ ژہ دن پانس کن خضرہ کلہ

إِيَّكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۖ ﴿٢٥﴾
 فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَمَا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۗ
 فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ ﴿٢٦﴾
 فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۗ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۖ ﴿٢٧﴾
 يَا خُتُّ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا ۖ وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ۖ ﴿٢٨﴾
 فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْبَهْدِ صَبِيًّا ۖ ﴿٢٩﴾

کس گوڈس یہ تراوی ثیہ پیٹھ پوپ پوپ تازہ خضر فکلی و اشربی و قری عینا سم خضر کھہ ژہ، امہ ناگک آب چہ ژہ، امس نندہ بانس فرزندس کن و و جھت شہلا و پندہ آچھہ۔ یہ تلن یہ فرزند کو چھہ کیتھ تو پتہ گڑھہ پنہ نس قومس نشہ فاماترین من البشر احدًا ہر گاہ و تہ پکان کانہہ انسانا و جھہ کن، سوہیہ ژہ پر ژھن گارن فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا ژہ و پ نس اشارہ پاٹھ، مہ ہجو خدیہ رحمانہ سندہ خیطہ روزہ داری ہند نذر تھوومت بوہیہ نہ کانہہ انسانس سیت ازتھہ کمر تھہ فانت بہ قومہا تحمیلہ چنانچہ واثریہ فرزند ہتھ پنہ نس قومس نشہ، سو او نس کھونہ کیتھہ قالوا یمریمہ لقد جئت شیئا فریا لو کو دو پھس ای مریم ژہ آیکھ اھ عجیب کتھاہ ہتھ، چاہہ ماس و رای یا خت ہرون ما کان ابوک امرًا سوو و ما کان ائک بغیا ای ہشیرہ ہارون ژہ شریف زادہ چھہ نہ اوس مول چون بچھہ شخصہ نہ آس موع چان بد کاریہ کیاہ کوڑتھہ ژہہ فاشارت الیہ تو پتہ ہوو کھ حضرت مریمن اشارہ سیت امس فرزندس کن زہ امسی پر ژھو قالوا کیف نکلم من کان فی البھد صبیئا تمو دو پھس اس تھہ پاٹھ گروکتھہ کھونہ منزہ کس لو کئس سیت۔ سم چھہ ونہ سم تھہ کران ام فرزندن ہمیوہ کتھ کرن۔ قال انی عبد اللہ الذی الکتب وجعلنی نبیا دوہن اے لو کو بیشک بوہجوس خدیہ سند خاص بندہ تم کرمہ عطا پن کتاب بیہ کور نس بو پیغبر وجعلنی مبرکا این ما کئت بیہ کور نس بو برکتہ و ول کیا زہ میانہ سیت و اتہ لو کن دینی نفع۔ یتہ نس بو روزہ، یوت یوت

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَمَّ الْأَثْنِي الْكُتْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي
 مُبْرَكًا آيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
 حَيًّا ۖ وَبَرَّ أَبَوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ
 عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ ذَلِكَ
 عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ مَا كَانَ
 لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وُلْدٍ لِسُبْحَنَهُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

ہوواتہ تیرہ کرہ ہوا شاعت دین۔ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا یہ کورمہ خدائےن تاکید
 حکم نماز پر نگ تہ زکوٰۃ دنگ یوت کال بو زندہ چھوس دنیاس اندر وَبَرَّ أَبَوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي
 جَبَّارًا شَقِيًّا یہ کورنس بوجاہہ ہند فرمانبردار، یہ کورنس نہ بو زبردست تہ بد بخت کہ خالقہ سند
 حقوق کرہ ہاترک یا والدہ ماجدہ سند یو حقو قولشہ کرہ ہاسر کشی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ
 وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا خدایہ سندہ طرفہ چھہ مہ پیٹھ سلام، سمہ دوہہ بوزاس بیہ سمہ دوہہ بومرہ بیہ سمہ
 دوہہ بودوبارہ زندہ سپدت تھو دیمہ ثلثہ ذَلِكَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ یوہے کیا گو حضرت عیسیٰ حضرت
 مریمہ سند فرزند تمکن ہند احوال تہ اقوال ونہ آئے سمہ سمیت تھند مقبول بندہ اُس ثابت سپدان چھو۔
 نہ چھہ نصاریٰ ان ہنز تھہ صحیح کہ بندگی منزہ کڈ تھ الوہیتس منزواتناون۔ نہ چھہ یہودن ہنز تھہ صحیح کہ
 مقبول بندہ آسنہ نشہ کڈ تھ تمکن پیٹھ بے شمار ہانزہ لاگنہ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ییہ چھہ ہنز
 تھہ تھہ منز لو کہ شک کران چھہ۔ نصاریٰ چھہ ونان یہ عیسیٰ چھو خدایہ سند چھو، حالانکہ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ
 يَتَّخِذَ مِنْ وُلْدٍ خدایہ سند شان چھونہ کہ سو کیا بناوہ کانسہ ہن پٹو سُبْحَنَهُ سو چھو اولاد آسنہ نشہ
 منزہ تہ پاک۔ تمسند شان چھو کہ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُویلہ ارادہ چھو کران کمنہ
 چیزہ کہ پیدہ کر نگ سو چھونہ تھہ چیزس ونان کینہہ تہ مگر لفظ کُن یعنی پیدہ سید، اتی چھو سو چیز پیدہ
 سپدان، از عدم بوجود دیوان۔ حضرت عیسیٰ تہ کورن تہ پٹھہ حکم کُن پیدہ۔ چھس باکمال خدائیس پٹو

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۲۵﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا
 صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۶﴾ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلًا
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۲۷﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ
 يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلِيلٍ مُبِينٍ ﴿۲۸﴾
 وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۹﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا

آس چھو عیب تہ نقصان۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا یہ چھو بیشک میوں تہ تہند پروردگار
 اللہ تعالیٰ۔ پس کمر و تہنزی عبادت ہذا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ یہ چھو سبیز و تھ توحیدس پیٹھہ یڑھ
 دلیل آسھہ باوجود فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ پس توحیدس انکار کمر تھ کمر الگ الگ و تھ
 اختیار مختلف جماتو ترمواندرہ قَوْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ جس افسوس تہن لوکن سمو
 انکار کور۔ تہن لکھہ بڑھہ دوہہ ضرور حاضر سپن پیہ ملک الجبارس برو تھہ کن یعنی قیامتگ دوہہ أَسْمِعْ بِهِمْ
 وَأَبْصِرْ کوتاہ آس تہم پور بوزہ ون تہ پور وجھہ ون تہمہ دوہہ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ
 فِي ضَلِيلٍ مُبِينٍ مگر از چھہ تہم عالم دنیاس اندر تہہ گرا ہی اندر وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ
 قُضِيَ الْأَمْرُ پیہ کمر و تہن بیم حسرت و افسوس تہہ ڈہگ بیمہ دوہہ پٹم فیصلہ پیہ ونہ جہتین تہ دوز خین
 برو تھہ کتہہ پیہ مونس گھس کرنہ۔ دوشوے بین بوزناونہ حکم خلور۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 و تہکتس دنیاس اندر چھہ تہم لو کہ غفلتس اندر بوڈمت تہم چھہہ پڑھہ کران آخر چھو تہن اکہ دوہہ مران
 إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پڑپاٹھہ اسی چھہہ پتولا کہ ساری زینک وارث۔
 پیہ تہن سارنی لوکن ہند سم تھہ زمینس پیٹھہ چھہہ۔ پیہ چھو سارنی پتولا کہ آس کن واٹن تہ رجوع کرن۔
 تو پتہ کھین تہم سزا شرک تہ کفرک وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ پیہ کمر و لوکن نشہ ذکر قرآن مجیدس
 اندر جس قصہ حضرت ابراہیمہ سُنَد چھو پیٹھہ تہن توحید و رسالتگ قصہ پور متکشف سپدہ إِنَّهُ كَانَ

يُرْجَعُونَ ﴿۳۱﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ ؑ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا
 نَبِيًّا ﴿۳۲﴾ اِذْ قَالَ لِاٰبِيهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
 وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿۳۳﴾ يٰاَبَتِ اِنِّىۤ اَقَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ
 يٰاَتِكَ فَاتَّبِعْنِيۤ اِهْدِكْ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿۳۴﴾ يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ
 اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿۳۵﴾ يٰاَبَتِ اِنِّىۤ اَخَافُ اَنْ
 يَّمْسَكَ عَذَابُ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿۳۶﴾ قَالَ اَرَاغِبُ

صِدِّيقًا نَبِيًّا بیشک اس تم پر تھہ کتھ منز پوزونہ ون۔ بیہ آس پیغمبر اِذْ قَالَ لِاٰبِيهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ
 مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یلہ تمو فر مووالس پنہ نس، نئس مشرک اوس اے میانہ
 بابہ ژہ کیا زہ چھکھ پر سٹش کران تمن پوتلین ہنز تم نہ کینہہ بوزان چھہ بیہ تم نہ کینہہ وچھان چھہ بیہ
 سمنے کتھہ کامہہ بکار پوان چھہ، کینہہ کمر تھہ ہیکان چھہ۔ مراد چھو امہ منزہ پوتل۔ حالانکہ ہر گاہ تم پوتل
 وچھہ بن تہ بوزہ بن تہ کتھہ کامہہ تہ لگ بن توتہ آس نہ تم قابل پر سٹش کیا زہ واجب الوجود آس نہ۔ وون
 چھہ کتھہ سٹش حاس اندر یٰاَبَتِ اِنِّىۤ اَقَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يٰاَتِكَ فَاتَّبِعْنِيۤ اِهْدِكْ صِرَاطًا سَوِيًّا
 ای میانہ بابہ میہ نشہ چھو و سٹت خدایہ سندہ طرفہ اکھ علماہ۔ نئس نہ ژہ نشہ ووت تھہ منزہ غلطی ہند کتھہ
 قسمہ احتمالے چھو۔ ژہ چھہ نہ صح خبری۔ لہذا پچھتہ ژہ میانہ وتہ۔ میان متابعت کرتہ۔ بوادہ ہے
 سیز و تھہ یعنی توحید و تھہ یٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ای میانہ بابہ متہ
 کرتہ شیطانہ سنز پر سٹش یعنی شیطانہ سندہ وونہ موجب پوتلین ہنز پر سٹش۔ پز پاتھ یہ شیطان چھو
 او سٹت گوڈہ پٹھے خدایہ سند نافرمان لہذا شو بیا مسز پیروی کرن یٰاَبَتِ اِنِّىۤ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابُ
 مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ای میانہ بابہ مہ چھہ ٹھہ ژہ گوڑھوی نہ حضرت رحمانہ سندہ
 طرفہ کانہہ عذابہ ولند بن کس گھو کتھہ ژہ شیطانہ سند رفیق بن عذابس اندر قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ
 الرَّحْمٰنِ يٰاِبْرٰهِيْمُ تم مال دونس تورہ ای ابراہیم ژہ چھکھ میانین معبودن نشہ تھہ بھران کین گم

أَنْتَ عَنِ الْهَتَىٰ يَا بَرِّهِمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي بَلِيًّا ۝
 قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۝
 وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ الْأَكْرَبُونَ
 يَدْأِعُوا رَبِّي شَفِيًّا ۝ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝
 وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي بَلِيًّا ہر گاہے تہ اُمہِ نَشْرہ پتھ روز کھ کنہ لای لای گز تھ بوسنگار۔ چھنے پان
 پچاون تلہ روز مہ نَشْرہ کینہہ کالاہ دور قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا حضرت
 ابراہیم دوئس میاہ طرفہ چھے سلام۔ توتہ معھ بوجاہہ خیطرہ پنہ نس ہد وردگار س مغفرت۔ بیشک سو
 چھومہ پیٹھ سیٹھاہ مہربان وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ الْأَكْرَبُونَ يَدْأِعُوا رَبِّي
 شَفِيًّا بوروزہ الگ اکھ توہمہ نَشْرہ بیہ تمن تہمہ عبادت کران چھوہ معبود برحقس وراہ۔ توپتہ کرہ بو
 اطمینانہ سان الگ روزت پنہ نس پروردگارہ سنز عبادت۔ بیہ چھہ امید کہ بوروزہ نہ پنہ نس
 پروردگار س عبادت کمرت محروم تہ نامر ادچتھ پاٹھ بُت پرست پنہ نین باطل معبودن پرستش کمر تھ
 محروم تہ نامر ادچھہ روزان۔ یہ تھہ باتھ کمر تھ سپد تمن نَشْرہ علیحدہ علیحدہ شمس کن کمر کہ ہجرت فلَمَّا
 اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ادہ یلہ حضرت ابراہیم تمن نَشْرہ بیہ تہمدین معبودان باطلن
 نَشْرہ، بہنز تم معبود برحق تراوتھ پرستش کران آس جد اسپدت تمہ شہرہ نَشْرہ ہجرت کمر وَهَبْنَا لَهُ
 إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا عطا کوراسہ حضرت ابراہیمس دوئتم فرزند اسحاق بیہ فرزندہ مند
 فرزند یعقوب علیہ السلام۔ بیہ کمر اسہ تم دو شوے صاحب پیغمبر۔ تم رفاقتہ خیطرہ بُت پرست برادری
 خوتہ بہتر آس۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا بیہ کمر اسہ تمن واریاہ قسمک کمالات عطا کمرت پنہ
 رَحْمَتٍ اکھ حصہ عطا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا بیہ کوراسہ آئندہ نسلن اندر تہمد ناونیک تہ

وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابَ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝۵۱
 وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲ وَ
 وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳ وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ
 إسماعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۴ وَ
 كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۵
 وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ إدریسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۵۶ وَرَفَعْنَاهُ

بند۔ ساری آسن تعلیمہ سان تہمد ذکر خیر کران۔ اسحق علیہ السلامس بروئھ اوس اسہ تمین گوڈنیک
 فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا کورمت۔ تمین اندر تہ آس تہ صفت۔ تہمد ذکر بیہ بروئھ پنھن
 وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ بیہ کمر و ذکر قرآن مجیدس منز حضرت موسیٰ سہ قصہ۔ یعنی سوکتر ولوکن
 نیشہ بیان إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا تم تہ آس پز پانھ خاص کرنہ آمت بندہ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا بیہ آس
 تم رسول تہ تہ نبی تہ تمین آس سم دوشوے شان وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ
 نَجِيًّا بیہ ڈیت اسہ تمین نادکوہ طورہ کہ دھنہ طرفہ کن۔ بیہ گرہ اسہ تمین سیت سیزہ تھہ پانس نکھ
 ائھ۔ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا بیہ کور اسہ تمین پنتہ مہربانی سیت تہمد برادر ہارون
 علیہ السلام پیغمبر بناوتھ عطا تہمدہ در خواست کرنہ موجب تہمدہ مددہ خپترہ وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ
 إسماعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا بیہ کمر ولوکن نیشہ ذکر قرآن مجیدس اندر
 اسماعیل علیہ السلامہ سہد حال۔ بیشک تم آس وعدہ پز گرہ ون۔ بیہ آس تم رسول تہ نبی۔ تمین تہ آس
 دوشوے شان وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا بیہ آس تم پنے نس عیالس
 حکم کران نماز پر نگ بیہ زکوٰۃ ونگ۔ بیہ آس تم پنے نس پروردگارہ سہد مقبول بندہ وَأَذْكُرُنِي
 الْكِتَابِ إدریسَ بیہ کمر و ذکر قرآن مجیدس اندر حضرت ادریسہ سہد حال لوکن نیشہ بیان۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
 نَبِيًّا بیشک آس تم سیٹھہ پزیر پیغمبر وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا بیہ واتا واسہ تم کلماتن اندر تھدس

مَكَانًا عَلِيًّا ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ
 مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِكَ اِبْرٰهِيْمَ
 وَاِسْرٰءِيْلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاَجْتَبَيْنَا اِذَا تَلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ
 الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّٰبِكِيًّا ۝ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
 اَضَاعُو الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذٰبًا ۝
 اِلَّا مَن تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُوْلٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ

مرتب سے شہزادہ جلیہ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ سے پیغمبر گئے تم سے اللہ تعالیٰ ان سے انعام کور عطا پیغمبر و آندره مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ سے ساری پیغمبرہ چھہ حضرت آدمہ سندہ ذریۃ آندره وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ سے تمواندرہ تم اسہ کھارناوہ اندر حضرت نوح سے۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِكَ اِبْرٰهِيْمَ سے حضرت ابراہیمہ سزہ ذریۃ اندرہ وَاِسْرٰءِيْلَ سے حضرت یعقوب سندہ ذریۃ اندرہ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاَجْتَبَيْنَا سے تمواندرہ سے تم اسہ و تھ ہا، سے تم اسہ مقبول تہ برگزیدہ کمر، باوجود اسہ مقبولیتہ آس تم بندگی اندر تھ منہیک کہ اِذَا تَلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّٰبِكِيًّا یلہ تم پیٹھ حضرت رحمانہ سہ آیات پر نہ آس یوان تان آس تم کمال عاجزی و انکساری سجدہ ووان۔ ووان ووان زمینس پیٹھ کلہ تراوان۔ ہن پان بز تھ ووان فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُو الصَّلٰوةَ تو پتہ آسے تم پتہ تہند بعضی خلف سمو نماز برباد تہ ضائع کر۔ خواہ اعتقاداً انکار کرنہ سیت خواہ عملاً سواوا کرس اندر کوتاہی کرنہ سیت یا تمہہ کین ضروری حقوق تہ آدابین اندر کوتاہی کرنہ سیت۔ وَاَتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ سے کہ تھ ناجائز نفسہ چن خواہش ہنز پیروی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذٰبًا پس وچھن تم عنقریب آخرتس منزج خرابی، خواہ ابدی خواہ غیر ابدی اِلَّا مَن تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُوْلٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُوْنَ شَيْئًا مگر سمو کفر و معصیۃ نشہ توبہ کر تھ ایمان اون تہ رزہ عملہ کر کیک، پس تم لو کہ واتن جنتس اندر گنہ تسج خرابی وچھنہ ورا۔ سے بیچھنہ ظلم کرنہ گنہ قسمہ۔ جَدَّتْ

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۖ جَنَّتِ عَدْنُ إِلَّتِي وَعَدَا
 الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۖ لَا يُسْمَعُونَ
 فِيهَا الْغَوَا الْأَسْلَمَاءُ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۖ
 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۖ
 وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا
 وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۖ رَبُّ السَّمَوَاتِ

عَدْنُ إِلَّتِي وَعَدَا الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا تمن جنن منزوانن سمن منز
 همیشه روزن آسکھ۔ سمن جنن ہند حضرت رحمان پنہ نین سیت وعدہ کورمت چھو غابانہ۔ پز پانھ
 تہند وعدہ چھو پورہ کرنہ آمت یعنی تمہ کس پورہ سپد نس اندر چھونہ شکھی کاہنہ لایسعون فیہا لغوا
 تمن جنن منز بوزن نہ تم کاہنہ بیہودہ کتھاہہ الاسلاما مگر پریتھ طرفہ آسن سلائے سلامہ۔ پانہ وان
 تہ سلائے ملاکن ہندہ طرفہ تہ سلائے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تہندہ خیطرہ چھو تمن جنن
 اندر کھن تہند، صحن تہ شامس تہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا سمن جنت
 سمن ہند ذکر کرنہ آکر واس عطا ور شپانھ پنہ نیوبند واندرہ تمن تم شانت تہ پر ہیزگار آسن وَمَا نَنْزَلُ
 إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ جبریل امینہ سدس پنس منز سپد کینہہ کالاہہ تاخیر تہ کافروہیت طعنہ دن، نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم ہند دل مبارک سپد آزرده۔ تمہ پتہ یلہ جبریل امین آؤتمو پر ژس تاخیر رک سبب اللہ
 تعالیٰ ان فرمو جبریل امینس ژہ ون امیک جواب کہ وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ آسن نہ حض چھنہ
 ز مینس پیٹھ وسان مگر تہندس پروردگارہ سدس لحمہ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلك تہ
 سوڑی بیہ آسہ بروٹھ کتہ چھو آیندہ، بیہ بیہ آسہ پتہ کتہ چھو گزشتہ و قس اندر، بیہ بیہ اتھ در میان چھو
 موجودہ و قس اندر، سارگوئی چھو خدا نس پور علم وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا بیہ چھونہ پروردگار تہند کاہنہ چیز
 مخر اوہ ون رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا سوئی چھو مالک آسمان تہ زمین ہند بیہ بیہ

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ
 لَهُ سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞
 أَوْلَايِدُ كُرُوا الْإِنْسَانَ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۞
 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطَانَ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ
 جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ
 عِتِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِنْ

سبحن منزباگ چھو فاعبده واصلبر لعیبادتہ پس کمر و تہزی عبادت تہ پر ستش۔ تہیز عبادت کرنس
 اندریم تکلیف واتوہ تمین پیٹھ کمر و صبر هل تعلم له سمیئا کیاڑہ چھو ہنہ ہرز انان تسند کانہ ہم
 صفتہا۔ سو چھو سوئی تس ہیو چھونہ کانہ تہ۔ تس یاڑ عبادت کرن بہہ لازم ویقول الانسان اذا
 مات لسوف اخرج حیا بیہ چھو یہ انسان یسند قیامچ پڑھ چھہ، ونان کیاہ یلہ بو مرہ تو پتہ سہما بو قبرہ
 منزہ بیہ زندہ کمر تھ نبر کڈنہ اولاید کور الانسان اناخلقنہ من قبل ولم یک شیئا کیاہ یہ انسان چھنا
 پاوان تہمیں کہ اسہ کوریہ پیدہ بروٹھ حالہکہ یہ اوسنہ کبھی عدم محضہ منزہ یلہ اسہ توگ سو وجودس اندر
 اُن مرنہ پتہ بیہ دوبارہ زندہ کرن کیاہ عجیب چھو فوریک لنحشرنہم والشیطان ثم لنحضرنہم حول
 جہنم جیتیا تہمیدس پروردگارہ سند قسم اس کروکہ تم قیامگ دوہ بیہ پیدہ، تو پتہ سونبر اوکہ تم
 ساری انسان بیہ ساری شیطان تو پتہ انوکہ اس تم ساری تھاو کہ حاضر جہنمس لند لند ہیبتہ سیت اسن تم
 کوٹھیں پیٹھ روز تھ، روز تھ گمت ثم لنزغنن من کل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیئا تو پتہ
 کڈو کہ الگ پریتھ جماعتہ منزہ تم تم اشخاص سم تمواندرہ اسن حضرت رحمانہ سند زیادہ نافرمان تہ
 سرکش یٹھ تم گوڈنی بین نارس منزدار تھ ونہ اسہ چھہ ضرورت تمین متعلق تحقیقات کرچ ثم
 لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیئا کیاڑہ اسہ چھو پور علم تمین لوکن ہند سم جہنمس واتس زیادہ
 سزاوار چھہ وان منکم الا وادھا کان علی ربک حمما مقضیا بیہ چھونہ کانہ اکھاہ توہہ اندرہ یسند

مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٤١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي
 الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا ﴿٤٢﴾ وَإِذْ اتُّتِلَى عَلَيْهِمْ
 آيَاتُنَا بِدُحُرِ اللَّيْلِ وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ
 خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٤٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ
 أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِعْمًا ﴿٤٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَاةِ فَلْيَبْدُدْ لَهُ
 الرَّحْمَنُ مَدًّا هَ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا سَوْ

پہرہ امہ جہنمہ کن۔ یہ چھو تھندس پروردگارہ سندہ وعدہ موجب اھ لازم موكد، اھ معلماہ نُس ضرور
 پورہ سپدہ۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا تو پتہ دمواس نجات تمن لو کن تم پتہ رود کفرہ نشہ خر کہ
 نَشِہ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا باقی ترا دو کہ اس تھہ جہنم اس اندر ظالم یعنی کافر ہمیشہ روزنہ خیطرہ
 تُرِيدُ لَمْ تَر تھہ وَإِذْ اتُّتِلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِدُحُرِ اللَّيْلِ وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا
 وَأَحْسَنُ نَدِيًّا بیہ یلہ پر نہ یوان چھہ تمن مُفکران برو تھہ کنہ سائہ نہہ دلیلہ نہ واضح آیات و نان چھہ
 کافر نہ مُفکر بالیمان نہ پڑھہ والین اسہ نہ تو بہ منز کو سہ جماعت چھہ بہتر جایہ کن بیہ کو سہ جماعت چھہ رث
 مجلسہ کن۔ یہ تھہ چھہ ظاہر کہ خانہ گی نہ مجلسی سازو سامان وغیرہ چیزان اندر چھہ اس تھہ تھہ نہ خوتہ۔
 دو تم تھہ چھہ یہ کہ محبوبی چھو کھیاد نہ چاونہ یوان امہ منزہ چھو ثابت سپدان کہ اسی چھہ محبوب خدا نُس
 نَشِہ نہ تہہ چھو ہر دوود۔ اللہ تعالیٰ چھو بہندس ونس رذکران۔ فرماوان چھو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ
 قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِعْمًا اسہ چھہ کاژاہ جماژ ہلاک نہ تباہ گرموہ سمہ تمن برو تھہ آسہ۔ تمہہ نہ
 آسہ سازو سامانہ کن نہ ظاہری صورتہ کن اہندہ خوتہ نہ رثہ۔ دو تم جواب گو قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَاةِ
 فَلْيَبْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا فرماو یو کہ تہہ تم لو کہ گمراہی منز چھہ یعنی تہہ ای کافر ونس تراوان چھو تمن
 یلہ حضرت رحمان پورہ پاٹھ یعنی مُہلکت چھو کہ دو ان تھہ تمن ناو بر نہ بیہ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ
 تا یلہ یلہ و تھن تم نہ سو روی تمیک تمن وعدہ یوان چھو تھاونہ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ اودہ سو

السَّاعَةَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَعُفُ جُنْدًا ﴿٤٥﴾
 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ
 خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٤٦﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ
 بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۗ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ
 عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٤٧﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ
 الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٤٨﴾ وَتَرْتَبُهُمْ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٤٩﴾ وَاتَّخَذُوا

دنیا کے عذاب آسہ یا قیامت آسہ فَيَسْئَلُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَعُفُ جُنْدًا جس صحیح تمین
 زائن کوہ چھو خراب تہ پیچھ جاہیہ کن بیہ سبھ چھو بالکل کمزور لشکرہ کن تہ مددگار وکن وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ
 اهْتَدَوْا هُدًى بیہ چھو ہرہ راوان اللہ تعالیٰ سیزہ وقتہ پیٹھ پکھ ونین ہدایت بس سرمایہ نجات چھو
 وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا بیہ چھو تمہہ رزہ کامہہ سمہہ روزہ ونہہ چھو بہتر
 تہندس ہروردگار بس نشہ ثوابہ کن بیہ چھو تہ بہتر انجامہ کن أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ
 لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا کیاہ توہہ وچھوہ تہ شخصہ سند حال سم سانین آیاتن انکار کور۔ ونان چھو سو ٹھٹھہ
 پاٹھ مہ بیہ آخر تہ منزرتہ مال تہ اولاد عطا کرنہ۔ غرض اسنز حالت تہ چھو قابل تجب أَطَّلَعَ الْغَيْبَ
 أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا کیاہ سناہ چھا غیبس پیٹھ مطلع سپد مت کنہ ام چھو حضرت رحمانس
 نشہ کا نہہ عہدہ حاصل کور مت اتھ کتھہ پیٹھ کلا ہر گز نہہ چھو محض غلط ونان سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ
 اس چھو لیکتھ تھاوان اسنزہ تھہ تم تھن پیٹھ تہ بس سزاونہ۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا اس
 و موسیٰ شاہ ز پتھر مسندس عذابس اندر وَتَرْتَبُهُمْ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا بیہ چھو اسی وارث تہ مالک
 تمہہ سار کی سمیگ یہ ونان چھو یعنی مال تہ اولاد۔ سو وائہ آسہ نشہ کبوی زون۔ نہ آسبس مالی سبت نہ
 آسبس اولادی سبتِ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا بیہ چھو سمومشر کو خدا بس وراہی
 معبود مقرر کر مت یٹھہ تم بن تہند حالی تہ مددگار کلا تہ ہر گز نہہ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةٌ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۗ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ
 بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۗ (۸۱) أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ
 عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُؤُهُمْ أَزًّا ۗ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَذَابًا ۗ (۸۲)
 يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۗ (۸۳) وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ
 إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۗ (۸۴) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ
 الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۗ (۸۵) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا بلکہ کرن تم ضرور انکار تمہزہ پرستہ بیہ آسن تم تہمہ مخالف تہ دشمن۔ تہہ
 چہوہ کافر ن ہنزہ گمراہی پیٹھ غمگین سپان۔ اَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُؤُهُمْ أَزًّا کیاہ
 توہہ چہنا معلوم کہ آسہ چہہ ہنر وومت شیطان کافر ن پیٹھ ہم تمن کفر وگمراہی تہ نافرمانن پیٹھ آمادہ
 کران چہہ، تکان چہہ، ٹس پائے دشمن بد خواہہ سہہ وندہ موجب پچہ تمند شو یا غم کھیون ۗ فَلَا تَعْجَلْ
 عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَذَابًا پس مہ کرو تہہ درخواست تہمہ ہ مجلدی عذابس گرفتار سپندہ خیرہ، اس چہہ
 ہنزہ ہتھہ تمن تھن پیٹھ تمن عذاب پیہہ کرنہ پانہ گنر راوان۔ سوعذاب پیہہ کرنہ تمن تھمہ دوہہ ۗ يَوْمَ
 نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا سمہہ دوہہ اس منتھی تہ پرہیزگار مہمان ہند پاٹھ جمع کرو کہ عزتہ
 سان، حضرت رحمانہ سندس مہمان خانس اندر جماؤ و جماؤ ۗ وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۗ
 سمہہ دوہہ پکنادو کہ کمال خواری اس نافرمان جہنمس کن تریشہ تریشہ کران۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا
 مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا اختیار آسہ نہ کانہہ کس شفاعت تہ سفارش کرنک مگر تس سم
 حضرت رحمانس نش کانہہ عہدہہ تہ اجازت حاصل آسہ کورمت وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۗ پیہہ چہہ
 سم کافر ونان حضرت رحمانس چہہ اولاد۔ نصاریٰ چہہ ونان عیسیٰ علیہ السلامس، یہود چہہ ونان عزیز
 علیہ السلامس، مشرکین عرب چہہ ونان ملائک، سم چہہ خدایہ سند پٹو تہ کورہ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا

إِنَّ كَذَّابَاتِ السَّمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشُقُ الْأَرْضَ وَتَخْرُجُ الْجِبَالُ
هَذَا ۹۰ أَنْ دَعَوَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۹۱ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۹۲
إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنُ عَبْدًا ۹۳ لَقَدْ
أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۹۴ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۹۵
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ
وُدًّا ۹۶ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ

پہر پاہر تہہ آوہ کتہاہ بیتھ سیٹھاہ مشکل نکاذ السّموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا
یہ چتھ تہتھ مشکل کتہاہ کہ قریب چھو آسان ماگزہن امہ کتھہ سیت چھلہ، بیہ ماچھڑ زمین، بیہ ماچین
دستھ کوہ سورگودھتھہ ان دعوا للرحمن ولدا اتھ تھہ پیٹھ کہ کو ٹھہراو حضرت رحمان اولاد وما
ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا ہرگز چھونہ سزاوار حضرت رحمان تس کیا آسن اولاد ان کل من فی
السّموات والأرض إلا آتی الرحمن عبدا کیا زہ چھونہ کاہنہ آسان تہ زمین اندر ئس نہ حضرت
رحمان برو ٹھکن غلام بنتھ حاضر سہان چھو لقد احصاهم وعدہم عددا بیشک تم چھو ساری
بدن چنہ قدر تہ سیت احاطہ کورمت، بیہ چھن ساری گنیز رتھ تھاومت بیہ گودنیاس اندر وکلہم
آتیہ یوم القیامہ فردا بیہ واتن قیامت دہ تم ساری تس برو ٹھکن لمحہ لمحہ کھوی زن کاہنہ تہ سیت
آسینہ۔ ان الذین امنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا پہر پاہر سمو ایمان اولن بیہ
کر کیکہ رتھ عملہ، ضرور کرہ اللہ تعالیٰ ضروری نعمتو علاوہ دنیاس اندر تھند محبت پیدہ لو کن ہندین وکن
اندر۔ تہہ فرماو تہن بشارت ارج فانما یسرناہ بلسانک لتبشیر بہ المتقین وتنذیر بہ قومالذنا اسہ
کورنہ سہل تہ آسان بیہ قرآن مجید تہزہ زیوہ یعنی عربی پاٹ مگر کوری میو کہ یتھ تہہ بشارت فرماو
شانتین تہ پرہیز گارن بیہ یتھ تہہ بیم کرو، کھوڑہ ناویون امہ (قرآن مجید) سیت ہزل قوم وکم

بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۝۱۶ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِصُّ
مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا ۝۱۷

أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِصُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا ۝۱۶
 کره آسه ہلاک تہ تباہ از کین تا فرمان بر ونٹھ۔ ٹہہ چھونہ لبان تمواندرہ کاٹڑشاہ یا چھوہ بوزان تہندہ کو تہ
 لو تہ پچ آوازہ ٹہند نام ونشان تھوونہ آسہ ٹنہ۔ تہتھ پاٹھ سم ٹہنز مخالفت گرن سمن تہ بندہ تہنزی باش۔
 خوش روزو۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 طه ۱ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۖ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن
 يَخْشَى ۗ ۲ تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۗ ۳
 الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۗ ۴ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۖ ۵ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ
 فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۗ ۶ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ

طه اسم چھہ حروف مقطعات و آندرہ اسم ہند معنی زائید پانہ خدا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى اسہ کورنہ نازل توہہ پیٹھ یہ قرآن مجید بٹھ چہہ پانس تکلیف تہ محنت و اتناوو اِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى بلکہ کور نازل تس شخصہ سندہ نصیحتہ خیرہ تس کھوژان اسہ تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى یہ قرآن مجید چھو نازل کرنہ آمت تس خدیہ سندہ طرفہ سم زمین تہ تھد آسمان پیدہ کمرمت چھہ الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى سمند اکھ ناو چھو رحمن۔ تس عرش پیٹھ قائم چھو۔ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ٹھندی چھو تہ سو روی یہ آسمان تہ زمین منز چھو۔ یہ تہ سو روی یہ سم دون منز باگ چھو۔ یہ یہ زمین تل چھو وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تھندہ علی کیفیت چھہ یہ کہ ہر گاہ ژہ اے مخاطب بدہ کتھ کر کہ کج چھنہ کھی، سو چھو لوت لوت تھہ تہ بوزان۔ یہ لوتہ خوتہ لوت کتھہ تہ بوزان، یوسہ ونہ دلہ سی منز اسہ۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سو چھو سو معبود برحق، کاہنہ معبوداہ چھونہ تس ورائی، تس چھہ رت نام پاک سم تھندین صفاتن تہ کمالاتن پیٹھ دلالت چھہ کران۔ تی ذات مجمع الصفاتن کور نازل یہ قرآن مجید

الْحُسْنَىٰ ۙ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ
 لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ
 أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۚ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَىٰ ۗ إِنِّي أَنَا
 رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۗ ۝
 وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۗ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۗ ۝ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ بے چھا تو بہہ ای محمد واثر مزموسیٰ علیہ السلام سندہ فصیح خبر۔ سو قصہ چھو
 بوزنس لایق۔ تھہ منز چھہ توحیدس متعلق علوم، سمن ہند تبلیغ مزون نفع دوہون چھوئیس ہتھہ پاٹھہ واقع
 سڈمت چھو۔ اذ رانا افاقال لاهلہ امکشوا انی آنست نارا لعلی اتیکم منہا بقبس او اجد علی النار
 ہدیٰ یلہ تمو وچھہ دورہ اکھ نارہ یلہ تم شہر مدینس نشہ واپس یوان آس وتہ لکھہ راتھہ بے لکھہ
 سردی ئس دوچھہ عیالس پنہ ئس تہہ ٹھہر ویتہ تھی۔ مہ اولہنہ نارہ ئس نور اوس مگر شکل آس
 نارچ۔ بوگٹھہ تھہ جابہ دیوہ بوتورہ انہ تمہہ نارہ منزہ تہندہ خیطرہ تنیکلہ ہتھہ سردی ہند
 علاج سپدہ یالہ بونارچہ جابہ پیٹھہ کانہہ وتہ ہاوکھاہ فلما آتہا نوادی یوموسیٰ اودہ یلہ سو تھہ نارس نکھ
 ووت، آواز گیس خدیہ سندہ طرفہ ای موسیٰ انی آنا ربک نارچھنہ یارچھو۔ بیشک بوچھوس پروردگار
 چون فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی پس کڈو کھور واندردہ نعلین پنن کیا زہ تہہ چھہ پاک
 میدانس اندر تھہ ناوچھو طوی۔ نعلین تہنز چھنہ پاک سوچھہ مستعمل۔ کھور بانہ اگر پاک آسہ تمہہ سان
 نماز پر نچھہ جائیز مگر ہر گاہ مستعمل تہ ناپاک آسہ تیلہ چھنہ تمہہ سان نماز جائیز۔ وانا اخترتک
 فاستمع لہما یوحی مہ کمر موہ تہہ باقی لو کو اندرہ پیغبر ی خیطرہ منتخب۔ ئس بوز ووارہ تم احکام سم
 توہر گن سوزنہ یں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلوٰۃ لذرکری بیشک ئوی چھوس معبود
 برحق۔ کانہہ معبوداہ چھونہ مہ ورا ی۔ ئس کمر و میانی یا اثر پرستش۔ بے تھاوو نماز بر پامیانہ یادہ خیطرہ۔

أَكَادُ أُخْفِيهَا التَّجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ⑮ فَلَا يَصِدُّ نَكَعَهَا
 مِنْ لَابِئٍ مِنْ بِهَا وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَتَرْدِي ⑯ وَمَاتِكَ بِمِثْلِكَ يُوسَى ⑰
 قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَى عَنِّي وَلِي فِيهَا
 مَارِبٌ أُخْرَى ⑱ قَالَ أَلْقَهَا يُوسَى ⑲ فَأَلْقَاهَا فَاذَاهِيَ حَيَّةٌ
 تَسْعَى ⑳ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ㉑
 وَاضْمُرْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٌ

دو تم تھ پھتھ یہ کہ اِن الساعۃ الیۃ اکاد اُخفیہا ہنر پانھ قیامت پھتھ ضرور یوہ ون۔ بوچھوس
 سو مخلوقن نشہ کھت تھاون یڑھان۔ سو قیامت پیہ سمہ موکھ لِتَجْزِی كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى پھتھ
 پریتھ اکھاہ بدلہ حاصل ہیجہ کمر تھ تمہہ سار گوی سمہہ خیطرہ سو اورہ یور سعی و تلاش کران چھو
 فَلَا یَصِدُّ نَكَعَهَا مِنْ لَابِئٍ مِنْ بِهَا وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَتَرْدِي پس مہ رنئے ڈہ پھتھ تمہہ قیامتہ فکرہ نشہ سو
 شخص تیس نہ پچ پڑھی پھتھ۔ ہیہ چھو سو نفیجہ خواہیہ ہنز پیروی کران، ہر گاہ ڈہ تم ڈو لکھ ادہ گڑھکھ ڈہ
 تباہ وَمَاتِكَ بِمِثْلِكَ یوسى ای موسیٰ یہ کیاہ چھو توہہ و چھس اٹھس کیتھ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا
 عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَى عَنِّي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى تمبو ڈوپ خدایا یہ پھتھہ پن لورہ ہن۔ یہ پھس
 بوئہ ڈکھراوان۔ ہیہ پھس بوئہ امی سیت پنہ نین تیرن ہندہ خیطرہ پن چھانان۔ ہیہ تہ پھتھہ مہ اتھ منز
 واریاہ مطلب قَالَ أَلْقَهَا یوسى اللہ تعالیٰ ان فرموس ای موسیٰ یہ لور تر اون اتھ منزہ زمینس
 پیٹھ فَأَلْقَاهَا فَاذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى پس تراوان اتھ منزہ سو لور۔ اتی بیووتھہ ہیجہ مگہ سرفاہ دورہ
 دور کران۔ موسیٰ علیہ السلام کھوژ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى اللہ تعالیٰ ان
 فرموس کمر یوس پھتھہ، کھوژومہ۔ تھپ کر وہوئی نمون اس یہ ہیہ گڈ نکس حالتس کن۔ یعنی یہ سپدہ
 ہیہ لور۔ اکھ قدر تک نشانہ گویہ۔ امہ پتہ کر وہو عطا قدر تک بیاکھ نشانہ۔ وَاضْمُرْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ
 تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٌ ہیہ تھاو پین دچھس اتھ پنہ نس کھو فرس کڑھس منز سویرہ

أُخْرِی ۲۳ لِزُرِّیْكَ مِنْ اَیْتِنَا الْكُبْرٰی ۲۴ اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ
 طَغٰی ۲۵ قَالَ رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِي ۲۶ وَیَسِّرْ لِي اَمْرِي ۲۷ وَاَحْلِلْ
 عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۲۸ یَفْقَهُوا قَوْلِي ۲۹ وَاَجْعَلْ لِّي وَزِیْرًا مِّنْ
 اَهْلِی ۳۰ هٰرُونَ اَخِي ۳۱ اَشَدُّ دِیْبَہٗ اَزْرِي ۳۲ وَاَشْرِكْهُ فِیْ اَمْرِي ۳۳
 كِیْ نُسَبِّحَكَ كَثِیْرًا ۳۴ وَنَذْكُرَكَ كَثِیْرًا ۳۵ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا
 بَصِیْرًا ۳۶ قَالَ قَدْ اُوْتِیْتَ سُوْلَكَ یٰمُوسٰی ۳۷ وَاَلْقَدَمْنَا

توره سیٹھاہ سفید روشن۔ پچہ نہہ گره وان کثہ عیبہ درای۔ یہ چھو دو تم مجزہ۔ تم دوشوے مجزہ سانہ
 قدر تک تہ تہندہ نبوتک تم کمر اسہ توہہ عطا۔ لِزُرِّیْكَ مِنْ اَیْتِنَا الْكُبْرٰی مجھ اس توہہ ہاوہ پنہ
 قدر تہ کیو بڈیوشاوا ندرہ بعضہ نشانہ اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰی تمہ ہیتھ گزہ ہو تہہ فرعونس نشہ، پتہز
 پاٹھ تم چھہ سر کشی کمر مش۔ تم چھو د عوائے خدائی دتتمت۔ موسیٰ علیہ السلامس سپد معلوم کہ یوسمہ
 سوزنہ پیغمبر فرعونس فہمایش کرنہ خیطرہ۔ تمو کور دعا کہ پروردگار ائمہ تھہہ مضبک مشکلات کر تہہہ
 سہمک تہ آسان قَالَ رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَیَسِّرْ لِي اَمْرِي تمو دوپ ای میانہ پروردگارہ میون حوصلہ
 کر سیٹھاہ وسیع بیہ کر میان کوم۔ تبلیغ کزن آسان میانہ خیطرہ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي * یَفْقَهُوا
 قَوْلِي بیہ مژراو پچھہرک گنڈ میانہ زیوہ نشہ یٹھ لوکھ میان تھہ وارہ بوزن وَاَجْعَلْ لِّي وَزِیْرًا مِّنْ
 اَهْلِی * هٰرُونَ اَخِي * اَشَدُّ دِیْبَہٗ اَزْرِي بیہ کرتہ میانہ خیطرہ میون مددگار میانی خاندانہ منزہ
 کانزھاہ۔ ہارون، اُس میون بوی چھو۔ تہندی سیتہ درراوتہ میان تھر تہ میون قوت وَاَشْرِكْهُ فِیْ
 اَمْرِي بیہ کزن سو میون شریک میانہ تبلیغہ چہ کامہ اندر یعنی سوتہ بناون پیغمبر۔ تمس تہ کر حکم تبلیغ
 کرنگ کِیْ نُسَبِّحَكَ كَثِیْرًا یٹھ اُس دوشوے چون تسبیح آسو تبلیغہ وقتہ زیادہ کران وَنَذْكُرَكَ
 كَثِیْرًا بیہ آسو چون یاد زیادہ کران اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِیْرًا بیٹک تہہ چھوک سون حال وارہ وچھ
 ون قَالَ قَدْ اُوْتِیْتَ سُوْلَكَ یٰمُوسٰی اللہ تعالیٰ ان فر موسیٰ ای موسیٰ تہہ اودہ عطا کرنہ بیہ تہہ

عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۝۳۷ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۝۳۸
 أَنْ اقْدِفِي فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِي فِي الْيَوْمِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ
 بِالسَّاحِلِ يَا خُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوْلَهُ ۝ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً
 مِّنِّي ۝ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝۳۹ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ
 أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۝ فَرَجَعْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
 وَلَا تَحْزَنَ ۝ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ

مکان چھوہ۔ رب اشرا حل پیٹھ۔ تم گئے تم چیز تمکن ہند توہمہ در خواست کروہہ وَاَقْدَمْنَا عَلَيْكَ
 مَرَّةً أُخْرَى پز پاپا اسہ چھو توہمہ پیٹھ بیہ کتہہ تا احسان کورمت تہمہہ در خواستہ ورا ای إِذْ أَوْحَيْنَا
 إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ یلہ اسہ الہام تر و تہمزہ ماجہ والدس تہمہہ زینکہ وقتہ سنو کتھہ یوسہ الہامہ پاٹھی
 واتاوندہ یوان چھہ اِنَ اقْدِفِي فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِي فِي الْيَوْمِ بیہ کتھہ کہ موسیٰ پچاون جلاؤو
 ہندیوا تھونشہ۔ بیہ تھاون صندوقس منز توپتہ تراون سو صندوق دریاوس منز فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
 يَا خُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوْلَهُ توپتہ واتہ ناوہ دریاہ صندوقس پٹھس سیت۔ پچولاگس رتہ امس اکھ
 میون دشمن۔ بیہ تھوند دشمن وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بیہ ترودمہ توہمہ پیٹھ پین محبت۔ یعنی کس
 توہمہ کن وچھان اوس کس اوس تہمہ محبت گوتھان وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي بیہ کتھہ تہمہ رجھنہ ابو میانہ خاص
 نگرانی تل بیہ گو تھی وقتہ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ یلہ پکان پکان واثرنہ،
 ہمشیرہ تہمزہ تہمہہ حال دریافت کران کران فرعونہ سُد گھرہ تموا اسہ انمزہ واریاہ دودہ ماجہ توہمہ دودنہ
 خیطرہ۔ تہمہ آسوہ نہ کانہہ ہمزب رٹان۔ پس لچھہ سو تہمزہ ہمشیرہ وننہ بوہا اووہ توہمہ کس زمانہ ہند پتہ
 یوسہ امس وارہ پاٹھہ رچھہ۔ تمودوکس کتھوہاہ کرتہ جلد تہن۔ تمہہ ان والدہ تہمزہ فَرَجَعْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ
 تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ توپتہ واتاوہہ اس تہمہ پتہ ماجہ نشہ یوتھہ تہمزہ اچھہ شہلن۔ بیہ سپدہ نہ سو
 تہمزہ جدائی سببہ غمکین۔ بوڈواتھہ کروہہ اس توہمہ بیاکھ احسان وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ

فَتَوَّاهُ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۗ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ
 يٰمُوسَىٰ ۙ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۚ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَتِي
 وَلَا تَنبِيءِي ۚ ذِكْرِي ۚ إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۚ فَقَوْلَا لَهُ
 قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ
 يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ۚ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ
 وَأَرَىٰ ۚ فَآتِيهِ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بِنِي

وَقَتْلِكَ فُتُوًّا ۖ بیه مورون توہمہ غلطی سببہ قبضیو اندرہ آکھ شخصہ، پس دیت اسہ توہمہ نجات غمہ
 ہشہ۔ خوف عقابہ نشہ دیت اسہ توہمہ نجات استغفارک توفیق دنہ سیت۔ بس استغفار اسہ قبول کور۔
 خوف انتقامہ نشہ دیت اسہ توہمہ نجات، مصرہ ہشہ و اتاودہ اسہ تہہ شہر مدینس منز۔ بیه گرہ اسہ توہمہ شہر
 مدینہ واتس تان واریاہ آزمائشہ تموسیت انسان پختہ کار چھو بنان ۖ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تو
 پتہ رُودوہ تہہ شہر مدینہ کین لوکن ہشہ واریہن وریہن ۖ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یٰمُوسَىٰ توپتہ واتوہ تہہ
 خاص و قس پیٹھ بس تہدہ خیطرہ تقدیرہ موجب موزون و مناسب اوس میانہ ہمکلامی خیطرہ بیه مصرس
 منزای موسیٰ۔ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي تہہ بناوہ مہ خاص پنہ کامہ خیطرہ یعنی نبوت و رسالتہ خیطرہ
 إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَتِي وَلَا تَنبِيءِي فِي ذِكْرِي ۚ لہذا آگہ ہو تہہ بیه تہند برادر ہارون علیہ السلام میان
 آیات ہتہ یعنی میان معجزات عصا تہد بیضا ہتہ۔ یتھنہ سستی کمر و میانس بارس اندر ۖ إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
 إِنَّهُ طَغَىٰ گدھو فرعونس ہشہ کیازہ تم کمر سر کشی ۚ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ پس
 کمر و تس سیت تہہ نرم نرم، شاید سوما رطہ نصیحت یا ماکھوڑہ خدلیہ سدس عذابس ۚ قَالَ رَبَّنَا إِنَّا
 نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ۚ تمودوشوی دُوب ای سانہ پروردگارہ اس چھہ کھوژان سو
 گدھنہ بروٹھی اسہ پیٹھ گنہ بدسلوکی سیت پیش کن یا گدھہ نہ اسہ بروٹھ کتہ تہ سر کشی کزن۔ قَالَ
 لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَىٰ ۚ اللہ تعالیٰ ان فرمودہ کھوژومہ تہہ۔ امیک مہ کمر و کانہہ پرول۔

إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ
 عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿٤٩﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ
 كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى ﴿٥١﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٥٢﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿٥٣﴾
 قَالَ عَلِمْنَا عِنْدَ رَبِّنَا أَنَّ فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿٥٤﴾

تو چھوس پانہ توہمہ سیت سو زوی بوزان سو زوی وچھان۔ میان یاری تہ مدہ چھو توہمہ سیت فکر مہ کزو
 بو کرہ ہنہز۔ حفاظت سو کرن بو مرعوب قَائِلِيَهُ فَقَوْلًا آتَانَا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
 لہذا آکھو تس نشہ بے خوف وخطر۔ تو پتہ ونیوس پنز پاٹ اس چھہ چانس پروردگارہ سندہ طرفہ زہ پیغمبر
 لہذا کر تہ سان اطاعت۔ توحید مان۔ ہیہ روز ظلمہ نشہ پتہ۔ تراو کھ اسہ سیت بنی اسرائیل۔ تم مہ بناو کھ
 تہ ہن غلام۔ تم کز کھ آزاد۔ تمن دہ آزادانہ زندگی بسر کرنہ وَلَا تَعَذِّبُهُمْ تمن پیٹھ مہ کر ظلم۔ اس نئس
 پیغمبری ہند دعوے کران چھہ، ہیہ دعوے چھہ کران اس یجیہ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى
 مِنْ اتَّبِعَ الْهُدَى پنز پاٹھ اس چھہ آمت تہ نشہ چانس پروردگارہ سندہ طرفہ مجزہ ہتہ۔ سلامتی چھہ
 تس شخصہ سندہ خیطرہ نئس بیروی کرہ سیزہ وتہ ہنزز إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ
 وَتَوَلَّى اسہ پیٹھ چھو پنز پاٹھ وحی نازل آمت کرنہ کہ بیشک خدایہ سند عذاب ہیہ تس کرنہ نئس پنز اس
 زانہ اہز ہیہ کرہ روگردانی یعنی پزہ نشہ بھرہ ہتہ۔ ہیہ سو زوی مضمون وتو نئس۔ چنانچہ تم دوشوے آئے
 فرعونس نشہ ہیہ سو زوی مضمون کو رکھ تس بیان۔ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى فرعونن دوپچھ تورہ
 سوگس چھو تہند پروردگارے موسیٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى حضرت موسیٰ
 آن دو نئس سون پروردگار چھو سوئی یئم پر ہتھ چیزس دژ ہن ہن صورت تہ شکل۔ تو پتہ سم تم مو اندرہ
 جاندار چیز چھہ تمن ہاون وتھ پنے نین نین منافعن گن قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى فرعونن دوپچھ
 بروٹھمہ وقتہ کین لوکن ہند کیاہ حال سڈ سمو بروٹھمین پیغمبرن تکذیب کر، تمن پیٹھ کوہ عذاب سڈ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسَّلَكُ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۝۵۶
 كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۝۵۷ مِنْهَا
 خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝۵۸ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ

نازل قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ حضرت موسیٰ ان دوپس کہ میون دعویٰ چھونہ کہ سُو عذاب
 کیاہ سپدہ تمَن دنیاء سی اندر ضرور بلکہ چھو سُو عذاب دُنیا س منز تہ تمَن ہندہ حتہ۔ ہر گاہ سُو بیٹھہ
 آخرتس منز چھو یقیناً۔ چنانچہ تہمدین بد اعمالن ہند علم چھو میانس پروردگار س نیشہ اعمالن ہندس
 دفترس منز موجود۔ اگرچہ تس چھنہ ضرورت دفترس محفوظ تھاوچ کیاہ میون پروردگار چھو تیتھہ زان
 وول کہ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى نہ چھو سُو غلطی کران ہنہ چیزس منز نہ چھو تس مٹتھہ گوشان۔ پس
 چھو تس تہمدین سارنی عملن ہند صحیح علم مگر عذابہ خیطرہ چھون وقاہ مقرر کورمت۔ یلہ سُو وقت
 ولتہ، سُو عذاب بیہ تمَن پیٹھہ جاری کرنہ۔ یوتان سپد موسیٰ علیہ السلامن تقریر ختم۔ امہ پتہ چھو اللہ
 تعالیٰ پنن شان پانہ فرماوان الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسَّلَكُ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى سُو پروردگار گو سُو نیم زمین کمر تہمدہ خیطرہ و شہرناہ
 تھہ پیٹھہ چھوہ تہہ آرام کران۔ بیہ کج اتھہ زمینس منز تہمدہ پچنہ خیطرہ و تہ۔ بیہ تروون آسماحہ طرفہ
 رود۔ پس کھار اسہ تمی رُودہ سمیت زمینہ منزہ مختلف نباتات۔ گاسن ہند اقسام كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ توپتہ آوتوہہ اجازت دہ کہ کھو تہہ اکھ پانہ بیہ کھاو پوکھ پنن چارواہ تہ
 مویشی۔ پز پات تمَن سارنی چیزن منز چھہ کم کم نشانہ خداہ سبہ قدر تک عقلہ والین ہندہ خیطرہ۔ تھہ
 پاٹ نباتات اسہ کھار زمینہ منزہ تھہ پاٹھہ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى
 امی زمینہ نیشہ کمر وہ اسہ توہہ پیدہ۔ ابتداء س اندر آو حضرت آدم پیدہ کرنہ میڑہ۔ لہذا چھو سارنی
 انسان ہند مادہ بعید میڑہ۔ بیہ واتاووہ تہہ اکھ میڑہ اندر رنہ پتہ۔ امی میڑہ منزہ کڈوہ بیہ دوبارہ قیامتگ
 دوہ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى پز پات بیہ ہاوس اسہ فرعونس پنن ساری نشانہ تہ معجزہ

الَّتِي تَنَاكَلَهَا فَكُذِّبَ وَأَبَى ﴿٥٧﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا
بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ﴿٥٨﴾ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
مَوْعِدًا الْإِخْلَافَةَ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوِيًّا ﴿٥٩﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ
يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٦٠﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ
كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦١﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا
فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ﴿٦٢﴾ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ

تہ کمر تھ تہ زون تم اہڑی بیہ کوزن انکاری قال اجئتنا لخرجنا من ارضنا بسحرک موسی دہنہ
لگ ای موسی کیا تہہ چھوہ آسہ نش آمت بیہ دعوی تہہ بیٹھ ای بہانہ سیت آسہ پتہ ملکہ منزہ کڈو۔ پتہ
بحرہ تہ جادہ سیت ای موسی فلما تبینک بسحر مثله فاجعل بیننا و بینک موعدا الاخلافہ نحن ولا
انت مکانا سویی آس تہ انو چانس جادس ہیو بحر تہ جو دمقابلہ خیترہ۔ پس کر آسہ تہ پانس منز مقرر آکھ
وقاہ۔ نہ گرو آس تہہ خلاف تہ نہ کمر و تہہ تہہ خلاف۔ آس صاف تہ ہموار میدانس منز سمو آس
دوشوے مقابلہ خیترہ۔ قال موعدکم یوم الزینتہ وان یحشر الناس ضحی حضرت موسی علیہ
السلامن دوپھ و عدہ تہند چھو تمہ دوہہ بیٹھ منز توہہ میلہ آسان چھو۔ تم آس فرعونہ سہد سالگرہ
منانہ خیترہ میلہ لاگان۔ (معلوم سپد سالگرہ مناوان چھو فرعونہ سہد ایجاد۔ مترجم) مگر شرط چھو لوکن
ہند گڑھہ اڈہ کاجس جمع سہدن فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم ائی توپتہ گویہ بوزت فرعون، دربارہ
منزہ در او۔ پس تین کزن جمع مکزک سوڑی سامانہ۔ توپتہ آو مقرر کر قس دوہس پیٹھ، بیہ آن ساری
پانس سیت قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحیتکم بعذاب وقد خاب من افتری سمہ
دوہہ ادہ تم ساری جادو گریستے، حضرت موسی ان کورکھ تقریر۔ تہہ منز فر موونکھ ای جادو گرو تہندہ
خیترہ چھو افسوس تہہ مہ نوو او و خدا یس پیٹھ اپز۔ ہر گاہ تہ تہہ آسہ نشہ بیٹھ روز و تیلہ گالہ وہ سو توہہ
پتہ عذابہ سیت۔ پز پات تم اپز نوو روزو خدا یس پیٹھ سو گو یقینا نام فتنازعوا امرہم بینہم و اسروا

بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿١٢﴾ قَالُوا إِنْ هَذَا لَسِحْرٌ يُرِيدُ أَنْ
 يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَى ﴿١٣﴾
 فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَاصِفًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ﴿١٤﴾
 قَالُوا يُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿١٥﴾
 قَالَ بَلْ الْقُوَا فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ
 أَنهَا سَعَىٰ ﴿١٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿١٨﴾ وَالْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا

النجوى حتمہ پتہ ہیوت تموجادوگردپانہ وان اختلاف کرن بیه ہیزکھ لوتہ لوتہ کن تھہ گرنہ قالوا ان
 هذين لسحرين يريدان ان يخرجكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى دپنہ لگ اکہ وئہ
 ساری جادوگر تم دوشوے بارن موسیٰ و ہارون علیہ السلام چھہ بیشک جادوگر۔ تم چھہ یڑھان توہیہ
 ساری کڈنوہ پنہ نیوشہرواندروہ۔ بیہ ژلن ہتھ توہیہ نشہ تھہد غمدہ مذہب توپتہ کرن سوختم فأجبعوا
 کیدکم ثم اتواصفا پس سونبر اووہن ساری حیلہ توپتہ ابو صف دی وی مقابلہ کرنہ خیطرہ
 وقد افلح اليوم من استعلى ہنڑپاٹھ از زبون تھی لیس غالب سپد۔ قالوا یوسى امان ان تلقى واما ان
 نکون اول من القى جادوگر و دوپ ای موسیٰ تھہ تراوہہ کنہ آسی تراوہہ کوڈہ قال بل القوا تموجادو
 دوہیک نہایت بے پروائی سان۔ نہ گوڈہ تراوہی۔ فإذا جبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم
 انھا سعى توپتہ ترودو تموجن جود۔ اتی آو حضرت موسیٰ سدس خیالس اندر تھہدہ جادوہ زورہ سیت
 کہ تھنہ زورہ تہ لورہ چھہ سرفن ہندپاٹھ دورہ دورہ کران۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ توپتہ لگ
 حضرت موسیٰ پانس منز خوف محسوس کرنہ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ اسہ دوہس ای موسیٰ
 کھوژمہ غالب روزکھ ژی وَالْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا بیہ تراوہہ تہ بیہ ژہ پنہ نس دچھنس

صَنَعُوا كَيْدَ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِكُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿۶۹﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ
 سُجَّدًا قَالُوا أَمَّا رَبٌّ هُرُونَ وَمُوسَى ﴿۷۰﴾ قَالَ أَمْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ
 أَنْ أَدْنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قِطْعَنَ
 أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصَلَيْتُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ
 وَكَلَّمْتُمْ إِيْنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿۷۱﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا
 جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

اٹھس کیتھ چھوی یعنی عصا، کُنوی میوند کڈہ سو عصا آتھ ساری یہ تمہو تیار کورمت چھو۔ اِنَّمَا صَنَعُوا
 کید سحر و لا یفلک الساحر حیث ائی تمہو چھونہ تیار کورمت مگر جادوگرہ سُنڈ مکر تہ فریب۔ جادوگر چھو
 نہ کامیاب سہان کنہ جابہ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اُن یلہ لور پین پشہر تراؤتھ لورہ بنیو اژدہا سم آتھ
 ساری جادوگر ن ہندس جادس ستیاناس کور، تہ یلہ جادوگر وچھہ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا تم جادوگر
 آئے وکراونہ سجدس منز قَالُوا أَمَّا رَبٌّ هُرُونَ وَمُوسَى تمہو دوپ اسہ کمر پڑھ حضرت ہارون تہ
 حضرت موسیٰ سندس ہروردگارس قَالَ أَمْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَ لَكُمْ فرعون دوچھہ کیاہ توہہ کمر وہ
 پڑھ تھہ میانہ اجازتہ وراى إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ معلوم چھو سہان یہ چھو تھند زیتھ
 سم تھہ تہ بحر تہ جود پچھناومت چھوہ۔ وَاِنْ وَجَّهْتُمْ بِوُجُوهِكُمْ كَمَا كَانَتْ وَجُوهُكُمْ تَوَّابًا
 خِلَافٍ وَلَا وَصَلَيْتُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ کس ژٹہ بو توہہ آتھ تھند تہ کھور تھند دچھن کھور۔ یہ
 دمووہ بو تھہ پھہہ خضر کلین پیٹھ یٹھ ساری لوکھ وچھن تھند حال وَكَلَّمْتُمْ إِيْنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى یہ
 ترہ توہہ فکہرہ زہ اسہ منزہ تھہ چھو زیادہ سخت تہ پوشہ وَاِنْ عَذَابُكُمْ كَرِهْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 پروردگار۔ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا جادوگر وچھن ای فرعون گڑھ
 گڑھ۔ اُس ہرگز ژہ ناوتھ نہ، ژہ اختیار کروت نہ نینود لیلو خونہ سمہ اسہ نشہ واژہ۔ یہ کس پروردگارہ
 سہہ خونہ سم اس پیدہ کمر فاقضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا نَقَضْتُمُ هَذِهِ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا کس ژہ یہ کزن چھوی

إِنَّمَا تَقْضَىٰ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا
 خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۙ
 إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ
 لَا يَحْيَىٰ ۙ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ
 لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۗ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ۙ

تہ کر۔ اُس کھوڑہ دن چھنہ۔ بوڑ بوڑیم گوڑہ چلاؤ کہ حکم بتھ سانہ دُنیاچہ زندگی پیٹھ۔ یعنی اسہ مار کہ تمیک چھونہ اسہ کا نہہ پروا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اُس چھہ علی الاعلان ونان پز پناٹ اسہ کتر پڑھ پنہ نس پروردگار س دیوہ سواسہ مغفرت تہ بخعائش کر گنہن سائین بیہ سانس جو در کس بتھ پیٹھ ڈی اُس مجبور کمرت معبود بر حق چھو باعتبار ذات و صفات سیٹھاہ رُت، باعتبار ثواب و عقاب تہ چھو پوشہ ون۔ باقی روزہ ون۔ ژہ چھوی نہ خیریت نصیب نہ بقا۔ اسہ کیاہ کھسہ چون انعام فخرہ یا چون عذاب۔ اللہ تعالیٰ سُد قانون چھو اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ پز پناٹ اُس شخص واسر پنہ نس مالکس بروٹھ گن گنہگار تہ نافرمان یعنی کافر حالتس اندر کس تہندی خیطرہ چھوسز اے نار جہنم۔ بتھ منز واتھ نہ مژہ نہ اسہ زندہ۔ کیاہہ زندہ روزن گنیدو آراماہ تلہ ہا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ البتہ تم واتن پنہ نس مالکس نغہ نس ایمان انہ ون بیہ آس نس واقعی رژہ عملہ کرہ مژہ۔ تمنی لوکن ہندہ خیطرہ چھہ تھند درجہ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ تم تھند درجہ گئے ہمیشہ روز نک باغ سمو منز جو بیہ تہ کولہ پکان آسن۔ تمنی جتن منز آسن روزہ ون تم ہمیشہ۔ یے چھہ مزور تمن لوکن ہنز سم شر کہ تہ کفرہ نغہ پاک آسن۔ اٹھ قانونس ماتحت تروو اسہ کفر، اختیار کور اسہ ایمان وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ
لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝
فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيََهُمْ ۝
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ۝^{۴۹} يُبْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ
أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى ۝^{۵۰} كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۝ وَمَنْ

فَاضْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝
اس گن کہ نیر و نجرہ میان بندہ یعنی بنی اسرائیل بیتھ۔ رات گیت و اتنا یو کہ دور کتہ جلیہ بیتھ تم فر عوہ سندہ
ظلمہ نشہ نجات لہن۔ تو پتے وتہ منز تو بہہ دریاء قلزم ایہ تھہ لایو پتہ لورہ سمیت ژنڈ۔ تمہہ منزہ کڈو تھہ
خشک۔ نجرہ مہ کھو ژو فر عوہ سندس پتہ لارت رٹہ نس۔ نہ مہ کھو ژو دریاوس منز پھہ نس نجرہ و اتنا دووہ
اُپور امن و امانہ سان فَاَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيََهُمْ ۝
فرعون پن لشکر بیتھ۔ تو پتہ ووت سوتہ اتھہ دریاوس منز۔ سوتہ پوک امی دریاوہ منز۔ نس دل تم
دریاوہ منزہ تم چیزن تم تم دل یعنی آب آکھ پریتھ طرفہ تمی کمر غرق وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا
هَدَى ۝
بہہ ڈول وتہ فرعون پن قوم۔ سبیز و تھہ ہاو کھنہ ساری پھاٹون کولہ یُبْنِي إِسْرَائِيلَ
قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى ۝ ای بنی
اسرائیلو و جھو اسہ ویت تو بہہ نجات تھندس بڈس دشمن نشہ بہہ تھو واسہ وعدہ تو بہہ یعنی تھندس
پیغمبرس موسیٰ کلیم اللہس کوہ طورہ کس د چھنس پاس پیٹھ بیگ۔ تہہ تورايت عطا کر نگ۔ بہہ کوراسہ
نازل تو بہہ پیٹھ واوی تہس منز وسلوئی۔ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ

يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوَىٰ ﴿۸۱﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن
 تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿۸۲﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ
 عَنِ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ﴿۸۳﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أَشْرَىٰ وَ
 عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿۸۴﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا
 قَوْمَكَ مِنْ أَيْدِيكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿۸۵﴾ فَرَجَعَ
 مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْبَدِكُمْ

عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اسہ دون تمہہ کھیورت چیز۔ تمو
 چیز و اندرہ تم اسہ توہمہ عطا کر۔ تمہہ تمہہ تنہہ منزحدہ ڈلو۔ پچھمہ خیطرہ تھا و ذخیرہ کتر تھ۔ تھہ پیٹھ سپدہ
 میان بیزاری۔ نس پیٹھ میان بیزاری سپدہ نس پتر پاٹھ سو پو خوار ی ہندین سر نین چمن اندر
 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ پتر پاٹھ یو جہوس سیٹھاہ مغفرت
 گرہ ون تم نسم توبہ کرن ایمان ان بیہ رتھہ عملہ کرن تو پتر روزن قائم تھہ سیزہ وتہ پیٹھ۔ یلہ اللہ
 تعالیٰ ان منظور کور موسیٰ علیہ السلا مس تورایت عطا کرن۔ فر موونکھ کوه طورس پیٹھ ایو۔ سیت انوکھ
 پنہ قومہ منزہ بعضی اشخاص۔ مگر موسیٰ علیہ السلا مں کتر جلدی قومس بروٹھی وات کوه طورس پیٹھ۔
 اللہ تعالیٰ ان فر مووس وَمَا أَعْجَلَكَ عَنِ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ای موسیٰ تھہ کم چیزن اوکھ پنہ نس
 قومس بروٹھہ مہ نس۔ تم کیا زہ تراوتھکھ پتھ۔ قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أَشْرَىٰ عرض کورن کیا تم
 جھہ پکان مہ پتے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ مہ کتر جلدی تھہ نشہ حاضر سپدہ خیطرہ تھہ تھہ راضی
 گڑھہ تم میانہ ہر و در گارہ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ أَيْدِيكَ اللہ تعالیٰ ان فر مووس
 اے موسیٰ تھہ پتہ کور اسہ چون قوم بیس آزمائشہ اندر بتلا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ تم ڈال سامرین
 فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا نس پھیور پوت حضرت موسیٰ پنہ نس قومس کن
 تھہ ہوت افسوس کران قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْبَدِكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَا حَسَنًا قومس دو مین ای قوم توہہ سیت

رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۗ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ
يَجْعَلَ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿۸۷﴾
قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا آوَارًا مِّن زِينَةِ
الْقَوْمِ فَقَدْ فُتِنَّا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿۸۸﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا
جَسَدًا آلَهُ خَوَارٍ ۖ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ۗ فَانْسَى ﴿۸۹﴾ أَفَلَا

اوس ناپروردگارن تہمد وعدہ کورمت رُت وعداہ کہ توہہ کرووہ عطا اکہ بتاباہ تہہ منز تہمدہ خیطرہ
احکام آسن۔ توہہ اوس لازم تمیک انتظار کرن اَقَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ کیاہ تہہ وعدس گیاوہ توہہ زیادہ
ثریر تا اینکه توہہ سہز نامیدی تمہ نغمہ نہ توہ کمر وہ ایجاد اکہ عبارتہ پائے۔ اَمْرَدْتُمْ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْكُمُ
غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ کہنہ توہہ کا نچھوہ نامید سپدنہ ورا ی پانس پیٹھ پنہ نس خدایہ سنز بیزاری
فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي تہہ سُن نظر کتر تہہ کورہ میانس وعدس بدل کہ آس گرونہ کنس خدایس ورا لے بیہ
کانسہ ہنز پرستش قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا تمودوپ اے موسیٰ اسہ کورنہ تہمدس وعدس
بدل پنہ اختیارہ وَلَكِنَّا حَمَلْنَا آوَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ فُتِنَّا لیکن قصہ سپد تہہ پاٹھ کہ آس آس
تکناونہ آمت قوم قبطک گہنہ نہ زیور سوی تراویو اسہ سامری سندہ وننہ موجب نارس منز گانہ خیطرہ۔
سُو زیور اوس نہ ونہ تموپنہ نس تصرفس منز اوومت کیا زہ سُو مال اوس تمن بنیومت قبلی کافرن نغمہ۔
تہمدہ رضامندی ورا ی۔ تمن اوس نہ ونہ تمیک حکم بیان آمت کرنہ شریعت موصوی موجب۔ تمی
دوہنگہ سامرین کہ بیہ مال تھا دو تان جمع کتر تہہ تہہ پاٹھ روزہ بیہ محفوظ۔ پتہ یلمہ حکم بیان بیہ کرنہ اتھ
متعلق تمہ ساتہ گرو تقسیم۔ سامر اوس اکہ گامہ سلگ شامس اندر پنجوی اوس بیہ شخص۔ تمی آس ونان
سامری۔ بیہ شخص اوس منافق فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ تہہ پاٹھ تروو سامرین تہہ پنہ حصک زیور
نارس منز گانہ خیطرہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا آلَهُ خَوَارٍ پس کوڈ تمی لوکن ہندہ خیطرہ تہہ ساری
سنونس بناو تہہ اکہ ووژہاہ، ووژہ سُد جسمہ۔ تہہ آس آواز تہہ ووژہ سنزی ہش۔ یعنی سوسونہ سُد ووژہ

يَرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَبْلُغُ لَهُمْ صَرَخًا وَلَا نَفْعًا ۚ
 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ
 رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۙ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ
 عَلَيْكَ عٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۙ قَالَ يُهْرُونَ مَا
 مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۙ أَذَلَّتْ بِعِينٍ ۙ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۙ

اوس ٹانگ دوان وڑھ سہ پائھ۔ فقَالُوا تھہ نسبت لگ ونہ تم احق لوکھ اکھ انکس هَذَا إِلَهُكُمْ وَ
 إِلَهُ مُوسَىٰ قَدِي ۙ یوہے چھو تھہند معبودیہ حضرت موسیٰ سہد معبود۔ اسنزی کتر و عبادت۔ تس
 (یعنی حضرت موسیٰ اس) زودنہ ژیتس سُوگو کوہ طورس پیٹھ معبودس سیت ملاقات کرنہ اَفَلَا يَرُونَ
 اَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَبْلُغُ لَهُمْ صَرَخًا وَلَا نَفْعًا ۚ سم احق لوکھ چھناو چھناں کہ وڑھ چھونہ تھن
 کاہنہ جواباہ بیکان پھیر تھہ وڑھ۔ بیہ چھونہ سوما لک کئہ ضر رس تھہندس نہ کئہ نفقس ۙ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ
 هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۙ بیہ اوس ہنر پائھ تھن وونمت حضرت موسیٰ سہدہ واپسینہ
 بروٹھ ہارون علیہ السلامن کہ ای میانہ قومہ تھہ آوہ آزمادہ نہ تھس وڑھ سہدہ سیت۔ تھہ پھسے وہ
 گراہی اندر ۙ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۙ بیشک تھہند پروردگار چھو حضرت رحمن، بیہ
 وڑھ چھونہ لہذا کتر و تھہ میان پیروی بیہ مانو میون کھم۔ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ
 اِلَيْنَا مُوسَىٰ ۙ تمودو پھس جواب اس روزو برابر اس وڑھ سز پر سٹش کر ان یوتان واپس ایہ اسہ
 نِشہ حضرت موسیٰ۔ توپتہ آو واپس حضرت موسیٰ۔ تو مس گن خطاب کرنہ پتہ فرمودو تمو ہارون علیہ
 السلام بیٹھرس ۙ قَالَ يُهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۙ * اَلَا تَتَّبِعِنَ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِي ۙ حضرت
 موسیٰ ان دُوپ ای ہارون تھہ کم چیزن رٹوہ پتھ مہ نِشہ واتنہ نِشہ توبہ و چھہ وکھ تم گراہ سہدان یعنی توبہ
 پزہ ہاتھ اتھی تراون نہ مہ نِشہ وائٹن۔ تھن سہدہ ہاتھہ سیت معلوم اسہ کتر بیہ ناجاز حرکت۔ مہ اوس
 توبہ وونمت کہ (وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) تھنہ تھہ پیروی کتر و مفسدان ہنزہ و تہ ہنز لہذا کیا زہ کورہ

قَالَ يَبْنُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِيَّايَ خَشِيتُ أَنْ
تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَمْ تَرُقُّبُ قَوْلِي^{۹۲} قَالَ
فَمَا خَطْبُكَ يَا مِرْيُ^{۹۵} قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ
لِي نَفْسِي^{۹۶} قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا
مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي

توہمہ میانس اتھ خمس بدل۔ قَالَ يَبْنُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ہارون علیہ السلام دوجھ
باى صابانہ ہمز کثر تھپ ریشس تہ مستس میانس۔ اموی رنٹھ مہ لٹھومہ۔ ذراتراو خشم وارہ یوزتھہ ائی
خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَمْ تَرُقُّبُ قَوْلِي بوکھوٹس ٹہی مادپو ژہ کور تھہ
تفرقہ تہ جدائی بنی اسرائیل کن منز۔ ژہ کور تھہ نہ کانہ خیال میانہ کتھہ ہند۔ میان تھہ تھاو تھہ نہ ژیتس۔
توپتہ سپد حضرت موسیٰ متوجہ سامرئیس کن قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مِرْيُ دوپئس اے سامری چون
معاملہ کیاہ چھو۔ ژہ ٹہہ وکانہ گوی، یژہ حرکت کیاژہ کرتھہ ژہ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
دوہن مہ آؤبوزنہ تی یہ نہ لوکن بوزنہ آؤ۔ یعنی جبریل امین یلہ حضرت موسیٰ اس نشہ آؤسؤ اوس تھہ
ساتہ گرس کیتھ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ پئس تج مہ اکھ میژہ موٹھاہ سوزنہ آتس شخصہ سندہ
سواری ہند یوکھوز وتلہ۔ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي سنوی تراوم سنونہ وژ ہس منز۔ ہوی
خیالہ دو تھہ مہ تمہ ساتہ دلہ پیٹھہ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ حضرت
موسیٰ ان دوپئس گڑھہ چانہ چھہ وچھو امیک سزا دنیا س اندر یو ہے کہ ایتس کالس ژہ زندہ چھہ ژہ آسکھ
ونان لوکن دور روزومہ پٹھنہ اتھہ لاگو وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ بیہ پٹھہ امہ علاوہ چانہ خیطرہ
عذابک وعداہ ئیس نہ ڈلٹھہ ہیجہ۔ پٹھنہ ژہ سیت بدل بیہ کرنہ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ
عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّاهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا بیہ وچھہ ژہ پنہ ئس باطل معبودس کن، ئس ڈاڈکتر تھہ اوسکھ

ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا النَّحْرِقَتَّةُ ثُمَّ لَنْسِفَتَهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا ﴿٩٤﴾
 إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٥﴾ كَذَلِكَ
 نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا
 ذِكْرًا ﴿٩٦﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿٩٧﴾ خَلِيدِينَ
 فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿٩٨﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ
 الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿٩٩﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا

ژہ پرستش کران۔ وچھہ سوزالون اَس۔ توپتہ کروس سُو۔ سُو سُو چھو کو دریاؤس منز پورہ پاٹھ۔
 آلس سیت گڑھہ سُو سوراہہ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ای لو کو تہند معبود
 چھونہ کا نہہ تَس ذات پاکس ورا ای، تَس ورا ای نہ کا نہہ معبوداہ چھو، سُو چھو پر تہہ چیزس احاطہ کمر تہہ
 پنہ علمہ سیت۔ کَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ تہہ پاٹ اسہ توپہ موسیٰ علیہ السلام سُنہ
 قصہ بیان کور تہہ پاٹ چھہ اَس بیان کران توپہ برو تہم حالات واقعات۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا
 بیشک بیہ کور اسہ توپہ عطایار سول اللہ پنہ طرفہ اکھ نصیحت ناما، قرآن مجید تَس پانہ اکھ نوڈ مجرہ آسنہ
 سبہ تہندہ نبوق ہڈ دلیل چھہ۔ سُو نصیحت نامہ چھو تہہ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا
 تَس اکھاہ تہہ پھرہ تمہہ زہہ، تمہہ کین اعمالن تعمیل کرنہ زہہ تَس بیشک سُو تہہ قیامتگ دوہ گو تہن ہند بوڈ
 بور یمن گنہن ہندہ شامتہ ہڈس عذابس گرفتار سپدن خَلِيدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا تہہ
 عذابس منز روزن ہمیشہ۔ بیہ آسہ سیٹھاہ بچھہ قیامتگ دوہ تہند بور یَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
 نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا سمہ دوہنہ پھو کہ بیہ دنہ پُو غس منز بیہ سونہر اوو کہ اَس تمہہ دوہنہ نافرمان
 اچھہ کاثرہ کمر تہہ گاشہ رُژھے يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ لوتہ لوتہ کرن پانہ وان تہہ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا
 دہن توپہ رو دیونہ قبرن منز یا ذنیاعس منز مگر دوہہ دہہ مرہ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ تہندہ لوتہ لوتہ تہہ
 کرنہ سیت کیاہ سنا ندہ۔ اَس چھہ پور زانان تم کیاہ چھہ ونان پانہ وان اِذْ يَقُولُ امْثَلُكُمْ طَرِيفًا إِنْ لَبِثْتُمْ

عَشْرًا ۱۳۷ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ
لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۱۳۸ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۱۳۹
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۱۴۰ لَا تَبْقَى فِيهَا جَبَلٌ وَلَا أَمْتًا ۱۴۱ يَوْمَئِذٍ
يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۱۴۲ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۱۴۳ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

الْأَيُّومًا سَمِعَهُ سَائِدَةً تَمُودَ أُنْدَرَهُ زِيَادَهُ كَاظِلٌ وَنَانَ آسَ تَمِينَ تَهْمَهُ نَارُ وِدُونَهُ دُنْيَاءُ سِ انْدَرُ مَكْرَاهُ كَهْ دَوَاهِيَةٌ كَسِ
مُدَّتْ سُنُّ نَظَرٍ كَرْتَهْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا بِيَهْ جَهْمَهُ بِرِثْهَانَ تَوْبَهُ يَارَسُولَ اللّٰهِ
بَعْضَى لَوْ كَهْ قِيَامَتِكَ حَالِ يُوزِتْ تَمَمَهُ دَوَهَهُ كِيَاهُ بَنَهُ تَمَنُّ كَوَهْنُ - كَيْسُ فَرْمَاوِي كَهْ تَهْمَهُ يَارَسُولَ اللّٰهِ مُيُونِ
پَرُورِدْ كَارِ كَرَهُ تَمَنُّ رِيْزَهْ رِيْزَهْ، سَوْرِ تَوْبِيْتَهْ جَهْمَكَ اَوَكِيَهْ هُوَسْ مَنْزِ پُورَهْ پَاثْهُ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَبْقَى
فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا تَوْبِيْتَهْ كَرَهْ تَهْمُ زَمِيْسُ مَمُوَارِ مِيْدَانَاهُ بِيْتَهْ مَنْزِ نَهْ زَهْ لَبِيْءُ بِيْ كَاهِنَهْ جَرَاهُ نَهْ كَاهِنَهْ
تَهْمُ زَاهُ، نَهْ كَاهِنَهْ كَهْمَهْ وَسَاهُ. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ
كَرَنِ اَلُو دَوَهْ وَنِ سِدَسِ اَلُوْسِ پِيْرُوِي اَوْرَهْ پُورْ كَهْمَهْ وَرَايِ - لِيْعْنِي پُوْغَسْ مَنْزِ لِيْلَهْ پُجُو كَهْ دِنَهْ پِيَهْ سَبُو اَوَاْزِ
وَإِيْتَهْ سَارِنِي قَبْرِنِي مَنْزِ - اَتِي هِنِ نِيْرِنِ لَوْ كَهْ قَبْرُ وَنَمَزَهْ - تَهْمُ اَوَاْزَهْ بَرُوْتَهْمَكِنَهْ بِيْحَكِنَهْ كَاهِنَهْ تَهْمُ كِسْمَكِ بَجْرَاهُ
لَا كَهْمُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا بِيَهْ اَسْنِ تَمَمَهُ دَوَهَهُ سَارَهْ كَرِيَكَهْ تَهْمُ مَرَهْ خُدَايِ
رَحْمَانَهْ سِدَهْ خَوْفَهْ سَبِيَهْ - كَيْسُ اَسْكَهْمَهْ تَهْ بُوْزَانَ تَيْتِيْنِ لَوْ كَنِ اَنْدَرُ مَكْرَاهُ لَوْ تِ لَوْ تِ كَنِ پَهْمُرِ اَرَهْ يَابْرَفِ
كَهْوَزِنِ هِدَهْ پِچْمَكِ صَدَا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا تَمَمَهُ دَوَهَهُ دِيَهْ نَهْ
كَاهِنَهْ فَاَنْدَهْ كَانَهْ اَكْسِ كَانَهْ هَمَزِ شَفَاعَتِ تَهْ سَفَارَشِ مَكْرَتَشِ دِيَهْ فَاَنْدَهْ لِيْسِدَهْ حَقَهْ حَضْرَتِ رَحْمَانَ
شَفَاعَتِكَ اِجَاْزَتِ دِيَهْ - بِيَهْ اَسْمَهْ حَضْرَتِ رَحْمَانَ رَاضِي تَهْمِدِسْ وَنَسْ، كَلَامَسْ تَشِ شَخْصَهْ سِدَهْ حَقَهْ - اَمَهْ
اَنْدَرَهْ جَهْمُوْمُرْ اَوْبَا اِيْمَانَ تَهْمِدَهْ شَفَاعَتِكَ اِجَاْزَتِ پِيَهْ نَهْ شَفَاعَتِ كَرَهْ وَنِيْنِ - تَمَنُّ مَتَلَقِ شَفَاعَتِ كَرَنِ اَسْمَهْ

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا^(۱۰) وَعَدْتَ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ
 خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا^(۱۱) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَلَا يَخِفُّ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا^(۱۲) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ
 صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا^(۱۳)
 فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا^(۱۴) وَلَقَدْ عَاهَدْنَا

پسند الله تعالى اس۔ کافرن سے مٹ کر کن شفاعت کرنگ ایہ نہ اجاز تھی دنہ کانسہ **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ** و
مَا خَلْفَهُمْ سو پروردگار رحمان و جہوزانان سے سو روی یہ تمہن بروٹھہ کنہ آسہ ہیہ تمہو پتھ کن کورمت آسہ
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا لوکہ نیکن نہ احاطہ کر تھہ خدایہ سندس علس **وَعَدْتَ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ**
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا یہ آسن ساری بٹھہ ٹمٹ تمہہ دوہہ ٹس خدایس کن، ٹس زندہ و جھو، زندہ تھادہ و ن
 جھو۔ یہ آسہ ذلیل سے ناکام تمہہ دوہہ سوئی ٹس شرنگ بورنتلت آسہ **وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ**
مُؤْمِنٌ فَلَا يَخِفُّ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا یہہ ہم رڑہ عملہ گر مڑہ آسن درحالیہہ سو آسہ باایمان۔ ٹس کھوڑہ
 نہ سونہ گہنن ہنزہ زیادتی نہ نیکن ہنزہ کی **وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ**
يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا بٹھہ پاٹھہ ہم مضامین آی صاف صاف بیان کرنہ۔ بٹھہ پاٹھہ کور آسہ
 نازل سوری قرآن مجید عربی زبوا اندر ہیہ کمر بیان آسہ تھہ منز پھیر پھیر و عمید۔ بٹھہ لوکہ کفر و شر کہ نشہ
 نافرمانیہ نشہ پتھہ روزن۔ یاگرہ یہہ قرآن مجید تہندین دلن اندر پیدہ کاہنہ شعورہ۔ تمہہ سبہ کنہ نہ کنہ وقتہ
 سپدن تم اسلامس کن مایل۔ **فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ** بس جھو بوڈہ تھو داندہ تعالی ٹس حقیقی پادشاہ
 جھو ہم یہہ قرآن مجید نازل کور بٹھہ منز سیٹھاہ نفع جھو **وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ**
وَحْيُهُ یہہ بٹھہ پاٹھہ قرآن مجیدہ موجب عمل کرن، تمہہ یہہ نصیحتہ مانہ سارنی مگلسن بیٹھہ فرض جھو بٹھہ
 پاٹھہ جھہ بعضی آداب قرآن مجیدہ کس نازل کر ٹس متعلق، تمہن ہندہ ادا کرنگ توہہ سیت تعلق جھو

إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿۱۱۵﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
 اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿۱۱۶﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا
 عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿۱۱۷﴾ إِنَّ
 لَكَ الْآلَتَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿۱۱۸﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿۱۱۹﴾

یا رسول اللہ۔ تمو آندره گواکہ تہمہ آسو جلدی کران قرآن مجید سیت سیت پرنس اندر تمہہ وحیک
 نزول ختم سپندہ بروئہ۔ اتھ منز چھو توہمہ پانس تکلیف۔ کیا زہ جبریل امینہ سندن ہرن، تہمہ بوزن، توپتہ
 سو پانہ من، اگر توہمہ اندیشہ چھو کہ یہ ماروزہ نہ مہ یاد سو کام تراو تہمہ آسہ پیٹھ۔ تہمہ آسو تمہہ خیطرہ یہ دعا
 پران وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا تہمہ آسو دعا کران ای میانہ پروردگارہ مہ ہرہ راو علم۔ تہہ منز آی تم
 ساری مطلب وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ سمہ بروئہ واریاہ کال زیادہ درو آسہ آدم علیہ السلام
 اکھ حکماہ سمہ حکمک بیان بروئہ مہن پیہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا تمین زود نہ یاد۔ تمین گنیہ غفلت نہ
 بے احتیاطی۔ آسہ لوب نہ امہ حکمہ کس اہتماس اندر تمین منز پختگی نہ ثابت قدمی۔ اگر امہ اجمالگ
 تفصیل توہمہ بوزن غرض چھو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اَبٰی تیلہ پاوو ژ تمین سو
 وقت یلہ آسہ حکم کور ملائکن سجده دیو آدم علیہ السلام۔ پس ڈیت تمو سجده مگر ڈیت نہ ابلیس، تم کور
 انکار فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى اے آدم
 ہنز پاٹھ یہ ابلیس چھو چون نہ چاہہ زمانہ ہند دشمن۔ کیا زہ تہمہدی وجہ سپدیہ مردود۔ تہمہ وون یہ توہمہ
 دوشون سمہ جنتہ منز ہکدہ۔ یعنی تہمہ اسندہ ووندہ موجب ترہہ کا ماہ کمر وسمہ سببہ جنتہ منز وہیو کدہ۔ ادہ
 تلو تہمہ دوشوے مشقت نہ تکلیف معاش حاصل کرنس اندر۔ یہہ جنس اندر چھو توہمہ آرام کہہ لَانَ لَكَ
 الْآلَتَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى تہہ منز چھنہ کاہنہ ہو چھاہ سمہ سبب تکلیف و اتہا توہمہ۔ سو دور کرنہ
 خیطرہ کا نہہ سامانہ آسانہ مہیا۔ نہ چھو تہمہ نئے وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى بیہ نہ چھوہہ تریشہ ہمت،
 نہ چھوہہ ترس نہ تاہس منز روزہ وون کیا زہ جنس منز آسہ نہ تاہے۔ بیہ آسن جنس منز مکانات پر تہہ

فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دَمْرُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ
 الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لِآبَيْلَى ﴿۱۴۰﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِنُهُمَا
 وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَدْمُر رَبَّهُ
 فَغَوَى ﴿۱۴۱﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿۱۴۲﴾ قَالَ اهْبِطَا
 مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
 فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿۱۴۳﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ

قسمک موجود۔ اگر جنت منزه نیر دنیاء منزهہ سوز نہ ایوتتہ آسوہ پریتھہ معاملس منز مشکلی تہ
 مصیبتیہ۔ یمہ کتھہ زبیر نظر تھاوتھ روزہ ہشیری سان فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دَمْرُ هَلْ أَدُلُّكَ
 عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لِآبَيْلَى پس ٹروووسوہ شیطانن ٹمن منز۔ دو ٹپس ای آدم یوماہاؤے ژبیہ
 سوکل سمیک پھل کھینہ سیت ہمیشہ چھہ زندہ روزان بیہ چھہ بنان سوپادشمت یوسہ نہ پرانان چھہ زانہہ
 یتھ نہ ضعف وستی یوان چھہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِنُهُمَا کس کھیووتمووشوے باژوتمہ
 کلک پھل۔ اتی نیووٹمن دو شون بدنگ سوچہ یتھ ستر چھویوان کرنہ یعنی جنگ لباس آکھ پائے
 بدنہ پیٹھ مورادنہ وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اتی یتھ جلتہ کین کلین ہندپنہ وتھر بدنس
 پیٹھ لاگن تمبوے سیت ہیولکھ بدنس سترکزن وَعَصَى أَدْمُر رَبَّهُ فَغَوَى بیہ کور آدم علیہ السلامن
 خدایہ سندس کھمس اندر قصور۔ کس کمر تم غلطی۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى توپتہ یلہ تمبو
 معذرت پیش کمر اللہ تعالیٰ ان کمر تم برگزیدہ تہ زیادہ مقبول۔ بیہ کور کس توبہ قبول۔ بیہ ہاؤس وتھ
 پنہ رضامندی ہنز۔ بیہ تھوون راہ راستس پیٹھ قائیم۔ مگر تمہ کلک پھل کھینہ کہ وجہہ قَالَ اهْبِطَا
 مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ تعالیٰ ان فرمووکھ و سبودوشوے جلتہ منزہ زمینس پیٹھ یتھ
 حاکس اندر کہ تہہ روزوتتہ تہند فرزند آسن اڈاڈین ہند دشمنن فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى کس یلہ ولتہ
 توہہ نشہ میون ہدایت تہ احکام پیغمبرن تہ کتابن ہندہ ذریعہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 أَعْمَى ۱۳۷ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۱۳۸
 قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۱۳۹
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ
 الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۱۴۰ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ
 الْقُرُونِ يَ شُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّبِيِّ ۱۴۱

پس اُس بیروی کرہ میانس ہدائیس سُو وَتہِ نَشْرُہِ ذلِہِ نہ، گمراہ سپدہ نہ دُنیا س اندر۔ نہ آسہ سُو شقی
 آخرتس اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى یہ سس
 میانیہ تمہہ نصیحتہ نہ حکمہ نَشْرُہِ بھتھ پھرہ پُس آسہ تہمدہ خیطرہ قیامتہ بروئٹھ دُنیا س نہ قبرہ منز تنگی ہنز
 زندگی۔ یہ تلون اَس سُو قیامتک دوہ قبرہ منزہ اون نہ اَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ
 بَصِيرًا دپہ سُو تجہہ کن پروردگار ابو کیا زہ تھس ژہ اون۔ بوی اوس دُنیا س اندر گاشدار قال کَذَلِكَ
 أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اللہ تعالیٰ فرماویس یتھہ پاٹھہ کیاہ واژاے ژہ نَشْرُہِ انبیاء و
 علماء عن ہندہ واسطہ سان آیات نہ احکام۔ ژہ مشراوتھہ تم۔ تمن ہند کوز تھہ نہ کاہنہ خیال۔ تھہہ پاٹھہ کیاہ
 یکہ ژہ نہ از مشراونہ۔ چون یہ نہ کاہنہ خیال کرنہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَ
 لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى یتھہ پاٹھہ یہ سزا عملہ مناسب آودنہ یتھہہ پاٹھہ دِمْوَأَس سزا پر یتھہ زیادتی
 کرہ ونس پُس نہ پڑھہ نہ یقین گرہ پنہ نس پروردگارہ سندین آیاتن۔ آخر تک عذاب چھو سیٹھاہ سخت نہ
 سیٹھاہ پوشہ ون۔ تھہ چھونہ نہایتھہ کنبہ۔ آخر تک عذابہ نَشْرُہِ بچنگ گڑھہ سیٹھاہ کوشش کرن اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ
 كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَ شُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّبِيِّ سم بھتھ پھرہ ون نہ
 اعراض گرہ ون، سم اعراض کرنس پیٹھہ ڈاؤنتر تھہ چھہ۔ کیاہ تمن ہاوناد تھہ سمہ تھہ کہ آسہ کاژاہ جماژ
 چھہ تمن بروئٹھ ہلاک گر مرثہ یتھہ اعراض کرنہ موکھ۔ و بھنیس نہ چھہ سم پکان نہ اورہ یور کران تہنز

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مُّسَمًّى ﴿۱۲۹﴾
 فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
 وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ الْأَمَائِ الْبَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
 لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿۱۳۰﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا


دلریو جلاؤکن شہر شامس کن گوہنہ بیچہ وقتہ کیازہ تہزہ سمہ لہہ جایہ آسہ مکہ کین لوکن وتہ منز یوان پتر
 پاٹھ اتھ امر مذکورس اندر تہ چٹھ اہل فہم تہ عقلہ والین ہندہ خیطرہ کافی دلیلہ خدایس نش اعراضہ کس
 مذموم تہ ناپسند آسکس پیٹھ موجود وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مُّسَمًّى بیہ ہر گاہ
 تہ تہندس پروردگارہ سیدہ طرفہ اکھ کتھاہ بیان کرنہ آسہا آمرش۔ سونگنیہ بیہ کتھ کہ بعض مصطلحن ہندہ
 موکھ بیہ نافرمان مہلت ونہ۔ بیہ تہ پریتھ کامہ ہند وقت مقرر کرنہ آسہا آمت تکن نافرمان بیہ ہالازی
 طور ضرور عذاب کرنہ دنیا سی اندر۔ مگر سو وقت چھو مقرر کرنہ آمت۔ سو گو قیامتگ دوہ۔ دون یلہ
 عذابک وائن یقینی چھو لہذا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
 وَمِنْ الْأَمَائِ الْبَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ کس کر و تہہ دشمن ہزن کفر آمیز کتھن پیٹھ
 صبر۔ بیہ یوسہ توہہ خدایہ سیدہ خیطرہ تہن پیٹھ تھ کھسان چٹھ تہن پیٹھ عذابس اندر درگی سپد نہ موکھ
 اضطراب پیدہ سپدان چھو۔ سو اضطراب تروو۔ تہہ سپد و متوجہ پنہ نس یادس کن۔ پنہ نس پروردگارہ
 سند حمد و ثنا آہو دپان۔ تسبیح و تقدیس آہو کران۔ تھہ منز نماز تہ شامل سپز آفتاب کھسنہ برو تھ۔ سونگنیہ
 صبح نماز۔ بیہ آفتاب لوسنہ برو تھ تھہ منز بیہ پشن نماز تہ وگر نماز بیہ راٹ ہندیو وقتو منزہ تہ آہو تسبیح
 پران۔ تھہ منز سپز شامل شام نماز تہ مختن نماز۔ بیہ دوہہ کس گوڈس تہ اندس منز تہ آہو تسبیح پران
 تالیئکہ اتھ پیٹھ کس ثواب توہہ حاصل سپدہ تمہ سیت آہو تہہ خوش سپدان۔ غرض کتھ کہہ کرو پنہ
 نس معبود برحقس کن پور توجہ۔ دشمن ہنز فکر مہ کر۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
 وَتَمُومٌ بیہ مہ حض زٹھ راو و تہہ ہن نظر تھہ ماس کن سمہ مالہ سیت فاندہ تلتنا و اسہ کافر و اندرہ مختلف

مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ
 خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝۳۱ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا
 نَسَأُكَ رِزْقًا مِّنْ نَّرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝۳۲ وَقَالُوا
 لَوْلَا يَأْتِينَا بَايَةٌ مِّنْ رَبِّهِ أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِّنَ الصُّحُفِ
 الْأُولَى ۝۳۳ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا
 رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ

قسمک لو کہ مثلاً۔ یہود و نصاریٰ بہ مشرکین زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نِس مال چھو دنیا چہ زندگی ہنز
 ناپایدار پھلایا لِنَفْسِهِمْ فِيهِ بھتھ آس امی سیت گرو تین آزمائش وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى تو بہ
 بہ دینمت چھو تین پروردگار تہ چھو سیٹھا بہتر تہ پوشہ ون وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
 لَا نَسَأُكَ رِزْقًا بہ کمر و تہہ حکم پنہ نین گرہ کین لو کن پنہ نِس ائس نماز پر نگ۔ پانہ تہ کمر و نمازہ
 پیٹھ استقامت۔ سمہ کامہ چھہ زیادہ تو چھس قابل۔ آس چھہ توبہ دپان یا توبہ و رای تین لو کن دپان
 تو تھ معاش تہ رزق کماون نِس مانع سپدہ ضروری طاعات نہ عباداتن نَحْنُ نَرْزُقُكَ رِزْقٌ تہ معاش
 کرووہ آس توبہ بہ توبہ و رای تین عطا۔ یعنی مقصود اصلی چھو نہ رزق کماون تہ معاش کماون بلکہ چھو
 مقصود اصلی دین تہ طاعت باری تعالیٰ کرن۔ مال زینہ نگ تہ رزق کماونگ چھو اجازت تھہ حدس
 تان۔ سمہ سیت ضروری طاعتس تہ عبادتس فتور لیہ نہ۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى رُت انجام چھو پر ہیز
 گارن ہند وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بَايَةٌ مِّنْ رَبِّهِ بہ چھہ ونان اعراض گرہ ون لو کہ بہ پیٹمبر کیاہ چھو نہ
 آسہ نِس آنان کا نہ نشاہ پنہ نبوتک پنہ نِس ہر وردگار س نشہ اَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِّنَ الصُّحُفِ الْأُولَى
 کیاہ تین نشہ ووت ناپیان تین مضمون ہند ہم برو تھمین کتابن منز آس قرآن مجیدس متعلق۔ وَلَوْ أَنَّا
 أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

أَنْ تَذِلَّ وَتَخْزَى ۝ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝

تَذِلَّ وَتَخْزَى بیہر گاہ آس تم گالہوک کئی عذابہ سیت قرآن مجید نازل کرنے بروٹھے ضرور ونہ ہن تم
ای سانہ پروردگارہ ژہ کونہ سوزو تھن اسہ کن کاہنہ پیغمبرہ تا اینکه آس کرہ ہو پیروی چائین حکمن ذلیل و
رسوا گھنہ بروٹھے ونہ نچ تھاؤ کہ نہ اسہ گنجائشی اگر تم ونن سو عذاب کر سپدہ واقع قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ
فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى تہہ فرماؤ کہ یارسول اللہ
آس ساری چھہ پیاران، کینہہ کالاہ، پیارو تہہ تہ، توہہ ہجہ پانے زانن سیزہ ویتہ ہند لوک کم چھہ۔ بیہ کم
چھہ منزل مقصودس واتہ ون



سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
 مُّعْرِضُونَ ۝^۱ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدِّثٍ إِلَّا سَمِعُوهُ
 وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝^۲ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُ وَالنَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
 هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلَكُمُ أَفْتَاتُونَ ۝^۳ السَّحَرُ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝^۴
 قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝^۵

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ نزدیک سپد بین مُعْرِضُونَ کن ہندہ
 حساب وقت۔ کیا زہ قیامت چہ روز بروز نزدیک یوان مگر تم چہ ونہ بے خبری تہ غفلتس اندر پتہ
 اعراض کران تہ تہ پھر ان تہز۔ غفلت چہ یوت و اثر مہ مایا ایتہم مِّنْ ذِکْرِ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدِّثٍ إِلَّا سَمِعُوهُ
 وَهُمْ يَلْعَبُونَ کہ یوسہ نصیحتہ تازہ تمن نشہ پنہ نس پروردگار ہندہ طرفہ واتان چہ تہ چہ تم تہ پاتہ
 بوزان کہ زن ہندہ ہنا چہ لاهیة قُلُوبُهُمْ غافل چہ ہند دل تمہ نصیحتہ نشہ تہ کن چہ نہ کاہہ توجہ
 کران وَاَسْرُ وَالنَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلَكُمُ لوتہ لوتہ چہ تم ظالم تہ کافر لو کہ کن تہ
 کران پانہ وان۔ دپان چہ یہ (حضرت) محمد چہ محض توی ہیوا کہ انسانہ یہ نہ کہینہ۔ وذن یہ تہ تم
 بیان کران چہ، تمہ چہ تہ جوہ۔ تمہ اندرہ کمزور نہ تہہ مجزہ آسک خیال۔ مجزہ آسک خیال کمر ت
 کمزور نہ تہہ تہندہ پیغمبر آسک خیال أَفْتَاتُونَ السَّحَرُ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ادہ کیا زہ چہوہ اچہن ڈیشمان تویہ
 سوسر بوزنہ خیطرہ تمن نشہ یوان، یمن پان زورہ گرفتار کرنہ خیطرہ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فر موو کہ پیغمبر برحق، تہہ کمر تو ژورہ ژورہ کن تہہ۔ میون پروردگار چہ زانان

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا
بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ ۝۵ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَهْلَكْنَاهَا
أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝۶ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ
فَسَأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِتَعْلَمُونَ ۝۷ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ
جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝۸ تَمَّ صَدَقْتُمْ

پریتھ تھے۔ ادہ سمو آسمانن منز آستن یازمین منز، ادہ سو ظاہر آستن یا پو شیدہ۔ بیہ چھو سو روی وارہ
یوزہ ون۔ سو روی پور زانہ ون۔ تہنز کتھہ پھنہ نس نش کھٹھ سوویہ توہہ پور سزا۔ تمو کافر وون نہ
قرآن مجیدس سحری یوت بلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بلکہ لگ تم و نہ کہ بیہ قرآن مجید چھو پریشان
خیالات بلْ افتراہ بلکہ چھو یہ قرآن مجید تموپانے پنہ دلہ ٹھہر وومت بلْ هُوَ شَاعِرٌ بلکہ چھو یہ پیغمبر
شاعر۔ ہر گاہ سو واقعی پیغمبر چھو فلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ تیلہ انن سو اسہ نشہ تم مجزہ سم
مجزہ بیتھ برو ٹھم پیغمبر چھہ سوزنہ آمت۔ بیہ آس حیرانی یمن کافرن پائس کہ اکس رایہ پیٹھ آس نہ
روزان۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ سمو برو ٹھہ شہرک روزن وال سم اسہ ہلاک
کمر نہ گال باوجود فرمائش مجزات آسجہ اون نہ تمو ایمان، کیا تم لو کہ انہ معجزات ظاہر سپد تھہ ایمان۔
تتھس حالس پیٹھ چھو ایمان نہ انہ مو کہ ضرور عذاب نازل سپدان۔ لہذا چھہ آس تم معجزات ظاہر
کران تمن ہنز فرمائش سم کران چھہ۔ قرآن مجید چھو ساروے مجر و کھنبت یوڈ مجزہ۔ سووی چھو کافی
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِتَعْلَمُونَ بیہ سوزنہ اسہ توہہ
برو ٹھہ کاہنہ پیغمبر اہ مگر سوز مردانسانو نہ بشر وی اندرہ۔ تمنی کن آس آس وحی سوزان۔ پس پر ژھو ٹھہ
اہل کتابن، یہود و نصاریٰ انن تمن ٹھہ پنن دوست چھوہ ونان ہر گاہ نے توہہ پائس خیر چھوہ۔ وَمَا
جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ بیہ بناونہ اسہ تمن پیغمبرن ہند بدن تھہ یم نہ خوراک نہ غذا
کھووان آسہن ملاکن ہند پاٹھ۔ بیہ چھہ تم کافر مظہر تہندس سمہ عالمہ گدھنس، تھہ پیٹھ چھہ تم خوشیہ

الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿۹﴾ لَقَدْ
 أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾ وَكَمْ قَصَبْنَا
 مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿۱۱﴾
 فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّهَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يُرْكضُونَ ﴿۱۲﴾ لَا تَرْكُضُوا وَ
 ارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿۱۳﴾

تہ شاہہ کران۔ یہ سہمہ عالمہ گڑھن چھنہ بوتس منانی تہ خلاف۔ کیاہہ۔ وما كانوا ظالمين تم بروٹھم
 حضرات انبیاء رُودنہ ہمیشہ دنیاء سی اندر۔ پس ہر گاہ تہند وفات سپدہ تمہہ سیت کیاہہ نقص لایہ لازم
 تہندس بوتس تہ صدقہ انہم الوعد فأنجینہم ومن نشاء وأهلکنا المسرفین توپتہ کور اسہ وعدہ پن
 تمہن مکران سیت پوز۔ یعنی نافرمان پیٹھ عذاب نازل کرنس متعلق۔ تم سپد عذابس گرفتار پس دیت
 نجات اسہ تمہن باایمان، بیہہ تمہن ہند اسہ یوڑھہ بیہہ کٹر اسہ ہلاک نافرمانی منز حدہ ڈلہ ون، لہذا گڑھہ
 کھوڑن تمہن کافر ہند۔ ای مکر و ہر گاہ توہہ پیٹھ دنیاءس منز یا آخرتس منز عذاب کرنہ لایہ کاہنہ
 تعجب چھنہ کیاہہ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ پز پات نازل کٹر اسہ توہہ کن سنو
 کتاب ہتھہ منز توہہ کڑھانی نصیحت چھہ۔ کیاہہ توتہ چھنہ توہہ فخرہ تران وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ
 ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ بیہہ چھہ اسہ کاہن شہرن ہند لو کہ تم ظالم یعنی کافر آس ہلاک
 تہ تباہ کرمت توپتہ کور پیدہ تمہن پتہ بیا کہ قومہ تمہن شہرن اندر آباد کٹر فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّهَا إِذَا هُمْ
 مِنْهَا يُرْكضُونَ ادہ یلہ تمہوڑیون سانہ عذابہ نازل سپد ٹک۔ اتی ہیزو کہ ٹکن، اسہ دوپھہ لَا تَرْكُضُوا وَ
 ارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ تلوہمہ، واپس ایوتھہ سازو سامانس کن ہتھہ منز
 روزت عیش آسہہ کران۔ بیہہ ایو پنہ نین گرن کن واپس دیو توہہ پڑھنہ لایہ کہ مال و دولتک تہ توتک
 نٹھہ کوت گو۔ امہ اندرہ چھوڑ اد تمہن ژینہ ون ون کہ نہ رُودوہ توہہ سامانہ ٹنہ نہ روزوہ تمہہ لہہ جلیہ
 ٹنہ۔ نہ رُودوہ کاہنہ ہمد رڈنہ ساری گے ختم قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ یلہ عذابس گرفتار ہن سپدن تم

قَالُوا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يُبْغَضُونَ فِيهَا وَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يُبْغَضُونَ فِيهَا ۚ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ
 جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ۝۱۵ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ
 وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ ۝۱۶ لَوِ ارْتَدْنَا أَنْ تَتَّخِذَ لَهُمْ آلَاتٍ تَأْخُذُ
 مِنْكُمْ دِينًا إِنَّكُمْ لَكُنَّا فاعِلِينَ ۝۱۷ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ
 فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝۱۸

دینہ لگ افسوس واقعی آس آس ظالم۔ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ یہ
 روزہ تمن ہنزہ کے کریکے تو تان، یوت تان اسہ تم کتراو تھ تھاو، شہلاو تھ تھاو وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ سانس کن آسس پیٹھ چھہ سان مصنوعات تہ مخلوقات دلالت کران
 کیا زہ اسہ کمر نہ آسان تہ زمین بیہ یہ تمکن دون منز چھو پیدہ گند ان گند ان جھموتہ مصلحتو ورا ی۔ اسہ کمر نہ
 تم پٹھ پاٹھ پیدہ کہ اس کیا آسہو عبث تہ بے معنی اکھ کا ماہ کران۔ بلکہ چھہ یہ پیدہ کر نس اندر جہہ جہہ
 جھموتہ۔ بڈ جھمت گنیہ بیہ کہ تم چھہ دلالت کران مجود برحقہ سندس وحدانیتس پیٹھ۔ لَوِ ارْتَدْنَا أَنْ
 تَتَّخِذَ لَهُمْ آلَاتٍ تَأْخُذُ مِنْكُمْ دِينًا إِنَّكُمْ لَكُنَّا فاعِلِينَ پیدہ کر نس اندرے کنبی مصلحت آسہانہ بلکہ آسہا
 اکھ مشغلہ بناون اسہ مر اویٹھ منز نہ کاہنہ رُت فائدہ آسہا تیلہ بناوہ ہو آس پنہ نس کنبہ چیزس پن مشغلہ۔
 مثلاً پنہ نین کمالہ کین صفاتن ہندس مشاہدس بناوہ ہو آس مشغلہ۔ کیا زہ مشغلس گڑھہ شافلہ سندس
 ذاتس سیت مناسبتہا آرن۔ حضرت واجب الوجودس کیاہ مناسبت چھہ مصنوعات حادثن سیت۔
 صفات قدیمہ باوجودیمہ تم چھہ لازم تمن تہ چھہ مناسبت تم کیا ہیکن مشغلہ بنت۔ وون چھہ کتھے
 مصنوعات حادثن ہنز تم کیاہ ہیکن بنت مشغلہ باری تعالیٰ۔ لہذا سپڈ ثابت کہ آسان وزمین اسہ بے ہودہ
 تہ عبث پیدہ کمر نہ۔ بلکہ کمر پیدہ اثبات حق تہ ابطال باطلہ خیطرہ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ
 فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ بلکہ چھوسون ارادہ یہ تمام کائنات پیدہ کرنہ اندر حق و باطلک مقابلہ کران۔
 چنانچہ آس چھن پتر کتھے پٹھ مصنوعات دلالت چھہ کران اپزس پیٹھ بتر تھہ دو ان تہ غالب کران۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۱۹﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لَا يَفْتُرُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبَشِّرُونَ ﴿۲۱﴾
لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

نہیں چھو سُو پوز تھے اہرس کاڑ کڈان اتی چھو سُو اپز گلان، خم تھو شان و لکھ الویل مٹا تصفون تھندہ
خاطرہ چھو ویل تہ افسوس بیہ سیٹھاہ خرابی۔ ای مکہ کیو کا فرود، تمو کھو سببہ سمہ تہہ ونان چھوہ معبود
برحق نسبت۔ معبود برحقہ سُنڈ شان چھو سیٹھاہ تھود وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ تم
آسمان تہ زمین اندر چھہ تم چھہ تھندی مملوک۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ
لَا يَسْتَحْسِرُونَ تمو آندره تم تم نزدیک چھہ یعنی مقر بان الہی تم چھہہ مخبر تہ عار کران تھندہ عبادتہ
نُشہ، نہ چھہ تم عبادت کران کران تھکان زانہہ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ بلکہ چھہ رائس
تہ دوہس تسبیح پران آسان، تراوان چھہہ سو کام أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبَشِّرُونَ توحید چہ
ایزہ دلیلہ بوزت تہ چھہ تم زمینہ کین معبودان باطلن معبود ٹھہر او ان۔ یم تم مر نہ پتہ بیہ زندہ کرن۔
آسمان ہند مقرب بندہ چھہ خدای قدوسہ سز عبادت کران۔ زمین بیہ زمینہ نُشہ نیمت مخلوق تم سیٹھاہ
سبغی، ہنمہ درجک مخلوق چھہ، تم اندر چھہ تھہ کانہہ ہستی یم خدائس مقابل معبود ہیکن بنبت۔ یلہ خدای
ذوالجلال تھندین پر ستش کرہ ونین سزوات تہ عذاب کمر تھ مارہ تم معبودان باطل ہیکنہ سنا تم تم
عذابہ نُشہ مولاوت یامرنہ پتہ بیہ زندہ کمر تھ۔ وون لیس نہ عذابہ نُشہ مولاوت ہیکنہ یامر تھ زندہ
کمر تھ ہیکنہ ٹیٹھ عاجز ہیکنیا معبود آنتھ۔ لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ہر گاہ آسمن آسان
وز مینس منز معبود برحق و رای بنی معبود تلہ آسمن تم دو شوے تہ تہ تہ بُر باد گامت۔ کیازہ عادتاً
آسہا تم دو شون ہندین ارادون تہ کاین اندر اختلاف۔ اکھ دپہ ہارود تراوہ۔ بیاکھ دپہ ہابہ تراوہ نہ۔ دون
منز سپدہ ہامزاحت۔ لیس سپدہ ہافساد۔ و ن چونکہ فساد چھہ نہ امی آندره سپد معلوم۔ زہ چھہہ کنوی معبود

الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۳﴾ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْأَلُونَ ﴿۲۴﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي ۗ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۵﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿۲۶﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

برحق چھو فسبحن اللہ رب العرش عَمَّا يَصِفُونَ پس معبود برحق عرشک مالک چھو منزہ تہ
پاک تموساروی کتھونشہ سمہ کتھ مشرک تس نسبت ونان چھہ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
سو چھو تھوی عظمتہ وول کہ تس لیہ نہ پر ژھنہ کتھہ کامہ ہند۔ یہ کیا زہ تہ یہ کونہ۔ لوکن بیہ پر ژھنہ یہ کیا زہ
کورہ، یہ کونہ کورہ یلہ نہ تس عظمتس منز کا نہہ شریک چھو، معبود آسس منز کتھہ کنہ ہیجہ تس شریک
آتھہ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ کیاہ معبود برحق تراوت چھا تموبے معبود ٹھہراومت قُلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ نہہ فرما یو کہ یارسول اللہ اے لوکو چھوے اتھہ شرکس پیٹھہ کا نہہ دلیلاہ سو
کرو پیش هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي یہ گبیہ کتاب تمکن لوکن ہنزیم مہ سیت چھہ یعنی
قرآن مجید۔ یہ گبیہ تمکن لوکن ہنز کتاب سم مہ بروٹھہ آس یعنی تورات وانجیل وزبور۔ یمن سارنی
کتابن منز باو تو امیک ثبوتاہ کتھہ جلیہ یعنی شرک بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ
بلکہ چھہ تمی منز اکثر تھے سم نہ امر ٹھک یقینی چھہ کران۔ تمہہ موکہ چھہ تم پوز قبول کرنہ نشہ اعراض
کران تہ ٹھہ پھر ان۔ یہ توحیدک مسئلہ چھنہ نوو کا نہہ مسئلہ سمہ سیت تمکن وحشت پیدہ سپدان چھو۔
بلکہ چھویہ بروٹھم شریعت چنانچہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُونِ یہ سوزنہ اسہ توبہ بروٹھہ کا نہہ پیغمبرہ مگر تس گن سوزاسہ یو ہے وحی کہ کا نہہ
معبوداہ چھنہ مہ وراہی۔ پس کرو میانی یاثر عبادت تہ پرستش وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

سُبْحٰنَهُۥٓ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۲۶﴾ لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۷﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشِيَّتِهٖ مُّشْفِقُونَ ﴿۲۸﴾ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّنْ دُونِهِۦ فَذٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ ﴿۲۹﴾ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ

مشرگو آندره چھہ ونان بعضی کہ حضرت رحمانس چھہ اولاد ملائیک بعضی چھہ ونان زہ ملائیک چھس کورہ۔ توباہ۔ توباہ، سوچھو اولاد تہ کورہ آسنہ نشہ منزہ تہ پاک، تم ملائیک چھہ تہمنہ اولاد بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ بلکہ چھہ تم خدایہ سند معزز بندہ تہندہ عبدیچ تہ محکومچ کیفیت چھہ یہ کہ لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ تم چھہ نس بروئھہ کنہ کتھہ ہیگان کتر تھہ۔ بلکہ چھہ آسان پنہہ جلیہ روز تھہ کھس انتظار کران۔ بیہ چھہ تم تہندس کھس تقیل کران۔ تم چھہ تہندس کھس بدل کران کیا زہہ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ تعالیٰ چھو تہند بروئھہ پنتم سو روی حال زنان۔ تمن بندہ ادرچ کیفیت چھہ یہ کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشِيَّتِهٖ مُّشْفِقُونَ بیہ چھہ تم شفاعت تہ سفارش کران کانسہ مگر تس بندہ حھہ اللہ تعالیٰ راضی آسہ شفاعت کرنس۔ تم چھہ تہندہ خوف سببہ تہ اندر آسان وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّنْ دُونِهِۦ فَذٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ بیہ نس اکھہ تمو ملکو آندہ دعوائے کرہ پنہہ معبود آسک معبود برحقس وراي نس دموتس اس سزانا تہنتم كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ تھہ پاھ چھہ اس ظالم سزادوان أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا کیا تم کافر ناسز نامعلوم یہ کتھہ کہ پنز پاھ آسانہ تہ زمین اوس اکھ اس سیت ملیتھ بند۔ نہ اوس آسانہ رُود پیوان نہ اوس زمینہ منزہ کینہہ پیدہ سپدان۔ نس مژرا و اسی تم دوشوے۔

كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَواسِيًا اَنْ
تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لِّعَلَّاهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۗ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ
اَفَايْنَ مِتَّ فَهُمُ الْخُلْدُونَ ﴿۳۴﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ

اکھ اکس نشہ کمر جدا۔ پتھ پاٹھ کہ آسمانہ طرفہ ترود زود زمین منزہ کھور گاسہ۔ امہ بارشہ سیت چھنہ زمینہ
منزہ گاسے یوت کھسان بلکہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ بلکہ بنو اسہ امہ بارشہ سیت پر پتھ چیزہ
جاندارتہ زندہ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیاہ توتہ کرن ناتم پڑھ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَواسِيًا بیہ کمر اسہ پتھ
قدرتہ سیت زمینس پیٹھ کوہ پیدہ اَنْ تَمِيدَ بِهِمْ پتھ نہ زمین لکھ بیتھ اورہ یورؤلہ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا
فِجَاجًا سُبُلًا لِّعَلَّاهُمْ يَهْتَدُونَ بیہ کرہ اسہ اتھ زمینس منز شادہ وتہ پتھ لوکھ واتمان آسن پنہ نین
مطلبن تہ مقصدن وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا بیہ کور اسہ آسمان محفوظ پشاه اکھ اُس وار بیس
کالس موجود روزہ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا مُعْرِضُونَ مگر سم لوکھ چھہ امہ کیو قدرتی نغوانو نشہ پتھ بھر ان
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ بیہ چھو سو خدا پتھ قدرتہ
دول کہ رات تہ دوہ کور اُن پیدہ، پر پتھ اکھاہ تمود ویو اندرہ چھو پنہ اُس مدراس منز پتھ پاٹھ پکان زن
ژھانٹ ولیان چھہ۔ سم لوکھ چھہ ٹھندس وفاتس پیٹھ خوشی تہ مسرت ظاہر کران۔ یہ وفات چھنہ
نبو اُس منانی کینہہ تہ کیا زہ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدًا اَفَايْنَ مِتَّ فَهُمُ الْخُلْدُونَ اسہ
کورنہ توہہ بروٹھ کانہہ بشرہ سندہ خیطرہ (خواہ سونی آستن یا غیر نبی) دُنیا اس اندر ہمیشہ زندہ روزن
مقرر۔ پتھ پاٹھ توہہ بروٹھ پیغمبر سوزنہ آے تو پتہ گے تم۔ سمہ عالمہ پتھ پاٹھ سوزنہ ٹہہ تہ، ٹہہ تہ چھوہ
سمہ عالمہ گدھن۔ کیاہ ہر گاہ ٹہہ سمہ عالمہ گدھو، تمن چھاروزن ہمیشہ زندے۔ تمن تہ چھو مران، سمہ

الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُمُ بِالشِّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَاللَّيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾
 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۙ أَهَذَا
 الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُتَكُمْ ۗ وَهُمْ يَذُكُّرُ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۶﴾
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ ۗ سَآوِرِكُمْ أَيَّتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۷﴾
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ لَوْ يَعْلَمُ

دنیا آندره نیرن۔ تم تھ پیٹھ چھہ تھندس سہمہ عالمہ گوہنل پیٹھ خوشی ظاہر کران **كُلُّ نَفْسٍ**
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ موت چھو ٹیٹھ چیزہ کہ پریتھ جاندارہ چھو اہمہ نتہ اہمہ دوہہ مٹگ مزہ تہن وول
وَنَبَلُّوكُمُ بِالشِّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَاللَّيْنَا تُرْجَعُونَ بیہ یوسہ اسہ توبہ چندروزہ زندگی دژمژ چھہ سہو چھہ
 محض توبہ خیرہ تہ شرہ سیت آزمائش کرنہ خیرہ۔ دنیا آندره نیرت چھو توبہ اسی نشہ وائٹن۔ اسہ نشہ
 واتھ پیہ پریتھ اکس مناسب سزائہ جزاوندہ یمن کافرن ہنز حالت چھہ یہ کہ **وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا**
إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۙ یلبہ تم کافر توبہ چھان چھہ تمہ ساتہ چھہ توبہ سیت ٹھٹھ تہ استہزاء
 کران۔ پانہ وان چھہ ونان کہ **أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُتَكُمْ ۗ وَهُمْ يَذُكُّرُ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ** کیا یوہے
 شخص چھائس تھندین معبودن نسبت چھو پیٹھ ونان۔ حالانکہ تم چھہ حضرت رحمانہ سداہینہ نشہ انکار
 تہ گھر کران۔ حقیقتس اندر آس اعتراض ٹھٹھ کیے۔ تم پڑہ پاپلس اتھ پیٹھ ملامت کرن۔ امہ خوتہ
 تعجب چھو کہ سہمہ ساتہ تم یوزان چھہ کہ گھر ک سز۔ اچھو نزول عذاب، تم چھہ انکارہ کن تھہ عذابس
 جلد ژھاٹدان **خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَلَجٍ** انسان چھو پیدہ کرنہ آمت بانیرہ۔ زن اسنرہ آڈرنہ منز چھہ
 تراوندہ آمز جلدی تہ بانیر۔ امی موکہ چھہ تم لوکہ جلدی عذاب مٹگان۔ تھہ منز ژریگڑھنس چھہ زانان
 عذاب واقع نہ سپنچ دلیل **سَآوِرِكُمْ أَيَّتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ** ای کافر و بانیر و مہ جلدی ہاودوہ یو توبہ
 عذابس گرفتار کرنک نشانہ تہ علامت۔ ٹہہ مہ کمر و جلدی کیا ذوق تہ بروٹھ سو عذاب ایہ نہ۔ و قس پیٹھ
 پنہ نشہ ڈلہ نہ **وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** بیہ چھہ ونان تم لوکہ کہ کرسپدہ یہ وعدہ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجِبِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا
 عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۹﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً
 فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۴۰﴾
 وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا
 مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۱﴾ قُلْ مَنْ يَبْكُلُكُم بِاللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۴۲﴾

پورہ چھوے تمہے پزیر۔ لَوَيْعَلُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجِبِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ
 ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اے کاش تم کافر نہ ہوتے تو تمہے کوئی خبر گزشتہ ہایلیہ تم جہنمک نار پرستہ
 طرفہ و لنتہ یہ تو پتہ ہمکن نہ تم سونا پانس بروٹھکن دور کمر تھ نہ پینہ پشتہ کن تہ تھنر کن دور کمر تھ۔
 نہ یہ تم کاہنہ مدد کرنہ۔ اگر تم تہ معلوم آسہا۔ تیلہ کرہ ہن نہ تم عذاب نار بچ فرمائش۔ لہذا چھہ یہ
 تھ ضروری کہ تمزہ فرمائشہ موافق کیا ایہ نازک عذاب تم کرنہ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا
 يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ بلکہ وائتہ تم بروٹھکن سو عذاب ہجہ تہ معہ۔ سوی کر کیکہ
 حیران۔ دم پھٹ گزھن۔ پس ہمکن نہ تھ نارس پانس نشہ دور کمر تھ نہ ایکہ مہلت دنہ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ
 بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ بیشک بیہ چھہ ٹھٹھ آمت
 کرنہ تم پیغمبرن سیت تم توہہ بروٹھ آس یار سؤل اللہ۔ پس آوولنہ تم ٹھٹھ کرہ وینن سوی عذاب
 یتھ تم ٹھٹھ کران آس قُلْ مَنْ يَبْكُلُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ تمہ فرما یو کھ یار سؤل اللہ کہ
 دنیا اس منزئس توہہ محفوظ چھوہ عذابہ نشہ پتہ چھہ مہربانی حضرت رحمانہ سنزی ہر گاہے تمہ مانو تمزہ
 مہربانی تہ احسان تلہ وینو تمہ کہہ چھوہ اچھہ کران راتس تہ دوہس حضرت رحمانہ سندہ عذابہ نشہ۔ یہ
 چھہ تمزہ رحمت تہ مہربانی کہ سو چھوہ توہہ نافرمانی سببہ عذابس گرفتار کران۔ ورنہ توہہ کہہ بیچہ تمہ
 عذابہ نشہ بچاوت۔ یہ مہربانی تہ احسان اوس مذگان کہ یہ محسن تہ مہربانی کرہ وں گزشتہ محسوی زان۔ تس

أَمَلَهُمُ الْهَيْئَةُ تَمَنُّعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ
 أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿۳۳﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَ
 آبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي
 الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ إِنَّمَا
 أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمْعُ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۳۵﴾

گوٹھ نہ کاہنہ شریک تھاؤن۔ مگر تم چھنہ توتہ توحیدک اقرار کران بَلْ هُوَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ
 مُعْرَضُونَ بلکہ چھہ تم بدستور پنہ نس حقیقی پروردگارہ سندہ یادہ نشہ نہ توحیدہ نشہ بھہ پھر ان
 روگردانی کران أَمَلَهُمُ الْهَيْئَةُ تَمَنُّعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ
 کیاہ تمں چھاآسہ وراى تھہ معبود تم تمں بچاوتھہ تمکن سانہ عذابہ نشہ۔ تم کیاہ تمکن بچاوتھہ تمکن
 چھونہ طاقت پُن پان بچاونک۔ تمکن کیاہ تمکن بچاوتھہ۔ نہ ہیچہ مقابلہ کہ وقتہ کاہنہ اسہ منزہ تمں سیتہ
 روز تھہ۔ تمکن کافران ہند گھرس پیٹھہ اصرار کرن۔ یہ چھہ۔ سمہ وجہہ کہ سائین دلین منز کیاہ چھو کاہنہ
 نقص بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ بلکہ چھو اصلی وجہہ کہ اسہ کور تمکن
 لوکن یہہ تھندین مالین بڈمن دنیاء ک سامان عیش مہیا۔ یوتان تھزہ عمرہ بڈے یہ۔ تم آے پشٹ در
 پشٹ دنیاء س منز عیش و آرام کران۔ تمی آیکھ غفلت ولنہ۔ غرض نقص چھو تھنی منز۔ سوگو غفلتک
 نقص نہ خلل۔ اسہ کرے یہہ بیان تم چیزہ سموسیت تمں غفلت زلہ ہا۔ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ
 نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ کیاہ تم چھناو چھان کہ آس چھہ تھندس زمینس بذریعہ فتوحات
 اسلامیہ پر تھہ طرفہ کمی کران۔ یمن ہندہ تصر فہ نشہ کھڈت مسلمانن ہندس تصر فس منز اتان۔ کیاہ تمکے
 ہیچنہ سانس پیغمبرس پیٹھہ غالب سپد تھہ۔ تم چیزہ وجہت تے توتہ تم جہالتس نہ عنادس پیٹھہ اصرار
 کر تھہ عذاب فرمائش روزن کران قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ تھہ فرماو یو کہ یو چھو سنہ مگر بیم کران توبہ
 ویحہ ذریعہ۔ عذاب واقع کرن چھونہ مینس اختیارس اندر۔ اگرچہ پیٹھہ پاٹھہ بیم کرن اوس کافی مگر ولا

وَلَيْنُ مَسْتَنَّهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوْمَئِذٍ
 إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۶﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
 فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ
 خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا
 مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ
 مُشْفِقُونَ ﴿۳۹﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ وَأَنْتُمْ لَهُ

يَسْمَعُ الصَّخْرَةُ إِذَا مَا يَنْدُرُونَ تم زمرہ ساتھ پڑس کن نادو تھ عذابہ سیت کھوژانہ یوان چھہ
 تم ہجھنہ سو آکو بوزانی وَلَيْنُ مَسْتَنَّهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ توپتہ
 ستمہ ساتہ تم ن جھمدس پروردگارہ سندہ عذابجہ ہواؤک اکھ دکاہ لجمہ تمہہ ساتہ دہن ہاے فسوس واقعی
 آس آس ظالم تہ خطاکار وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بیہ گرو آس قیامتجہ دوہنہ قائم عدلج
 ترکر۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پس ایہ نہ کانہہ نسبت ظلم کرنہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ
 خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ بیہ ہرگاہ آسہ نشہ اکس آس پھلس برابر آسہ کانہہ ہنز عمل،
 سوتہ آو آس تولنہ خیطرہ بیہ چھہ اس کافی حساب ہینہ خیطرہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ
 وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ پز پاتھ بیہ کر آسہ حضرت موسیٰ آس تہ حضرت ہارونس عطایاباہ، یوسہ
 پزس تہ اپزس منز فرق کرہ ون آس۔ بیہ وتھ ہاونہ خیطرہ اکھ گاشاہ بیہ اکھ نصیحت ناماہ پرہیزگارن
 ہمدہ خیطرہ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ تم پرہیزگار پنہ نس
 پروردگار س غائبانہ کھوژان چھہ، بیہ تم قیامتہ نشہ تہ کھوژان چھہ، تھہ پاتھ تم یعنی موسیٰ تہ ہارون
 علیہ السلام آسہ کتاب عطاہر وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ وَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ بیہ قرآن مجید تہ

مُنْكَرُونَ ۵۰ ۞ وَلَقَدْ اتَيْنَا ابْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ
 كُتَابِهِ عَلِيمِينَ ۵۱ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ
 الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِقْفُونَ ۵۲ ۞ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا
 عِبَادِينَ ۵۳ ۞ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلِيلٍ
 مُبِينٍ ۵۴ ۞ قَالُوا آجَعْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِينِينَ ۵۵ ۞
 قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي

چھو بارکت اھ نصیحت ناما، نس اسم نازل کور کیاہ تہہ چھوہ اتھ انکار کران وَلَقَدْ اتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ
 رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُتَابِهِ عَلِيمِينَ پز پٹا ہیہ کر اسم ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام
 بروٹھ پن دوت تہ معاملہ نہی عطا (یوسہ تہندس شناس شوہ ہا۔ اسم آس بروٹھ خبر تہندین کمالات
 علمن ہنز اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِقْفُونَ قابل ذکر چھو تہند یہ واقعہ
 یلہ تمودوپ پنہ نس ماس تہ پنہ نس قومس یلہ تم مصروف وچھہ تمود پوتلین ہندس عبادتس
 اندروو تھک سمہ گمہ شکہ چھوہ توہہ تھاومرہ تمکن پرستش کرنہ خیطرہ تہہہ پرستھ وقتہ تمکن بروٹھ کنہ بہت
 چھوہ آسان قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ تمودوپک جواب کہ اسمہ وچھہ مال تہ بڈبب یعنی
 پرستش کران۔ تم لوکہ آس عاقل لہذا زون اسمہ تم چیز چھہ پرستھہ قابل۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ
 وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلِيلٍ مُبِينٍ ابراہیم علیہ السلام دوچھہ تہہ تہ یہ تہند مال بڈبب چھوہ پز پاٹھ تم
 پوتل لایق عبادت زانہ نس اندر نہ گمراہی منز بتلا۔ تم آس پانہ گمراہ، تہہ تہ رُودوہ تھہ گمراہی بیٹھہ۔ یہ
 بوز تمودو اکھ کتھاہ۔ تم گئے یہ یوزت حیران۔ تمودوپ قَالُوا آجَعْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِينِينَ
 تم لگ دینہ کیاہ تہہ چھوہ پنہہ جایہ یہ کتھ پز زانہہ اسمہ نشہ پیش کران۔ کنہ تہہ چھوہ تھہ مخول کران
 قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ابراہیم علیہ السلام فرمود کہ مخول
 چھونہ بلکہ چھہ پز کتھ نہ صرف مے نشہ یوت بلکہ واقفس منز تہ چھہ یے پز کتھ کہ رب تہند چھوسوی

فَطَرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۶﴾
 تَاللَّهِ لَا كَيْدَ لَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۷﴾
 فَجَعَلَهُمْ جُدًّا ۖ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۵۸﴾
 قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِالْهَيْتَانِ ۗ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۹﴾ قَالُوا
 سَبْعِنَا فَنِي يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ۖ إِبْرَاهِيمُ ﴿۶۰﴾ قَالُوا
 فَاتَّوَابِهِ عَلَىٰ آعِينِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۶۱﴾ قَالُوا

ذات پاک نِس سارنی آسمان تہ زمین ہند رب چھو۔ تم تم آسمان زمین گوڈہ پیدہ کر برو تم نقشہ تہ
 نمونہ آسنہ وراہی۔ پیدہ تہ تم آسمان تہ زمین منز چھو تہ سو زوی کور تم کی پیدہ تہ منز تم تہند پو تل تہ
 چھہ شامل۔ یعنی تم تہ چھہ تمی پیدہ کمر مت۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ بوجھس پانہ
 اچ گواہی ودان۔ اتھ پیٹھ چھہ مہ نشہ دلیلہ تہ۔ یو چھوس نہ تہند پاٹھ اچھہ وٹھہ تقلید کرن و تاللہ
 لَا كَيْدَ لَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ قسم خدا یو کرہ تہند یں پو تلین ضرور کینہہ تدبیرہ تہ
 بند و بستہ تہ توبہ معلوم سپدہ تہند عاجز آسن تہندہ تم نشہ واپس گھنہ پتہ فَجَعَلَهُمْ جُدًّا إِلَّا
 كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ چنانچہ تہندہ گھنہ پتہ کر ابراہیم علیہ السلام تم پو تلین تہرہ سیت
 ریزہ ریزہ۔ مگر نہ اکس بڈس پو تلین۔ اُس کور کھ نہ کینہہ تہ تہندہ تم تم کن واپس یں دریافت کرنہ خیطرہ
 قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِالْهَيْتَانِ ۗ لَمِنَ الظَّالِمِينَ حمہ پتہ یلہ تم واپس آئے و چھٹھ پو تلین ہند یہ
 حال۔ دینہ لگ یہ بے ادبی تہ بے حرمتی ہنز کام تم سنا چھہ کمر مرسانین معبودن نسبت بیشک چھوسو
 ظالم قَالُوا سَبْعِنَا فَنِي يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ۖ إِبْرَاهِيمُ بعضی لگ دینہ آسہ بوزاکھ جواناہ اوس تم
 پو تلین ہند تذکرہ کران۔ اُس چھوناہ ابراہیم قَالُوا فَاتَّوَابِهِ عَلَىٰ آعِينِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
 دچھہ نِس انیون سوسارنی لو کن تھی۔ تہند تم تھی اقرار کرہ تم تہ روزن تہ پیٹھ گواہ توبہ تہ انہ نو و کھ
 ابراہیم علیہ السلام قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِالْهَيْتَانِ يَا إِبْرَاهِيمُ دوپس اے ابراہیم کہہ کور تہ یہ حال

ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا لِهَيْبَتِنَا يَا بُرْهِيمَ ﴿۶۲﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ بَعْضٌ
 كَيْبُرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۶۳﴾ فَرَجَعُوا إِلَى
 أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۶۴﴾ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى
 رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۶﴾ أَفِ
 لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾
 قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۶۸﴾

سائین پوتلین نسبت قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَيْبُرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ تمودو وپہک بلکہ چھو
 کورمت یہ یہہد بڑھی پوتل۔ بس پر ڈھتو تم پوتلین چھ تم کلام کرہ ون فرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا
 إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ پتہ پھیر تم پانسُن۔ پان پانسیت سوچ کمر تھ لگ اکھ کس ونہ۔ یقیناً پتہ
 زیادتی تہدی طرفہ (بے جان کینن معبودون چھو بیشک ظلم) ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ
 مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ توپتہ اکھ نومراونہ کلہ بون کُن خجالتہ سبہ۔ کلہ یون کُن تراوتھ لگ ونہ واقعی
 توہہ چھو معلوم اے ابراہیم تم پوتل چھنہ کنھی ہیگان وٹھ۔ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
 يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * اِفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ابراہیم
 علیہ السلامن دوپچھ کیاہ تہہ چھوہ ادہ معبود برحقس وراے تم چیزن ہنز پرستش کران تم نہ توہہ
 کاہہ نفع ہیکن واتہ ناوتھ بیہ نہ کاہہ نقصان۔ سیٹھاہ تنگ چھس یوسد مت تہندہ موکھ بیہ تم ہنز تہہ
 پرستش چھوہ کران معبود برحقس وراے۔ کونہ چھوہ تہہ عقل کران بس بے جان چیزتھ ہیجہ نہ کمر تھ
 سوی ہیجیا معبود آتھ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ تم لگ ونہ پانہ وان ام
 ابراہیم زال سان پپر۔ لہذا کرہہ پتہ زانہ یُن نارس اندر۔ تہہ کمر و مدد معبودن پنہ نیل چھوے توہہ

قُلْنَا يَا كُوفِي بَرِّدًا وَسَلْمًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ ۙ وَاَمْرًا دُوًّا
 بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاٰخِسِرِيْنَ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَوْطَا
 اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۙ وَهَبْنَا لَهٗ
 اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نٰفِلَةً ۙ وَكَلَّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۙ
 وَجَعَلْنٰهُمُ اٰبَتًا يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ
 الْخَيْرٰتِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتٰءَ الزَّكٰوةَ وَكَانُوْا النّٰعِبِيْنَ ۙ

کینہہ کران۔ تو پتہ کوزکھ نار تیار وار۔ ہمیں کاکس زمین سونہر تھ۔ تمہ پتہ یلہ ابراہیم علیہ السلام تھ نار س
 منز تراون ہیو مجھ قُلْنَا يَا كُوفِي بَرِّدًا وَسَلْمًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ اللہ تعالیٰ فرماوان حکم کوراسہ نار س،
 ناروسر سدہ، بیہ سلامتی ہند ذریعہ ابراہیم پیٹھ وَاَمْرًا دُوًّا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاٰخِسِرِيْنَ بیہ کریو
 تموارادہ پنہ تدبیرہ سیتہ ابراہیم نقصان وانا ونک۔ کس کمر اسہ تھے سخت نقصان تلہ ون۔
 وَنَجَّيْنٰهُ وَاَوْطَا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ بیہ دمت اسہ نجات ابراہیم علیہ السلام
 بیہ لوط علیہ السلام، کس تھند باپہ تھراوس دشمن نشہ۔ وانا واسہ تم دوشوے تھ زمینس منزیتھ منز
 اسہ برکت چھ تھامز لوکن ہندہ خیطرہ یعنی ملک شام اندر وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 نٰفِلَةً بیہ کوراسہ ابراہیم علیہ السلام عطا فرزند اسحق علیہ السلام تھند س مگنس پیٹھ۔ بیہ یعقوب علیہ
 السلام علاوہ وَكَلَّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ بیہ کمر اسہ تم ساری، مول پچو پچو سندیو، پیغیر یعنی ترشوے کمر
 اسہ پیغیر وَجَعَلْنٰهُمُ اٰبَتًا يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا بیہ کمر اسہ تم امام تہ پیشوا لوکن ہند تم تمن و تھ ہاوان چھ
 سانہ حکمہ موجب وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتٰءَ الزَّكٰوةَ وَكَانُوْا النّٰعِبِيْنَ بیہ
 سوز اسہ تمن گن وحی رتھ کامہ کرنک بیہ نماز نہ نک۔ بیہ زکوٰۃ نک۔ بیہ آس تم سانی یا تہ عبادت
 کران۔ یژھ شوہ تہ تھہ وَاَوْطَا اَتَيْنَهٗ حَمٰلًا وَاَعْلَمًا وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ
 الْجِبَالِیَّتِ بیہ کوراسہ عطا لوط علیہ السلام نبوتک اختیارات بیہ علم بیہ دس نجات تمہ شہرہ نشہ سمہ

وَلَوْ طَافْتَ فِيهِ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي
 كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فِسْقِينَ ﴿۴۳﴾
 وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۴﴾ وَنُوحًا
 إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ
 الْعَظِيمِ ﴿۴۵﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۶﴾ وَدَاوُدَ
 وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَمٌّ

شہر کو کہ ناپاک تہ پچھ کوم کران آس إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فِسْقِينَ بے شک آس تم کو کہ پچھ
 قوم سخت بدکار وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بیہ کوراسہ سولو ط علیہ السلام داخل پنہ
 نین تمن بدن اندر تمن پیٹھ رحمت تھہ نازل سپدان۔ کیا زہ تم آس بے شک بڑہ درجہ کیونیک مردو
 آندرہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بیہ کریوڈ کر نوح علیہ
 السلامہ سُنَدِ قِصَہ یلہ ابراہیم علیہ السلام بر ونٹھ تمو اللہ تعالیٰ آس مونگ ای بار خدا یامین کافر ن نیشہ
 بیچھ ناژہ میون بدلہ۔ کس کھر اجابت آسہ جھندس مگنکس۔ بیہ ڈیت آسہ نجات تمن بیہ جھندین لوکن تہ
 تابعن بڑہ غمہ نیشہ۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بیہ کوراسہ مدد تمن، تمن لوکن
 پیٹھ۔ سمو انکار کور تہ ایزان سان آیات إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ بے شک تم
 آس سیٹھ پچھ لو کہ کس پھاٹو آسہ تم ساری یجہ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ
 نَفِثَتْ فِيهِ غَمٌّ الْقَوْمِ وَكَثَرُوا لِحُكْمِهِمْ شَهِيدِينَ بیہ کھر ویاد داؤد علیہ السلام تہ سلیمان علیہ
 السلامہ سُنَدِ قِصَہ یلہ تم فیصلہ کران آسہ کھہ زراعتک۔ تھہ منزلہ اوس بیہ دجھہ کُلِ آس۔ تھہ زراعتس
 رات گیت اہم قومگ جب (تیر) آس پیمت۔ سمہ سیت تھہ زراعتس نقصان دو تمت اوس۔ حضرت

الْقَوْمِ وَكَتَابُ الْحِكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿٤٨﴾ فَفَقَّهْتُمْهَا سُلَيْمِينَ
 وَكُلًّا اتَيْنَاهُمْ وَأَعْلَمْنَا دَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ
 يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٤٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ
 لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ
 شَاكِرُونَ ﴿٥٠﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ
 إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٥١﴾

داؤد کور فیصلہ زراعتہ والس گودھن سم تیرین دنہ امہ نقصانہ بدل۔ اَس آس تہند فیصلہ وچھان
 فَفَقَّهْتُمْهَا سُلَيْمِينَ کس تور فخرہ اسہ تمیک فیصلہ حضرت سلیمان تمودوپ سم تیر روزن زراعتہ
 والس رُحہ۔ یہ کھیہ تمکن دودھ۔ یہ تلہ بہنز مون (بیر) تیرہ وول گرہ زرخ تہ زراعت خدمت یوتان
 زراعت پختہ سپدہ تہ پچہ۔ توپتہ بیہ زراعتہ والس زراعت والس دنہ تیرہ والس تیرہ والس دنہ وَكُلًّا
 اتیناہم وَاَعْلَمْنَا تمک دوشون صاحبن اوس اسہ قوت فیصلہ بیہ علم عطا کورمت وَاَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ
 الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ بیہ کمر اسہ مسخر تہ تابع داؤد علیہ السلام کوہ۔ تم کوہ آسن
 تمی سیت تسبیح پران۔ بیہ وڈون جانور تم تہ کمر تمکن مسخر تہ تابع۔ تم تہ آس تمی سیت تسبیح پران۔
 کانسہ ہند گودھ نہ یہ عجائب زانن۔ یہ سوڑی کرہ ون آس اسی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ
 لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ بیہ کچھناہ اسہ داؤد بیخبر تہندہ جنگی لباس وونہ نک
 گسب یعنی زرہ۔ کچھ توہہ بجاوہ سولباس اکھ آسندہ تکلیفہ رُحہ۔ کیا چھوہ تُوہ امہ تسبیح شکر گداری کرہ ون
 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ بیہ
 کمر اسہ سلیمان علیہ السلام مسخر تیزواو۔ سوی اوس پکان تہندہ حکمہ ملک شامس کن۔ کچھ ملکس اندر
 اسہ کچھ بر کث تھا و مژہ چھہ۔ بیہ چھہ آس پرستہ چیزاہ پور زانہ ون وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَبْغُضُونَ لَهُ
 وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ بیہ تھاو اسہ تابع سلیمان علیہ السلام بعضی جن

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا
 دُونَ ذَلِكَ وَكَتَابَهُمْ حَفِظِينَ ﴿۸۷﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ
 رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۸۸﴾
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ
 مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿۸۹﴾
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿۹۰﴾
 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۹۱﴾

تم سمندر منزه ہندہ خیرہ ڈنگ تہ غوطہ دتھ تختہ، لعل تہ جواہر کھاران آس۔ بیہ آس تم جن امہ
 وراہی تہ بیہ کامہ کران۔ آس آس تم جن راہجہ کمر تھ تہ سنبھالتھہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي
 مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ بیہ کمر و تذکرہ ایوب علیہ السلامہ سند قصہ یلہ آس سخت
 مرضس بتلا سہدت تم نادویت پنہ نس پروردگار اس ای زہ بوچھوس سخت تکلیفس بتلا۔ زہ چھوک
 ساروی رحم کرہ و نیو آندرہ زیادہ رحم کرہ و ن میانس حالس پیٹہ تہ کرتہ رحم فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا
 مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ نس کمر اسہ
 اجابت تھندس مگنس کوس اسہ تم سوتکلیف تہ سختی یوسہ تم ن آس۔ بیہ کمر اسہ تم ن عطاشر با تہ بیہ
 ایت برونتھ آس تم ن سیت۔ بیہ حیت پنہ رحمتہ سیت، بیہ اکھ و عظ تہ نصیحتاہ بندگی کرہ و نمین ہندہ خیرہ
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ بیہ یوزو حضرت اسماعیلہ سند حضرت ادریسہ
 سند، بیہ حضرت ذوالکفلہ سند۔ تم ترشوی چھہ صبرہ والیو آندرہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ
 الصَّالِحِينَ بیہ و اتنا واسہ پنہ نس رحمتس منز۔ بیشک تم چھہ نیوکا زواندرہ وَذَالْقُنُودِ إِذْ ذُكِّبَ

وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۗ
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۱﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ
مِنَ الْغَمِّ ۗ وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۲﴾ وَزَكَرِيَّا
إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ

مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بیہ کر یوں تذکرہ گاڑو والہس پیغمبر یونس علیہ السلامہ سُنَدِ قِصَہ۔ یلیہ تم پتہ قومہ نشہ درای
تہن نشہ خفہ سپد تھ۔ یلیہ نہ تموا ایمان قبول کور۔ تو پتہ یلیہ تہندہ قومہ نشہ عذاب دُور سپد تھ تہ آے نہ
تم واپس بلکہ تھو کہ پُئن سفر جاری سانہ اجازتہ وراے۔ تمو کور پتہ اجتہادہ سیت یہ خیال کہ ہتھ میانس
بلا اجازت سفر کرنس پیٹھ سپدہ نہ مہ پیٹھ کاہنہ باز خواست۔ انبیاءن پیٹھ چھو لازم و چھس پیازن۔ وجہ
موجبے پر ہتھ کاہا گر ن۔ تم ن سہز اتھ ترک مناسب کرنس پیٹھ خدلیہ سندہ طرفہ آزمائش۔ ہتھ آو کہ
دریادواہ اکھ۔ بیہ آہ ناواہ اکھ۔ تم سپد تھ ناوہ منز سوار۔ ”یہ ناوسہز طوفانس گر فقا پتہ تراوہ ہانزد چیرہ
کہ کس سنا چھ بغیر اجازتہ سفرس درامت، چیرن منز دراو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلامن ہند ناو
دوبارہ تہ آہ چیرہ تراونہ متہ تہ دراو تہندی ناو“ کس آہی تراونہ تم دریادوس منز۔ اتی تچ ناو۔ خدلیہ سندہ
حکمہ سیت آہ اکھ گاڑاہ۔ تمئی کھے تم یعنی یونس علیہ السلام۔ کس مونگ تموتار کی تہ گٹن اندر کہ تہ
ورای چھونہ کاہنہ معبوداہ۔ تہ چھوک ساروی عینو نشہ منزہ تہ پاک۔ یو چھوس گہنگا رُو اندرہ۔ میانہ
طرفہ آہ غلطی۔ میون قصور کر معاف۔ مہ موکلاو سمہ سختی منزہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ
الْغَمِّ کس کمر آہ تہندس مگنکس اجابت۔ بیہ دُیت نجات آہ تہن غمہ نشہ وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ
الْمُؤْمِنِينَ ہتھ پاٹ آہ یونس علیہ السلامس نجات دُیت۔ ہتھ پاٹھ دِمو اس نجات با ایمان یلیہ تم
تہ یہ دعا پرن۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ بیہ

الْوٰرِثِیْنَ ۹۰ ۷ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ یَحْیٰی وَاصْلَحْنَا
 لَهٗ زَوْجَهٗ ۷ اِنَّهُمْ كَانُوْا یُسْرِعُوْنَ فِی الْخَیْرِ ۷
 یَدْعُوْنَآرْعَبًا وَرَهَبًا ۷ وَكَانُوْا لِنَاخِشِیْنَ ۹۱ ۷
 وَالَّتِیْ اَحْصٰتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ
 جَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۹۲ ۷ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ
 اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ ۷ وَاَنَا رَکْمٌ فَاعْبُدُوْنِ ۹۳ ۷ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ

کرم و یاد زکریا علیہ السلامہ سُنَدِ قِصَص۔ یلہ تمومونگ پنہ نس پروردگار س، ای میانہ پروردگارہ متہ تراوتہ
 مہ لاوارث تہ بے اولاد۔ ثری چھوک حقیقی تہ بہتر وارث۔ سو اولاد تھاوہہ ہامیان کام قومس اندر باقی۔
 تمن آسہا جان احکام و اتنا وان فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ یَحْیٰی وَاصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۷ اِنَّهُمْ كَانُوْا یُسْرِعُوْنَ
 تہمدس منگنس اجابت توپتہ کور آسہ تمن عطا فرزند، تجلی علیہ السلام بیہ کمر درست آسہ تہمز آٹن۔
 تمن یوسہ ہانٹھ آٹھ شکایت آس سو کمر آسہ دور تمن۔ سو سہ اولاد نہ نس قابل اِنَّهُمْ كَانُوْا یُسْرِعُوْنَ
 فِی الْخَیْرِ ۷ وَیَدْعُوْنَآرْعَبًا وَرَهَبًا ۷ بے شک تم ساری بیغیر تمن ہنز ذکر تھ سوره شریفس
 منز کرنہ آسہ آس جلدی کران خیرہ چن کا میں اندر بیہ آس سان عبادت کران توقع سان تہ خوفہ
 سان وَكَانُوْا لِنَاخِشِیْنَ بیہ آس تم آسہ بروٹھ کنہ عاجزی کروہ ونِ وَالَّتِیْ اَحْصٰتْ فَرْجَهَا
 فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ بیہ کریو تذکرہ کس دید صاحبہ ہند سمہ راچھ
 کر پنہ نس عصمتس مردن نشہ کس واتنواسہ پن روح بواسطہ جبریل امین علیہ السلام تمن نشہ، سمہ
 سیت خاوندس ورا ی تہمدس کس اندر چر رود یعنی حضرت عیسیٰ تمی چھ ونان تمن روح اللہ۔ بیہ کمر
 آسہ سو دید صاب بیہ تسد فرزند پنہ قدر تک اکھ بوڈ نشانہ اکھ سارنی عالمین ہندہ خیطرہ یعنی تہندہ کاح
 ورا ی حاملہ سڈن بیہ فرزندہ پیدہ سڈن بے پدر۔ امی اندرہ گھبہ زانن کہ اللہ تعالیٰ چھو پر تھ چیزس
 پیٹھ قدرتہ وول اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ ۷ وَاَنَا رَکْمٌ فَاعْبُدُوْنِ اے لو کو سمہ بروٹھ کس

بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رُجُوعٌ ﴿۹۳﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۴﴾ وَ
 حَرْمٌ عَلَىٰ قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۵﴾ حَتَّىٰ إِذَا
 فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۶﴾
 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاذْهَبِي شَاخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَيُولِيْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ

مضمون بیان آور کر نہ تمہے اندر ہر پد معلوم کہ انبیاء کرام ہند طریق چھو توحید۔ بیشک یو ہے چھو تہند
 طریق چھو مستقیم روزن چھو توہہ پیٹھ واجب۔ ہوی چھو کئی طریق چھو منزہ کانسہ پیغمبرس
 اختلاف چھو سیمہ طریق حاصل چھو کہ یو چھوس تہند حقیقی پروردگار، بس ہزہ توہہ میانی یا ثعبادت
 کرن، لوکن اوس لازم اتھ طریقس پیٹھ محکم روزن وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رُجُوعُونَ
 مگر لو کوور دینہ کس معاملس اندر اختلاف۔ دینس کمر کہ مکرہ مکرہ۔ تمیک سزا کھن تم پانے۔ کیا زہ
 پر چھو اکس چھو واتن اس نشہ۔ یوت واتھ تلہ پر چھو اکھاہ پنہہ عملہ ہند نتیجہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ
 الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ پس بس اکھاہ رثاکام گرہ با ایمان آتھ
 بس ضائع تہ چھب گڑھہ نہ تہنز کوشش۔ اس چھہ تہنزہ عملہ لیجھت تھاون وال وَحَرْمٌ عَلَىٰ قَرِيَّةٍ
 أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ نامکن چھو تم شہرن ہندین لوکن ہند سیم اسہ نافرمانی سبہ گال دنیاس
 کن یہہ وانس سن حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ یوتان یاجوج
 ماجون یکہ تراونہ بن سیم و نکیس سد سکندر بس منز بند چھہ تو پتہ دورن تم کو ہوتہ بالو پیٹھ وَاقْتَرَبَ
 الْوَعْدُ الْحَقُّ تو پتہ سپدہ پورہ پوزوعدہ یعنی قیامت سپدہ تمہ پتہ قائم فاذا هبى شاخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا تو پتہ لکن درہ کافرن ہنزہ اہچہ۔ تم اس ای دنان یُولِيْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ
 كُنَّا ظَالِمِينَ قیامتک ہولناک حالات و چھت دین ہای افسوس پز پات اس اس قیامتہ نشہ غفلتس منز

كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۹۷﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿۹۸﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ
 إِلَهًا مَا وَرَدُوا هَاطُوكُلِّ فِيهَا خِلْدُونَ ﴿۹۹﴾ لَهُمْ فِيهَا
 زَفِيرٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ
 لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۰۱﴾ لَا يَسْمَعُونَ
 حَسِيْسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا شَتَّهَتْ أَنفُسُهُمْ خِلْدُونَ ﴿۱۰۲﴾

لو ڈومت۔ غفلت گئے یہ ہر گاہ اس کا نہ خرد دار آسہو نہ کمر مت بلکہ آس آس ظلم کر رہے ہیں ان کے وہ
 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ وندہ تیکھ پز پز پات تہہ اے
 مٹر کو بیہ تم ہنر پر ستش کر ان آسہو تہہ خدا جس ورا ی چھوہ از نار جہنمک زمین۔ تہہ منز چھوہ توہم
 سارنی ضرور اٹن۔ معبود و اندرہ تم بعضے ملائیکہ یا پیغمبر چھہ تم چھہ بیہ آئیہ کریمہ سیت امہ نغمہ مستغلی
 آمت تھاونہ تمیک ذکریہ عنقریب لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَا وَرَدُوا هَاطُوكُلِّ فِيهَا خِلْدُونَ تم بیہ
 وندہ ہر گاہ آسہن تم پو تل معبود تیلہ کیا زہ وادہ من تم نار جہنمک منز۔ نتر روزن تہ کم کینہہ کالاہ چھونہ
 توہم، توہم سارنی چھو روزن ہمیشہ اٹھ جہنمک اندر لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ تم
 کافرن آسہ جہنمک منز کریہ نادہ شور وغل سمہ سبہ تم اکھ آسہن تھی آسن نہ بوزان إِنَّ الَّذِينَ
 سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ پز پز پات بہندہ خیلرہ برو نٹھی از لہ مقر چھہ آمر
 کرنہ نیکی تہ رڈر، سمیک ظہور آسہ سپدمت تہند یو اعمال و افعالو سیت تم چھہ امہ جہنمہ نشہ دور تھاونہ
 آمت لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِي مَا شَتَّهَتْ أَنفُسُهُمْ خِلْدُونَ تم بوزن نہ تمیک تھہ تہ بیہ
 آسن تم پتہ نین مرغوب چیزن اندر ہمیشہ روزہ ون۔ لَا يَخْرُجُوهُمْ فَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهِنَّ الْمَلَائِكَةُ
 غمگین کرہ نہ تم بڈ پریشانی یعنی پو غس دو تم پھو کھ وندہ سبہ سم ہیبت ناک واقعات سپدن قبرہ منزہ نیرہ
 وئے۔ بیہ من تم استقبالس ملائک تم وندہ کھ ہذا یوم مکہ الادی کنتم تودون۔ یہوی کیا گو تہند

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ
 الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۰۳﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ
 لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا
 فاعِلِينَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
 الْأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِي الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّ فِي هَذَا الْبَلْغَا
 لِقَوْمٍ عابِدِينَ ﴿۱۰۶﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾

سُوْدُوهُ سَمِيكٌ تَوَهَّبَهُ وَعَدَهُ تَهَّانُوهُ أَوْسُ يُوَانُ - تَمَنُّ سَيِّدُهُ بِهِ بُوَزْنَهُ سَيِّتٍ ، مَسْرَتٍ وَشَادِمَانِي زِيَادَهُ يَوْمَ نَطْوِي
 السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ سُوْدُوهُ تَهَّ وَهَوَّ قَابِلٌ ذَكَرَ سَمِيَهُ دَوَهَهُ آسَمَانُ وَتُوَأْسُ تَهَّهَ پَاثُهُ تَهَّهَ پَاثُهُ لِيَكْهَنَهُ
 آسَمَتُهُ مَضْمُونُكَ كَاغْذُ وَهَوَّ وَنَهَ يُوَانُ تَمَّهَ پَتَهُ سَلَنُ تَمَّ تَهَّهَ پَاثُهُ وَتَهَّهَ تَهَّهَ تَهَّهَ تَهَّهَ تَهَّهَ تَهَّهَ تَهَّهَ تَهَّهَ
 مَعْدُومٌ مَحْضُ كَرَنَهُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ تَهَّهَ پَاثُهُ سَمَهُ گُوُوْجُهُ لَهَّ پَيِدَهُ كَرَنَكَ وَتَهَّهَ پَرِ تَهَّهَ جِيَزَجُ
 پَيِدَاشُ كَمَرُ تَهَّهَ پَاثُهُ كَرُوَأَسَهُ دُوْبَارَهُ بِهِ پَيِدَهُ - وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ يَهُ وَهَوَّ وَعَدَاهُ أَكَّهُ سَمَهُ پِيْثُهُ مَتَهُ
 بَعُ شَكُّ أَسَى چَهَّهَ سُوْدُوهُهُ پُورَهُ كَرَهُ وَنَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها
 عِبَادِي الصَّالِحُونَ بِهِ لِيُوَكَّهُ سَمَهُ سَارِنِي آسَمَانِي كَتَمَنُ أَنْدِرُ لُوْحُ مَحْفُوطُ مَنْزِلِي كَهَنَّهَ پَتَهُ كَهَ پَنَزُ پَاثُهُ جَنَنَهُ
 زِيَتِكُ وَارِثَتُهُ مَالِكُ آسَنُ نِيكُو كَارِبَنْدَهُ إِنَّ فِي هَذَا الْبَلْغَا لِقَوْمٍ عابِدِينَ پَنَزُ پَاثُهُ تَهَّهَ قَرَأَنُ
 مَجِيْدِسُ مَنْزِيَاتُهُ سُورَهُ شَرِيْفُسُ مَنْزِلِي جَهَّوْكَانِي مَضْمُونُ هَدَايَتِسُ مُتَعَلِقُ عِبَادَتِ كَرَهُ وَنَمِنُ لُوْكَنُ هِنْدَهُ خَيْطَرَهُ
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بِهِ نَهَ حَضُ سُوَزُوْدُهُ سَمَهُ جَهَّهَ مَكْرُ سُوَزُوْدُهُ تَهَّهَ نَفْعُ دُوْدُوْدُنُ مَضْمُونُ
 پِيْثُهُ عَالَمِينَ پِيْثُهُ مَهْرَبَانِي كَرَنَهُ خَيْطَرَهُ - سَمُوْ مَهْرَبَانِي گَنِيَهَ سَبَبُهُ كَهَ لُوْكَ كَرَنُ أَمَسُ پِيْغَمْبَرُ كَهَّسُ نَشَبُهُ تَمَّ مَضْمُونُ
 قَبُولُ كَمَرُ تَهَّهَ هَدَايَتِكُ شَمْرَهُ تَهَّهَ پَهْلُ حَاصِلُ - لَيْسَ نَهَ تَمَّ مَضَامِينُ قَبُولُ كَرَهُ ، تَهَّهَ جَهَّوْ تَمَسُ پَنُ قَصُورُ - تَمَنُّ
 مَضَامِينُ پِيْثُهُ جَهَّوْنَهُ تَمَّهَ سَيِّتُ كَانَهُ اَثْرُ پِيُوَانُ - قُلْ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِإِيْمَانِ الْهَيْكَمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُسْتَلِيمُونَ جَهَّهَ فَرَمَا يُوَكَّهُ بَطُورُ خِلَاصَهُ بِهِ يَهُ كَهَّهَ كَهَ مَهَّ كُنُ جَهَّوْنَهُ كَانَهُ وَحِي سُوَزُوْدُهُ يُوَانُ مَكْرَأِي زَهَ پَنَزُ پَاثُهُ

قُلْ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِإِسْمَاءِ إِلَهِكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَهَلْ أُنْتُمْ
 مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي
 أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿۱۰۹﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ
 الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّه فِتْنَةٌ لَّكُمْ
 وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا
 الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۲﴾

تہند معبود چھوکنوی۔ جس کیاء چھوہ تہہ یہ کتھ مانہ وان ایچ حقیقت ثابت سپنہ پتہ **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ**
إِذْ أَنْتُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ توپتہ ہر گاہ تم تہہ پھر ان تہ مانہ تہ تلہ فرماؤ کہ مہ کمر موہ توہہ عذاب خیر برابر
 برابر **وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ** مہ چھونہ معلوم سو عذاب کروہ توہہ پیٹھ جلدی کنہ
 بیڑہ کال۔ سمیک توہہ وعدہ کرنہ یوان چھو **إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ** ہنر پات
 تہند پروردگار چھو زانان تہنر سو کتھ یوہ تہہ بڑہ چھوہ کران بیہ چھو زانان تہ سو روی یہ تہہ پو شیدہ تہ
 کتھ چھوہ تھاوان **وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّه فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ** بیہ چھونہ معلوم شاید عذابس منز
 تاخیر سپن ما اسہ تہندہ آزمائشہ خیطرہ یائتہ و قس تان توہہ تمنع تہ نفع تلہ نانہ خیطرہ **قُلْ رَبِّ احْكُم**
بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ پیغمبرن کور دُعا اے میانہ پروردگارہ تری
 کر میانس قومس منز حق و انصافک حکماہ تہ فیصلاہ۔ بیہ فرمود پیغمبر برحق سون پروردگار چھو سیٹھاہ
 رحمتہ وول۔ تمس نشہ چھہ اس مدد منگان تمن کتھن پیٹھ۔ سمہ کتھ تہہ تس نسبت ونان چھوہ۔

سُورَةُ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى
وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ② وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ای لو کو کھو ژوپنه نس پر وردگار س، تهنندس
عذانس، نس انو ایمان، تهنز کمر و اطاعت، کیا زه پز پناھ قیامتک بنیل نس ینه وول جهو، سو جهو چیزه
سیٹھاہ بوڈ ته مشکل۔ یہ زلزله ته بنیل جهو قیامتہ کیو واقعاتو آندره اکھ واقعاہ۔ یہ ینلہ یتھ مشکل جهو ساری
واقعات کیتیاہ مشکل آسن۔ تمو ساروی مشکو نشہ بخیر گذرنہ خیطرہ کمر و کاہنہ ساماناہ نہہ حاصل۔ سو
سامانہ جهو تقوی، خدا نس کھوژن۔ تمہ ینلج شدت ته سختی آسہ یشہ کہ یوم تر و نہا تذہل کُل
مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا سمہ دویہ و جهون نہہ سہ بنیل ته زلزله سو
آسہ تھوی خوفناک کہ پر یتھ دودہ ماجہ مشہ ہیبتہ ته دہشتہ سمیت پن دودچوہ و ن شر۔ یہ سپدہ پر یتھ حملہ
واجبہ زانہ وقتہ بروٹھی وضع حمل و تری الناس سکری و ماہم بسکری و لکن عذاب اللہ شدید
یہ دچھ، کچھ ژہ لو کہ مست ته بے ہوش مگر حقیقتس منز تم مست آسن نہ کہ نہ نشہ چیتھ بلکہ آسہ خدا یہ سند
عذاب سیٹھاہ سخت سمکہ خوفہ سمیت لو کہ آسن بے ہوش ته بد حواس سپد مت و من الناس من
یجادل فی اللہ بغیر علم و یتبع کُل شیطن مرید یہ چھ لو کو آندره تم شخص سم بحث چھ

شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ
 وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ
 فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
 نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
 مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ
 آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ
 وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَتَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ

لاگان خدایہ سزناں تھن اندر علمہ وراى۔ بیہ چھہ پریتھہ سرکش شیطانہ سز پیروی کران۔ کُتِبَ عَلَيْهِ
 أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ کس شیطانس متعلق خداین لیوکھت چھو کس
 اکھاہ کس سیت دوستی لاگہ تمس کرہ سُو شیطان یقیناً گراہ بیہ ہاویس و تھہ جھنمہ کس عذابس کن۔
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
 مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى
 ای لو کوہر گاہ توہہ شک چھو مر نہ پتہ بیہ زندہ سپد کس اندر، جُہہ و چھو پتہ کس ابتداءس کن، اسہ کمر وہ جُہہ
 پیدہ میڑہ (کیا زہ غذا نشہ چھو نطفہ بنان عناصر و نشہ بیٹھہ اکھ جُزء میڑہ چھہ۔) تو پتہ آبہ قطرس، تو پتہ
 خونہ دتہ، تو پتہ ما زپارس بیٹھہ پور شکل دنہ آمڑہ چھہ آسان یا جھنہ آسان پور شکل دنہ آمڑہ، بیٹھہ کس
 سز او وین قدرت بیہ جھن کس قرار کرہ ناوان شیکن اندر تیس کاس بیٹیس کاس بیہ کس بیہ کس مقرر
 مدتس تان ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَتَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ
 أَرْدَلِ الْعُمُرِ لکیلا یعمکم من بعد علمو شیئا تو پتہ چھہ کس توہہ نیر کڈان ماجہ ہنزہ ہڈ ہنزہ پچاہ۔
 تو پتہ چھہ کس توہہ تربیت کران بیٹھہ جُہہ و اتو جوانی ہندس کس۔ بیہ چھہ توہہ اندر بعضی جوانی و اتنہ برو نطھی

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْءٍ وَتَرَى الْأَرْضَ
 هَامِدَةً فَاذْأَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
 وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ
 هُوَ الْحَقُّ وَأَنََّّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ
 فِي الْقُبُورِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

مران۔ بیہ چھ توبہ اندر بعضی تم واتنوں دیوں چھ پیچھ زندگی اندر یعنی بجز اس۔ تھ منر گھند قوت حافظہ تہ
 یادداشت چھو کمزور سپدان سو چھو کہ چیز ج خبر گھت تمہ نشہ بے خبر سپدان تہ چھس مشد گھان۔ امی اندر سپد
 معلوم اللہ تعالیٰ چھو مر نہ پتہ بیہ زندہ کرنس پیٹھ قدر تہ دول۔ بیا کہ دلیل چھ اتھ پیٹھ وَتَرَى الْأَرْضَ
 هَامِدَةً فَاذْأَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ بیہ چھن
 و چھان ثہ ای مخاطب بیہ زمین ہو گھت تہ خشک گو مت آسان۔ تو پتہ یلہ اس تھ پیٹھ رود تراوان چھ اتی
 چھو سو تروتازہ سپدان بیہ چھو پھولان بیہ چھو کھاران پر تھ قسمک خوبورت کل ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ
 هُوَ الْحَقُّ وَأَنََّّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیہ آویان کرنہ امی سبہ کہ اللہ تعالیٰ ای
 چھو موجود برحق، وجود س منر کامل۔ بیہ گو گھند کمال ذاتی۔ بیہ چھو سو ی مردن زندہ کران۔ بیہ گو گھند
 کمال فعلی۔ بیہ چھو سو ی پر تھ چیز س پیٹھ قدر تہ دول۔ بیہ گو گھند کمال وصفی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ
 لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ بیہ چھ قیامت ضرور پوہ ون، کانہ شمشہا چھونہ
 تھ منر بیہ کرہ زندہ اللہ تعالیٰ تم سارنی تم قبرن منر چھ یعنی عالم برزخس منر۔ یم ثور و عناصرو
 منر مئہ عنصرس منر آسن تم خاکس منر آسن تم تہ تم نارس منر آسن تم تہ، یم آسن منر
 آسن تم تہ، یم ہو اوس منر آسن تم تہ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا
 كِتَابٍ مُبِينٍ بیہ چھ لو کو اندرہ بعضی لوک تم ہر تہ قضیہ لاگان چھ خدلیہ سندس معالس اندر، تھندس

وَأَهْدَىٰ وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ ۝ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۝ وَنَذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذَلِكِ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۝
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۝ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ
وَجْهِهِ يَخْسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۝ ذَلِكِ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝

ذائس، صفائں یا افعاکن اندر کتبہ علمی و اقیقتہ و راے۔ یہ کتبہ روشن کتابہ و راى ثانی عطفہ لىضلل عن سبیل اللہ کن تکراوتھ، یعنی متکبرانہ طریقس منز لوکن خدایہ سنزہ و تہ نشہ ڈالنے خیترہ۔ لہ فی الدنیا خیزی و نذیقہ یوم القیمة عذاب الحریق تہندی خیترہ چھ بڈر سوائی دنیاس اندر یہ ہاؤ و اس تس قیامتک دوہ ذرہ و نہ نارکہ عذابک پور مزہ ذلک بما قد دمت یدک و ان اللہ لیس بظلام للعبيد و نہ پیش یہ عذاب چھوی تین کامین ہند بدلہ سمہ پنہ نیوا تھو کر مرہ چھت۔ یہ امی سببہ کہ اللہ تعالیٰ چھونہ ہرگز ظلم کرہ و ن پنہ نین بدن لہذا کیاہ او ی ژہ سزاد نہ جرمہ و راى و من الناس من یعبد اللہ علی حرف یہ چھ لو کو اندرہ بعضی تم لو کہ سم بندگی چھہ کران خدایہ سنز اندس پیٹہ روز تھ یعنی ترددتہ شمش کس حاس پیٹہ فان اصابه خیر اطمان بہ نئس ہر گاہ و نئس کا نہہ خیراہ تلہ چھو قرار کران تہت تھی۔ و ان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا و الآخرة یہ ہر گاہ و اثرس کا نہہ آزمايشاہ یعنی کا نہہ تکلیفہا تہ چھو پھیران تہ تھہ کران و انئس کرس گن سمہ سیت گڑھان چھو نئس دنیاءک تہ آخر تک نقصان ذلک هو الخسران المبين اتھ چھہ و نان لون نقصان۔ دنیاءک نقصان گو تئس اندر بتلا سپدن۔ آخر تک نقصان گو اسلامہ نشہ چھہ اتھ چھلان خدایہ سنز عبادت تراوتھ یدعو امن دون اللہ مال ایضراً و مالاً یفنعہ عبادت چھوہ کران خدائس و راى تمنی چیزن ہنزیم نہ تئس عبادت نہ کرس پیٹہ نہ کا نہہ ضرر نئسک و اتاوتھ یہ نہ عبادت کرس پیٹہ

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ
 الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿۱۲﴾ يَدْعُوا مَنْ ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ
 كَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَكَيْسَ الْعَشِيرِ ﴿۱۳﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۱۴﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ
 يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى
 السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيبُ ﴿۱۵﴾

کاہنہ فائدہ نہیں دیتا تھا۔ - ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ہے گنہگار، انتہا درجہ گنہگار، ایسے جو نہ پڑھے نہ سیکھے نہ دور چھو۔ يَدْعُوا مَنْ ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ یہ چھو تہنزی عبادت کران سے مسند ضرر زیادہ کچھ چھو تہنہ نہ نفع خوتہ کس مولى و کس العشیر سو چھو سیٹھا چھو مددگار سے سیٹھا چھو رفیق۔ - إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ پڑ پاٹ اللہ تعالیٰ داتا وہ تمن لو کن یمو ایمان اون یہ کر کچھ رزہ عملہ، جنتہ کین تمن باغن اندر سمو منز جو یہ پکان آسن۔ پڑ پاٹ اللہ تعالیٰ چھو کران تی یہ یشھان چھو کافرن ہندہ خیطرہ یشھ عذاب، با ایمان ہندہ خیطرہ یوڈ ثواب۔ تھہ بنہ نہ اکھ ذرہ ہر بدل۔ - مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيبُ کس اکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت مخالفت کر تھہ یہ خیال تھا وہ کہ یوسمہ غالب تمن پیٹھ تو پتہ رٹہ یو پتہ تہنہ نہ تہنہ دینچ ترقی اللہ تعالیٰ کرہ نہ ہر گز تمن عنہ قسمہ مدد نہ دنیا س اندرنہ آخرت س اندرتہ مسند یہ خیال آسہ کس پڑہ سوتراون آسانس الازتاکھ رزہ تو پتہ کھسن آسانس توت و اتھہ ہر گاہ پلپس سو کرہ ناون وحی نازل کرن بند۔ یہ کتھ چھہ واضحہ تہہ بیچہ نہ کاہنہ تہہ کمر تھہ۔ وون گڑھہ غور کرن کہ کیاہ اس شخصہ

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿۱۶﴾
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى
 وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۷﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ
 الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ

سُئِلَ تَدْبِيرُ كَرَمٍ سَمَّهِ نَشْرُ سُبُكَلٍ عَاجِزٍ جَهَّوْ بِهِيَ اِمْسِرَه. ناگوارى ہند چیز یعنی وحی بند کثرت۔ ہر گز یہیجہ نہ کثرت و کَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہتھ پاٹھ کور اسہ نازل قرآن مجید ہتھ منز صاف صاف تہ واضح دلیلہ ہتھ مگر باوجود آل وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ہیہ جھو اللہ تعالیٰ کی وتھ ہاوان کس یسند ارادہ کران جھو۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ہنز پاٹ بایمان ہیہ۔ یہودیہ صاحبین ہیہ نصاریٰ ہیہ آتش پرست ہیہ مشرک إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ہنز پاٹ اللہ تعالیٰ کرہ تمّن سارنی منز فیصلہ قیامتگ دوہ۔ مسلمان بایمان واتا وہ جنس منز۔ کافران واتا وہ جہنم منز۔ ہنز پاٹ اللہ تعالیٰ جھو پر ہتھ چیزہ، پر ہتھ کانسہ ہنز پر ہتھ کا ماہ پانہ و جھہ ون۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ آیا چھان چھہ کناژہ اے و جھہ ونہ بیشک اللہ تعالیٰ اس جھہ سجدہ ووان تم ساری مخلوقات تم آسمان منز جھہ ہیہ تم ساری مخلوقات تم زمین منز جھہ ہیہ آفتاب ہیہ زون ہیہ ستارہ۔ ہیہ کوہ تہ کل ہیہ ساری چارپا ہیہ لو کو آندرہ واریاہ۔ باوجود اینکہ ساری مخلوقات جھہ تابع تہ فرمانبردار اللہ تعالیٰ اس مگر انسان تمّن خاص عقل آئے ہیہ عطا کر نہ تمو منزہ و چھہ ساری فرمانبردار بلکہ جھہ واریاہ فرمانبردار۔ مگر واریاہ جھہ تمو اندر تم تمّن پیٹھ نا فرمانی سببہ عذابس متحقّ آن جھو آمت قرار دنہ یعنی تم متحقّ عذاب جھہ

عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ (۱۸) هَذَا خَصْمٌ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ
فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ
فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝ (۱۹) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ
وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۝ (۲۱) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا

سپدیت و مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ پزکتھ چھہ بیہ کہ سمن اللہ تعالیٰ
خوار و ذلیل کرہ تہ ہدایتگ توفیق دیدہ نہ، تمن چھونہ کاہنہ تہ عزت و وہ اون۔ بیشک اللہ تعالیٰ چھوٹی کران
یہ بڑھان چھو۔ سو چھو اختیارہ و ول هَذَا خَصْمٌ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ تم زہ چھہ اکھ اکسد مدعی۔
ہر چھک پنہ نس خدایہ سندہ خیطرہ بروٹھمن آیہ کر تمس منز یعنی (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا)
سمن فر قن ہنز ذکر چھہ تمن سارنی چھہ حق و باطلس پیٹھ آسکھ حیثیتہ زہ فریق۔ اکھ گوبا ایمان۔ تم پنہ
نس پروردگارہ سندین سارنی احکامن چھہ تسلیم کران۔ دو تم فریق گو ساری کافر، یہود، نصاریٰ،
مجوس، مشرکین، صابین وغیرہ۔ تم نہ پنہ نس پروردگارہ سندین احکامن تسلیم کران چھہ، تہنز
اطاعت قبول کران چھہ۔ تم دو شوے فریق چھہ دعویٰ اس اندر، بخش اندر، مناظر اس اندر اکھ اکسد
مد مقابل روزان جہاد و قالہ کس موقع پیٹھ۔ چنانچہ جنگ بدرس منز اسہ طرفہ حضرت علی مرتضیٰ،
حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم بیہ طرفہ کافر و آندرہ ترہ زن۔ عقبہ شیبہ، ولید
امہ پنہ چھو اللہ تعالیٰ فرمادان تمن دوشون جماعتن ہند انجام فالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ
نَارٍ وَوَسْمٌ كَافِرٍ چھہ تہندہ خیطرہ چھو آمت کپنہ نازک پلو تہ جامہ۔ یعنی تمن آسہ ناری نار پریتھ
طرفہ۔ پھیر نک پاٹھ پریتھ طرفہ ولہ آمت يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ تمن بیہ کلہ
پیٹھ تراونہ سچ رسر۔ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ سمہ سیت پھسرہ و سن تمن آندرہ غیرہ۔
ڈونب تہ اندر تہ دز چھہ بیہ دزیکہ سوزی ہوست وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ بیہ آس تہندہ لاینہ خیطرہ

مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعِيدُ وَفِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۲۲﴾
 اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الْاَلْبَابَ الْاَلْمُنُوۡنَ وَعَمِلُوۡا الصّٰلِحٰتِ جَدِّتٍ
 تَجْرِيۡ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحٰلَوْنَ فِيۡهَا مِنْ
 اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُوۡلُوۡا وَّلِبَاسُهُمْ فِيۡهَا حَرِيۡرٌ ﴿۲۳﴾
 وَهٰذُوۡا اِلَى الطّٰيِبِ مِنَ الْقَوْلِ وَّهٰذُوۡا اِلَى صِرَاطِ
 الْحَمِيۡدِ ﴿۲۴﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَيَصُدُّوۡنَ عَنِ سَبِيۡلِ اللّٰهِ

نارس اندر گرم کرنے آمت شتر و دلیس تہ گرزہ کلمہ آراد و ان یخروجوا منها من غم اعید و فیہا
 یلبہ یلبہ تم ارادہ آسن کران جہنم منرہ نیر تک بیہ آسن و اتانہ یوان تہ منرہ تموی ڈیسوتہ گر زوسیت
 ونہ آسکھ یوان و ذوقوا عذاب الحریق ترہ ہمیشہ خیرہ مرہہ ذبحہ عذابک۔ اِنَّ اللّٰهَ یَدْخُلُ
 الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوۡا الصّٰلِحٰتِ جَدِّتٍ تَجْرِيۡ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ پزیاٹ اللہ تعالیٰ و اتانہ تمن لوکن
 سمو ایمان لون تہ رزہ عملہ کرکھ جنتہ تمن باغن منرہ سمو منرہ کولہ تہ جو یہ آسن پکان یحٰلون فیہا
 مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُوۡلُوۡا وَّلِبَاسُهُمْ فِيۡهَا حَرِيۡرٌ زیوریہ گنڈنہ تمن جنتس منرہ سونہ سند کر بیہ
 نختہ مالہ بیہ آسہ ٹہند لباس جنتس منرہ پوٹ۔ دنیاس منرہ چھو سنون رو پھ تہ پوٹ مسلمان مردان پیٹھ
 حرام۔ کیا زہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموؤ (أحل الذهب والحریر للإناث من أمتی وحرم
 علی ذکورہا) یعنی سنون تہ پوٹ آو حلال کرنے میانہ اچن زناتن پیٹھ مگر حرام آئی کرنے تم چیز میانہ
 اُمّتہ کین مردان پیٹھ لہذا ئیس مرد سنون، رو پھ تہ پوٹ استعمال کرہ دنیاس اندر سو آسہ آخر تس
 اندر محروم جنتہ کیو زیوروشہ و هٰذُوۡا اِلَى الطّٰيِبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهٰذُوۡا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيۡدِ
 یہ سوزی انعام و اکرام آسہ تمن سبہ سبہ دنیاس منرہ کیا آسہ و تہ ہاونہ تمن با ایمان پاک کلامس
 گن، سو گو کلمہ طیبہ۔ بیہ آسکھ و تہ ہاونہ قابل تعریف و تہ گن سنو و تہ گنیہ دین اسلام، صراط مستقیم۔
 تمہ کی برکتہ آکھ جنت تہ جنتیہ نعمو جنتک زیور عطا کرنے اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَيَصُدُّوۡنَ عَنِ سَبِيۡلِ اللّٰهِ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمِ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ^(۲۵) وَادْبُوْنَا لِلْأَبْرَهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ^(۲۶) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ^(۲۷) لِيَشْهَدُوا

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ پز پات سمولو کو مقرر تہ انکار کو رہیہ
 ہجہ تم پتہ رٹان لوکن خدلیہ سزہ و تہ نشہ یعنی اسلامہ نشہ۔ بیہ ہجہ پتہ رٹان لوکن تمہ محترم مسجدہ نشہ
 یوسہ اسہ مقرر ہجہ کمر مشسانی لوکن ہندہ خیطرہ عبادتج جای ستہ منز برابر ہجہ تینگ روزن وول تہ تمہ نیہر
 بیوشمر و پیٹہ ینہ وول وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمِ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ اکہ تم لوکن ہجہ
 رٹن دسکن اسلامہ نشہ بیہ مسجد حرام، ہجہ منز کعبہ شریف ہجہ تہجہ زیارتہ نشہ، بیہ تم لوکہ اتھ مسجد
 خراس اندروین اسلامس خلاف کانہہ کاماہ گرن یاٹھر و شُر تک ارادہ کرن سوتہ نہ ناوون آس دگ تہ
 دودنلہ ونہ عذابک عزہ وادْبُوْنَا لِلْأَبْرَهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا لوکن نشہ کمر و ذکریلہ
 تیار کمر اسہ ابراہیم علیہ السلامہ سندہ خیطرہ گرج جایہ، تہ عبادتس منزہ تھایون شریک مہ سیت کانہہ چیز
 وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ پاک تھایون میون گرہ عبادت کرہ ونین
 ہندہ خیطرہ، خانہ کعبہ تیار کرہ ہجہ جائے سیت فرموہس یہ مکانہ کریون تیار میانہ عبادتہ خیطرہ نماز پرہ
 ونین ہندہ خیطرہ تم نمازہ اندر قیام رکوع تہ سجدہ کرہ ون آسن وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
 رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ بیہ وون اسہ ابراہیم علیہ السلامس کہ اعلان کمر و
 لوکن اندر امہ گرج زیارت کرہ ٹک۔ امہ اعلانہ سیت ین لوکہ توہہ کن امہ گرہ چہ زیارتہ خیطرہ لاران
 تہ گاران، پتھر تہ سوارین پیٹہ تم سوارین پیٹہ سمہ دور و دراز سفر کرنہ سیت لاغر تہ سست آسن سزہ

مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ
 عَلَى مَآرِزَ قَوْمٍ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
 وَأَطِعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ۝ (۲۸) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
 وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ (۲۹)
 ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
 وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشْبِهُ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا

مذہب۔ بین تمہ سوار یہ دور یوں تو پیٹھ کو بہہ ڈرو منز لیسٹھدا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومت علی مآرز قہم من بہیمۃ الانعام۔ متھ واتن تہ حاضر سپدن پنہ نین دینی تہ دنیوی فائدن حاصل کرنہ خیرہ (دینی فائدہ چھو مقصود بالذات دنیوی فائدہ چھو تابع غیر مقصود) بیہ متھ خدایہ سندیاد کرن تمہن دوہن منزم معلوم تہ مقرر چھہ (تم گئے ڈہم، بہم (۱۰) کر (۱۱) تہ بہیوم (۱۲) کرنہ خیرہ تمہ جانورن تم اللہ تعالیٰ فی عطا کرمت چھہ مخصوص چاروالیو آندرہ یعنی گاؤ، وونٹ، ژھاؤل تہ کٹھ۔ تمنی ذبح کرچھہ وقتہ بین خدایہ سنداو یعنی ہرن ذبح کران بسم اللہ اللہ اکبر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ۔ پس کھیوپانہ تمہن قربانی ہندین جانورن ہندہ مازہ آندرہ۔ بیہ کھیایو کھ مصیبت زدہ تہ محتاج بلکہ مالدار اشخاص تہ ہے کھیایو کھ، کانہہ حرج چھونہ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ توپہ تہ گڑھہہہ لوکن ہند دور کرن ہن مل تہ کشافت یعنی احرام مذہب راون مس کاسن یا کرہن بیہ کاسن نم بیہ ہیون اصلاح بیہ گڑھہن گرین پورہ ہن واجبات بیہ کون طواف خانہ کعبس نیس مامون و محفوظ چھو، طواف زیارت۔ یہ طواف چھو فرض۔ ذَلِكَ اَكْه كَتِيه يه تنھہ امہ علاوہ چھو خدایہ سندن احکامن ہنز قدر کرن وَمَنْ يُعِظْمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ نیس اکھاہ خدایہ سندیون محترم احکامن ہند تعظیم بجالہ تہ چھو تسدہ خیرہ سیٹھا بہتر پنہ نیس ہروردگار س نشہ۔ تمہ سبت نیس ثواب، بیہ لہ عذابہ نشہ نجات وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشْبِهُ

الرَّجَسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝۳۰
 حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
 خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي
 مَكَانٍ سَجِيقٍ ۝۳۱ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ
 تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝۳۲ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ

عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ بیہ آیہ تہمدہ خیطرہ حلال
 کرنے چار پایلہ تمن خدایہ سنداوتہ ذن بیہ کرنے مگر نہ تم جانور تمن مند حکم توہمہ بیٹھ پر نہ یوان چھو۔ تم
 گے تے جانور یمن ہنز ذکر سورہ الفاعس منز کرنے آیہ (سُو گو خود مرده، خون، خزیر۔
 بیہ نُس جانور خدائس و رای بیہ کانہ ہندہ ناوہ سندا قرب ژھانڈنہ خیطرہ ذن بیہ کرنے) نُس روزو پتھ
 پو تلین ہنز پر ستنس کرچیہ ناپاکی نشہ۔ بیہ روزو پتھ اپر تھ ونہ نشہ، اپر گواہی دنہ نشہ۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ
 مُشْرِكِينَ بِهِ در حالیکہ مائل آسو تہمہ معبود بر ہنس کن۔ کس کانہ اکھ شریکھ ٹھراونہ و رای وَمَنْ
 يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ کیا زہ نُس
 اکھاہ کنس معبودس شریک ٹھراوہ تمسز۔ مثال پتھ زن سو آسمانہ پو پتھر دستھ تو پتہ تل مردار خور
 جانور و گہر گہر یادیت تیز و اذن بنرت کتہ دور جایہ یتہ سو ہلاک گو بہر حال سو گو پتھ پاٹھ نُس شخص
 شریک ٹھراوان چھو خدائس سو چھو یا کانہ ہندہ اتھ مارہ گڑھان یا چھو خود بخود مران پر تھ حائس منز
 چھو کس جہنم اندرو اتن ذلک یہ تھ یتہ گنیہ ختم۔ وون بو زوتہ اکھ خاص تھ قربانی ہندس جانورس
 متعلق۔ وَمَنْ يُعَظِّمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ بیہ نُس تعظیم کرہ خدایہ سندن دینہ کین
 یادگارن یتہ نشان یعنی جہ کین حکمن بیہ قربانہ کین جانورن ہند۔ نُس بیتک یمن چیزن ہنز عظمت چھ
 حاصل سپدان دلہ سیت خدائس کھوژنہ سیت لکم فیہا منافعہ الی اجل مسمی تہمدہ خیطرہ چھو جائز
 فاندہ تلن تمن قربانہ کین جانورن نشہ اکس معین و قس تان یوتان نہ شرعی قواعد و موجب تم ہدی

مَجْلَهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۚ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۗ
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ

سین بناوٹہ توتان چھو تمں پیٹھ سوار سپدن، ٹھنڈ دودھ کھيون، تمں پیٹھ یور سازن جانیز یلیہ تم ہدی بناونہ آئے ادہ گڑھہ سمو ساروی چیز وٹھ پتھ روزن مگرے سخت ضرورت پیہ ٹھو مَجْلَهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ تو پیہ چھو تہندہ حلال سپدنچ جالے یعنی ذبح کرنچ جانی خانہ کعبس نزدیک۔ پیٹھ یہ بیان آو کرنہ کہ حرمسی اندر گڑھہ قربان یکن کرنہ امہ اندرہ گڑھہ نہ یہ خیال کرن کہ امہ منزہ ما چھو مقصد حرمگ تعظیم کرن تہ چھونہ ہر گز بلکہ چھو اصل مقصود پروردگارہ سُندوی تعظیم، تمسندوی قرب حاصل کرن۔ مذبح جانور یا تھ جلیہ ذبح کرنہ پیہ سو چھو اکھ ذریعہ، مقام تہ جلیہ ہند تخصیص چھو بعض جتن ہندہ وجہ۔ تم تخصیصات ہر گاہ مقصود آہن تلہ بدلہ بن نہ تم عنہ شریعتس اندر مگر تم ہند بدن چھو ظاہر۔ تقرب الی اللہ یس اصل مقصود چھو سو چھو پریتھ شریعتس منز محفوظ رودمت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماون **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ** بروٹھم اہل شریعت تم گڈر سمت چھہ تموا اندرہ چھو آسہ پریتھ آہس قربان کرن مقرر کورمت۔ سمہ غرضہ کہ تم آسن قربانہ کس کس مخصوص جانورس پیٹھ اللہ تعالیٰ سُن نام پاک ہیوان سم سو جانور عطا کورمت چھو **فَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا** امہ اندرہ سپد ثابت کہ ٹھنڈ خدا چھو کئی کس کس تہنزی اطاعت تہ فرمانبرداری، تسندی بیوت بو، مؤحدہ خالص رُوزو۔ کاہنہ جانی وغیرہ مہ زانیون بالذات ^{تعظیم} سزاوار۔ پنہ عملہ اندر مہ آسہ اکس درس برابر تہ شرکس شائس پنہ دوان **وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ** تہہ دیو بشارت تہ خوشخبری تہ یارسول اللہ ﷺ خدایہ سندس کھمس گردن دارہ وینن **الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ**

مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۲۵﴾
 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ
 فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا
 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۶﴾ لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا
 دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا

يُنْفِقُونَ تم لہ توحیدہ خالصہ برکتہ چھہ تھی کہ علیہ تم بروٹھ گنہ خدایہ سد صفات بیہ تہند احکام بیہ
 تمسندین وعدن تہ وعیدن ہند ذکر کرنہ یوان چھو تم چھہ کھوژان، وکن چھہ ٹھہ دو تھان بیہ تم صبر کران چھہ
 مضہمتن پیٹھ بیہ تم ڈلو کران چھہ نمازہ پیٹھ بیہ تم خرچ کران چھہ تمہ مالہ آندرہ ٹس اسی تم عطا کور، مطلب
 چھو کہ توحید خالص چھو پیٹھ بابرکت چیز اسمہ سیت کمالات نفسانی، بدنی تہالی حاصل سپدن چھہ وَالْبُدْنَ
 جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ای مسلمانو بیہ کمر اسمہ ٹھندہ خیرہ قربانگ ساری
 جانور و ونٹھ گین، کٹھ، ژھاول جس اندر خدایہ سدہ دینہ کیو یادگار و آندرہ تم جانورن اندر چھہ ٹھندہ
 خیرہ دینگ تعظیم بجائیکہ علاوہ بیہ بیہ فائدہ تہ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ ٹس آسو تم
 دو تھندہ کھش کریمہ وقتہ خدایہ سدناو ہوان۔ بروٹھم کھو فر کھور ہیور ٹن گنڈتھ ترین زنگن پیٹھ استادہ
 کران۔ فَاذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اودہ یلہ سو جانور ٹھہ کرہ
 چھہ و س پیوان اسمہ تو پتہ پیہ شیر نہ سنبالہ ٹس کھو ٹھہ ٹھندہ مازہ آندرہ بیہ کھیادون نہ سمجھ و ن تہ، غیر
 سایل تہ تہ سائل تہ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پیٹھ پاٹ کمر اسمہ رام تہ مٹھر توہہ تم
 جانور ٹھہ ٹھہ شکر دپو کن یَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ خدائس نشہ نہ
 چھو واتان تم قربانہ کین جانورن ہند مازہ نہ چھو واتان ٹھندہ رتھہ بلکہ چھو واتان ٹس زہہ ٹھندہ تقویٰ تہ پرہیز
 گاری کذالک سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ پیٹھ پاٹھ کمر اللہ تعالیٰ ان توہہ مٹھر تہ رام

لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾
 إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۳۸﴾ اذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ
 عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
 إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ

سم جانور بیٹھتے تھے۔ بوڈز ایون اللہ تعالیٰ بیٹھ پیٹھ کہ و تھ ہاونوہ توہہ ہزس دیس کن۔ جہ کین صحیح حکمن کن بیہ دیست نوہ توہہ توفیق قربان کر نک و بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ بیہ فرماو توہہ یار سول اللہ بشارت تہ خوشخبری اخلاصہ والین نیکو کارن اِنَّا اللّٰهُ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا پز پات اللہ تعالیٰ کرہ با ایمان نشہ تہندین دشمن ہند غلبہ عنقریب دور۔ تم ہیکن نہ آئندہ کمنہ چیزس اندر مزاحمت کمر تھہ اِنَّا اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ پز پات اللہ تعالیٰ چھونہ کانہہ خیانت کردوس دعا بازس تہ ناشکر کڈارس پسند کران اذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اجازت آودنہ مقابلہ کر نک تمہن لوکن یمن سیت کافرن ہندہ طرفہ لڑای آس یوان کرنہ کیا زہ تمہن پیٹھ آوسیتھاہ ظلم کرنہ۔ مسلمان ہندہ کم یا زیادہ آسنگ چھونہ کانہہ سوال کیا زہ، بے شک اللہ تعالیٰ چھو تمہن پر بیٹھہ حاس اندر مدد کر س تہ غلبہ نس پیٹھ سیتھاہ قدر تہ وول۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ یم مسلمان ناحق کڈنہ آئے پنہ نیوشہر و آندرہ تہند جرم اوسنہ کینہہ سمہ تھہ وراے کہ تم آس ونان سون پروردگار چھو اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ سوڑوی غیظ و غضب چھو توحیدس پیٹھ۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا بیہ ہر گاہ نہ اللہ تعالیٰ لوکن ہند زور اڈین ہندہ سیت اڈین کم کران آسہاینے اہل حقن لے اہل باطلن پیٹھ وقتا فوقتا غلبہ دو ان آسہا، تلہ آسہن امت پنہ پنہ وقتہ لورنہ تہ مہندم کرنہ نصاریٰ ان ہند خلوت خانہ تہ عبادت خانہ،

فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ ۝۳۰ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ آتَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ ۝۳۱ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ
وَتِسْوَةُ لَأَمِيمٍ ۝۳۲ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝۳۳ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ
مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝۳۴

یہودوں ہند عبادت خانہ بیہ مسلمانن ہنزہ تمہ مسجد سمن منز بکثرت خدایہ سند ناہینہ یوان چھو وَلَيَنْصُرَنَّ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بیہ چھو ضرور اللہ تعالیٰ یاری تہ مدد تمین لوکن کران سم تسم تسم مدد
گرن یعنی تہندس دینس۔ ہنز پات اللہ تعالیٰ چھوپانہ سیٹھاہ طاقتہ دول سارنی پیٹھ غالب۔ سو چھونہ کانہ
ہندس مددس گن محتاج الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ آتَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ سم گے تے مسلمان سمن بشارت دنہ آئیہ، ہر گاہ اس
دنیاس منز حکومت دمو تہندس اتھس منز اسہ چھ خبری تم تھاؤن پانہ تہ نماز ہر پابییہ کرن زکوٰۃ اول
بیہ کرن یمن تہ رٹان کاین ہند امر تہ پیٹھ کامیوزشہ منع سارنی کاین ہند انجام چھو خدایہ سند سئی
اختیار س اندر وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتِسْوَةُ لَأَمِيمٍ ہر گاہ سم ہر تہ قضیہ لاگہ ون
لوکہ توہمہ اپرز ان تہ پڑھ گرن نہ۔ بیہ نوکٹھاہ چھنہ، امہ سیت مہ سپد ونہمہ آژردہ۔ سمن بروٹھ تہ چھہ
قوم نوحن، قوم عادن تہ قوم ثمودن بن پیغمبر اپرز انمت وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ
مُوسَىٰ بیہ قوم ابراہیمن بیہ قوم لوطن بیہ شہر مدین کیو لوکو، بیہ چھو اپرز انہ امت موسیٰ علیہ السلام۔
فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تمین سارنی کافر ن تہ مکنر دتھمہ کینہہ کالاہ مہلت۔
توپتہ رٹم تم تہ کرم عذابس گرفتار۔ بس وچھونہمہ سو میون عذاب کیتھ اوس تہندہ خیطرہ۔ فَكَيْفَ كَانَ مِنْ
قَوْمِ أَهْلِكَ نَأْوِي ظِلْمَةَ أَبِي خَاوِيَةَ عَلَى عُرْوَيْهَا بس کاتہن شہرن ہند لوکہ گال اسہ تہنزہ نا فرمانی سببہ۔

فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
 وَيَبْنَؤُ مَعْطَلَةٌ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴿۳۵﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ
 لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا
 تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿۳۶﴾
 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا
 عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿۳۷﴾ وَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ

تہمز حالت چھ کہ تہمز لرین جاین ہند پش چھہ ذبہ بیٹھت یعنی تمہ چھہ ویران تہ مہدم سبز نمہ۔ تم
 لو کہ تم تم لرین منز بان آس گے ہلاک تھہ سیت **وَبِنُؤْمَعْطَلَةٌ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ** بیہ کا تہہ کریر تم
 بیکار چھہ ہمیت امہ بروئھہ آس تم آباد۔ بیہ کاژاہ محکم تہ مضبوط گھہ کرنہ آمڑہ کرہ، تمنی لرین چھو
 لرہ پار گومت **أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا** کیاہ یم
 مکر چھنا پھیر مت ملکس اندر تا اینکه تمہ آسمن تہند حالات و چھمت پس آسہنک دل تھہ سہمت سمو
 سیت زان بھہ یا آسہنک کن تھہ سہمت سمو سیت بوژن بھہ بھہ۔ **فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ
 تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ** حقیقت چھہ بیہ کہ نہ چھنہ آسان گمڑہ کلہ چہ اچھہ بلکہ چھہ ان آسان
 تم دل یم سینس منز چھہ آسان۔ لہذا چھہ تمن تہ دل اعلیٰ سہمت۔ **وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ** وڈن
 چھہ تم کافر نبوتس منز شہہ تہ شک تراونہ خیطرہ توہہ نشہ جلدی ژھانڈن عذاب واقع کر نس اندر وکن
يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ تعالیٰ کرہ نہ ہرگز پنہ نس وعداس خلاف۔ نس وقاہ تم تمہ عذابہ خیطرہ مقرر
 کورمت چھو تھہ وفس پیٹھہ وائہ ضرور سو عذاب **وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ** پتر پاٹھ
 تہندس پد وردگارس نشہ چھو اکھ دوہاساس ورتس برابر تہندہ تمہ شمارہ موجب نس تہہ کران چھوہ
وَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُمْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَكُمْ أَخَذْتُمْهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ بیہ کا تہن شہرن ہند لو کہ تمن
 وژمہ مہلت ظالم تہ نافرمان آسہہ باوجود، یعنی تم آس ٹھٹھہ زانان عذابگ واقع پڈن تمی آس

أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتْهَا وَإِلَى الْبَصِيرِ ﴿۳۸﴾ قُلْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۹﴾ فَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَرْزُقُوا كَرِيمًا ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا
فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۴۱﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا
مَنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ
فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ

جلدی تمحکہ و تو عک مطالبہ کران۔ تم یلہ توتہ باز آئے نہ تو پتہ کرمہ تم عذائس گرفتار۔ یہ چھو سارنی
پتولا کہ سے لشہ واٹن تمہ سائہ دمہ یو تمن شرک و کفر ک پورسزا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
نہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ اے لوگو یو چھو سنہ مگر تمہدہ خیطرہ اکھ ن پائٹہ بیم کرہ ون۔ مہ تان چھو سنہ
عذاب واقع کران فَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَرْزُقُوا كَرِيمًا پس سمولو کو میانہ کھو ژناوندہ
تہ بیم کرنہ سیت عبرت رنٹھ ایمان اون تہ رژہ عملہ گرہ، تمہدہ خیطرہ چھو بوڈ مغفرت بیہ عزتک
رزق یعنی جنت تہ جتتہ نعمتہ۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ بیہ سم لو کہ
کوشش چھہ کران سانین آیاتن اپرزانتھ اسہ عاجز کرئخ۔ تمے گے نارہ وال یعنی نار جہنم س واتہ ون۔ ای
پیغمبر سم لو کہ چھہ شیطانہ سندہ انغوا سیت توہہ سیت مُقَابَلہ تہ مُجَادَلہ کران۔ یہ چھنہ نوکتھہا وَمَا أَرْسَلْنَا
مَنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ اسہ سوزنہ توہہ بروٹھ کاہنہ رسولہ
تہ کاہنہ نییہا سمس نہ یہ قصہ پیش آو کہ یان تمہ اللہ تعالیٰ سند یو احکامو اندرہ حکماہ بیان ہیوت کران تان
ہیوت شیطان کافر ن ہندین دلن اندر شہہ تہ اعتراض تراون فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ
اللَّهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ پس چھو اللہ تعالیٰ مہناوان تہ نیست و نابود کران تم شہمات تہ وسوسہ سم
شیطان تراوان چھو قطععی جوالبہ تہ روشن دلیلو سیت۔ توپتہ چھو اللہ تعالیٰ مضبوط کران پنہ نین آیاتن
ہند مضامین۔ یہ چھو اللہ تعالیٰ تمن اعتراضاتن متعلق پور علمہ ول۔ یہ چھو تمن اعتراضاتن ہند جواب

اِيْتِهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ حَكِيْمٌ ﴿۵۲﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ
 فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقٰسِيَةَ قُلُوْبُهُمْ وَّ
 اِنَّ الظَّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿۵۳﴾ وَّلْيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا
 الْعِلْمَ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيَوْمِنُوْا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهٗ
 قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلَى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۴﴾
 وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مَرِيْةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تٰتِيَهُمُ
 السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يٰتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ عَقِيْبِهِ ﴿۵۵﴾

تسليم کرس اندر پور جسمتہ وول۔ وون گو یہ کیاہہ چھو اللہ تعالیٰ کران یعنی شیطانس کیاہہ چھو وسوسہ تراونک موقع ووان لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقٰسِيَةَ قُلُوْبُهُمْ بٓيْتِه اللہ تعالیٰ کرہ تھہ شیطانہ سندس وسوس آمانشہ ہند ذریعہ تمن لوکن ہندہ خیطرہ بہ ہندین ولس اندر شکن تہ شہمن ہند مرض چھو۔ بہ تمن ہند دل سیٹھاہ سخت چھہ وَاِنَّ الظَّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ پنر پاپت چھہ کافر ز پیٹھس اختلافس تہ مخالفس منز۔ پوز روشن آستہ چھہ محض عنادہ سبہ قبول کران، شیطانس آوسوسہ تراونک طاقت ونہ بٓيْتِه لوکن آزمائش کرنہ بہ۔ وَّلْيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيَوْمِنُوْا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ چھو سموج جو ابوسیت تمن شہمائس ہند ابطال سپدان بٓيْتِه علمہ وال یہ تھہ وارہ زائن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مووہ تلاوت کور۔ تہ چھو پنر پاپت تھندس پروردگارہ سندس طرفہ۔ کس روزن تم ایمانس پیٹھ پور قایم تو پتہ سپدان تھہ پیٹھ عمل کرنہ خیطرہ تھند دل پورمائل وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلَى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ بیشک اللہ تعالیٰ ای چھو با ایمان سیز و تھہ ہوان۔ کس گو تھہ نامن ہدلتہ لبٓن۔ یہ گمیہ حالت با ایمان ہنز چھہ رود کافر تمن ہند حال چھو لہہ پتہ۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مَرِيْةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تٰتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يٰتِيَهُمْ عَذَابٌ

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ أَتِلُوا أَمْ تَلَاؤُنَّ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَو كَذَّبُوا بآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۵۷ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝۵۸ لِيَدْخُلَنَّهُمْ مَدُ خَلَايِرُ صَوْنَةٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ

یَوْمَ عَقِیْمٍ ہتھ رُوڈ کافر تم روزن ہمیشہ قرآن مجیدہ کہ حقہ شکہ سی اندر یوتان واتھ پیہ ہنگہ تہ منگہ تمن قیامتک دوہ یاوتیکہ دُنیا سی منزمنہ سخت مشکل تہ بے برکت دہگ عذاب ہتھ منز تمن قتل وغارت سپدہ الْمَلِكُ یَوْمَئِذٍ اللّٰهُ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ پادشہت آسہ تمہہ دوہہ یعنی قیامتک دوہ اللہ تعالیٰ سنزی یاثر۔ سُوٰی کرہ تمن کافر ن منز عملی فیصلہ فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِیْ حَیٰتِہِمْ التَّعٰمِیْمُ سُوٰ فیصلہ گو یوہنہ سمولو کو ایمان آنھہ رتھہ عملہ کرہ مرہہ آسن تمن واتا وہ اللہ تعالیٰ نعمن ہندین جمن اندر وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ کَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا فَ اُولٰٓئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ مُّہِیْنٌ بیہ سموگہ تہ انکار کو رہیہ زانجھہ اہر سان آیات، پس تمن لوکن ہندہ خیطہ ہچھو ذلیل تہ خوار کرہ ون عذاب وَالَّذِیْنَ ہَاجَرُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ثُمَّ قَاتَلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰہُ رِزْقًا حَسَنًا بیہ سمولو کو خلیہ سنز وہ تہ یعنی تہندہ دینہ خیطہ ہنن وطن تراوت ہجرت کمر تو پتہ آے مارنہ یا موپائے تمن دینہ اللہ تعالیٰ ضرور اکھ رت رزقاہ جنتک رزق تہ کم کم میوہ بیہ دیدار خدا وَإِنَّ اللّٰہَ لَہُوْ خَیْرُ الرَّزُقِیْنَ ہنر پاپ اللہ تعالیٰ ای چھو ساروی عطا کرہ ونیو اندرہ رت عطا کرہ ون۔ سوکرہ تمن عطار رزق جنتس سیت رت جاسے تہ رت گرہ تہ لَیْذُ خَلٰئِفَتِہُمْ مَّدُ خَلَا یِرْصَوْنَتِہٖ سُو واتا وہ تمن ضرور تہ ہی رتھہ جایہ اندر یوہہ تمن سیٹھاہ ہسند سپدہ وَإِنَّ اللّٰہَ لَعلِیْمٌ حَلِیْمٌ بیٹک اللہ تعالیٰ چھو پرستھہ کتھہ ہنز مصلحت زانہ ون سیٹھاہ ژید کرہ ون۔ پنہ نین دشمن چھونہ سیتی رٹان تہ سز ادوان بلکہ چھتھہ مہلت دوان ذلک وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِہٖ ثُمَّ نَبَغِیْ عَلَیْہِ

حَلِيمٌ ﴿۵۹﴾ ذَلِكُمْ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ
 ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْتُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۶۰﴾
 ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ
 فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۶۱﴾ ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ
 الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ
 اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۶۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ

لَيَنْصُرْتُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ دُونِ بُرُؤِ أُمَّةٍ بِتَهْمَةٍ كَتَبَتْ لَهَا سَمٌ دُشْمَنٌ نَشَأَ بَدَلَهُ هَيُوتٌ تَتَّخِذُ
 تَمَسَّ تَكْلِيفًا وَاتَّانَوْنَهُ أَمْتُ اؤوس، توپتے ہیں تیس بیٹھ زیادتی کرنے آئیے اللہ تعالیٰ کرہ تیس غُرور مَدَد تہ
 یاری۔ پتھر پاتھ اللہ تعالیٰ چھو یقیناً سیٹھاہ عفو کرہ و ن سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ
 فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یعنی بالیمان غلبہ دین تین یاری تہ مدد
 کرن چھو اُوے زہ اللہ تعالیٰ چھو کمال قُدرتہ وول۔ چنانچہ سُو چھو راتر ہندین اجزاء ن و اتناوان دوہس
 منز۔ دوہہ کین اجزاء ن و اتناوان راتر منز یعنی کمی تہ زیادتی کران۔ بیہ چھو امہ نصرنگ سبب کہ اللہ
 تعالیٰ چھو سارنی ہند احوال تہ اقوال بُوزہ و ن تہ وچھہ و ن ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ
 مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ بیہ چھو امہ نصرنگ سبب کہ اللہ تعالیٰ ای چھو
 بیشک خدایے برحق۔ پندرہستی منز کامل۔ سُو چھو واجب الوجود، بیہ تین معبودن تم لو کہ عبادت کران
 چھہ، تم چھہ لہز تہ باطل۔ بیہ چھو پتھر پات اللہ تعالیٰ ای سیٹھاہ ٹھو تہ سیٹھاہ بُوڈع الیشان۔ امہ علاوہ چھہ
 اللہ تعالیٰ سد کمالات بیہ چھہ تہزہ بے شمار نعمتہ سَمُو کمالا تو تہ نعمتو سبب سُو چھو توحیدس تہ شکرس
 سزاوار اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً زہ چھہ کھناو چھان اللہ

اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۳﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۴﴾
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي
 فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ
 إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَهُوَ الَّذِي
 أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿۱۶﴾

تعالیٰ سز قدرت کتھہ پاٹ چھو سو آسماں طرفہ رود تراوان۔ سمہ سیت زمین چھہ سپدان سر سبز ان
 اللہ لَطِيفٌ خَبِيرٌ پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو بدن پیٹھ سیٹھاہ مہربان کس چھہ بدن ہنزن کھن ہنز
 پور خبیر۔ تھندین ضرورت ہند کافی علم تین مطابق چھو سو تھند حاجت پور کران۔ کہ ما فی السموات
 وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ تھندوی چھو سو سوروی یہ آسان منر
 چھو، یہ سو سوروی یہ زمین منر چھو۔ یہ چھو نہ اللہ تعالیٰ کانسہ گن محتاج سو چھو تقریض نہ حمدن سزاوار
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ اے مخاطب ژہ چھہ ناخبر کہ پز پاٹ اللہ تعالیٰ ان چھہ لاگمت
 کامہ تم ساری چیز سم زمینس منر چھہ تھندہ خیترہ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ یہ چھہ ناوہ
 سمہ تھندی کھمہ دریوس منر پکان چھہ وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ یہ چھو
 سو آسماں تھپ کمر تھہ تھندہ تھندہ کھمہ وراے سوز مینس پیٹھ دستھہ یہہ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ
 رَحِيمٌ پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو لوکن پیٹھ سیٹھاہ شفقتہ دول تہ مہربان وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
 يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ یہہ گو سو سوئی قادر مطلق سم تھہ پیدہ کمر وہ۔ تو پتہ ماروہ سوئی تو پتہ
 کر وہ یہہ دوبارہ زندہ سوئی۔ سم دلین تہ نعران گن نظر کمر تھہ گو ژہ لوکن ہند سو کوئی زان۔ تھنرے
 گڑھہ شکر گذاری کرن۔ بیشک انسان چھو سیٹھاہ کھران نعمت کرہ و ن لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ
 نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَدِّلُهَا كَمَا فِي الْأَمْثَلِ وَالْأَمْثَلِ إِلَى رَبِّكَ ایزہ امو گدر سموہ چھہ پر تھہ امتہ خیترہ چھو اسہ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَايِعُكَ فِي
الْأَمْرِ وَاذْعُرْ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٤﴾
وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾ اللَّهُ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٦﴾ أَلَمْ
تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ
إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٦٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَالِيسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

ذبح کر تک اھ طریقہ مقرر کورمت۔ تھ طریقہ بیٹھ آس تم ذبح کر ان پس اوس لازم اعتراض کرہ
دین کہ تم کرہ بن نہ کاہہ اعتراض تہ اختلاف ذبحہ کس معاملہ اندر۔ تہہ روزو بدستور لوکن پنے
نس خدا پس کن نادووان اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ہنز پاٹھ تہہ ہجوہ یقیناً سیزہ و تہہ بیٹھ و اِنْ جَادَلُوكَ
فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بیہ ہر گاہ اتھ بیٹھ تہہ ہم لوکھ توہہ سیت ہر تہہ قضیہ لاکن تہہ
فرماؤ کہ پتیم تہہ۔ اللہ تعالیٰ ہجوہ زیادہ زانان تھہ ساری، یہ تہہ کران ہجوہ۔ سوی انزراوہ تہہ نیای۔
اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللہ تعالیٰ کرہ پانہ توہہ منز عملی فیصلہ قیامتگ
دوہ تھہ ساری منز تہہ منز تہہ اختلاف کران آسہہ اَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ای
مخاطب کیاہ تہہ ہجوہ نامعلوم کہ اللہ تعالیٰ ہجوہ زانان تہہ سو روی یہ آسان تہہ زمین منز ہجوہ باوجود آل
اِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ اِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ہنز پاٹھ یہ سو روی ہجوہ لیکھت تہہ محفوظ نامہ اعمال منز۔
لہذا سپد ثابت کہ ہنز پاٹ یہ فیصلہ کرن ہجوہ اللہ تعالیٰ اس نغہہ سیٹھاہ آسان وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَالِيسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ بیہ ہجوہ مشرک لوکھ عبادت کران خدا پس وراے تین
چیزن ہنز سمن عبادت کرنہ خیطرہ نہ کاہہ دلیلاہ اللہ تعالیٰ ان پنے نین کتابن منز نازل کمر مشرک تہہ، نہ

مَنْ تَصِيرُ^(۴۱) وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَابَيْنِ تَعْرِفُ فِي
 وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنْكَرُ بِكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ
 يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَابِ قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ
 النَّارُ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَوْبَسَ الْمَصِيرُ^(۴۲)
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ

پتھر تمّن کافرن نش تہج کا ہنہ عقلی دلیلاہ۔ بلکہ چھہ تم محض بے دلیل خدا بس شرک انان۔ قیامتک دوہ
 یلہ تمّن شرکس پیٹھ سزا دنہ ایہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ تمّن ظالمین ہندہ خیطرہ آسہ نہ کاہنہ
 مدد گارہ۔ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَابَيْنِ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنْكَرُ بیہ یلہ پر نہ یوان
 چھہ تمّن پیٹھ سان آیات، سم صاف تہ روشن چھہ۔ ڈچھان چھوہ تہہ کافرن ہندین تمّن بیچھہ آثار۔
 تھس چھکھ گینہ گڑھان، نس چھکھ تھوہ کھسان، تھیک رنگ چھکھ بدلان، تمو آثار وسیت چھہ
 معلوم سپدان۔ بِكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَابِ قریب چھو تم ماتروان چھہ تمّن پیٹھ
 سم سان آیات تمّن پیٹھ بدلان چھہ یعنی تمّن پیٹھ مارکن حملہ۔ تہوت چھو تمّن کافرن خون گرم گڑھان
 قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمُ النَّارُ تہہ فرمایو کہ یارسول اللہ یوما کروہ توبہ خبر تمہہ چیز چیس امہ
 قرآن مجیدہ خونہ ناگوار چھو ہندہ خیطرہ، سوگو نار جنم وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَوْبَسَ الْمَصِيرُ
 تمیک وعدہ چھو اللہ تعالیٰ ان کورمت کافرن۔ کاژاہ تھہ وایچ جائے چھہ سو جنم يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ
 مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اے لو کو اکھ عجیب مثالاہ چھہ بیان کرنہ آمر سو یوز تو تہہ وارہ گن دار تھہ راق
 الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ پزپاٹ بین معبودان باطلن
 تہہ پر ستش کران چھوہ، تمّن نشہ حاجت روائی ژھانڈان چھوہ خدا بس، معبود بر حقس وراے۔ تم
 ہنکن نہ پیدہ کر تھہ اکھ چھہ تہ۔ اڈے تمہہ خیطرہ ساری معبوداکہ وٹہ سمن تہ ایچ کیاہ چھہ کھس وراے

اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسُدُّهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ
 مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿۴۳﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ
 حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۴﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ
 الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۴۵﴾
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
 الْأُمُورُ ﴿۴۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

يَسُدُّهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ہر گاہ بچھ ہیئت تزلزل کا نہ چیز اہم نشیہ لایَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ سُو چیز نہیں نہ تیس نشیہ
 تم موکلاؤ تھ تہ واپس ہتھ۔ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ڈھانڈہ دن تہ کمزورے، پس نشیہ
 ڈھانڈان سوتہ کمزور۔ یعنی بچھ تہ کمزور تہمدہ خوتہ زیادہ کمزور پوٹل۔ تہمدہ خوتہ کمزور پس تیس پوٹلس
 پر سٹش کرہ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ سمولو کو کور نہ خدایہ سُنْد تعظیم ہتھ تیس شوبہ ہا۔ کیا زہ
 تموتھاو تیس عبادتس اندر بے چیز شریک حال کیمہ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو
 سیٹھاہ قوتہ وول، سارنی پیٹھ غالب، تمسند قوتہ وول تہ غالب آسنہ موکھ چھو عبادت تہمدہ حق۔ یہ
 اوسنہ حق کمزور چیزک پس نہ چھو پورہ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ
 اس چھو اختیار کہ رسالتہ خیطرہ پس سُو منتخب کرہ تہ ڈارہ ملا بھو آندرہ یا لکو آندرہ ملا بھو آندرہ چھہ
 ڈاران پن احکام حضرات انبیاءن نشیہ واتنہ خیطرہ کو کو آندرہ چھو ڈاران حضرات انبیاءن تھ تہمدہ
 ذریعہ پن احکام واتا وہ کو کن نشیہ إِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو سو روی بوزہ ون سو روی
 وچھہ ون يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سُو چھو لو کن ہند ساری حالات بروٹھم تہ تہ ہم تہ پور
 زانان وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سی پیٹھ سارنی کاین ہند و اړومدار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاقْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے با ایمانو اصول
 اسلام قبول کر تھہ کرو تہہ فروعات اسلامن ہنز تہ پانبدی، خصوصاً نماز۔ نمازہ منز آسور کو ع کران سجدہ

وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾
 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
 جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
 إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
 لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
 النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا
 بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۱۱﴾

دوان، بیہ آسوپنہ نس بدوردگارہ سنز عبادت کران، بیہ آسورژہ کامہ کران بیٹھ تہہ کامیاب سپدہ تمن
 کالین منزہ آسوستی کران وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ بیہ آسوخدا بیہ سنزن کالین اندر کوشش
 کران بیٹھ کوشش کران شوبہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ تہی کر وہ تہہ بیہ
 اُمتواندرہ ممتاز، تہہ کر نوہ برگزیدہ، بیہ سحر نہ تم تہہدہ خیطرہ دینس منز کا نہہ سختیہ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ
 تہہ روزوپنہ نس مالس ابراہیم علیہ السلامہ سدس ملتس بیٹھ قائم تہ مضبوط هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تہی
 خدائین ہتھوہ توہہ ناوتھوومت مسلمان مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا برو نظھین کتابن اندر تہ بیٹھ قرآن مجیدس اندر
 تہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تہہ آسن حضرت رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم قیامتگ دوہ تہہد گواہ، تہہ آسوگواہ بین لوکن ہد یعنی برو نظھین اُمتن بیٹھ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اتھ خصوصیتس کن نظر تھاوتھہ کرو نمازہ ہنز پابندی کیا زہ سوچھہ افضل
 عبادت بدنیہ، بیہ کمر واداز کواہ کیا زہ سوچھہ افضل عبادت مالیہ۔ بیہ کرو باقی احکامن بیٹھ عمل زورہ تھپ
 کر تھہ معبود برحقس۔ امہ عزتہ کہ شترانہ خیطرہ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ سؤی ہتھو تہہند آتہ، مددگار تہ کار ساز
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ نس کیاہ رُت کار سازتہ کیاہ رُت مددگار ہتھو سؤ تہہدہ خیطرہ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ
 خٰشِعُونَ ۝۲ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللّٰغُوْ مُعْرِضُونَ ۝۳ وَالَّذِیْنَ
 هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُونَ ۝۴ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُونَ ۝۵ اِلَّا
 عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غٰیْرُ مُلَوِّمِیْنَ ۝۶ فَمِنَ
 اٰتٰنِیْ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ۝۷ وَالَّذِیْنَ هُمْ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ پڑھا کا میاب سپد آخرتس اندر تم با ایمان یمن اعتقاد صحیح آتھہ تم
 صفت تہ آسن الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ تھے با ایمان تم پنہ نین نماز اندر، فرض
 تہ نفلن اندر دل حاضر تھوان چھہ، خشوع و خضوع سان نماز ہر ان چھہ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللّٰغُو
 مُعْرِضُونَ بیہ تم بے ہودہ کتھوتہ کامیونشہ بیس طرفس کن بٹھہ پذران تہ دور روزان چھہ وَالَّذِیْنَ
 هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُونَ بیہ تم اعمالن، اخلاقن تہ اموالن پاک کران چھہ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ
 حٰفِظُونَ بیہ تم سترہ چن جاین حرامہ نشہ راچھہ کران اِلَّا عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ
 مگرے پنہ نین حلال منکوحہ زنانن یا تم کینزن یہندہ تم چانہ مالک آسن تم نشہ حفاظت کرہ ون
 آسنہ فَاِنَّهُمْ غٰیْرُ مُلَوِّمِیْنَ ہس بیشک تم سیت ہمستری کرس چھونہ کانہہ الزام بشر طیکہ تمہہ زمانہ تہ
 کینزہ آسن حیضہ تہ نفاسہ نشہ خالی بیہ آسنہ فرض روزہ داری یا تجہ کس احرامس اندر مشغول بیہ لہ نہ
 مخصوص جاییہ و رای ہیا کہ جای استعمال کرنہ فَمِنَ اٰتٰنِیْ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ہس کس
 اکھا امہ وراے بیہ کانہہ جائے پن شہوت پورہ کرنہ خیطرہ تھانڈہ، ہس چھہ تم حدہ نشہ ڈلہ ون

لِأَمْنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹﴾
 أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿۱۰﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿۱۲﴾
 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
 فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْبًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ
 لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۱۴﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ بیہ تم پہنہ نین اما تن سے عہد ن ہند رعایت کرہ ون آسن
 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ بیہ تم پہنہ نین نماز ن راہجہ کرہ ون آسن یعنی وقیح پابندی کرہ
 وَنِ آسن۔ اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تم ن بایمان
 منز تم شہ صفت آسن تھے جہہ وارث سپہ ون، تم جنت الفردوسک وارث بن تھے روزن تہہ منز
 ہمیشہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ بیہ کور اسہ پیز پاٹ انسان میوہ ہندس خلاص
 یعنی غذاءس پیدہ (گوڈھ جھہ آسان میوہ توپتہ جھو تہہ غذاءس سوادہ بنان بیتھ انسان بنان جھو ثُمَّ
 جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ توپتہ بنو اسہ سوتہ لطفس بس اکس معین مد تس تان اکس محفوظ مقاس
 یعنی رحمس منز روزان جھو ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً توپتہ بنو اسہ تہہ لطفس موٹ خون فَخَلَقْنَا
 الْعَلَقَةَ مُضْغَةً توپتہ بنو اسہ تہہ موٹس خونس ماز جھولاہ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْبًا بس بناوہ اسہ تہہ ماز
 پھلس منز اوجہ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا توپتہ دول اسہ تم ن اوجن سوماز ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ توپتہ
 تہہ منز روح و اتہ ناوتہ بنو اسہ بیا کھے مخلوقاہ بس برو ٹھیو حالاً توشیہ بدلے اوس فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
 الْخَالِقِينَ بس کیتھ بوڈشان جھو اللہ تعالیٰ سندس سارنی کار گیرن کھست جھو ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
 لَكَيْتُونَ توپتہ جھو ہبہ امہ پتہ ضرور مردن ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ توپتہ ایو ہبہ لو کھ ضرور

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ ﴿۱۶﴾
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿۱۷﴾
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَدِيرُونَ ﴿۱۸﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَدَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ ۖ وَ
 أَعْنَابٍ ۖ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحٍ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۹﴾ وَشَجَرَةً
 تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ ۖ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلِيِّنَ ﴿۲۰﴾

قیامتگ دوہ قبر و منزہ تہلت زندہ کرنہ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ** بیشک بیہ کر پیدہ آسہ توہمہ پیٹھ
 کن ستھ آسمان، تمکن منزہ ملائکن ہندہ اورہ یور پختہ خیطرہ و تہ مجھہ **وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ** بیہ چھنہ
 آس پنہ نیو مخلوقو ہندیو مصلحتونشہ بے خبر **وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ** بیہ
 کورنازل آسہ تہندہ بقاء کہ مکمل کرنہ خیطرہ آسمانکہ طرفہ روداہ کہ اندازہ موجب، توپتہ ٹھہر دوسو
 زمینس منزہ **وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَدِيرُونَ** بیہ چھہ اسی تمہہ آہ کس واپس نش پیٹھ پور قدرتہ و ال
فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَدَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ ۖ وَ أَعْنَابٍ ۖ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحٍ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ توپتہ بناو
 آسہ تہندہ خیطرہ امہ رودہ سیت خضر گلین تہ ڈچھہ اندرواریاہ میوہ ہم ٹھہ تازہ تازہ کھیوان چھوہ تموی
 منزہ چھوہ آؤ میوہ ہو کہ ناوان۔ سو چھوہ ہنہ غذا بدلہ کھیوان **وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ**
بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلِيِّنَ بیہ کور آسہ امی آہ سیت بیا کہ گلاہ پیدہ نیس نیران چھو کوہ طورہ منزہ
 (یعنی درخت زیتون) سو چھو زینہ منزہ کھسان تیل ہیتھ۔ بیہ کھینہ و الین ہندہ خیطرہ سین ہیتھ۔ یعنی تمہہ
 پھلہ منزہ چھہ دوشوے مطلب نیران۔ ژانگس تہ چھو تمیک تیل دزان مالش کر نس تہ چھو سو گان، بیہ
 چھو سہ بدلہ ژوچہ سیت تہ کھینہ یوان۔ ژوٹ پوان تھہ منزہ کڑو تھہ کھینہ **وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً**
 بیہ چھہ تہندہ خیطرہ چارواہین اندر، یعنی ڈوٹن، گپن تہ تیرن اندر غور کر نک موقع **نُتِقِيكُمْ مِّنْهَا**
بُطُونَهَا آس چھہ دوان توہہ چنہ خیطرہ سو چیز نیس تہندہ پو شکموا آندرہ چھو نیران یعنی دودھ **وَلَكُمْ فِيهَا**

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لْتُسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا
 مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
 مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ
 اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأَسْبَعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ ﴿٢٤﴾ إِنَّهُ هُوَ

مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ بیہ چھہ ہندہ خیطہ تمہن چار پاءن اندر واریاہ فاندہ۔ تہمز مومن، بیہر تہ
 وال چھوہ تہہ استعمال کران، بیہ چھوہ ہندہ ماز کیوان۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ بیہ چھوہ اکھ
 تمہن چار پاءن پیٹھ بیہ ناؤن تہ جہازن پیٹھ سوار یوان کرنہ توبہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
 فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ پڑپاٹ، بیہ سوز اسہ نوح علیہ السلام پنہ
 نس قومس کن پیغمبر۔ نس فرمودہ تمہو پنہ نس قومس، ای میانہ قومہ عبادت کرو معبود برحقہ سنزی پاڑ۔
 نس ورا ی چھونہ معبود برحق آسئس لایق تہ سزاور کنہی۔ کیاہ تہہ چھوہ نانس ورا ی بیاکھ معبود بناو نس
 اندر کھو ثانی فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نوح علیہ السلام سنز
 یہ تہہ بوز تہہ دوپ ہندہ قومہ منزہ زٹھو کافر و عام لوکن کن کہ یہ شخص چھونہ مگر توبہی ہواکھ انسانہ،
 یہ پیغمبر یا بزرگ شخصہ چھونہ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ بیہ چھوہ یشہان توبہ پیٹھ فضیلت حاصل
 کران، ہندہ زٹھہ بن وَوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ہر گاہ اللہ تعالیٰ یشہ ہا پیغمبر سوزن تلہ سوزہ ہاسو
 کانسہ ملکس فَأَسْبَعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ اسہ چھنہ سمہ تہہ بوز مرے بروٹھن مالین بڈ بن
 نشہ إِنَّهُ هُوَ الْأَرَجُلُ بِهِ جَنَّةٌ بیہ چھونہ مگر خوشبت لد انسانہ اکھ۔ تمی چھوہ دنیا کیکن لوکن خلاف تہہ
 کران فَتَرَكُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ نس پیار و تہہ انس اکس و قس تان۔ وچھوہ اسند حال کیاہ آسہ۔ اکہ نتہ
 اکہ دوہہ مرہ یہ۔ قصہ گڑھ ختم قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بِنْتًا حَتَّىٰ يَكُونَ حَضْرَتِ نُوحٍ كور دُعَايِ مِيَانِہ پروردگارہ

الْأَرْجُلِ بِهِ جَنَّةٌ فَمَا تَرَىٰ صَوَابَهُ حَتَّىٰ جِئَ ۖ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي
 بِمَا كَذَّبُونَ ۖ ۲۴ ۖ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
 وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
 زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
 مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۖ ۲۵
 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ ۲۶ ۖ وَقُلْ رَبِّ انزِلْ لِي مَائِدًا

مہ کریاری، کیا زہ سموزوس بواپن یور۔ تمن نشہ ہہ زہ امیک بدلہ۔ اسہ کور تہند دعا قبول فأوحینا الیہ
 ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا کس سوزاسہ تمن کن وحی زہ تہہ بناوواکھ ناواہ اسہ برو تہہ کنہ ہہ
 سانیو ہدایتو موجب۔ وون ہہ اکھ طوفاناہ، تہہ تہ با ایمان رو زوتی ناوہ ہندہ ذریعہ محفوظ فأذا جاء امرنا
 وفار التَّنُّورُ کس یلہ سون حکم عذابک جاری سپدہ تنورہ منزہ ہہ آب نیرن فاسلک فیہا من کل
 زوجین اثین واهلک کس والیو کھ ناوہ منز پریتھہ قسمہ کیو جانور و منزہ تم انسانس کار آمد چہ
 آسان، اکھ اکھ زتہ اکھ اکھ مادہ یعنی زیز جانور، ہہ پن عیال الا من سبق علیہ القول منهم
 مگر نہ عیالہ منزہ تم تمن ہندہ حقہ غرق سپد تک حکم برو نشی چھو کرنہ آمت یعنی تم کافر آسن ولا
 مخاطبونی فی الذین ظلموا انہم معرضون ہہ کتھ بو زودوارہ کہ مہ انز نہ رو بے تمن شخص ہندہ حقہ
 کا نہہ تھہ سمو ظلم کور یعنی کھر و شر کس پیٹھ روڈ کیا زہ تمن چھو ضرور چھن فأذا استویت انت و من
 معک علی الفلک کس یلہ وارہ بہو تہہ ہہ تم تو ہہ سیت چھہ اتھ ناوہ منز فقل الحمد لله الذی نجینا
 من القوم الظالمین کس دیوہ تہہ ساتہ حمد یوسن کس معبود برحقس تم اسہ نجات دیت ظالم لو کن
 ہنز و کامیونشہ ہہ تہندہ عذابہ نشہ وَقُلْ رَبِّ انزِلْ لِي مَائِدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ہہ پر زہ سمہ ساتہ ہہ

وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝۲۹ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَبَتِلِينَ ۝۳۰
 ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝۳۱ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا
 مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝۳۲ وَقَالَ
 الْمَلَائِكَةُ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةَ وَأَتْرَفْنَاهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ
 وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝۳۳ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا

سیلاب تہ تیپ نمٹن تہ و سُن ہیہ، ای میانہ پروردگارہ مہ وال تہ برکتہ سان کُنہ با برکت جالیہ پیٹھ۔ تھی
 چھو کہ تموساروی آندرہ بہتر تم پنہ نین مہمان کُنہ جالیہ عزتہ سان ٹھہراوان چھہ۔ **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ**
وَإِنْ كُنَّا لَبَتِلِينَ پیز پاٹ یتھ واقس منز چھہ سانہ قُدر تک بڈ بڈ نشانہ عقلہ والین ہندہ خیطرہ۔ بیشک
 آس آس لوکن سمونشانوسیت آزمائش کرہون۔ **ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ** توپتہ کورپیدہ آسہ
 تمکن پتہ بیا کہ قومہ، تم گے قوم عادیاشمود **فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ** جس سوزاسہ تمکن منزتہ پیغمبرہ
 تموی منزہ یعنی ہود علیہ السلام یاصالح علیہ السلام **أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ** تم
 پیغمبرن فرمود تمکن یوہے پیغام کہ عبادت تہ بندگی کرو معبود برحقہ سنزی۔ تَس ورا ای چھونہ توہہ کہنی
 معبود۔ کیاہ تہہ چھوہ تا تَس شریک آنہ تَس کھو ژانی **وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةَ**
 آہس پیغمبرہ سنزیہ تھہ لوز تھہ دوپ تہندہ قومہ کیوز ٹھیو، سموا انکار کور خدا تَس، بیہ آس لہز زانان
 آخرتہ کس ملقاتس خدایس بروٹھ کن واتس **وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** بیہ تمکن آسہ اوس آرام و
 آسائس وژمژدنیاجہ زندگی اندرتے لگ پانہ وان دینہ **مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ** یہ پیغمبر یعنی حضرت ہود
 چھونہ مگر توہی ہو اکہ انسانہ **يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ** کھیوان چھوہ تھی قسمہ غذایہ تہہ
 کھیوان چھوہ بیہ چھوہ چوان تھی منزہ بیہ تہہ چوان چھوہ۔ **وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا**
لَتَخْبِرُونَ ہر گاہ توہہ پیروی کروہ پائس ہوس انسانس آسز تہہ چھوہ تہہ نقصان زد و آندرہ بے

لَخُسِرُونَ ﴿۳۳﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ
 تُخْرَجُونَ ﴿۳۴﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿۳۵﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا
 حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۶﴾ إِنَّ هُوَ
 إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾ قَالَ
 رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿۳۸﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿۳۹﴾
 فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدَ اللَّقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿۴۱﴾ ط

عقل سے بے وقوف آئید کہ انکے اذامتہم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون کیا ہے یہوی چھوہ توہم وعدہ
 دوران کہ یلہ ہنہ مرو توپتہ سپد و اذجہ توپتہ ایو ہنہ زندہ کرت قبر منزہ بیہ کڈنہ ہئیہات ہئیہات لیمآ
 توعدون تم وعدہ تم توہم سیت کرنہ یوان چھہ، تم چھہ عخلہ نشہ سیٹھاہ دور، سیٹھاہ دور ان ہی
 الا حیاتنا الدنیا یہ زندگی چھنہ مگر بیے دنیا ج سان زندگی نبوت و نحیا و ما نحن بمبعوثین
 مران چھہ اس بیہ زندہ چھہ روزان اس بیٹھ دنیا س اندر۔ آکہ پھر ہ مرتھ چھونہ اسہ بیہ زندہ
 سپد تھ تھو دوو تھن ان هو الرجل افتری علی اللہ کذباً و ما نحن له بمؤمنین یہ شخص چھونہ مگر اکھ
 شخصہہ تم ہمیز نوو روو واللہ تعالیٰ اس بیٹھ۔ مگر اس اس ایمان ان وال چھنہ عنہ صورتس اندر قال رب
 انصرنی بما کذبون ہو علیہ السلام مونگ دغا، ہروردگار امہ کزیاری تہ مدد۔ تمن نشہ بیہ میون بدلہ
 کیا زہ تموزوس بو ایزور قال عما قلیل لیسبحن ندمین اللہ تعالیٰ ان فرموس صبر کرو۔ جلدے
 سپدن تم لو کھ تھ انکار س تہ نافرمانی بیٹھ پشیمان چنانچہ فاخذتھم الصیحة بالحق فجعلنھم غثاء پس
 رٹ تم جبریل امینہ سنزہ سخت کریکہ یوسہ ہز س وعد س موافق تہ مطابق اس۔ پس بناو تم اسہ اکھ
 تھوٹھاہ یعنی خس و خاشاکک پاٹھ پامال فبعدا اللقوم الظالمین پس لعنت یوسن ظالمن، کافرن تہ

مَا سَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا
رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ
بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعَدَ الْقَوْمِ لِأَيُّ مُؤْمِنُونَ ﴿۲۴﴾ ثُمَّ
أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۲۵﴾
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۲۶﴾ فَقَالُوا
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ ﴿۲۷﴾ فَلَذَّبُوهُمَا

نا فرمان **ثُمَّ أَسْتَأْخِرْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فُرُوقًا لِّلْآخِرِينَ** تمہ پتہ یعنی قوم عا دو شمو دکہ ہلاک گزھنہ پتہ کرہ
اسہ واریاہ امثر تہ قوم پیدہ **مَا سَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ** بروئھہ بیجھ نہ گزھت کا نہہ تو ماہ
تہ کا نہہ امتاہ پنہ بس ہلاکتہ کس مقررہ وقس نہ بیجھ پتہ گزھت تمہ نشہ۔ پتھہ پاھہ چھو پر پتھہ کتہ امتہ
ہلاک گزھنہ خیطرہ وقماہ مقرر کر نہ آمت۔ الغرض تمہ امثر آیہ گوڈہ پیدہ کر نہ **ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا**
توپتہ سوز اسہ تم ن نشہ بن پیغمبر پوئس پتھہ ہدایت وارشادہ خیطرہ **كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ** مگر
تہنز حالت سہزیہ کہ یلہ یلہ کتہ قومس نشہ تہند حاصل پیغمبر واتان اوس خدایہ سند احکام ہتھہ تم آسئس
اپز انان تہ انکار کران۔ **فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ** بس گال اسہ تم اکھ اکس پتہ توپتہ
تھاوہ پتھن تہنزہ کتھہ یاژہ تہ قصہ یات **فَبَعَدَ الْقَوْمِ لِأَيُّ مُؤْمِنُونَ** لعنت یوسن تم ن لوکن ستم نہ کنس
خد اس پڑھ گرن تہ ایمان اُن **ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ * إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَئِهِ** توپتہ سوز اسہ موسیٰ علیہ السلام بیہ تہند برادر ہارون علیہ السلام بن آیات تہ سند ہتھہ
فرعونس تہ تہند بن ارکان سلطنتن کن **فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ** بس کور تمو تصدق واطاعت کر نہ
نشہ تکبر بیہ آسنہ تم مغرور تہ متکبری یات بلکہ آسبھہ بنی اسر ائیل مغلوب تہ غلام بناؤمت۔ **فَقَالُوا
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ** بس لگ تم پانہ وان دپنہ کیاہ اس گردہ پڑھ پائسی ہوین
دون انسان بیہ ستم ہند قوم سان غلام تہ خد متگار چھہ **فَلَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ** بس یلہ تموتہ

فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۹﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۱۰﴾ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً

سمن دون پیغمبرن انکار کور، تم تہ زانجھ اپز زیر، پس سپد تم تہ گمہ و نیوتہ ہلاک سپدہ و نیو آندرہ و لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تہندہ ہلاک گدھنہ پتہ و ژا سہ یہ کتاب یعنی تورات موسیٰ علیہ السلامس یجھہ تم لوکھ تم باقی رو دہدایت لئین وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ بیہ کر اسہ پنے نس کمال قدرتس بیہ پنے نس وحدائیس بیٹھہ دلالت کرنہ خیطرہ بیہ بنی اسرائیلن ہندہ ہدایتہ خیطرہ مریم علیہا السلامہ سند فرزند عیسیٰ علیہ السلام بیہ تہمز والدہ ماجدہ بذد کیل عیسیٰ علیہ السلام سمہ اعتبارہ کہ تم کر اسہ بے پدر پیدہ۔ مریم علیہا السلام سمہ اعتبارہ کہ سُوکتر اسہ خاوندس یابیہ کانسہ انسانس نزدیک سپد نہ ورا ی حاملہ تہ پچر دار۔ بیہ چٹھو یمن دوشن ہندہ خیطرہ بوڈ نشانہ۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلامس متعلق اوس سون ارادہ پیغمبر بنان۔ مگر اتھ شہر شامس اندر اوس اکھ ظالم پادشائیس ناواوس ہیر دوس۔ نس اوس نجومیو وو نمٹت کہ عیسیٰ علیہ السلامس سپد سرداری عطا۔ سُو پادشاہ اوس لو کچارہ بیٹھہ تہند دشمن سپد نمٹت۔ سُو اوس تمسن قتل کرنہ خیطرہ آمادہ سپد نمٹت تمہہ موکھ دیت اسہ تمسن تہ تہندس والدہ ماجدس پناہ اکس تھزہ جایہ بیٹھہ۔ یوسہ جای میوہ بکشرت آسنہ موکھ بسنس تہ قرار کر نس لایق آس۔ بیہ تمہہ منزہ دریاو جاری آسنہ موکھ، سر سبز و شاداب جایہ آس۔ یوتان تم (عیسیٰ علیہ السلام) امن و امانس اندر جوان سپد۔ تو پتہ آو تمسن نبوت عطا کرنہ۔ تمسن ظالم پادشاہ سہدہ مرنہ پتہ آییہ مریم علیہا السلام مصرہ بیٹھہ بیہ وانس شہر شامس گن۔ ماء معین چھہ ونان رود نیلہ ہندس آس۔ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اسہ بیٹھہ پاٹ برو نٹھی نعمہ استعمال کر نگ تو بہہ اجازت دیت بیہ عبادت کر نگ حکم کور، بیٹھہ پاٹ فرمود اسہ سارنی پیغمبرن،

وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۵۲﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۵۳﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ
 حِينٍ ﴿۵۴﴾ اِيْحَسِبُونَ أَنَّنَا نُنذِرُهُمْ بِهِ مِنْ قَالٍ وَبَيْنٍ ﴿۵۵﴾ نَسَارِعُ
 لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ

تہندہ ذریعہ تہنزن اُمتن ای پیغمبر و کھو ہتہ تہند اُمتی رت رت چیز۔ خدایہ سزہ نعمو۔ تمیک پھل تہ
 رت شرہ عطا وَاِنَّ هٰذٰۤى اُمَّتٌۭ وَاِحِدَةٌ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ۔ سمہ طریقک اسمہ بیان کوریہ ہجہ تہنز
 طریق تہتہ پیٹھ توہہ روزن چھو واجب تہ ضروری۔ سوچھ اکے طریق۔ حاصل تہ خلاصہ تمہہ طریقک
 چھو کہ یو چھوس تہند پروردگار، تہند مالک حقیقی، بیہ منعم حقیقی۔ لہذا کھو ژو مئے یوت، میانین حکمن
 ہنزمہ کمر و مخالفت تمک پیغمبرن ہنزن اُمتن شوہہ ہاتھ اکسی طریقس پیٹھ مضبوط روزن مگر تمہو کورنہ
 تہ فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ بلکہ کور تموپنہ نس دینس منز الگ الگ
 و تہ کڈت اختلاف پیدہ۔ چنانچہ تمک منزیمہ جما از تہ موجود چھہ، پر تہتہ جماعتس نشہہ نس نس دیناہ چھو
 سو چھو تہتہ پیٹھ خوش تہ راضی۔ باطل آسکھ باوجود چھو تہتہ زانان پوز۔ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ
 حِينٍ نس تراویو کہ تہہ یار رسول اللہ پنہ نس جہالتہ کس حاکس پیٹھ۔ کاہنہ غم مہ برؤ، تہند س اکس
 خاص و قس تان۔ یعنی تہندہ مرنہ کس و قس تان۔ یلہ سو وقت و اتہ تمہہ ساسہ سپدہ تمک ساری حقیقت
 معلوم۔ و سن نس یکن پیٹھ جلد عذاب نازل چھونہ سپدان، کیاہ امہ سیت چھا لوک یہ خیال کران کہ اس
 یوسہ تمک مال و اولاد تہ بیہ دولت عطا کران چھہ، اس ماچھہ تمک جلد جلد تہ و ل و ل فاندہ و اتاوان، اسہ
 ماچھہ تہنزمہ کامن۔ یہ تھہ چھنہ ہرگز تمک لوکن چھونہ امیک وجہی معلوم۔ امیک وجہ چھو استدر اج
 یعنی تہنز ناگو براون۔ یلہ ناگو بچھہ، یہ کم پھٹن تم۔ غرض امیک انجام چھو سیٹھاہ کزوٹھ اِيْحَسِبُونَ
 اَنَّنَا نُنذِرُهُمْ بِهِ مِنْ قَالٍ وَبَيْنٍ کیاہ تمک چھا گمان کہ اس نس تمک دیار تہ گبر دوان چھہ نَسَارِعُ لَهُمْ
 فِي الْخَيْرَاتِ بیہ چھہ اس تمک جلد جلد خیر و اتاوان نہ سوچھنہ حقیقت بَلْ لَا يَشْعُرُونَ بلکہ چھونہ

رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۸﴾
 وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا
 قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً إِنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۰﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ
 فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
 وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي
 غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ﴿۶۳﴾

تمن فجری تران امہ منز کیاہ ہجو سون مطلب کہ یہ تہ ہتھ سانہ طرفہ اکھ آزمائشاہ **إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ** پزپاک ہتھ منز چھونہ کانہہ شک کہ یم پنہ نس پروردگار س سہہ ہبتہ تہ خوفہ سبہ نمان چھہ **وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ** یم پنہ نس پروردگارہ سندین آیاتن پڑھہ چھہ کران **وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ** بیہ تم اتھہ ایمانس منز پنہ نس پروردگار س شریک چھنہ ٹھہراوان **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً** بیہ تم خدلیہ سزہ وتہ کینہہ دوان چھہ، یوت پلان ہجو کہ ثبوت مگر تھہ منز تہ چھک دل تہہ منز آسان۔ **إِنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ** بیشک ہجو تمن واتن پنہ نس پروردگار س نشہ۔ خبر چھاسو کریاہ سون مال خرچ کرن قبول کنہ نہ **أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ** تہہ کیاہ گے تم لو کہ تم نیکن منز جلدی کران چھہ **وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ** بیہ تم نیکن کن بروٹھہ واتہ دن چھہ **وَلَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** بیہ چھنہ اس کانہہ اکس تکلیف دوان تہ عبادتگ یور کھاران۔ مگر توی بن یژی بن تس بتر تہ طاقت آسہ **وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ** کیا زہ اسہ نشہ ہجو اکھ دفتر، کتاباہ، یعنی نامہ اعمال محفوظ نس پوز پوز سوری باوہ۔ بیہ بیہ نہ لو کن عنہر قسمہ ظلم کرنہ۔ خیرہ کس اکس اکس زرس پیٹھہ لیہ تمن ثواب عطا کرنہ۔ یہ اوس حال با ایمان ہند مگر کافران ہند حال ہجو نہ تھہ **بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ** بلکہ اتھہ برعکس چھہ تہند دل سمہہ دینہ نشہ۔ جہالتس تہ شکس منز ہیمت۔ بیہ چھہ تمن امہ۔ جہالتہ ورا تہ بیہ بیچھہ عملہ سمہہ عملہ تم بدستور چھہ

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْرُوا
 الْيَوْمَ مَنَازِكَكُمْ مِمَّا لَا تَنْصُرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُنذِرُكُمْ فَكُنْتُمْ
 عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ قَبْلَهُ سِرَاطَ تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾
 أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾
 أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ
 بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَكَثُرَهُمُ اللَّحِقُ ﴿٧٠﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ

کران۔ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْرُونَ تا اینکه یله تمو آندره خوشحال لوکه عذابس
 گرفتار کروکه آس تمن نشه نوکر چا کر چهه غریب غر بقاءه عام لوکن هنز چههه کنه۔ غرض یله یمن
 سارنی پیته عذاب نازل سپه تان هین تم کریکه نادرزن۔ آس دپوکه لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ مَنَازِكَكُمْ مِمَّا لَا
 تَنْصُرُونَ مه تلواز کریکه نادر۔ تمو کریکوسیت بنونه کینهه۔ توهمه پیه نه هرگز سانه طرفه مدد کر نه۔ کیازه
 هبه گوه نائے قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُنذِرُكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ * مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِرَاطَ تَهْجُرُونَ پز
 پاٹ دنیاس منز آس میان آیات توهمه پیته پر نه یوان حضرت انبیاء ان هنده ذریعه۔ هبه آسوه پوت
 پوتوی ثلالن۔ بکمال حکمر آسوه رات کیت اتھ قرآن مجیدس خلاف بکواس کر تھه یه بوزنه نشه دور
 روزان۔ کانه اوس ونان تھه شعر کانه اوس ونان تھه سحر۔ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ
 آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ کیاه تمو کور نایه تھه قرآن مجیدس منز غور نه فخر۔ تے فجر گره هین پائے سجھه بکھه بوزن
 امیگ مجزه و پچھت انه هین ایمان کنه یعنی نشه ووت نوواکه چیزه اوس نه تهمدین مالین بد بین نشه دو تهمت
 اوس۔ امی چههه اتھ انکار کران أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ کنه تم زانی نه پیغمبرس پنه نس
 تمن پچھنه خبری تهمده امانت و دیانت، راست گوئی هنز تمی چهه نس انکار کران أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ کنه
 تم چههه ونان اوس پیغمبرس چھو جنون۔ تمو کھو آندره چههه کنه کنه تھه۔ تم ساری آس متفقه طور تهمده
 صدق و امانتک نه دیانتک قائل به اوس تمن اتفاق که تمن برابر چھونه صاحب عقل کانه نه بَلْ جَاءَهُمُ

لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ
 عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ بِرَبِّكَ خَيْرٌ
 وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾
 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٤٤﴾
 وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُوفَىٰ طُغْيَانِهِمْ
 يَعْمَهُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ

بِالْحَقِّ وَكَذَّبُوا بِالنَّحْيِ كَرُهًا

بلکہ چھو اصلی وجہ کہ یہ پیغمبر آؤ تم نیش پڑتھہ بیتھ، مگر تمہو اندرہ وجہہ
 اکثر لوکن پڑچ نفرت۔ تمی چھنہ قبول تہ تسلیم کران **وَلَوْ اتَّبَعُوا الْحَقَّ لَآتَيْنَهُم لَعْنَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**
وَمَنْ فِيهِنَّ بیہ ہر گاہ پوز تابع روزہ تہنزن خواہش تلمہ گوہن آسمان وزمین تباہ و بر باد بیہ تم ساری تم
 تمن منر روزان چھ۔ کیا زہ ہر گاہ تہ لبندہ بیہ ہلمہ پوز کیا روزہ ہا تابع تہنزن خواہش تیلہ سپدہ ہا سو روی عالم
 پڑ کفو و شر کہ سیت عاملس منز پھیلہ ہا گراہی۔ تمیک نتیجہ نیرہ ہا اللہ تعالیٰ سُنَد غضب ایہ ہا بجوش، آسمان
 وزمین بیہ تم تمن منر روزان چھہ گوہہ ہن ہلاک تہ بر باد **بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ** بلکہ آئی آس تمن نیش
 نصیحت تہ نفع تھہ بیتھ **فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ** مگر تم چھہ پندہ فاندچہ کتھ نشہ تہ بیتھ پھر ان تہ روگردانی
 کران **أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ بِرَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** حکمذیہ کین برو تھمین وجہن علاوہ چھو بیہ
 بیاکھ وجہہ کہ تمن چھو بیہ تہ اندیشہ کہہ نہہ ما چھوہ تمن نیش دین حق و اتناوندہ خیطرہ کینہ معاوضہ
 ژھانڈان۔ توہہ کیاہ آس حج ضرورت توہہ ئس معاوضہ خدایہ سندہ طرفہ حاصل سپدہ و ن چھو۔ سوی
 چھو سیٹھاہ بہتر روزی دنہ و ول **وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** پڑ پاٹ تہہ چھوہ تمن راہ
 راستس، سیزہ و تہ کن نادووان **وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ** پڑ پاٹ تمن نہ
 آخر چ پڑھہ چھہ تم چھہ سیزہ و تہ نشہ بیتھ ژلان **وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُوفَىٰ طُغْيَانِهِمْ**
يَعْمَهُونَ بیہ ہر گاہ آس تمن بیٹھ رہم کر تھہ، تمن ئس تکلیف چھو سو دور تہ گرو، توہہ روزان تم

وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۶۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا فِتْنَاهُمْ بِآبَاءِ أَعْدَابٍ شَدِيدٍ
 إِذْ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۶۷﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
 وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۶۸﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۶۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ
 وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۰﴾ بَلْ قَالُوا
 مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۷۱﴾ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

بدستور پنہ سرکشی تہ مگر ای اندر اورہ یور کران و لَقَدْ أَخَذْنَا لَعْنَابٍ فَمَا اسْتَكْبَرُوا رَبَّهُمْ وَمَا
 يَتَضَرَّعُونَ بزپاٹ اُس اگر تم گرفتار کرو کہ عذابس پس کرنہ تمویپنہ بس خدا بس کن عاجزی، نہ کوز کہ
 زارہ پارہ بس حَتَّىٰ إِذَا فِتْنَاهُمْ بِآبَاءِ أَعْدَابٍ شَدِيدٍ إِذْ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ تا اینکه بیلہ اسہ تم کن
 مژدروو سخت عذابک دروازہ اتی سپد تم تہ اندر حیران وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ سو معبود برحق گو سوی تم توہمہ کن آپہہ تہ دل پیدہ کتر۔ تہہ تہہ آرام تہ کر وہیہ
 دینس کن تہ خیال تھا و مگر سیٹھاہ کم ہجوہ تہہ تمن نعمون پیٹھ شکر گذاری کرہ ون۔ کیا زہ اصل شکر
 گذاری گئے یہ تس مُعَمَّ حقیقی سُنَد پسندیدہ دین اختیار کرن۔ بیہ پڑھ گرن کہ تس ہجھ قدرت مرنہ پتہ بیہ
 زندہ کر بس بیٹھ۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ گو سو پروردگار سو ی تم تہہ
 زمینس منز چھکروہ۔ بیہ ابو تہہ ساری قیامتک دوہ تس نشہ سو نبر نہ تہ جمع کرنہ تمی دوہہ کیا و ہجوہ تہہ امہ
 گھران نعمت کرنک عرہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بیہ
 گو سو پڑوردگار سو ی بس سارنی زندہ کران ہجوہ بیہ بس ماران ہجوہ۔ بیہ ہجوہ بس، یعنی تہندسی اختیارس
 منزراتک تہ دُہک مین گڑھن، ژھوئ م تہ زیتھن۔ کیاہ توہہ ہجھنا ایژہن تہ فکرہ تران۔ سمہ دلیلہ ہجھ
 تو حیدس تہ قیامس پیٹھ دلالت کران مگر توتہ ہجھ تہ مانان بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ بلکہ
 ہجھ ونان تہ تہ سمہ تہہ برو تہہ کافر و ونہ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لَنَا لَتُبْعُونَ

وَعِظَامًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا
 مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾ قُلْ لَيْسَ الْأَرْضُ
 وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ
 بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ

تمو دوپ کیاہ اس لیے مر و تو پتہ سپد و اس میوہ تہ اڈجہ کیاہ تمہ پتہ سموہ اس بیہ زندہ کر تھ قبر و منزہ تلنہ
 لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نیز پاٹ وعدہ او کرنہ اسمہ
 سیت امیک بیہ سائین ما لین بڈ بین سیت سمہ برو نٹھ تہ بیہ چھونہ کینہ تہ مگر برو ٹھین لوکن ہنزہ اپزہ تہ
 بے گند تھ تہ قصہ تم نقل چھہ یوان کرنہ قُلْ فرما دیو کہ تہہ یار سول اللہ لَیْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہر گاہ ٹہہ کینہ زانان چھوہ تلہ ویتو زمین بیہ سم مخلوق اتھ منز چھہ تم کہند چھہ۔
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ تم وزن ضروری ہے جواب کہ بیہ سو زوی چھو خدایہ سُنْدُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ تہہ
 فرما دیو کہ ادہ کونہ چھوہ غور تہ تامل کران، کس قدر تہ و اس بیہ توگ پیدہ کرن تَسْ نَشِہ کیاہ عجائب چھو
 تہہ سرت بیہ پیدہ کرن قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تہہ پر ٹھہوک
 ستن آسمان تہ عرش عظیمک مالک ٹہہ چھو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ جواب دن تم کہ سمہ سارہ کوئی مالک
 چھو اللہ تعالیٰ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تہہ فرما دیو کہ ادہ کونہ چھوہ تَسْ کھو ژان ادہ تھہ پاٹ چھوہ تہہ
 تھندس قدر تَس، تھندین آیتان، آخر تَس برو نٹھ گن واتس انکار کران قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
 كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تہہ پر ٹھہوک گس اٹھہ چھو پر تھہ چیزک
 اختیار رسو ٹیس برھہکان چھو تَس چھو پناہ دووان۔ تَس مُقَابِلہ بیسمہ نہ تَس نَشِہ کاہنہ اکھاہ کا نہہ اکس پناہ و ت
 ہر گاہ توہہ کینہہ معلوم چھو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ جواب دین تم کہ تم ساری صفت چھہ خدایسی یوت

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ بِاللَّهِ قُلٌّ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾
 بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۹۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ
 وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذِ انْزَلَ مِنْ كُلِّ الْإِلَهِ بِمَا خَلَقَ
 وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۹۱﴾ عَلَيْهِمُ
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِتْنَةٌ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿۹۲﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا
 تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿۹۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ

قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ہتھ فرمادیو کہ اُدہ کتہ چھو توہمہ پیٹھہ جود آمت کر نہ۔ ہتھ چھوہ مجبوٹ الحواس
 سپد مت۔ توہمہ چھو نہ فخرہ تران کینہہ۔ سمہ سارے کتھ چھوہ مانان مگر اصل کتھ چھوہ نہ مانان۔ سو گو
 تو حیدتہ مر نہ پتہ بیہ زندہ سپدان بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بلکہ واتا واسہ تہن نشہ پرتھہ۔
 مگر اپزیر چھہ تم پانہ کن چھو کھنہ پوزیران تہ برداشت سپدان مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ
 إِلَهٍ إِذِ انْزَلَ مِنْ كُلِّ الْإِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اللہ تعالیٰ ان چھو نہ کاہنہ شخص پتو بنوومت۔
 بیہ چھو نہ تس سیت بیا کہ معبوداہ۔ ہر گاہ تہ آسہاتیلہ نیہ ہا پرتھہ معبوداہ تھہ بیہ تم پیدہ کرمت آسہا۔ بیہ
 آسہن تم اکھ اکس پیٹھہ حملہ کر تھہ اکھ آکسند مخلوقات زبردستی سیت نوان۔ مخلوقات آسہن تباہ و برباد
 سپد مت۔ چوہمہ نظام عالم چھو بدستور قائم امہ اندرہ سپد ثابت کہ سو چھو منزہ تہ پاک شریک آسہ نشہ
 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ بلکہ چھو سو منزہ تہ پاک تموساروی تھو نشہ سمہ تس کن لوک لاگان چھہ علیہم
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِتْنَةٌ عَمَّا يَشْرِكُونَ سو چھو زانہ ون سوزوی پو شیدہ تہ نون۔ تس نشہ چھو نہ
 پو شیدے کینہہ تس چھو سو سیٹھاہ بلند تہ تھود تمہ شہر کہ نشہ تس کن لوک لاگان چھہ۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا
 تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ہتھہ مچو خدا تس ای میانہ ہر وردگارہ ژہ مہ ہا و کہ سو عذاب سمیک سمین وعدہ
 تھاونہ پوان چھو یعنی میانی زندگی منز کر کہہ تم پیٹھہ عذاب نازل رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ اکی میانہ ہر وردگارہ چھنہ مہ تھو کہ تمہ وقتہ ظالمین سیت شامل وَاِنَّا عَلَىٰ اَنْ نُثْرِيكَ مَا

الظَّالِمِينَ ﴿۹۲﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿۹۵﴾
 إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۹۶﴾
 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿۹۷﴾ وَأَعُوذُ بِكَ
 رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿۹۸﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
 ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ

نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ یہ چھ اس بیشک توہم سو عذاب ہاؤس بیٹھ قدرتہ وال سمہ عذابک اس تمن وعده
 تھاوان چھہ۔ یوتان نہ تمن بیٹھ سو عذاب نازل سپدہ توتان تھاووتہہ تمن سیت اتھا پٹھ معاملہ کہ
 إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ تہزہ ہدی ہند مدافعہ آسو تہہ کران۔ تہہ ورتا وہ سیت نئس سیٹھاہ رت
 تہ نرم آسہ پنہ ذلتہ خیطرہ مہ آسو تمن بدلہ ہیوان بلکہ آسو معاملہ آسہ سپر دکران۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا
 يَصِفُونَ اسہ پٹھو پور معلوم تم کیاہ چھہ ونان توہہ نسبت۔ اگر ممقتضائے بشریت توہہ کتھ بوزنہ
 سیت تھک آسہ کسان تہند گڑھہ تمہہ ساتھ ہر دن یہ دعا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ *
 وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ای میانہ پروردگارہ یو پٹھوس پناہ منگان شیطان ہند یوسو سو نشہ یہ
 چھوہ سے پناہ منگان میانہ پروردگار تہندہ میہ پٹھہ نہ نشہ تمہہ واتاوان تہن کامہ کن یوسہ مصلحتس خلاف
 آسہ۔ یہ روزن نہ پنہ کفر و انکارہ نشہ پٹھہ۔ یہ دعا پر نہ سیت آسہ توہہ سو تھک دور سپدان حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ
 أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ پٹھ روڈ کافر تمن بہ نہ کینہہ یوتان نہ تمن اندرہ کانہہ مرنگ وقت
 ولتہ، آخر تک معاینہ یہ شروع سپدان تمہہ ساتھ نئس اچھہ موراو نہ جھلس تہ کفرس بیٹھ سپدہ ناوم تہ
 پشیمان۔ مرت و نہ سو کافر، پروردگار امہ سوز تہ یہ دُنیاس گن وانئس لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ
 پٹھ بورثہ عملہ گرہ دُنیاس اندر نئس مہ پٹھ گن ترود۔ ملاکن ہندہ ذریعہ پئس اتھہ در خواستس رد کر نہ۔
 دپنہ پئس کلا تہ پنہ نہ ہرگز۔ یعنی دُنیاس گن وانئس گڑھن پٹھو نامنکِن اِنَّمَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالَهَا بیشک یہ
 پٹھ سو کتھ یوسہ آس و نئی چھہ۔ اتھ و نہ نس پٹھو نہ امیہ نش اعتباری کینہہ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِم مَّرْءٌ اَلِی

قَابِلَهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۰﴾ فَإِذَا نْفَخَ
 فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۱۱﴾
 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۲﴾ وَمَنْ خَفَّتْ
 مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ
 خَالِدُونَ ﴿۱۳﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿۱۴﴾
 أَلَمْ تَكُنْ أَلْتَمِئْتُنِي تَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿۱۵﴾ قَالُوا

يَوْمِ يُبْعَثُونَ تم ن پتہ چھو اگہ پرداہ تہ ٹھوراه اگہ تھہ دوہس تان سہمہ دوہسہ بیہ تم دوبارہ زندہ کرنے ہن۔ ونہ
 کیاہ وچھ تمہو۔ مرنہ سیت بانبرے تم پوت۔ بٹھہ چھو تم ن عالم برزخ یوان۔ توت واتھہ روزن تم پردس
 منز دنیا کین لوکن نشیہ۔ آخرت تہ واتہ نہ تم ن برونھ کن البتہ آخرت کجہ عذاب ک کم پہن نموناہ ولتہ تم ن
 برونھ کن سیک مزہ ٹلان روزن قیاس تان **فَإِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا**
يَتَسَاءَلُونَ پتہ یلہ قیامت سپدہ پھو کھ پیہ دنہ پوغس منز تمہ ساتہ سپدن تم تھس خو فس تہ پیتس گر فاکرہ
 سو زوی مشکھ تم ن منز تم اگہ اکس رشتہ دار آسن، تم رشتہ روزن نہ ٹکنہ تہ یعنی کانہہ کرہ نہ کانہہ ہنز
 ہمدردی۔ زن تم و پرو پر آسن۔ نہ آسہ کانہہ کانہہ پر ٹھان۔ غرض تمہہ دوہسہ نہ ایہ رشتہ داری بکار نہ
 دوستی بس تمہہ دوہسہ ایہ بکار فقط ایمان سہمہ خیطرہ قائم پیہ کرنے اگہ تر کرہا، تھہ منز ایمان و عمل پیہ تولنہ
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سمسدہ ایمانک تہ نیکن ہند تر کرہ پو تر گوب لکھ تے چھہ
 کامیاب تہ رستگار **وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ** تم ن
 ہندہ ایمان و عملہ ہند تر کرہ پو تر لوت آسہ جس تے گئے تم سموپان پانس نقصان تہ تاوان واتوہ۔ تم
 آسن جہنم منز ہمیشہ **تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ** زالہ نار جہنم تھندین تھن ہیر یوم وٹھ
 وایکھ کلس تان۔ بونیوم وٹھ وایکھ ٹونس تان تے آسن تھہ نار جہنم منز سخت بد شکل۔ تم ن پیہ
 ونہ **أَلَمْ تَكُنْ أَلْتَمِئْتُنِي تَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ** کیاہ توہہ پیہہ آس نامیان آیات پر نہ یوان۔

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۰۶﴾ رَبَّنَا
 أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿۱۰۷﴾ قَالَ اخْسُوفِيهَا
 وَلَا تَكَلِّمُونَ ﴿۱۰۸﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ
 رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۰۹﴾
 فَاتَّخَذَ نَسُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ
 تَضْحَكُونَ ﴿۱۱۰﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ


توپتہ آسوہ تہہ تمن اہوزانتھ انکار کران۔ یہ چھو تمکوی نزا قالوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ تم دہن ای سانہ پروردگارہ آس چھہ اقرار کران پنہ بس بجز مس۔ آس آس ولت شقاوتن۔ بیہ آس آس واقعی وتہ نشہ ڈلت۔ آس چھہ درخواست کران۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ای سانہ پروردگار آسہ کڈتہ امہ جہنمہ اندرہ توپتہ سوزتہ بیہ دوبارہ دُنیاس گن۔ تو پتے آس دوبارہ نافرمانی کر وتیلہ چھہ آس واقعی ظالم۔ تمہ وقتہ گزھہ آسہ پور سزا دیں قَالَ اخْسُوفِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونَ اللہ تعالیٰ فرماویکھ۔ دفع کجھواتھ جہنمس منز دزومہ سیت مہ کروکتھ۔ آس گزونہ جہنمہ درخواست منظور۔ توبہ چھہ یاد اید۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ تہہ گوہ ناٹے کہ میانیو بند و اندرہ آس اکھ جماعتھہ تم بچار عرض کران آس اے سانہ پروردگارہ آسہ اُون ایمان کس کر آسہ مغفرت بیہ کر آسہ پیٹھ رحم۔ ثی چھو کھ ساروی اندرہ سیٹھہ رحم کرہ و ن فَاتَّخَذَ نَسُوهُمْ سَخِرِيًّا بس کور وہ توبہ اتھ کتھہ یوسہ قابل قدر آس ٹھہ۔ تم زانو کھ توبہ ٹھٹھس لایق تمنی پیٹھ لگوہ تہہ ٹسہ گرنہ تھہ سیت رُودوہ تہہ مشغول حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي یوتان تموکتھو توبہ میون یادتہ مشرودوہوہ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ بیہ آسوہ تہہ تم وچھت اسان تمو کور تھہ جہنم کھٹھس پیٹھ صبر۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفٰكِرُونَ بجز پات مہ کر عطا تمن از تمہ صبر بچ مرزور۔ بیشک تے سپد کامیاب قُلْ كَلِمَاتٌ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللہ تعالیٰ

الْفَآئِزُونَ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿۱۱۲﴾
 قَالُوا الْبَيْتَانِ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِيْنَ ﴿۱۱۳﴾
 قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۴﴾
 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۱۵﴾
 فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْكَرِيمِ ﴿۱۱۶﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

پر تھہ یا پر تھناوہ تمہن کافرہن تہہ کیتس کالس رُوودوہ زمینس اندر دُر ہو موجب قَالُوا الْبَيْتَانِ يَوْمًا
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ تم دین آس رُوودوہس یا اڈس دوہس اسہ چھو نہ پورہ یاد۔ فَسَلِ الْعَادِيْنَ اسہ
 چھہ کینہہ خبر تہہ پر تھو عمر نہ ہند حساب تھوہوین ملائکن قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرماویک تہہ رُوودوہ مگر تم سی کالس۔ ہر گاہ تہہ تی زانہو دُنیا س اندر کہ دُنیا س منزبا
 چھو کس کالس روزن اسہ۔ تھہ بدل آسہ تہہ زانان یحوی چھو سو روری بیہ نہ کینہہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا
 خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیاہ توہہ اوسہ گمانہ کہہ اس کیاہ کرووہ تہہ پیدہ بے معنی ہند ناہ۔
 بیہ کیاہ ایونہ تہہ اسہ گن وائس انہ۔ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ جس سیٹھاہ بالائہ بر تھو اللہ تعالیٰ۔
 سُوی چھو بادشاہ پزیاٹ۔ تم کورنہ بے معنی تہ بے ہودہ کاہنہ چیز پیدہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْكَرِيمِ کاہنہ محبوباہ چھو نہ جس ورا ی سو چھو مالک عرش عظیمک وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
 آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ بیہ جس اکھاہ ہمہ دلیلہ آتھہ خدا جس سیت بیہ
 کاہنہ محبوبہ سز عبادت گرہ تھہ پیٹہ نہ کاہنہ دلیلہ چھہ تمسند حساب چھو نہ مگر تھندس پروردگار س نشہ
 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ بیشک کامیاب ہدن نہ کافر بلکہ روزن تم ابد الابد عند جس اندر گرفتار وَقُلْ

لَهُ بِهِ ۙ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِعُ الْكُفْرُونَ ﴿۱۱۷﴾
 وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۱۸﴾

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ای پیغمبر تہہ آسودہ کارن تہ منگان ای میلہ پروردگارہ مغفرت
 گرمہ۔ بیہ گرمہ پیٹھ رحم، معاش اندر تہ، توفیق طاعتس اندر تہ، نجات آخرتس اندر تہ۔ عطاے جنتس اندر تہ۔
 تھی چٹھوک ساروی رحم کرہ نیواندرہ زیادہ رحم کرہ ون



سُورَةُ النُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ① الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدُ عَدَاِبَهُمَا طَافِئَةٌ
 مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ② الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَسُورَةُ

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
 اسی نازل کر۔ یہ کراسی نازل تمہک معانی یعنی احکام یہ کراسی تھے اندر واضح تہ صاف صاف آیات نازل
 بیٹھتے تھے تم آیات زانو تہ مانو الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
 زنا کرہون مرد، پریتھہ اکس تموا اندرہ لایو اکھ ہمت ڈرہ ہر گاہ تم نیتھرہ واری آسن
 رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ توہرہ گروہ نہ تم دوان پیٹھ خدایہ سندس معاملس اندر اکھ ڈرہ تہ رحم ہن۔ سمہ سمیت تم
 تراو ہو کہ یا سزاء اس منز کی کتر ہو کہ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ پھوے جتھ پڑھ کر ان اللہ
 تعالیٰ اس تہ پتھس دوہس یعنی قیاس۔ کیا زہ دوشون پیٹھ ایمان تہ پڑھ آسن چھ منگان۔ اللہ
 تعالیٰ سندس کھمس گروہ تعمیل سپدن وَلَيْشِهْدُ عَدَاِبَهُمَا طَافِئَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ سپدن حاضر
 جہدس اتھ سزاء اس جماعتھا اکھ بالیمان ہنز۔ یہ سز اوٹھو تہن دون مجر من تم آزاد، عاقل تہ بالغ یہ
 انہاری آسن تم غلام آسن تہن پنواہ ڈرہ۔ تم نہ عاقل یا بالغ آسن تم چھنہ مٹقی۔ تم نکاحہ وال
 آسن۔ جہنڈ سز اوٹھو رجم، سنگساری۔ یعنی تیرہ کنبہ لایینہ۔ موسیت تم مزن۔ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً

الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحَهَا الْأَزَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ^۳ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
 بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
 شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ^۴ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^۵ وَالَّذِينَ
 يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
 فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ^۶

اَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحَهَا الْأَزَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ زانی زناہ کرہ و ن
 چھو نہ نکاح کران مگر زناکار زنا نہ سیت یا مشرک زنا نہ سیت۔۔۔ سمہ زناکار زنا نہ چھہ نیتھر کران مگر زناکار
 مردس سیت یا مشرک مردس سیت۔ یہ چھو حرام آمت کرنہ با ایمان پیٹہ۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
 الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا بِیہ سم
 لو کہ بدکاری ہنز ہانزہ لاگن پاک دامن زنان توپتہ کرن نہ تم پیش ژور گواہ پنہ بس دعوی اس پیٹہ بس للیو
 ہتھن لوکن شیتھ ڈرہ تھہ چھہ وان حدقذ فیہ مہ کروئئہ معالس اندر تہنز شہادت آیندہ زہنہ تہ قبول بیہ تہ
 چھو تہندہ حقہ اکہ حداہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تکیہ گئے فاسق۔ تمن آسہ آخر تس منزتہ سز فاسق
 تہ نافرمان آسنہ مو کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مگر تم
 لو کہ توبہ کرن امہ تہمت لاگنہ پتہ خدائس بردنھ کنہ بیہ سنبھالن ہن حالت، تھہ صورتس اندر چھو اللہ
 تعالی بیشک سیٹھہ مغفرت کرہ و ن وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
 بیہ سم لو کہ ہانزہ لاگن پنہ نین منکوہہ زنان بدکاری ہنز توپتہ آسکھ تھہ پیٹہ ژور گواہ کینہہ تہ فَشَهَادَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ بس چھہ تمواندرہ پریتھہ اک بسز گولای پیہ کہ سوڈہ ژورہ

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝
 وَيَدْرُوْنَ أَعْنَهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ
 لِيَنْ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ

پھر خدا کی سُنْدِ قَسَمِ ہاوت کہ بیشک سو چھو پنے نس دعوائے اس اندر پڑ زیور وَالْخَامِسَةَ اَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ
 عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ یہ وہ بیخیز مہ لے کہ بیشک چھہ نس پیٹھ خدایہ سز لعت ہر گاہ سو اہڑ
 ونہ ونیو اندرہ چھو وَيَدْرُوْنَ أَعْنَهَا الْعَذَابَ اَنَّ تَشْهَدَ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لِيَنْ الْكٰذِبِيْنَ یہ سپدہ نس
 زنانہ نشہ نس ہانژہ آس آس لاگنہ عذاب یعنی سزاء جس، یا حد زناء دُوریلہ سو ژورہ پھرہ قسم ہاوت
 گواہی دیہ کہ یہ مرد چھو یقیناً اہڑ ونان وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ یہ ونہ
 سو زنانہ بیخیز مہ لے کہ بیشک چھو غضب خدا نس پیٹھ ہر گاہ یہ مرد پوز ونان چھو۔ امہ طریقہ ونہ ناوس
 چھہ ونان لعان یہ لعان چھو سپد ان تہہ صور نس اندر کہ خاوند لاگہ تہمت پنے زنانہ زناء ہج۔ جس متعلق
 ونیس یہ چھو ی نہ میون۔ پنے منکوہہ زنانہ تہمت زناء لاگنہ سیت یں خاوندس نشہ ژور گواہ منگہ۔ ہر گاہ
 تم ژور گواہ پیش کر تیلہ بیہ زنانہ پیٹھ حد زنا جاری کرنہ۔ اگر ژور گواہ بیخہ تم پیش کر تہ تیلہ بیہ ونہ
 نس ژہ کر تم الفاظ بیان۔ ہر گاہ تم تم الفاظ بیان کرنہ تیلہ بیہ سو قید کرنہ نس بیہ ونہ کہ یا کر ژہ پنے نس
 اپز یور آس اقرار نہ ون تم الفاظ۔ ہر گاہ تم پنے نس اپز یور آس اقرار کور تیلہ بیہ نس حد قذف
 ونہ۔ ہر گاہ تم ہم الفاظ ون تیلہ یں زنانہ نشہ تہ دویمہ قسمک الفاظ ونہ ناونہ۔ ہر گاہ سو تم الفاظ ونہ نشہ
 انکار کرہ تیلہ بیہ سو قید کرنہ نس پیٹھ بیہ جبر کرنہ کہ یا کر ژہ مردس تصدیق یا ون تم الفاظ ہر گاہ تمہ
 مردس تصدیق گور نس بیہ تیلہ حد زنا ونہ۔ ہر گاہ سو تم الفاظ ونہ نس پیٹھ راضی سز تیلہ یں تم الفاظ
 تسدہ چاہنہ ونہ ناونہ۔ تیلہ مردن تہ ون تم الفاظ تم نس ون آس، زنانہ تہ ون تم الفاظ ہم نس ون
 آس تمک دون منز پد لعان واقع، تہند نکاح ژہ یون۔ اہس مردس چھونہ جائز اہس زنانہ سیت صحت
 کرن یا تھپ کرن۔ تم ساری چیز سپد اہس پیٹھ حرام تو پتہ ہر گاہ اہس زنانہ طلاق دیہ تہ گو جان۔ ورنہ
 کرہ قاض تمک دون منز تفریق یعنی جدائی ہند حکم۔ امہ جدائی ہند حکم چھو طلاق بائیں۔ اہس مردس
 چھونہ اہس زنانہ سیت زانہ نکاح کران جائیز مگرے ونہ مرد کہ مہ وون اہڑ تیلہ لیہ اہس مردس حد

مِنَ الصُّدِّيقِينَ ۹) وَكَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۱۰) إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا

تذرف دنہ۔ تمہ پتہ چھو تمہن دون پانہ وان نکاح کرن جائیز۔ وَكَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ بیہ ہر گاہ نہ توہمہ پیٹھ خدایہ سُنَد فضل تہ رحمت آسہا، سُونز اوہ ہا حقیقت حال۔ تم کر پنتہ فضل ورحمتہ سیت توہمہ پردہ پوشی۔ پمز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو سیتھا توہہ قبول کرہ ون، سیتھاہ حمتہ وول

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ پمز پاٹ سم لو کہ نیو لوی اُپز پتھ آئی، یعنی ہانٹھ لاجھہ پاکہ سندس پاک وجودس، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تم لو کہ تہ چھہ توہی اُندرہ اکھ لوکت جماعتھاہ تمہ ہند تقداد کل ژور اوس تمو اُندرہ اوس اکھ مولیٰ شریہ۔ باقی آس تمسندی تابع۔

امہ قصک خلاصہ چھوئی زہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلہ جنگ بنی مصطلقہ نسیہ وائس آئے ئس جنگ شہ (۶) ہجر ئس منز سُدُمت چھو، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تہ آس اتھ سفرس منز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت۔ تمہ آسہ الگ اگس اوئس پیٹھ سوار۔ اُمس دوئس پیٹھ اوس عماری یعنی ہودج یوان تھاوند۔ تھ عماری آس پردہ یوان تروانہ توپتہ آس تشریف تھاوان تھ منز حضرت ام المؤمنین۔ امہ پتہ آس وونٹہ وال یوان تہ بیہ عماری ٹلان توپتہ دوئس پیٹھ تھاوت گمان۔

اکھ دوہہ اوس قافلہ اگس مقامس پیٹھ ٹھہرت۔ قافلہ کہ روانگی بروٹھ پھن پیہ حضرت ام المؤمنین قضای حاجت ضرورت۔ تم درلیہ عماری منزہ ہناہ دور پھن قضای حاجت کرنہ خیطرہ اتفاق سُد متیہ کہ اہنزہ ہٹہ چہ مالہ ژھیون ہن تہ سہ آہیہ چھکر اوند۔ سموہیت تمبک دانہ سونبر اولن۔ اتھ سیت لوگ تمہن وقت توپتہ یلہ تم واپس آئے قافلہ اوس درامت۔ امہ جلیہ نسیہ خبر کوٹ وونٹ۔ وونٹہ وال آس آمت تمو آس۔ بہنز عماری ٹچو سمہ خیالہ کہ ام المؤمنین آسن اتھ منز کیا زہ تہند بن اوس تمہن دوہن کمی بیہ اوس تہند جسم تہ لوٹے۔ بدن اوس نحیف۔ وونٹہ والین اوس نہ تہند گو بیر زیادہ کینہہ لگان۔ چنانچہ تمو تل تہند ہودج بیہ خیال کرت کہ یم آسن اتھ منز توپتہ تھو کہ اہندس دوئس پیٹھ بند کر تھ۔ حضرت ام المؤمنین یلہ چھہ قافلہ درامت، تم ژور اتس اتھ جلیہ تمو دوپ یلہ تم گنہ جلیہ واتھ مہ لہن نہ خود بخود واتن مہ ژھانڈان ژھانڈان وائس پتھ جلیہ لہنڈا پزہ پتھ جلیہ قرار کرن۔ کینہہ کالا گروہت کھرو سمہ بندر توپتہ شوگ تم آتھ۔ حضرت صفوان بن معطل صحابہ صابو اُندرہ اکھ صاحبہ، تم آس

تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ
 مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ لَوْلَا
 إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا

قافلِس پتہ پتہ پکان۔ کیا زہ قافلِس ما آسہ کا نہہ چیزاہ اوس پیومت تم آس سو چیز تھلان۔ تم یلہ اتھ جاہ
 وات تیتس ام المؤمنین شوگت آس تمن آو بوزنہ اکھ انساناہ شوگت، نزدیکہ یلہ وات اہندس تھس
 پیٹھ پٹھ نظر سمو پر زہ ناو تو پتہ پور تمو بڈہ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ یہ پر نہ سیت گیہ تم ہٹیار۔ وٹھکھ
 صفوان بن معطل۔ سر مبارکس پیٹھ ترودھ رذای مبارک۔ یہ صفوان بن معطل زانہا تمن پر دک حکم
 نازل سپنہ بروٹھ۔ چنانچہ تم کو پیش پن وٹھ۔ عرض کور، بھ تہ سپد و حض اتھ پیٹھ سوار۔ امہ پتہ
 اون تمو پن وٹھ سو بہ نوکھ ام المؤمنینس بروٹھ کنہ تمہ سپزہ تھ پیٹھ سوار پردہ کر تھ۔ وونہ سنز
 رزٹ صفوان بن معطلن اتھس منز، تو پتہ ہیوٹھ بروٹھ بروٹھ کن یوتان قافلِس نشہ وات۔ عبد اللہ
 بن ابی بس منافق خبیث، دشمن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس تمن لج یہ کتھاہ اکھ اتھس
 منز۔ تم ہیوت وای تباہی وورن۔ بعضی سیدین سادن مسلمانن پیٹھ تہ سپد تمسدہ وورنگ اثر۔ تمو تہ
 ہیوت امیک تذکرہ کردن مثلاً حضرت مسطح تہ حضرت حسان مرد و آندرہ، حضرت حمہ زانو آندرہ
 حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ ساری مسلمان صحابہ صابن، یہ خود بذات جناب رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم سپد امیک سخت صدمہ۔ اکس ریتس تان زودیہ قصہ تھ پات، اکہ ریتہ پتہ سپد تم
 آیات کریمہ ام المؤمنین سدس براءتس اندر نازل۔ اے مسلمانو لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
 تھنہ یہ اہز واقعہ تھہ زانو پتہ خیطرہ پیٹھ تہ ناکارہ بلکہ چھویہ تھنہ خیطرہ رت تہ بہتر باعتبار انجام تھنہ
 خیطرہ چھو تھ اندر کانہہ ضرر البتہ امیک چرچہ کرہ و نین چھو ضرور امیک ضرر لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا
 اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ اکس چھوتوت گناہ یوت تم اتھ اپزس منز حصہ نیومت چھو۔ زیوہ سیت۔ یہ قصہ
 مشہور کرن والین زیادے گناہ۔ بوزن والین ولہ سیت بدگمانی کرن والین پنہ پنہ مقدارہ موجب پر تھ
 اکس امیک گناہ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ تم شخصن اتھ منز بوڈ حصہ ہیوت تھنہ
 خیطرہ چھو بوڈ عذاب سو گو منافقن ہند زبٹھ عبد اللہ بن ابی۔ تم یہ اپز خبر پھیلاوتس اندر سخت کوشش
 کر تھنہ خیطرہ چھو سزاء نار جہنم لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا

هَذَا فَكُمُ مَبِينٌ ﴿۱۲﴾ لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا
 بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا
 لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَ
 لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ

هَذَا فَكُمُ مَبِينٌ توہمہ یلہ یہ خبر بوز ایوہ با ایمان مردوہ با ایمان زنا نو کونہ نیو وہ پانہ وان پنہر کھہ رت گمان بیہ
 کونہ دیو و تمویہ چھو صریح تہ نون ایہز لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ بیہ کونہ آئی تم ہانژھ لاگہ وین
 ژور گواہ ہتھ لیس اثبات زناء خیطرہ شرط چھو فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ لیس یلہ
 نہ تم ژور گواہ ہتھ آئی۔ لہذا جہہ کئی شریعتہ کہ قاعدہ موجب خدا لیس نسیہ اپزیر و لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ بیہ ہر گاہ تے خدا بیہ سندن فضل تہ رحمت
 توہمہ پیٹھ دنیاءس تہ آخر کس منز آسہا، ای حسان، ای مسطح ای حسنہ۔ توہمہ رتہ ہا ضرور اتھ کامہ منز
 اثر نہ خیطرہ اتھ منز شمولیت کرنہ خیطرہ بوڈ عذاب إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا
 لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ یلہ تہہ اگہ اکس و نان آسوہ پنہ نیوزیو وسیت، تی اوس تہنہد یو چا نیونیوان تیج
 نہ توہمہ خبری آس وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا بیہ آسوہ تہہ زانان سہلی کتھاہ لو کوی معاملہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ
 حالاکہ سو چھو خدا لیس نسیہ سیٹھاہ بوڈ چیز بیٹنہ گناہ کبیرہ۔ کیا زہ پاک زاننہ تہمت لاگن یہ چھو گناہ کبیرہ۔
 و ن لان لگن تہمت نبی کریمہ سزہ مخرم گرو اجنبیہ کوتاہ گناہ چھو۔ تمہ علاوہ سڈیہ سبب اذیت نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم لہذا بیہ واریاہ چیز سڈ گناہن ہند باعث و لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ
 بِهَذَا سببہ ساتہ توہمہ بیہ یوزوہ گوڈنی کمی ساتہ کونہ و نیوہ توہمہ کہ آسہ پزہ نہ یژھ کھہ کرن سُبْحَانَكَ هَذَا
 يُهْتَانٌ عَظِيمٌ خداوند اثرہ چھوک منزہ تہ پاک۔ یہ واقعہ چھو بالکل ایہز تہ سیٹھاہ بوڈ بہتان يَعِظُكُمُ اللَّهُ

هَذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۲۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ ط وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اَنْ تَعُوذُوا وَالْمِثْلَهُ اَبَدًا اللہ تعالیٰ چھو توہم نصیحت کران بیٹھنہ دوبارہ یرھ کھھ آسوکران اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ چھوے تہہ باایمان وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بیہ چھو اللہ تعالیٰ یرھہ ناوتھ توہم احکام بیان کران۔ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سوڑوی بوزہ ون سینٹھہ حکمتہ وول۔ اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نیز پاٹ سم کوکھ تم واضح آیات نازل سپدنہ پتہ تہ خواہش چھہ تھاوان کہ بیچھ کھھ گڑھ پھیلنہ تہ شائع سپدنہ مسلمانان اندر تہندہ خیطرہ چھو دُنْيَا س اندر تہ آخرتس آندر دودہ دگ تلہ ون عذاب وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سوڑوی زانہ ون، تہہ چھو نہ زانان وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بیہ نے خدایہ سُنَد فضل تہ رحمت توہم پیٹھ آہہا وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ بیہ نے اللہ تعالیٰ مہربان تہ رحمتہ وول آسہما تہہ چہ ہونہ تہندہ عذابہ لغیرہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ ط وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَ الشَّيْطَانِ ای باایمانوہہ چکو شیطانہ سزہ و تہ قدم بقدم تس پتہ پتہ۔ کیا زہ کس شیطانہ سزہ و تہ پتہ پتہ تس پتہ پتہ قدم بقدم فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ شیطان چھو پزپاٹ پر تھہ کانسہ بیچھہ کامین تہ بے حیائی ہند امر کران سمہہ سیت شخص تباہ و برباد گڑھان چھو وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا بیہ ہر گاہ نے خدایہ سُنَد

وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِيَ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۱﴾ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن
 يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿۲۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

فضل سے رحمت تو ہمہ بیٹھ آسہ ہا تو ہمہ اندرہ سپدہ ہانہ کا نہہ اکھاہ زا نہہ تہ پاک تہ صاف گنہوشہ و لکن اللہ
 یزکی من یشاء واللہ سمیع علیہ لیکن اللہ تعالیٰ چھو تو بک توفیق دت پاک و صاف کر ان نس یشہ تہ
 نس۔ اللہ تعالیٰ چھو سو روی یوزہ ون سو روی زانہ ون وَلَا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یوتوا
 اولی القربى والمسکین والمہاجرین فی سبیل اللہ بیہ مہ ہا ون قسم تو ہمہ اندرہ دینی فضیلتہ وال تہ
 دنیوی وسعتہ وال، تم کیا آسن نہ مال پنن دو ان آشنا ون تہ مسکین بیہ مہاجر ن سمو خدلیہ سنزہ وتہ اندر
 ہجرت کر مثر آسہ امہ اندرہ چھو مر اد حضرت ابو بکر صدیق نس ترغیب دین کہ تم نس امداد پنہ نس آشنا
 حضرت مسطح نس دو ان چھہ سو تھا ون جاری۔ امہ قصورہ موکھہ مہ کرن سو بند۔ نس کرن قصور معاف
 ولیعفو اولی صفا و لیصفا تہند گزہہ معاف کرن در گذر کرن تہند قصور الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ
 غفور رحیم کیا تہہ چھوہ ناپسند کر ان کہ اللہ تعالیٰ کیا کرہ تہندین گنہن مغفرت۔ تیلہ آسوتہ تہ تہن
 ہند قصور معاف کر ان۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون إِنَّ الَّذِینَ یَرْمَوْنَ
 الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ پڑپاٹ تم لوک بدکاری ہنز ہانزہ لاگن پاک تہ
 بے خبر با ایمان زنانن تمن بیہ لعنت کرنہ دنیاء س تہ آخر نس اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بیہ چھو
 تہندی خیطرہ یوڈ عذاب یوم تہند علیہم الستئمہ و اینہم و اجلہم ماکانوا یعلمون تہہ بڈس عذابس
 گزہن گرفتار تمہہ دوہہ سمہ دوہہ گواہی ون تمن خلاف زیوہ تہنزہ بیہ اتھہ تہند بیہ کھور تہند تم سارنی

الْأَسْنَةِ وَمُؤَايَدِهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۳﴾ يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ
 اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۴﴾ الْخَبِيثَاتُ
 لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
 لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۲۵﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
 وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۶﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
 فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا

کامین ہنریم تم لو کہ کران آس یومئذ یوفیکہم اللہ دینہم الحق وبعلمون ان اللہ هو الحق المبین تمی
 دوہہ ہیر تمین اللہ تعالیٰ واجبی بدلہ۔ ہیر زان تم تمی دوہہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پوز فیصلہ کرہ و ن پوز
 پزراوہ و ن پرستہ تھہ ہنز حقیقت نر اوہ و ن الخبیثات الخبیثین و الخبیثون الخبیثات للطیبین
 و الطیبون للطیبین ناپاک زنانہ چھہ ناپاک مردن ہندہ خیطرہ، ناپاک مرد چھہ ناپاک زنان ہندہ خیطرہ
 پاک زنانہ چھہ پاک مردن ہندہ خیطرہ پاک مرد چھہ پاک زنان ہندہ خیطرہ اُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
 مِمَّا يَقُولُونَ تم پاک مردتہ پاک زنانہ چھہ بالکل بری تمو کھوتہ ہنز و نشہ سیمہ تھہ لوک و ن ان کم
 مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تہندہ خیطرہ چھو یوذ مغفرت ہیر عزتک رزق۔ یایُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا
 غَیْرِ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا اکی با ایمانومہ آسوا ازان کمنہ گرس منز پنہ نیوگر دورای
 یوتان نہ گوڈہ اجازت آسویوان ہیر یوتان نہ سلام آسویوان گروالین پیٹہ ذلکم خیرکم لعلکم
 تذکرون ہیر چھو تہندہ حقہ سیٹھاہ رت تھہ تہہ ژیتس تھاووہ و ان کم تجدوا فیہا احدًا فلا تدخلوها ہر گاہ
 ئے تہہ گرن اندر کاہنہ شخصاہ لیون توتہ مہ آسوتہہ تمین گرن منز ازان حقی یوذن کم یوتان نہ
 توبہ اجازت آسہ یوان دنہ و ان قیل کم ارجعوا فارجعوا ہوا ذلی کم ہیر ہر گاہ توبہ دنہ آسہ یوان

فَارْجِعُوا إِلَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
 وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۲۹﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
 فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ
 لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا

و بکنس چھونہ موقعہ ملا قائم واپس گدھو تیلہ گڑھے واپس گدھن تی چھو تہندہ خیرہ زیادہ صفائی ہند
 باعث وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھوتہ سو روی زنانہ یہ تہہ کران چھوہ۔ اگر خلاف حکم کاہنہ
 کاہہ کرو تہہ پیٹھ کھیو سزا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ توہہ چھونہ
 کاہنہ گناہ ہر گاہ چہ آژو تہن گرن اندر تہن منز نہ لو کہ عیال ہتہ بسان آسن تہن منز آسہ تہند کاہنہ
 سامانہ۔ سو گو مسجد، مدرسہ، سرای، ہوٹل ہیو اتھین مکان اندر بلا اجازت اٹنس چھونہ کاہنہ خرچ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ چھو زنانہ سو روی یہ تہہ نر او ان چھوہ ہیہ نہ کھٹتہ تھاوان
 چھوہ پرستہ حاکس منز گڑھے کھوژن خداپس قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
 ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ فرماو تہہ یارسول اللہ با ایمان مردن تم وٹن آچھہ پنہ، ووہر زنان گن نظر دنہ نشہ ہیہ
 کرن راچھہ سترہ چن جاہن پنہ نین ووہر زنان غیر منکوحن سیت یا لو کٹن سیت بدکاری کرنہ نشہ۔ تی
 چھو زیادہ مفید تہندہ خیرہ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ پیرپاٹ اللہ تعالیٰ اس چھہ خبر تمہہ ساریجی یہ تم
 کران چھہ۔ سو دیوہ یڑھن یکھ کابن پیٹھ سزا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
 ہیہ فرماو با ایمان زنانہ کہ تمہہ تہ وٹن آچھہ پنہ ووہر مردن گن نظر دنہ نشہ ہیہ گرن راچھہ پنہ نین سترہ
 چن جاہن بدکاری نشہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ہیہ نہ نر او ان تمہہ پنہ زینتہ چہ جاہہ مگرے گئے
 جاہہ سمو آندرہ نیر گن آسن، مجبوری آسہ تمہہ جاہہ نر او نہ سو گو تھہ آتھہ زہ ۲ تہ کھورہ ۱ و لِيَضْرِبْنَ

يُؤْتِي زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلُوكَاتٍ إِمَائِهِنَّ أَوِ السَّبْعِينَ غَيْرِ
 أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَهُمْ يَطْهَرُونَ وَعَلَى
 عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾

مُخْبَرُونَ عَلَى جَبُوهِنَّ بیه کرن تمہ کلہ تہ سینہ پوشیدہ تھاؤج سیٹھاہ کوشش۔ تھہ سلسلس منز پھو لازم
 تمن کہ پوڑ تہ سر ژادر تراون تمہ پنہ نمن نالن تہ گریبان پیٹھ یمہ سیت ہٹس تہ سینس آسہ ستر سپدان
 وَلَا يُؤْتِي زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ بیه مہ نراون گنچہ جاپہ پنہ مگر پنہ نین خاندان نشہ اَوَابَاتِهِنَّ یا پنہ
 نین مالین نشہ اَوَابَا بُعُولَتِهِنَّ یا خاندان ہندین مالین نشہ یعنی بہرن نشہ اَوِ ابْنَاتِهِنَّ یا پنہ نین
 پٹوین نشہ اَوِ ابْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ یا خاندان ہندین پٹوین یعنی وورہ پٹوین نشہ اَوِ إِخْوَانِهِنَّ یا پنہ نین باین نشہ
 اَوِ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ یا بابہ تھرن نشہ اَوِ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ یا بہن تھرن نشہ اَوِ نِسَائِهِنَّ یا پنہ نین
 زنان نشہ یعنی ہمہ مسلمان زنانہ یوان گڑھان آسن بشرطیکہ بد چلن آسن نہ۔ کافر تہ غیر مسلم زنانہ گیمہ
 دو پڑ مردس برابر۔ تمن نشہ تہ گڑھہ ستر کرؤن۔ تھہ پاٹ وور مردس نشہ ستر کرؤن یوان پھو اَوَمَا مَلَكَتْ
 اِمَائَهُنَّ یا پنہ نین کینرن نشہ اَوِ السَّبْعِينَ غَيْرِ اُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ تمن خدمت نڈارن نشہ تمن
 نہ حاجت آسہ زنانہ ہند، مرد دو آندرہ، تمن آسن نہ حواس بجاتی آسکھ نہ زنانہ گن رغبت تہ توجہ
 اَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَهُمْ يَطْهَرُونَ وَعَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ یا تمن لوکٹن نشہ تمن نہ وندہ واقف آسن سپدمت زنانہ
 ہندین پوشیدہ معاملاتن پیٹھ، یعنی نابالغ لوکٹ یمن سارنی نشہ پھو جائزہ تھہ تہ اتھہ کھور نراون
 خاوندس نش گڑھہ نہ بدنگ کاہنہ حصہ پوشیدہ تھاون اگرچہ خاص جای وچھن پھہ خلاف ادب وکلا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ بیه گڑھہ زنانہ ہند پردک یوت خیال تھاون کہ پکان

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۶﴾
 وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْغِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ
 إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا
 تَكْرَهُوا فَوَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ

پکان گڑھن نہ کھور زورہ تراون بٹھ تمہ ز یوریچ آوازو پر مردن ہندین کن گڑھہ ئس ز یور تمہ پو شیدہ
 تھاوان چھ یعنی پانزیب وَتَوَوُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بیہ کرو توبہ جتہ ساری اللہ
 تعالیٰ اس گن ای با ایمانو تو ہے کینہہ کوتاہی آسہ گموا حکامن اندر بٹھ جتہ کامیاب سپد وور نہ مہصیت چھ
 مانع کامیابی سپدان وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ بیہ کرو نیتھر تمین تم توبہ اندرہ نیتھرہ ورا ی تہ بے نکاح آس۔
 ادہ تم مرد آستن یازنانہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ بیہ تم نکاح کرئس قابل آسن تہند یو غلامو
 اندرہ بیہ کیز و اندرہ۔ بیہ گڑھہ یاد تھاون کہ پنہ ئس عزیز یا پنہ ئس عزیزہ سندس خاندانہ سند فقیر آسن
 گڑھہ نہ مانع سپدن تمین ہندہ نکاحہ نشہ کیا زہہ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہر گے تم فقیر تہ
 محتاج آسن اللہ تعالیٰ کرہ تمین پنہ فضلہ سیت مالدار نکاح کرنے پتہ یلہ تمین اندر روزی کماوچ قابلیت
 آسہ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو وسعتہ وول۔ سوئس یڑھہ ئس کرہ رزئس اندر وسعت۔ سو چھو
 سو زوی زانہون ساری ہند حال چھو ئس معلوم وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْغِيَهُمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ بیہ روزن پاکدامن تم لو کہ تم نہ نیتھر ہیکان چھہ تنگدستی ہندہ سببہ یو تان اللہ تعالیٰ مالدار
 کرہ تمین پنہ فضلہ سبتِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا بیہ
 تم خواہشند آسن مالس بدل آزاد سپد نک، تہند یو غلامو یا کیز و اندرہ تم بنا لو کہ مکاتب ہر گاہ توبہ تمین
 منزعمہ خوبی و بہتری ہند آثار و علامت لبندین وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ بیہ آسو تمین امداد

الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۳﴾ وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۴﴾ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ البُّصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ الرُّجَاةُ كَأَنهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

کران، خدایه سنده تممه ماله منزه کینه به دوان نیس مال توبه تمی عطا کورمت هُوَ وَلَا تُكْفُرُوا أَتَيْنَاكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ مَخْضَلًا لَتَبْتَعُوا عِضَّ السَّيِّئَةِ الدُّنْيَا بیه مه کریو که مجبور پنہ کنیزه بدکاری پیٹھ ہر گاہ تمہہ یزھن تمہہ نشہ پکن تہ پاک و پاکیزہ روزن کیاہ تہہ جھوہیہ پیٹھ کام کرہ ناوت ژھانڈان دنیا چہ ناپائیدار زندگی ہند سامانہ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ بیه نیس تمن یہ پیٹھ کوم کرہ نس پیٹھ مجبور کرہ، اللہ تعالیٰ کرہ تمن مجبور کر نہ پتہ مغفرت تہ رحم۔ مجبور کرہ و نس کرہ سخت عذابس گرفتار

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ہمز یاٹ بیه کمر اسہ نازل تہندہ ہدایتہ خیطرہ ہتھہ سورہ شریفس منز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندہ ذریعہ توبہ کن ای مسلمانون آیات تہ احکام، بیه کینہہ مثالہ، مختصر حالات تمن لوکن ہند سم توبہ ہر و نٹھ گذر سمست ہتھہ۔ بیه بدلیصحت کھوژہ و نین تہ پر ہیز گارن ہندہ خیطرہ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ اللہ تعالیٰ ای ہتھو نور ہدایت عطا کرہ ون تمن سم آسمان منز روزہ ون چھہ بیه ہم زمینس منز روزون چھہ۔ یعنی آسمان وزمینس منز ہمین ہدایت سپد تمن ساری کور ہدایت اللہ تعالیٰ نی۔ آسمان وزمینس منز ہتھو مراد سوروی عالم۔ نس سم مخلوقات آسمان وزمینہ نشہ ہیر چھہ مثلاً حاملان عرش وغیرہ تم ساری سپد اتھہ منز شامل۔ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ تہندہ نور ہدایت عجیب حالت چھہ تڑھی کہ تہہ زانو تھہ طاقتی ہناہ تھہ پیٹھ چھو اکھ ژونگاہ البُّصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ سُوی ژونگ چھو اتھہ طاقتس پیٹھ اکس شیشوسی تہ نیس منز الرُّجَاةُ كَأَنهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یہ شیشو قندیل چھو ٹیتھہ صاف زان سوتارہ چھو زوتان

مُبْرَكَةٌ زَيْتُونَةٌ لِأَشْرَقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يُكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ
 لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نَوْراً عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ
 يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۷﴾ فِي بَيِّنَاتٍ آذَنَ
 اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿۲۸﴾

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لِأَشْرَقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ جھوزونگ جھوزالندیوان لہ مفیدتہ بابرکت
 کلہ کہ تیلہ سیت سو کل گودرخت زیتون بس نہ مشرقس کن جھوزہ مغربس کن بلکہ جھوزتھہ جلیہ بیتہ
 نس تھہ پٹھہ دوی دوہس تاپ جھوزاتان۔ تھہ درخت زیتونک تیل جھوز آسان زیادہ لطیف تہ صاف
 یُكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تمیک تیل جھوزواتان تہ نہ نہ کران اگرچہ تھہ متہ ایتن نارہ
 سیت ژکہ دنہ۔ ادہ یلہ تھہ نارہ سیت ژکہ تہ ایہ دنہ تیلہ سپدہ تمیک گاش دوگن سو سپدہ نُورٌ عَلَى نُورٍ
 اکن نورس پٹھہ بیاکہ نور۔ اکہ اوس یہ تیل بذات خود روشن بہ یلہ نارہ سیت آس ژکہ دنہ انج روشنی
 گنیہ تیز مثال گنیہ ختم۔ تھہ پٹھہ یلہ اللہ تعالیٰ جھوزا ایمانہ سندس دس اندر ہدایتک نورواتاوان تھہ
 دوہہ خوتہ دوہہ قبول حقہ۔ خیطرہ دل موزرنہ یوان۔ پرتھہ وقتہ جھوز احکام الہی بجاننہ خیطرہ تیاروزان۔
 نور علم حاصل سپدنہ پتہ جھوزا بس نور عمل تہ حاصل سپدان۔ تہ زہ نوریلہ جمع سپداتھہ پٹھہ آو صادق نور
 علی نور یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جھوز پتہ نس نور ہدایتس کن و تھہ ہاوان بس یشھان جھوز
 نس۔ یہ جھہ ہدایت لہ و نین پٹھہ اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ۔ تھندی توفیقہ سیت جیو تمن ہدایت
 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ جتھہ پٹھہ ہدایتیہ مثال اللہ تعالیٰ ان بیان فرماتھہ پٹھہ جھوز اللہ تعالیٰ لوکن
 ہندہ ہدایتہ خیطرہ مثالہ بیان کران تھہ لوکن پورہ فکر ترہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جھوز پرتھہ چیزہ
 پورزانہ ون۔ فِي بَيِّنَاتٍ آذَنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ تمن اللہ تعالیٰ ہدایتک نور عطا کران جتھہ تم
 چھہ جہز عبادت کران۔ تمن گرن اندر تمن گرن ہند بلند کرنک اندر جھندہ نام پٹھہ یاد کرنک اللہ تعالیٰ
 ان فر موومت جھوز، تم گرہ گئے مسجدہ۔ تمن گرن ہند پزہ سیٹھہ تعظیم واحترام کرن۔ توت گڑھہ نہ اثرن

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ
 آيَتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۳۷﴾
 لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
 مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ

بے غسلن تہ حیضہ واجہ نین زمان ہند۔ توت گڑھ نہ واتاؤن کا نہ ناپاک چیز۔ تہ گڑھ نہ لائن تہ
 قسمگ شور تہ کریکہ ناد۔ تہ گڑھن نہ کرنہ ڈنوی تھہ **يَسْخَرُونَ مِنْهَا بِالْعَذْوَةِ وَالْاِصْلَالِ** بپاکی چھہ پانژن
 وقن یاد کران تمن گرن اندر نماز پر نہ سیت، صمسن تہ شامس صمسن گہ صبح نماز آصالس اندر آی باقی
 ژور وقت۔ پیش، دگر، شام تہ مخن کیا زہ اصل تہ آصال چھہ ونان دو پہرہ کہ آفتاب ڈلنہ پتہ ساری
 رانس تان **رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَآيَتَاءِ الزَّكَاةِ** تہ مرد تمن نہ آور
 چھو کران خدا یہ سندہ یادہ نشہ، نماز قائم تھاونہ نشہ، زکوٰۃ ادا کرنہ نشہ، کا نہ کاروبارہ نہ کا نہہ تجار تاہ۔
 امہ آندرہ چھو معلوم سپدان کہ مردان ہنز گڑھہ مسجدن اندر نماز پر ن۔ زنان ہنز گڑھہ نماز پر ن گرنی
 اندر۔ حدیث شریفس اندر چھو آمت زنان ہنزہ گری نماز پر نس واریاہ فضیلت تہندہ خیطرہ چھہ گرے
 مسجدہ **يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاِصْبَارُ** تم لوک چھہ کھوژان تہمہ ڈہہ کس رٹ نس تہ
 گند نس سیمہ دوہہ تلک پیٹھ سپدہ بعضی لوکن ہندین دلن تہ اچھن دہشت و خوف سیت۔ **لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ**
أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ انجام تمن لوکن ہند آسہ کہ اللہ تعالیٰ دیہ تمن رت بدلہ تہزن
 رژن عملن ہند۔ سیمہ عملہ تمو کر موہ آسن۔ بیہ ہرہ راوکیہ مزو پینہ فضلہ سیت **وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ**
بِعَيْرِ حِسَابٍ اللہ تعالیٰ چھو عطا کران نیس یڑھان چھو کس حسابہ روستوی۔ یوتان آو بیان کرنہ
 ہدایتک تہ اہل ہدایتن ہند حال۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اہل ضلالتن ہند حال تہ مثال۔ اہل ضلالت
 یعنی کافر ن چھہ زہ قسم اکھ گے تم تمن قیامتچ پڑھ چھہ۔ تمن چھو جزاء و سزاء ک تہ خیال یہ مثال چھہ
 تہزی **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِئَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً** بیہ تم کافر چھہ تہزن عملن ہنز

بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّانُّ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ
 وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَةً وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾
 كَظَلَمْتُ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
 سَحَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ
 يَرَهَا وَمَنْ لَّمْ يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿۴۰﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
 اللَّهُ يَسْخَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ كُلُّ قَدِّ

مثال چھ تمہہ سیکھ ہنز مثال یوسہ اگس میدانس منز آسہ بس تا پہ سبت زوتان چھو آسان، تریشہ ہوت چھو دورہ وچھت تھہ سیکھ آب خیال کران تو پتہ چھو تھہ گن دوران حقیٰ إذا جاءہ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا تا اینکه یلہ سوتھہ خیالی آس پیٹھ واتان چھو، سو چھونہ آس لبان کنہی آس چھو جسمانی و روحانی صدمہ واتان تہہ چھو ات تھی تریشہ تریشہ کران مران وَ وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ بلکہ چھو یہ لبان خدایہ سندس کھمس تھہ جلیہ یعنی مر بس کھمس۔ فَوْقَهُ حِسَابَةً وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ بس چھو اللہ تعالیٰ اسنڈہ عمرہ ہند حساب پورہ کران یعنی یہ چھو ختم سیدان اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب موکلاوہون اَوْ كَظَلَمْتُ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ دو سیمہ قسمہ کین کافر ان ہنز مثال چھہ تمن اٹھ گن ہنز سیمہ سنن سمندر ان منز آس۔ یکن پیٹھ ولنہ پیہ اکھ موج تھہ پیٹھ آسہ بیاکھ موج تمہہ پیٹھکن آسہ ابرتہ۔ امی آسں جمع گمہ واریاہ اٹھ گمہ اکھ اگس پیٹھ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَهَا ہر گاہ اٹھہ حاکس منز شخص تمن انہ گنن منز سمندرہ کس ٹرکس تل ہنن اٹھہ نیر کڈہ سؤی بیہ و چھن سؤ بیکنہ تھہ پنہ بس اٹھس تہہ وچھت تہہ آسہ اٹھ گمہ وَمَنْ لَّمْ يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ بیہ سمس نہ اللہ تعالیٰ ہنن نور ہدایت عطا کرہ بس بیکنہ نہ بنت کینہہ تہ نور تہ روشنی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ کیاہ ژہ وچھت نا، ژہ سؤدی نامعلوم ای انسانہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس چھہ پیاکی یاد کران تم ساری مخلوق تم آسانن تہ زمین منز چھہ بیہ وڈہون جانور تم پنہ چھہ مہر او تھہ

عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۱﴾ وَيَلَّهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالِىَ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿۳۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ سَحَابًا ثُمَّ
 يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ
 مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ
 يَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿۳۳﴾

چھہ ڈوان تہ پھیران۔ یہ چھہ وجود صائیس پیٹھ عجائب دیلاہ۔ کیا زہ تمن جانورن ہندین جسمن ہندہ
 ثقلمہ کہ باوجود چھہ تم ہواؤس پیٹھ معلق روزت اورہ یور پھیران کُلُّ قَدِّ عِلْمِ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ پر چھہ
 اکس تموجانور و آندرہ چھہ ہن نماز تہ دُعا۔ ہن ہن تسبیح تہ وظیفہ، الہام خدائی سیت معلوم۔ باوجود آں
 چھہ کینہہ لوک خدایہ سندس توحیدس انکار کران وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ اللہ تعالیٰ چھہ پورہ زاتان تم
 ساری چیز تم تم کران چھہ۔ سو دیہ تمن تھہ انکار واعتراضس پیٹھ پورسزا وَيَلَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَالِىَ اللَّهُ الْمَصِيرُ اللہ تعالیٰ سزى چھہ پادشہت تہ حکومت آسمان تہ زمین منز۔ از تہ یہ
 برو تھہ تہ سارنی چھہ پتولا کہ واٹن تس نشہ۔ سو دیہ سارنی پنہ نین کائین ہنز مزورِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ
 سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ کیاہ ژہ پچھہ ناخبر کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھہ پکہ
 ناوان ابرس توپتہ چھہ ملناوان تھہ اکھ اکس سیت۔ وارہنن ژر ٹین چھہ کئی کران توپتہ چھہ تھہ اکھ
 اکس پیٹھ تھوان۔ اتی چھہ کہ ڈو چھان رُودنیران تمہ آندرہ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ یہ
 چھہ اللہ تعالیٰ والان ابرہ منزہ تمہہ کیو تموجو بدیو حصو منزہ یم کوہ ہی چھہ ڈوٹھہ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ
 وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ توپتہ چھہ سو ڈوٹھہ تراوان کانسہ ہندس رُوس پیٹھ یازر اٹس پیٹھ یا باغس پیٹھ
 کس سویشھان چھو۔ کانسہ چھہ پچراوان تمہہ ڈوٹھہ نشہ۔ کس شخصہ سُنْدُؤ، زراعت تہ باغ چھہ محفوظ
 روزان۔ اتہ ہند سویشھان چھو یکاڈ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ تمہہ ابرہ منزہ چھہ نیران ترہی ڈولماہ
 کہ قریب چھہ سپدان تمن وزملن ہند گاش مانیہ اچھن ہندس گاش۔ کیاہ قدر تہ دولاہ چھہ آہہ منزہ چھو

يَقْلِبُ اللَّهُ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَاتِ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۳۳﴾
 وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ
 مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا
 يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۴﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَ
 اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۳۵﴾ وَيَقُولُونَ امْتَنَّا
 بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ
 ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۶﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ناره و زمه کدان۔ يَقْلِبُ اللَّهُ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَاتِ ای چھو پھر ان سے بدلوان دوہس سے راتس لان فی
 ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ بیشک اتھر راتے کس یس گزھنس اندر چھ عبرت سے قدر سے چہ بچہ دلیلہ عقلہ
 والین ہندہ خیرہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء بیہ چھو اللہ تعالیٰ ان پیدہ کورمت پر تھ حرکت کرہ وناہ
 آہ نشہ فینہم من یشی علی بطنہ تمواندرہ چھ بعضی تم پکان چھ پنے یسیت وینہم من یشی
 علی رجلین بیہ چھ تمواندرہ بعضی تم پکان چھ دوو کھوروسیت وینہم من یشی علی اربع بیہ چھ
 تمواندرہ بعضی تم پکان چھ ژور کھوروسیت یخلق اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ چھو پیدہ کران یہ یرھان چھو
 ان اللہ علی کل شیء قدير پھر پات اللہ تعالیٰ چھو پر تھ چیزہ پیدہ کر س پیٹھ قدر سے دول لَقَدْ أَنْزَلْنَا
 آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ پھر پات اسہ کر نازل تم آیات تم سوروی
 نر اوہ و ان چھ مگر اللہ تعالیٰ یعنی یرھان چھو تمنی چھو و تھ ہوان راہ راستس کن وَيَقُولُونَ امْتَنَّا بِاللَّهِ
 وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا بیہ چھ ونا منافع کو کہ اسہ کر پڑھ خدا یس بیہ پیغمبر خدا یس۔ بیہ مون اسہ تھند حکم
 ولہ سیت ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ مگر تو پتہ چھ تمواندرہ اکھ جماعتھہ تھ پھر ان
 روگردانی کران خدا ورسولہ سدس خمس وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ چھنہ تم کو کہ بالیمان وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ مَعْرُضُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿۳۹﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ أَيْلًا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۴۰﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۴۱﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۴۲﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُوبًا

اللَّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ مَعْرُضُونَ یہ بیلہ تمین ناد چھو یوان و نہ خدائس تہ تہندس پیغمبرس کن بیٹھ تم فیصلہ کرن تمین منز۔ اتی چھ اکھ جماعتھاہ تمو آندرہ تھ پھر ان تہندہ حکمہ نشہ وان یکن لہم الحق یأتوا الیہ مذعنین توپتہ ہر گاہ فیصلہ تہندہ حقہ آسہا تیلہ یمن نبی کریم صلی اللہ علی و سلم نشہ کار نومراوت ائی قلوبہم مرض امارت ابوا یمن ماچھ وکن منز کا نہہ بیماریاہ۔ کنہ سم چھہ شھہ کران امر یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ کنہ کھوژان چھہ کہ خدا تہ تہند پیغمبر ما کرہ بے انصافی۔ تم کیا زہ کرہ ہن بے انصافی بل اُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بلکہ چھہ تے متافقے، سخت ظالم تہ بے انصاف إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا باایمان ہند قول چھو نہ سمہ ساتہ تمین خدائس تہ تہندس پیغمبرس کن تمین منز فیصلہ کرنہ خظیرہ ناد چھو یوان و نہ مگر ای زہ تم چھہ وان بخوشی بوزاسہ حکم تہوند مون اسہ فیصلہ تہند اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تے چھہ کامیاب تہ رستگار سپدہ ون۔ اسہ نشہ چھو قاعدہ کلیہ کہ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ ئس حکم مانہ خدایہ سہد بہہ تہندس پیغمبر سہد، بہہ کھوژہ خدائس یہہ چھہ تہندہ مخالفت نشہ، ئس تے لوک چھہ مطلبس تہ مرادس واتہ ون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ یہ

تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةً ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
 مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى
 الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ
 عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُبَلِّغَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

بہتہ منافق زور دار قسم ہاوت خدلیہ سند، دانان کہ ہر گاہ تہہ اسہ حکم کرو گرہ بارہ منزہ نیر ٹک، ضرور
 گزواس تہہ خمس تعمیل گرہ بار تراو تہہ نیر و قُلْ لَا تَقْسِمُوا تہہ فرما یو کہ ای منافقو قسم مہ ہاود
 طاعۃ مَعْرُوفَةً اسہ چہہ تہزہ فرمانبرداری ہنز حقیقت معلومی إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو پور زنانہ سوروی یہ تہہ کران چھوہ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ تھو سیت وسہ نہ ٹکھ کینہہ تہہ۔
 فرمانبرداری کرو خدلیہ سزہ یہ کرو فرمانبرداری پیغمبر خدلیہ سزہ۔ پس ہر گاہ تم مو منافقو روگردانی کر، پس
 چھونہ پیغمبرس تمیک کا تہہ ضرر، کیا زہ تمہ چھو منہ تبلیغ کزن سمیک ہار تمہ پیٹھ کھار نہ آمت چھو۔
 تو بہہ چھو منہ تعمیل احکام تہہ طاعت کزن سمیک ہار تو بہہ پیٹھ کھار نہ آمت چھو وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا
 ون اگر تہہہ پس پیغمبر برحقہ سزہ فرمانبرداری کرو۔ تیلہ لہو تہہ ہدایت وت۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
 الْمُبِينُ بیہ چھونہ پیغمبرس پیٹھ منہ مگر خدلیہ سند حکم صاف صاف تہہ تراوت لوکن واتہ ناون وَعَدَّ اللَّهُ
 الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ای ساروی
 اُتیبو، تو بہہ آندرہ سم ایمان اُن تہہ رزہ کامہ گرن، ہدایت پور پیروی گرن، تمہ چھو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماوان
 کہ امہ اتباعکہ برکتہ کرہ سو تمہن زمینس اندر حکومت تہہ سلطنت عطا۔ تہہہ پاٹھ تمہن برو تہہ اہل ہدایت
 لوکن عطا کر مش آسن وَلَيُبَلِّغَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ بیہ حکومت و سلطنت دنہ آندرہ چھو مقصود

مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يُعْبُدُونَ وَنَبِيٍّ لَّا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَنْ
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۵﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
 آتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۶﴾ لَا تَحْسَبَنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أُولَٰئِكَ النَّارُ وَلَيْسَ
 الْمَصِيرُ ﴿۵۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ

کہ نُس دین اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیرہ ہند کورتھ دیہ قوت تہندہ آخر صحیحہ نفعہ خیرہ تہندہ پیٹھ کاہل
 رحم کرنہ بیہ۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا بیہ بدلاوہ ضرور تہندہ خوف تہ بدامنی امن وامنس
 سیت۔ یُعْبُدُونَ وَنَبِيٍّ لَّا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ بشر طیکہ ایمانہ سان کرن میان عبادت شریک ٹھہر او نم نہ
 کاہنہ چیزاہ کثرہ چیزس اندر۔ یعنی نہ کرن شرک جلی نہ کرن شرک خفی یعنی ریاء وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وون نُس اکھاہ سمو وعدو تہ احسانا تو پتہ تہ ٹھہر ان نعمت گرہ تہ لوک جھہ فاسق
 تہ نافرمان۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ای مسلمانو تہندہ بیہ معلوم سپد
 ایمان و عمل صالحک کیاہ نتیجہ جھو، لہذا لہزہ تہندہ پابندی سان نماز پرن، ماچ زکوٰۃ ادا کرن بیہ باقی احکامن
 اندر تہ حکم مانن پیغمبر برحقہ سُنڈ تہندہ پیٹھ کاہل رحم بیہ کرنہ لَّا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي
 الْأَرْضِ وَمَا أُولَٰئِكَ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ای مخاطب تہہ مہ گر خیال کہہ کافر کیاہیکن اسہ عاجز کریتھ تہ
 ہارہ ناوت ز مینس منزگنہ طرفس کن ثلث تہ سانہ قہرہ نشہہ کیاہیکن تم بچت، بلکہ ہارن تہ۔ بیہ سپدان
 تم مغلوب تہ مقہور آخر تہس اندر چھہ تہمز جای نار جنم۔ سوچھہ سیٹھاہ تھجہ جای یوت تم واتن۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ای
 باایمانو تہندہ نشہہ بیہ خیرہ آسن اجازت ہیوان تہندہ نوکر تہ غلام بیہ سم نہ بالغ آسن ونہ سپدمت تہندہ یو
 لوکیواندرہ ترین وقتس مِّنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ

قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ
 وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ
 لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طُفُوفُونَ عَلَيْكُمْ بِعِضُكُمْ عَلَى
 بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۸﴾
 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
 اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۹﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي

العِشَاءِ اگھ صبح نمازہ بروٹھ، بیہ دُپہرس یلہ گرمہ سببہ پلو آسوکدان بیہ فتنن نمازہ پتہ ثَلَاثُ
 عَوْرَاتٍ لَكُمْ تم چھ ترہ وقت تہندہ پردہ کرنک وقت تمن وقتن چھوہ تہہ آرام واستراحت کران۔ تمن
 وقتن چھوہ تہہ بے تکلفی ہندس حالتس منز روزان لہذا آدھن بنن غلام تہ نابالغ لوکت وارہ بوزہ نان کہ اطلاع
 دنہ وراۓ تہ اجازت ہینہ وراۓ گڑھن تہند آسہ نشہ اذن۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ تم
 تریو وقتو پتہ چھونہ نہ توہہ کانہہ حرن نہ چھو تمن کانہہ حرن بلا اجازت توہہ نشہ پیش اندر طُفُوفُونَ
 عَلَيْكُمْ بِعِضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ تم چھہ گرہ گرہ توہہ نش اوہ ون گڑھہ ون۔ توہہ اندرہ تہ چھہ اڈاؤین
 نشہ اوہ ون گڑھہ ون کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تہہ پاتھ چھو اللہ تعالیٰ ویشہ
 ناوتھہ توہہ بیان کران احکام۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ چھو بدن ہنزہ سارے کامہ زانہ ون، سیٹھاہ حکمتہ وول
 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بیہ یلہ
 تہند لوکت بالغ آسن سپدان کس آسن تم تہ زمانن نشہ اذنہ خیطرہ اجازت حاصل کران تہہ پاتھ تمن ہند
 زٹھ بالغ مرد اجازت ہیوان چھہ کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تہہ پاتھ چھو اللہ

لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
 شِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
 خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥١ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى
 حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
 وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ
 بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ
 أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ

تعالی و بڑھ ناوت ہن آیات بیان کران توہم ای مسلمانو! اللہ تعالیٰ چھو سو زوی زانہ ون سیٹھاہ حمہ
 دل۔ وَالْعَوَامِدِ مِنَ النِّسَاءِ الْبِقِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ
 غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ بیہ مجہ زانہ یکن نہ یتھرج تہ پرئج بر انتھاہ کینہہ آسہ۔ تم چھونہ کانہہ حرج ہر گاہ
 تمہہ سترک پلو مثلاً برقعہ وغیرہ تلت پکان آسن مگر شرط چھو کہ نر اوہ ونہ آسن نہ تمہہ ہن کانہہ گہنہ وَأَنْ
 يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بیہ ہر گاہ تمہہ نشہ تہ ہتھی روزن، تی چھو تہندہ خیطرہ زیادہ
 بہتر۔ اللہ تعالیٰ چھو سو زوی بوزہ ون، سو زوی زانہ ون لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ
 حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ چھونہ انس کانہہ حرج بیہ نہ لگس کانہہ حرج، بیہ نہ بیلاس کانہہ حرج کہ
 تم کیاہ کھن غذا گاشدارن سیت، ارین انسان سیت، تندرستن سیت وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا
 مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ بیہ چھونہ توہم پانس تہ کانہہ حرج ہر گاہ تہہ کھیو ہننیو گرو منزیانہ نن
 مال ہندن گرن منز أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ
 أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ

أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ
 مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
 تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا
 فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ
 طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا
 مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ

یا پنه نین ما جن ہند یو گرو منز، یا پنه نین باین ہند یو گرو منز، یا پنه نین نین ہند یو گرو منز، یا پنه نین
 پترن ہند یو گرو منز، یا پنه نین پو پھن ہند یو گرو منز، یا پنه نین ما من ہند یو گرو منز۔ یا پنه نین ما من
 ہند یو گرو منز یا تمو گرو منز، تم ن ہنزن کو نزن ہند تہہ مالک آسو یا یازن دوستن ہند یو گرو منز
 لیس علیکم جناح ان تا کلو اجمیعاً و اشتاتاً کانہ حرج چھونہ توبہ ہر گاہ طعام کھیوان
 آسویکہ وٹہ یا الگ الگ فاذا دخلتم بیوتاً فسلّموا علی انفسکم تحیة من عند اللہ
 مبرکة طیبہ لیس بلہ تہہ ای مسلمانو نئے گرس اندر اثر تک ارادہ آسو کران، تمہ وقتہ آسو سلام
 کران پنہ نین لو کن پیٹھ۔ ساری مسلمان چھ اکوی نفس اکوی ذات ہیوسوی سلام یوسہ اللہ تعالیٰ سندہ
 طرفہ با برکت نہ رتھ سلام چھ۔ سو گو السلام علیکم کذلک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تعقلون
 تیٹھ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ گھلاو تھ نہ ویزھہ ناو تھ ہن ہدایات بیان کران، تیٹھ توبہ فکرہ تہہ نہ تہہ کرد
 عمل إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بِالْإِيمَانِ كَمَا بَدَأْتُمْ بِهِ قَوْمًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 بیہ تہندس پیٹھ برس۔ فاذا كانوا معاً على امرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذِنوه به بلہ تم
 بالایمان پیٹھ برس سیٹ تہہ تہہ کامہ خیترہ سمیت آسن تیٹھ کامہ اندر تہند جمع آسن ضروری آسہ، تم

الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۶۲﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ
الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُ عَاءٍ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ
يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

با ایمان لوک چھنہ تمہہ مجلسہ منزہ نیران توتان یوتان نہ پیغمبر برحقس اجازت چھہ ہیوان۔ اِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پزپاٹ تم لوک توہہ اجازت چھہ ہیوان
یارسول اللہ تعی کیاہ چھہ ایمان انان خداکس تہ تہندس پیغمبر برحقس حقیقتہ پاٹ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ
لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ کس یلہ تم اجازت منگان آسن توہہ یا
رسول اللہ پنہ کئہ ضروری کامہ خیترہ کس آسو تہہ اجازت دو ان تمو آندرہ کس یرشہان آسو تہ کس۔ ہیہ
آسو اللہ تعالی آس تہندہ خیترہ مغفرت مگن کیا زہ دنیاء چ کام زان تمو مقدم دچہ کامہ بیٹھہ اچ تلانی
سپدہ تہن تہندہ استغفارہ سیت۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پزپاٹ اللہ تعالی چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون،
سیٹھاہ رحم کرہ ون لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُ عَاءٍ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ای مسلمانومہ آسورسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندا دسٹن یلہ تم توہہ کئہ اسلامی ضرورتہ خیترہ جمع سپدن فرماون، معمولی
نادسٹن زانان۔ تہہ پاٹ تہہ اکھ آکس پانہ وان نادو یوان چھوہ کس تہ نہ سٹن زانہو برابر ی بلکہ چھو تہندس
نادس اجابت کرن واجب۔ یا گو معنی کہ مہ آسو خیال کران تہند دُعائے خیر کرن توہہ منز معمولی کتھاہ۔
تہہ پاٹ تہہ اکھ آکس دُعائے خیر کرن چھوہ بلکہ چھو تہندس دُعائے خیر کرکس اندر سیٹھاہ خیر و
برکت۔ تہند دُعائے جلد قبول سپدان۔ یا گو معنی کہ مہ آسو تہہ تہن آلو دو ان تہہ پاٹ تہہ پاٹ تہہ
پانہ وان اکھ آکس آلو دو ان چھوہ ناوتہہ۔ بلکہ آسو تہن آلو دو ان بچدہ رسالت، یا بچدہ نبوت۔ ونان
آسویارسول اللہ تہہ یانبی اللہ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا اللہ تعالی چھو زانان تہن

أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۳﴾ الْآنَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۶۴﴾

لو کن ہنزہ خر کریم توہم اندرہ ژورہ ژورہ ٹہزہ مجلسہ منزہ نیرنج بلا اجازت کوشش کران چھہ۔ تمن وید اللہ تعالیٰ سزا۔ یلہ یہ تھہ توہہ معلوم سپزکہ اللہ تعالیٰ اس چھو معلوم فلیحذر الذین یخالفون عن امرک ان تصیبہم فتنۃ اویصیبہم عذاب الیم ہس ٹھو ژن تم لوک تم مخالفت چھہ کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندہ حج، سمہ تھہ نیشہ کہ تمن وایتہ کاہنہ بذ آفتاہ و نیاء س اندریا وایتھہ دودوہ ون عذابہ آخرتس اندر الْآنَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وارہ یوزوتہ یاد تھا و پڑپاٹ اللہ تعالیٰ سزوی چھو تہ سزوی یہ آسمان تہ زمین اندر چھو تہ ساری پیٹھ پورہ اختیار۔ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ یقیناً چھو تہ معلوم ہند سوحال تھہ حاس پیٹھ تہ چھوہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا بیہ سمہ دوہہ تم تس کن و اتانہ ین سونہ تھہ تہ سزوی یہ تم کران اس وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو پریت چیزا ہ پور زانان۔



سُورَةُ الْفُرْقَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۱
 الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ
 لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۲
 وَاتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
 وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
 یہ قرآن مجید نیس پڑس تہ آپڑس منز فرق کرہ ون چھو پنہ نس بندہ خاص پیٹھ یعنی حضرت محمد
 پیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیٹھ سو بندہ خاص سپدہ، عالین، جن تہ انسان ہند خیرہ، کھوڑہ ناوہ ون خدلیہ
 سندہ عذابہ لغیب۔ بیہ بیم کرہ ون تمن تم نہ ایمان اُن تہ پڑھ کرن کُنس خدائس لِذَٰلِیْ لَهُ مُلْکُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نِس ذات پاکہ سنز پادشہت تہ سلطنت چھہ آسمان تہ زمین اندر وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ بیہ چھو نہ تم قرار دہمت کا نہہ اکھاہ پُن اولاد۔ بیہ چھو نہ تس کا نہہ اکھاہ
 شریک حکوتس تہ سلطنتس منز وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا بیہ تم پریت چیزہ پیدہ کور۔ توپتہ
 کورن پریت چیزک الگ الگ اندازہ۔ اکہ چیزک خاصیت کورن اکہ بیہ چیزک بیاکھ وَاتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ
 إِلَهًا پیٹھ صاحب کمال خدا آتھ ترود مثر کو تسد توحید۔ توپتہ بناو کھ تس ورا ی بے چیز پُن معبود
 تم نہ کُنہ صُور تس اندر معبود آس قابل چھہ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
 لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا تم نہ کا نہہ چیز پیدہ ہیکن کرت کیا زہ تم چھہ پانہ پیدہ کرنہ آمت۔ بیہ چھو نہ

وَلَا حَيَوةَ وَلَا نَشُورًا ﴿۳﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا
 إِفْكُ لِإِفْتِرَاءِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا
 ظُلْمًا وَزُورًا ﴿۴﴾ وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ
 تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۵﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۶﴾ وَقَالُوا

تمن اختیار پنہ نین پانن ہندہ خیطرہ مخنہ ضرر کہ تہ نقصانجہ دور کرنگ تہ کاہنہ نفعانہ تہ فاندہ حاصل
 کرنگ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نَشُورًا بیہ چھونہ تمن اختیار کانسہ ہندہ مارنگ یعنی کانسہ
 جاندارس کیا بیجہ ہن زوکڈت، نہ کانسہ ہندہ زندہ تھاونگ یعنی کانسہ بیجانس کیا بیجہ ہن جاندار بناوت
 نہ قیامت دوہ نہ مرنہ پتہ بیہ زندہ کرنگ۔ امہ سارہ گوی اختیار چھو اللہ تعالیٰ اس معبود آسنگ لوازم
 چھہ تے چیز۔ بس منز تم چیز چھہ، سوی شوہ معبود، بس منز نہ تم چیز چھہ سو چھونہ ہرگز معبود آسنگ
 قابل وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ لِإِفْتِرَاءِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ بیہ دون کافر و تہ
 مشرگو قرآن مجیدس متعلق کہ بیہ چھو بالکل اہز۔ بس تم، یعنی ام پیغمبرن پانے ٹھہر وومت چھو۔ بیہ لو کو
 اہس پیغمبرس بیہ اہز ٹھہر و بس اندر مدد کورمت۔ یعنی تمواہل کتابو تم مسلمان سپد مت آس، یا تم اہل
 کتاب یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن نغہ یوان گڑھان آس فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا بس تحقیق
 یرشہ کتھ و ننه سیت کورتمو کافرو بوڈو ظلم بیہ ووجھہ سیٹھاہ بوڈو اہز وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا
 اتھ سیت چھہ یم کافر بیہ کتھ تہ و نان کہ بیہ قرآن مجید چھو بے سند کتھ۔ مہ برو ٹھہرن لوکن نغہ نقل چھہ
 یوان کرنہ۔ یمہ لیکھنا و مژہ چھہ امی پیغمبرن عمدہ عبارتس اندر اتھ وارہ سوچتھ کتھ صحابہ صائبن ہندہ
 اتھ فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بس چھہ تے کتھ لیکھنا و نہ یوان تمن نغہ جس تہ شامس قُلْ أَنْزَلَهُ
 الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تہہ فرماؤ یو کہ یار سؤل اللہ کہ بیہ قرآن مجید کورنازل تم
 پروردگارن بس زمانان چھو ساری پوشیدہ کتھ۔ ادہ تمہ کتھ آسمانن منز آستن یا زمینن منز آستن۔ تمی

مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ فِي الْأَسْوَاقِ
 لَوْلَا أَنْزَلِ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝ أَوْ يُلْقَى
 إِلَيْهِ كَنزًا وَتَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ
 إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ
 الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝ تَبَارَكَ الَّذِي
 إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَدَّتْ تَجْرِي

سببه چھو یہ قرآن مجید فصاحت و بلاغ نس منز ممتاز۔ اتھ ہو کلام پیش کرنس اندر ھجھ جن تہ انسان عاجز۔ انھہ کلامس نسبت ھنہ ہہ ھمہ ھجھ ھہ ونہ موکھ شوہ ہہ ھتھو ہہ سخت سزا دین مگر ۱؎ اِنَّہُ كَانَ عَقُورًا ۲؎ حَمِيمًا بیشک سو ھو ھو سیٹھار ھم کر ھون سیٹھار مغفرت کر ھون۔ سو ھو ھونہ ھُر من سیتی سزا دو ان۔ مگر یہ ھم و مغفرت چھو ھنہ خاص و نفس تان۔ سو وقت گڈر تھہ بن امہ قسمچہ تھہ کرن وال غذا ھس گرفتار کرنہ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ فِي الْأَسْوَاقِ ۲؎ ھجھ ھم کافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ ونان ھہ ھمس بینبرس کیا ھ سپد، یہ ھو سانی پاٹھ غذا تہ کھیوان ھہ ھو معاٹھ انتظام کرن خیطرہ بازو منز پھیران لَوْلَا أَنْزَلِ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۳؎ ھسیت کونہ آوسوزنہ کا ھنہ ملکاہ۔ سو تہ آہہ ہا ھس سیت روزت لوکن خدایہ سندہ عذابہ نشہ کھوڑہ ناوان تہ ھم کران اَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ ۴؎ ھہ کونہ آوتراونہ ھن کا ھنہ خزناہ ھہ پیٹھ ھم خرچ آسھن کران۔ فخر معاٹھ روزہ ہانہ ضرورتھی اَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۵؎ ھہ کونہ چھو ھن سیت کا ھنہ میوہ باغاہ ھی منزہ آسھن ھم کھیوان وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۶؎ ھجھ ونان ھم ظالم کافر بالیمان، ھہ چھو ھنہ پتہ پتہ پکان مگر تھہ سی اھس شخصس ھس پیٹھ ھر تہ جو د کرنہ آمت چھو ھمہ سیت ھنہ عقل بحال ھجھ روز مثر اَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ۷؎ ھجھو تھہ پاٹھ ھم کافر تو ھہ پیٹھ عجیب عجیب مثالہ بیان کران فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۸؎ ھن ھہ پاس و تھہ راومر ھس ھنہ ھکان ھم

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۱۰ بَلْ كَذَّبُوا
 بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۱۱
 إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّطًا وَزَفِيرًا ۱۲
 وَإِذَا أَلْقَا مِنَهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَا هُنَا لِكَ
 ثُبُورًا ۱۳ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا
 كَثِيرًا ۱۴ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ

و تھ لہ تھے۔ تبارک الذیٰ ان شاء جعل لك خیرًا من ذالک جنت تجوی من تحتھا
 الأنہر عام بھہ برکت نس پروردگارہ سز سیٹھاہ تھوہ جھوہند شان۔ پس ہر گاہ سویشہ ہالہ باغ کیاہ
 ہجھ تھی بیشمارمہ خوتہ رت رت باغ گرہ ہاتوہہ عطا سمو سز جو یہ پکان آسہن و یجعل لك قصورًا
 بیہ کرہ ہاسو جھندہ خیطہ تمن باغن منز کم کہ جلیہ تہ مکان تیار مگر بعض جھن من نظر کرت یوژہ نہ تہ
 اللہ تعالیٰ ان۔ بچ آسہ ضرورت۔ تہ کیا زہ آس جھنہ مجبور سمہ کتھہ ہند کہ تیچ فرمائش کافر کرن تہ کیا
 گز و آس پورہ بک کذبوا بالساعة اصل کتھہ جھہ بیہ کہ تم کافر جھہ قیاس الہی زانان۔ تی جھہ تم
 بے فکری سبہ امہ کچھ کتھہ کران۔ یہ یوتھ یوان جھو کہ تہ جھہ ووران و اعتمدنا لمن کذب بالساعة
 سعیرًا اسہ تہ جھو تیار تھوومت قیامتہ کین مکن ہندہ خیطہ ہ زہ و ن نار۔ کیا زہ قیاس انکار کرنہ
 سیت جھو لازم یوان خدا نس تہ پیغمبر خدا نس انکار کرن۔ سو جھو اصلی سبب جھنمس اندرو استک إذا
 رااتھم من مکان بعیب سیمو الہا تغیطا و زفیرا یلہ سونارو جھہ تمن مکن دوری یوزن تم تمیک
 خشمہ ہوت گریزن بیہ تیچ نا نگہ و اذا القوا منها مکانا ضیقًا مقترنین تو پتہ یلہ تروانہ ین تم تمہ
 منزہ کئی تنگ جلیہ منزاکہ اس سیت گنڈ پھر تھ یا تھہ کھور گردنہ سیت گنڈت دعواہنالك ثبورا
 ژھانڈن پنڈہ خیطہ ہلاکت تہ موت پانس کرن لیلہ تہ افسوس لا تدعوا الیوم ثبورا واحدا و ادعوا
 ثبورا کثیرا ونہ یکھہ ای کافر واکی بھرہ مہ ژھانڈو جھہ انہنہ خیطہ ہ موت بلکہ ژھانڈو وار بیہ بھرہ

الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَاصِبًا ۝۱۵ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
 خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدٌ مَسْئُورًا ۝۱۶ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
 وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ
 عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۱۷ قَالُوا سُبْحٰنَكَ
 مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَ
 لَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا

قُلْ أَذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخٰلِدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ جہنہ فرماؤ لو کہ یا رسول اللہ ای کافر ویہ
 افسوسناک حالت چہار ژ کینہ سو ہمیشہ روز تک جنت چھو بہتر سمیک وعدہ آو کر نہ، پرہیز گارن،
 خدائس کھو ژہ ونین۔ کانت لہم جزاء و مصیبا سو جنت آسہ جہنہہ خیطرہ ر ژن عملن ہنز مزور۔ بیہ
 آسہ تمن پتولا کہ اتھہ جنتس منزواتن لہم فیہا ما یشاءون خلدین جہنہہ خیطرہ آسہ تھہ جنتس منزتہ
 سو روی بیہ تم پڑھن، ہمیشہ روزہ ون آسن تھہ جنتس منز کان علی ربک وعدا استؤلا تمن پرہیز
 گارن ہندا تھہ جنتس منزواتن چھو اکھ وعدا ہس بطور فضل و عنایت مہ چھو جہنہدس پرورد گارس پیٹھہ۔
 بیہ چھویہ وعداہ قابلہ درخواست و یوم یحشرہم و ما یعبدون و من دون اللہ بیہ پاو تمن ژتیس
 سمہ دوہہ اللہ تعالیٰ تمن سارنی کافرن بیہ جہنہدین معبودان باطن تمن ہنز پرستش تم معبود برحقس
 و رای کران آس جمع کرہ پائس برونھہ کنہہ فیقول ءانتہم اضللتہم عبادی ہولاء امہم
 ضلوا السبیل تو پتہ پر ژھہ تمن معبودان باطن کیاہ تو ہی ڈالو کہ تم میان ہندہ سیزہ و تہ نغہ۔ کنہہ تم
 ڈل پائے راہ راستہ نغہہ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لانا ان نتخذ من دونک من اولیاء تم
 دہن پرورد گارا تھہ چھو کہ منزہہ تہ پاک۔ سون کیاہ طاقت اوس آس کیاہ کرہ ہون ژہ و رای بیہ کاہنہ
 کارسازاہ مقرر۔ ادہ تم آس آسہ ہو بیہ کاہنہ یلہ آس یقین چھہ زانان کہ معبود چھو کہ ژکی یوت بیہ نہ
 کاہنہ۔ آس تھہ پاٹ ہیچہ ہو لو کن شرک امر کر تہ یا تھہ پیٹھہ رضامندی ظاہر کر تہ و لکن متعتہم

بُورًا ۱۵) فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا سَتَطِيعُونَ صَرْفًا
 وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۱۶)
 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ
 الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
 لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۱۷) وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۱۸) ع

وَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ لیکن تم سپد پائے گمراہ۔ سمو کور شکر ان نعمتہ بدل کھر ان نعمت۔
 حقیقت ہتھ پیہ کہ ژہ تلمانو تھتھ تم بیہ تھند مال بڈب مال دنیاء ک تمتح یوتان تم نفسہ چن خواہش تہ
 لذتن اندر بوڈت گئے۔ تیوت کہ چون یادی مشر وکھ وکائو قوما بورا تم سپد پائے بربادت ہلاک
 فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ای کافر و پز پات سمن معبودان باطن ہنز جہہ پر ستش کران آسوہ، تمو
 وژہ قرار ہنز ہ سارے تھہ اپزہ۔ تمو تہ کورنہ توہہہ کاہنہ مدد۔ توہہہ پیٹھ چھو کھسان پورہ پاٹ مجرم فَمَا
 سَتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا نئس ہیکو نہ جہہ پائس نثہ عذاب دور کمر تھہ نہ ہیکوہ توہہہ کاہنہ شخصہ مدد
 کمر تھہ وَمَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا بیہ نئس توہہہ اندر نافرمان یعنی مشرک آسہ
 سُوژہہ ناوون آس بوڈ عذاب وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ
 يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ بیہ تم پیغمبر اسہ سوز توہہہ برو تھہ یار رسول اللہ تم ساری آس عذابتہ کھیوان بیہ
 آس باز رومنز معاش تلاش کرنہ خیطرہ پکان تہ پھیران۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ای
 پیغمبر کریم، ای پیغمبر کریمہ سند یو تاہو تھتھہ جہہ کافر ن ہنز وکتھو سیت غمگین آسوسپدان۔ کیاژہ آسہ
 چھوہ جہہ ساری کمر مت اکھ آکھندہ خیطرہ آزمائش۔ حضرات انبیاء کمر آسہ لوکن ہندہ خیطرہ آزمائش
 کہ کم لوکھ کرن تھندس بشر آسئس کن نظر کرت تم انکار تہ کم لوکھ کرن تھندین نبوتہ کین کمالاتن
 کن نظر کرت تم ہوتہ تہ تصدیق أَتَصْبِرُونَ جہہ تہ کمر و صبر یعنی تھند گڑھہ ضرور صبر کرن وَكَانَ
 رَبُّكَ بَصِيرًا تھہ ہتھہ یقینی کہ تھند پروردگار چھو سارنی ہند حال وچھان۔ مقررہ و قس پیٹھ دیہ سو

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَلَا نَزَّلَ عَلَيْنَا
 الْمَلِيكَةَ أَوْ نُرِي رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا
 كَبِيرًا ۝۲۱ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ لَا بُشْرَىٰ لَوْمِيذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ
 يَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ۝۲۲ وَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
 فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ۝۲۳ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا
 وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝۲۴ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلِيكَةُ

تم ضرور سزا۔ لہذا کیا زہ چھوہ نہہ غم کیوان۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَلَا نَزَّلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةَ أَوْ نُرِي رَبَّنَا بیہ چھہ وان تم لو کہ تم نہ کا نہہ اندیشہ ہوا سہ برو نھہ کنہ پیش سپد نگ، تھہ مکر آسنہ موکھہ کہ اسہ پیٹھہ کونہ چھہ ملائک سوزنہ یوان تھہ نہہ تصدیقہ خیلرہ یا کونہ چھن آس تہ پن پروردگار و چھان، سؤی کرہ ہا پانہ تھہ نہس پیغمبر آس تہ تصدیق لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا تم لو کن چھہ یقیناً پنہ چاہیہ پن پان سیٹھہ ہڈ بوزنہ یوان۔ خصوصاً کوز کہ خدا ائس و چھنک، آس سیت کلامہ کر نگ تجویز پیش۔ امہ سیت درای تم لو کہ انسانیکہ حدہ نشہ سیٹھہ نمبر۔ بیہ کمر سمو ہڈ سر کشی یَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ لَا بُشْرَىٰ لَوْمِيذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وون سمہ دوہہ تم و چھن ملائک نہیب صورتن اندر مریجہ وقتن یا قیامتگ دوہہ تمہ دوہہ آس نہ کا نہہ خوشی ہنز کتھہ نصیب تم نافرمانن، ملائک یلہ و چھن عذابک سامانہ ہتھ، سیٹھہ گابرن تمہ ساتہ وَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا تھہ حالتس منز و نن تمہ ساتہ پناہ بخدا، پناہ بخدا، اسہ گوڑہ مضبوط ٹھورہ تم نغمہ حاصل سپدن (سمہ ملائک نہیکن و چھتھہ تے ہیکنہ سنا خدا ائس و چھت) وَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا بیہ سپد و آس متوجہ تم کافرن ہنز نرٹن کائین گن سمہ تم و نیاس منز کر مرہ آسن۔ نس کر و کہ تمہ عملہ چھکنہ آمر گرو ہشہ۔ کا نہہ ثوابہ آسنہ تم ہند۔ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا جنتی یمن تم کافر ٹھہ آس کران، آسن تمہ دوہہ سیٹھہ ہرت قیامگاہہ کن تہ، آرامگاہہ کن تہ

تَنْزِيلًا ۲۵) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
 الْكٰفِرِينَ عَسِيرًا ۲۶) وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ
 يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۲۷) يُؤَلِّتِي لَيْتَنِي لِمَ
 اتَّخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ۲۸) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۚ
 وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۲۹) وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ
 إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۳۰) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ

یعنی جنت آسہ تہندہ قیام کرچ جائی، آرام کرچ جائی۔ تمہہ کس رت آسہ پھونہ ونوی کینہہ۔ ویومہ
 تَشَقُّقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرُزُلُ الْمَلٰئِكَةِ تَنْزِيلًا بیہ سمہ دوہہ آسمان اکہ بدہ ابرہ سیت پھہ، بیہ بن والنہ
 سارنی آسمان ہند ملائک پتس پتہ زمینس پیٹہ بکثرت تھی وقتہ کرہ اللہ تعالیٰ حساب و کتابہ خیطرہ بن
 تجلی۔ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ تمہہ دوہہ آسہ سو زوی ملک حقیقتہ پاٹھ حضرت رحمانہ سن زوی۔
 یعنی حساب و کتاب تہ جزاء و سزاء اس منز آسہ نہ کانسہ ہند دخل۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِينَ عَسِيرًا
 بیہ آسہ سو دوہہ کافر نہ ہندہ حقہ سیٹھاہ کڈرتہ کریوٹھہ وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ بیہ ہیہ تھی دوہہ ظالم
 تہ نافرمان اتھن پنہ نین ثب یقول یلینتی اتخذت مع الرسول سبیلًا دہ تھی دوہہ ظالم، ای
 کاش کیاہ رت گزہہہ ہا میانہ حقہ ہر گاہہ رٹوہہ آسہ رسول خدا جس سیت روزت دیتھ و تھہ یؤللیت لیتنی
 لِمَ اتَّخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا افسوس، کاشخہ مہ آسہ ہانہ فلان بد یارس سیت دوستی لاجمہہ لَقَدْ أَضَلَّنِي
 عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي پز پٹ تھی کم خٹن ڈوکس یو قرآن مجیدہ کین احکامن پیٹھ عمل کرنہ نشہ،
 تم احکام مہ نشہ واتھہ۔ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا شیطان چھو انسانس عین مؤقس پیٹھ مدد
 کرنہ نشہ پتھ ثلان وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا بیہ فرماؤن تمہہ دوہہ
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ای میانہ پروردگارہ، پز پٹ میان سم قومن زون یہ قرآن مجید جس
 واجب العمل اوس، بیہوہہ کلاماہ یا رود تم امہ نشہ دور، امہ موجب کرکھ نہ کانسہ عملہا، بیہ کوزکھ بالکل

نَبِيِّ عَدُوٍّ وَمِنَ الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿۳۱﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً
 وَاحِدَةً ۗ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿۳۲﴾
 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿۳۳﴾ الَّذِينَ
 يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ
 سَبِيلًا ﴿۳۴﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ

نظر انداز، تمہ کو رکھ نہ کاہنہ التفاتہ، عمل کرو چھ تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوٍّ وَمِنَ الْمُجْرِمِينَ
 ہتھ پاٹ ایم لو کہ جھہ ٹھنڈ ڈٹمن ہتھ پاٹھ کمر اسہ نافرمانو اندرہ پر ہتھ پیغمبر سبڈ ڈٹمن، یہ نوکٹا ہ جھنہ
 کینہہ۔ تمو پیغمبر ہتھہ پاٹ صبر کور ہتھ پاٹھ کمر وٹھہ تہ صبر وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا بس چھو توہہ
 پٹن پروردگار ہدایت کرہ ون۔ کافر وچھہ ہمیشہ پیغمبرن ہنز مخالفت کمر مڑ، لہذا آگڑوہ نہ امیک کاہنہ غم
 کیون۔ اللہ تعالیٰ سمسہ حقہ ہدایت یرشہ تس کرہ ہدایت، ٹس ہدایتہ نعہ محروم روزہ توپتہ مہ سوتوہہ
 ایذا تہ تکلیف وادہ تاون۔ دوشون حان اندر چھو اللہ تعالیٰ ٹھنڈ رُت، توہہ کافی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۗ بیہ جھہ دپان کافر یہ قرآن مجید کونہ آو نازل کرنہ
 حضرت محمد ﷺ پیٹھ یکہ ونہ، اکی پھرہ کَذَلِكَ اسہ کور نازل یہ مہنہ مہ، آہتہ، آہتہ۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ
 فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ہتھہ درر او اوس امہ سمیت ٹھنڈ دل۔ امی موکھ کور قرآن مجید اسہ نازل وارہ
 وارہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا بیہ جھنہ سم ڈٹمن توہہ نعہ کاہنہ کٹھاہ یا مثالاہ
 توہہ پیٹھ یا قرآن مجیدس پیٹھ طعنہ زنی خیطرہ پیش کران۔ مگر اوس جھہ ٹھنڈہ بدل تمن کٹھن ہنڈ پوز
 جواب بیہ تمہ خونہ رت معنی بیان کمر ت توہہ نعہ واتناوان۔ یہ گو قولی جواب۔ دون ٹس عملی جواب ایہ
 دنہ تمن سوگو الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا سم گئے تے
 لوک ایم کلمہ وکر من کمر ت ہتھہ کھھرہ مان پکانانہ تہ سونبراونہ جھنڈس ٹ۔ تم آسن جاہی کن سیٹھاہ بدتر

وَزِيْرًا ۳۵ فَقُلْنَا اذْهَبْ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَذَمِّنْهُمْ
 تَدْمِيْرًا ۳۶ وَقَوْمٌ نُّوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوْا الرَّسُلَ اَعْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ
 اِيَةً ۳۷ وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۳۸ وَعَادًا وَّشَمُوْدًا وَّ
 اَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْبًا بِيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۳۹ وَكُلًّا ضَرَبْنٰ لَهُ
 الْاَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۴۰ وَلَقَدْ اَتَوْا عَلٰى الْقَرْيَةِ الَّتِي
 اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا السَّوْءَ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرْوْنَهَا بَلْ كَانُوْا لَا

و تہ کن سیٹھا ؤلمت و لَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكَلِمَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ اَخَاهُ هَارُوْنَ وَزِيْرًا تھتھق بئہ کمر آئہ عطا موسٰی
 علیہ السلام کتاب یعنی تورات۔ بیہ کمر آئہ سہو کتاب عطا کرنہ برو تھہ لوی تھہند ہارون علیہ السلام تسند
 وزیر تہ مددگار فَقُلْنَا اذْهَبْ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا تمہ پتے کور حکم آئہ تمن دو شون کہ گھو جو تھہ
 دو شوے تبلیغ و ہدایت کرنہ خیطرہ تمن لو کن ریشہ سموا پر زان سان توحیدک آیات تو پتہ گئے تم
 دو شوے صاحب، کورکھ فرعونس تہ تھندس قومس تبلیغ مگر تمومون نہ کینہہ تہ۔ قَدْ ذَمِّنْهُمْ تَدْمِيْرًا
 ادہ گال تم آسہ مولہ مونجہ۔ چنانچہ تھند غرق سپدن چھو مشهور و معروف وَقَوْمٌ نُّوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوْا الرَّسُلَ
 اَعْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اِيَةً بیہ یلہ حضرت نوحہ سد قومن انکار کر بیغمبرن آئہ پھاٹو تم آئس اندر بیہ
 بناو آئہ تم لو کن ہندہ خیطرہ اھ نشانہ بیہ گوئیئاس اندر وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا بیہ چھو آئہ
 تیار تھوومت آخر آئس اندر تمن ظالمن تہ نافرمان ہندہ خیطرہ کڈر عذاب وَعَادًا وَّشَمُوْدًا وَّاصْحٰبَ
 الرَّسِّ وَقُرُوْبًا بِيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا بیہ کور آئہ ہلاک قوم عاد، بیہ قوم شمود بیہ کیر وال (رس پتھہ ونان عربی
 پاٹ کیرس) بیہ تمن منز باگ سمہ واریاہ نافرمان اُمنو آسہ وَكُلًّا ضَرَبْنٰ لَهُ الْاَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا
 تَتْبِيْرًا بیہ کمر بیان آئہ تمن سارنی ہندہ ہدایت خیطرہ عجیب عجیب تہ موثر مضامین۔ مگر یلہ نہ تمو کینہہ
 تہ مون ادہ گال آئہ تم ساری وَلَقَدْ اَتَوْا عَلٰى الْقَرْيَةِ الَّتِي اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا السَّوْءَ پڑپاٹ بیہ پک تہ گذرے
 سم مُثْرَكِيْنَ عرب شامہ کس سفرس منز تمہ شہرہ کن تھہ منز قوم لوط بسان آس۔ تھہ شہرس اوس ناو

يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿۳۱﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا تَتَّخَذُ وَنَكَ الْأَهْزُورَ أَهَذَا
الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿۳۲﴾ إِنَّ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِ الْوَلَا
أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۳﴾ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴿۳۴﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ

”سدوم“ تمن آوٹا فرمانی ہمدہ سببہ آسمانہ طرفہ کنہہ زود کرنہ یعنی کنہہ آکھ تروانہ زودک پاٹھ آفکھ
يَكُونُوا يَرَوْنَهَا كَيَاهِ تَم مَكْبَ كَافِر چھنا و چھان تم شہر تائیکہ عبرت رنہ ن بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ
نُشُورًا عبرت نہ رنٹک وجہہ مٹھونہ یہ کہہ تم کياہ چھنہ تم شہر و چھان بلکہ چھنہ تمن مر نہ پتہ زندہ گڑھنج
کا نہہ امیداہ تہ پڑھاہ۔ کيا زہ تم چھہ آخر تِس انکار کران۔ تم کافر چھہ ایت شریکہ وَاِذَا رَأَوْكَ إِذَا
تَتَّخَذُ وَنَكَ الْأَهْزُورَ ایلہہ تم توبہہ و چھان چھہ یار سول اللہ ﷺ تمن چھنہ کا نہہ کا ماہ تمہہ ساتہ توبہہ نسبت
ٹھٹھہ کرنہ ورائے و نان چھہ تم اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کياہ یوہے شخص سوزہ اللہ تعالیٰ اَن
پینبر، یہ مٹھونہ پینبر ی لایق۔ مگر کلام تہ کھہ اکتسزہ چھہ سیٹھہ مؤثر اِن كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِ الْوَلَا
لَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا تمہہ جادو بیانی سیت اوس قریب کہ یہ ڈالہ ہا سہ پتہ نیو معبود و نشہ۔ ہر گاہ لے اَس
تمن معبودان ہنزہہ پر نشہہ پیٹھہ ثابت قدم روزہ ہو۔ پانس چھہ تم پانے زانان ہدایتس پیٹھہ۔ پینبر س چھہ
زانان ڈولت۔ اللہ تعالیٰ مٹھو فرماوان کہہ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا
برونٹھہ مکن زانن تم مر نہ پتہ ایلہہ وارہ پاٹ و چھن عذاب کہ کہہ اکھاہ اوس و تہ نشہہ ڈولت اَرَأَيْتَ مَنْ
اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ای پینبر تہہ و چھو ہز تِس شخصہ سز حالت تم پئن خدا مٹھو بنوومت پتہ نفع خواہش
اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا کياہ تہہ نلوہہ پانس پیٹھہ ذمہ داری کہہ متھنن ہوا پر ستن کياہ عمر وہ تہہ
ہدایت۔ یوسہ کھہ خواہشہ مطابق آسکھہ سو کرن قبول، یوسہ نہ خواہش موافق آسکھہ تھہ کرن رد۔ از
و چھہ اکھ کنیاہ جان مکن تہ تھہ کر کہہ پر ستن پگاہ و چھہہ بیا کہہ کنیہہ تمہہ خوتہ جان مکن تھہ ہر کہہ

أَوْ يَعْقُلُونَ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝^(۳۲)
 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ
 جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝^(۳۳) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝^(۳۴)
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ
 النَّهَارَ نُشُورًا ۝^(۳۵) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
 رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝^(۳۶) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً

پرستش گرن اَمْ تَحْسَبُ اَنْ اَكْثَرَهُمْ يَسْعَوْنَ اَوْ يَعْقِلُونَ ۚ بندہ تو بہہ چھو کہیہہ گمانہ زہ تموا ندرہ کیاہ
 بہہ زیادہ بوزان ٹہند کلام شریف یا کیا چھو کہ سو فخرہ تران کینہہ۔ سو گمانے مہ کمر و ٹہہ۔ اِنْ هُمْ اِلَّا
 كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا تم چھنہ مگر چار پاء ہی بلکہ چھہ تے چار پاء ن ہندہ خونہ بیو ڈلمت و نہ
 نَشِه اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا کیاہ ژہ وہ چھت ناای و چھونہ پنہ نس
 پروردگارہ سندس قدر تس کن کہ تھہ پاٹھ چھوز پٹھر او ان سایہ، یلہ آفتاب چھو کھسان، تمہ ساتہ چھو
 تمن سارنی چیزن ہند سایہ زیوٹھ آسان تم چیز و و تھندہ آسن۔ ہر گاہ سو ژہ ہہ ہاتھ سائس تھاوہ ہا کنسی
 جابہ ٹھہراوت تھم جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا تو پتہ کورایہ آفتاب امہ سائک ظاہری علامت۔ آفتابہ
 سیتی چھو بوزنہ یوان امہ سائک زٹھن نہ ژھون۔ آفتاب نے آسہایہ پیہ ہانہ بوزنے تھم قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا
 قَبْضًا يَسِيْرًا تو پتہ چھن اَس سو سایہ پانس کن رٹان ہنہ ہنہ۔ بالاخر چھو سو سایہ معدوم سپدان
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا بیہ گو سو پد و دگار سوئی تم رات
 کمر ٹھندہ خیطرہ پردک چیز، بیہ نیم نندر کمر راحت و آرامگ چیز۔ بیہ دوہ کور زندہ سپدنگ نہ اورہ
 یور کرہ نک وقت وَهُوَ الَّذِي اَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ بیہ گو سو پروردگار سوئی۔ نس
 واور تراوان چھو خوشخبر ہیتھ پنہ رحمتہ بروٹھ یعنی زود تراونہ بروٹھ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا بیہ
 تراوایہ آسمانکہ طرفہ آب نس پاک و صاف کرہ ون چیزہ چھو لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا بیہ اَس زندہ

مَيِّتًا وَنُفْيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا ﴿۳۹﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿۴۰﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا ﴿۴۱﴾ فَلَا تَطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿۴۲﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُورًا وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿۴۳﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا

کردن تمه آبه سیت موت زمین و نُفْيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا بیه چاود که سو آب پنه نیو مخلوق آندره واریاه چارپایه بیه واریاه انسان و لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذَكَّرُوا پزیاث اسه کور تقسیم سو آب تمن لوکن منز بقدر مصلحت بیته تم غورته فکر کرن که سم چیز چهه کانسه قدرته وال سندس اختیارس اندرئس سزوار عبادت بهو- تمسره نعره ژیتس پاوت کرن شکر گذاری قَابِیَ الْاَکْثَرِ النَّاسِ إِلَّا کُفُورًا مگر اکثر لو کو کورنه کینهته کفران نعمته ورائی و لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا بیه هر گاه آس یهوه بهو آس سوزه هون پر بیته شهرس اندر آه که پیغمبره مگر اسه سوزنه کانه پیغمبره کیازه تمه سوزده اسه یار سول الله سارئی عالمس کن صاحب قیاس تان- بیته توبه پوره امیک ثواب حاصل سپده امه نعمتگ شکرانه بهو که فَلَا تَطِيعُ الْکُفْرِیْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیْرًا نهند گوهن نه مانیه کافرن هنزه تمه- تمنز خواهش بهه که تبلیغ اسلام گوهه نه سپدنوی یا گوژه کم کم سپدن مگر تمنز ه گوهن نه مانیه تمن کافرن هنزه تمه بلکه گوهه تمن سیت امی قرآن مجیده سیت زبردست مقابله کرن وَهُوَ الَّذِی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ بیه گو سو پروردگار سوی سم مله ناؤ مختلف زه دریا هَذَا عَذْبٌ فُورًا وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ آه دریاؤک آب بهو سیطاه میو ته ته تسکین بخش- بیگ آب بهو نون سیطاه ژوش ته یو ته باوجود اختلاف ظاهری بهو به آب پنه نس حاکس بیته بیه آب پنه نس حاکس بیته وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا تمن دوآن دریاؤن منز کور الله تعالی ان آه هوراه ئس نه تمن آه اکس سیت رلنه

وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿۵۴﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿۵۵﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۵۶﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مِنْ شَاءِ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۵۷﴾

دوان چھو، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، بیہ گو سو پروردگار سُوی ہم آبِ نطفَس کور انسان پیدہ۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا، تو پتہ کورن سُو انسان خاندانہ وول۔ چنانچہ مول بُدْب و غیرہ کوشرعی خاندان، مَوج، نان و غیرہ گو عرفی خاندان۔ ہم تعلقدار چھس پیدہ سپدہ و نوئی پیدہ سپدان پتہ نیلہ اہس نیتھر کرنہ یوان چھو تمہہ سیت چھس بے رشتہ دار، ہش، ہیو ہر، ہنہر و غیرہ پیدہ سپدان یہ چھہ پروردگارہ مندہ قدرتیج دلیل تہ کہ لطفہ کیاہ چیز اوس۔ و سَن کیاہ سپد۔ لیت رشتہ تہ تعلقات سپدس پیدہ۔ بیہ چھہ یہ نعمت تہ۔ مہو تعلقا تو سیت چھو اہس انسانس معاونت تہ مدد حاصل سپدان وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ای مخاطب چون پروردگار چھو سینضاہ قدر تہ وول چھس کمالہ والس خدایہ سنزی شو بہ با عبادت تہ بندگی کرن مگر افسوس وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ سببے انسان چھہ پرستش کران معبود چھس و رای تمہی چیزن ہنز ہم نہ تمن کا نہہ نفع ہیکن و اتناوت کا نہہ ضرر وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا واقعی چھو یہ نافرمان انسان پنہ نس پروردگار س کن تھر پھر ان تہ مخالفت کران۔ سُو تراوت چھو بین ہنز پرستش کران۔ مگر تھند گڑھہ نہ اتھہ پیٹھہ یار سُول اللہ غمگین سپدن کیا زہہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اَسہ نہ حض سوزونہ تو بہہ مگر خوشخبری بوزناونہ خیطرہ با ایمان، بیم کرنہ خیطرہ کافر ن تہ نافرمان تھندہ ایمان نہ انہ سیت تہ پڑھ نہ کرنہ سیت چھو نہ تو بہہ کا نہہ نقصان لہذا کیا زہہ سپد یوتھہ غمگین قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مِنْ شَاءِ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا تہہ فرما یو کہ ای کو کو، بو چھوس نہ منگان تو بہہ اتھہ خوشخبری تہ بیم کرنس پیٹھہ کا نہہ مژوریاہ مگر یو چھوس خواہش کران کہ تو بہہ منزہ ہیہ ناکا نہہ شخصاہہ پنہ نس خدائس کن و تھہ، تھند قرب تھاندنہ خیطرہ ہیہ ہاپن،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ
 يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ۗ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلُ
 بِهِ خَيْرًا ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا
 الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۖ تَبَارَكَ الَّذِي
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۗ
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكُرْ

سنوی آس بس میان مژور و تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ یہ کمر و تہ اعتماد تہ ذکہ تہ تہ تلخچہ کلمہ
 اندر تس زندس پیٹھ نُس نہ زانہ مرہ و سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا یہ کمر و یاد تہ ہند
 پاک۔ یہ دیوس حمد۔ سو تھو پنے نین بدن ہندین گنہن ہند پور واقف تہ خبر دار ۗ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ تم پروردگارن آسمانہ تہ زمین بیہ یہ تمن منز تھو پیہ
 کور شیلن و ہن ہندس مندس اندر ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ تم پتہ سپد مستوی عرش پیٹھ تہ پٹھ پاٹھ
 تہ پٹھ پاٹھ ہندس شانس سزاوار تھو الرَّحْمَنُ فَسَأَلُ بِهِ خَيْرًا سو تھو سیٹھار حم کرہ ون۔ نُس پر تھ
 تہ شان تہ ہند کانسہ زانہ ونس سو باوی تہ تہ ہنز رحمت کا تہ تہ تھ و إِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا
 وَمَا الرَّحْمَنُ بیہ بلہ و نہ یوان تھو تمن کافر ن دیو سجدہ آس رحمتہ والس خدا نُس۔ پبان تھہ تم
 رحمان کیاہ گو أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کیاہ آس و موہ سجدہ نُس، نُس تہہ دیو سجدہ دُن۔ تمن
 تھو یہ ون زیادہ دور کران۔ یہ بوزنہ سیت چھ تمن زیادہ تھر کھسان تھر و عنادس اندر۔ تَبَارَكَ الَّذِي
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا سیٹھار ہا برکت تہ عالیشان تھو سو ذات پاک
 نیم آسمان منزہ ہا بروج پیہ کمر۔ بیہ کرن آسمان اندر آفتاب ترونگ۔ کیاہ تہہ منز تھو نور تہ، گرمی تہ

أَوْ أَرَادَ سُكُورًا ﴿۶۲﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
هُونًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا ﴿۶۳﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿۶۴﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿۶۵﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿۶۶﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿۶۷﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ

بہ کرنا زون نہ نہ کرہ ون۔ تھے منزوری یوت گرمی وراى وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً
لَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكَرَ أَوْ أَرَادَ سُكُورًا بہ گو سو پروردگار سؤى تم رات تہ دوہ کوراکھ اکرں پتہ اوہ ون تہ
گرہہ ون تمس شخصہ سندرہ فخرہ ترنہ خیطرہ ئس شخص فخرہ ترن یڑھہ یا یڑھہ اس قدر تہ وائس مُعتم
حققیس یمن نعمون پیٹھ شکر دُپن۔ امہ قسمک لوکھ گے عباد الرحمن۔ امہ پتہ چھہ تہند صفت بیان
یہ ان کرنہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًا حضرت رحمانہ سند خاص بندہ گے تھے تم
پکان چھہ زمیہ پیٹھ نرمی سان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا بہ یلہ تمن سیت جاہل تہ نادان لوک
گفتگو کرنہ لگان چھہ تم بھک پنہ طرفہ سلام کران۔ تہزن ناشایان کھن ہند چھنہ تم کاہنہ جواب
دوان وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا بہ تم رات گذاران چھہ پنہ ئس ہروردگار س ئن سجدہ
دوان تہ دو تھندہ روزان یعنی نمازہ پران، باوجود آں چھہ پروردگار س کھوژان وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ بہ تم کھوژنہ موکھ دُعا چھہ کران ای سانہ پروردگارہ دور کر اسہ نشہ
چھہ تمک عذاب إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا پنز پاٹ تمیک عذاب چھو تباہی تلہ ون، لاریت گرہہ ون
إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا پنز پاٹ سؤ جہنم چھو سیٹھاہ پچھہ جای۔ روزنہ خیطرہ بہ بسنہ خیطرہ
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا بہ تم لوک تم یلہ خرچ کران
چھہ مال پن تھے منز نہ چھہ زیادتی کران نہ چھہ کی کران بلکہ چھو تھند خرچ کران آسان تمن دون حالتن

مَعَ اللَّهِ الْهَآخِرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
 بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿۱۸﴾
 يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿۱۹﴾ الْإِمْنُ
 تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
 حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۲۰﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا
 فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿۲۱﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

منزباگ برابر برابر افراط و تفریط و راکی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ هَآخِرَ بِيَمِ عِبَادَتِهِ پُرسش
 چھنہ کران خدائس سیت بیه کانسہ معبودہ سنز وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ بیه سم
 ناحق کانسہ شخصس ماران تہ قتل چھنہ کران سمسند مارن خدائسن حرام کورمت چھو مگرے کانسہ شخصس
 تھہ مستحق آسہ سو چھہ بادشاہ وقتہ سنز کوم، عام لوکن ہنز گڑھہ نہ سو پنہ بس اٹھس منزرن۔ وَلَا
 يَزْنُونَ بیه سم زنا چھنہ کران وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا لُس اکھاہ سمہ کامہ کرہ یعنی شرک
 بخدا نہ، بیه قتل ناحق کرہ بیه زنا کرہ، پتھہ پاٹ مکک مشرک کران آس سوتلہ تمیک سزا يُضَعَفُ لَهُ
 الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا دو گنادنہ بیه تسدہ خیطرہ عذاب قیامتگ دوہ، بیه روزہ سوتھہ
 عذابس اندر ہمیشہ خوار تہ ذلیل۔ الْإِمْنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مگر سم شرک و معاصی نیشہ توبہ
 گرن، ایمان سن، توپتہ گرن رثہ عملہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ بس تمن لوکن بدلاوہ اللہ
 تعالی گناہ جہدہ نکین سیت وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالی چھو مغفرت کرہ ون۔ تمہہ موکھہ مہناون
 جہدہ گناہ۔ سیٹھاہ رحم کرہ ون تمہہ موکھہ لچھن تمن گنہو بدل نیکی۔ بیه اوس اوتان تمن لوکن ہندہ خیطرہ سم
 گھرہ نیشہ توبہ کرن۔ امہ پنہ چھو اللہ تعالی فرماوان سم با ایمان گنہو نیشہ توبہ کرن جہدہ حال وَمَنْ تَابَ
 وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا بیه بس با ایمان گنہو نیشہ توبہ کرہ، خدائسن کن رجوع کمرت
 رثہ عملہ گرہ یعنی آئندہ روزہ گنہو نیشہ چھہ، سوتہ روزہ عذابہ نیشہ محفوظ۔ کیا زہ سوتھہ شخصس چھو پھیران،

إِذْ أَمَرُوا بِاللَّغْوِمْرُ وَإِكْرَامًا ﴿۴۲﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ
يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعَيْبَانًا ﴿۴۳﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۴۴﴾
أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِصَابِرٍ وَأُولَئِكَ يَلْقَوْنَ فِيهَا حَبِيبَةً وَسَلَامًا ﴿۴۵﴾

مُتَّوَجِّهِينَ سِدِّ انْ خَدَائِسِ كُنْ - خاص طریقہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ بِیہ اسم شامل ہے نہ ہونے پر سید ان پرین سے
یہ ہودہ معاملن سے کتنی اندر یعنی تم نہ اپز و نان چہہ - نہ اپز گواہی دو ان چہہ چکن - نہ ہو العجب سے خلاف
شرع مجلس منگروہان چہہ وَإِذْ أَمَرُوا بِاللَّغْوِمْرُ وَإِكْرَامًا بِیہ اسم اتفاقاً، بلا قصد، ہوا و لعب، فضول کامیو
کن گڈران چہہ تمہ سائے چہہ گڈران شریفانہ طریقس منرتو کن التفات سے خواہش کرنے و رای۔ وَالَّذِينَ
إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعَيْبَانًا بِیہ یلہ تمن پنہ نس پروردگارہ سند یو آیا توسیت
نصحت کرنے یوان چہہ تمہ سائے چہہ تم زرہ آن ہی دس بیوان بلکہ چہہ بگوش و ہوش وارہ بوزان
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةَ أَعْيُنٍ بِیہ ہتھ پاتھ تم پانہ وان اسلامک
شیدائی چہہ ہتھ پاتھ چہہ یرھان سان خرباژتہ گڈہہ دینک عاشق بن۔ چنانچہ دعا چہہ منگان ای سانہ
پروردگارہ عطا کر اسہ بیہ پنہ نین زنان ہندہ طرفہ سے اولاد ان ہندہ طرفہ سو چیز سمہ سیت سانہ آہہ
تہلن سے قرار رن یعنی تم سے کر مچھ دیندار، عبادت گزار تمامہ سانہ آہہ شہلن تم و ہتھت وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا بِیہ کرتہ اسہ پرہیز گارن ہند زہہ۔ یو یلہ پنہ گرک زہہ کورھس میانہ گرک باژ
کر مچھ متھی سے پرہیز گار بوسپدہ پایائے متقین ہند امام سے زہہ۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِصَابِرٍ وَأُولَئِكَ يَلْقَوْنَ
فِيهَا حَبِيبَةً وَسَلَامًا یعنی لوکن بیہ مزدور نہ جنگ تھہ بگلہ۔ دنیاءس اندردین و اطاعتس پیٹھ صبر کر نس
سے ثابت قدم روز نس بدل بیہ آسکھ تمن جتن منر ملاکن ہندہ طرفہ تعظیم سے سلامہ کرنے یوان
خُلْدِينَ فِيهَا تمنی جتن اندر روزن تم ہمیشہ حَسَنَاتٍ مُسْتَقَرًّا وَأَمْقَامًا کیاہ رژ جایاہ ہتھ جنت روزنہ

خَلِيدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا أَوْ مَقَامًا ﴿٦٦﴾ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ
رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٦٧﴾

خیطرہ سے بسنے خیطرہ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ تمہہ فرما دو عام سارنی لوکن گن یار سؤل اللہ
میون پروردگارہ کرہ نہ کنہہ قسمہ کابنہ پرواہر گاہ تمہہ تسنن عبادت کرونہ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بتھیق توہمہ کور وہ
احکام البین تم اہر زانت انکار فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا وون وجھو بروٹھہ کن، سوا انکار تمہندیہ توہمہ
زنگن وکنہ یعنی تمیک سزاییہ توہمہ ضرور دنہ۔



سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 طَسَّ ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ ② لَعَلَّكَ بَآخِعٌ
 نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ③ إِنَّ نَسْأَنزِلُ عَلَيْهِمْ
 مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ④
 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ
 مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مِمَّا كَانُوا بِهِ

طَسَّ تم چهہ حروف مقطعات تمن ہند معنی زلزلہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ تم مضامین تم توہمہ پیٹھ نازل سپدان چھہ، تم چهہ آیات تمہ کتابہ ہند یوسہ سوڑوی نراوہ وان چھہ، پوز کیاہ چھو اپز کیاہ چھو۔ تم لوک تم پڑھ چھہ کران، متہ کترن۔ تہہ کیازہ چھوہ یوت غمگین سپدان لَعَلَّكَ بَآخِعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ شائد تہہ ماتراویون ہر تہہ پن پان سمہ غمہ سیت کہہ کونہ چھہ ایمان اتان چھہ قرآن مجیدس۔ تہہ مہ ہر کھویو امیک غم ان نَسْأَنزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ہر گاہ آس یزھو تم کرو کہ جبراً مسلمان چھہ پاٹ کہہ آس سوڑو تم پیٹھ آسماچہ طرفہ اکھ نشانہہ سمہ سیت تم اختیارے سلب سپدہ۔ تہزہ گردنہ تمن ہون گن۔ چارہ لکھنہ نہ کینہہ تہ ایمان اندہ وراہی۔ مگر آس گرونہ تہ۔ کیازہ تہ کرنہ سیت چھونہ آزما نیش تہ امتحان باقی روزان مگر تمن ہنز حالت چھہ کہہ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ چھہ واتان تمن نشہ حضرت رحمانہ سدہ طرفہ کاہنہ نصیحتاہ و عطاہ، نووت تازہ مگر تم چھہ تمہ نشہ تہہ پھر ان فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مِمَّا كَانُوا بِهِ یستہزؤون چنانچہ یوت پیٹھ واژہ نوبت کہہ سمووون قرآن مجید چھو اپز لیس اعراضگ ہیر سم درجہ چھو۔ اتھ گن نظر کرت ووتھ یہ

يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
 ذَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ
 أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا وَمَا نَحْنُ
 بِمُعَذَّبِينَ ﴿١١﴾ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
 فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾

پھو پڑ۔ امہ علاوہ کمر کہ اتھ قرآن مجیدس ٹھٹھ۔ وواں ولتہ تمن نشہ خبر تمہہ ^{حقیق} یتھ سم ٹھٹھ
 کران آس یلہ غدائس گر فٹاگر دھن اولم یروالی الارض کم انبتنا فیہا من کل ذوج کریمو کیاہ
 سموو چھنایت زمینس کن کہ کاتیاہ رتین رتین کلین ہند قسم کھا راسہ امہ زمینہ منزہ ^ع ان فی ذلک لآیۃ
 بیشک چھہ اتھ منزسانہ قدر تک نشانہ ^ع وماکان اکثرہم مؤمنین مگر سمو اندرہ چھہ اکثر سم نہ پڑھی
 کران چھہ ^ع وان ربک لہو العزیز الرحیم پڑ پاٹ ٹھند پروردگار چھو سیٹھاہ غالب سیٹھاہ رحمتہ وول
 واڈ نادای ربک موسیٰ سم کن لوکن فرماو دمہ وٹیک قصہ یتھ تم عبرت رٹن۔ یئلہ آلو دیت ٹھند
 پروردگار کن موسیٰ کلیم اللہس ان انت القوم الظالمین کہ تبلیغ کرنہ گڑھونا فرمان قومس قوم فرعون
 یعنی فرعونہ سندس قومس الایقون کیاہ کھوژان چھنا تم سانس قہرس تہ غضبس۔ کیاہ چھہ روزن
 ناتم سانہ نافرمانی نشہ ^ع قال رب انی اخاف ان یکذبون حضرت موسیٰ ان دوپ خدایا بو چھوس گڑھنہ
 خیطرہ تیار مگر بیم چھم زہ تم مازان مہ اپز یور ویضیق صدری سمہ سیت سپدہ ننگ دل میون ولا
 یطلق لسانی مہ پھورہ نہ زیوہ کہنی ^ع فارسل الی ہارون پس سوز کھناژہ وحی میانس برادر ہارونس۔
 سوتہ کرہ من پیغمبر تو پتہ پچہ ہاسوتہ مہ سیت۔ ہر گاہ تم ایز یور زانہ من سو کرہ ہامہ تصدیق ^ع ولہم علی
 ذنوب فآخاف ان یقتلون بیہ چھومہ بیاکہ عرض کہ مہ پیٹھ چھو ٹھند اکہ جرماہ۔ مہ چھو خطرہ گڑھان
 تمہہ موکھ مازن تم مہ ^ع قال کلاک اللہ تعالیٰ ان فر موسس تہ بنہ نہ ہرگز۔ ژہ نیکی نہ اتھ لاگت کاہنہ۔

قَالَ كَلَّا، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿۱۵﴾ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ
 فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۷﴾
 قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكُنِي فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿۱۸﴾
 وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ فَعَلْتُمَا
 إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۲۰﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي
 رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۱﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ

اسہ کمر عطا ہارون علیہ السلامس پیغمبری فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ پس گدھو توہیہ دوشوے
 میان آیات یتھہ آس تہ ہجھہ نصرت و امداد کرنہ خیطرہ توہیہ۔ سیت بوزان تھند گفتگو فَايَاتِيَا فِرْعَوْنَ
 فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تہس و اتو تہجہ دوشوے فرعونس نشہ۔ توپتہ ڈیوس اس دوشوے
 ہجھہ ژہ گن پیغمبر پروردگار عالیہ سیدہ طرفہ دعوت توحیدس سیت یہ حکم یتھہ آمت کہ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا
 بَنِي إِسْرَائِيلَ آزاد کرکھ ژہ بنی اسرائیل ظلمہ نشہ بیہ دہ ژہ تمن اصلی وطن شامس گن اسہ سیت
 گدھنہ۔ تم دوشوے گئے فرعونس نشہ۔ تہس و اتو تھک یہ پیغام۔ فرعون بوزہ یہ سارے تھہ توپتہ
 ووتھ موسیٰ علیہ السلامس گن اوڈہ ہو۔ تہجہ چھوہ حض آمت۔ قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكُنِي فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا
 مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ فرعونس دو تہس ژہ ماچھک سوی تہس اسہ زیوہ ونہ پانہ پیٹھ پرورش کمر مرچھہ۔ بیہ
 رُوڈکھ ژہ اسہ نش پنہ عمرہ ہندین واریمین ڈرہن وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ بیہ
 کورت ژہ سو مجرم تہس ژہ کورتھ (یعنی اکھ قبطی، سانہ قومگ اکھ شخص مور تھن) بیہ چھکھ ژہ توپتہ تہ
 تھر ان نعمت کرہ و نیو آندرہ سان احسانات چھی نہ یادے۔ بیہ چھو کھ از آمت مہ پن تابع بناونہ خیطرہ
 قَالَ فَعَلْتُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ موسیٰ علیہ السلامن دوشوے واقعی مہ کمر سو حرکت، مہ گدیہ سو
 غلطی۔ عمد اکورنہ مہ سو شخص قتل بلکہ کریومہ تہس تہزہ غلطی پیٹھ تہنہہ مگر سو مود تھی سیت۔ قصد
 مورنہ مہ سو فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ توپتہ یلہ توہیہ

۲۲) **أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ** ۲۳) **قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ** ۲۴)
قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۲۵)
قَالَ لَيْسَ حَوْلَهُ إِلَهٌ مَعَهُ ۲۶) **قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ**
الْأَوَّلِينَ ۲۷) **قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ** ۲۸)
قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

کھوٹس بوٹو کس توہمہ نشہ۔ جس کمر مہ عطا بن پروردگار ن عقل، علم تہ دانشمندی ہیہ کورٹس بو پیغمبر و
 آندرہ **وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ** کیا ہیہ چھا کا نہہ نعمتھاہ سمیک ژہ مہ پیٹھ احسان
 چھو کہ تھاوان کہ میون قوم بنی اسرائیل بنو تھن ژہ پٹن غلام۔ تم تھاو تھکھ ژہ بدس ذلتس تہ طلّس
 آندر۔ تھندین لوکین اوسکھ ماران۔ تمی موکھ ترودس بو صندوقس منز دریاؤس آندر۔ ژہ برو تھکن یلہ
 بو پوکس ژہ کھور تھس بو تہ پتہ کمر تھم پرورش۔ امہ پرورشہ ہند اصلی وجہ چھو چون ظلم۔ امہ پرورشہ
 ہند کیاہ چھو کہ ژہ مہ پیٹھ احسان تھاوان۔ بلکہ پڑہ ہی ژہ پنہ نین ناشائستہ حرکاتن تہ کچھ کائین پیٹھ نام
 تہ پشیمان سپدن۔ چھہ خبر کا تیاہ لوکھ مار تھکھ ژہ کوتاہ خون ناحق کوز تھ ژہ **قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ**
الْعَالَمِينَ کتھ ڈالتھ وون فرعون سورب العالمین ہمہ گوی۔ سمندہ طرفہ تھہ سوزنہ آمت چھوہ **قَالَ**
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ موسیٰ علیہ السلام و دھس سوگو آسمان تہ زمین ہیہ
 تمہ سارگوی پروردگار ہیہ تمن منز باگ چھو۔ ہر گاہ توہمہ یقین کرن چھوہ تیلہ چھوہ کافی پتہ رب العالمینہ
سُئِدَ قَالَ لَيْسَ حَوْلَهُ إِلَهٌ مَعَهُ فرعون لوگ و منہ تمن لوکن تم تھس لہد پک آس بہت چھوہ نا بو زان
 ہیہ شخص کیاہ چھو میانہ سوالک جواب و نان۔ میون سوال چھو کیاہ تال، جواب چھو کیاہ تال۔ **قَالَ**
رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ موسیٰ علیہ السلام و دھس سو چھو تھند تہ ہیہ تھندین مالین بڈین ہند
 پروردگار۔ **قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ** فرعون لوگ دہنہ پنہ نین حاشیہ نشین کن
 طعنہ ووان کہ ہیہ تھند پیغمبر کس توہمہ کن سوزنہ آمت چھوہ چھو پنز پاٹ موت تہ دیوانہ **قَالَ رَبُّ**

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذَتِ الْهَاطِئِرِيُّ لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ①
 قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ② قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصّٰدِقِينَ ③ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ④ وَنَزَعْنَا
 مِنْهَا آيَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا وَنَزَعْنَا مِنْهَا آيَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُتْلَىٰ
 عَلَيْهِمْ ⑤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ رَبِّي لَأَتِيكُمْ بِالْحَيَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنِّي أَنظِرُكُمْ لِهَا وَلِيُؤْمِنُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ⑥

المشرق والمغرب وما بينهما إن كنت تعلمون موسى عليه السلام دوہس سو چھو مشرق و مغرب یہ
 تمہ سارکوی یہ تھہ در میان چھو پروردگار۔ ہر گاہ توہم عقل چھہ۔ تمی عقلہ سیت ماہویہ تھہ قال لئن
 اتخذت الہاطئری لاجعلنک من المسجونین فرعون و توہہ موسی علیہ السلام کن ہر گاہ تہمہ و رای
 بیا کہ معبوداہ ٹھہراوہ کن تیلہ سوزت بوڑہ قید خاس اندر۔ تمسند قید خانہ اوس سیٹھاہ مشکل۔ زمینس
 منز اوس اکہ سرون چھاک۔ تھہ منز آس دوان بز تھہ قیدس۔ تہہ اوس سو مڑ تھہ کھارنہ یوان قال
 اولو جئتک بشی مبین موسی علیہ السلام دوہس کیاہ بوئے تہ پنہ نس نبوتس پیٹھ من دلیل پیش گرہ
 توہہ تھو کھ تہ مہ قید خاس منز قال فأت به ان کنت من الصديقین فرعون دو چھہ ہر گاہ تہمہ
 پوزونہ و نیواندرہ چھوہ کمر و تیلہ دلیل پیش قال فآلی عصاه فاذا هی ثعبان مبین آتی تراو کہ پن لورہ کن
 چھہ۔ یکدم سپد تھہ وارہ کارہ بوڑاژدہا۔ و نزعنا فیہ آیة لِّلَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا وَنَزَعْنَا مِنْهَا آيَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُتْلَىٰ
 عَلَيْهِمْ ⑤ آتی آوسو بوزنہ سارنی و چھہ و نین نہ نہ کرہ ون۔ لوک تھارے تہ تزل قال لئلا حولہ ان هذا
 لسنجر علیکم فرعون لوگ و نہہ پنہ نین حاشیہ نشین، اہل دربارن، بیشک یہ چھو ضرور سیٹھاہ ماہر ساجر
 یؤید ان یخرجکم من ارضکم بسحر فاذا تأمرون تمسند ارادہ چھو کہ تہمہ کڈوہ یہ پنہ وطنہ منزہ نس کیاہ
 چھو تہمہ مشورہ قالوا ارجیہ و آخاہ و ابعث فی المداین حیرین تمسند و پھل مہلت و تہ آس یعنی موسی
 علیہ السلام یہ امسندس باہس۔ بہندس مارنس یا قید کرنس اندر مہ کر تہ جلدی۔ تہ سوزن پنہ نین

سَحَّارٍ عَلَيْهِمْ ۞ فَجَمِيعَ السَّحَرَةِ لِبَيْقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۞ وَقِيلَ
 لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ
 كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا
 لِنَأْتِيكَ بِآيَاتٍ لِّمَنْ هُنَّ الْغَالِبِينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَلبِئْسَ
 الْمُتَقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۞
 فَالْقَوَائِبَ لَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بَعْزَةٌ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ
 الْغَالِبُونَ ۞ فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞

مملکت کین مختلف شهرن گن اک جماعتها سم ساحرن ته جادوگرن سونبرن ته جمع گرن یا تُو اُو بَحْل
 سَحَّارٍ عَلَيْهِمْ تم و اتانون زه نسه ساری مملکت ساحر ته جادوگر فَجَمِيعَ السَّحَرَةِ لِبَيْقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ تو
 پته آی سونبرنه ساری جادوگر تمه دوهه کس و قس پیچه ئس مقرر کر نه اوس آنته۔ سوگو کاجک وقت۔
 ۱۰ محرم روز عاشورائس تحن یوم الزیته، عید بند دوهه اوس وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ بیه آوونه
 مبصره کین لوکن فرعونه سنده طرفه کیاه نهبه ته سپد یوه جمع اتھ جمعس سیت لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ
 كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ بیته آس فیصله کمرت جادوگرن هنز پیروی گرو۔ هر گاه آس غالب سپد فَلَمَّا جَاءَ
 السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اده یله ساحر آی تم لگ ونه فرعونس۔ اِنَّا لِنَأْتِيكَ بِآيَاتٍ لِّمَنْ هُنَّ الْغَالِبِينَ
 کیاه اسه میلیا ضرور مزور ته انعام هر گاه آس غالب سپدو قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَلبِئْسَ الْمُتَقَرَّبِينَ فرعون
 دوکبه آه مزور، بیه سپد نهبه میانو مقرر بو آندره قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ حضرت موسی
 آن دوپ تمن ساحرن تراو و کیاه نهجه تر اون فالقَوَائِبَ لَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بَعْزَةٌ فِرْعَوْنَ إِنَّا
 لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ توپته تراوه تمو پهنه زه ته پهنه لوره۔ سمه جاده که اثره سیت سرف ہی معلوم سپدان
 آس۔ بیه لگ پهنه فرعونه سنده اقبالک نهجوم قسم که آس چهر زورس منز۔ فتح آسه سانی فَالْقَى مُوسَى

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سِجْدِينَ ﴿۳۷﴾ قَالُوا مَنَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾ رَبِّ مُوسَى
 وَهَارُونَ ﴿۳۹﴾ قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنٰ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
 عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَا قَطِيعَٰنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
 مِّنْ خَلَاFٍ وَلَا وَصَلِبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۰﴾ قَالُوا الْأَضْيَارُ إِنَّا إِلَى
 رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۴۱﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۲﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ۖ إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿۴۳﴾

عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ توپتہ تروو موسیٰ علیہ السلامن پٹن عصا حکم خدا۔ اتی ہیوت تم
 تراوان تراوانی نیجھہ لاؤن تہ سو زوی یہ تموتیار کورمت اوس فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سِجْدِينَ یہ وہچھتہ پئے
 جادوگر و سٹھ سجدہ کس حاکس اندر قَالُوا مَنَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ دینہ لگب اسہ کمر پڑھ رب العالمینس۔
 فرعونن دوپگ یہ ہٹھو توہمہ میوئی ونان تمودوئس رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ حضرت موسیٰ تہ حضرت
 ہارونہ سندس پروردگارس قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنٰ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
 فرعونن دوپگھ توہمہ ہٹھوہ پڑھ کمر حضرت موسیٰ اس میانہ حکم دنہ بروئس۔ پز پات یہ ہٹھو ٹھند
 بوڈسار۔ سم ٹہمہ تہ پچھہ نامت ہٹھوہ بجر۔ وؤن سپدہ توہمہ معلوم توہمہ کیاہ بنوہ لَا قَطِيعَٰنَ أَيْدِيكُمْ
 وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلَاFٍ وَلَا وَصَلِبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ بوڑٹ ٹھند اتھہ تہ کھور پھرت یعنی دچھٹن اتھہ تہ
 کھور کھسور۔ یہہ دموہ وہ ٹہمہ ساری پھہہ قَالُوا الْأَضْيَارُ تموساچر و دوئس اسہ ہٹھونہ تھہ اندر کاہنہ
 نقصان تہ ضرر إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ اس چھہ بیشک پنہ نس پروردگارس نشہ وائونن إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ
 يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ اس چھہ یقینا امید تھاوان کہہ اسہ کرہ مغفرت پروردگارسون،
 سائین سارنی گنہن۔ کیا زہ اس چھہ گوڈکی پڑھ کرہ ون اس معبود برہٹس۔ فرعونہ سدہ جماعتہ منزہ
 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ۖ إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ توپتہ سوز اسہ حکم موسیٰ علیہ السلامس کہ نیرورات
 گیت میان بندہ ہٹھہ یعنی بنی اسرائیل۔ پز پات توہمہ یہہ پترہ دورنہ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ

فَارْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۵۳﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ
 قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِنَّهُمْ لِنَالِغَائِظُونَ ﴿۵۵﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ ﴿۵۶﴾
 فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَدَّتِ وَعَيُونٍ ﴿۵۷﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۵۸﴾ كَذَلِكَ
 وَأُورَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۵۹﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ
 الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ الْمَدْرُكُونَ ﴿۶۱﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ
 رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۶۲﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

حاشِرین توپتہ سوز فرعون شہر نہ گام نہ کن اکہ جماعتھا لو کہ سویر نہ خیطرہ تے تھے فوجس منز بھرتی
 کرنہ خیطرہ۔ زبان اوسکھہ اِن هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ * وَإِنَّهُمْ لِنَالِغَائِظُونَ یہ موسی علیہ السلامہ سنز
 جماعت پچھہ سانین لو کن نسبت سیٹھاہ کم جماعتھاہ تھے پچھہ اسیہ تنگ کران اِن تھ کہھاران۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ
 حَازِرُونَ بیہ پچھہ اسی ساری سلاح سامانہ پیرت اکہ فوجاہ اللہ تعالیٰ فرماوان فَأَخْرَجْنَاهُمْ کس کھڑا اسیہ
 تم یعنی فرعون تے تہنزہ لشکر مِّنْ جَدَّتِ وَعَيُونٍ گمو گمو باغوتہ ناگہ رادو منزہ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
 بیہ گمو گمو خزاؤو منزہ بیہ نفیس نفیس لریو جالو اندرہ كَذَلِكَ اکہ گویہ وَأُورَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بیہ بناؤ
 تمن لرین جاین تے باغن ہند مالک بنی اسرائیل فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ چنانچہ فرعون تے تمسنز جماعت
 تے لشکر دورے یہ تمن پتہ توپتہ وات تمن نشہ آفتاب کھسحہ وقتہ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ توپتہ بلہ
 دوشون جماژن اکہ اکی پیٹھہ نظر بیہ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ الْمَدْرُكُونَ بیہ لگ موسی علیہ السلامہ سہ
 لو کہ اسی آی تھندس اٹھس اندروون کیاہ بیہ قَالَ كَلَّا موسی علیہ السلامن دوپھ تے بیہ نہ ہر گز کھنہ
 صورتس اندر۔ اسیہ بیکن نہ تم ہر گز رٹھہ اِن مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ پز پاٹ مہ سیت پھو میون پروردگار
 سواہو مہ امہ دریاوہ اندرہ نیر بچو تھہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ کس سوز اسیہ حکم
 موسی علیہ السلامس کہ تھہ لایوہ لورہ سیت دریاوہ کس اسیہ تھنڈ۔ اتی لای تموتھ تھنڈ دریاوس فَانْفَلَقَ فَكَانَ
 كُلُّ فِرْقٍ كَالظُّلُمِ الْعَظِيمِ اتی سپد دریاوس باہ حصہ۔ پریتھہ حصاہ اوس یوڈ بوڈ کوہا بیو۔ وَأَرْزَلْنَا

فَانْفَقَتْ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۗ (۴۳) وَأَرْفَعْنَا قُرُونَهُمُ الْآخِرِينَ ۗ (۴۴)
 وَأَجْبَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۗ (۴۵) ثُمَّ آغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ۗ (۴۶)
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ (۴۷) وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۗ (۴۸) وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۗ (۴۹) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
 وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۗ (۵۰) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَظِيمِينَ ۗ (۵۱)
 قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۗ (۵۲) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ۗ (۵۳)
 قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۗ (۵۴) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا

الْآخِرِينَ توپتے وائے ناواسہ بچھ تو مٹھی بیاکھ جماعت یعنی فرعون تہ تہز لشکر وَأَجْبَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ
 أَجْمَعِينَ بیہ ڈیت اسہ نجات موسیٰ علیہ السلام تہ بیہ تم تمن سیت آس تمن ساری کُمَا آغْرَقْنَا
 الْآخِرِينَ توپتے پھاٹواسہ دو تم جماعت یعنی فرعون تہ تہز لشکر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً پز پاپاٹ اتھ منز
 ہجو خدا یہ سندہ فڈر تک بوڈ نشانہ تھہ پاپاٹ گو غرق فرعون تہ تہز جماعت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ
 آسنہ تموزہ زیادہ با ایمان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک تھند پروردگاری ہجو سیٹھاہ رحمتہ
 وول، سیٹھاہ غالب گرفتار چھونہ کران مگر پن دلیل تہ بخت پورہ کتر تھ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ بیہ
 بوزہ ناوٹو کہ حض تم کافر حضرت ابراہیمہ سند قصہ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ یلہ تمودوپ پنہ
 نس ماس بیہ پنہ نس قوس بیہ کتھ چھوہ تھہ پرستش کران قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَظِيمِينَ تموزہ
 دوپس آس چھہ عبادت کران پوتلین ہنز توپتے چھہ تمنی بروٹھ کنہ عبادتس منز دوہ گڈاران قَالَ هَلْ
 يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ابراہیم علیہ السلام دوچھہ کیاہ تم چھا تھند بوزان ییلہ تھہ تمن کینہہ منگان
 چھوہ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ کیاہ بیہ چھا تم توہہ پرستش کر نس پیٹھ کاہنہ نفاعا وائے ناوان یا پرستش نہ
 کر نس پیٹھ کاہنہ ضرراہ وائے ناوان۔ تمودوپک یہ کتھہ بھنہ کہ یم کیاہ چھہ کینہ بوزان۔ یا نفع تہ ضرر

كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۵۵﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿۵۶﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ
 لِيَ الْآرَبِ الْعَلِيِّنِ ﴿۵۷﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿۵۸﴾ وَ
 الَّذِي هُوَ يَطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿۵۹﴾ وَإِذَا أَمَرْتُمْ فهُوَ يَشْفِينِ ﴿۶۰﴾
 وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿۶۱﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِيَ
 خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿۶۲﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿۶۳﴾
 وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿۶۴﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ

واتناوان۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکہ وہ چھہ اسہ پن مال بدبب تھے باطنہ تمن پر ستن
 کران قال افریتم ما كنتم تعبدون * انتم و اباؤكم الاقدمون ابراہیم علیہ السلامن دو گچھ تہہ و چھوہ
 تمن ہنز حالت بغور تمن تہہ پر ستن کران چھوہ بیہ تمن ہنز پر ستن تہند مال بدبب کران آس۔ تم
 ماچھہ کنہ نفع و ضررک اختیارہ وال فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ الْآرَبِ الْعَلِيِّنِ بیشک ہم معبودان باطل ہچھہ
 میانہ حقہ باعث ضرر تہ نقصان۔ تہندہ حقہ تہ چھہ تم باعث ضرر تہ نقصان۔ غرض تہنز عبادت ہس
 کرہ تسندہ حقہ چھہ تم باعث ضرر مگر نہ عالمین ہند پروردگار۔ سو چھوہ پنہ نین عبادت کرہ و نین ہند
 دوست۔ تہنز عبادت کران چھہ باعث نفع تہ فاسیدہ۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ہم یو پیدہ کورس
 بیہ ہم ساری پیدہ کورسوی چھوہ میانین مصلحتن کن و تھہ ہاوان وَالَّذِي هُوَ يَطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ بیہ ہس
 مہ کھیوان تہ چاوان چھوہ وَإِذَا أَمَرْتُمْ فَهُوَ يَشْفِينِ بیہ یلہ یو بیمار بیوان چھوس سوی چھم ہراوان تہ
 شفا ووان وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ بیہ ہس مہ ہمہ دوہنہ مارہ تو پتہ کریم دوبارہ بیہ زندہ قیامتگ دوہ
 وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِيَ خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ بیہ چھہ تمسنز مہ سیٹھاہ امید کہ سو کرہ مہ مغفرت
 میانین گو نہن قیامتہ کہ دوہنہ۔ ہم صفات و کمال خدایہ سند بیان کران کران سپد ابراہیم علیہ السلامس
 حضورک مقامہ حاصل تو پتہ ہیو گچھہ مناجات کران رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ای میانہ
 پروردگارہ عطا کر مہ کمال علم بیہ کمال عمل۔ بیہ ملنا و مہ قر بہ کن تہندین مقامس اندر۔ نیو کار ہندن

وَرَثَةَ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝۸۵ وَأَعْفِرْ لِي رَبِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۸۶
 وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝۸۷ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝۸۸ إِلَّا
 مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝۸۹ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝۹۰
 وَبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۝۹۱ وَقِيلَ لَهُمْ أَيُّكُمْ تَعْبُدُونَ ۝۹۲
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝۹۳ فَلَئِبَكُوا بِهَا
 هُمُ وَالْغَاوُونَ ۝۹۴ وَجُنُودُ إبْلِيسَ اجْمَعُونَ ۝۹۵ قَالُوا وَهْمٌ فِيهَا

سیت، عالیشان انبیاءان سیت و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین یہ تھا میوں ذکر خیر پتہ اوہ
 وین اندر سٹھ تم میان متابعت کرن، میانی و تہ یکن۔ مہ بہ تمہ سیت زیادہ ثواب و اجعلنی من ورثة
 جنة النعيم یہ کرمہ نعمت کین جنن ہندیوار تو اندرہ و اعفیر لی ربی انہ کان من الصالحین یہ
 کر مغفرت میانس ماس ایما تک توفیق دت کیاز سو چھو بیشک گر ہو اندرہ و لا تخزنی یوم یبعثون
 یہ مہ مندہ چھادمہ قیامتیکہ دوہہ سمہ دوہہ ساری یلن یہ زندہ کمرت قبر و منزہ ٹلنہ۔ تمہ دوہے مول میوں
 کافرن سیت دو تھہ، جہنم سوزنہ یہ سو چھ میانہ خیرہ سخت بے عربتی یوم لا یفعم مال و لا بنون
 سمہ دوہہ نہ کا نہہ نفع تہ فاسیدہ دیہ نہ مال تہ نہ خرخرہ إلا من آتی اللہ بقلب سلیمہ مگر فاندہ بہ تس
 یس بیتھ یہ اللہ تعالیٰ اس بروٹھ کن اور دلاہ، یس دل، شر کہ نشہ، کھرہ نشہ، نفاقہ نشہ تہ خلاف شرع
 بچھ عقاید و نشہ پاک آسہ و ازلفت الجنة للمتقین یہ سمہ دوہہ بچھ یہ انہ جنت پر ہیز گارن نشہ
 و برزت الجحیم للغوایین یہ سمہ دوہہ نیر کڈنہ یہ جہنم کمر ہن تہ کافرن ہندہ خیرہ و قیل لہم ایما
 کتہم تعبدون * من دون اللہ یہ ایہ و نہہ تمن کتہ چھوہ تم معبودان باطل سمن ہنز تہہ پرستش کران
 آسوہ خدا یس و رای هل یصرونکم اوینتصرون کیاہ تم ہیچہ توہہ از کینہہ مدد کمر تھہ یا توہہ سیت
 روتت یا یاس ہیچہ کا نہہ فاندہ او اتاوا تھہ، یکن پان ہیچہ بچاوت فلبکوا فیہا ہم و الغاوان توپتہ یلن
 بچھ رکن تراونہ تم معبودان باطل تہ تم گمراہ لوکھ تہ سم تہنز پرستش کران آس نار جہنم اندر و جنود

يَخْتَصِمُونَ ﴿۹۷﴾ تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۹۸﴾ اذْ نُسُوْكُمْ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿۹۹﴾ وَمَا ضَلْنَا اِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿۱۰۰﴾ فَمَا لَنَا مِنَ شَافِعِينَ ﴿۱۰۱﴾
 وَلَا صِدْقٍ حَمِيمٍ ﴿۱۰۲﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۳﴾
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۴﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ
 لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۵﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ اِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ
 اٰخُوهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۰۷﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ﴿۱۰۸﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ

ابليس اجعون بیہ بیہ تراوندہ جہنمیں اندر البیسہ سز ساری لشکر قالوا وھم فیہا یختصمون دین تم
 کافر یلہ تم نار جہنمیں اندر پنہ نین معبودان باطلن سیت آسن گفتگو تہ ہرہ ہر کران تالللہ ان کنا لفی
 ضلالت میں قسم خدا پر پاٹ آس آس نہ گرا ہی بیٹھ اذ نسوکم رب العالمین یلہ اسم عبادتس منز
 پروردگار عالمیں سیت تو بہر برابر تھاوان آس وما ضلنا الا المجرمون آس کمر نہ گمراہ مگر سمو بڈیو
 مجرمو سم اصلہ پاٹ گمراہی ہند بائی آس فما لنا من شافعیین * ولا صدیقی حمیمو وون ہونہ سانہ خیطرہ
 کانہہ شفاعت کرہ وناہ لیس اسمہ موکلاوہ ہا۔ بیہ نہ چھو اسمہ کانہہ وئی دوستاہ لیس سون غم کھیہ ہاشریک غم
 سپدہ ہا۔ فلوان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین وون ہے اسمہ بیہ دنیا س کن وانہل سوزہ ہن آس بندہ ہو
 بایمانواندرہ یوتان گوختم ابراہیم علیہ السلامہ سند تقریر۔ اسمہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان ان فی ذلک
 لایۃ ہنز پاٹ یتھ قصص منزتہ چھو یوڈ نشانہ خدایہ سندہ قدر تک بیہ بڈ عبرت حق ژھاٹدہ و نین ہندہ
 خیطرہ وما کان اکثرہم مؤمنین بیہ آس نہ تمومکہ کیو کافر و اندرہ زیادہ لوک بایمان وان ربک
 لھو العزیز الرحیمو بیہ چھو یقینا ٹھنڈ پروردگار سیٹھاہ زبردست تہ غالب۔ تمن بیہہ ہاسوگر فتار عذاب
 کمر تھ۔ سیٹھاہ رحمتہ وول تہ چھو۔ تمی چھو مہلت ووان۔ کذبت قوم نوح المرسلین ساری پیغمبر
 ایزرانت کور انکار نوح علیہ السلامہ سند قوم من تہ (اکس پیغمبر س انکار کزن گو ساری پیغمبرن انکار کزن)
 اذ قال لھم اھوھم نوح الاتقون یلہ تمن وون ہای بن نوح علیہ السلامن، کیاہ تجہ چھوہ نا کھو ژان

اَطِيعُونَ ﴿۱۰۸﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۹﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۱۰﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ
 الْأَرْذَلُونَ ﴿۱۱۱﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۲﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ
 إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۴﴾ إِنْ أَنَا
 إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱۵﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحٌ لَنُكَونَنَّ
 مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿۱۱۶﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿۱۱۷﴾

خدا جس (تو) کہ رسولِ امینؐ بیشک تو ہٹھوس توہمہ کن امانتدار پیغمبر۔ خدایہ سُنڈ پیغام ہٹھوس تو توہمہ
 و اتناوان پورہ پورہ کی زیادتی و رای۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا لیس کھوژ تو خدا جس بیہ مانو میون حکم تہہ
 منز تہند فاسیدہ ہٹھو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بو ہٹھوس نہ توہمہ منگان تبلیغہ خیطرہ کا نہہ مژ وریاہ لَنْ
 أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مژ و رہتھہ کانسہ منہ رب العالمیس و رای فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 بیہ ہٹھسوہ و مان کھوژ و خدا جس بیہ مانو میان تہہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ تمولو کو دوہس کیاہ
 اَس کرو یہ ژہ پڑھ۔ حالانکہ چان پیر و چھہ کمینہ لو کہ۔ شریض ہٹھو عار گتھہان تمن سیت موافقت
 کرنس اندر قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حضرت نوحؑ دوہکھ مہ کیاہ چھہ خبر تمن ہنز کام نہ
 کاروبار کیاہ ہٹھو۔ دینس اندر چھہ شریف تہ کمین برابر إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ تمن نشہ
 حساب ہیون چھہ میانس پروردگارہ سز گوم۔ کیاہ رت گتھہ باہر گاہ توہمہ زانن حگہ ہا وَمَا أَنَا
 بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ بوہیککنہ ہر گز پانس نشہ دور کثرت با ایمان تہہ ایمان اَنُؤْمِنُ يَأْتِ انتو إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
 مُّبِينٌ بوہٹھوس صاف صاف نُن پاٹھہ نیم کرہ ون میون فرض منصبی ہٹھو پورہ سپدان۔ تہہ و چھو پانہ
 پَن نفع و نقصان قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحٌ لَنُكَونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تمودوہس ای نوحؑ ہر گاہ ژہ
 پتھہ روز کھنہ سمو کھونشہ تیلہ پتھہ ژہ ضرور سنگسار کرنہ۔ تو پتہ یلہ واریاہ کال گو تمن تہتھہ پاٹ اصرار
 کران کھر و انکار س بیٹھہ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ حضرت نوحؑ کور دُعا ای میانہ پروردگارہ

فَأَفْتَمَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّيْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدُ
 الْبَاقِينَ ﴿۱۲۰﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ وَ
 إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۲﴾ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِذْ
 قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۴﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۲۵﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۲۶﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ

میون قوم چھونہ میون کینہہ تہ مانان فَاَفْتَمَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا کہس کرژہ مہ منزرتہ تمن منز کاہنہ فیصلہ۔ یعنی تم کرکہ عذابس گر فثار وَنَجَّيْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تمہہ عذابہ نشیر وہمہ نجات بہ تمن لوکن تم مہ سیت چھہ بایمانو اندرہ فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ کہس کوراسہ تہندس دُعاس اجابت۔ نجات دیت اسہ نوح علیہ السلا مس بہ تمن تم سیت آس تھہ ناوہ اندرکسہ لوکو، حیوانوتہ جانوروسیت بہرت آس ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ تو پتہ پھاٹواسہ باقی ساری اِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک تھہ واقس منزرتہ چھہ ہڈ عبرت باوجود آل آس نہ تمہو مکہ کیو کافر و اندرہ زیادہ بایمان وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک چھو تو ہندوی پروردگار سیٹھہ غالب سوہیچہ ہا تمن گر فثار کثرت تہ سزاوت مگر سو چھو سیٹھہ رحم کرہ ون۔ تمی چھو سو تمن مہلت دو ان كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ قوم عادن تہ کور انکار۔ سارنی پیئمبرن۔ تم اپزیر زانتہ۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ یلہ تمن فرمو بای ہن ہود علیہ السلا مس، کیاہ تہہ چھوہ نا کھو ژان خدا کہس اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ پز پات بو چھوس توہہ گن پیئمبرہ امانت دار فَاَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا کہس کھو ژو تہہ خدا کہس بہ کمر و میان فرمانبرداری وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بو چھو سونہ منگان توہہ امہ خیطرہ کاہنہ مزوریہ یا کاہنہ عوضہ اِنِّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزور چھنہ کاہنہ منہ رب العالمینس وری۔ اَتَّبِعُوا بِحُلِّ رِيعَالِهٖ تَعْبَتُونَ کیاہ توہہ چھوہ پرتھہ تھرہ جاہیہ پیٹھہ اکھ عمارتاتہ تہ

الْاَعْلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۸﴾ اَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيٍّ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَ
 تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَاِذَا ابْطِثْتُمْ بَطِثْتُمْ
 جَبَّارِيْنَ ﴿۱۳۰﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْ اَمَدَّكُمْ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۲﴾ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَيْنٍ ﴿۱۳۳﴾ وَجَدْتِ وَاَعْيُوْنَ ﴿۱۳۴﴾ اِنِّيْ
 اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۳۵﴾ قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَطْتَ
 اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِيْطِيْنَ ﴿۱۳۶﴾ اِنَّ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَمَا

یادگار ہ بناوان یہ چھوہ اکھ یہ ہودہ کاماہ کران سمیک نہ کاہنہ فاندہ چھو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ یہ چھوہ بچہ بچہ کرہ لدان حالانکہ امہ خوتہ کم جاین ہیچہ ہاتوہہ آرام حاصل سپدت، دن توہہ ہیچہ دنیاء سی اندر ہمیشہ چھوروزن وَاِذَا ابْطِثْتُمْ بَطِثْتُمْ جَبَّارِيْنَ یہ بیلہ توہہ کانہہ پیٹھ اتھہ تراوان چھوہ تیلہ چھون سورناتن ظالمانہ تہ جابرانہ، چونکہ شرک تہ ہیچہ اخلاق چھہ خدائس ناپسند۔ سمو چیزوسیت سپد یوچہہ عذابس گرفتار فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ پس کھوژو خدائس یہ ماؤمیون، کیاڑہ بوچھوس ٹھند بیچبر۔ وَاتَّقُوا الَّذِيْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ یہ کھوژوئس خدائس سم توہہ مدد کورہ تمو چیزوسیت سم ٹھہ زمان چھوہ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَيْنٍ * وَجَدْتِ وَاَعْيُوْنَ مدد کورنوہ چارپاء وسیت، اولادوسیت یہ باغو تہ ناگہ رادوسیت۔ نعمزہ عطا کرہ دنئس آسہ ہنز گڑھہ فرمانبرداری کرن ٹھندین حکمن گڑھہ نہ مخالفت کرن اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ مہ چھو خوف تہ اندیشہ ٹھندہ حقہ کہ ہرگاہ ٹھہ ہیچہ روزونہ نافرمانیوشہ اللہ تعالیٰ کرہہ تلہ گرفتار بڈہ دُخَس عذابس سوگو قیامتک دودہ قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَطْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِيْطِيْنَ تمولو کو دوپ ہس جواب آسہ نشہ چھو دوشوے کتھہ برابر۔ ژہ وعظ پرتہ یامتہ پرتہ۔ اَس روزونہ پنہ نیو کامیونچہ ہیچہ اِنَّ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ یہ وعظ و نصیحت کتر تھ کھوژہ ناؤن۔ یہ چھونہ مگر برو ٹھین لوکن ہند عادت۔ پریٹھ و قس منز آئی لوکھ نیوٹک دعوائے دتھ تے کتھہ دنان۔ ژہ چھوک آسہ عذابس کھوژہ ناوان وَمَا نَحْنُ بِبَعْدِ بَيْنٍ آسہ لیہ نہ ہرگز عذاب

فَنَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۱۳۸﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَ
 مَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۰﴾
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۱﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ الْأَتَّقُونَ ﴿۱۴۲﴾
 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۴۳﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمْرُوهُنَّ ﴿۱۴۴﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۵﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِأَشِدِّ
 أُمْنِينَ ﴿۱۴۶﴾ فِي جَدَّتِ وَعْيُونٌ ﴿۱۴۷﴾ وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلَعُهَا هَضِيمٌ ﴿۱۴۸﴾
 وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿۱۴۹﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمْرُوهُنَّ ﴿۱۵۰﴾

کر نہ کینبہ تہ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ کس زون تموسو یعنی ہود علیہ السلام اپز یور۔ ادہ گال اسہ تم لو کہ
 عذاب صرصرہ سیت۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ بیشک آتھ معاہلس منزجھ
 بدعبرت کہ احکام الہین منزجھاٹنگ انجام کیاہ چھو آسان۔ باوجود آن آس نہ مکہ کیو کافر و آندرہ زیادہ
 ایمان نہ ون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیہ چھو پزپاٹ ٹھندوی پروردگار سیٹھاہ غالب سوہیحہ ہاتمن
 عذابس گرفتار کتر تھ۔ مگر سو چھو سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ نمی چھو کھ مہلت ووان کَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ
 قوم ثمودن تہ زان پیغبر پذیر۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ الْأَتَّقُونَ یلیہ تمن وون ہای بن صالح علیہ
 السلامن کونہ چھوہ کھوژان خدائس إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ہز پاپٹ بوہ چھوس ٹھند اما ندر پیغبر
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمْرُوهُنَّ کس کھوژو خدائس بیہ مانبو میون وعظ و نصیحت وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
 بوہ چھوس نہ توہہ منگان وعظ و نصیحت کرئس پیٹھ کاہہ مزوریاہ تہ عوضاہ لِأَنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
 میان مزور تہ عوض چھونہ کاہہ پیٹھ مگر رب العالمینس وراے۔ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِأَشِدِّ أُمْنِينَ کیاہ تہہ ایوہ
 تراونہ دُنیاء کین چیزن اندر بے فکرِ فِي جَدَّتِ وَعْيُونٌ یعنی باغن تہ ناگہ رادان منز وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ
 طَلَعُهَا هَضِيمٌ بیہ زراعتس تہ خضر باغن منز سمن ہند میوہ چھو لطیف۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۵۱﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ
لَا يُصْلِحُونَ ﴿۱۵۲﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۵۳﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُنَا فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۵۴﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ
لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿۱۵۵﴾ وَلَا تَسْوَأُوا بِسُوءِ فِعَالِكُمْ
عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵۶﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبِرُوا لِمِ مِثْنٍ ﴿۱۵۷﴾ فَأَخَذَهُمُ

فُرْيَيْنَ بِيَهُ جھوہ کھن کھن کو ہن منزئہ گرہ بناوان، خوش پاٹھ، تھیکان تھیکان۔ توہہ جھوہ خبر یوہے
حال روزہ ہمیشہ فائقوا اللہ واطیعون نہیں کھوڑو خدا نہیں بیہ ماو میون وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
بیہ مہ یوز تم لوکن ہنزہ کتھہ تم نافرمانی اندر حدہ ڈلت چھہ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
تم زمینس پیٹھ تباہی جھہ کران، مٹھہ قسمہ اصلاح جھہ کران قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ تم کو کافر و
دو نہیں اسہ جھو تران فکرہ ژہ جھوی جود کرنہ آمت۔ سمہ سیت عقلہ اندر فتور جھوی آمت۔ پیٹھ بری ہند
دعوی جھو کہ کران مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ژہ جھو کہ نہ مگر اسی ہیو اکھ انسانہ۔ انسان چھا پیٹھ آسان
فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ادہ ہاوتہ اسہ کانہہ نشانہ جھو گٹھ ژہ پوزونہ و نیو اندرہ قَالَ هَذِهِ
نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٍ مَعْلُومٍ صالح علیہ السلامن دو پٹھہ یہ دو ٹن یوسہ ٹہنزہ خواہشہ مطابق
میانہ دعاء سمیت خدا لکن اسہ پلہ منزہ پیدہ کمر۔ یہ جھو میانس پیٹھ بری آسن پیٹھ بوڈ نشانہ تہ دلیل۔
اسندین حقون ہند کمر زہ خیال۔ اسندہ خیطرہ جھہ اکہ دوہہ تریش چٹچ وار۔ بیہ گنیہ ٹہندین جانورن
ہندہ تریش چٹچ وار۔ بیہ دوہہ وَلَا تَسْوَأُوا بِسُوءِ فِعَالِكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ بیہ گھنہ ٹہند گنہ قسمگ
تکلیف واتاوندہ خیطرہ نس اتھہ تہ لاگن۔ گرہ گتہ کوروہ توہہ تیلہ رٹوہ توہہ اکہ پڈہ دہگ عذاب۔ تمونہ
کور تہندہ رسالتگ تصدیق نہ کور کہ امس دو ٹنہ ہند کانہہ رعایت فَعَقَرُوهَا بلکہ مار تموسو ووتن نکہ
نار ژٹھ۔ تو پتہ سپد تم ن آثار عذاب ظاہر فَاصْبِرُوا لِمِ مِثْنٍ تم وچھت سپد تم نادم تہ پشیمان۔
فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تمہ پتہ رٹ تم عذابن تمیک تم ن وعدہ تھاوندہ اوس آمت۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً

الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۸﴾
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵۹﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶۰﴾
 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۶۱﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۶۲﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۶۳﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
 إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۴﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۵﴾ وَ
 تَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَقَدْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۶۶﴾
 قَالُوا لَنْ نَمُوتَ أَبَدًا وَآلِنُ لَكَ تَتْلُوهُ لِيُطُوعُوا لَكَ لَلَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿۱۶۷﴾ قَالَ إِنِّي

پنزپاٹ بیٹھ و اقص منزتہ چھہ بڈ عبرت و ماکان اکثرہم مؤمنین باوجود آل اُون نہ ایمان مکہ کیو
 اکثر لوگو و ان ربک لہو العزیز الرحیم پنزپاٹ ٹھند پروردگار چھو سیٹھاہ غالب۔ سووی یشہہ ہا
 تمن سارنی کرہ ہا عذائس گرفتار۔ سو چھو سیٹھاہ رحمتہ و ول تمہ سبہہ و زن تمن مہلت کذبت قوم
 لوط المرسلین قوم لوط نے زان پیغمبر ایزیر۔ اذ قال لہم اخوہم لوط الاتقون علیہ تمن دوپ
 ہن بای لوط علیہ السلامن کیاہ ٹہہ چھوہ ناخدا ئس کھوژان اذ قال لہم رسول امین بیشک بو چھو س ٹھند
 امانتدار پیغمبر۔ فاتقوا اللہ و اطیعوا ئس کھوژو ٹہہ خدائس بیہ کمر و ٹہہ میان اطاعت نہ
 فرمانبرداری۔ میانو ہدایا تو موجب ہو و ما اسئلکم علیہ من اجر بو چھو سونہ منگان توہہ امہ و عظ و
 نصیحتہ خیطرہ کاہنہ مزور ان اجری الا علی رب العالمین میان مزور چھنہ منہ کاہنہ رب العالمین
 و رای۔ اتاتون الذکران من العالمین کیاہ ٹہہ چھوہ ساری دنیا منزہ مردن کھہ یت ہن شہوت پورہ
 کران و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بیہ چھو کھہ ٹہہ پنہہ زنانہ سمہ ٹھند پروردگار ٹھندہ خیطرہ
 پیدہ گرہ مژہ چھہ نظر انداز کران بل انتم قوم عدون ٹہہ چھوہ واقعی حد انسانیتہ نشہ ڈلہ دن تو ماہ قالوا

لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿۱۳۸﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ فَجَبَّيْنَاهُ وَ
 اَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۴۰﴾ اِلَّا جُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿۱۴۱﴾ ثُمَّ دَرَرْنَا الْاٰخِرِينَ ﴿۱۴۲﴾
 وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿۱۴۳﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
 وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۴﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۴۵﴾
 كَذَّبَ اَصْحٰبُ لَعْنَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۴۶﴾ اِذْ قَالْ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا
 تَتَّقُوْنَ ﴿۱۴۷﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ﴿۱۴۸﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۴۹﴾

لِيْن لَمْ تَنْتَهُ يَلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَفْرُوْجِيْنَ ۝۱۳۸ ۝۱۳۹ ۝۱۴۰ ۝۱۴۱ ۝۱۴۲ ۝۱۴۳ ۝۱۴۴ ۝۱۴۵ ۝۱۴۶ ۝۱۴۷ ۝۱۴۸ ۝۱۴۹

لین لہ تننتہ یلوط لتکونن من المفرجین ۝۱۳۸ ۝۱۳۹ ۝۱۴۰ ۝۱۴۱ ۝۱۴۲ ۝۱۴۳ ۝۱۴۴ ۝۱۴۵ ۝۱۴۶ ۝۱۴۷ ۝۱۴۸ ۝۱۴۹

نصیحت کرنے نشہ تیلہ کیح ژہ ضرور سمہ شہرہ منزہ نمیر کڈنہ قَالَ لوط علیہ السلامن دوپچھ یو پچھوس نہ
 تہنہز ہامہ دھمکی سبب توہمہ نصیحت کرنے نشہ پتھ روزون کیا زہ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ یو پچھوس ضرور
 تہنہز ہ سمہ پچھ کامہ ہند سخت دشمن۔ مہ پچھو خطرہ خبر تھہ بلا یہ گدو ہوتہہ گرفتار۔ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي مِمَّا
 يَعْمَلُونَ ای میانہ پروردگار ہمہ تہ میانین خاص متعلقین وہ نجات تمہہ پچھ کامہ ہندہ سزاء نشہ یوسہ
 یم کزن۔ فَجَبَّيْنَاهُ وَ اَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ * اِلَّا جُوزًا فِي الْغَابِرِيْنَ کس ڈیت اسہ نجات لوط پیغمبرس بیہ تہندین
 خاص متعلقین سارنی اکس تجہ زنانہ ورا ای یوسہ ات روزوزن والین منز۔ یعنی لوط علیہ السلامہ سز آشین
 ثُمَّ دَرَرْنَا الْاٰخِرِيْنَ توپتہ گال اسہ باقی ساری وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا بیہ تراوہ اسہ تمہن پیٹھ کتہ رودک
 پاٹھ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِيْنَ کس کوتاہ پچھ اوس تمہن لوکن ہند رود تمہن گوڈہ خدایہ سدہ عذابک نیم
 کرنے آیدو۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً پز پاپ اتھ واقفس منزتہ پچھہ بڈ عبرت وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 باوجود آل اون نہ ایمان مکہ کیوا کثر کافرو وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ بیہ پچھو پز پاپ تہندوی
 پروردگار سیٹھاہ زور آور۔ سُو ییحہ ہا تمہن سارنی گرفتار عذاب کثرت۔ سُو پچھو سیٹھاہ رحمتہ دول تمہہ
 موکھہ وژ نکھ مہلت۔ كَذَّبَ اَصْحٰبُ لَعْنَةِ الْمُرْسَلِيْنَ اپزان انیکہ والیوتہ پیغمبر اِذْ قَالْ لَهُمْ
 شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ یلہ تمہن دوپ شعیب علیہ السلامن تہہ پچھوہ ناخذ انکس کھوژان اِنِّيْ لَكُمْ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۰﴾
 أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَزُونُوا بِالْقِطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿۱۸۲﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿۱۸۳﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَىٰ ﴿۱۸۴﴾
 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۸۵﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَ
 إِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۱۸۶﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۸۷﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸۸﴾ فَكَذَّبُوهُ

رَسُولٌ آمِينَ ﴿۱۸۰﴾ پزیرا پادشاه جو ہوس تہند اما نندار پیغمبر فاتقوا اللہ واطیعون نہیں کھو تو خدا نہیں ہے ماہو
 میوں و عطا و نصیحت و مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ بو ہتھسورہ نہ منگان توہم آتھ بیٹھ کاہنہ مژوریاہ تہ بدلاہ
 إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مژور ہتھنہ کانہہ مطہ رب العالمین وراى اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا
 تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ بو ہتھسورہ توہمہ وناں تہہ آسو پور بینان۔ ہرگز مہ آسو لوکن ہتھون مینتھ
 نقصان و اتناوان و زُونُوا بِالْقِطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ بیہ آسو رت پاٹھن تکرہ سیت تولاں۔ ڈنجہ
 مہ آسو ماوردوان۔ ہرمانہ مہ آسو ہتھن تھوان و لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ بیہ مہ آسو لوکن ہندین چیزان
 منزکی کران و لَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بیہ مہ آسو تھلان ملکس منزقنتہ تہ فساد و اتَّقُوا الَّذِي
 خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَىٰ بیہ آسو کھو تھان تھس خدا نہیں تہم تہہ تہ پیدہ کردہ بیہ تہم ساری لوکھ تہم
 توہمہ بروٹھ آس قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ تمولو کو دووہتھس ای شعیب تہہ بیٹھ ہتھو بو ڈجود کردہ
 اُمت۔ تہمہ سیت چانہ عقلہ ہتھو قور اُمت تھی ہتھو کہ کران نبوتک دعوائے۔ تہیہ کیاہ خصوصیت ہتھ
 سانہ خوتہ و مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَاِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ تہہ ہتھوک اسی ہیو اکھ انساناہ آس ہتھت
 تہہ زانان ضرور اپرونہ نیواندرہ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ نہیں تراوہ ناوتہ

فَاخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَاةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۸۹﴾
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹۰﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹۱﴾ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹۲﴾ نَزَلَ بِهِ
 الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱۹۳﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ
 عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۱۹۴﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۹۵﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ
 يَعْلَمَهُ عَلَمُوا ابْنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۹۶﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۱۹۷﴾

اسم پیٹھ آسمانج اکھ پھلاہ چھو کھے ژہ پوزوند و نیو آندرہ۔ اسم سپدہ معلوم کہ واقعی چھو کھ ژہ پیٹھ۔ قَالَ
 رَبِّي عَلَّمُوا بِمَا تَعْلَمُونَ حضرت شمعین دو پھکھ میانس پروردگار س چھہ پور خبر تهنزن سارنی کامین ہنز
 فَلَاقِبُوهُ فَاخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَاةِ کس یلہ تمو حضرت شعیب علیہ السلام تہ زون اپزورادہ رث تم
 سانبانہ کہ ڈوبک عذابن۔ ابرس اکس تل آئی وکنہ تمی منزہ پیو تمن پیٹھ نازک رُود تمی سیتہ دد تم
 ساری لائہ کان عذاب یوم عظیم یہ اوس اسم بڈہ ڈوبک عذاباہ تمن پیٹھ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ ہنز پاٹ
 اتھ منز پھہ عبرت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ باوجود آل کرنہ مکہ کیوا اکثر لو کو پڑھ وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک چھو تھند پروردگار سیٹھاہ غالب۔ سوئی یشہہ ہاتمن محہ کین لوکن تہ گاہا۔ سو
 چھو سیٹھاہ رحمتہ وول۔ تمی ڈر نکھ مہلت وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بیہ چھو بیشک یہ قرآن مجید
 پروردگار عالیئہ سندہ طرفہ نازل کرنہ آمت تَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ یوہے ہتھہ دو تھہ امانتدار ملکھاہ
 اکھ سانہ حممہ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تو پتہ ترودن تھندس وکس پیٹھ ہتھہ توہمہ سپد یوہہ بیم
 کرہ و نیو آندرہ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ یوہے قرآن مجید چھو صاف عربی زبویہ فصیح و بلیغ وَإِنَّهُ لَفِي
 زُبُرِ الْأَوَّلِينَ بیشک بیہ چھو آمت امہ قرآن مجید ک تذکرہ کرنہ بو ٹھمن کتانن اندر اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ
 يَعْلَمَهُ عَلَمُوا ابْنِي إِسْرَائِيلَ کیاہ تھندہ خیطرہ پھٹناہ کتھہ یو ڈو ٹھانہ تہ بڈو دلیل کہ زانان چھہ اتھہ قرآن
 مجیدس یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیلن ہند عالم وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ * فَقَرَأَهُ

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۹﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ
 الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۰۰﴾ لِيُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۱۰۱﴾ فَيَأْتِيَهُمْ
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰۲﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿۱۰۳﴾
 أَقْبِعْنَا عَينَا سَتَعَجِلُونَ ﴿۱۰۴﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿۱۰۵﴾ ثُمَّ
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۱۰۶﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿۱۰۷﴾
 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبَىٰ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ ﴿۱۰۸﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا

عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ بیه ہر گاہ نازل کرہ ہوں اُس یہ قرآن مجید کانسہ عجمی شخصس بیٹھ سؤی یلہ
 تمَن بیٹھ ہر ان آسہائس تہ انہ ہن نہ سم لوکھ ایمان عنادہ موکھ۔ کَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ
 الْمُجْرِمِينَ سٹھ پاتِ جھو آسہ انکار یکہ نوومت نافرمان ہندین وکن اندر لِيُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّىٰ
 يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ تم کرن نہ پڑھ تھہ قرآن مجیدس یوتان نہ ڈیشن کڈر عذاب مرتکہ وقتہ یا عالم
 برزخس منزیا آخرتس اندر فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سؤی عذاب یککھ واتھہ بھگتہ مگہ۔ تمَن
 ترہ نہ فحری یہ عذاب کتہ آوتہ کپار آؤ۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ تمہ ساتہ دین کیاہ آسہ یہ
 ناہملتھاہ دنہ۔ مگر تمہ ساتہ نہ آسہ وقت مہلتگ نہ قول ایمانگ أَقْبِعْنَا عَينَا سَتَعَجِلُونَ کیاہ سم
 چھاسانس عذائس جلد ژھانڈان سمیک مطلب جھو انکار کرن اَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ژری ونسہ ای بوزونہ ہر گاہ آس تمَن مہلت دت فاندہ ٹلناؤو کھ وار تمَن ور ہن تہ
 توپتہ ولتہ تمَن سؤ عذاب سمیک تمَن وعدہ تھاونہ اوس یوان مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ کیاہ نفع دیہ تمَن
 کھیون دُرین ہند فاندہ ٹلناون۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبَىٰ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ بیه کمر نہ آسہ مگتہ شہرک لوک
 ہلاک۔ مگر گوڈہ آئے تمَن رنشرہ بیم کرنہ خیطرہ پیغمبر۔ یلہ نہ تمومون آدہ آو تمَن عذاب سوزنہ ذِكْرَىٰ
 وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ تمَن لوکن ژتیس پاونہ خیطرہ۔ آس آس نہ کانسہ نسبت ظلم کرہ وان وَمَا تَزُولُ بِوِ
 الشَّيْطَانِ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ بیه سپدنہ یہ قرآن مجید ہتھ نازل شیطان ہم کابن رنشرہ یوان

ظَلِيمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَاتَزَلَّتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ
اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي مُّهْتَمِعُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ
الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبِكَ فِي السُّجُودِ ﴿٢١٩﴾


چھ نہ بہہ تمن کہ یہ کتاب ہتھ کیا میں کیا زہ یہ کتاب چھ بہرہ پیٹھ بون تان ہدایت۔ شیطان چھ بہرہ
پیٹھ بون تان ضلالت و گمراہی۔ اتھ چھونہ تمن سیت واٹھ کا نہ۔ نہ نہیں تم یرھ کتاب ہتھ دستھ
إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُولُونَ کیا زہ تم چھ یہ قرآن مجید بوزنہ نشہ دور آمت تھاونہ۔ تمن چھو امہ نشہ
ٹھور آمت کرنہ۔ لہذا چھو یہ قرآن مجید خدایہ سندی طرفہ توبہ پیٹھ نازل آمت کرنہ یار سؤل اللہ
فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ پس مہ حض کمر و عبادت تہہ معبود بر حقس
سیت بہہ کانہہ معبودہ سبز۔ تمہ سیت ایوہ توبہ تہ عذاب کرنہ حالانکہ توبہ اندر چھونہ نعوذ باللہ، نہ
شرکگ احتمال نہ عذابگ۔ مگر ہر گاہ بفرض محال توبہ نسبت یہ حکم آو کرنہ بن ہنز چھہ کھہ کانہہ
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ای مٹو کھ کمر و تہہ بیم گوڈہ کھہ آشناؤن پنہ نین وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ
لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بہہ نمر او تہہ شفقت و مہربانی ہنز چھہ تمن لوکن ہندہ خیطرہ سمو تہنز
مُتَابِعَتْ کمر با ایمانو اندرہ ادہ تم آشنا آستن یامتہ آستن فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي مُّهْتَمِعُونَ ہر گاہ تم
لوکہ تمن توبہ نیم کوروہ تہنز نا فرمانی کرن ادہ تم تہند آشناؤ آستن یامتہ آستن تہہ فرماو کھہ یو چھوس
تہنزہ کامہ نشہ سیٹھاہ بیزار۔ مہ چھونہ توبہ سیت کانہہ لین دین تہ تعلق وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
بہہ کمر و تہہ اعتماد تہ ڈکھ کس پروردگار س پیٹھ کس سیٹھاہ غالب تہ سیٹھاہ رحمتہ دول چھو۔ تہندہ تکلیف
واتواؤ ک مہ کمر و کانہہ اندیشہ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ کس پروردگار توبہ و چھان چھو نمازہ ک

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۲۰﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَدْعُلُ الشَّيَاطِينُ ﴿۲۲۱﴾
تَدْعُلُ عَلَىٰ كُلِّ آقَاكٍ أُنِيمٍ ﴿۲۲۲﴾ يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَآكُثْرَهُمْ كَذِبُونَ ﴿۲۲۳﴾
وَالشُّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۲۴﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ
يَهَيِّمُونَ ﴿۲۲۵﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۲۶﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

دو تھکھ وقتہ وَتَقْلِبُكَ فِي السُّجُودِ بِہ ستمہ ساتہ تہمہ نماز پرہ وین سیت کھسان وسان چھوہ۔ رگوع و
بجود کران چھوہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک پز پائٹ اللہ تعالیٰ چھو سو روی بوزہ ون، سو روی زانہ ون
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَدْعُلُ الشَّيَاطِينُ ای لو کو کیاہ بو کروہ تو بہ خبر شیطان کس پیٹھ چھو وسان تَدْعُلُ عَلَىٰ
كُلِّ آقَاكٍ أُنِيمٍ وارہ بوزو تم چھہ وسان تمنی پیٹھ سم گوڈہ پیٹھہ اپزیرتہ بدکار آسن يَلْقَوْنَ السَّمْعَ
وَآكُثْرَهُمْ كَذِبُونَ سم شیطان ہمدہ خبرہ ویکھہ وقتہ کن دار تھہ چھہ تمہہ تھہ تہ خبرہ بوزان۔ تو پتہ
لو کن تمہہ خبرہ ویکھہ وقتہ پنہ طرفہ واریاہ اپزملہ ناوت تمہہ تھہ ونان۔ نبی کریمہ سُنَدَاتِ بَابِر كَاتِ وَتَهْو
تمہہ نشہ میسر انتہ پاک۔ امہ سیت سپد تمن نشہ کہانتگ شہ دور۔ پتھ رود شاعر تیک شہ تھہ متعلق چھو اللہ
تعالیٰ فرماوان وَالشُّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ بیت وزن والین ہنزہ وتہ چھہ پکان تہ سم وتہ ذلت
آسن۔ یعنی بیت تہ خیالی مضامین ون، باتہ پاٹھ یا عبار کس اندر یعنی نظم یا نثر و ون چھو تمن لو کن ہند کار۔
سم تھتھہ ورا ی خیالی مضامین ونان آسن۔ تمن مضمون نہ واقعس سیت کاہنہ تعلق آسہ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ
فِي كُلِّ وَادٍ يَهَيِّمُونَ ژہ تھکھنا وچھان اے مخاطب تم شاعر چھہ خیالی مضامین ہندس پر پتھہ میدانس
منز حیران۔ کھونت کھیوان مضمون تلاش کرنہ خیطرہ۔ یلہ تمن کاہنہ مضموناہ بنان چھو، چونکہ سو چھو
آسان اکثر خلاف واقع وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ تمی سبہ چھہ تم ونان تی یہ نہ تم کران چھہ۔
مضامین قرآنیہ پتھہ پتھہ بانس متعلق آسن تم ساری چھہ محقق۔ خیالی ہرگز چھنہ تم۔ لہذا نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم شاعر ون۔ یہ گو محض جنون تہ دیوانہ گی۔ اللہ تعالیٰ ان دژنہ سانس نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم منظوم کلام کر کس پیٹھہ قدر تھی۔ چونکہ تمن آیات کریمن منز آہ شاعر ان ہنز مذمت

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا
ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۶﴾

کرنہ تھے منز آئی ساری شاعر۔ چونکہ بعضی شاعر نے ہند کلام ہجو میں حکمت میں پور محقق۔ تمہہ موکھ
کمر اللہ تعالیٰ ان تم مستغنی فرمویں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر نہ تم شاعر سمو خدائیس پڑھ
کمر تھ رثہ عملہ گرہ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یہ کڑکھ یاد معبود برحہ سُنَد بکثرت وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا
ظَلَمُوا یہ ہوت تمہو بدلہ کافر ان رثہ پنہ نیو شعر وسیت تمن پیٹھ ظلم سپد نہ پتہ۔ کیا زہ کافر و اوس
تمن رنگارنگ ظلم و اتناومت لہذا ہیو تک تمہو تمیگ بدلہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
برونٹھ مکن زان ظالم سمو خدا یہ سُنَد تہ پیغمبر خدا یہ سُنَد حق یا حقوق العباد ظلم کثرت ضایع کمر کہ تھ
انقلابہ چہ جایہ بین تم و اتناونہ، مرنہ پتہ۔ سو جای گئیہ نار جہنم۔



سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 طَسَفَتْ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ۝^۱ هُدًى وَبُشْرَى
 لِلْمُؤْمِنِينَ ۝^۲ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ
 هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝^۳ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝^۴ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ۝^۵

طس سم چھہ حروف مقطعات یمن ہند معنی زانہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ سم آیات
 توہمہ پیٹھ نازل کرنہ آی۔ سم چھہ آیات کریمہ قرآن مجید کہ تہ واضح کتابہ ہند ہُدًى وَبُشْرَى
 لِلْمُؤْمِنِينَ سم آیات چھہ بوڈ ہدایت تہ بڈ بشارت باایمان ہندہ خیطرہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تمن لوکن ہندہ خیطرہ سم نماز چھہ برپا تھاوان یوسہ بدنی عباد توآندرہ ہند عبادت
 چھہ، بیہ سم زکوٰۃ چھہ ادا کران یوسہ مالی عباد توآندرہ ہند عبادت چھہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ بیہ
 چھہ تم آخر تک پور یقین تھاوان نس ترپو اصولوآندرہ اکہ اہم اصول چھو۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ بیشک سم لوکہ پڑھہ چھہ کران آخرتس تہزن چھہ
 کائین دُیت اَسہ زینت تمی چھہ تم گراہی منز بوڈمت، حیران سپد مت۔ نہ چھہ تہند عقائد دُرست نہ
 اعمال۔ تمی چھہ تم قرآن مجیدس تہ مانان تہ پڑھہ کران۔ لہذا تہ پڑھہ قرآن مجید چھو باایمان بشارت
 دوان تہ پڑھہ چھو کافران وعید بوزہ ناوان أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ سم لوکہ گئے تم
 یہندہ خیطرہ چھہ عذاب چھو دُنیا س اندر مریمہ وقتہ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ بیہ آسن گئے

وَإِنَّكَ لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿۶﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ
لِأَهْلِيهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَائِغًا مِّنْهَا بَخْبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ
لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۷﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ
مَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸﴾ يُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ

آخر کس اندر سے زیادہ تاوان زد۔ کیا زہ تم و اتن نار جہنمیں اندر سمہ منزہ نہ زانہہ تہ موک لہ۔ وَإِنَّكَ
لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ مگر بیشک تو بہ نشہ چھو بہ قرآن مجیدس سیٹھاہ حمہ والس خدایہ
سندہ طرفہ واتاوندہ یوان۔ امہ نعمتہ کس سرورس اندر مہ سپد و تہہ ہرگز نمگین۔ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِيهِ إِنِّي
آنَسْتُ نَارًا تریس پاو و تہہ وقتک قصہ یلہ موسیٰ علیہ السلامن دوپ پنہ نس عیاس یلہ تم شہر مدینہ
پیٹھہ والس یوان آس تو پیہ وات کوہ طورس قریب اکس جلیہ سردی ہندہ وقتہ یلہ تمین مصریح و تھہ اتھہ
آس نہ یوان۔ ڈوپنگ واقعی مہ و چھ کوہ طورہ طرفہ نازاہ اکھ زوتان سَائِغًا مِّنْهَا بَخْبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ
قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ تہہ ٹھہرو۔ بوگڑھہ تو تھس۔ یو یمووہ و تہ ہنز کا نہہ خبرا ہتھہ۔ تہہ سمووہ
یونارہ رہا ہتھہ کنہ زن چہ پیٹھہ۔ تھہ تہہ تھو تہہ و شیر کمر و فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ کس یلہ تم اتھہ نارس بھہ
تلہ وات، تم گنیہ خدایہ سندہ طرفہ آواز أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ مِنْ حَوْلِهَا ییہ آوازکہ تم ہتھہ نارس
منز چھہ ملا نیو اندرہ تمین پیٹھہ تہ آسن برکت، تم اتھہ نارس آندہ پک چھہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تمین
پیٹھہ تہ یون برکت یہ چھو ڈعا بطور تحیت و سلام ہتھہ پاٹھہ اندہ وول، یا کس نشہ یوان چھہ، سو چھو سلام
کران۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلامس اوس نہ معلوم کہ یہ نور چھو انوار الہی۔ تمہہ موکھہ ہیوک نہ تمو
تعظیم بجانت۔ اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ سپدہ تہندہ آنہہ خیطرہ سلام و دوعا ارشاد وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
منزہ تہ پاک چھو معبود برحق، عالمین ہند رب، حدود و نشہ، مقدارہ نشہ، رگونگ نشہ۔ یہ نور کس
تہہ و چھان چھوہ، یہ چھو سمو قیود و سیت مقتید لہذا چھو نہ یہ ذات باری تعالیٰ۔ يُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ای موسیٰ بو چھوس معبود برحق۔ کس کلام کران چھو بے کیف، سیٹھاہ عزتہ وول

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ وَالَّذِي عَصَاكَ فَلَئِمَّا رَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ
 وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخِيفُ لَدَايَ
 الْمُرْسَلُونَ ۗ ۙ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ ۙ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ
 غَيْرِ سُوءٍ ۗ إِنِّي تُسِعُ آيَاتِي إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا
 قَوْمًا فَاسِقِينَ ۙ ۙ فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا

سیٹھاہ رحمتہ وول والقی عصاک ای موسیٰ ژہ ترا وحض پن لورہ ہن پتھر۔ سمویان سوتراؤ پتھر تھہ
 بنیواژدھا فلما راہا تہتز کائہا جان اتی یلہ تھہ لورہ کن وچھ تمو، سو وچھک حرکت کران سرفہ
 سندپاٹ۔ ولی مدبر اولم یعقب حضرت موسیٰ ژول تھر پھرت۔ پوت نظر تہہ ڈتھ نہ۔ اللہ تعالیٰ
 ان فرموس یوموسی لا تخف اے موسیٰ کھوژمہ آسہ کمری ژہ عطا پیغمبری اتی لا یخاف لدای
 المرسلون خلعت پیغمبر عطا سپدت جھنہ مہ بروٹھ کنہ پیغمبر اتھن چیزن، یم تہندہ نبوت ورسالتہ
 دلیلہ آسن، کھوژان۔ یعنی کھوژان لکھ نہ۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم
 مگرے کانسہ ہندہ دستہ کینہہ قصور تہ لغزش لبندہ آمز آسہ کس پیہ یاد سنو لغزش توپتہ کھوژہ، تھہ چھونہ
 کانہہ مضائقہ۔ لیکن تھہ متعلق تہہ چھوہیہ قاعدہ کہ اگر کانہہ ہندہ طرف کانہہ قصور لبندہ ایہ توپتہ بدلاوہ
 سو تھہ کنہ نیکی تہ ژہ کامہ سیت یعنی گناہ کمرت کرہ توبہ بوچھوس تہند توبہ قبول کران تہندین گنہن
 معاف کران۔ کیا زہ یوچھوس سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ ای موسیٰ اتھہ عصاء کس
 مخرج سیت چھوسہ یو بیاکھ مخرج تہ ژہ عطا کران سوگو کہ وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من
 غیر سوء ژہ تراوتھہ پن پنہ کس ناسک منز، سونیری تورہ سفید نہہ نہہ کرہ ون کنہ قصورہ تہ بیماری
 ورا ی فی تسع آياتی إلى فرعون وقومہ سم دو شوسہ مخرجہ ہچھہ تمو نو و مخرجہ واندہہ سم بیتھ نہہ سوزنہ
 یوان چھوہ فرعونس تہ تہندس تومس کن۔ انھم کانوا قومًا فاسقین کیا زہ تم جھہ حدہ ڈلہ و نیولو کو

سِحْرٍ مُّبِينٍ^{۱۳} وَجَحْدُ وَايَها وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ^{۱۴} وَلَقَدْ اتَّيْنَا دَاوُدَ
سُلَيْمَانَ عَلَمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِينَ^{۱۵} وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِن هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ^{۱۶}
وَخَشَرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَمَنْ يُوْزَعُونَ^{۱۷}

آندره فلما جاءتهم أيتها المصبرة آده يليه وات تمن نشه سان آيات ته مجزات سمه سميت تمن آنچه
مورنه آيه قالوا هذا سحر مبين دپنه لگ به چهنونون سراه ته جوداه وَجَحْدُ وَايَها وَاسْتَيْقَنَتْهَا
أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا بيه كور تمو سمن سائين آيات انكار- حالهه يقين آس كران تهه پان كه آيات
چهه واقعي خداه سندي طرفه- مگر ظلمه كن ته تكبره كن آينه اقرار كران فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ پس وچهه تبه كياه آسه بچهه انجام مفسدن هند- دنياء س اندر سزاء غرق، آخر تس اندر
سزاي حرق وَلَقَدْ اتَّيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَمًا بهز پات بيه كور آسه عطا د اود عليه السلام ته سليمان عليه
السلام شريعت ته پادشاهي هند بو علم وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ تمو
دوشوي دوپ شكر و شانه حمد بوين تس معبود بر حقس تم اسم فضيلت دويت پنه نيو هند و آندره وار مكن بيچه
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جانشين سپد سليمان
عليه السلام داود عليه السلام تههده انتقاله پته- بيه دوپ سليمان عليه السلام، اي لو كو اس آي بچهه ناونه
كتهه جانورن هنزه بيه امه وراي بين پادشهن ميسر سپد- بيه آو آسه عطا كونه تمو ساروي چيز د آندره تمن
هنزه آسه ضرورت آس، مثلا فوج، لشكر، مال و دولت، آلات حرب وغيره إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ
بهز پات بو به گو الله تعالى سدنون فضل وَخَشَرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَمَنْ يُوْزَعُونَ
بيه بو سه لشكره جمع آيه كونه سليمان عليه السلام سههه خيطره تهه لشكره منز آس جن، انسان ته جانور تم

حَتَّىٰ إِذَا تَوَاعَىٰ وَاِذِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
 مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِبَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾
 فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾ وَتَفَقَّدَ
 الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدًى أَمْ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿۲۰﴾

نہ بیہ کانسہ پادشہس مخر کر نہ آمت آس۔ تھے آس قاعدہ موجب وارہ وارہ ٹھہر او ٹھہر اویہ ان پکانو نہ
 بٹھ تم تہ واتن برو ٹھہن سیت۔ حَتَّىٰ إِذَا تَوَاعَىٰ وَاِذِ النَّمْلِ حتی کہ یلہ واژس نو لشکر ر یہ میدا س اندر
 قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
 گره۔ یہ یوز سلیمان علیہ السلام تہ تمہن لشکر بجزی اندر تو بہ ما نہ لہ مونیجہ
 تھ ونہ سیت۔ بیہ کورکھ تجب اس ر یہ ہند یوت لوکٹ جسم آتھ امہ قسجہ بخیری تہ گانہ جازک۔
 چنانچہ پن فوج روٹھ پتھ یوتان سارے ر یہ ژاپہ آ لین منز۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
 الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ سلیمان علیہ السلام سپد احساس امہ نعمتک کہ یو یوزہ نووس اللہ
 تعالیٰ ان ر یہ ہند کلام۔ یہ نعمت تہ امہ ورا ی بیہ نعمو ژیتس پیٹھ مونگھ ڈعا کہ ای میانہ پروردگارہ توفیق
 وہمہ بوکیا دیہ چاین نمون ہند شکر ہمیشہ۔ سیمہ نعمو ژہمہ عطا کر تھہ بیہ میانس مالس ماجہ۔ وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ بیہ دم توفیق ہمیشہ ر ژہ عملہ کر نگ سمن پیٹھ ژہ راضی سپد کہ۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي
 عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ۔ بیہ واتاومہ پنہ رحمتہ سیت پنہ نین نیکو کار بندن منز یعنی حضرات انبیاءن منز
 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ۔ بیہ کورکھہ دوہہ معاینہ سلیمان علیہ السلام جانورن ہند تمہ ساتہ اوس سہ ٹت غیر
 حاضر۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدًى دوپٹھ مہ گس چیز سپد مانع کہ بوٹھس نہ سہ ٹت ڈیھان حاضر کیکہ بہ

لَأَعَذِّبَنَّكَ عَبْدًا بِأَشَدِّدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْلِيَاءِ تَبَتَّى بِسُلْطَنِ
 مُبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَ
 جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ
 وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا
 يَسْبُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ إِلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ
 الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ

تہ ام کہان من الغائبین کہنے واقعی چھو سو غیر حاضر لَأَعَذِّبَنَّكَ عَبْدًا بِأَشَدِّدًا بُو کرہ تہس امہ غیر
 حاضری خیطرہ سخت عذاب (تیرہ کڈس لہمت) أَوْلَا اذْبَحَنَّهُ تہ کرس کھش اَوْلِيَاءِ تَبَتَّى بِسُلْطَنِ مُبِينٍ
 تے پیش کرہ مہ لشمہ پنہہ غیر حاضری ہند معقول عذراہ تیلہ کروس درگذر فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ تہس رود
 تم اتھ حاکم منزکمہ سئی کاکس کہ آوستہ تہت۔ پُرژہ تہس ژہ کیاژہ اوسکھ غیر حاضر بلا اجازت فَقَالَ
 أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ دوہن بو آس سوئی تھہ معلوم کتر تھہ یوسہ نہ توہہ معلوم سپہ مرچہہ۔
 وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ بو آس شہر سبا پٹھہ اکھ تھقی خبرہ بیتھہ اِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ
 سمیک تفصیل چھو تھہ پاتھہ کہ مہ وچھہ زاناہ اکھ تمہ شہرہ کین لوکن حکومت کران۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ
 كُلِّ شَيْءٍ تہس چھو حکومتہ کیولواز مؤاندرہ سوڑوی کینہہ عطا کرنہ آمت وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ بیہ چھوس
 تھناہ اکھ سیٹاہ بدہ بوڑوی لعل وجواہر وسیت جبر تھہ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْبُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 بیہ وچھہ مہ سو زاناہ بیہ تھند قوم آفتابس سجدہ دوان تہہ پرستش کران خدا تہس وراي وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
 أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ بیہ چھو زینت دُتہمت شیطان تہزن کفرہ چن
 کائین تہن چھہ پنہہ پچھہ کامہ رژہ بوزنہ یوان۔ تم چھہ پتھہ رُمت شیطان سیزہ و تہ لشمہ چھنہ تم ہزہ و تہ

وَمَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۵﴾ إِنَّهُ لَكَرِيمٌ الْعَظِيمُ ﴿۲۶﴾ السجدة
 قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲۷﴾ إِذْ هَبُّ بِيكُنُوتِي
 هَذَا فَالِقَهُ الْيَوْمَ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿۲۸﴾ قَالَتْ
 يَا أَيُّهَا الْمَلَأُأْتِيَ الْبَغِيِّ إِلَى كِتَابٍ كَرِيمٍ ﴿۲۹﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۳۰﴾ أَلَّا تَعْلَمُونَ أَعْلَىٰ وَآتَوْنِي مُسْلِمِينَ ﴿۳۱﴾
 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا

بیشه پکان الایسجد و اللہ الذی یخبر الخب فی السموت والارض تا اینکه تم جھنہ سجده دو ان تس
 معبود بر حقس نس سیٹھاہ قدرتہ وول جھو۔ لیس آسان وزینہ کین پو شیدہ چیزن نہر کڈان جھو ویکو
 ماتعلون و ماتعلون یہ جھوسوی زانان تم چیز تم تہہ دلن منز کھٹان جھو یہ تم چیز زیو وسیت تہ
 تانوسیت ظاہر کران جھوہہ اللہ لاکریم العظیم اللہ تعالیٰ ای جھو لیس وراى نہ
 کانسہ ہنز عبادت گرہہہہ کرن تس وراے جھونہ معبودی کانہہ۔ سوی جھو عرش عظیم مالک قال
 سننظر اصدقت امرکنت من الکذبین سلیمان علیہ السلامن ڈوپ یہ بوزت سہ ٹیس اس و جھوون
 ژہ وونتہ پورک نہ ژہ جھوک اپرونہ و نیواندرہ اذہب بیکتی هذا فالقہ الیوم اوہ ژہ گڑھہ یہ میون خط بیتہ
 سوی تراو تمن نشہ تھتول عنہم فانظر ماذا یرجعون توپتہ ڈل ژہ تمن نشہ اوکن مکن۔ ٹیس وچھہ ژہ تم
 کیاہ تھہ بات کرن پانہ وان قالت یا ایھا الملأ اتی البغی الی کتب کریمہ تمہہ زمانہ یوسہ تمہہ ملک پادشاہ
 آس ڈوپ پنہ نہ قومہ کین سردارن، ای مضر زلوکو، پز پات مہ کن آو تراونہ مہر کمرت اکھ باوقعت
 عظیم الشان خطاہ اکھ انہ من سلیمان و انہ بسو اللہ الرحمن الرحیم سوی خط جھو سلیمانہ سندہ
 طرفہ۔ تھہ منز جھویہ مضمون لیکھت بسم اللہ الرحمن الرحیم الالاعلو اعلیٰ و اتونی مسلمین توپتہ جھو
 خطک مضمون ای کہہ سرکشی مہ کمر و تہہ لوک۔ یعنی یہ زمانہ بلقیس یہ تہند اعیان سلطنت یہہ ساری عام
 لوک، یہہ سپد و حاضر تہہ مہ نشہ، فرمانبر دار بت۔ قالت یا ایھا الملأ افتنونی فی امری دہنہ لکھہ ای

حَتَّى تَشْهَدُونَ ﴿۳۲﴾ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو الْقُوَّةِ وَأَوْلُو آبَائِ شَيْبَةَ
 وَالْأَمْرِ إِلَيْكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ
 إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذِلَّةً ۚ وَ
 كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۴﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِعَمْرِ
 يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا

معرزلو کو تہہ دیو مشورہ مہ بیتھ میانس معاملس اندر۔ میون کیاہ گزہہ سلیمان علیہ السلامس سیت بیتھ
 معاملس اندر کرن ماکنٹ قاطعہ امرأحتی تَشْهَدُونَ بو تھس نہ زانہہ تہ کنہ معاملگ فیصلہ
 کران یوتان نہ تہہ تہ مشورس شامل آسبو قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو الْقُوَّةِ وَأَوْلُو آبَائِ شَيْبَةَ تمودوہس آس
 چھہ پنہ طرفہ پریتھ وقتہ حاضر۔ ہر گاہ مقابلہ تہ جنگ کرنک تجویز آسہ تمہہ خیطرہ تہ چھہ آس تیار۔
 آس چھہ طاقتہ وال بہہ سخت قوتہ وال مقابلس اندر وَالْأَمْرِ إِلَيْكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرِينَ مگر اختیار
 چھوڑی اتھہ۔ ژئی وچھہ کیاہ گزہہ جان۔ بس حکم ژہ کرکھہ آسہ آس چھہ تھہ حکمس کرنہ خیطرہ تیار
 قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذِلَّةً تمہہ بلقیسہ دو چھہ، یہ چھو
 پوز، مگریتھ منزہہ چھونہ کا نہہ شیکھہ کہ پادشاہیلہ کنہ شہرس منز فاتحانہ اثران چھہ تم چھہ تھہ شہرس تباہ
 کران بہہ چھہ تہہ کین معرزلو کن ذلیل کران، ذلیل لوکن بارس اتان۔ اسے تمن سیت مقابلہ کور۔
 ممکن چھو تہ گزہہ سن آسہ پیٹھ غالب۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ تم لوک تہ کرن تی۔ لہذا بہہ مصلحت یہہ کہ
 تان تھاؤدو آس جنگ کرن ملوئی۔ ویکھس چھو مہ بوزنہ یوان۔ کہہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِعَمْرِ
 يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ میان رای چھہ واتان کہ بوسوزہ تمن نیشہ کینہہ تحفہ۔ توپتہ وچھہ بوتیک جواب
 کیاہ بیتھ بین تم شخص تمن اتھہ آس سو ہدیہ سوزو فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ توپتہ یلہ
 قاصدووت تم تحفہ بیتھ سلیمان علیہ السلامس نیشہ۔ سلیمان علیہ السلامن دوہس کیاہ تہہ چھوہ پنہ مالہ
 سیت مہ مدد کرن یژھان فَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ خَيْرًا مِمَّا اتَّخَذْتُمْ مہ چھہ تج ضرورت کینہہ تہ کیا زہ مہ یہ کینہہ چاہ

اثنى الله خير مما انتم بَلْ اَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿۳۶﴾ اِرْجِعْ
 اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا
 اَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۳۷﴾ قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ اِيَّاكَ يَأْتِيَنِي بِعَرْشِهَا
 قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۸﴾ قَالَ عَفْرَيْتُ مِنْ اِلْحِنِّ اَنَا اِيَّاكَ
 يَهْ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْ اَمِيْنٌ ﴿۳۹﴾

اللہ تعالیٰ ان عطا کورمت چھو سیٹھا بہتر تمہ خوتہ یہ توہمہ ڈیٹمت چھوہ۔ توہمہ چھوہ ڈیٹمت
 حکومت و دوشی یوت، مہ چھون عطا کورمت نبوت و سلطنت۔ توہمہ نشہ چھو و نیامہ نشہ چھو دین تہ۔
 بَلْ اَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ ہلکہ چھوہ توہمی پنہ تحفہ سیت خوش (ویران چھوہ نہ) آسہ نشہ چھوہ
 سمن چیزن اعتبار کینہہ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ ای قاصد و اہل گزہہ تمنی نشہ سمسوز کہ تم ساری تحفہ دکہ
 پھیرت فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ہر گاہ تم آسہ نشہ فرمانبر داری سان حاضر سپدن تہ گوجان
 ورنہ و اتو اس تمن نشہ سہو لشکر ہتہ سمن سیت مقابلہ کرنگ تمن طاقتی آسہ۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً
 وَهُمْ صَاغِرُونَ ہیر کڈو کہ تم تمہ شہرہ منزہ ذلیل کثرت تہ خوار گزہت، تم قاصدن یلہ تم تحفہ واپس
 واتہ ناویہ ہاون سو روی حال ہلفیس نشہ۔ سو سپز سلیمان علیہ السلام سند یو کمالا تو سیت کافی متاثر، ہیر
 سپس یقین تہندہ پیغمبر آسک چنانچہ ارادہ کرن سلیمان علیہ السلام نشہ حاضر سپدن، سلیمان علیہ
 السلام سڈ معلوم و حیر سیت یایہ کنہ ذریعہ کہ سو سپز روانہ تمن نشہ حاضر سپدن خیرہ قَالَ
 يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ اِيَّاكَ يَأْتِيَنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ سلیمان علیہ السلام فر موپنہ نین معزز
 لو کن اہل دربارن، توہمہ آندرہ کہہ اکھاہ دیہ مہ نشہ واتہ ناوت تسند تحت، تمسندہ فرمانبر دار سپدت مہ
 نشہ واتہ بروٹھے۔ قَالَ عَفْرَيْتُ مِنْ اِلْحِنِّ اک قوی ہیکل جنن اک ڈوپ اَنَا اِيَّاكَ يَه قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ
 مِنْ مَّقَامِكَ بودن سو تخت توہمہ نشہ انت، تہندہ دربارہ نشہ ووتھنہ بروٹھے وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْ اَمِيْنٌ
 مہ چھو تمہہ تلتگ کافی طاقت۔ بو واتہ ناون سو توہمہ نشہ امانت داری سان۔ سلیمان علیہ السلام سن دوہس۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
 أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ
 هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ
 شَكَرَ فَآتَيْنَا يُشْكِرُ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبيُّ غَنِيٌّ
 كَرِيمٌ ﴿۲۰﴾ قَالَ نِكَرُوا هَاعَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ
 مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا

امہ خود جلد تہن گوشہ سواشن قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اگھ شخصہ اوس تمس نشہ آسانی
 کتابن ہند علم اوس۔ سوگو آصف بن برخیا۔ تمودوپ اہس جنس بس چون طاقت چھایتوی انا آتیک
 بہ قبل ان یرتد الیک طرفک بوواتاون سوتحت ذہ نشہ اس اچھہ ٹیٹھ اندر۔ بعضیو فرمووالذی
 عنده علم من الكتاب۔ امہ اندرہ وھومر اداپانہ سلیمان علیہ السلام۔ تموی واتنوسوتحت اس اچھہ ٹیٹھ
 اندر پینہ روحانی طاقتہ سیتہ فلما رآه المستقرًا عندہ قال هذا من فضل ربی چنانچہ یلہ تمودو چھ
 سوتحت پانس بروٹھ کنہ، شکر دپان دوٹھ یہ جھومیانس پروردگارہ سندرود فضل تہ مرانی لیبلونی
 ؕ اشکر امار کفر یتھ سومہ امتحان تہ آزمائش کرہ کہ آیا بوکر اتمسز شکر گداری کنہ نعوذ باللہ بو کرہ ہران
 نعمت ومن شکرًا فاما يشکر لنفسیه یہ کتھ چھ ظاہر کہ بس شکر گداری کرہ۔ بس چھونہ تمیک
 فاندہ مگر پانس۔ اللہ تعالی اس چھونہ تمیک کا نہہ نفع ومن کفر یتھ پانس ہران نعمت کرہ۔ بس
 تہ چھو تمیک نقصان پانس۔ اللہ تعالی اس چھونہ تمیک کا نہہ نقصان فان مرآی غنی کریم کیا زہ
 میون پروردگار چھوے نیاز لو کن ہندہ شکر گداری نشہ۔ سو چھو کریم ناشکری عطا کرہ وین تہ چھو عطا
 کران سو۔ قال نکر و الهاعرشہا ن نظر ا تھتدی امر تکون من الذین لا یھتدون تمہ پتہ کور
 سلیمان علیہ السلامن تجویز کہ اتھ تختس تمسیدس بدلا و صورت۔ اس کرو تمسزہ عقلہ امتحان۔ اس
 وچھو تمس ییاوتھ پین تخت پر زہ ناوس کن۔ کنہ سوٹھہ تمولو کو اندرہ یمن نہ کا نہہ اتھ و تھہ چھہ یوان

عَرَشِكَ ط قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ
 كُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۴۲﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۴۳﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ
 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا ط قَالَ إِنَّهُ

بے عقلی سبب۔ فلما جاءت قيل اهلكت اعروشك تو پتہ یلہ سو بلیس آیہ۔ ونہ آس تھوی
 چھا چون تخت قالت كانه هو دوہن زن تہ سوی چھو وأوتینا العلم من قبلها وكننا مسلمين
 بیہ دوہن اسہ اوس بیہ معجزہ وہ چھنہ برو نٹھی ٹھنہہ پیئبر آسک تصدیق سپد مت بیہ آس مطع و فرمانبردار
 سپد مت۔ یلہ اسہ قاصدہ سندہ ذریعہ ٹھنہہ کمالات معلوم سپد مت آس۔ تمہہ معجزہ آس نہ چند ان
 ضرورت روز مرہیہ معجزہ وہ چھنہہ برو نٹھہ تمند تصدیق کرن چھو دلالت کران تمسد کمال عقل و گاٹ
 جارس پیٹھ۔ تمی موكھہ كور اللہ تعالیٰ ان پتہ تسدس گاٹ جارس تاسیدہ فرمانہ سیت کہ وصدھا
 ما كانت تعبد من دُونِ اللَّهِ تمہہ آسہا ایمان اوٹمت۔ مگر سو آس پتھ رٹھہ ایمان انہ نشہ تمو
 چیز و تمکن چیز ہندہ پرستش کر ٹگ خدا یس و رای عادت اوس سپد مت۔ سو عادت کیا زہ اوس
 سپد مت إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ کیا زہ سو آس کافر قومہ منزہ۔ تمہہ پتہ یوٹھہ سلیمان علیہ
 السلام کہ اس بلیسہ ہا و اوس معجزہ تہ شان نبوت ہاونہ پتہ پنہ سلطنتک شان تہ۔ تالیجہ ٹھنہہ سو
 زانہہ دنیاعکہ اعتبارہ ہن پان زانہ بوڈ۔ چنانچہ تمو بنو ااکہ عظیم الشان شیشہ گراہ۔ تھہہ پر تھہ طرفہ لاگنہ
 آمت آس شیشہ شیشہ۔ تمہہ کس صحنس منز اوس اکھ تلاواہ آمت ہاونہ تھہ منز اوس آب صاف۔ بیہ
 گاڑہ تراونہ آمزہ۔ پیٹھ اوس تھہ تلاوس فرش دنہ آمت صاف و شفاف شیش ہند۔ ظاہرہ پاٹ آس نہ
 تم شیشہ بوڑے یوان۔ سو تلاو اوس آنگنس منز۔ تمہہ پیٹھہ شیشہ مجلس منز اٹنہ خیطرہ ضرور چن اوس
 بیوان قیل لھا ادخلی الصرح فلما رآته اس بلیسہ آوونہ اٹنہ تمہہ آچھنہ منزہ تھہ کمرس اندر۔
 یوہے کمرہ مار کر ٹھہ پسند نہنہ قیام گاہہ خیطرہ۔ پس یلہ تمہہ سو آنگن و چھہ اندر اٹرت حسیبتہ لجة

صَرَخَ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَہٗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَ
 اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۳۴﴾ وَاَلْقٰہُ اَرْسَلْنَا اِلَیْ
 نُوۡدٍ اَخٰہُمْ صٰلِحًا اِنْ اَعْبُدُوا اللّٰہَ فَاِذَا ہُمْ فَرِیْقٰنٍ
 یَّخْتَصِمُوْنَ ﴿۳۵﴾ قَالَ یَقُوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ
 الْحَسَنَةِ ۗ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ لِلّٰہِ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۳۶﴾

آجئے کس تلاوس گوس خیالیہ ماہجود ریاد آتھ آگئس منز وکشفنت عن ساقیہا تمی موکھہ کھار تمہ
 ایزار نر گروزو نشہ تھود۔ گروزہ تھوین ئے ہتھہ پاٹھ آس منز وسنہ خیطرہ کاہنہ تھوان ہجوہو قال
 سلیمان علیہ السلامس دوہس یلہ تم نظر پیہ اتھ پیٹھ اِنَّہ صَرَخَ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِیْرِہ ای بلقیس یہ ہجوہ
 سوزوی محل۔ آگن ہتھہ ہجوہ فرش کرنہ آمت شیشوسیت۔ تمہ ساتہ سپد معلوم بلقیسہ کہ یتہ ہجھہ ذنیوی
 عجایب چیزتہ تمہ قسمک تم نہ مہ از تام و ہتھمتی ہجھہ۔ چنانچہ تھندس دس اندر سپز پر ہتھہ طریقہ
 سلیمان علیہ السلامہ سز پور و قعت تہ عظمت پیڈہ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ تمہ ساتہ ڈوپ تمہ
 پروردگار مہ کور ظلم پان پانس گھرہ تہ ہر کہ سیت از تام و اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
 از ہجھس یو مسلمان سپدان۔ ایمان اتان سلیمان علیہ السلامس سیت یعنی تہدہ طریقہ موجب ہجھس پڑھ
 کران تس معبود بر حقس ئس عالمین ہند رب ہجوہئے گویہ بلقیس۔ چنانچہ سلیمان علیہ
 السلامن کور تو پتہ تم سیت نکاح وَاَلْقٰہُ اَرْسَلْنَا اِلَیْ نُوۡدٍ اَخٰہُمْ صٰلِحًا اِنْ اَعْبُدُوا اللّٰہَ ہز پٹا ہ
 سوز اسہ قوم ثمودس گن یوی تھند صالح علیہ السلام یوسے پیغام ہتھہ کہ ہرک تراوت کمر و تہہ عبادت
 معبود بر حقہ سز۔ تم پڑہ ہاساری انہ ہن تم ایمان فَاِذَا ہُمْ فَرِیْقٰنٍ یَّخْتَصِمُوْنَ ئس سپزہ تم زہ
 جماڑہ ایمان تہ کافر تھے آس پانہ وان ہرہ ہر تہ قضیہ کران۔ تھند قضیہ یلہ ووت صالح علیہ السلامس
 نغہ تمودیت فیصلہ ہا ایمان ہندہ حقہ۔ کافر لگ و نغہ تمہ عذابگ نیم تہہ اسہ کران ہجوہہ سوعذاب
 انوجلدہ قَالَ یَقُوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ تمود و پیک ای لو کو تہہ کیازہ ہجوہہ توبہ

قَالُوا الظَّيْرُنَايِكَ وَبَيْنَ مَعَكَ قَالَ ظَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ
 أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿۳۷﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصِلِحُونَ ﴿۳۸﴾ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا اللَّهُ لِنَبِيِّتِهِ وَ
 أَهْلِهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوْلِيَّهِ مَا شَاءَ هَذَا مَا مَهْلِكُ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۳۹﴾

کرنہ تہ ایمان آنہ بروٹھ لیس رت چیز اہ چھو، عذاب تھانڈان۔ لیس بیچھ چیز اہ چھو۔ توہہ پڑہ ہاکہ
 عذابک و عید بوزت ایمان اُن تہ پڑھہ گرن۔ تھہ برعکس چھوہ تہہ عذابہ گوی در خواست کران۔ یہ
 گو سیٹھاہ بے پروالائگ۔ لَوْلَا سَتَعْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اتھہ بدل کونہ چھوہ تہہ اللہ تعالیٰ
 اَسْ كُفْرَه نِشہ مغفرت منگان دیو توہہہ پیٹھہ رحم ایہ کرنہ۔ عذابہ نِشہ ایہ ہو چھوٹا تھاونہ قَالُوا الظَّيْرُنَايِكَ
 وَبَيْنَ مَعَكَ تمودوپ ہس اَس چھت تہہ یہ ہم تہہ سیت چھہ پھیل زانان کیا زہہ پتہ پیٹھہ توہہہ یہ
 نووند ہب کوڈوہ، تہنزیہ نوجماعت پیدہ سہز تہہ پیٹھہ سہز قومس منزبے اتھاتی۔ نا اتھاتی ہنزہ ہمہ خرابیہ
 چھہ تمہہ سہزہ سارے ظاہر۔ لہذا چھوہ توہی تمکن خرابین ہندہ ذمہ دار قَالَ صَاحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 فَرَمَوْا كَ ظَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تہندہ نحوستگ سبب چھو اللہ تعالیٰ اَس معلوم۔ تہنہہ کھرچہ تہ شرکچہ کامہ
 چھہ اللہ تعالیٰ اَس معلوم۔ ہمہ تخلیہ چھہ یعنی کاین ہندہ شامتہ توہہہ واتان۔ چنانچہ سنوی نا اتھاتی چھہ
 بیچھہ تہ مذموم یوسہ ہزس تہ حقس خلاف کرنہ سیت سپدہ۔ لہذا سپدہ نہ امیک الزام با ایمان پیٹھہ بلکہ چھو
 امیک الزام کافرن۔ ونہ کوت و اتوہ تہہ۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ بلکہ چھوہ تہہ تم لوک ہم امہ کھرہ
 سببہ عذابس گرفتارین کرنہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصِلِحُونَ چھہ پات
 اَس اتھہ شہرس اندر کافرن ہنز کثرت۔ لیکن تہندہ سر غنہ اَس اتھہ شہرس اندر نوجما تہہہ ملکس
 منزبتاہی کران آسہ۔ کئہ قسمہ سنبھالان آسہ نہ۔ بلکہ اَس فسادی فساد کران۔ چنانچہ اکہ پھر کوزکھ
 یہ فساد کرنک ارادہ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا اللَّهُ ونہہ لگ پانہ وان تہہ ساری کمر و قسم خدایہ سُنَد تھہ پیٹھہ
 کہ لِنَبِيِّتِهِ وَ أَهْلِهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوْلِيَّهِ مَا شَاءَ هَذَا مَا مَهْلِكُ أَهْلِهِ اَس گزہورات کیت توپتہ گزہ حملہ صَاحُ

وَمَكْرُؤٌ مَّكْرٌ أَوْ مَكْرُنَا مَكْرٌ أَوْ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۰﴾ فَاَنْظُرْ كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۚ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۱﴾ فَتِلْكَ
 بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۵۲﴾
 وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۳﴾ وَلَوْ طَآءِذٌ قَالَ
 لِقَوْمِهِ آتَاؤُنَ الْفَآحِشَةِ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۵۴﴾ أَنْتَكُمْ

صمیس پیٹھ۔ تھ اندر مارون سوہیہ تھند اہل و عیال بیہ تھنز ساری جماعت۔ تمہ پتہ ہر گاہ تحقیق آج نوبت
 آئیہ آس و نو، تمسیدس و لیس تہ تھندین وارث، آس آس نہ شامل آس تہ امسدہ عیالہ کس مارنس اندر
 وَلَآ اَلْصَّادِقُونَ سیت و نو آس چھہ واقفی پوزوندون۔ اتھ پیٹھ آسہ نہ اسہ اختلاف موقفک کاہنہ گواہا۔
 معاملہ دیہ بتہ تھے۔ تو پتہ درای تم کہ خبہ یہ کوم کرنہ خیطرہ و مکرؤ مکرؤ اؤ مکرنا مکرؤ اؤ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ
 تم آس پتہ جایہ امہ قسمک تدبیر کران۔ آس تہ آس پتہ جایہ تھندہ گالنگ تدبیر کران۔ تمن رُوزنہ تج
 خبری۔ سو گواہی کہ تم بلہ یہ کوم کرنہ خیطرہ پگان آس کہ کوہہ پیٹھ گواکھ بوڈ پلاہ ڈلہ یوہے پیو سیود
 یعنی پیٹھ۔ تھ تل گمہ ہتھہ مود ساری۔ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ نِس وچھ ژہ ای وچھونہ کہ
 تھندین تدبیرن ہند انجام کیاہ سپد۔ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ سو گوتی زہ اسہ گال تم بیہ تھند قوم
 سو زوی امہ علاوہ آسانی عذابہ سیت فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ کیا چھہ گرہ تھند دیہ بیٹھت، ویران گمت
 بِمَا ظَلَمُوا تھندہ ظلمہ یعنی کفر تہ شرک کر چھہ سبب۔ چنانچہ منک لوکھ چھہ شام گڑھنیہ وتہ اندر تمہ
 جایہ وچھان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ہنز پاپ اتھ منز چھہ ہڈ حیرت زانہ و نین لوکن ہندہ
 خیطرہ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ بیہ ڈیت اسہ نجات تمن لوکن سمو ایمان اون بیہ آس
 خدا نِس کھوژان۔ پتہ روزان شرک و کفر نیشہ۔ تمہ قتلہ نیشہ تہ سمیگ تمو مشورہ کریو۔ بیہ امہ قہری
 عذابہ نیشہ تہ۔ وَلَوْ طَآءِذٌ بیہ سوز اسہ لو ط علیہ السلام پنہ نِس قومس کن۔ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتَاؤُنَ
 الْفَآحِشَةِ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ بلہ تمو دوپ پنہ نِس قومس کہ کیاہ تہہ چھوہ یہ بیچھ کام کران۔ حالہ

كَتَاتُونَ الرِّجَالِ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُو آلَ
 لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ
 أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَآمَطْنَا
 عَلَيْهِمْ مَّطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ
 عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

تہہ چھوہ وچھان یہ کرہہ بیچہ کام چھہ۔ ایتکم کتاتون الرجال شهوة من دون النساء کیاہ تہہ
 چھوہ مردان لشعہ یوان بن شہوت تہ خواہش پورہ کرنہ خیترہ زنانہ تراوت ستمہ تھی خیترہ چھہ پیدہ کرنہ
 آخڑہ بل انتم قوم تجھلون بلکہ چھوہ تہہ قومہ جاہل۔ خبری چھوہ نہ امیک نتیجہ کیاہ پیرہ
 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا پس اوس نہ تمن لوکن ہند جواب کیہہ تہ مگر ای زہ دوپ تموپانہ
 وَاٰلِهِمْ اٰخِرُوَالٍ لُّوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ کڈیون لوط علیہ السلامہ سند اہل و عیال
 لوط علیہ السلام بیتہ پنہ شہرہ منزہ کیاہ تم چھہ پانس شانت زنانہ۔ یلہ اوت پیٹھ کام واثراسہ کورتھہ
 قومس پیٹھ عذاب نازل فَاَنْجَيْنَاهُ وَ اَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ الْغَابِرِيْنَ پس دیت اسہ نجات
 لوط علیہ السلامس بیہ تمسندس عیالس تنہزہ آس زنانہ ورا ی یوسہ اسہ ازے مقرر کر مرث آس ات
 روزت عذابس گر فاسدہ و نیواندرہ وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا توپتہ ترود اسہ تمن پیٹھ عجیب قسمگ
 زوداہ بیتھ منزکنہ اسہ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِيْنَ پس اوس سیٹھاہ بیچہ تمن بیم کرنہ آمتین ہند سورود قُلِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ دیو حمد تہہ خداس نافرمان ہندس ہلاک گڑھنس پیٹھ۔
 بیہ یون سلامتی ہمیشہ خدایہ سندین تمن ہندن پیٹھ تم تم ژار تہ برگزیدہ گرن ءَاللّٰهُ خَيْرٌ
 اَمَّا يَشْرِكُونَ کیا خدا معبود برحق۔ تمسند احسانات بیان کرنہ آی چھاہتر، کنہ تم معبودان باطل۔
 تمن تم خدایہ سد شریک چھہ ٹھہراوان۔ امیک تفصیل چھوہ پیٹھ پاٹھہ کہ ای لوکو تہہ کمر تو خدایہ سندین

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ
 لَكُمْ اَنْ تَنْبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ اِنَّ مَعَ اللّٰهِ لَعِلَّةً لِّمَنْ يُؤْمِرُ بِعَدُوِّهِ ۙ
 اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا وَّجَعَلَ
 لَهَا رَوَاسِي وَّجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ اِنَّ مَعَ اللّٰهِ
 لَعِلَّةً لِّمَنْ يُؤْمِرُ بِعَدُوِّهِ ۙ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ

کمالاً ان اندر غور۔ تو پتہ و نوتہ۔ تم پو پتل چھا بہتر اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ کہنے سُوذات پاک چھو بہتر، سم آسمان تہ زمین پیدہ کمر وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً یہ سم آسمانہ طرفہ ٹھہرہ خیرہ رود تروو فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ تہ رودہ سیت کھار اسہ سر سبز باغن ہند کل۔ سم ترو تازہ تہ پُرو نوق چھہ ماکان لَكُمْ اَنْ تَنْبِتُوْا شَجَرَهَا اوسنہ توہہ ممکن کہ ٹہہہ کیاہ کھاہو کہ تمن باغن ہند کل پانے۔ یہ بوزت و نوتہ عِلَّةً مَعَ اللّٰهِ کیاہ اللہ تعالیٰ اس سیت شوبیا عبادتس اندر یہ کابنہ معبوداہ شریک (ہرگز نہ) مگر یم مشرک چھنہ توتہ مانان بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ بلکہ چھو توتہ بین مخلوقن خدا بس سیت برابر تھاوان۔ معبود برحقہ سند یہ کمالات بوزت و نوتہ کہ کیاہ سم معبودان باطل چھا عبادتس سزاوار اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَّجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا کہنے سُوذات پاک چھو بہتر، سم زمین کور مخلوقن ہندہ روزنچ تہ قرار کرہ نچ جای۔ یہ سم تمہہ زمینہ منزہ کولہ تہ دریا و پکنا نوتہ۔ یہ سم امہہ زمینہ ٹھہر نہ خیرہ اتھہ پیٹھ سکوہ کمر پیدہ لنگر ہی۔ یہ یم ڈون دریا و ن منز کور ٹھور تمہہ قسمگ کہ کمرہ دریا وک آب چھونہ میلان یہہ دریاوہ کس آلس سیت۔ یہ بوزت و نوتہ۔ عِلَّةً مَعَ اللّٰهِ کیاہ اللہ تعالیٰ اس سیت یہیہاہہ بیا کھ معبود شریک آبتھ، مگر مشرک چھنہ توتہ یہ کتھ مانان بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھنہ تمہو لو کو اندرہ وارہین خبر ہی کہنہہ۔ خیر، تس ذات پاکہ سند یہہ کمالات بوزت و نوتہ کہ سم معبودان باطل چھا بہتر اَمَّنْ يُجِيبُ

وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ
 قَلِيلًا مَاتَ كُفْرًا ۖ ﴿۶۲﴾ آمَنُ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا ابْنَ يَدِي رَحْمَتِهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَعَلَّى اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ ﴿۶۳﴾ آمَنُ يَبْدَأُ
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ قُلُّ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ ﴿۶۴﴾

الْمُضْطَّرُّ إِذَا دَاعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ۖ كنه سُذَاتِ پاك چھو بہتر نئس بیقرار تہ لاچارہ سندس معھ نس
 اجابت چھو کران۔ یلہ سُوئس منگان چھو۔ بیہ نئس مضیت تہ سختی چھو دُور کران وَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
 الْأَرْضِ بیہ نئس توبہ چھو کران ز مینس اندر صاحب تصرف تہ جائشین عَالِه مَع اللّٰہ بیہ یوزت و نتو
 تہہ اللہ تعالیٰ اس شریک عبادت آسئس لایق چھابہہ کاہنہ معبود (ہرگز نہ) قَلِيلًا مَاتَ كُفْرًا
 مگر سیٹھاہ کم چھو توبہہ امیگ خیال تہ سمہ تھہ یاد تھاوان۔ وون یوزت و تھہ بے کمالات توپتہ و نتو تم
 معبودان باطل چھابہہ عبادتس سزوار آمَنُ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ كنه سُذَاتِ پاك چھو
 سزوار نئس توبہہ و تھہ چھو ہاوان خشکی تہ تری ہنزن کئن اندر وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا ابْنَ يَدِي
 رَحْمَتِهِ بیہ نئس سوزان چھو و اوس پنہہ رحمتہ یعنی باران رحمتہ برو تھہ خوشخبری ہتھہ۔ بیہ یوزت و نتو
 عَالِه مَع اللّٰہ باوجود آں بیجیائس سیت کاہنہ معبوداہ، شریک بنت عبادتس اندر۔ ہرگز نہ۔ تَعَلَّى
 اللّٰہ عَمَّا يُشْرِكُونَ بلکہ چھو اللہ تعالیٰ تہدہہ شرکہہ نغمہ سیٹھاہ بالا تہ تھود۔ تئس معبود برحقہ سند بے
 کمالات یوزت و نتو کہ تم معبودان باطل چھہ بہتر۔ آمَنُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ كنه سُذَاتِ
 پاك چھو بہتر تم ساری مخلوقات گوڈہ پیدہ کمر توپتہ کر کیکہ سؤی دُوبارہ بیہ پیدہ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بیہ نئس توبہہ رزق چھو عطا کران آسماکھ طرفہ زود تراوتھہ تہ زینکہ طرفہ غلہ تہ کل
 کھارت۔ بیہ یوزت و نتو عَالِه مَع اللّٰہ کیاہ معبود برحقس شریک عبادت آسئس لایق چھابہہ کاہنہ

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
 وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادْرِكْ عَلَيْهِمْ فِي
 الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ فِيهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُ وَنَنَايَتْنَا
 لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاءُ نَا مِنْ

معبودا۔ ہر گاہ تم یہ بوزت و ن کہ تہند معبودتہ چھہ مستحق عبادت قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تہہ فرما یو کہ۔ یار رسول اللہ انو تہ پیش کمر و سہو دلیل چھوے تہہ پوزنہ دن۔ تم کو کہ قیامتک وقت معین پاٹ نہ ونہ سبہ قیاس انکار کران چھہ تمن و زونہہ جواب کہ تہند یہ و ن چھو غلط کیا یہ قیامتک مسئلہ چھو غیبہ چو کھو اندرہ۔ تہ تم مخلوقات آسمان وز مینس منز چھہ، تمونزہ چھونہ کا نہ تہ غیبہ چہ کھہ زمان خدائس و رای۔ ہر گاہ مہ نشہ تہ تو بہ نشہ قیامتہ کبر و قو عک علم پو شیدہ رود یہ کیا ہ کتھاہ چھہ۔ تمام عالمس منز تم مخلوق چھہ تمن نشہ چھہ امہ و رای تہ یہہ کا زاہ کتھہ پو شیدہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ توہ فرما یو کہ یار رسول اللہ آسمان تہ زمین منز تم چھہ تموندرہ زانہ نہ کا نہہ اکاہ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ غیب خدائس و رای وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بیہ چھہ لوکن کینہہ تہ خبر کہ کرین تم بیہ زندہ کرنہ تہ قبر و منزہ تانہ بَلِ ادْرِكْ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بلکہ سپد ختم تہند علم آخرتس متعلق تو پتہ وات نہ تم کتہ تجس پیٹہ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا چنانچہ تم چھہ ونہ تمکہ حقہ شکہ سی منز بَلْ هُمْ فِيهَا عَمُونَ بلکہ چھہ تم تمکہ حقہ ان تہ نابینا۔ کیا زہ ہتھہ پاٹھ انس چھہ و تھہ ورنیٹھی یوان تمسند مقصدس و اتن ہجھو دشوار، ہتھہ پاٹھ واتن نہ تم تہ مقصدس وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُ وَنَنَايَتْنَا لَمُخْرَجُونَ بیہ دوپ تجبہ کن تمولو کو تمونار کور قیاس کیاہ اس تہ بیہ سان مال بڈب، یلہ اس میزہ ہ سیت میزہ آسوگت، تو پتہ میزہ اس قبر و منزہ بیہ کڈنہ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاءُ نَا مِنْ قَبْلُ پز پات اسہ سیت بیہ سائین مالین بڈبن سیت چھہ ہتھہ وعدہ برو تھہ

قَبْلَ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۶۸﴾ قُلْ سِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۶۹﴾
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۷۰﴾
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷۱﴾ قُلْ
 عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۷۲﴾
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

تہ کرنے آمت، کیا زہ ساری انبیاء آئی یوہے وعدہ کران مگر نہ سپد از تام سو وعدہ پورہ، نہ وون کانہہ کہ
 کر آسہ سو قیامت۔ امہ آندرہ چھو معلوم سپدان کہ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سمہ پھہ بے
 سزہ تھہ سمہ برو نظمین نشہ نقل کرنے یوان چھہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ یلہ قیامتہ کس امکاس پیٹھ عقلی دلیلہ تہ تمہہ کس وقوعس پیٹھ نقلی دلیلہ وار بہن
 جاین تھہ آوہ بوزانونہ توہہ پڑہ نہ انکار کرن۔ ورنہ بہہ توہہ سوی حال بس تین مکران بنیو مت چھو۔ ہر گاہ
 تمہن تھہ آندر شک چھو تھہ فرما یو کہ یارسول اللہ ای مکر و، تھہ پھیر تو مکر قوم ہندین ملکن اندر تو پتہ
 و چھو تو تمہن مکران نافرمان ہند انجام کیاہ چھو سپد مت، تم تھہ پاٹ چھہ عذابو سیت گالہ آمت ہر گاہ
 باوجود سموموثر نصیحتو تہ و عظو تم توتہ تہندس مخالفس پیٹھ کمر گنڈ تھی روزن وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
 وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ تھہ مہ حض یو تھہند غم یارسول اللہ یہیمہ شرارتچہ کامہ تم کران
 چھہ تموسیت مہ سپدان تھہند دل مبارک تنگ۔ تین انبیاء ان سیت تہ چھو یوہے معاملہ سپد مت
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ تم مکر مسلمان وان، کہہ چھو سو عذاب
 سمیک وعدہ تھاونہ یوان چھو، ہر گاہ تھہ پزیر چھوہ۔ قُلْ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي
 تَسْتَعْجِلُونَ تھہ فرما یو کہ یارسول اللہ، دیوہ جلدی واتہ توہہ نش تمہہ عذابک اکھ حصہ سمہ جلدو اتنک
 تھہ مطالبہ کران چھوہ ونیک تان بس تھہ منز تاخیر سپد تمیک وجہ چھو کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

يَشْكُرُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٣﴾ وَمِمَّا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَلْفِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيٰ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٤٧﴾

الثانی وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ پنزپاٹ تہند پروردگار چھو لوکن ہندہ چھ فضلہ ذول۔ مگر اکثر لوک چھنہ شکر گذاری کران۔ عذابہ کس تاخیرس تہ مہلتس چھنہ غنیمت زانان۔ اتھ مہلتہ کس وقس شوبہ ہاتمن حق ژھانڈن، حق قبول کرن، تہ سپدہ باباعث تہندہ نجات ابدیک۔ تہہ بدل چھہ انکار کران تہ عذابک معاملہ ٹھٹھہ زانت تہہ منز جلدی ژھانڈان۔ لہذا مہ زان تم کہ یمن تھن پیٹھ کیا پیہ نہ تم سنر ہی دنہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ پنزپاٹ تہند پروردگار چھو پور زانان تہ سو روی پیہ تم لوک پنہ نین سین تہ دلن منز کھٹت تھاوان چھہ، پیہ تہ سو روی پیہ سنر وان چھہ۔ اللہ تعالیٰ اس کج خبر پور آسکہ علاوہ چھو ظاہری طورہ تہ باضا بطہ دفترن اندر درج یوان کرنہ۔ تہنزن کا مین ہنزی چھہ کینہہ خصوصیت وَمِمَّا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَلْفِي كِتَابٍ مُّبِينٍ بلکہ چھونہ کانہہ پوشیدہ چیزہ آسمان تہ زمین منز، کس نہ درج چھونہ کتابہ اندر یعنی لوح محفوظ اندر إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پنزپاٹ پیہ قرآن مجید چھو فیصلہ بیان کران بنی اسرائیلن پیٹھ وار یمن تم ن چیزن منز تم ن اندر تم اختلاف کران چھہ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بیشک قرآن مجید چھو با ایمان ہندہ خیطرہ خاص ہدایت پیہ خاص رحمت۔ ہدایت باعتبار طاعات و اعمال۔ رحمت باعتبار ثمرات و نتائج إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيٰ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ یلہ نہ تمو مون عقلی تہ شرعی

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿۷۹﴾
 إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا
 وَكُوا مُدْبِرِينَ ﴿۸۰﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ
 إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾ وَ
 إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ
 تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۲﴾ وَ

فیصلہ، بیشک وون کرہ تہندہ پروردگار عملی فیصلہ تمین اختلاف کرہ ونین منز پنہ حمہ سیت قیامتک
 دوہ۔ تمی دوہہ سپدہ تمین معلوم پوز کیاہ اوس تہ اپز کیاہ اوس۔ سو پروردگار چھو غالب تہ زبردست۔
 سو زوی زانہ ون۔ تس نش چھونہ پوشیدہ کنہی فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین بس
 کمر و تہہ توکل تس معبود بر حقس پیٹھ۔ بیشک تہہ چھوہ نس پز س پیٹھ۔ پز زیارین چھو اللہ تعالیٰ مدد تہ
 یاری کران **إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَكُوا مُدْبِرِينَ** بیشک تہہ بیکو کہ
 نہ بوزہ ناوتہ مردہ، بیہ بیکو کہ نہ بوزہ ناوتہ بن آوزندہ خصوصاً یلہ تم توبہ کن تھر کمر تہ لان آسن
وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ بیہ بیکو نہ تہہ انین تہ نابیناء ان کمر انی نشہ بجاوت، وتھ
 ہاوتھ **إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ** تہہ بیکو کہ نہ بوزہ ناوتہ مگر تھے سم
 ساین آیاتن پڑھ تہ یقین کران آسن۔ تھے لوک چھہ سان حکم مانہ ون **وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ**
عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ بیہ یلہ وعدہ قیامت لوکن پیٹھ پورسپدہ ون آسہ۔ یعنی
 قیامتک وقت یلہ نزدیک سپدہ اس کڈون تہندہ خیطرہ عجیب جانور اہ کہ زمینہ منزہ **تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ**
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ سوی جانور کرہ لوکن سیت تھہ۔ دیکھہ کافر لوک چھہ ساین آیاتن یقین
 کران خصوصاً تمین آیاتن سم قیامس متعلق چھہ۔ وون واثر قیامت نزدیک۔ چنانچہ اھ علامت اوس
 تمیک میون ظاہر سپدن۔ چنانچہ اتھ کرن ساری تصدیق۔ پیغمبر آسبھہ فرماوان، تمین آس تکذیب

يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۸۳﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالَ الْكَذِبُ
 بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾
 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۸۵﴾
 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾ وَيَوْمَ يَنْفَخُ

کران۔ دابۃ الارض ینیرہ اُس کران تصدیق۔ مگر اُسے ساتھ تصدیق کر س آسہ نہ کاہنہ اعتبار و یوم
 نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ یہ پاؤں ہر ٹیس لوکن سو
 دوہ یمہ دوہہ اُس پر ہتھ اُمۃ منزہ اکھ اکھ جماعتہا جمع کروں تمں لوکن ہنر ہم سائین آیتن ایہ زانان
 آس۔ تو پتہ ین تم الگ الگ تھاونہ۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالَ الْكَذِبُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا
 أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تاہنکہ یمہ تم خدائس بروئٹھ کن واتن سو پڑ ٹھیک کیاہ توہہ زانہ دوکھ میان
 آیات اپنہ حالیکہ توہہ اوسونہ تمں آیتن ہند پور علم کینہہ تہ۔ تمں کن کورونہ توہہ تدبر۔ تہ فخر کرنہ
 وراہی کورونہ توہہ انکار تہ تکذیب تمں آیتن پاویو توہہ ٹیس اُمۃ علاوہ کہ کمہ کلمہ کردہ توہہ۔
 مثلاً انبیاءن تہ بایمان آسہ ووان تکلیف۔ یہ آسہ کفرہ کین عقائدن تہ اعمالن منزبتلا۔ تہ ونوئٹہ
 کیاہ آسہ کران خدائس تہ تہند ین آیتن انکار کرنہ وراہی وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا واقع سپد
 تمں پیٹھ عذابک حکم تہدہ ظلمہ موکھہ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ئیس ممکن نہ تم تھہ کثرت۔ مر نہ پتہ یہ
 زندہ سپدنہ پتہ چھہ نقلی دلیلن ہندہ علاوہ عقلی دلیلہ تہ مثلاً أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنْ فِيهِ
 وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیاہ وچھان چھنا تم سانہ قدر تک بوڈ نشانہ کہ
 بیشک آسہ کثرت رات گھٹ گتھہ لوکھ تھہ منز آرام کرن۔ یہ کثرت آسہ دوہ روشن گتھہ تھہ منز لوک کوم گھٹ
 کرن راتس منز آرام کرن تہ شوگن۔ اتھ چھو تشبیہ موتس سیت۔ دوہلہ وٹھن اورہ یور کرن اتھ

فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ ذَخِيرِينَ ﴿۸۷﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ
 تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ طَبَّعَ اللَّهُ
 الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿۸۸﴾


چھو تشبیہ مرنہ پتہ بہہ زندہ سپد نس سبت بیشک بالیمان ہمدہ خیطرہ چھہ اتھ منزجہ جہہ دلیلہ ویکومر
 يُنْفَعُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ یہی پاووکون
 ژتیس تمہ ڈہک ہیبت سمہ دوہنہ پھوکھ دنہ بہہ پوغس منز توپتہ گابرن تہ بانبرن۔ یس تہ ہوش۔ روزہ
 نہ تمین سارنی تم آسمان تہ زمین اندر چھہ۔ ملائکو تہ انسانو اندرہ مگر نہ تم سمن ہند اللہ تعالیٰ یڑھہ۔ تم
 روزن پندر ڈنجہ ہسین تہ حواسن اندر۔ حدیث شریفس منز چھو، تم گئے جبریل امین میکائیل، اسرافیل
 تہ عزرائیل یہی حاملان عرش وکلُّ أَتَوْهُ ذَخِيرِينَ توپتہ ین ساری خدائس برو تھکن عاجزہ ذلیل
 سپد ت۔ دنیاءس منز چھو دستور کہ کھوژنہ وزہ چھو شخص ژلان مگر تمہہ دوہنہ بیجہ نہ کاہنہ اکھاہ کٹر جلیہ
 ژلت۔ چنانچہ تم زندہ آسن تم مرن، تم موت آسن تم سپدن بیہوش یعنی جہند روح۔ یہ حال سپدہ
 جاندارن۔ بے جان چیزن ہند حال چھو فرماوان اللہ تعالیٰ امہ پتہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً
 وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ یہی چھو کہ وچھان ژہ ای وجھہ ونہ گمان چھوک کران کہ تم کوہ چھہ آکسی
 جلیہ بند۔ تھے پاٹھہ تہ آٹھہ حالشی پیٹھہ ماروزن ہمیشہ مگر حقیقتس منز آسن تمہہ دوہنہ تم کوہ ابرک پاٹھہ آورہ
 یورپکان۔ سترک پاٹھہ آسن دونہ امتِ صُنَّعَ اللَّهُ الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اتھ پیٹھہ گڑھہ نہ کاہنہ
 تجب کرن۔ کیا زہ یہ چھہ خدایہ سنز کام ستم یم ساری چیز مضبوط تہ محکم کمر۔ ابتداءس منز آسن نہ کٹہ
 چیزس منز مضبوطی۔ سو چیزیلہ تم قدر تہ وال پیدہ کورادہ کورس مضبوطی عطا۔ یم پرودگارن سو چیز
 پیدہ کور توپتہ وژس مضبوطی سو بیجہ نس زعمہ سو مضبوطی زائل کمر تہ بلکہ سو چیز ی یکدم ختم کمر تھہ
 إِنَّهُ خَيْرُ بِمَا تَفْعَلُونَ یہ چھہ یقینی تھہ کہ اللہ تعالیٰ اس چھہ تہنزن سارنی کابین ہنز پور خبر۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا وَهُمْ مِنْ فِرْعَ يَوْمَ يَدِينُ
 اِمْنُونَ ﴿۸۹﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ
 يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَا اُرْسِلْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ
 الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَ هَاوَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَاُورْسِلْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۱﴾ وَاَنْ اَتْلُو الْقُرْآنَ فَمِنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا وَهُمْ مِنْ فِرْعَ يَوْمَ يَدِينُ اِمْنُونَ اِس کا اہاہیہ اِس نشہ نیکی یعنی ایمان
 ہیتہ تسدہ خیطرہ چھو تمہ خوتہ رت بدلہ۔ یعنی ایمان انہ اِس پیٹھ سمہ مزورہ ہند سو مستحق اوس تمہ
 مزورہ خوتہ بہتر مزورہ بدلہ لہ اِس عطا کرنہ بیہ آس تم تمہ دوہمہ خوفہ تہ پریشانی نشہ اِس اندر
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ بیہ تم لوک خدا اِس نشہ بدی ہیتہ یعنی کفر تہ شرک ہیتہ
 یں ہتھ کن تراونہ نارس اندر۔ ونہ اکیہ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ توہمہ چھونہ بدلہ یوان دنہ مگر
 تمہی کا میں ہند سمہ تہہ کران آہوہ ذنیاس اندر۔ بے وجہ چھونہ کانہہ عذاب یوان کرنہ اِنَّمَا اُرْسِلْتُ
 اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَ هَاوَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ تہہ فرما یو کہ حض یارسول اللہمہ آونہ کانہہ
 حکماہ کرنہ سمہ حکمہ ورا ی کہ یو کرہ عبادت سمہ شہرہ کس مالکہ سنز سم اتھ شہرس عزت دیت۔
 گوڑھس نابوتہنزی یاژ عبادت کرن۔ تمہ خدلیہ سُد چھو پر ہتھ چیزاہ۔ وَاُورْسِلْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ بیہ آومہ حکم کرنہ کہ یو آسہ فرمانبر دار واندہہ وَاَنْ اَتْلُو الْقُرْآنَ بیہ آومہ بیہ تہ حکم کرنہ
 کہ بو بوزہ ناووہ تہہ لوک قرآن مجید یعنی بو کروہہ توہمہ تبلیغ احکام اِس نبوتس لازم چھو فَمِنْ اِهْتَدَى
 فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلَّى فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ اِس اِس قرآن مجید یوزت میانہ تبلیغہ سبت
 وتہ پیٹھ بیہ سو پیہ پنہ نی پانہ کہ فایدہ خیطرہ۔ یعنی اِس چھو تمیک فائدہ پائس۔ بیہ اِس وتہ نشہ ذلہ اِس
 چھو تمیک ضرر پائس۔ تہہ فرما یو کہ یو چھوس نہ مگر نیم کرہ و نیواندرہ۔ اکھ نیم کرہ و ناہ، یعنی حکم بوزہ
 ناوہ و نیو پیغبر و اندرہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ فَصَبْرٌ قَوْلَهَا بیہ دپو ساری تعریف شو بن خدا اسی

وَمَنْ ضَلَّ فَكُلُّ إِنْسَانٍ لِنَاسٍ أَلْفٍ مِّنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٦﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

یوت۔ مہ یہ کنیرہاہ مٹہ اوس تہ وول مہ بھہ۔ اللہ تعالیٰ ہاوہ توہہ پن نشانہ پانے یعنی قیامتک واقعات
پس ترہ توہہ پانے فخرہ قصہ کیاہ چھو وَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھونہ ہرگز ٹھہند پروردگار بے
خبر تھو کامیونٹہ یہ ٹھہ کران چھوہ۔ لہذا دیہ سو با ایمان پنہ نین عملن ہند رت جزاء۔ کافرن تہ مکران
دیہ بچھ کالمین ہند پور سزاء۔



سُورَةُ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 طَسَّ ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَتَلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ
 مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ
 عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً
 مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
 الْمُسْفِينِ ④ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا

طَسَّ اسم جہہ حروف مقطعات۔ تم ہند معنی زانہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ اسم مضامین
 اسم توبہ پیٹھ بطریق وحی جہہ سوزنہ یوان، اسم جہہ اسم کتابہ ہند آیات۔ اسمک معانی بالکل واضح ہے
 صاف جہہ نَتَلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سمو آیا تو منزہ جہہ مو قفس
 پیٹھ اس موی علیہ السلام ہے فرعونہ سندہ قصہ آندرہ اکھ حصہ توبہ پیٹھ ہر ان جہہ۔ پزپاٹ تم لوکن ہند
 نفعہ خیطرہ اسم پڑھ کرہ ون جہہ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ بیشک فرعون اوس کو نب لودمت مصرہ
 کس سر زمیں منز وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا یہ آسن تہہ کین لوکن مختلف قسم کمرمت۔ قبل آسن باعزت
 تھاومت۔ سبطی یعنی بنی اسرائیل آسن بے عزت کمرمت۔ سمیک تفصیل یہ بیان کرنہ بروٹھ
 یَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ کمزور تہہ پست اوس زانان تمواندر اس جماعتس یعنی بنی اسرائیل جہہ
 پاٹ کہ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ کھش اوس کرہ ناوان تہدین پنچوین اسم نو ی زیوان اس
 مارہوا تلم ہندہ آتھ۔ زندہ اوس تھاوان تہزن زانان، یعنی کورین جہہ تم اتھہ خدمت کرہ ناوان۔ یہ
 اوسکھ نہ کورین ہند خوف تہ خطرہ تہ کہنی۔ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسْفِيْنَ بیشک اوس سوتباہی کرہ ونیو
 آندرہ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا سون ارادہ اوس دینی و دنیوی احسان کرن تم لوکن پیٹھ اسْتَضَعُّوا

فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَتَمَّةً ۖ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۗ
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۖ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ
أَرْضِعِيهِ ۖ فَاذْخِفِي عَلَيْهِ فَإَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا
تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ

فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَتَمَّةً ۖ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
سر زمینِ مصرس منزبیه بناوکه اس تم دینک پیشوا۔ بیه کروکه تمی دنیا س اندر سلطنتک وارث
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ بیه دمو اس موقعه من اتھ ملکس اندر حکومت کرنک وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ بیه باو اس فرعونس ته با اس بیه تهنزه لشکره بنی اسرا یملن بندہ اتھ
سُو چیز بجه تم کھوژان اس۔ تفصیل امیک چھویہ کہ یلیہ موسیٰ علیہ السلام اتھ خطرناک زمانس منز
پیدہ سپد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اسہ ترود الہام موسیٰ علیہ السلامہ سندس والدس کہ ژہ
چاون بیه فرزندود۔ ایتس کالس ژہ بیه فرزند پو شیدہ بیکہ ہن تھاوت فَاذْخِفِي عَلَيْهِ فَإَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
ادہ یلیہ ژہ کھوژک تمندہ جھہ تہ تکلیف تلمہ تراون ژہ سو دریای نیلس اندر صندوقس منز تھاوت
وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي بیه تھنہ ژہ کھوژک تمندس پھٹس یا کانہہ نم برکھ تمهنزہ جدائی ہند اِنَّا رَأَدُّوهُ
إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک اس و اتناون سو فرزند و اہلس ژہ نشہ۔ بیه کرون اس
سو پنہ نس و قس پیٹھ پیٹھبر و اندر۔ تو پتہ روز سو تہن دود ووان ادہ یلیہ اندیشہ سپد کہ کہ راز سپدہ فاش
توپتہ تھاو کہ اکس صندوقس منز۔ اتی ترود کہ دریای نیلس منز خدلیہ سند ناو ہتھ۔ امہ دریای نیلگ اکھ
شاخ اوس فرعونہ سند یوشاہی علا قو منز پکان۔ بیه صندوق دوت تپاری فرعونہ سندین علاقن اندر
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تو پتہ روٹ بیه صندوق فرعونہ سند یو لوکو۔ گھر

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿۸﴾ وَقَالَتِ
 امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ
 عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾
 وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسَىٰ فِرْعَاوِينَ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ
 لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَّمَهَا لَتَكُونُ مِنَ الْمُنْمَنِينَ ﴿۱۰﴾
 وَقَالَتِ لَأُخْتِهِ قُصِّيهُ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ

والیوں بی آسیہ، بن سہواریہ موسیٰ علیہ السلامس پوچھ کہ تو نے موجب ہتھ سپرہ سوتن لوکن ہندہ خیرہ دشمن یہ
 نمک تہ پریشانی ہند باعث ان فرعون و ہامن و جنودہما کانوا خاطبین پز پات فرعون تہ ہامن
 یہ تہنز لشکر اس پتہ حقہ سخت غلطی کرہ ون۔ پن دشمن رتھیکھ پتہ کوجھ کیتھ و قالت امرأت
 فرعون قرت عین لی و لک تو پتہ وون فرعونہ سزہ آخیر، آسین، فرعونس یہ فرزند چھو میانین تہ
 چائین اتھن ہند گاش۔ یہ وچھنہ سیت آسہ سون دل پھو لان لاقتلوه یہ متہ مار تون عسی ان
 ینفعنا اونتخذہ و لدا وھم لا یشعرون دیوہ یہ اُسہ بدتھ فایدے و اتناوہ۔ بلکہ بناوون اس یہ پن
 پتو۔ کیا زہ اس چھہ لاوولد۔ تمکن آس نہ اوہ ونہ چاچ خبری کینہہ کہ یہ چھو سوی فرزند سہمہ سبہ اتھہ
 فرعونہ سزہ سلطنت ختم سپرہ و اصبح فواد امم موسی فرعا۔ پار سپرہ موسیٰ علیہ السلامہ سزہ والدہ
 سوند دل سخت بیقرار۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربنا علما قلبہا لتکون من المنمنین
 قریب اوس کہ سو کہ ہا ظاہر سارنی نشہ یہ سو روی حال، اس نے تمسند دل گنڈت تھاوت مضبوط کرہ
 ہو تھ سو امہ پتہ کینہہ کالا گاہ گوھت اطمینان تہ یقین کرہ و نیو اندرہ ہنہ۔ و قالت لاختہ قصبہ
 بصرت بہ عن جنب وھم لا یشعرون تمہ پتہ دوپ موسیٰ علیہ السلامہ سزہ والدن تہنز ہ پتہ
 حضرت کلثومس ووتھ ژہ کر تمسند حال دریافت۔ تو پتہ درلیہ سو۔ واتان و اتان و اثر فرعونہ سند گھر ہ۔
 تہ روز سو و چھان اس و وپرازی پات کہ تمکن لوگ نہ تہمی زہ یہ تھہ اس چہ سزینہ۔ و حرمانا علیہ

لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۱ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نُصِحُونَ ۝۱۲ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۝۱۳ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۴ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اتَّيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۝۱۵ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۱۶ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ

الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ اُمِّه اوس بياکه تدبير کورمٹ۔ اُمِّه اُمِّه رجموه برو نطھی پتھ موسیٰ علیہ السلام نشہ دود وده و نه زنانہ۔ تموروث نہ کانسہ زنانہ ہند دود۔ یہ حال و بہت زون تمسزہ ہم شیران موقعہ غنیمت فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونہ لکم و هم له نصحون کیاہ بود و نوہ توہمہ اکہ گرک پتہ۔ ہم اہس فرزندس ذمہ داری سان رچھن۔ تم آسن اُمنسد سیٹھاہ خیر خواہ۔ دُوب ہس جلد پھن گر تہ کینہ ہاہ۔ سو و ژہہ تہ اُن بہنز والدہ ماجدہ۔ تمو نٹھوی پستان پتن تہندس آس منز ترو۔ تان ہیوت تمو دود چون۔ تمہ دُوب بو نمن یہ گرہ۔ تمس رچھن۔ تمو کورس تسلیم۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ کئی تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ اہس سوزا سہ و اہس موسیٰ علیہ السلام پنہ نس والدس نشہ پتھ شہلمن تہنزہ اچھہ بیہ سپدن نہ تم فراقہ کس غمَس اندر بُتلا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بیہ پتھ سوزا نہ کہ اللہ تعالیٰ سُد وعدہ و تھو حق تہ پوز آسان۔ لیکن افسوس کہ واریاہ لوک یعنی کافر چھہ یہ تھہ زنانہ۔ اتھ تھہ یقین کران وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اتَّيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو پتہ یلہ موسیٰ علیہ السلام ووت پنہ طاقت و قوتچہ و انسہ بیہ سپ پورہ جوان۔ قوت جسمانی تہ قوت عقلی تہند سپد مکمل، عطا کور اُمِّہ تمَن گاثہ جار تہ علم۔ فہم سلیم۔ عقل مستقیم، نبوتہ برو نٹھ و کذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اہس چھہ نیلو کارن تہ پتہ پاٹ رت بدلہ عطا کران۔ اُمِّہ اندرہ سپد معلوم کہ فرعونہ سُد مشرب اوس نہ تمو کینہ وقتہ اختیار کورمٹ بلکہ اُس تمہہ نشہ مُنظر۔ امی زمانگ اکھ واقعاہ سپد کہ موسیٰ علیہ السلام آس اکہ دہہ

أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا
 مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ
 عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ۙ (۱۵) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
 فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۙ (۱۶) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
 فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۙ (۱۷) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا

شہرہ نیر۔ تو پتہ یلہ واپس آئے وَدْخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا تو پتہ ژاے اتھ شہر س
 منز تمہ وقت یلہ اتک لوکھ آس بے خبرات کیت شو بختہ یا توہرس تیلولہ کران فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
 يَقْتَتِلَانِ تو پتہ وجھہ تموا اتھ شہر س اندر زن جورا ہر ہر کران هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ
 اکھ اوس سیمو منزہ تہندہ جماعتک یعنی نبی اسرا نیلو آندہ بیاکھ اوس تہند یو دشمنو آندہ یعنی فرعونہ سند یو
 متعلقو آندہ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ کس مونگ مدد تم شخص کس تہنزہ
 برادری ہند اوس کس شخص پیٹھ کس تہند یو دشمنو آندہ اوس۔ گوڈہ کرے کس تموز بانی ہما کس۔ یلہ
 نہ تم کینہہ مون فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ کس لائے کس موسی علیہ السلام اکھ مکھال تہ اتفاقا سپد
 سو ختم۔ یعنی سو مود تمی اکھ مکھالہ سیت۔ اگرچہ مارنکھ قصدہ لائے نہ تموسو مشیت بلکہ اوس غرض
 کس تمبہہ کران زہ سیتی سپد تمک امیک احساس۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ دو بکھ یہ کینہہ شیطانہ سز کوم۔
 یہ کورنہ مہ جان إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ بیشک سو چھو گمراہ کرہ ون ن دشمن انسانہ سند۔ کتھ پاٹھ چھو
 سو انسانس غلطی منز تراوان۔ چنانچہ خدا کس کس کورکھ رجوع قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
 فَغَفَرَ لَهُ دو بکھ ای میلہ پروردگارہ مہ کورظم پان پانس کس کس مغفرت پس کس کس مغفرت إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 پز پان اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ
 ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ یہ دو بکھ میانہ پروردگارہ چونکہ ژہ کرت ہن نعمت مہ عطا ہذا سپد نہ بوہرگز کانہہ

يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ
 لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ
 بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَبُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي
 كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا
 فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ

مُجْرِمٌ سُدِّدُ دُكَّارٍ - امہ واقف سڈ شہر س منز چرچہ - مگر یہ آس نہ کانہہ خبر کہ یہ قتل کم ہجو کورمت -
 صرف آس خبر اسرا ایلیس - سمنز حمایت موسیٰ علیہ السلام کر - راتس اوس موسیٰ علیہ السلام
 اندیشہ سی اندر فاصبح فی المدینة خالفاً يتَرَقَّبُ بگاہ صمخس ووتھ موسیٰ علیہ السلام اتھ شہر س اندر
 خوف ووحشتہ کس حالس اندر تہ پیاران اوس خبر چھاوون کیاہ بنہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ
 يَسْتَصْرِخُهُ اتی آکھ بیہ سورائک شخص بس مدد منگان اوسکھ کر یکہ نادران مددہ خیطرہ قَالَ لَهُ مُوسَى
 إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ موسیٰ علیہ السلام فرمود تمس تہ ہجو کہ پز پائٹ بالکل ویتہ نشہ ڈولمت - دوہے
 ہجو کہ تہ لوکن سیت لڑایہ کران - موسیٰ علیہ السلام سڈ قرائیو سیت معلوم کہ سٹھ از کس قضیس
 منز تہ چھہ صاف فرعون سندی طرفہ زیادتی فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا امہ
 پتہ یلہ ارادہ کور تموتس شخصہ سہہ رنٹک بس سمن دوشون ہند دشمن اوس یعنی قبلی - اس اسرا ایلیس
 گوگمان کہ زبانی کور حضرت موسیٰ ان مہ پیٹھ اظہار ناراضگی - وون مائل تمو عملی سزاوہ خیطرہ مہ پیٹھ
 دست مبارک قَالَ يَبُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ سولوگ ویتہ ای موسیٰ
 کیا تہہ چھوہ یژھان مہ تہ مارن ہتھ پاٹھ یوہ توہہ آکھ انسان مورہ ون ان تریدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي
 الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ معلوم ہجو سڈان تہہ چھوہ نہ یژھان مگر زبردست
 بن - لوکن اندر اہرہ بہہ ناون - تہہ چھوہ نہ ہرگز یژھان اصلاح کرہ وینو اندرہ آسن - یہ لفظ یلہ یوزام
 قبطین - پیار کن اوس تمس راتہ کس قبلی سہہ قتلگ شور ووتھمت - قاتلس اوس ژھانڈ و لوگمت - سو

رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ
يَأْتِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِيحِينَ ﴿۲۰﴾
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۱﴾
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ
السَّبِيلِ ﴿۲۲﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ
النَّاسِ يَسْقُونَ هُوَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ

گوئید بیته فرعونس خبر دینہ خیطرہ۔ تم کتر جمع مشورہ خیطرہ پن دربار۔ دربارس منزہ پطے کہ موسیٰ علیہ السلام گوهہ قتل ین کرنہ۔ وَّجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ امہ مجلسہ آندرہ ووتھ اکھ شخصہا ئیس موسیٰ علیہ السلامہ سند یو مجبو آندرہ اوس شہر کہ بیہ اندہ پیٹھ یتہ مشورہ سپدان اوس اوسو نزدیک کوچو منز دوران دوران موسیٰ علیہ السلامس نشہ۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِيحِينَ تمی شخصن دوپ ای موسیٰ پز پات فرعونہ سند دربار چھو مشورہ کران ٹھنہ مارنہ خیطرہ لہذا نیر وٹھہ سمہ شہرہ منزہ جلد کین۔ پز پات یو چھوس ٹھنہ خیطرہ رت یشہ وینو آندرہ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ بیہ یوزت در او موسیٰ علیہ السلام امہ شہرہ آندرہ کھوژان کھوژان، اندیشہ کران زہ پتہ ما آسیم کاہنہ سپاہ لاران قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نیرجمہ وقتہ کوزکہ دعای میانہ پروردگارہ نجات وہمہ مکن ظالم لوکن نشہ گنہ انچہ جایہ واتاوت وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ توپتہ یلہ تم شہر مدینس گن متوجہ سپد خبر آسکھ نہ بوکوت چھوس پکان دوچھ دیوہمہ پن پروردگار انچہ جایہ گن سیز و تھ ہاوہ۔ چنانچہ تی سپد وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ تَمَّہ پتہ یلہ آٹھہ دوہ وات شہر مدینہ کس اگس کر برس پیٹھ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ یتہ وچھکھ پھلین ہنز اکھ جماعتھاہ چارواین تریش چاوان۔ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ بیہ وچھکھ تم لوکن ورا ای الگ اکس طرفس گن زوزت زنانہ جوراہ پنہ نین چارواین تریش چنہ نشہ پچھ

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ قَالُوا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِّ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿۲۳﴾ فَسَقَى لَهُمَاءً تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿۲۴﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشَّى عَلَى اسْتِجْيَاءٍ زَيْتٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

رئان قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تمین پر ڈھک ٹھند مطلب کیاہ چھوٹہہ کیازہ چھوہ نہ پنہ نین چارپاین تریش چاوان قَالَتْ لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِّ الرَّعَاءُ تمودو یوزنا نوو چھوہ آس نہ حض چھنہ تریش چاوان یوتان نہ سم پہل واپس گڑھان چھہ پن تیر ہتھ۔ توپتہ یوسہ آبہ ہن بچے مڑ آسان چھہ سوچھہ آس پنہ نین تیرن دو ان حیاء شرمہ ہندہ وجہہ ہیہ ہتھنہ مر دن سیت مزاحمت سپدہ۔ آس حض سمہ ہوی نہ مگر آسہ چھونہ گرس منز مرداہ کانہہ تہ۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ بابہ صیب سون چھوڈہ واریاہ وانسہ کن۔ گرس منز چھونہ کام کرہ ون کانہہ تہ۔ مجبور اچھہ آس پانہ یوان تیرن تریش چاونہ۔ یہ یوزت آوموسیٰ علیہ السلام سندس دل مبارکس منز رحم۔ فَسَقَى لَهُمَاءً اقی لومچھ ارہٹس۔ توپتہ کھورکھ امہ کیرہ منزہ آب۔ سوی چاوکھ چھند جانور تمین دون زنانن پیونہ انتظارک تکلیف تلن ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ توپتہ گے موسیٰ علیہ السلام کہ گلہ کس سائیس تل توپتہ کورکھ دُعا۔ ای میانہ پروردگارہ یوسہ نعمتاہ زہ مہ کن سوزکھ کم یا زیادہ یوچھوس تھہ کن سخت محتاج۔ کیازہ اتھہ سفرس منز آس واریاہ دودہ گابت۔ سمین اوس نہ کھینہ چینہ خیرہ کینہہ تہ ہیسر سُدُمت۔ اللہ تعالیٰ ان کور تمیک سامان مہیا کہ تمہہ دوشوے زنانہ گمبہ گرہ پن۔ تمین ہر ڈھہ بابہ صہین از کتھہ پاٹھ آیوہ ٹہہ دہنہ خوتہ سلی پن۔ تمودو کور بچھہ سوزوی قصہ بیان فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشَّى عَلَى اسْتِجْيَاءٍ تمودو سوزاکھ کور موسیٰ علیہ السلام نازس۔ سوکیلہ تمین نیشہ مند چھہ مند چھہ شرم و حیاء سان آیہ، یہ شریف زادین ہند عادت چھو۔ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا نادووان تا اینکه سوڈیہ توہمہ امہ احسانگ بدلہ کس توہمہ آسہ سیت کور وہ موسیٰ علیہ السلام گئے آسندہ و ہنہ

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لَا تَنْخَفُفُ فَتَجَوَّتْ مِنَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَاجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ
 مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿۲۶﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ
 إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِتْرًا فَإِنْ

موجب اس سیت۔ و تہ پکان فر موومو کی علیہ السلامن اس دید صابہ زہ بکھ مہ پتہ پتہ۔ بویکھ زہ بروئھ
 بروئھ۔ بویچھوس پیغمبر زادہ۔ ابراہیم علیہ السلامہ سند یو اولادو آندرہ۔ اس چھنہ دوپہر زمانہ کن بلا
 ضرورت قصداً نظر دین پسند کران۔ چنانچہ تہ پتہ پتہ وات تم بھندس بابہ صائس نشہ۔ فَلَمَّا جَاءَهُ
 وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَنْخَفُفُ فَتَجَوَّتْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اُدھیلہ موسیٰ علیہ السلام آوتھندس بابہ
 صییس، شعیب علیہ السلامس نشہ توپتہ کورکھ تم نشہ پنن سورئ قصہ بیان تمود تہمک تسلی۔ دویہمک
 وون مہ بز وکانہ غم۔ تہ لبونجات ظالم لوکن نشہ۔ یوت بیکن نہ تم واتھ۔ کیا زہ یہ شہر چھنہ فرعونہ
 سزہ عملدراسی منز شاصل۔ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَاجِرْهُ سمودویو زناؤ آندرہ وون اکہ زانہ شعیب
 علیہ السلامس ای میانہ بابہ صابہ توہہ پتھ ملازم رٹھ فی ضرورت۔ اس بڑے یہ و ن سون چاروا این
 سیت تریش چاوناونہ خیطرہ ٹیرن چھونہ و ن مناسب۔ یہ رٹھ پزہ تہہ ملازم۔ اِنَّ خَيْرَ مَنِ
 اسْتَاجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ پنر پاٹ سم زہ ملازم رٹھ بکھ تمواتھہ چھو بہتر ٹیس طاقتور تہ امانتدار
 آسہ۔ سم دوشوے صفت چھہ تمکن اندر موجود۔ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ شعیب علیہ السلامن دوپ حضرت موسیٰ اس بویچھوس بڑھان بوکرہ توہہ نکاح سمود
 پنہ نیو دیو صاجزادیو آندرہ اس صاجزادہ سیت یوسہ تہہ پسند کریون تھہ شرطس پیٹھ کہ آٹھن
 ورمکن روزومہ نشہ ملازم۔ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ توپتہ ہر گاتہہ پورہ دین ورمکن روزوسنو چھہ
 تہنر مہربانی۔ میانہ طرفہ جبر تہ زور چھونہ۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سمودویو بڑھان توہہ پیٹھ

شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۸﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلِينَ
 قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۲۹﴾
 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ
 الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمُ
 مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۳۰﴾
 فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
 الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾

پیغمبر معاملة کند و دشواری به مشقت تراوان سجدتی آن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ تَبَهُ لِبُيُومِهِ ان شاء الله
 رتیلو کو منزله، رت معاملة کرده و نیواندره قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ تمود و پیکه به سپد تو به به به منزله
 معااهده مگر آیَمَا الْأَجْلِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ مِه چھو اختیار تمود و یومد تو آندره نُس مدت بو پوره
 کرده مِه پیغمبر به نه کر نه کانه زیادتى به جبر وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللہ تعالیٰ چھو سانه مسمه
 معااهده گواه کافی فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ تمم به یلمه موسیٰ علیها السلام ملزمتک
 مدت پوره کور در اولتہ شعیب علیہ السلام اجازت ہیتمه پن عمیال ہیتمه مصرس کن یا شامس کن گوشه
 خیطره آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا وَتَه پکان لجهه آکبه نه لعه گجه هنده سبه و تھه اھه۔ اتی
 و چھه کوه طور مِه طرفه ناره قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ
 النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ باژن پنہ نین فرمو که تبه تھم و پته تھی۔ مِه و چھه ناره۔ بو گوشه تھه
 نارس نشه۔ دیوه بو بیمووه و تبه هنز کانه خبره ہیتمه یاناره تیو نگاه ہیتمه تھه تبه پان و شانو و تمم ناره سیت
 فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ
 رَبُّ الْعَالَمِينَ تو پته یلمه موسیٰ علیہ السلام اتمه نارس کھه تل وات امه مید انچه و چھه طرفه بابرکت جایه

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿۳۱﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ زَاظُمًا إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَكَرْنَا بُرْهَانِنَا مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقَتِّلُونِي ﴿۳۳﴾

پیچہ کہ کلہ منزہ گوکہ آلو زہ ای موسیٰ بیشک بوی چھوس معبود برحق۔ عاملین ہند رت۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ بیا کہ آلو گو کہ کہ لورہ ہن ہن تراود پتھر فَلَئِمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ لورہ پتھر تراوتہ یلہ وہھکھ سو لورہ زاولس سرفہ سدا پٹھ ضر ضر کران۔ تہ وہھت تھارے تہ کھوڑ۔ تھر پھرت ہیو کھکھ ژلن۔ عیالسن ہیو کھکھ گڑھن۔ پوت نظر تہ دژ کہ نہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرموسس یَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ای موسیٰ برونھ پچھ کھوڑمہ بیشک تہہ چھوہ امنس منز روزہ ونیو اندرہ۔ توہمہ ولتہ نہ کاہنہ تکلیف۔ یہ پھنہ کاہنہ کھوڑن کھگاہ۔ بلکہ چھویہ تہند مجرہ۔ بیا کہ مجرہ چھو تہند أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ تراوتہہ آتھ پین ناس پند نس منز۔ تو پتہ کڈو سو اتھ نیرہ سفید نہ نہ کرہ ون۔ کُنہ بیاری وراکی۔ وَظَامًا إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اگر تہہ عصاء س اژدہا بنہ سیت خوف پیدا سپدہ سو دور کرنہ خیطرہ ملنا وویہ پین اتھ پند نس کترہس سیت سو سپدہ بیہ تھوی بیٹھ اوس اصلی حالتس اندر تمہ سیت تہہ توہمہ خوف تہ کھوڑن فَذَكَرْنَا بُرْهَانِنَا مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ تہہ چیز لورہ تہ سفید اتھ یعنی بد بیضاء پھہ زہ مجرہ دلیلہ تہندس پروردگارہ سیدہ طرفہ فرعونس تہ تہندسک وزیرین تہ امیرین نیشہ گھنہ خیطرہ سمیک توہمہ کھم کرنہ یوان چھو اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ بیشک تم چھہ جماعتہ سخت نافرمان قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقَتِّلُونِي موسیٰ علیہ السلامن دُوب، ای میانہ پروردگارہ بو چھوس گڑھنہ

وَآخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَمُ مِنِّي لِلسَّانَا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
يَصِدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٢﴾ قَالَ سَنَشُدُّ
عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَمُاسُلْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ
إِلَيْكُمْ ۚ بِآيَاتِنَا ۚ أَنْتُمْ أَوْ مِنْ اتَّبَعْنَا ۚ الْغُلَبُونَ ﴿٣٥﴾
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ
مُفْتَرِيٍّ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ
مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِبَنِي جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ

خطرہ چانس کھس تقیل کرنے خیرہ تیار۔ مگر تھے خبری کہ مہ چھو مورمت ٹہند اکھ شخصہ لہذا چھو
مہ خطرہ گڑھان کہ تم مازن تہندہ بدل مہ۔ تبلیغ کر تک ایہ نہ موقے ۛ آخِی ہارون ہوا فِضَمُّ مِنِّي
لساناً فارسیلہ معی رد ایضد قینی مہ چھو گڑھان پھمیر زیوہ منز۔ میون یوی ہارون چھو میانہ خوتہ
فصح زیوہ کن۔ سوئے سوزن مہ سیت مدگار۔ سوگرہ ہامیانس تقریرس تائیدتہ تصدیق مفصل پاٹ وند
ہاسو تمین میان تھہ۔ اِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ کیا زہ یو چھوس کھوژان تم گڑھہ نہ مہ اپن یوزان
قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَمُاسُلْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ ان
فر مووس کہ واقعی ضرور گروا س مضبوط تہنز۔ نتر ٹہند س بای سندہ سیت بہہ دمووہ توہہ دوشون اکھ
خاص شوکتھہ نہ ہیتھہ۔ بہہ سو طاقٹھہ سمہ سیت نہ توہہ تم کانہہ تکلیف ہیکن وائتہ ناوت۔ بِآيَاتِنَا
أَنْتُمْ أَوْ مِنْ اتَّبَعْنَا الْغُلَبُونَ کس گڑھو سان آیات تہ مَجْرُات ہتھ تہہ دوشوے بہہ سم تہنز پیروی
کرن۔ رُو زو غرور تمین پیٹھہ غالب۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مُفْتَرِيٍّ
وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ توپتہ بلہ آو تمین نشہ موسی علیہ السلام سان واضح تہ ن آیات ہتھہ،
تم لگ وند بہ چھونہ مگر جوداہ، خدائس پیٹھہ خواخواہ ٹھہراونہ آمت۔ آسہ چھنہ سمہ تھہ یوزہ مؤے پنہ

لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ
يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي
يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى
إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿۳۸﴾ وَاسْتَكْبَرَ
هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلٰهِنَا
لَا يُرْجَعُونَ ﴿۳۹﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

نیں بروٹھیں مالمیں بڈ بین نشہ۔ وَقَالَ مُوسَى رَبِّيْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ
عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ موسیٰ علیہ السلام فرمود کہ امیگ جواب۔ میانس پر وردگار س
چھو پور معلوم کہ کہہ آوٹس نشہ بڈ ہدایت ہتھ۔ بیہ ہتھ اللہ تعالیٰ سی پور خبر گس شخصس سپدہ انجام بخیر
ذنیاس اندر، بیشک ظالم، تم نہ ہدایتس تہ صحیح دینس پیٹھ آسن تم سپدن نہ ہرگز کامیاب نہ ذنیاس
اندر، نہ آخرتس اندر۔ فرعونس سپد اندیشہ، تم بوزہ موسیٰ علیہ السلامہ سزہ دلیلہ کہ خبر چھامیان
لو کہ ماسپدن مائل موسیٰ علیہ السلامس گن تم تہ کرنا ودر بارک لو کہ جمع وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلٰٓئِ
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي تم کون ہیوٹن وٹن ای امیر و تہ وزہرو بوچھوس نہ زانان پانس وراى
تھدہ خیترہ کاہنہ معبودہہ فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ
مُوسَى اے ہامان ژہ نار سیرہ کوندہ تو پتہ بنا میانہ خیترہ پوختہ سیرین ہنزاکھ تھز عمارتھہ تمی پیٹھ
دمہ بونظر حضرت موسیٰ سدس خدائس گن وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ بونچھس زانان سو اپز و تہ
دنیو اندرہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلٰهِنَا لَا يُرْجَعُونَ سبہ تہ
غرورہ کن آس فرعون تہ تھزہ لشکرہ ناحق سر بندى ہنڈ مژ کرن۔ تم آس زانان کہ تم چھونہ ذنیاس
منزہ نیرت اسہ نشہ وانشوی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ اتھہ تکبرس تہ غرورس پیٹھ
سزاندہ خیترہ روث اسہ فرعون بیہ تھز لشکر۔ تو پتہ دت بڑت دریا و س منز تو پتہ پھاٹو سو اسہ تھہ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً
يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿۴۱﴾
وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ
مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۴۲﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرٍ
لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا

منز۔ فَاظْهَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ نہیں دیکھو کیونکہ یہ سب انجام سپرد تم سے ظالمین ہند وَجَعَلْنَاهُمْ
آيَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ تم آس آس بناومت رئیس سے زٹھ تم لوکن نادوان آس نارس کن وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ قیامتک دوہ آسن تم بالکل بے بس سے بے گس کاہنہ سے کہہ نہ تم کاہنہ مددہ
وَآتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً پتہ تھا آسہ تم لوکن ہتھ دنیاس منز سے لخص وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ قیامتک دوہ سے آسن تم بد حال لو کو آندرہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن
بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرٍ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
پز پات آسہ کمر عطا موسیٰ علیہ السلا مس کتاب (یعنی تورات) برو تھم نافرمان اقوام، قوم نوح، قوم عاد،
قوم ثمود، ہلاک کرنے پتہ۔ ہتھ کتابہ منز تم لوکن ہندہ خیطرہ آسہ حجہ دلیلہ بیہ لوڈ ہدایت بیہ ہند
رحمت۔ ہتھ تم نصحت حاصل کرن وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ
مِنَ الشَّاهِدِينَ بیہ آسہونہ تہہ یارسول اللہ کوہ طور کہہ مغربہ کی طرفہ بتلس آسہ موسیٰ علیہ السلا مس
احکام یعنی تورات عطا کمر۔ حکم کو رس فرعونس رشہ پیغام وائے ناوٹک۔ بیہ آسہونہ تہہ تمہ وقتہ کیو لو کو
آندرہ کہ پانہ کیاہ آسہوہ حالاتن ہند مشاہدہ کورمت وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ بلکہ کمر

كُنْتَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۚ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ
 الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا
 وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۗ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا
 وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَتْهُم مِّنْ نَّذِيرٍ
 مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ
 مُّصِيبَةٌ لِّمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ
 إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَلَمَّا

پیدہ آسہ واریاہ قوم موسیٰ علیہ السلام پتہ۔ تہزے عمرہ سپرہ تمہن پیٹھہ زہجھہ۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي
 أَهْلِ مَدْيَنَ بیہ آسہونہ توہمہ شہر مدینہ کین لوکن منزبہ وَاِن تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا
 مُرْسِلِينَ تالیکن ہر دو تہہ تمہن لوکن پیٹھہ سان آیات بلکہ آس آس توہمہ پیٹھہر ہلات سوزہ وَاِن۔ اسی سوز
 توہمہ گن تم حالات و واقعات ادہ ہیکوہ توہمہ تم حالات و واقعات بیان کرت۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ
 نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَتْهُم مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
 بیہ آسہونہ تہہ کوہ طور کہ طرفہ موجودیلہ آسہ آلودیت (یا موسیٰ الی انا اللہ رب العلمین) لیکن بیہ چھہ
 تہندس پروردگارہ سنز تہندہ حقہ ہنڈ مہربانی کہ تہہ کمر نوہ غی آخر الزمان۔ بیہ کرنوہ باخبر تمو
 واقعات و سیت تہہ تہہ نیم کمر و تمہن لوکن تمہن زہمہ نہ توہمہ بروٹھہ کاہنہ نیم کرہ وَاِن پیٹھہراہ امت ہجود یوہ
 تم نصیحت زہن وَاِن تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَتْهُم مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
 رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اسی سوزہونہ لکن گن پیٹھہر۔ ہر گاہ لے بیہ تھہ آسہا کہ یلہ
 تمہن کاہنہ مصیبت تہ بلایاہ وَاِن تہ ہاپنہ نین تمہن تھہ کا مین ہندہ سبہ۔ تمہہ تہند یو اتھو بروٹھہ گن سوز مرثہ
 آسہن اتی دپہ ہن تمہہ سانہ خدا یا تہہ کوہ سوز تھن آسہ گن کاہنہ پیٹھہراہ ہن آیات ہتھہ آس کرہ ہو تمہن

جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا
 أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ
 قَالُوا سِحْرِن تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ لِكُفْرُونَ ﴿۳۸﴾
 قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا
 يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ

چائین آیتن ہنز پیروی۔ بیہ آسہو آس بالیما نو آندرہ۔ **فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا**
أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ دو ان یلہ تم ن نغہ سائہ طرفہ امر حق یعنی رسول برحق بیہ دین حق و دوت
 دینہ لگ تم اہس پیغمبرس کونہ آیہ تھہہ کتاباہ عطا کرنہ اڑہہ موسیٰ علیہ السلا مس عطا کرنہ آیہ یعنی ا کہ
 وٹہ ساری کتاب اکی سائہ **أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ** کیاہ تمو کورنا انکار تھہ کتابہ
 یوسہ عطا کرنہ آمر آس بروٹھ موسیٰ علیہ السلا مس۔ سوی یکہ وٹہ اکی سائہ نازل کرنہ آمر آس۔
قَالُوا سِحْرِن تَظَاهَرًا تم کافر آس و نان کہہ سمہہ دوشوے کتابہ (قرآن مجید تہ تورات) چھہ سحر تہ
 جوداکہ اہس موافقت کران۔ **وَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ لِكُفْرُونَ** بیہ آس دپان آس چھہ دوشون کتابن انکار
 کران **قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ** ان کُنْتُمْ صَادِقِينَ تہہ فرماؤ یو کہ
 یار رسول اللہ، ای منکر و تہہہ کمر تو پیش خدایہ سبہہ طرفہ کتاباہ یوسہ زیادہ و تھہ ہادہ و ان آسہہ سمودو یو کتابو
 خونہ ٹو تہہ کرہ تلہہ تمہہ چی پیروی چھوے تہہہ یہ کتھہ ہنز ونہ و ان کہہ سمہہ زہ کتابہ چھہ سحر تہ جود **فَإِنْ لَمْ**
يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ہر گاہ نہ تم یہ کمر تھہہ ممکن ہس زانو کہ تم چھہہ ٹنہہ
 ہنز پیروی کران بلکہ چھہہ تم پنے نین نفسہہ چین خواہش ہنز پیروی کران **وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ**
هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ کہہہ اکھاہ چھو گراہ اس شخصہ سبہہ خونہ ٹس پنےہ نفسیہہ خواہشہہ ہنز پیروی
 کرہ خدایہ سبہہ طرفہ ٹنہہ ہدایہ و رای **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** ہنز پائٹ اللہ تعالیٰ چھونہ

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾
 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ
 اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ أُتِيَلَىٰ عَلَيْهِمْ
 قَالُوا الْمَنَابِئَةُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾
 أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَوَيَدْرُءُونَ
 بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ أَسْمَعُوا
 اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا عَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

و تھ ہاوان تھین ظالم لو کن تم پوز واضح تہ نون سیدت گرا ہی نشہ بائین نہ ولقد وصلنا لهم القول
 لعلهم يتذكرون بیشک آسہ واتو تھن لو کن پنن کلام یعنی قرآن مجید پوئس ہتھ ہتھ تم لو کہ بار بار
 تازہ بتازہ پوز نہ سیت نصیحت رٹن۔ یعنی آس ہتھ ہوا کی ساتہ اکہ وٹہ سوزت مگر آسہ سوز سوارہ وارہ
 تھدی فاندہ خیطرہ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ تم لو کہ تممن آسہ سمہ قرآن
 مجید ہر ونٹھ کتاب عطا کر تھن آندرہ تم حق شناس چھہ تم ہتھ ہتھ قرآن مجید س پڑھ کران وَإِذْ أُتِيَلَىٰ
 عَلَيْهِمْ قَالُوا الْمَنَابِئَةُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ یلہ تمن پیٹھ یہ قرآن مجید ہتھو پر نہ
 یوان، تم ہتھہ دپان آسہ کمر پڑھ اتھہ۔ بیشک ہتھو یہ سانس پروردگارہ سندی طرفہ۔ آس آس اکہ نازل
 سپدہ ہر ونٹھی اتھہ تسلیم گرہ ون اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَوَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ
 السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ امی قسمہ کین لو کن کیا ایہہ ڈوگن مزور عطا کر نہ تھندہ صبر کر نہ
 خیطرہ بیہ ہتھہ تم لو کہ نیکی سیت ہدی ہند مقابلہ کران بیہ ہتھہ خرچ کران تمی منزہ پئس آسی تمن عطا کور
 خدایہ سز ن وتن اندر وَإِذْ أَسْمَعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ بیہ یلہ تم بوزان ہتھہ پائس نسبت کا نہہ بیچھ
 کتھاہ مخالفن نشہ بے توجہہ ہتھہ سپدان تمہہ نشہ زن نہ پوز کھوی وَقَالُوا إِنَّا عَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ بیہ

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَأَنْتَبِغِي الْجَاهِلِينَ ۝۵۵ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ
 أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُهْتَدِينَ ۝۵۶ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُخْطِفُ
 مِنْ أَرْضِنَا وَأَوْكَمْ نُمِكِّنُ لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّ إِلَيْهِ تُحْرَتُ
 كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۷
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلِكَ مَسْكِنَهُمْ

چھہ دیان تم اہہ ولتہ پنہ نین عملن ہنز مژور توہہ تہ چھوہ پنہ نین عملن ہنز مژور۔ اہہ پیہہ بروٹھہ تی پیہہ
 اُس گرو۔ توہہ پیہہ بروٹھہ تی پیہہ تہہ کثرو سَلَّمَ عَلَيْكُمْ میانہ طرفہ چھوہ سلام۔ اُس گرونہ توہہ مقابلہ پیچھہ
 تھوسیت لَأَنْتَبِغِي الْجَاهِلِينَ اُس چھہہ جاہلن سیت تھہ کران اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ
 اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ہنز پاٹ تہہ نہ حضہ ہیکون نہ وتہ پیچھہ اکتھہ سُوئس توہہ خوش کرہ ہا۔ بلکہ اللّٰه
 تعالیٰ اُس یثہہ اُس گرہ ہدایت اُس اہہ راہ راستس پیچھہ۔ ہدایت کرہ چقدرت چھہہ کانہہ خدا اُس
 وراہی۔ ہدایت چھہہ تھہ پیہہ تہ چھونہ کانہہ معلوم کہ کس بہہ ہدایت تہ کس بہہ نہ و ہُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
 بلکہ چھو سُوی زیادہ زانہ ون کہ ہدایت تہ تھہ لہہ ون کم چھہہ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُخْطِفُ
 مِنْ اَرْضِنَا پیہہ چھہہ بعضی کافر ونان ہر گاہ اُس تہندہ ہدایت پیروی گرو، دین اسلام قبول گرو تیلہہ سمو
 اُس پنہہ شہرہ ہنزہ چوب دت نہر کڈنہ۔ پیچھہ بے وطنی ہند تکلیف تلو۔ پیہہ سپدہ معاش تہہ پریشانی اَوْكَمْ
 نُمِكِّنُ لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّ إِلَيْهِ تُحْرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پیہہ ون
 ہند چھو محض لغو کیا زہ اہہ ہچھنا جای دژ مژ تھہ حرمس منزیتھہ منز امن و امانہ سان رُوزت چھہہ۔ کیاہ
 ایمان اُنٹ سپدیا تمن پیچھہ بد امنی ہر گزنہ۔ پیچھہ خر مس گن و اتانہ چھو یوان پر پیچھہ کتہہ قسمک میوہ۔ رِزق
 چھہہ عطا کران اُس تمن پنہہ طرفہ کانہہ ہندہ ہنتہ وراہی۔ مگر تموا اندرہ چھہہ واریاہ لو کہ ہم نہ سمہ تھہ زانان
 چھہہ۔ تمن ہند چھہہ خیال کران۔ ہیا کہ سبب چھو تہندہ ایمان نہ انہ نگ کہ تم چھہہ پنہہ خوش عیشی پیچھہ ناز

لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾ وَ
 مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا لِيَتَّبِعُوا
 عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿۵۹﴾
 وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا

کران تہ تھیکان۔ یہ تہ چھ تہنز۔ سمات کیا زہ۔ وکھ اھلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فیتک مسلکھم
 لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اسہ گال وارین شہرن ہند لو کہ تم فخر تہ محبر
 آس کران پنہ نس سامان عیش و آرامس پیٹہ۔ یکیا چھ تہند گرہ و یران بیست تہنز ان اھن ڈیشمان۔
 تمن پتہ آی نہ تم گرہ آبادی کرنہ زمانہ مگر کمہ سی کاس۔ چھ پاٹھ کہ کانہ مسافر اھ لھ اتفاقا تو کن پتہ
 روزہ کم کینہہ کالاہ تھکھ کڈنہ خیطرہ یا تماشہ و چھنہ خیطرہ بیہ تہ گرھہ۔ یا شمس کھنڈس روزہ تمن جامن
 اندر۔ آخر کار رُو د اسی تہندہ ساری مال و دولتک مالک کیا زہ اس چھہ فناء و زوالہ نشہ منزہ تہ پاک۔
 بیا کہ شہہ چھو تمن گرھان کہ ہر گاہ تہنز ہلاکت چھہ سبز مژ تہندہ گھرہ سببہ تیلہ تمن موجودہ کافران یہ
 واریاہ کال گو کفر چہ کامہ کران تیلہ کونہ چھہ تم تہ ہلاک گرھان۔ اسی شہہ منو کھ چھہ تم ایمان انان۔
 امہ شہبک جواب چھو کمہ و ما کان ربک مھلک القرى حتی یبعث فی امم رسولا لیتلو علیہم آیتنا تہند
 پروردگار چھو نہ منہ شہرہ کین لو کن توتان گالان یوتان نہ تمن کن تہندس مئس شہرس منز چھو
 سوزان کانہہ پیغمبرس نس تمن پیٹہ پران چھو سان آیات و ما کنت مھلکی القرى الا و اھلھا ظالمون تو
 پتہ چھو کھنہ اس شہرن ہند لو کہ گالان مگر تیلہ یلہ تم لو کہ کانہہ ظلم و ستم یا شرارت کرن ہن۔ اتھ
 قانونس موافق آو تو بہ سبت معاملہ کرنہ۔ نہ آوہ تو بہ پیغمبرہ سہہ ینہ بروٹھ ہلاک کرنہ نہ پیغمبرہ سہہ
 پتہ۔ بلکہ ویکھ تان آوہ نہ تہہ ہلاک کینہہ کرنہ۔ مگر و سن گرھن کینہہ دوہ، ہر گاہ تہند یوسے رویہ رُو د
 تیلہ چھو تو بہ ضرور سزا کھیون۔ چنانچہ جنگ بدرس و غیرہ منز سڈتی۔ بیا کہ کتھاہ تہ چھہ مانع ایمان انہ
 نس سو گنیہ ییے کہ دنیا چھو نقد امہ موکھ چھو مرغوب آخرت چھو وعدہ تی موکھ چھو غیر مرغوب۔ لہذا
 چھنہ دنیا ک رغبت و لو نشہ دور سپدان تمیک جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان و ما اوتیتہم من شئی

عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ اَمِنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا
 حَسَنًا فَهَوْا لَاقِيَهُ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ
 شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا
 إِلَيْكَ مَا كَانُوا آيَاتِنَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
 فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ

فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا بِيَهُ لَيْسَ مَالٌ تَوْهَمُهُ دُنْيَا سِوَا مَا أُعْطِيَ وَأَوْكُرْنَاهُ سَوْجَهُو مَحْضٌ كَثِيرٌ مِنْ دُونِهَا
 ہندہ خیر ہے۔ دُنْيَا چہ کم زندگی ہند متاعہ تہ زینتہا عمرہ ہندس و ڈبرئس سیت و ویرہ سوتہ و مَا
 عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ رِثَانِ کَامِنِ ہند اجر تہ ثواب لیس اللہ تعالیٰ اَسْ نِسْرَ نیکو کارن کیت و جھو سُو جھو
 سیتہا بہتر تہ سیتہا پو شہرون تہ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیاہ توبہہ و جھوہ ناپیشہن تہ فخرہ نران اَمِنْ وَعَدْنَاهُ
 وَعَدًّا حَسَنًا فَهَوْا لَاقِيَهُ کیاہ سُو شخص لیس سیت اَسْرُت و وعدہ کورمت و جھو۔ لیس ضرورتہ وعدس
 حاصل کرہون و جھو کَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سُو چھائس شخصس ہی لیس اَسْرَ تمخ تکہ نوو دُنْيَا چہ
 مَحْضٌ زندگی منزاکہ ناپائیدار متاعہ سیت۔ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ توپتہ بیہ سُو قیامتک دودہ
 گر فتر کمرت حاضر کر نہ و یَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ بیہ و جھو سُو دودہ قابلہ
 ذِکْرِ سَمِیۃ دویہ اللہ تعالیٰ تمن کافر ن زجر و توبتہ پاب آلودت پر ژہہ ارتکبہ و جھوہ تم تم تہہ میان شریک
 زانان اَسْرُوکھ۔ شیطان ہندہ ڈال نہ سیتِ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ دینہ لکن تم لوکھ تمن پیٹھ
 عذابک لحم محقق تہ ثابت ہد مت اَسْرَ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ای سانہ پروردگارہ تم لوکھ جھہ
 بیشک تہ سَمُو اَسْرُ گمراہ کمر اغویتہم کَمَا غَوَيْنَا اَسْرَ کمر تمو گمراہ جھہ پاب اَسْرَ پانہ گمراہ سہد مت اَسْرَ

كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿۶۳﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۶۴﴾ فَعَصَيْتُمْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا
 يَتَسَاءَلُونَ ﴿۶۵﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ
 يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا
 كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۸﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ

تَبَرَّكَ إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا نَاعِبِدُونَ اَسْ جَهه ژه برونه كنه دست برداری دوان۔ سم آس نه اسه
 عبادت کران۔ سم اوس نه اسه سمیت کانہ تعلق وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَذَعَوْهُمْ قَالَهُ
 سَيَحْيِيوْا لَهُمْ وَاَوَّلُ الْعَذَابِ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ تمہ پتہ پیہ تمہن مٹر کن ونہ۔ دیو آلو تمہ
 باطل معبودن تم شریک آسوکھ ٹھہراوان معبود برحقس۔ توپتہ دیکھ تم آلو۔ تم دیکھ نہ توره کانہ
 جوابہ۔ توپتہ پیکھ نظر عذابس پیٹہ۔ دہنہ لگن ای کاش کونہ آس آس دنیاس اندر سیزہ وتہ پیٹہ۔ تہ
 عذابس ماسپدہ ہو گر فتر۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ بیہ سمہ دوہہ تہدہ
 آلود تہ پر تھیکھ اللہ تعالیٰ ای لو کو توہہ کیاہ جواب دژوہ دنیاس اندر میانین پیٹہرن فَعَصَيْتُمْ
 عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ بس گڑھن تہمز و ذہو زعہ ساری مضمون مشیت۔ نہ اپیکھ
 پنہ نین دماغن منز یاد کینہہ تمہ دوہہ نہ پیکھ یادای پیٹہر کیاہ آس اسه دوان نہ بیکن اکھ اکس پر تڑھت کیا زہ
 ساری آسن پریشان فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ البتہ دون سم
 اکھ توبہ کور دنیاس اندر بیہ اوئن ایمان بیہ کرین رژہ عملہ تمہن لو کن جہہ امید کہ تم آسن آخر تس
 منز رستہ گاروتہ فوز و فلاح لبہ دنیو اندرہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ تہند پروردگار جھو کئی کمالہ
 کیو صفتو سمیت مُتَّصِف۔ چنانچہ سو تہہ چیزس پیدہ کرن یژھان جھو تہہ جھو پیدہ کران۔ تکوینی اختیار جھو
 تشیوت۔ بس لحم سو یژھان جھو پتہ پتہ جھو کران سؤی جھو انبیاءن ہمدہ ذریعہ نازل فرماوان۔
 تشریحی اختیار تہ جھو تشیوت یعنی کینہہ چیز شریعت مقرر کردن مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ تمہن لو کن جھو نہ

مَا تَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِّمُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
 الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَفَلَا

احکام تجویز کر نگ کا بہنہ تھا۔ بس لحم سویشہ سوئی کرہ جاری۔ سم مشرک چھہ پنہ طرفہ شرک
 جائز کران مگر سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سو چھو منزہ تہ پاک بالا و برتر تہن لوکن ہند یو ساروی
 شرکونہہ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِّمُونَ تہند پروردگار چھو شیتہ کامل علمہ وول کہ سو
 چھو زانان تہ سوزوی یہ تہند دل پوشیدہ تھاوت چھہ بہہ تہ سوزوی یہ تم نر اوان تہ ظاہر کران چھہ
 وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یہ چھو سوئی معبود
 برحق بس ورا ی نہ کا بہنہ معبوداہ چھو سوئی چھو حمدس سزاوار دُنْیَا س منزہ تہ آخرتس منزہ تہ کیا زہ تہند
 نصرفات چھہ دوشون عالمن اندر تھقی سم دلالت چھہ کران تہندس کماکس پیٹھ تہ دار و مدار چھو
 حمدس سزاوار آسن یہ چھہ تہنزی حکومت دُنْیَا و آخرتس منزہ یہ چھو قوت تہ وسعت تہندہ سلطنت
 تھوی کہ چھہ ساری ایوتس کن و اتاونہ۔ چھہ بیكونہ تس ورا ی یہ کا نہ کن گوہت۔ یو ہے چیز چھو سو سمہ
 سیت تہنر الوہیت ثابت سدان چھہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ فرماو کہ تہہ یارسول اللہ ای لو کو تلامہ و نتو تہہ ہر گاہ اللہ
 تعالیٰ تہہ ہمیشہ خیمہ تھاوہراتھ قیامتس تان معبود برحقس ورا ی تہہ معبودیم چھہ تہہ نش ائت ذہک گاش
 بس چھو سوئی قدرتس اندر تہہ یکتا۔ بس چھو نا تہہ توحید چھہ سمہ صاف دلیلہ یوزان قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصُرُونَ

تُبْصِرُونَ ﴿۴۲﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾ وَيَوْمَ
يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴۴﴾
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۴۵﴾

امی اظہارِ قدرتِ خیرہ فرما دیکھ کہ تمہاری برعکس کہ تلامہ و نیکو ہر گاہ اللہ تعالیٰ توہم پہنچ کرہ سوری
وقت دہی دودہ ہمیشہ خیرہ قیاس تان۔ معبود برحق و راکی کہہ معبود ہی کہہ توہم نشہ رات اکتھ ہتھ منز
کہہ آرام و قرار ہی کو کثرت۔ کیا کہہ ہتھ و جھوہ ناخدا یہ سز یہ بد قدرت و ارہ و چھان۔ تمہند قدر تہس اندر
کنوی آسن ہتھو منگان الوہتس اندر تہ کنوی آسن۔ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سو تمہم ہتھو تھوی کہ یہ ہتھ تہنزی رحمت تہ مہربانی کہ تم
کمر تہمدہ خیرہ رات تہ دودہ پیدہ۔ ہتھ کہہ راژ منز آرام کمر و ہتھ دوس منز تہمد رزق ژھاہند۔ ہتھ
ہتھ کہہ تہمن کن دوشون نعرہن پتھ شکر دیو۔ ہس اتھ انعامس اندر تمہند کنوی آسن تہ ہتھو منگان
تمہند معبود آسن منز کنوی آسن۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ہتھ
ہتھ دودہ اللہ تعالیٰ مشرک بڈہ آلودت فرماوہ ہتھ بے کو کہہ تہ تہمن زسوائی بوزن۔ ای مشر کو کو ت گوہ
تم معبودان باطل تم کہہ میان شریک زانان آسوکہ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہتھ اٹون آس
برونٹھ کن پر ہتھ امتہ منزہ اکھ اکھ گواہا یعنی تمہہ اٹنگ پیغمبر ہس کھر و نا فرمانی ہند سوری حال بیان کرہ
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ تو پتہ و نو آس ساری امتن ہندین مشرکن کہ اے مشر کو تھلا شرسہ جو ازج
کاہنہ دلپاہ کمر و پیش فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تمہہ سائہ زانن تم کہہ پوزاوس خدایہ سندوی فرماون ہس تم
پیغمبرن ہندہ ذریعہ و اتا دیو۔ یعنی توحیدک پوز آسن تہ شرکک باطل آسن سپدہ تمہن معلوم وَصَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تمہہ سارے اڑہ کتھ گڑھن ناؤد تہ ضالک تمہن نشہ تمہہ تمہہ دنیا س اندر

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ
 مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ
 إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿۶۱﴾
 وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

ٹھہراوان آس کہ معبودان باطل کرن اسہ شفاعت إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ
 قارونہ سند حال و چھو کہ تمس گس پھش آؤقرہ تہ نافرمانی سببہ۔ تس دیت نہ کا نہ نفع تہ فاندہ مال و
 متاعن بلکہ سپد تھند مال و متاع تس سبت تباہ و برباد۔ تھند مختصر قصہ چھو متھہ پاٹھ کہ سو اوس یقیناً
 حضرت موسیٰ سندہ قومہ منزہ یعنی بنی اسرائیلو منزہ۔ بلکہ اوس موسیٰ علیہ السلامہ سندہ پتر نوی سوی
 لوگ مال و دولت زیادہ آسنہ موكھہ پنہ نس قومس پیٹھ ظلم کرنہ و آتینہ من الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ
 لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ مان زیادتی آس تس تیو کہ اسہ آس تس تیت خزانہ مالک عطا کر مت کہ
 تمن خزانہ ہنزہ گوزہ اسہ گو براوان تہ تھمراوان بڈس جماعتس، سم قوتہ وال آس۔ تمن زور پیوان
 اوس لاگن تمہ کوزہ تلمہ خیطرہ۔ وون یلہ کوزہ ایڑہ اسہ۔ پانے گھہہ زان تم خزانہ کیت آسمن۔ یہ
 سببہ تہ غرور ترو تم تمہ ساتہ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ یلہ تس دون پنہ
 قومن فہمائش کر بھہ طریقہ۔ اکی قارون خوش مہ گھہہ تھیکان مہ آس دُنیا کہ مال و دولت سبت۔ پتر
 پاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ پسند کران مال دُنیا سبت خوش گھہہ و نین تہ تھیکہ و نین وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ
 الدَّارَ الْآخِرَةَ بیہ ووس پن قومن یہ ژہ اللہ تعالیٰ ان مال و دولت عطا کورمت چھوی امہ مال و دولت
 سبت کر ژہ حاصل آخر تک گرہ تہ یہ مال آس کران خرچ تھندہ رضا خیطرہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
 الدُّنْيَا بیہ مہ مشر او ژہ دُنیا منزہ پن سوجہہ تس کھینہ چینہ تہ لباسہ خیطرہ ضرورت پیہ وَأَحْسِنْ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ بیہ کر ژہ تہ احسان نین لوکن نسبت تھہہ پاٹھ احسان کور اللہ تعالیٰ ان ژہ نسبت

الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۴۰﴾
 قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ
 أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرُ
 جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۱﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
 فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلِيَّتْ لَنَا

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ بِهِ مَهْ ذَهَانُ تَابَاهِي تَه بُرْد بَادِي زَمَيْسٍ مَنْزِ خَدَلِيَه سَمَزَانَا فَرْمَانِي كَرْنَه
 سِيَتِ بِهِي تَسْمَدِس پَيَجْمِرَه سَمَزِ مَخَالَفَتِ كَرْنَه سِيَتِ- بِهِي اَمْرَه مَالِكِ وَاجِبِي حَقُوقِ ضَالِحِ كَرْنَه سِيَتِ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ پَنَز پَاثِ اللّٰهُ تَعَالَى ۗ چَهْوَنَه پَسَنَدِ كَرَانِ تَابَاهِي يَزْهَنِ وَالِيَنِ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
 عِنْدِي ۗ بِهِي بُوَزَتِ لُوْكَ وَنَبْرَه قَارُونِ بِهِي مَالِ وَدَوْلَتِ چَهْوَمَه حَاصِلِ سِپَدْمَتِ پَنَه چَكْنَه سِيَتِ تَه ذَاتِي
 هَمْرَمَنَدِي سِيَتِ- بِعَنِي مَه چَهْمَه تَم تَدْبِيرِ تَنگَانِ سَمُو سِيَتِ مَالِ وَدَوْلَتِ كَمَا دَنَه پَوَانِ چَهْوَه- تَم سِيَتِ چَهْوَمَه بِهِي
 سُوْرُوِي جَمْعِ كُورْمَتِ- مِيُوْنِ چَهْمِيْگَنِ چَهْوَه بَجَا- مَه چَهْوَنَه بِهِي مَنْزِ كَانَه غَيْبِي اِحْسَانَه وَوَتَمَتِ نَه چَهْوَه كَانَه هُنَدِ
 اَتَه اَنَدِرْ كَانَه چَهَا هِيَه چَهْوَمَه پَنَه نِيُو اَتَهْوَجُ كَهْمَتِ زِيُوْمَتِ- أَوَلَمْ يَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ ذَا أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مَنْ
 الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرُ جَمْعًا ۗ اَتَه اَمْسَدِس وَنَه نَسِ چَهْوَه اللّٰهُ تَعَالَى رِ ذُكْرَانِ- فَرْمَادَانِ كَه
 كِيَا هَام قَارُونِ چَهْمَه بِشَمَارِ لُو كَنِ هِنَدَه ذَرِيَعَه بِهِي كَهْمَه بُو زَمْزَكَه پَنَز پَاثِ اللّٰهُ تَعَالَى اَنِ چَهْمَه كَالْتِ اَمِسِ بَرُوْنَه
 تَم تَم تَم قَوْمِ تَم تَم سَمَدِه خُو تَه زِيَا دَه سَخْتِ اَسِ قُوْتَه كَنِ يَعْني نُو كُرُو چَا كُرُو كَنِ بِهِي اَسِ زِيَا دَه مَالِ وَدَوْلَتِه كَنِ-
 تَتُوِي نُوْتِ سِپَدَنَه تَهْمَدَه كَهْمَه تَم كِيَا آءَه هَلَاكِ كَرْنَه بَلَكَه تَمْنِ اِيَه اَخْرِيْ تَسِ اَنَدِرْتَه بِرِ ثَهْنَه وَرَايِ عَذَابِ
 كَرْنَه وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۗ تَمْنِ گُنا هَا گَارَنِ نَشِ بِهِي نَه سَوَالِ كَرْنَه نَه پَرِ ثَهْنَه- تَمْنِ اِيَه
 پَرِ ثَهْنَه سَزَا وَنَه كِيَا زَه تَمْنِ اَمَه سَزَا اَسِ مُسْتَحَقِ اَسْنَكِ عِلَامَتِ لِحْتِ- وَوَنَسِيْ تَمْنِ نَشِيَه چَكْنَه وَتَه سَوَالِ كَرْنَه
 اِيَه سَمُو اَمَه تَهْمَزِ رُسُوَالِي تَه نَجَالَتِ نَسْرَا وَنَه خِيْطِرَه فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ اَكَه دُو هِه سِپَدِ اِنْفَاقِ كَه
 قَارُونِ دَرَاوِ پَنَه نَسِ قَوْمِسِ بَرُوْنَه كَنِ سَخْتِ اَرَانَشِ تَه مُيُطْه كَمْرَتِ شِيْرَتِ تَه پَارَتِ اَكَه شَانَه قَالَ الَّذِينَ

مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۹﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكْمُ ثَوَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
 وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۱۰﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا
 كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ
 الْمُنْتَصِرِينَ ﴿۱۱﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ
 وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

یُرِیدُونَ الْحَیْوةَ الدُّنْیَا تسمندہ برادری منزہ بعضے لوگوں کو تم با ایمان آستہ آس دنیازہا نڈان۔ تم لگ
 ونہ یلیت لئامثل ما اوتی قارون اے کاش آسہ تے آسہا تھ مال تھ قارون عطا آو کر نہ لائے
 لذو حظ عظیم بیشک سو چھو بؤ ذ نصیبہ اول یہ ونہ سیت سپدہ نہ تہندس ایمانس کا نہہ خلل ہتھہ پاٹھ
 ازتہ کا تیاہ مسلمان بین غیر مسلم قومن ہنز ترقی وچھت تمننا ہجہ کران تمن چھہ انجی فخر آسان۔ وقال
 الذین اوتوا العلم ویکم ثواب اللہ خیر لمن امن وعمل صالحا تمن لو کن خدلیہ سدہ طرفہ علم و فہج
 دولت ونہ آس امر تمو دوپ تمن حرلیص تہ طالع لو کن کہ افسوس تہندہ ہتھہ خدلیہ سد ثواب چھو بہتر
 تہ رت امہ مال دنیاء خونہ بس عطا کر نہ یہہ تمن لو کن ہمو ایمان اون یہہ کر یکھ رتہ عملہ ولا یلقیہا الا
 الصابرون یہ ثواب چھونہ کامل طور عطا یوان کر نہ مگر صبر کرہ ونین۔ تم مال دنیاء کہ حرص وطمع
 نشہ صبر کرہ ون آسن فحسفتنا بہ ویدارہ الارض بس اول آسہ سو قارون یہہ تسمنزہ کرہ جلیہ زمینس
 تل فاما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین کس آس نہ کس کا نہہ
 جماعتہا یوسہ کس مدد کمرت ہیجہ با خدا بس وراہ۔ نہ ہیوک تم پین پان پچاوت کا نہہ ہمد مدد حاصل
 کمرت حالانجہ تمس سپت آس ہڈ جماعت مگر کا نہہ تہ پوس نہ بروئھہ واصبح الذین تماتوا مکانہ
 بالامس یقولون پگاہ صبحس تسمندہ حسسک واقعہ وچھت وون تمو لو کو تم امہ بروئھہ پین تمننا آس کران
 قارونہ سدہ مال و دولتگ یہہ کس ہیو نہ نک ویکان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ و یقدر

لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَاتِّهُ لَا يُقْلِحُ
 الْكُفْرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا
 يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
 يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾
 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ


تجرب چھو کہ اللہ تعالیٰ چھورز قس اندر وسعت کران پنہ نیو بندو آندره تمن تمن یرشان چھوبیہ چھو
 سوی تنگی کران رز قس اندر تمن تمن یرشان چھو۔ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَاتِّهُ
 لَا يُقْلِحُ الْكُفْرُونَ ہر گاہے اللہ تعالیٰ اسے پیٹھ منت تھا وہ ہا اسے نہ نیہ ہاز مینس تل والت مال دنیاء
 کہ حرس و طمرہ مٹو کہ۔ تجب چھو کہ کافر زانہہ کامیاب سپدن نہ۔ ہر گاہ کینہہ کلاہ دنیاء س منز عیش نہ
 گزن مگر پتولا کہ چھو تمن تاوانس نہ خسر انس گرفتار سپدن۔ فلاح و کامیابی چھہ مخصوص بالیمان ہندہ
 خیطرہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا یہ عالم آخرت
 سمہہ ثوابک مقصود اسن بیان آؤ کر نہ۔ ثواب اللہ خیر ونہہ سیت سو چھو اسے خاص مقرر کورمت تمن
 لوکن ہندہ خیطرہ سمہہ دنیاء س اندر مالی اعتبارہ بوڈ بن یرشان چھہ نہ۔ بیہ چھہ فساد تباہی نہ بُر بادی
 یرشان وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ رُت انجام نہ رُت نتیجہ چھو خدا انس کھوڑو و نین ہندہ خیطرہ تم ترک نواہن
 سیت امتثال اوامر نہ اسن کران مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا قیامتک دوہ ئس اکھاہ خدایس نشہ
 نیکی ہتھ بیہ سیدہ خیطرہ چھہ سوی مزور بیوسہ تمہہ خودہ رث اسے استحقاقہ خودہ زیادہ اسے وَمَنْ جَاءَ
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ئس اکھاہ ئس نشہ تمہہ دوہہ بدی
 ہتھ بیہ ئس بیہ نہ چھہ کا ماہ کرہ و نین کا نہہ مزور نہ سزاوندہ مگر تمنی کا مین ہنز تم تم گروہ ان اسن زیادتی
 و رای إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ تجہہ گروہ دشمنو تکلیفات و اتناونہ سیت

قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۸۵﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۷﴾

سخت ہدیشان۔ یہ اندر توہمہ پیوہہ مجبور سپہت ترک وطن کزن۔ سمعہ مفارقت وجدائی ہند توہمہ سخت صدمہ ہتھو۔ توہمہ سپدن تسلی سمہ کتھہ سیت کہ بیشک سم پروردگارن توہمہ پیٹھہ یارسول اللہ قرآنی احکامن ہند تعمیل تہ تبلیغ کزن فرض کورسوا تاتواہ توہمہ ضرور پنہ نس وطن اصلیس یعنی مہ شریفس منز۔ عمہ ساتہ آسوتہہ آزاد تہ غالب۔ ہیہ آسوتہہ صاحب سلطنت قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ سم لو کہ توہمہ زانان ہتھہ غلطی پیٹھہ تہ پاس ہتھہ زانان پزرس پیٹھہ تمین فرماو تہہ یارسول اللہ کہ میون پروردگار ہتھو پورہ زانہ ون کہ کتھہ آوتہمہہ طرفہ پوزدین تہ بوڈ ہدایت پیٹھہ۔ ہیہ ہتھو سوسی زانان کہ کتھہ ہتھو بتلانہ گمرانی اندر۔ تہنز دولت نبوت ہتھہ محض خدایہ سزای مہربانی وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ توہمہ آسہ نہ پنہ ہتھہ پیغمبر ہنہ برونھہ کا نہہ امید کہ توہمہ گن کیا ایہ نازل کرنہ ہیہ عظیم الشان کتاب یعنی قرآن مجید۔ مگر سپہ ہیہ کتاب نازل توہمہ پیٹھہ محض خدایہ سزہ مہربانی سیت۔ نس مہ آسوتہہ مددگار بنان کافر نہ ہندہ خیطرہ تہنز ن کتھن تاسید کرنہ سیت۔ ہتھہ پاٹ ازتان تہہ تمن رشہ الگ رُووہ ہتھہ پاٹ گوشہ آیندہ تہ الگ روزن۔ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ ہیہ یلہ خدایہ سند احکام توہمہ پیٹھہ نازل سپد۔ ون مہ این لبہ توشہ کتھہ کہ سم لو کہ کیارن توہمہ ہتھہ سموا احکامو لغہہ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تہہ رُووہ بدستور لو کون پنہ نس پروردگارہ سدس دیش گن نادوان۔ ہیہ ہتھہ پاٹ ازتام توہمہ مُشْرِكِن سیت کا نہہ تعلق تھووہہ نہ ہتھہ پاٹ مہ تھاو کا نہہ تعلق تمن

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۸﴾

سیت آئینہ ہے۔ یہ منہ سپد و شامل ہے مُشرک سیت۔ بلکہ تھہ پاٹ از تام ہے شر کہ نشہ معصوم ہے پاک رُو دودہ تھے پاٹ رُو زو ہمیشہ پاک ہے معصوم وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ یہ منہ دو جہہ ناد خدا بس سیت یہی کانسہ معبودس لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کیا زہ کا نہ معبوداہ چھونہ نس و رای كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ پر تھہ چیزاہ چھو ہلاک گڑھہ ون تسدہ ذات پاکہ و رای۔ معدوم ہے ناؤ و سپدن چھو دلیل سمہ تھہ ہنز کہ سو چھونہ قدیم اوسمت یہی چھہ دلیل واجب الوجودہ آج۔ مستحق عبادت آسنگ شرط چھو واجب الوجود آسں بلکہ نہ سو واجب الوجود چھو لہذا یہ کہ نہ سو ہرگز مستحق عبادت آتھہ تمی چھو مضمون لالہ ثابت لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حکومت چھہ تہننز سیمک کاسل ظہور سپدہ قیامتگ دوہ۔ تئس سُن ایو تہہ ساری وائس و اتانہ۔ سارنی یہی پنہ کمر تیک سزا دہ۔ سمو آیا تو سیت چھو مطلب کافر ہے مُشرک نا امید کرن تمہہ درخواستہ نشہ نس تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدئس منز پیش کران آس کہ تہہ پھیر تو سانہ سی دئس سُن۔ اصل چھو روی سُن یمن آیات کر یمن منز تمنی مُشرک سُن کہ ای مُشرک کو تہہ چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلمن درخواست کران پنہ نس دئس سیت موافقت کرہ نگ۔ آتھہ منز سپد نہ تہہ ہرگز کامیاب۔ مگر عادت چھو یلہ کانسہ پیٹھ ڈکھ، بیزاری ہے عتھہ چھو آسان تمہہ ساتہ چھونہ یوان سُن روی سُن کرنہ۔ بلکہ چھہ تھہ یوان سُن و اتانہ بیس سُن لاگت۔ تئس چھو تمی طریقہ آمت کرنہ۔ پنہ نس مجبوب خاص سُن و تھہ چھو مراد تمن دُشمن تھہ و اتانوں سم یہ درخواست کران آس۔ کیا زہ تم یلہ اللہ تعالیٰ ان سوزین لوکن پزس دئس سُن ناددہ خیطرہ یہ تھہ پاٹھ چھو ممکن کہ تم کیاسپدن شو ذبا اللہ پانہ کُفر و شرک سُن مائیل۔



سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ۱ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا
 يُفْتَنُونَ ۚ ۲ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۓ ۳ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ
 يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ ۴ مَنْ كَانَ
 يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اللہ تمہارے ہر حرفِ مقطعات میں ہند معنی زانہ پانہ خدا أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ بعضے مسلمان چھہ کافرن ہند یو تکلیفوسیت گابرن تہ بانبران۔ کیا تم لوکن چھہ گمانہ نہ تم کیابن زیوہ سیت آمنائوت آزمائشہ وراہی تراونہ۔ یعنی تہ بہنہ نہ۔ بلکہ امہ قسمک امتحانات تہ آزمائشہ بین ضرور تم پیش وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ہنز پات امہ چھہ ہتھوے واقعاتوسیت آزمائش کمر مژ تمین لوکن تہ تم میں بروٹھ چھہ گذر سمیت مسلمان بروٹھ میں اتن اندر۔ ہتھ اللہ تعالیٰ نراوہ تمین لوکن ہند ایمان تم ہنز زبر چھہ ایمان انہ نس اندر بیہ نراوہ سو تمین لوکن ہند ایمان تم ایمان انہ کس دعوے اس منز اپنز زبر چھہ۔ چنانچہ تم لوکھ وٹھہ واخرہ ایمان اتان چھہ تم چھہ امتحان اندر ثابت روزان بلکہ چھو ٹھہند ایمان ہتھہ سپدان۔ وٹن تم لوک وٹھہ گئے چھہ ہران تم چھہ امتحانہ وقتہ اسلام تراوان بیہ کفرس گن پھیران۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا کہہ گمان چھہ کران تم لوک تم چھہ کامہ چھہ کران (شرک تہ نافرمانی، مسلمان تکلیف رسانی) تم کیاہ ہمکن ثلث امہ نشہ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ یہ خیال کرن ٹھہ چھو سیٹھاہ بے ہودہ تہ چھہ۔ تمین کافرن بیہ ضرور امیک بدلہ ہنہ۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ

وَمَنْ جُهَدًا فَاْتَمَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جُهَدَاكَ
 لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط إِلَىٰ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اِس شخص پورا امید اسے آخرتس منز خدا اِس سیت ملاقات کرفج تمسند گزھہ نہ
 یتھیو حادثا تو سیت پریشان سپدن بلکہ گزھہ تمسز تچ تیاری کرن۔ خدا اِس سیت ملاقات کرنک وقت
 چھو مقرر کرنہ آمت۔ سو وقت چھو ضرور پنے نس موقس پیٹھ ینہ اول۔ سمہ سیت ساری غم دور سپدن۔
 سو چھو سو زوی بوزہ ون سو زوی زانہ ون۔ اِس نشہ چھونہ کانہہ چیز پو شیدہ۔ نہ کانہہ کتھ، نہ کانہہ گوم۔
 اِس دیکھ سو توہمہ پر یتھ رتھہ کتھہ تہ پر یتھ رتھہ کامہ ہند عوض تہ بدلہ۔ سمہ سیت ساری غم تہ غصہ دور
 سپدن وَمَنْ جُهَدًا فَاْتَمَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یہ گزھہ تھوان یاد کہ اِس
 اِس توہمہ محنت تہ مشتق برداشت کرنک ترغیب ووان چھہ اتھ اندر چھونہ اسہ کانہہ مفادہ۔ بلکہ اِس
 محنت چھو کران خدایہ سد احکام بجانہ اِس اندر سو چھو محنت کران پنے پانچہ فائدہ خیطرہ۔ ورنہ پز پیاٹ
 اللہ تعالیٰ چھو ساری لو کو نشہ بالکل بے نیاز۔ سو چھونہ کانہہ گن محتاج وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ سمو لو کو ایمان اون
 یہ کر کیکھ رتھہ عملہ اِس گز و ضرور مغفرت تہندین گنہن یہہ دمو تہن استحقاقہ خو تہ زیادہ رت تہ زیادہ
 بدلہ۔ تہن رتھن کاین ہند یمہ کران اِس تم دنیاء اس اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا یہہ
 کور اسہ کھم انسانس ماس ماجہ نسبت رت سلوک تہ احسان کرنک۔ سیت ونس یہ کتھہ تہ کہہ وَاِنْ
 جُهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ہر گاہ مول موج زور گرہے سو چیز میون
 شریک ٹھہراونہ خیطرہ سمسندس معبود آسکس پیٹھ رتھہ نشہ کہی دلیل چھہ اِس یتھہ رتھہ تہند مانکھ کس

مَرْجِعَكُمْ فَأَنِبْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^۸ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ^۹ وَمَنْ
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ
فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ
لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ
الْعَالَمِينَ^{۱۰} وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

خدا اُس شریک ٹھہرا کہ اِنے مَرْجِعَكُمْ فَأَنِبْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سے کن چھو توہہ سارنی رجوع
کرن تہ وانہس من نہیں کرووہ بو توہہ خبر تمہہ سارجی یہ ٹھہہ کران آسوہ رت یا پیچہہ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ توہہ آندرہ سمولو کو ایمان اون تہ رتہ عملہ کرکے تم
وانتاو کہ اُس ضرور نیکو کارن سیت جنتس۔ پیٹھے پاٹ سم لو کہ پیچہہ کامہ کرن تمن پیہہ سزادنہ۔ لہذا اُس
اکھاہ مالس ماجہ ہنزا اطاعت مقدم تھاوہ خدایہ سندس اطاعتس پیٹھے اُس تہ پیہہ سزادنہ یہ آیہ کریم چھو
نازل سپد مت حضرت سعد بن ابی وقاصہ سندہ حقہ۔ تمن آس موج اسلامہ نشہ پھیر اُس پیٹھے مجبور
کران وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ بِیہ
چھہہ لو کو آندرہ بعضے تم وانان چھہہ آسہ اون ایمان خدائس۔ توپتہ ہر گاہ خدایہ سزہ وتہ اندر کا نہہہ تکلیف
واتان چھو کہ لو کن ہندہ طرفہ تہہ لو کن ہندس تکلیفس چھہہ زانان خدایہ سُد عذاب ہیو۔ یعنی سیٹھاہ
پریشان چھہہ سپدان وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ توپتہ ہر گاہ ٹھہدس پروردگارہ
سندہ طرفہ مسلمانن کا نہہہ مدواہ واتان چھو تمہہ ساتہ چھہہ دپان آسے توہی سیت آس اُو لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیاہ اللہ تعالیٰ چھنا پور زانوں تہہ سارسی یہ عالمہ کین لو کن ہندین دن
منز چھو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ تعالیٰ اُس چھو نتر اون با ایمان ہند
حال تہ۔ بیہ چھس نتر اون منافقن ہند حال تہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَجْعَلُونا

الْمُنْفِقِينَ ۝۱۱ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا
 سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَاهُمْ بِمُحْمِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ
 مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۲ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ
 أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝۱۳
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ
 إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝۱۴
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝۱۵

وَلِيَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ بپہ چھہ ونان کافر با ایمان تہہ پکود نیس اندر سانہ وتہ۔ قیامتک دوہ تلو آس یانس پیٹھ
 تہند وبال تہ گناہ وَمَاهُمْ بِمُحْمِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ حالانکہ تم تلن نہ ہرگز تہند یو گناہو
 اندرہ اکھ زڑہ تہ تمہہ طریقہ تمہہ سیت تم تمو گنہو نشہ آزاد سپدن۔ تم چھہ یہ بالکل اپز ونان۔
 وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم تلن ضرور
 قیامتک دوہ پنہ نین گنہن ہند بور۔ یہ تلن واریاہ بور پنہ نین بورن سیت۔ سو گو لو کن گمراہ کرہ کین گنہن
 ہند یور یہ یہ تم ضرور پر تھنہ قیامتک دوہ تم سارنی تھن ہند تمہہ تم پانے ٹھہراوان آس تو پتہ پیٹھ
 سزاوندہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا یہ سوزاسہ نوح
 علیہ السلام پیغمبر پنہ نس قومس گن۔ نس رود سو تم منز پنہو (۵۰) ہو کم آس ساس (ساژن نون شتن)
 ورہس تبلیغ کران توحیدس گن نادودوان۔ مگر تہ کمرت تہ اون نہ تمو ایمان بلکہ کوزکھ انکار تہ تکذیب
 فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ادہ رش تم سیلابن تہ پھاژون در حالیکہ تم آس بدہ ظالم۔ فَأَنْجَيْنَاهُ
 وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ نس دیت اسہ نجات حضرت نوحس یہ تم تہنہ ناوہ
 اندر کھتمت آس امہ طوفانہ نشہ۔ یہ تھووا اسہ سو واقع اکھ نشانہ عبرتک عالمہ کین لوکن ہندہ خیطرہ

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَفُوا ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ
 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا
 عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿۱۴﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ

سمن نشہ آمدہ واقع خبر و اثر تمن تور فخرہ پڑس مخالفت کرنگ نتیجہ کیاہ چھو آسان و ابراہیم اذ قال
 لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَفُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ سوز اسہ حضرت ابراہیم پیغمبر بناوت یلہ تمو فر موو پینہ نس قومس سم
 بت پرست آس ای قوم عبادت کمر و تہمہ معبود برتھہ سزہ۔ یہ کھو ژوئس شر کہ نشہ روز و تھہ ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ چھو تہمہ خیرہ بہتر ہر گاہ توہہ زان سچہ بخلاف شرک سو چھو
 بد طریقہ کیاہہ لَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا تہہ چھوہ معبود برحق
 تراوت پو تلین ہنز عبادت تہہ پرستش گرہ و ن سم عاجز تہہ نالائیق چھہ۔ یہ چھوہ تھہ متعلق پائے ایزہ تھہ
 ٹھہراوان کہ تہندہ سمیت سپدہ اسہ روزی روزگار س ترقی۔ یہ سوزوی چھو محض ایزہ کیاہہ لَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا
 لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سمن ہنز عبادت تہہ خدائس و رای کران چھوہ تم چھہ ہرگز مالک تہندہ تہہ
 رزق۔ تمن آتھہ چھوہ رزق کاہنہ اختیار۔ بلکہ چھو تہندہ روزیک مالک معبود برحق۔ بس
 ژھانڈو تہہ تس نشہ ہن روزی تہہ رزق بس رزق مالک چھو۔ یہ یلہ رزق مالک چھو سوی تہنزی
 کمر و عبادت۔ یہ چونکہ از تام چھوہ تمی رزق عطا کورمت لہذا کمر و تہنزی شکر گڈاری۔ تو پتہ ایہ تہہ
 ساری تس کن بیہ نہ کانسہ کن و ائس بند۔ سو دیہ توہہ ضرور شرک و کفر کرہ بس پیٹھہ سزاء وَإِنْ تُكَذِّبُوا
 فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ہر گاہ تہہ ایزہ روزانومہ تھہ تھہ اندر کہ میون دعوی کیا چھو کہ

قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾
 أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۹﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
 فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
 النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾
 يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿۲۱﴾

خدايہ سنز عبادت کرن چھ واجب تئس شکر دُپن چھو لازم مرنہ پتہ بیہ زندہ گدھن چھو حق تہ پوزیہ
 نوکٹھاہ بکنہ چھنہ۔ ہنز پاٹ توبہ برو تھ تہ چھو وار بہو اُمتو پتہ نین پیغمبرن تکذیب تہ انکار کورمت سکن
 تھن۔ تم ن پیغمبرن تمیگ کینہہ نقصانہ ووت نہ کیاہہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
 پیغمبرس چھو نہ مگر صاف صاف پانٹھ پیغام وانہ ناؤن۔ زورہ مانراون۔ تسز گوم چھنہ۔ تئس سپد ساری
 انبیاء تبلیغ کمرت کامہ نشہ سبکدوش تھہ پاٹ سپدس یوتہ سبکدوش۔ تھہ نہ مانہ تک ضرر چھو توبہ پانس
 اسہ امیگ کانہہ ضرراہ چھو نہ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ كَیَاہ تم لوکھ چھنا
 وچھان زہ اللہ تعالیٰ تھہ پانٹھ چھو مخلوقن گوڈہ پیدہ کران۔ عدم محضہ نشہ بوجود اتان۔ توپتہ کرکھ سومی
 بیہ دوبارہ پیدہ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بیشک یہ تھہ چھ اللہ تعالیٰ اس نش سیٹھاہ سہل تہ آسان۔
 بلکہ چھو ظاہرہ پاٹ دوبارہ پیدہ کرن گوڈہ پیدہ کرنہ خوتہ زیادہ سہل۔ اگرچہ پروردگارس نشہ چھہ
 دوشوے چیز برابر عجیب تھہ چھہ کہ تم لوکھ چھہ گوڈہ پیدہ کرنس اقرار کران مگر دوبارہ پیدہ کرنس چھہ
 انکار کران قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
 الْآخِرَةَ تہہ فرماو لوکھ یارسول اللہ اے لوکو تہہ پھر توبہ سارس ز مینس اندر توپتہ وچھو تھہ پاٹ
 چھو اللہ تعالیٰ ان مخلوقات گوڈہ پیدہ کمرمت تھہ پاٹ کیاہ کرہ اللہ تعالیٰ تم دوسمہ پھرہ قیامتک دوہ بیہ
 پیدہ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پر تھہ چیزس پیٹھ قدر تہ وول۔ يُعَذِّبُ

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِرَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ

مَنْ يَشَاءُ وَيُرْحَمُ مِنْ يَشَاءُ **بیت دوباره پیدہ کمرت بس خوش کر بس تس گرہ عذاب۔ بس خوش کر بس تس گرہ رحم۔ اتھ تعذیب ورحم کرہ نس منز آسہ نہ بیہ کانسہ دخل کیا زہ و لایہ ثقلیون تہہ ساری ایو تش کن پھر نہ بیہ نہ کانسہ کن۔ امہ تعذیبہ رشمہ چنہ خیطرہ بیجکونہ تہہ کانسہ تدبیر کمرت و مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ** چنانچہ تہہ بیجکون نہ خدا عاجز کمرت ز مینس منز کھنکت روز نہ سیت نہ وڑتھ آسمان کھنہ سیت **وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ** بیہ جھونہ توبہ خدا بس و رای کانسہ سر پر ستاہ۔ نہ کانسہ مدد گارہ۔ لہذا بیجکونہ تہہ نہ پتہ تدبیرہ سیت عذابہ رشمہ بخت نہ کانسہ ہندہ حمایہ سیت **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِرَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** سمولو کو انکار کور اللہ تعالیٰ سندین آیاتن بالخصوص تس سیت ملاقات کرہ نس تہ تس برونھ کنہ استادہ سپد نس تے لوک کیا سپدن قیامتک دوہ میانہ رحمتہ رشمہ نا امید نا طس و کس گوہیک تسلی کہ تم جھہ رحمتہ رشمہ محروم بیہ جھو تھندی خیطرہ دگ تہ دودتھہ ون عذاب **فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ** حضرت ابراہیمہ سندہ امہ وعظ و نصیحتہ پتہ اوس نہ تھندہ قومک جواب کینہہ تہ مگر ای زہ پانہ وان لنگ تم ونہ زہ بیہ ماریون یا زالیون نارس منز۔ چنانچہ کر کہ تھندہ زالنک سامانہ تیار مگر اللہ تعالیٰ ان دیت تمن تھہ نارہ رشمہ نجات **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ** پز پات اتھ واقص منز چھہ واریادہ لیلہ متحدہ لوکن ہندہ خیطرہ

مَنْ دُونَ اللَّهِ أَوْ تَأَنَّا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ
مَنْ يُصِرُّينَ ﴿۲۵﴾ فَمَنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ
إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۶﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

امہ واقعہ سیت چھو ثابت سپدان اللہ تعالیٰ سُد قادر آسن۔ حضرت ابراہیمہ سُد پیغمبر آسن۔ مفر و
شرک باطل آسن بیه چھو خدایہ سده قدر تک نغانہ تمن لوکن ہند خیطرہ یم پڑھ کران چھہ وَقَالَ
إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیه فرمود ابراہیم علیہ
السلام پنہ نس قومس و علس منزیه کتھہ کہ تہہ چھوہ خدایس ور اے معبود بناومت بے جان پوتل ذنیاء چہ
زندگی اندر پانہ وان محبت قائم تھاونہ خیطرہ یا اکھ اکھد لحاظ قائم تھاونہ خیطرہ۔ مگر یہ روزہ وہ ذنیاء سی
اندر ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا تو پتہ کمر و تہہ قیامتک
دوہ اکھ آسنر مخالفت تہ انکار بیه کمر و اڈاؤین و وہو تہ لعنت وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مَنْ يُصِرُّينَ
مگر تمہ سیت اندہ نہ کیہنہ۔ ہر گاہے تہہ امہ بت پرستی نشہ پتھ روزو تھمز جائے آسہ نار جہنم تو بہہ آسن
نہ تہہ کتھہ قسمہ مددگار فَمَنْ لَهُ لُوطٌ یوت و عطا و نصیحت کمر تہ اُون نہ ایمان تھند قومس۔ فقط
اُون ایمان تال کرنہ و رای تہند باپہ تھرن۔ لوط علیہ السلام وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یلیہ ابراہیم علیہ السلام تو مکہ ایمان ائندہ نشہ مایوس سپد۔ دو چھہ وون تراوہ بو پین
وطن۔ بو کرہ ہجرت پنہ نس خدایس گن۔ یوت سو و اتناویم توت گتھہ۔ بیشک سو چھو زبردست تہ حکمت
وول۔ سو کرہ میان حفاظت تہ راہچہہ۔ بیه کریم سو امیک پھل عطا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
امہ ہجرت پتہ کوراسہ تمن عطا فرزند اسماعیل علیہ السلام علاوہ اسحق علیہ السلام بیه تھند فرزند یعقوب

وَ اتَيْنَهُ اجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ
 الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۷﴾ وَاِذَا قَالِ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاٰتُونَ
 الْفٰحِشَةَ مَآ سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾
 اِنَّكُمْ لَتَاٰتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ ۗ وَ تَاْتُونَ
 فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا
 اِنْتِنَا بَعْدَآبِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبِّ

عليه السلام وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ ۗ بِه تھوو اسمہ جاری تھند سی ذرئیس تہ
 خاندانس اندر نبوت تہ کتابہ۔ یعنی توریث، انجیل، زبور، تہ قرآن مجید۔ وَ اتَيْنَهُ اجْرَهُ فِي الدُّنْيَا
 بیہ کمر اسمہ ترم مزور تہ ثواب عطا دنیاء سی اندر وَ اِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ بیہ آسن تم
 آخرتس اندر تہ نیک بندو اندرہ وَ لَوْطًا بیہ سوز اسمہ پیغمبر بناوت لوط علیہ السلام اِذَا قَالِ لِقَوْمِهِ
 اِنَّكُمْ لَتَاٰتُونَ الْفٰحِشَةَ یلہ تمو پنہ نس قومس دُوب بیشک تہہ ہجھوہ سیٹھاہ سخت ہجھہ گوم کران
 مَآ سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ توہہ بروٹھ ہجھہ یٹھ ہجھہ گوم کمر مشعالہ کیولو کو جنوتہ انسانو
 اندرہ کاسرہ تہ اِنَّكُمْ لَتَاٰتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ وَ تَاْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ کیاہ تہہ
 ہجھوہ زنانہ تراوت مردن نیشہ قوت شہوانی پورہ کرنہ خیطرہ نزدیک یوان۔ بیہ ہجھوہ اسمہ علاوہ وتہ پکہ
 ونین لوٹان۔ بیہ ہجھوہ پنہ نین مجلس اندر ہجھہ کامہ کران۔ شراب چوان۔ سیتارہ وایان۔ نغمہ تہ گیون
 لاگان۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنْتِنَا بَعْدَآبِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ نس اوس
 نہ کانہہ جواباہ تھندہ قومہ طرفہ گمراہی زہ دوپک اِنُو اسمہ پیٹھ خدایہ سُد عذاب ہجھوہ تہہ یہ تھہ ونہ نس
 اندر پوزونہ ونیواندرہ کہ خدا چھو سمن کھن پیٹھ بیزار۔ بیہ کیا ہجھوہ تہہ تھندہ طرفہ پیغمبر قَالَ رَبِّ
 اِنصُرْنِيْ عَلٰی الْقَوْمِ الْمُبْسِدِيْنَ لوط علیہ السلام کور دُعَاے میانیہ پروردگارہ مہہ کریاری تہ
 مدد سمن مُفسد کو کن پیٹھ سوز پن عذاب، تمی سیت گالٹھ۔ توپتہ کور اللہ تعالیٰ اَن تھند دُعَا قبول کرنہ پتہ

انصرتني على القوم المفسدين ﴿٣٠﴾ ولما جاءت رسلنا
 ابراهيم بالبشرى قالوا اننا مهلكوا اهل هذه
 القرية ان اهلها كانوا ظالمين ﴿٣١﴾ قال ان فيها
 لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله
 الا امراته كانت من الغيبين ﴿٣٢﴾ ولما ان جاءت
 رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا

عذاب خبرندہ خطیر ہلاک مقرر۔ تمین ملائکن تھاون بیا کہ کام تہ منہ کہ ابراہیم علیہ السلام فرماوونہ
 بشارت اسحق علیہ السلام سدہ تولد سدرج۔ ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى چنانچہ تو پتہ یلہ
 آئے تم ملک تم اسہ سوزمت آس، ابراہیم علیہ السلام کن فرزندہ سبز بشارت و خوشخبری تھتہ۔
 قالوا اننا مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين کتھن اندرون تمویہ کتھ تہ
 تمن کہ بیشک آس چھہ ہلاک کرون سمہ شہر کہ لو کہ (شہر سدومک) کیا زہ امہ شہر کہ تم لو کہ چھہ
 سخت ظالم تہ شریر قال ان فيها لوطا ابراہیم علیہ السلام دو چھہ اتھ شہر س منزے میون
 باپہ تھر لوط علیہ السلام چھو قالوا نحن اعلم بمن فيها تمو ملکو دو چھہ اسہ چھہ پور خبر تہنز لیس تھتہ
 منز چھو لننجينك واهله الا امراته كانت من الغيبين آس بچا دو کہ ضرور تم یہ تھند اہل و
 عیال تہنزہ آخیرہ وراکی۔ سو اسہ تہ روزت عذابس گر قمار سپدہ و نیو آندرہ ولما ان جاءت رسلنا
 لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ادہ یلہ سان سوزنہ امت ملک وات لوط علیہ السلام نشہ تم
 سپد تھندہ اننہ سیت ناخوش تہ دل تنگ۔ کیا زہ تم ملک آس سیٹھاہ جو بصورت لو کٹین ہنزہ شکہ۔ تمن
 ملکن یلہ معلوم سپد کہ تم سپد سانہ پنہ سببہ تہ سخت پریشان وقالوا لا تحف ولا تحزن اننا

لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُواكَ وَاهْلِكَ إِلَّا
 امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۳﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ
 هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۴﴾
 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۵﴾ وَالِى
 مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ
 ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۳۶﴾

مُنْجُواكَ وَاهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ تموملکو دوپیک تمہہ مہ ہز کھوڑو۔ تمہہ مہ
 بز وکانہہ غم۔ آس جھنہ انسان۔ آس جھہ عذابک ملک۔ آسہ جھہ ہلاک گران سمہ شہرک لوکھ آس
 بجاووہہ تمہہ نہ تھنہد عیال تمہہ عذابہ نشہ تمہزہ آسہ وراکی۔ سو آسہ تہت زوزت عذابس گرفار سپدہ
 ونیوآندرہہ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ آس جھہ آساجھہ
 طرفہ سمہ شہرہ کین لوکن پیٹھ عذاب نازل کرہون۔ تمن پیٹھ کاین ہند سزا سمہ تم کران آس۔ تو
 پتہ کور آسہ تھہ شہرس تلک پیٹھ۔ پیٹھ تراویکھ آسہ کنہ زودک پاٹھ۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ پز پاپ تھاو آسہ تمہہ شہرک کینہہ نن نغانہ باقی تمن لوکن ہندہ عبرتہ خیترہ سم کاٹل آس۔
 چنانچہ ملک لوکھ آس شہر شامہ کس سفرس آندراوہون نہ گرشہ وان تمن ویران کاقتن شہرن وچھان۔
 تمن اندریم عقلہ وال آس تم آس یہ وجھت نہیب کھیوان۔ کھوڑت آس ایمان انان۔ وَالِى مَدْيَنَ
 أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
 بیہ سوز آسہ مدینہ کین لوکن گن بوی تمہند شعیب علیہ السلام تینبیر۔ بس دوپک تمواى میانہ قومہ
 عبادت تہ پرستش کمر و معبود برحہہ سزہ تہ شرکہ نشہ زوزو جھہ۔ بیہ کھوڑو قیامتہ کس دوہس۔ بیہ مہ
 پھیلاووز مینس منز تباہی۔ حقوق اللہ تہ حقوق العبادتہ کمر وضایح۔ کھر وشرکہ نشہ کم تولنہ نشہ، کم مینہ
 نشہ زوزو جھہ۔ فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ بس زون تمومل

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
 جُثَمِينَ ﴿۳۷﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْئَلِهِمْ ^{واقفة}
 وَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
 وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿۳۸﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَدْ
 جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
 سَابِقِينَ ﴿۳۹﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِنَبِيٍّ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
 حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا

شعیب علیہ السلام اپنی قوم پر رودنہ تم نافرمانیہ نشہ پیتھ۔ ادرث تم سخت بتل۔ پس آس تم صبحس
 پنہ نین نگران منز پیتھ کن پیتھ مومت۔ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْئَلِهِمْ بیہ گال اسہ قوم
 عادتہ قوم ثمود۔ پز پیاٹ توہہ آسہ وارہ نظرہ یوان ای مکہ کیو لو کو تہند یو پچمڑ و تہ منہدم گامرو لریو جائو
 منزہ۔ یلہ تہہ ملک شامس گن سفر کران چھوہ تہندہ تباہی ہند حال۔ وَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ تہنز حالت آس ییہ کہ شیطان اوس تہنز تن پچھ کائین
 زینت دیو تہمت۔ ورنہ آس تم ہشیار۔ مجنون تہ بے عقل آس نہ۔ مگر تمو ہنہ پتہ عقلہ کام وَقَارُونَ
 وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ بیہ گول اسہ قارون فرعون تہ ہمان تہندہ کفر تہ نافرمانی سبہ۔ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى
 بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ حالانکہ تم ن ترشون نشہ آیو موسیٰ علیہ السلام
 نہ دلیلہ پیتھ مگر تمو کر سر کشی زمینس اندر توپتہ ہیکنہ تم سانہ عذابہ نشہ ثلاث فَكُلًّا أَخَذْنَا بِنَبِيٍّ
 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ
 مَنْ آخَرَفْنَا اسہ کور سمو پانژو اندرہ پر پیتھ اکھاہ گرفتار پتہ پتہ بجر مکہ عذابہ سبت۔ چنانچہ تمو اندرہ
 بعضین پیٹھ سوز اسہ تیز واؤ۔ تمہ اندرہ چھو مڑاد قوم عاد۔ بعضی رٹ خوفناک کریکہ تمو اندرہ چھو مڑاد

بِهِ الْأَرْضَ وَمَنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۰﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بِعَبْتُ
 إِنْ أَوْهَنَّ الْبُيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴۲﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا

قوم ٹمود۔ بعضے نے اسے والٹ زمینس تل تمہ اندرہ چھوڑا قارون۔ بعضے پھاڑو اسہ دریاءس منز تمہ اندرہ چھوڑا فرعون تہ ہامان و ماکان اللہ لیظلمہم و لکن کانو انفسہم یظلمون اللہ تعالیٰ اوس نہ تہتہ کہ سو کیا گرہ ہا تمین پیٹھ ظلم مگر تم آس شرارت تہ فساد کر نہ سیت پان پانس ظلم کران مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بِعَبْتُ مثال تمین لوکن ہنز چھہ سمو خدا نیس وراے ہیہ مخلوق زان ہن دوست تہ مددگار آس زلر سبز مثال نیس پنہ خیالہ اکھ گراہ چھو بناوان و اِنْ أَوْهَنَّ الْبُيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ حالانکہ ہتھ کتھہ منز چھو نہ شکھہ ساروی گرو اندرہ چھو سست تہ ضعیف گرہ زلر سندرہ۔ ہتھہ پاٹ زلر چھو پنہ خیالہ پناچ جاعے ہن زال تیار کران نیس نہ تحقیقس اندر کا نہہ پناہ ہیکان چھو دت۔ ہتھہ پاٹھ چھہ مشرک معبودان باطلن پنہ خیالہ پنہ پناچ جاعے زانان واقفس تہ تحقیقس منز چھہ نہ تم کہی لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہر گاہ تم حقیقت حال زانہ ہن تملیہ کرہ ہن نہ خبر کچہ کامہ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ہنز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو زانان تمین سارنی چیزن ہندہ ضعف وستی ہنز حقیقت تمین تمین ہنز پرستش کران چھہ تم معبود برہٹس وراے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سو چھو پانہ سارسی پیٹھ غالب۔ سو چھو سیٹھاہ حکمت وول۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ چوہمہ آس چھہ سارنی چیزن ہنز حقیقت پور زانان۔ لہذا چھہ آس مثالہ بیان کران لوکن فخرہ تارہ خیطرہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ سمہ مثالہ تران نہ فخرہ مگر عالمی حَلَقُ اللَّهُ

يَعْقِلَهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ ﴿۳۳﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾
 اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ كَوَّرَ آسْمَانَ وَزَمِينَ بِيدِهِ اَكه صحیح مصلحتہ خیلرہ سمیک
 تمن اقرار چھو اِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بیشک اتھ منزہتھ حجہ دلیلہ بالایمان ہندہ خیلرہ
 تھندس معبود برحق تہ مستحق عبادت آسَس پیٹھ۔ اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
 الصَّلَاةَ اے پیغمبر چونکہ تجہ چھوہ پیغمبر برحق لہذا پرتو تہ سو کتاب یوسہ توہہ کن ویدہ پاٹھے
 سوزنہ آئیہ۔ بیہ تھا و نماز برپا۔ تھ بے لوکھ تہمز متابعت کمر تھ پابندی سان نماز برپا تھا ون یعنی قوی
 تبلیغ تہ کمر و قرآن مجید پرنہ سیت، فعلی تبلیغ تہ کمر و نماز پرنہ سیتے۔ دینچہ کامہ ہا یوکھ پانہ تمہ کامہ کمر تھ
 اِن الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز چھہ پتھ رٹان بیچھہ کامیوتہ ناجائز حرکتوں تھ۔ یعنی
 بزبان حال چھہ نماز و نان کہ نئس معبود برحقہ سُنَدُیُوتِ تعظیم تھہ چھگ کران، تسندہ خیلرہ چھہ تھہ
 یون نماز تہ کہہ زمینس پٹھ تھا وان بیچھہ کامہ کرنہ سیتے تسنز بے تعظیمی کرن چھہ سیٹھاہ نازیبا تہ ناروا تھہ
 پاٹھے یمہ رتھہ کامہ نماز و رائے چھہ تمہہ گیمہ یاد خدا کرن تمن پٹھ تہ گتھہ پابندی کرن وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
 بیہ چھہ خدایہ سند یاد سیٹھاہ یوڈ چیزاہ فضیلت و ول چیزاہ لہذا گتھہ تھہ پٹھ تہ پابندی کرن وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
 تَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ چھہ زانان تہ سوری یہ توہ کران چھوہ لہذا اٹھہ کوم کر یو تھوہ لیبو مزور،
 خیر کر یوتہ خیری، بیچھہ کر یوتہ پیچھے۔ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بیہ مہ آسواے
 مسلمانو بحث کران اہل کتابن سیتے، مگر رتہ طریقہ تھذیبہ سان۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر نہ

بِالَّذِي أَنْزَلَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُكْمَ وَالْهُدَىٰ وَوَعَدَهُمْ
 وَوَعْدُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ
 آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ
 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ
 مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أُرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۳۸﴾
 بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ

تمن سیتے ایم تمواندرہ ظلم سے زیادتی کرن۔ تمن ونوجواب یتھ شو یتھ سے یتھ۔ یتھ چھنہ کاہنہ خرچ
 وَقَوْلُوا آمَنَّا بِالَّذِي أَنْزَلَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُكْمَ وَالْهُدَىٰ وَوَعَدَهُمْ مُسْلِمُونَ گویا ہے
 کہ نے آسو تمن ونان کہ اسہ کھر پڑھ تھ کتابہ یوہ سے اسہ کن نازل آہ کر نہ یہ تھ کتابہ یوسہ توہہ کن
 نازل آہ کر نہ یہ چھوہ نے تہ یہ کتھ تسلیم کران کہ سون معبود تہ ٹھند معبود چھ گئے۔ وَوَعْدُ لَهُمْ
 مُسْلِمُونَ اس چھ ٹھندی فرمانبردار۔ تھند سی کھمس گردن دارن۔ کیا زہ ایمانک دارودار چھ تمہ
 کتابہ ہندہ خدا یہ سندہ طرفہ منزل آسلس پیٹھ۔ سانہ کتابہ ہند منزل من اللہ آن چھ ثابت ٹھنہ کتابہ
 سیتے تہ۔ لہذا ہزہ توہہ قرآن مجیدس ایمان ان تہ پڑھ کران وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تھ پاتھ
 کراسہ توہہ پیٹھ نازل یہ کتاب یارسول اللہ تھ پاتھ برو ٹھین بیٹھن پٹھ اسہ کتابہ نازل کرہ فَالَّذِينَ
 آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ پس یمن لو کن اسہ توہہ برو ٹھ کتاب عطا کر تم چھ اتھ تھنہ کتابہ
 ہزہ کران وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ سمومکہ کیولو کو اندرہ تہ چھ کیہنہ مُصَفِّ مَزَاجِ تھ کتابہ پڑھ
 کران وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ دلائل واضح سپنہ پتہ چھنہ انکار کران سائین آیاتن مگر ضدی
 کافر وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أُرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ٹھہ آسہ نہ یہ
 کتابہ برو ٹھ کاہنہ کتابہ ہر تھ ہیگان نہ آسہ ٹھہ سو کتاب لیٹھ ہیگان پنہ اتھ سیتے۔ ہر گاہ تہ آسہ ہاسیلہ
 وَرَشَّ اس ضرور شک تہ ٹھہ کر چھ گنجائش دشمن بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا

بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۳۹﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ
 إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۰﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ يَنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۴۲﴾

يَعْبُدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ بلکہ چھ یہ کتاب بذات خود باوجودیکہ یہ چھ غنی کتاب چونکہ امیک پریتھ
 حصہ چھ مجزہ تمہ اعتبارہ چھ یہ کتاب واریاہ واضح دلیلہ تم لوکن ہندین دن اندر، یمن علم عطا آو
 کرنہ، مگر باوجود ظہور اعجاز چھ یمن سائین آیات نہ دلیل انکار کران مگر ضدی لو کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ
 عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ بیہ چھ یم لو کہ باوجود اینکہ قرآن مجید چھ بوڈ مجزہ فرمان محض عنادہ کن کہ تمس
 پیغمبرس پیٹھ کونہ آئی نازل کرنہ تھمدس پروردگارہ سندھ طرفہ ثم مجزہ یمن ہمزاس فرمائش چھ
 کران قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ تہ فرماو کہ یار رسول اللہ مجزہ ہ چھ مگر خدا بس اتھ،
 تھمدسی اختیارس منز، بو چھس نہ مگرن پاٹھ خدایہ سدہ عذابہ نشہ نیم کرہ ون۔ یعنی بہ چھس پیغمبر، پتہ
 نس پیغمبر آسس پیٹھ چھ مہ نشہ واریاہ دلیلہ۔ بد دلیل چھ یہ قرآن مجید أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
 الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ کیاہ تھمدہ خاطرہ چھنا کافی یہ بوڈ مجزہ کہ اسہ کرنازل توہہ پیٹھ یہ بد کتاب یوسہ
 تمس پیٹھ پر نہ چھ یوان۔ امہ خوتہ تہہ بوڈ مجزہ ہ چھ تم ژھانڈان إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ پزپاٹ اتھ کتابہ منز چھ بدرحمت بیہ بوڈ وعظ باایمان لوکن ہندہ خاطرہ بدرحمت گیہ اتھ
 منز چھ احکامن ہمز تعلیم، تھ منز نفی نفع چھ بد نصیحت گیہ اتھ منز چھ وترغیب وترہیب یہ تھہ چھنہ
 بین مجزہ منز یمن پزہ ہایہ غنیمت زانتھ ایمان اُن تہ پڑھہ کرن۔ ہرگا وون توتہ یم ایمان اُن نہ قُلْ
 كَفَىٰ بِاللَّهِ يَنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا تہہ فرماو کہ تیلہ یار رسول اللہ آخری جواب۔ اوہ سامتہ مان تو میون اللہ
 تعالیٰ چھ بس گواہ۔ میہ منز تہ توبہ منز میانس پیغمبر آسس پیٹھ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سہ چھ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ
وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۶﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ
وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۵۷﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾
يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيَّاى فاعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾

زاناں تہ سُوروی یہ آسمان تہ زمین منز چھہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْغُرُورُونَ یم لو کہ
اپزن تمھن پیٹھ یقین چھہ کران معبودان باطلن چھہ پڑھ کران معبود برحقہ سزنا تمھن چھہ انکار کران
تے لو کہ چھہ تاوان زد وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ بیہ چھہ تم کافر لو کہ توہہ عذاب جلد واقع سپد تک
مطالبہ کران تہ عذاب نہ بینہ مو کہ تمھندس نبوتس پیٹھ شک تہ شبہ کران وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ
الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہر گاہ نے عذابہ خاطرہ وقت مقرر کرنہ آسہ ہا آمت یمن آسہ ہا
عذاب ڈیٹھ کنہ وومت سہ عذاب پیہ واتھہ تمھن ہنچہ تہ منجھہ تھے پاٹھ کہ تم ژینہ نے نہ تمیک یمن
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ یم چھہ توہہ نچہ عذاب جلدینک مطالبہ کران
حالانکہ عذابک گرہ نار جہنم چھہ تمھن کافرن پریتھ طرفہ احاطہ کر تھہ سہ رطہ تمھن گنہ گنہ ساتہ یوم
يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یمہ دوہہ عذاب تمھن ولہ
ہیرہ ہونہ کلو پیٹھ کنہ تہ کھوہ رڈونے گئے تہ فرماویجھہ اللہ تعالیٰ اے کافر ڈوڑ ہو تمھن پیٹھ کائین ہند مزہ
یمہ تھے دنیا س اندر کران اسوہ يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيَّاى فاعْبُدُونِ ای میانو
با ایمان بندو، بیلہ تم کافر لو کہ توہہ ہر دین حق اختیار کرنہ خیطرہ بیہ احکام شریعت بجائانہ خاطرہ ایذا چھہ
دوان۔ پڑے پاٹھے میون زمین چھہ کشادہ تہ کھول۔ ہر گاہیتہ روز تھہ تہ عبادت چھوہ نہ ہیکان کر تھہ
رشتہ دارن تہ دوستن تہ دوطح مفاقت دشوار سپدہ سؤ مفاقت چھہ اکہ نتہ اکہ دوہہ سپدہ وئے کیا زہ۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿۵۸﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۵۹﴾ وَكَأَيُّنَ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۰﴾ وَلَٰكِن

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ پر ہمتہ شخص چھہ کہ نتہ کہہ ڈوہہ مرہ ٹک مزہ ضرور ژہن تمہ ساتہ گزہہ بہر حال جدائی تَمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ تو پتہ چھوہ توہہ سارنہ اسی نغہہ واٹن نافرمان آستہ آسہ نغہہ واتس چھوہ سز اکیک خطرہ۔ ہر گاہ یہ ترک وطن ساتہ رضامندی خاطرہ کرو تہہ منز سپد یو تہہ سانس وعدس مُتَّقِنَ تہ سزوار۔ سہ وعدہ گو یو ہے کہہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ میولو کو ایمان اولن بیہ کر کیکہ رژہ عملہ رژو عملو اندرہ گو ترک وطن کرن گھر کہ شہرہ نشہ ہجرت کرن تمن دمواس جای جنتہ کین بالا خان اندر، میو تمل جو یہ پکان آسن تمنی جنتن اندر روزن تم ہمیشہ۔ کیاہ رژہ مزوریاہ چھہ یہ جنت کام کرہ وینن ہندہ خاطرہ۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ایم گئے تے سمو ڈنیا ہس اندر اکھ سٹھن پیٹھ، یکن منز ہجرتج سختی تہ محسوب چھہ، صبر کمر بیہ آس پنس پروردگارس پیٹھ اعتماد تہ توکل کران۔ ہر گاہ کانسہ وسوسہ سپدہ کہ ہجرت کر تھہ بین شہرن منز گزہ ہتھہ کیاہ کھم جو جمو، تم کرن نظر وارہ ہتھہ پیٹھ کہہ وَكَأَيُّنَ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ واریاہ جانور چھہ تم، یم نہ تکتھہ تھاوان چھہ ہن روزی گنہہ جایہ۔ اللہ تعالیٰ ای ہتھہ تمن مقدر رزق عطا کران۔ توہہ تہ چھہ سی مقدر رزق واتہ ناوان۔ ادہ بیتہ آسوتہہ تہ تہہ۔ لہذا نہ کرو تہہ امیک وسوسہ بلکہ کرو خدا ئس پیٹھ پور بھروسہ۔ سہ چھہ یقیناً بھروسہ کرنس سزوار کیاہہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سہ چھہ سُوروی یوزہ ون، سُوروی زانہ ون۔ تہہ پاتھہ چھہ سہہ سارنہ صفتن اندر سیٹھاہ کامل لہذا ئس کامل الصفات چھہ سہ چھہ بھروسہ کرنس قابل وَلَٰكِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ

سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۱۱﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾ وَلَئِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ
مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾


السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ بے ہر گاہ تمہے تمن کران پر تھو
آسمان تہ زمین کم چھہ کورمت پادہ، بے کم لوگ کامہ آفتاب تہ زون، ضرور دین تم اللہ تعالیٰ تمن تمن
اقرار کرت کت چھہ پت پھر ان ژلان تم، تس یوت عبادت کرنہ نشہ۔ یعنی توحیدنی التوین ماننہ کونہ
چھہ توحیدنی الاولیبت مانان۔ بتھہ پاٹھ خالق اللہ تعالیٰ، بتھہ پاٹھہ رازق تہ سئ۔ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ چنانچہ اللہ تعالیٰ ای چھہ رزق اندر وسعت
کران۔ تمن یرشہان چھہ تمن پنہ نیوبندواندرہ۔ بے چھہ سئ رزق اندر تنگی کران۔ تمن یرشہان چھہ
تمن۔ بے شک اللہ تعالیٰ سی چھہ پر بتھہ چیز ج پور خبر و لکن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ بے ہر گاہ تمہہ پر تھو تمن آسمانچہ طرفہ کم ترودرود، توپتہ
کورن زندہ تمہہ رورده سیتے زمین تمہہ کہ مرنہ پتہ یعنی سر سبز کوزن ہو کھنہ پتہ۔ ضرور دن امیگ جواب
تہ کہ اللہ تعالیٰ ان ترودرود، سؤی چھہ زمینس مردہ گزہتھہ بے زندہ کران یعنی خشک گزہنہ پتہ سر سبز
کران قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ تمہہ دلہ حمد معبود بر حقس۔ ایڑہ ہنہ تہ کور تموا اقرار مگر تم
لوکھہ چھہ مانان تہ تسلیم کران، بلکہ چھہ امہ خوتہ بیاکھ تھہ کہ تمواندرہ چھہ اکثر تمن نہ زائن تگان چھہ
کینہہ تہ نہ امہ موکھ کہ عقل کیا چھہ کھنہ بلکہ چھہ تم عقلہ کام ہیوان تم چھہ اتھہ منز غور کران کہ یمہ
یمہ کامہ بیلہ خدا ہی یوت کران چھہ، تس ورا ی شویا بے کانسہ ہنز عبادت کران۔ غورنہ کرنہ موکھ چھہ
تمن نشہ بدستی تہ ظاہر چیز خفی تہ پوشیدہ روزان۔ سہ غورنہ کرنک وجہ چھہ یم چھہ دنیا کین شغلن

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَا
اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ
يُشْرِكُونَ ﴿۳۸﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۗ فَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا وَتَّخَطَّفُ النَّاسُ
مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِئَةً مَبْطُلَةً يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۴۰﴾

اندر حالانکه و مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ بیه چھنہ یہ دنیا بچ زندگی لہو لعبہ و رائے کینہہ یہ
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ اصل زندگی گہ عالم آخرت بچ زندگی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہر گاہ بچ
خبر آسہا تمین تیلہ کرہ ہن نہ ناپا سیدار زندگی اختیار۔ مکنہ وقتہ چھہ تم توحید الوہب تک تہ اقرار کران۔ چنانچہ
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ انہزہ غیر مستقل مزاجی ہنز بیا کھ مثال چھہ، تم
ییلہ سمندر س منزل جہازن پیٹھ سوار سپد تھہ سفر کران چھہ تو پتہ چھہ ناو تہنز واوہ اولئس منز یوان، تمہہ
ساتہ چھہ تم خدایسی پیٹھ پورا اعتقاد تھات نجات منگان، مگر دنیا چن کاین اندر روز نہ سببہ چھہ حال
پوشان۔ چنانچہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ تمہہ پتہ یلیہ سہ نجات دت ٹھس کن و اتہ
ناوان چھہ، اتی چھہ یہ تس شریک ٹھہراوان لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تھہ کفران نعمت کرن تم تھہ
نفس یوسہ تمن آسہ عطا کر ولیتمتمتعوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بیه تھہ کینہہ کالاہ دنیا س اندر تمتع تلن۔
مگر بروٹھہ پھن سپدی چھہ پائے معلوم آسہ کفران نعمت انجام مین چھہ توحید قبول کرنہ نشہ اکھ مانع
دنیا س اندر بوڈن دیوم حیلہ چھہ یہ خیال کہ ہر گاہ اس توحید قبول کرو تیلہ مارن آسہ لو کھ بیٹھ
شہر س منزل نہ آسہ بسہ نے اُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا وَتَّخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ کیا تم لو کو بیعنے
مکہ کیو کافرو چھنا کہ آسہ ہوڈ ٹھند شہر حرمہ وول شہراہ، امن و اما نگ شہراہ تمن اندی کپے تم لو کھ چھہ
تم چھہ یوان رٹھہ نہ تہ مارنہ، تم چھہ آتھ شہر س منزل روز تھہ محفوظ اٹھ مہربانی کر تھہ أَفِئَةً مَبْطُلَةً

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ
لَمَّا جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۶۸﴾ وَالَّذِينَ
جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۹﴾

يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَ اللَّهُ يَكْفُرُونَ حق ته پوزيوت واضح آتھ چھایم آپزین معبودان پڑھ کران بیه چھ اللہ تعالیٰ سزنا نعمون بے قدری ته انکار کران معبود برحقس چھ شریک ٹھہراوان شریک بخدا ان گوخت گھران نعمت کرن۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ بیه کبہ اکھاہ چھ یڑھ ظالم ته نا انصاف کس شخصہ سدہ مؤتہ ایم آپز نو روو معبود برحقس پیٹھ بلا دلیل تس شریک ٹھہراونہ سیت یازان اہو پڑتھ یلہ سوتس نشہ واثر بادلیل الیٰس فی جہنم مٹوی لِّلکفرین کیاہ جہنم چھ نارونج جای تمنا کافرن ہندہ خاطرہ۔ واقعی چھ بوڈ سز ابدین مجر من ہندہ خاطرہ نار جہنم وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سمولوکو سانہ دینہ خاطرہ کوشش کر تکلیف برداشت کور تمنا ہاوا اس ضرور پنہ قریبہ و تہ تلج و تھ پڑ پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ سیت سیت نیوکا رن خلوصہ والین ہندن دنیاس اندرتہ آخر تس اندرتہ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 اللَّهُ ۱ غَلَبَتِ الرُّومُ ۲ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ
 عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۳ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۴ اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ
 قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۵ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ ۶
 يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۷ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۸
 وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

اللَّهُ ایم چھ حروف مقطعات۔ تمہیں ہند معنی زانیہ خدا غَلَبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ رومک
 نصاریٰ سپد آس قریب جلیہ پیٹھ مغلوب ہتس تم جنگ آس کران یوسہ جای فارسہ خوتہ ملک عربس
 چھ تلہ چھ تھ جلیہ چھ ناوا زعات تہ بصری ایم شامس منزہ شہر چھ حکومت رومس ماتحت آسنہ مؤہ کھ
 چھ رومہ کس زمینس سیت شامل۔ تھ جلیہ سپد اہل روم یعنی نصاریٰ فارسہ کین لوکن مقابلہ ہم آتش
 پرست آس مغلوب۔ ہمہ سیت عربک مٹرک خوش سپد۔ بیاہہ ہم آس نصاریٰ ان اہل کتاب آسنہ
 مؤکھ مسلمانہ نے سیت زاناں۔ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بَضْعِ سِنِينَ پنہ
 مغلوب سپد نہ پتہ سپدن تم رومی جلدے ضرور غالب اہل فارسن پیٹھ دو تمس مقابلس اندر کینہ اور مین
 تام۔ تریوور ہو پیٹھ لون تام لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ یہ مغلوب سپدن تہ غالب سپدن چھ
 خدایہ سندس اختیارس منز۔ مغلوب سپد نہ برو تھ تہ اوس اختیار خدایہ سے تہ خدایہ سی اٹھ چھ اختیار
 گوڈہ تہ تہ پتہ تہ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ * يَنْصُرِ اللَّهُ تَمَّه دوہہ سپدن خوش با ایمان اللہ تعالیٰ
 سندہ تمہ یاری تہ مددہ سیت يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ سہ چھ یاری کران کس یرشان چھ کس
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سہ چھ سیٹھاہ غالب سیٹھاہ رحم کرہ ون وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

يَعْلَمُونَ ۶ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ
 الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ۷ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۸
 إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ۹ أَوَلَمْ يَسِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۱۰

وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ بے پتھ خدا یہ سبہ وعدہ۔ اللہ تعالیٰ چھٹے بدل کر ان پتہ نس
 وعدس مگر اکثر لوکھ چھٹے تصرفات ایمن زانان۔ تم چھہ صرف ظاہری اسبابن کن و چھٹے قیاس آرائی
 کران يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ایم چھہ زانان صرف دنیاچہ
 زندگی ہند ظاہری حال مگر تم چھہ آخرتہ نظر بالکل بے خبر۔ تم چھٹے معلوم آخرتس منز کیاہ آسہ
 تہند حال۔ کیازہ تم چھٹے کاہنہ اندیشہ تم چھہ چیزن ہند سمو چیزو سیت تم ہتہ عذابس گرفتار سپدن۔
 مثلاً کفر شرک تہ نافرمانی خدا و رسول نہ چھہ تم فخر تم چیزن ہمز سمو سیت تم نجات بہ ہا۔ سہ گو
 ایمان تہ فرمانبر داری۔ تہنزہ نظر چھہ فقط دنیا س کن اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى کیاہ آخرتہ صحیح تہ حق آسچہ دلیلہ بوزتھ چھنا ایم
 لوکھ پانس سیت غور تہ فکر کران کہ اللہ تعالیٰ ان کوریہ زمین تہ آسمان یہ یہ سمن دون منز باگ چھہ
 پیدہ مگر کتہ حکمتہ سے پٹہ۔ بے اکہ معین مدتہ خاطرہ سہ مدت گڑھہ ختم پتہ آسہ قیامت یہ دودہ ہہ
 لوکھ خدا بس بروٹھ کن پیش بن کرنہ دَانَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ لیکن اکثر لوکھ
 چھہ قیاس پتہ نس پروردگار سیت ملاقات سپنس انکارے کران۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
 فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیاہ تم لوکھ چھناز مینس پٹہ اورہ یور پھیرے مت۔
 کیاہ تم چھنا گرو منز نبیر درامت۔ ہر گاہ تم اورہ یور پھیرہ ہن تیلہ و چھہ ہن تم کہ کیاہ چھہ سپد مت انجام
 قیامتہ کین تم مکرن ہندیم تم بروٹھ آس۔ کَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا

كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ
 مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ
 أَسَاءُوا وَالسُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠
 اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ
 تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ١٢ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
 مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا إِشْرَاكِيَهُمْ كُفْرِينَ ١٣

اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ تہنہز حالت آس کہ تم آس تہندہ خودتہ زیادہ قوتس تہ
 طاقتس اندر بیہ اوس تموزمین لوگت بیہ اوسکھ سہ بیول ووتھ کرہ جایہ لد تھہ بہندہ خودتہ زیادہ آباد
 کورمت۔ تمن رشہ تہ ووت پیغمبر تہند سانہ طرفہ سن مَجْرَات ہتھہ۔ مگر تمومون نہ کینہہ تہ توپتہ کھیو تمومو
 تمہ نافرمانی ہند سزا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تہ ہنہ ہانہ ہرگز کہ اللہ تعالیٰ
 کیاہ کرہ ہا تمن ظلم مگر تم اس کفر وشر کہ سیت پیغمبرن انکار کرنہ سیت پان پانس ظلم کران ثُمَّ كَانَ
 عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَالسُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ توپتہ سپد تمن چھ کامہ
 کرہ ونین تہ پیغمبرن انکار کرہ ونین ہند انجام تہ ہتھی کیاہہ تموزان اپز خدایہ سند آیات بیہ آس تم
 آیاتن ٹھنہ کران اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ تعالیٰ چھ مخلوقاتن گوڈہ تہ
 پیدہ کران۔ تمہ پتہ کرکھ سے بیہ دوبارہ پیدہ تمہ پتہ ایوتہہ تَسُنُّن واتانہ حساب و کتابہ خاطرہ
 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ بیہ تمہ دوہہ قیامت قائم سپدہ نامیدہ تہ حیران سپدن تمہ
 دوہہ کافر تہ نافرمان کانہہ تمہ ہیکن نہ تم کر تھہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ
 وَكَانُوا إِشْرَاكِيَهُمْ كُفْرِينَ آسنہ بیہ تمن پنہ نیو شریکو اندرہ تمن تم عبادتس اندر خدائس

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُنَا نَقْرَتُونَ ﴿۱۳﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۵﴾
 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
 فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ ﴿۱۶﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ
 تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۷﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۸﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

شریک ٹھہراوان آس کا نہ تہ شفاعت کر تھہ مولا وناہ۔ تم سپدن تمہ وقتہ پانہ پنہ نین شریک (یعنی
 سمن تم شریک خدا زمانان آس) مکر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُنَا نَقْرَتُونَ بیہ سہمہ دوہہ قیامت
 قائم سپدہ تمہ دوہہ سپدن لوکھ الگ الگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ
 يُحْبَرُونَ سمولوکو ایمان اون بیہ کر یکھ رتھہ عملہ تم آسن جنہہ کس باغس منز سینہاہ خوش فرحت و سرورس
 اندر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ بیہ
 سمو خدا اہس یا خدا لیہ سدس گن آس اس انکار کور بیہ زانجھہ ایز سان آیات بیہ آخرتس اندر اسہ سیت
 ملاقات کرہ کس کس یکن تم عذابس گرفتار کرنہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
 لیہ تہہ ایمان و عمل صالحک فضیلت معلوم سپدہ کس کرو تہہ بہ پاکی یاد خدا ایمہ ساتہ توہ شام کران چھوہ
 بیہ سہمہ ساتہ توہ صبح کران چھوہ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا زہ کس شو بن ساری
 تعریف یم کرنہ یوان چھہ آسمان تہ زمین اندر وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ بیہ کرو تہہ تہندوی یاد
 دیکس پتمس حصس اندر۔ بیہ یمہ ساتہ توہ پیشہ کس و قس منز داخل چھوہ سپدان۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ سہ معبود بر حق چھہ جان دارس کڈان بے جانس نشہ مثلاً لطفہ

مَوْتَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۱۹﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ
 تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿۲۰﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ
 لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾
 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ
 وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿۲۲﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ
 مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي

نشہ انسانس، ٹھولہ منڑہ جانورس۔ بیہ ہجھ بے جانس کڈان جاندارس نشہ۔ مثلاً لطفس انسانس نشہ
 ٹھولس جانورس نشہ۔ وَيُنْعِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ بیہ چھو سوسی زمینس زندہ
 تہ سبز و شاداب کران تمکھ مرنہ پتہ یعنی خشک گڑھنہ پتہ۔ تھے پاٹھ بیو تھہ تہ قیامتک دوہ قبر و منڑہ بیہ
 کڈنہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ معبود برحقہ سندیو قدرتہ کیو
 نشانو اندر چھہ کہ تھہ کرنوہ پیدہ میڑہ تو پتہ چھوہ تھہ انسان بتھہ زمینس پیٹھ چھہ کرنہ تھہ پھیران۔
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ بیہ
 چھہ تھدی قدرتہ کیو نشانو اندرہ ای زہ پیدہ کرین تھندہ خیطرہ تو ہی منڑہ تھنہ زنانہ تھہ تھہ قرار تلو
 تمبن نشہ۔ بیہ تروون توہہ دون باژن منڑجت، شفقت تہ ہمدردی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ۔ پڑپاٹ اتھ منڑ چھہ بڈبڈ نشانہ غورو فخر کرہ وین ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ تھدی قدرتہ کیو نشانو اندرہ چھہ آسمان و
 زمینک پیدہ کرن۔ بیہ تھنہ زویہ یعنی لغت تہ تھدین بدن ہڈ رنگ مختلف آسن۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِلْعَالِمِينَ۔ پڑپاٹ اتھ منڑ چھہ بڈبڈ نشانہ زان و لین تہ عالمن ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ

ذٰلِكَ لَايَتْلِقُوْمُ يَسْمَعُوْنَ ﴿۲۷﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ
 خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِي بِهٖ الْاَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾
 وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ
 دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿۲۹﴾ وَاِنَّ مِنْ فِى
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قَنِيْنُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَهُوَ الَّذِى يَبْدُوْا

بِالْاَيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤِكُمْ مِنْ فَضْلِهٖ
 زياده۔ بيه دہلہ تہ جہند ژہانڈن جہند فضل یعنی رزک تلاش کرن اِنَ فِيْ ذٰلِكَ لَايٰتٍ لِّقَوْمٍ
 يَسْمَعُوْنَ پزپاٹ اتھ منز جہرہ بڈ نشانہ توجہ سان یوزن والین ہندہ خیطرہ وَمِنْ اٰيٰتِهِ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ
 خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِي بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بيه جہند ہندہ قدرتہ کیونشانو
 اندرہ کہ سہ جہند توبہ نیم کرنہ خاطرہ بيه امید نہ خاطرہ وزملہ ہاوان بيه آسمانہ طرفہ رود تراوتھ
 موقس یعنی خشک گاقس زمینس زندہ سرسبز وشاداب کران اِنَ فِيْ ذٰلِكَ لَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ
 پزپاٹ اتھ منز تہ جہند قدرتک بڈ نشانہ عقلہ کام ہینہ والین ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ
 وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ بيه جہند یوقدرتہ کیونشانو اندرہ کہ آسمان تہ زمین جہند قائم جہندی حکمہ تہ ارادہ
 سیت توبہ جھوہ اکس خاص مقرر کرنہ آقس وقس تان زندگی بسر کرت زمینس اندر دفن کرنہ یوان۔
 ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ توپتہ یلہ سہ قیامتک دوہ توبہ اکہ خاص قسمک آلو
 دیہ اتی نیر وٹہہ ساری قبر و منزہ وکہ مَن فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قَنِيْنُوْنَ یم آسمانس تہ
 زمینس منز مخلوق جہہ تم ساری جہہ جہندی مملوک۔ ساری جہہ جہندی حکمس تابع تہ فرمانبردار۔ امہ
 اندرہ سپد ثابت کہ۔ وَهُوَ الَّذِى يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗا وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَیْہِ سہ پروردگار گوسوی یم
 مخلوقات گوڈہ پیدہ کر توپتہ کر یکہ سہ بيه دوبارہ پیدہ قیامتک دوہ۔ خمس نش جہند دوبارہ بيه پیدہ کرن زیادہ

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾ ضَرَبَ لَكُمْ
 مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَتِكُمْ فَأَن تَمُرَّ بِهِ سِوَاءُ تَخَافُوهُمْ
 كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾
 بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي

آسان قدرتِ بشریہ کہ اعتبارہ۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تِس جہہ تہ صفت تہ
 تھو دشان تِس برابر تہ تِس ہیو جہنہ کاہنہ تہ آسمان تہ زمین اندر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سُب جہہ غلبہ
 وول قادر مطلق جمعہ وول ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ اللہ تعالیٰ اَن کور بیان توبہ شرک
 مذموم تہ باطل آسُن فخرہ تارنہ خاطرہ تہنزی اہ مثالاکہ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَتِكُمْ فَأَن تَمُرَّ بِهِ سِوَاءُ تَخَافُوهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ سُو مثال گیبے کہ وارہ
 کرد تہ غور کہ کیاہ تہہ چھوہ برابر مالک تہہ قسمہ شریک تہہ مالس اندر تِس اسی توبہ عطا کور مت چھہ۔
 تہہ تہ تہند غلام آسہ ہن تہہ مالس اندر برابر مالک۔ تہہ آسہ ہیو کھو ژان تمن غلامن تہہ مالس منز
 تصرف کرنس اندر۔ تہہ پاٹھ تہہ پانہ وان اکہ شریک بیس شریکس نشہ کھو ژان چھوہ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تہہ پاٹھ چھہ آس ویشہ ناو تہہ بیان کران پن آیات تمن لوکن ہندہ خاطرہ
 تمن عقل چھہ یعنی تہہ یلہ نہ پنہ حقہ غلامن مملوگن ہند شریک آسُن برداشت کران چھوہ خدایہ سند
 مملوک کیا زہ چھوہ ک تہند شریک زانان یہ چھہ بوڈ ظلم بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 بلکہ کرسمو ظالمو تہہ صحیح دلیلہ ورا ی پنہ نین خیالات فامیدن تہ نفسانی خواہش ہنز پیروی فَمَنْ
 يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ تسمس اللہ تعالیٰ اپزس اصرار کرنہ سببہ و تہہ راورہ تِس تہہ اکھاہ بیحہ و تہہ تہ
 ہدایت کر تہہ وَمَا لَهُم مِّنْ مُّصْرِفِينَ تمن گمر ہن یلہ عذاب بیہ کرنہ تمہ ساتہ بیحہ نہ کاہنہ تمن تہہ قسمہ

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ ﴿۲۹﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ
 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا
 تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۱﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا
 دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۳۲﴾

ہدایت سے مدد کرتے تھے۔ لہذا چھ پریتھ اکس بوزہ ونس یوان ونہ فاقم وجہک للدين حنیفاً ثہ پد
 پریتھ باطل دینہ نفعہ الگ۔ تو پتہ کر ثہ پن رخ دین حقس فن فطرت اللہ الٹی فطر الناس علیہا
 ثہ کرتابت سے بیروی تھے قالمیتس یٹھ قالمیتس پیٹھ اللہ تعالیٰ ان ساری انسان پیدا کرتے چھ۔
 مطلب امیک چٹھ کہ اللہ تعالیٰ ان چٹھ پریتھ شخصہ پیدا کورمت پریتھ اکس چٹھ استعداد عطا کورمت
 کہ ہر گاہہ پرتھ بوزن پریتھ، فکرہ ترن پریتھ، سہ بیٹھ بوزت نس بیٹھ فخرہ تر تھ۔ تھ متابعت کرن گہ
 کہ تھ استعدادس سے قالمیتس ہیہ کام سہ چٹھ منگان چٹھ تمہ موجب کرہ عمل لا تبدیل لخلق اللہ
 خدایہ سندس اتھ پیدا کرتس چیزس، تھ پیٹھ تم ساری انسان پادہ کرتس چھ گڈھ نہ تغیر و تبدیل
 کرن ذلک الدین القیم ہیہ چٹھ دینچ حکم و تھ ولکن اکثر الناس لا یعلمون مگر اکثر لوک چھنہ
 بوجہ عدم تدبیر زانان تمہ موکھ چھنہ تمیک اتباع کران منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلوة
 ولا تکونوا من المشرکین ای لوکو ٹہہ کر و رجوع نس خدایس کن بیہ کھوژو نس۔ تھندس
 مخالفتس سے مخالفتہ کس عذابس بیہ کر و دین اسلام قبول تو پتہ تھا و برپا نماز پابندی سان بیہ مہ آسبو
 مشر کواندرہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً کل حیزب بما لادیہم فرحون بیہ مہ آسبو تمو
 مشر کواندرہ سمو چھلہ کرہ و دینس پنہ نس سے گچھ واریاہ جماژاک رٹ اکھ وت ایزہ سے باطل و تہ چٹھ واریاہ
 سموترا و پوزو تھ ایزہ سے باطل و تہ ترا ویکھ ای گو پنہ نس و دینس چھلہ کرنہ اک رٹ اکھ و تھ، بے رٹ

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا
 آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾ لِيَكْفُرُوا
 بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَسْتَعِزُّوا بِمَدِينَةٍ فَوَدِدْنَا فِتْنَتَهُمْ لِنُبَيِّنَنَّ لَهُمْ
 فَمَا أَتَيْنَاهُمْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا
 فَهَؤُوتِكُمْ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿۳۴﴾ وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا
 بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿۳۵﴾

بیاکھ و تھ امی سیت گیہ واریاہ جماژ۔ اگر پڑھ و تہ پیٹھ روزہ ہن تیلہ آسہاٹی جماعت۔ باوجود آنکہ یمہ
 سارے و تہ چھ باطل تہ ازہ توتہ چھ جہل و نادانی کن تمواندرہ پریتھ اکھاہ پندہ پندہ و تہ پیٹھ تہ رنگان۔
 خیال کران کہ بہ چھس صحیح و تہ پیٹھ حالانکہ یہ ام سہ خیال چھ بالکل غلط۔ سیز و تھ چھ توحیدج
 و تھ۔ تھ و تہ کن آس تمن نادووان چھ عام طور چھ تمن لوگ ہندہ حال و قالہ سیت ثابت سپدان کہ
 یوہے چھ دین حق۔ کیا زہ اضطرار کہ وقتہ چھ تم تہ اتھ و نیس تسلیم کران۔ یمہ اندرہ ثابت چھ
 سپدان کہ واقعی چھ یوہے دین فطرت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھ فرماوان **وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ**
دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ بیلہ لوگ کانہہ سخنیاہ
 واتان چھ تمہ ساتہ چھہ بیقرار سپد تھ آلودوان پنہ نئے حقیقی پروردگار س تہ کن رجوع کر تھ توپتہ
 یلہ سہ تمن پندہ رحمتک مزہ چھ ہاوان سو سختی دور کرنہ سیت آئی چھہ تمواندرہ اکھ جماعت پنہ نس
 پروردگار س بیہ شرک اتان **لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ** تھ کفران نعمت کرن تھ نفس یوسہ اسہ تمن عطا
 کرے یہ **فَتَسْتَعِزُّوا** پس تل تموتعنا کینہہ کالاہ **فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ** بروہنہ ہن زانوپائے امیک مزہ ام
أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهَؤُوتِكُمْ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ کنہ اسہ چھ تمن پیٹھ کانہہ دلپلاہ کانہہ کتابہ نازل
 کر مرث۔ سوی کیاہ چھ تمن دپان شرکچہ تھ تہ کامہ کرو **وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا** یلہ اس لوکن پندہ
 مہربانی و رحمتک مزہ چھ ہاوان تمہ سیت چھ تم خوش گدھان۔ تمہ سببہ چھ غفلتس منز بوڈ تھ شرکچہ
 کامہ کران **وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ** توپتہ ہر گاہ تمن واتان چھ کانہہ سخنیاہ تمن بیچہ

اَوْ لَمْ يَرَوْا اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ
 ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۷﴾ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَاِىَّ
 الْمَسْكِيْنَ وَاَبْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ
 اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَمَا تَتَّبِعُوْنَ مِنْ رِّبَا لِيَرْبُوْا
 فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا تَتَّبِعُوْنَ مِنْ زَكَوٰةٍ

کا میں ہندہ شامتہ سمہ جہندہ اتھ آمزہ چھ آسان اِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ) کی جہم تم نامید سپدان اَوْ لَمْ
 يَرَوْا اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ کیا تم چھناؤ چھان کہ بزپاک اللہ تعالیٰ ای جھہ رزق
 اندر وسعت کران نِس یژھان چھ۔ بیہ جھہ سُ تنگی کران رزق اندر نِس یژھان جھہ تس اِنّٰی
 ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ بے شک اتھ منزتہ چھ بڈبڈ نشانہ خدایہ سندہ قدر تکب تہ کن آسک
 بالیمان ہندہ خاطرہ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَاِىَّ الْمَسْكِيْنَ وَاَبْنَ السَّبِيْلِ پس یلہ توحید چود لیلوسیت
 معلوم سپد کہ رزق تنگی تہ وسعت جھہ خدایہ سی اتھ امہ سیت سپز بیاک تھ ثابت کہ مغل کرن جھہ
 سیٹھاہ بچھ کیا زہ امہ سیت مقدرس اندر زیادتی بیحہ نہ سپدت لہذا چھ مغل کرن بے فائدہ اے مسلمانو
 تہہ مہ آسو بجل کران بلکہ آسو قرابتہ والین واتاوان تہند حق بیہ مسکین بیہ مسافرن ذٰلِكَ
 خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ای جھہ بہتر تمین لوکن ہندہ خیطرہ یم
 ژھانڈان چھ رضای خدایہ چھ تھے لوکہ رستگار تہ کامیاب۔ وَمَا تَتَّبِعُوْنَ مِنْ رِّبَا لِيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ
 النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ بیہ نِس چیز تہہ دنیا خاطرہ تہ خرچ کران چھوہ یمہ غرضہ کہ سہ چیز واتہ
 لوکن ہندس ماکس اندر تو پتہ سمہ ساتہ تمین سہ چیز واپس کرنگ وقت واتہ تمہ ساتہ واتہ آسہ نفعہ سہ چیز
 رت تہ زیادہ سپدت تھ پاٹھ دُنوی رُسُوْمَن اندر عام طور کرنہ جھہ یوان اتھ ہینہ دُس جھنہ اللہ اس
 نفعہ کا نہہ زیادتی سپدان کیا زہ خدایس نشہ جھہ نہ سہ مال واتان نہ جھہ سہ زیادہ سپدان۔ لُسہ تہندہ رضا
 خاطرہ آسہ ونہ آمت۔ چونکہ اتھ ہینہ دُس منز جھنہ خدایہ سندہ رضای کا نہہ نیت آسان لہذا چھ نہ یہ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۳۹﴾ اللَّهُ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ
 شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ ﴿۴۰﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
 النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَمْ يَعْلَمُوا بِرِجْعُونِ ﴿۴۱﴾
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

تہمزہ در گاہ اندر قبول سپدان نہ چھ آتھ منز کینہہ زیادتی سپدان وَمَا تَلْبِثُكُمْ مِنْ ذِكْوَةِ فُرِيدُونَ
 وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ مگر نیس رقم تہمہ دو ان چھوہ خدایہ سبہ خاطرہ زکوٰۃ ہش ہتھ منز
 ژھانڈان چھوہ تہمہ خدایہ سندی رضائہ قسمک لوکھ چھہ خدایس ریشہ جمع کر تھ ہن دیشمت مال ہرہ
 راوان زیادہ کران اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ معبود بر حق چھہ سہ
 ذات پاک ایم تہمہ پیدہ کردہ تو پتہ کورنوہ رزق عطا تو پتہ چھوہ سے ماران تو پتہ کردہ سے بیہ زندہ قیامتک
 دوہ سہ چھہ امہ قسمک قدرتہ دول هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ توہ ونو تکیاہ
 تہمہ یو شرکیو اندر تہ چھا کانہہ ہتھ نیس سمو کامیو اندرہ کانہہ کاما چھہ کر تھ ہیکان سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ پس سپ ثابت کہ سہ چھہ منزہ تہ پاک بیہ بلند تر برتر۔ تمہ ساری شر کہ ریشہ نیس شرک تم
 لوکھ تس کن لاگان چھہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا أَلَمْ يَعْلَمُوا بِرِجْعُونِ شرک ونا فرمانی ہندا اثر چھہ تیتھ خراب کہ ظاہر سہز تہاہی قسطہ وابع بیہ
 طوفان خشکی اندر تہ تری اندر تہ یعنی ساری دنیا اس اندر لوگن ہنز و بیچہ عملوسیت ہتھ اللہ تعالیٰ تم
 مزہ ژہناوہ تہمز ان بھتھہ کامین ہندیہ تمو کرہ ذلہہ تم پائس پین۔ تمو بیچہ کامیو ریشہ رُوزن پتھ۔
 ہر گاہ سمن مخر کن اتھ اندر کانہہ شک چھہ۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
 الْقَبِيحِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
 يُصَدِّعُونَ ﴿۳۳﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلَا نَفْسُ لَهُمْ يَمْهَدُونَ ﴿۳۴﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ
 أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مَبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ

مِنْ قَبْلُ جُہہ فرماؤ یو کہ یا رسول اللہ ای لو کو جُہہ پھیر تو سارے زمینس منز تو پتہ و چھتو کیاہ چھو
 سہد مت انجام تہن مشرک لوگن ہند تم تو بہہ بروئٹھ آس۔ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ تمواندرہ آس اکثر
 مشرک۔ جُہہ و چھتو کہ تم تھہ پاٹھے آے گالہ عذاب آسانی سیتِ یمہ سیتِ صاف چھہ دنان کہ شرک
 چھہ بوڈ گناہ۔ یمیلہ شرکک پچھہ آس ظاہر سہد پس ای مخاطبِ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَبِيحِ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ پس تھواروہ پئن تھہ سیود محکم دینس اسلامس
 تہ توحیدس گن تھہ پیٹھہ کر استقامت سہ دوہ ینہ بروئٹھ۔ تھنہ خدا یہ سہدہ طرفہ ہتھہ بروئٹھ ڈلن چھہ
 بلکہ چھہ قطعاً تہ یقیناً سہ دوہ اوہون تہ دوہہ سہدن لوگن عملن ہندہ اعتبارہ زہ حصہ اکھ واتہ جنتس بیاکھ واتہ
 جہنمِس۔ تھہ پاٹھہ کہ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسُ لَهُمْ يَمْهَدُونَ تہس شخص
 کفر چہ کامہ کران آسہ تس چھہ تمّن کا میں ہند سزا کھیون بیہ یم لو کہ رتھہ عملہ کران آس تم چھہ
 پنہن پان ہنزہ کامیابی ہند سزتہ سامان تیار کران لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ
 فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تہہ اللہ تعالیٰ پنہ فضلہ سیتِ رتھ مزور عطا کرہ تمّن لو کن سموا ایمان اوان
 بیہ کر چھہ رتھہ عملہ کافر سہدن تمّن نعرہ محروم کیا زہ اللہ تعالیٰ ہتھنہ پسند کران کافر ن و مِنْ آيَاتِهِ أَنْ
 يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ بیہ چھہ پروردگارہ سہد یوقدرتہ کیونشاؤ اندرہ کہ سہ چھہ واوان سوزان رُود پنہ بروئٹھ
 رودچ خوشخبری ہتھہ بیہ تھتو تہہ ہاوہ سوزہ پنہ رحمتک یعنی باران رحمتک مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ

الْفُلْكِ بِأَمْرِهِ وَلِتُبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ وَ
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَاذْتَمَنَّا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا
 عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ
 فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ
 كِسْفًا فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ

تَحْتَهُ وَالتَّجْرَى الْفُلْكِ بِأَمْرِهِ ۖ بیه ہتھ تمہ واوہ سیت پگن تہمہرہ لحمہ سیت دریاؤن اندر مجہ سجہ ناوہ تہ
 جہازہ وَ لِتُبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۖ بیه ہتھ تہمہ جہازن تہ ناؤن اندر سیر کر تھ ژھانڈو تہ تلاش کرو تہمہ فضل
 یعنی روزی وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۖ بیه تہمہ شکر گذاری کرو تہمہز۔ یمہ نعمہ آستہ تہ چھہ مشرک ناسپاسی
 کران۔ شرک آنہ سیت، احکامن ہنز مخالفت کرنہ سیت پیغمبرن تہ با ایمان ایذاؤنہ سیت مگر
 تہمہ مہ سپدواہمہ خاطرہ آزرده تہ نمگین کیا زہ اس ہیمو تمن نشہ عنقریب امیک انتقام ہتھ پاٹھ بروٹھ تہ
 ہتھ واقعہ سپدست چھہ چنانچہ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
 فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ بے شک یلہ سوزاسہ تہوہ بروٹھ یار سول اللہ واریاہ پیغمبر پنہ نین
 قومن گن توپتہ آی تم پیغمبر تمن نشہ نن مہجرات تہ نہ نہ دلیلہ ہتھ مگر تموزان تم اپن۔ پس ہیوت اسہ
 تمن لوکن نشہ سمونا فرمانی کر انتقام وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ کیا زہ اسہ پیٹھ اوس مطہ
 با ایمان یاری کرن پنہ وعدہ موجب اللہ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ
 كَيْفَ يَشَاءُ ۖ معبود بر حق چھہ ہتھ قدر تہ وول تہ حکمت وول بس و او سوزان ہتھ۔ سہ واو ہتھ ابرس ٹلان تو
 پتہ ہتھس آسمان کھارت موزہ رواون ہتھ پاٹھ سہ یژھان ہتھ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
 مِنْ خِلَالِهِ ۚ توپتہ ہتھس تھوان تہمہ بہ تہمہ توپتہ ہتھک ژہ وچھان رود چھہ نیران تہمہ ابرہ منزہ
 فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادَةٍ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ توپتہ یلہ سہ رود و اتاؤن ہتھ پنہ نیو

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ
 كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿۳۹﴾
 فَانظُرْ إِلَى الثَّرِاحِ إِنَّ اللَّهَ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
 إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۰﴾ وَلَئِنْ
 أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُمَاتِ مِنْ بَعْدِهِ يُكْفَرُونَ ﴿۴۱﴾ فَإِنَّكَ
 لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ السَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿۴۲﴾

ہندواندرہ تمن، تمن نشہ و اتناون یرھان چھہ آئی چھہ تم خوش گڑھان تہ شادیانہ کران۔ و ان
 کائوا من قبل ان یُنزل علیہم من قبلہ لمبلسین حالانکہ تم آس یقیناً آمہ رود کہ بینہ بروئھہ بالکل
 نامید تہ مایوس سپدست فَانظُرْ إِلَى الثَّرِاحِ إِنَّ اللَّهَ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي
 الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پس وچھہ ژہ خدایہ سندہ رحمتک آثار تہ نتیجہ کھہ پائھہ چھہ پنہہ رحمتہ
 سیت موتس یعنی خشک گاتس زمینس زندہ کران یعنی تروتازہ۔ بے شک یہ کھہ چھہ نعمت تہ دلیل
 وحدت آسکھ علاوہ دلیل یمہ کھہ ہنز کہ اللہ تعالیٰ چھہ قدرت و ول لوکن ہندہ مر نہ پتہ تمن بیہ زندہ
 کر نس پیٹھ۔ امہ سیت سپد ثابت کہ یو ہے خد اچھہ یقیناً زندہ کران سار نے مُردن بیہ چھہ سی پر کھہ
 چیزس پیٹھ قدرت و ول وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُمَاتِ مِنْ بَعْدِهِ يُكْفَرُونَ تو پتہ ہر گاہ سوزواس
 ٹھندس زرائعس پیٹھ مضرب ہوا یمہ سیت تم و چھمن تھہ زرائعس زرد سپدت خشک گڑھان یک دم بدلہ ٹھند
 حال تمہہ پتے ہین تم ٹھہر ان نعمت کران۔ یمہ نمو سانہ روز کھہ نہ یادے۔ امہ سیت سپد معلوم کہ تم چھہ
 بحس ٹھندہ خاطرہ غم کھیون چھہ بے کار فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ السَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ
 ٹھہ نہ حض بیکیو کھہ نہ بوزہ ناو تھہ مُردہ بیہ نہ حض بیکیو کھہ بوزہ ناو تھہ ز رہن آلو۔ خصوصاً یلہ تم تو بہ کُن
 تھہ پھر تھہ تو بہ نشہ دُور تر لان آسن وَمَا نَسُفُكُ بِهَذَا الْعَمِيِّ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ بیہ نہ حض بیکیو نہ ٹھہ و تھہ
 ہا تھہ انین یلہ تمن و تھہ راومز آسہ إِنَّ تَسْمِعُ الْأَمَّنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٹھہ بیکیو کھہ نہ

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمِيَّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْبِعُ إِلَّا مِنْ يُومٍ مِنْ
 بِأَيَّتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵۴﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ
 ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
 ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۵﴾
 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِئْنَا غَيْرَ سَاعَةٍ
 كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿۵۵﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَ
 الْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فِهَذَا


بوزہ تا وہ تھ مگر ایم پڑھ کر ان چھ سائین آیات۔ تم چھ سائین حکم گردن دارہ دن بیلہ ایم لو کہ مشابہ
 چھ مژدن تہ زرین کس مہ تھا و وہ تہ توقع تہ برانہ ایمانج تمن نشہ نہ مہ کھیو تہ ہدہ ایمان نہ انہ نگ کانہہ
 غم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا
 وشیبۃ معبود برحق چھ سی ذات پاک ایم تہ پیدہ کرنوہ کمزوری ہندس حالتس منز سوگیہ انسانہ سزہ ابتدائی
 حالتھ لو کہ چارج حالتھ تو پیدہ کرنوہ تمہ کمزوری پیدہ قوت تہ طاقت عطا یعنی جوانی تمہ قوت پیدہ کرنوہ بیہ کمزوری تہ
 بجز عطا یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر سہ یہ یشہان چھ تہ چھ پیدہ کران۔ پر تہ تھ تصرفس چھ
 سہ پور زنان۔ تہ تصرنفہ کس جاری تہ نافذ کرنس پیٹھ چھ پور قدرت تھاوان۔ سہ چھ سورے زانہ
 ون پور قدرتہ دول و یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبئنا غیر ساعۃ کذالک کانوا یؤفکون
 تمہ دوہہ قیامت قائم سپدہ کافر تہ نافرمان لو کہ ہاون تمہ ذہک ہولناک حالات و چھ تہ قسم کہ قیامت
 آیہ سیٹھاہ جلد۔ اس رودنہ قبرن اندر یعنی عالم برزخ اندر مگر اکس گرہ تہ اکس ساتس۔ تہ تھ پٹھ اس
 نا تم دنیاہس منز تہ ولہ پکان یعنی دنیاہس منز تہ آس تم لو کہ غلط خیالات دن منز جماوتھ پھر تھ تھ
 کران وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبئتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث تمن جبر من

يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۷﴾ وَلَقَدْ
 ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتُمُ
 بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ ﴿۵۸﴾

ون تم لو کہ یمن علم بہ ایمان عطا کرنے آسے یعنی باایمان یمن شریعتہ کین چیزن ہند پتہ وھم
 اے کافر و تھہ ٹھہرے وہ قبرن اندر خدایہ سندہ لیکھتہ بہ مقرر کرمتہ وقتہ موجب برابر قیامتہ کس
 دوس تان فَهَذَا يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کیا پھہ ازوارہ کارہ قیامتگ دہہ مگر تھہ کہتہ
 آسہہ بیمہ ذہک یقین تھادان بلکہ آسہہ تکذیب بہ انکار کران تہی انکارہ کہ شامتہ وھمہ از پریشان
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس دیدہ نہ تمہ دہہہ کا نہہ نفع بہ فائدہ
 تمن لوکن یموشر کہ بہ گھرہ سیت پانس ظلم کور عذر کرن نہ بیہ تمن نشہ عذر پیش کرنگ بہ توبہ کرنگ
 یا خدا یس راضی کرہ نگ مطالبہ کرنہ کیا بہہ تمیک وقت آسہ گذریومت۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي
 هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بیہ کرہ آسہ بیان ہتھ قرآن مجیدس منز لوکن فکرہ تارنہ خاطرہ بیہ تمن
 ہدایت بنہ خاطرہ پر ہتھ قسچہ مثالہ بہ پر ہتھ قسمنک مضامین ہم پندہ کمال بلاغتہ سبہ مقتضی آس کہ یمن
 کافرن بہ ہدایت مگر نہایت بغض و عنادہ سبہ گورنہ تموسہ قبول۔ تمی سپندہ تمن کا نہہ فائدہ حاصل۔
 وَلَئِنْ جِئْتُمُ بِآيَةٍ تویپتہ ہر گاہ تھہ یار رسول اللہ تمن نشہ انو تمو معجز و اندرہ کا نہہ مَجْرَاحِ یمن ہنز تم
 فرمائش چھہ کران لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ توتہ و ن ضرور کافر کہ تھہ ساری

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ قَاصِدٌ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾

چھوہ ایزیار کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون تھے پاٹھ چھ اللہ تعالیٰ نادان ہندین دلن پیٹھ مہر کران یعنی روز بروز ہٹھ تہندہ قبول کرنک استعدا دست نہ ضعیف سپدان بغض و عناد ک قوت قوی سپدان قاصد ان وعد اللہ حق ولا یستخفک الذین لا یوقنون پس کروٹہ یار رسول اللہ تہندس تکلیف نہ ایذاء س پیٹھ صبر بز پاٹھ اللہ تعالیٰ ان یس یاری ہند وعدہ توہہ سیت کورمت ہٹھ سو ہٹھ حق نہ پوزیم مکرین قیامت مہ سپدان باعث توہہ بے صبری کرنس پیٹھ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُ ۱ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۲ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۳
 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
 يُوقِنُونَ ۴ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۵
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۶
 وَإِذَا تَلَّىٰ عَلَيْهِ الْإِنشَاءَ وَلِيَ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ

اللہ بسم چھ حروفِ مقطعات۔ سمن ہند معنی زانہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ہم آیات چھ
 محکم تہ مضبوط کتابہ ہند هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ یوسہ کتاب بذہدایت تہ بذرحمت چھہ نیوکاران
 ہندہ خاطرہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تم نیوکار گئے تھے
 ہم نماز قائم تھاوان چھہ بہ ہم زکوٰۃ ادا کران چھہ۔ بہ ہم آخر تک پور یقین تھاوان چھہ۔ اُولَئِكَ عَلَىٰ
 هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تھے چھہ پنہ نس پروردگارہ سزہ سبزہ و تہ پیٹھ۔ بہ چھہ تھے
 کامیاب تہ رستگار وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بہ چھہ
 لو کو اندرہ بعضی لو کہ تمہ قسمک ہم عملی چھہ ہیوان قرآن مجیدہ نشہ اعراض کر تھہ واہیات تہ فضول
 قصہ تھہ لو کن تم ڈالن فضول تھہ ون ون خدا یہ سزہ و تہ نشہ نادانی سیت وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا بہ زانہ تھہ
 اکھ ٹھٹھاہ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ سے لو کہ گئے تم یہ ہندہ خاطرہ خوار کرہ ون عذاب چھہ۔

فِي أذْنِيهِ وَقُرْآنٍ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ لَمْ يَكُنِ لَهَا سَمَةٌ وَلَا عَصْفٌ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا الْعَذَابُ ۝ فِيهَا كُرْسِيُّ مَدَائِنَ مُبِينَةٍ ۝ فِيهَا جَسَدٌ حَسْبُ الْبَشَرِ ۝ فِيهَا نِسْرَانٌ ۝ فِيهَا سُرُورٌ مُبِينٌ ۝ فِيهَا زَوْجَانِ الْكَلْبِ ۝ فِيهَا نِسْرَانٌ ۝ فِيهَا سُرُورٌ مُبِينٌ ۝ فِيهَا زَوْجَانِ الْكَلْبِ ۝ فِيهَا نِسْرَانٌ ۝ فِيهَا سُرُورٌ مُبِينٌ ۝ فِيهَا زَوْجَانِ الْكَلْبِ ۝

وَإِذَا أَتَىٰ عَلَيْهِ الْيَتْنَاوَالِي مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعَهَا كَانَتْ فِي أذْنِيهِ وَقُرْآنٍ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .
یله پر نہ یوان چھہ تمس پیٹھ سان آیات تھر پھر تھ چھہ ژلان سحرہ سان زن نہ یوزنہ۔ زن تھندین
کنن دون زراوس۔ پس خبر دیوئس کڈرہ عذاب۔ سمہ آیہ کریمک شان نزول چھہ کہ اکھ شخصہ اوس
کافرن ہند یوز ٹھیواندرہ نیس نصر بن حارث ناو اوس۔ سہ اوس گڑھان ملک فارس گن تجارتہ خاطرہ
ستہ اوس ستہ کین پادشہن ہند قصہ تہ تاریخ منمل ہیوان۔ توپتہ اوس قریشن اندر بکتھہ ونان کہ محمد صلی
اللہ علیہ وسلم چھہ توہہ ونان عادیومودن ہند قصہ ولوبہ یوزہ ناو وہہ رستم اسفندیار بیہ عجمی پادشہن ہند
قصہ۔ بعضے لو کہ آس دلچسپی سان تم قصہ یوزان۔ بیہ اس ام مثل ہر مڑا کہ گیون واجن کینراہ۔ توپتہ یلہ
وچھان اوس کانہ شخص اسلامس کن مائل سپدان آتی اوس امس کینرہ تس نش سوزان۔ تس کینرہ
اوس ونان زہ کھیوان چاون یہ شخص بیہ بوزہ ناؤن پٹن گیون توپتہ اوس تس شخص ونان وچھان چھہ
حال۔ ژہ وننتہ تھہ پھالطف نہ تھہ پٹھ گن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکن ناو دو ان پٹھہ۔ تم چھہ ونان نماز
پرو، روزہ دار روزو، زوژو دینس پتھہ چنانچہ اتھہ پیٹھ سپدیم آیات کریمہ نازل یمن آیات کریمن منز
پٹھہ اللہ تعالیٰ ذکر کران تمن شقین ہنز حالتہ یم پنتہ جہالت و شقاوتہ مکھہ قرآن کریمہ نشہ اعراض
کر تھہ نژن گیون لہو ولعب تماشہ وچھن یابیہ واہیات و خرافات یوزنس منز مستغرق آس تم چھہ کوشش
کران کہ بین لوکن تہ ڈالمن یمنی کائین سیت مشغول کر تھہ خدایہ سندہ وینہ نشہ وینہ چن کھن پیٹھ چھہ
ٹھٹھہ تہ مذاق کران حضرت حسن بصری چھہ فرماوان لہوالہدیش متعلق کہ نیس چیز ژہ ڈالی خدایہ سندہ
عبادتہ نشہ مثلاً قصہ ونن یا بوزن ٹھٹھہ مسخری کرن گیون تہ باجہ بوزن یہ سورے گوو داخل لہوالہدیش
منز شان نزول سمہ آیہ کریمک اگرچہ خاص چھہ مگر حکم چھہ عام۔ نیس لہو ولعب یا یوسہ کام دین
اسلامہ نشہ یا کام اسلامو نشہ پتھر ٹنک باعث سپدہ سہ پٹھہ حرام **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**
لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بے شک سمولو کو ایمان اون تہ ژہ عملہ کر کیکہ ہندہ خاطرہ چھہ نعمون ہند جنت
خَالِدِينَ فِيهَا تمنے جتن منز روزن ہمیشہ۔ **وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا** یہ پٹھہ خدایہ سند پوز وعداہ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوِنَهَا وَاللَّيْلِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۙ

هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۙ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سہ چھ غالب تہ حمتہ وول خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوِنَهَا تہ پروردگار آن کر پیدہ آسمان تھمورای۔ نِسْ تہبہ تہ وچھان چھوہ وَاللَّيْلِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ بیہ تھو تم ز مینس پیٹھ بڈ بڈ کوہ لنگر ہی تھنہ سوز مین توبہ لوکن ہیٹھ یون کن نمہ ووتل جہ کرہ۔ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ بیہ تراون چھکرت اتھ ز مینس منز پر ہیٹھ قسیمک جانور وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ بیہ کور اسہ نازل آسمانک طرفہ رود تو پتہ کھار اسہ تمہ زمینہ منزہ پر ہیٹھ قسیمک نباتات جورہ جورہ۔ رت رت چیز هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ تہ فرما یو کہ اے لو کو یہ گیہ خدایہ سز پیدا آئیش۔ پس ہا تو تہبہ مہ خدایس ورا ی م معبودان باطل تہبہ مقرر کران چھو کہ تمو کیاہ کور پیدہ تا اینکه یوزنہ ایہ ہاتھنر کیاہہ گرہہہ پر ستش کران بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بلکہ چھ ظالم نہہ گرا ہی اندر مبتلا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ بیہ کور اسہ عطا لقمن علیہ السلام گائہ جار۔ سہ گو و علم و عمل تو پتہ فرموس اسہ کہ شکر ڈپ خدایس تہنر ان سار نے نعمون پیٹھ خصوصاً شکر پیٹھ یوسہ بڈ نعمت چھہ کیاہہ نِسْ خدایہ سز شکر گذاری چھہ کران تس چھہ تمیک فائدہ پنہ نِسْ پانس۔ یعنی نفس اندر زیادتی سپدن نِسْ کفر ان نعمت چھہ کران سہ چھہ پنہ تہ نقصان کران۔ پس بے شکر اللہ تعالیٰ چھہ بے نیاز سہ چھنہ محتاج کانسہ ہنزہ شکر گذاری کن۔ سہ چھہ حمد پتہ آمت۔ چو تکہ

حَمِيدٌ ۱۲) وَاذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَبْنٰى لَكَ شَرِكٌ بِاللّٰهِ
 اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۱۳) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ
 اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِىْ عَامِيْنَ اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ
 اِلَى الْمَبْدِىْرِ ۱۴) وَاِنْ جَاهِدْكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ

لقمان علیہ السلام آیہ رحمت عطا کرنے میں سپرد ثابت کہ تم چھ حکیم تہ دانہ۔ تھس جیمہ سز تعلیم
 چھ قابل عمل۔ لہذا کرو بیان تہنہ و تعلیماتو اندرہ کینہہ **وَاذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَبْنٰى لَكَ شَرِكٌ
 بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ** بیہ یلہ لقمان علیہ السلام پنہ نس پچوس و عظ و نصیحت کران دُوب
 گو بر اتھہ چھ بیہ کہ شریک تھہر اوزنہ معبود بر تھس عنہ قسمہ پز پاتھ تھ شریک تھہر اون پتھہ بوڈ ظلم
وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ بیہ کوراسہ تاکیدی حکم انسانس ماس ماجہ ہندہ حقہ کہ پریتھہ حاکس اندر
 گرھہ ہندہ ادب تہ رعایت ملحوظ تھاون۔ کیا زہ تمو پتھہ امس پچہ سندہ خاطرہ واریاہ مشقت تہ تکلیف تلت
 خصوصاً ماجہ چنانچہ **حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِىْ عَامِيْنَ** تل بیہ انسان تم سزہ ماجہ پتہ
 یڈ منز۔ ضعف پیٹھہ ضعف تہ تکلیف پیٹھہ تکلیف برداشت کر تھہ نون ریتن۔ اکھ اوس یڈ منز تلمک
 تکلیف تو پتہ پر بسک تکلیف، دود چا وک تلمہ ترا ونگ تکلیف۔ راتس دو ہس پنن آرام تہ آسایش راوہ
 ران امس للہ وان تہ سلہ وان تو پتہ چھ امس پچہ سندہ دود تہ ٹک مدت دون وریکن تام یمن دون
 وریکن تہ پتھہ یہ موج امس پچس مشفقانہ خدمت کران۔ تھہ مال سندنہ پتھہ آسان اشتراک عمل۔ موج
 پتھس کوچھ منزہ تراوان تہ مول پتھس تلان۔ مول پتھس تراوان تہ موج پتھس تلان یم دودہ شوے
 پتھس لولہ متہ لائے کران۔ امی موکھ کوراسہ پنہ نین حقوقن سیت ماس ماجہ ہند حق ادا کرنگ حکم
 امس انسانس پیٹھہ **اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ** میہ فرمود امس انسانس کہ کر تہ شکر گذاری۔ اکھ میان بیہ
 کر زہ یہ شکر گذاری پنہ نس ماس ماجہ ہنز اللہ تعالیٰ ستر شکر گذاری گیہ عبادت و اطاعت سیت ماس
 ماجہ ہنز شکر گذاری گیہ خدمتہ سیت بیہ ہندہ حقوق ادا کرنے سیت **اِلَى الْمَبْدِىْرِ** بتولا کہ پتھوے نش
 واتن تمہ ساتہ تھہ وود مت آسیتھہ تیتھہ لوکھہ باوجود ایچہ ماس ماجہ ہند حق پتھہ سیتھہ بوڈ مگر توحیدک

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ
 سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ يَبْنِيٰ إِنهَآ إِن تَاكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن مِّن خَرْدَلٍ
 فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۶﴾ يَبْنِيٰ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ط

مسلمہ چھوٹی تھ عظیم الشان کہ ولان جہدک علی ان تشرکونی مالئیس لک یہ علم فلا تطعمہما ہر گاہ
 تم دو شوے یا تمواندرہ اکھ مجبور کرے مہ شریک ٹھہراؤس پیٹھ سہ چیز تچ نہ ژہ خبرے آسی سہ کتھ
 مان زہ نہ ژہ کینہہ ہرگز وصاحبہما فی الدنیا معروفا یہ کتھ چھ ضروری کہ دنیا کین ضروریاتن اندر
 روزہ ژہ تمن سیت رتہ طریقہ وائیکہ سبیل من اناب الی دینہ کس معاملس اندر کچہ ژہ ٹس شخصہ
 سنزوتہ ٹس مہ گن رجوع کرہ ون آسہ یعنی میانین احکامن پیٹھ عمل کرہ ون آسہ۔ ثم الی مرجعکم
 فانبتکم بما کنتم تعملون تو پتہ چھوہ تو بہ سارنے مہ گن رجوع کرن۔ بو کر وہ تو بہ سارنے خبر
 تمن سارنے کامین ہنزیمہ تہہ کران آسہ۔ لہذا مہ کرو تہہ میانس گنہ کھمس خلاف امہ پتہ چھ بیان
 کران۔ بیہ لقمان حکمہ یعنی لقمان صابن فر مو پنے نس فرزندس یبنی انہا ان تا ک مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن
 خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اے
 میانہ فرزندہ اللہ تعالیٰ سند علم تہ قدرت چھ تیوت کہ اگر کانہہ ہنز عمل آسہ آسہ دانس برابر مقدرہ
 کن سوی آسہ کنہ بدس پکس منز کھتھ تھاونہ آثرنتہ آسہ آسمان اندر لو کن نشہ دور کتہ جاہہ یا آسہ زمینس
 منز تل پاتال یوت نہ کانہہ تہ واتھہ ہیچہ مگر خدا یہ سند شان چھ کہ سمو ساروے پوشیدہ جاہ منزہ
 کڈ تھ انہ سہ قیامتک دوہ حسابہ وقتہ امی اندرہ چھ سپدان تم سند کمال علم تہ کمال قدرت ثابت بیشک
 اللہ تعالیٰ چھ سیٹھاہ بوڈباریک بین سارچی خبر تھاونہ ون۔ ٹس چھ پور خبر گس چیز سہ ٹس چھ۔ یبنیٰ

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا تَصْعَقُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا
تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ

اقیم الصلوٰۃ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
عملن متعلق فرمونس یہ نصیحت کہ اے میانہ فرزندہ نماز تھا برپا۔ نماز چھ اعلیٰ درجہ عمل یہ آس رزن
کامین ہند امر کران بین لوکن تہ بیہ آس بیچہ کامیونہ لوکن منع کران۔ اتھ منزئس تکلیفہ تہ مصیبتہ
واتی پریتھ مصیبتس پیٹھ آس صبر کران۔ پزپاٹ یہ صبر کران چھ ہمتہ چوکا میواندرہ۔ وَلَا تَصْعَقُ خَدَّكَ
لِلنَّاسِ اخلاق وعاداتن اندر فرمونس بیہ مہ آس لوکن نشہ بٹھ پن پھر ان تکبرہ سبہ وَلَا تَمْشِي فِي
الْاَرْضِ مَرَحًا بیہ مہ آس زمینہ پیٹھ پکان ڈالہ ماران تمہ غرور و تکبرہ سان کیازہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ بے شک اللہ تعالیٰ چھنہ پسند کران کانہ مغرورس ئس تھکان آسہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ بیہ آس میانہ روی کران پنہ ئس پکنس اندر تہ مہ آس دور تلٹھ پکان تہ چھہ
اکھ وقارس خلاف بیہ چھہ تھہ اندر ڈب لگنک خطرہ نہ مہ آس تول تول پکان یہ چھہ نمبرن ہنز چال۔
بیہ کرپست آواز پن کرکھ مہ آس لاگان۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ پزپاٹ آواز اندرہ چھہ
بیچھہ آواز کھرہ سنز آواز۔ تھہ اندر نہ کانہہ فاندہ چھہ۔ لہذا انسان آستھ مہ بن کھر حضرت عکرمہ تہ حضرت لیث چھہ
فرماوان کہ لقمان علیہ السلام آس نبی۔ مگر حکیم ترمذی چھہ نوادرس منز مرفوع اکھ حدیث شریفہ پیش
کران کہ لقمان علیہ السلام آئے یہ خلافت پیش کرنے داؤد علیہ السلامس بروٹھ مگر تمودوپ ہر گاہ
حکم چھم تیلہ چھم منظور بسر و چشم۔ ہر گاہ میانہ مرضی موجب چھہ تیلہ چھس بہ معانی منگان چنانچہ پتہ
آیہ سہ خلافت عطا کرنے چنانچہ یہ روایت چھہ دُر منشورس اندر۔ اکثر علماء چھہ فرماوان کہ حضرت
لقمان چھہ آسمت حبشک رُوزن و آل اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿۲۰﴾ وَ
 إِذَا قِيلَ لَهُمَاتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْتَبِعُ مَا وَجَدْنَا
 عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۲۱﴾
 وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۲۲﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا
 يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۖ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ فَنبئهم بما عملوا ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ کیا تو بہہ وچھوہ نامشاہدہ سیت تہ دلیلو سیت یہ تھہ معلوم کہ اے اللہ تعالیٰ ان
 جھہہ بواسطہ یا بلا واسطہ کامہہ لاگمت مسخر تہ رام کرمت تہندہ فاندہ خاطرہ تم ساری چیزیم آسانن بیہ
 زمین منز جھہہ۔ بیہ کرین پننہ نعمہ پورہ تو بہہ پیٹھ۔ ظاہری نندہ نعمہ تہ۔ تمہ نعمہ یمہ ظاہری حواسو سیت
 ژیندہ یوان چھہ باطنی تہ پوشیدہ نعمہ تہ یمہ نعمہ عقلہ سیت ژیندہ یوان چھہ۔ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي
 اللَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ باوجود آل چھہہ لو کو اندرہ بعضی تم لو کہہ تم بحث تہ جگڑہ چھہ
 لاگان خدایہ سندس کن آسنہ کس معاملس اندر علمہ ورائے واقفیہ ورائے تہ ٹکنہ دلیلہ ورائے بیہ عنبر روشن
 کتابہ ہندہ حوالہ ورائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَاتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
 تو پتہ یلہ وندہ یوان چھہ تمن پیروی کر وتھہ خمس نئس اللہ تعالیٰ ان نازل کور پان چھہ نہ بلکہ گر واس
 پیروی تھہ طریقس تھہ پیٹھ آسہ ہن مال بڈبب عمل کر ان وچھہ اُولُو كَانِ الشَّيْطَانِ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ
 السَّعِيرِ کیا ہر گاہ تہندین مالین بڈبن شیطان نادوان اوس تھہ گمراہی کن نئس نارہ کس عذابس موجب
 اوس تو تہ کرن نہ تم تہمز پیروی وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ بیہ نئس اکھاہ پز یوک اتباع کر تھہ ہنراوہ ہن پان معبود برحقس تھہ
 حاکس منز کہ سہ آسہ رژہ کامہہ کرہ ون ادہ تمی کر تھہہ محکم رژہ۔ تمی کر زورہ تھپ مضبوط ہانکلہ۔ پتولا کہ
 چھہ سارے کامہہ تہ سارے کائین ہند انجام خدایہ سے نشہ وائن وول۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ

عَلِيمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۲﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ
عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۳۳﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۳۵﴾ وَلَوْ أَنَّمَا
فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ

كُفْرُهُ الْيَتَامَ مَرْجُومًا فَتَبَّ لَهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ بے ایم شخصن باوجود اس
وضاحت کفر سے انکارے کور ٹھنڈ کفر سے انکار مہ حض کرن توہہ غم گین سے آزردہ اسی نیشہ چھہ واٹن
رجوع کرن تمین سارنے۔ اس کرو کہ خبردار تم تموساروے کامیوسیت سمہ تم دنیا بس منز کران
آس۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ پور زانان تمہ سارے تھہ یمہ دلن منز کھٹھہ سے پو شیدہ چھہ باقی کابین ہنز
چھہ کتھہ۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ تمسح تلمناو کہ اس تم دنیا س منز کم کینہہ
کالاہ توپتہ واتتاو کہ اس تم جبراً سخت عذابس اندر یمہ منزہ نہ تم نیر تھہ ممکن۔ یتھہ توحیدس کن اس
تمن نادووان چھہ حئمہ جن ابتدائی بعض کتھن چھہ تم سے پانہ تسلیم کران چنانچہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ہر گاہ ٹھہ یارسول اللہ کن پر ٹھہ آسمان سے زمین کم گورپادہ ضرورون کہ
اللہ تعالیٰ ان گورپادہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٹھہ دپو محمد یومین خدا بس کہ یہ کتھہ چھوہ توہہ فخرہ تران۔ یوسہ کتھہ
زیادہ ضروری اس سوسپز جہندی اقرارہ سیت ثابت دویم کتھہ یوسہ اتھہ سیت لازم آس کہ کس چیز
مخلوق سے پادہ کرنہ آمت آسہ سہ بیجا معبود آتھہ۔ یہ چھوہ نہ تگان زانن بے چھوہ نہ تران فخرہ یکل
اَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر تمواندرہ چھہ اکثر لو کہ کن نہ ایڑہن سے زانن تگان چھہ خدا یمہ سند شان چھہ یہ
کہ یتھہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ خدا یمہ سند چھہ سے سورے یہ آسمان سے زمین
منز چھہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ بذات خود سے بے نیاز۔ سارنے تعریفن سزاوار۔ سنی چھہ سزاوار
الوہیت۔ تمسز خوبیہ سے تعریف چھہ تیت کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ

سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾
 مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۹﴾ ذَلِكَ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ

بَعْدُ ۴ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بیہ ہر گاہ تین سارے کلین ایم تمام روی
 زمینس پیٹھ چھہ تین بناونہ قلم سونب حصہ تو پتہ آسہ سمندر میل لیکنہ خاطرہ سیاہی اکہ سمندرہ
 پتہ ستہ وے سمندر تموے قلمو سیت تہ تہی میلہ سیت ین لیکنہ اللہ تعالیٰ سد کلمات یعنی تمہ تھہ یمو
 سیت تہمہد کمالات ین پھر نہ۔ ایم ساری قلم تہ یہ سارے میل جوشہ ختم مگر تمہ تھہ گوہن نہ ختم سمو
 سیت تم کمالات بیان ین کرنہ بیشک اللہ تعالیٰ چھہ غالب سیٹھاہ حکمتہ دول۔ سہ چھہ قدرتس اندرتہ
 کامل علمس اندرتہ کامل۔ تہنزے قدرت گیہ کہ سارے کرہ بیہ پادہ پتھہ نافہم لوکھ دشوار زانان چھہ
 حالانکہ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً اے لو کو تو بہ سارے ہند گوڈہ پادہ کرن بیہ مرت دوبارہ
 زندہ کرن چھہنہ خدا ایس نشہ مگر تیتھہ پتھہ اکس شخصہ سند ہو پادہ کرن چھہ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بے شک
 اللہ تعالیٰ چھہ سورے بوزہ ون سورے وچھہ ون سہ دیہ مرنہ پتہ بیہ زندہ گوشہ کین مکر ن ضرور
 سزا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ
 آجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کیاہہ وچھان چھہکھا نثرہ اے وچھہ ونہ کیتھہ قدرتہ وول چھہ سہ۔
 سؤی چھہ راژ ہندس اکس حصس دوہہ کس حصس منزواتہ ناوان بیہ دوہ کس حصس راژ ہندس حصس
 منزواتاوان بیہ تھاوتی آفتاب تہ زون کامہ اندر لاگتہ۔ سمودو یواندرہ چھہ پر پتھہ اکھاہ پکان تھہ وقس
 تان ایس تہندہ خاطرہ مقرر کرنہ آمت چھہ۔ یعنی قیاس تان۔ بیہ چھو نا تو بہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ چھہ تہ
 سورے زانان یہ تہہ کران چھوہ تو بہ چھانمان زہ تہنزہ شرکچہ کامہ کیا آسن تس نشہ پو شیدہ۔ سہ کیا دیہ نہ

مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝۳۰ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
 الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝۳۱ وَإِذْ أَخَشِيَهُمْ مَوْجًا كَالظَّلِيلِ
 دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
 فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝۳۲

تو میرے ہاتھ پیٹھ سزا، ذلک یاقاں اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلیٰ الکیبر
 یہ سب کچھ یعنی آسمان پادہ کرن دوہ تر اتھ اکھ اس منزوانہ تاون آفتاب تر زون کامہ لان ہٹھ خاص اللہ
 تعالیٰ سے یہ مومک کہ اللہ تعالیٰ ای ہٹھ پنہ ہستی تر وجودس منز کامل سے ہٹھ واجب الوجود۔ لو کہ
 سمن چیزن ہنز پرستش کران چھ تر اس وراے تم چھ باطل۔ بیہ ہٹھ اللہ تعالیٰ ای عالی شان، تھود تر
 بوڈ۔ تھندس تھرس تر بجرس وانہ نہ کہنے اَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ کیا ای
 مخاطب تر ہٹھ تا توحید ج یہ دلیل معلوم کہ بے شک جہاز تر ناوہ ہٹھ پکان دریاون اندر خدایہ سندی
 فضلہ سیت لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ہٹھ سہ توہ ہادہ پنہ قدر تک نشانہ
 پزپاٹ اتھ منز چھ قدر تک۔ بڈ نشانہ صبر تر شکر کرہ ون سندہ خاطرہ یعنی باایمان ہندہ خاطرہ تھے چھ
 مومن ہندہ دو تھنہ وقتہ صبر کران جہاز یا ناوہ بوٹھ لکھہ وقتہ شکر دپان وَإِذْ أَخَشِيَهُمْ مَوْجًا كَالظَّلِيلِ
 دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ تمہ پتہ یلہ تمن کافر ن سمندر ک موج تھود گھست سایہ بان ہند پائٹھے
 ولہ یوان ہٹھ تمہ ساتہ ہٹھ منگان خدائس بندگی خالص تھندی خاطرہ امانت اعتقادہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى
 الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ تمہ پتہ یلہ اللہ تعالیٰ تمن نجات دتھ
 بھٹس تل واتاوان چھ تمو منزہ چھ بعضے درمیان حالس پیٹھ روز تھ خدیہ سندی یاد کران۔ یعنی شرک
 تراو تھ توحید اختیار کران مگر بعضے چھ بالکل سائین آیتن مشراو تھ سائین قدر تر کین نفاان انکار
 کران۔ مگر تھے لو کہ یم غدار تر تھران نعمت کرہ ون چھ لِيَأْيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ
عَنْ وَاٰلِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِعٌ عَنْ وَاٰلِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ
اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ
الْغُرُورُ ﴿۳۱﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَ
يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۳۲﴾

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَاٰلِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِعٌ عَنْ وَاٰلِدِهِ شَيْئًا اے لو کو کھوڑو پروردگار سے اپنے نس
پتہ روز و تہدہ نافرمانی نشہ بہ شرک و کفر نشہ بہ کھوڑو تہدہ دوہس یمہ دوہہ نہ کانہہ مولاہ جواب ہیجہ
د تھ۔ عذاب پتہ ہیجہ رتھہ پنہ نس پتوس نشہ نہ ہیجہ کانہہ پتوہ پتہ رتھہ پنہ نس ماس نشہ نہ قسمگ
عذاب یہ دوہہ پتہ یوہون ضرور۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ ان پتہ امیک وعدہ کورمت اِن وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ پزپاٹھ
اللہ تعالیٰ سند وعدہ پتہ حق تہ پوز تو اہس تہ عذابس متعلق فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ
بِاللّٰهِ الْغُرُورُ پس پتہ دھوکہ دیہ توہہ دنیا ج زندگی پتہ سیت مشغول روز تھ سپد و غافل تمہ دوہہ
نشہ بہ پتہ خدایہ سندہ حقہ توہہ دھوکہ دیہ شیطان فریب باز تہ دھوکہ باز اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ
السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ سے پتہ قیامج خبر کہ سوگر سپدہ واقع یہ
پتہ سئی رود تراوان یہ پتہ تہس خبر اسباب و آلاتن ہندہ واسطہ ورائے کیاہ پتہ زنانن ہنزن شگمن اندر
کور چھانہ پتوہ بہ پتہ خبر کانہہ شخصس پگاہ کوسہ کام کرہ بہ یہ پتہ خبر کانہہ شخصس تھہ جایہ منز مرہ
کہہ وقتہ بے شک اللہ تعالیٰ پتہ سورے زانہون تہس پتہ سارے چیزن ہنز پور خبر۔

سُورَةُ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 الْم ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝^۱ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَأْتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝^۲ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۝ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۝^۳

اللّم سیم چھ حروفِ مقطعات۔ یمن ہند معنی زائد پانہ خدا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کتابہ یعنی قرآن مجیدہ کس نازل سپدلس منز پھنہ کانہہ شکھاہ ییہ چھ نازل سپدان رب العالمینہ سہہ طرفہ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیاہ مُنکر چھاوانان یہ چھہ پائے بلہ ٹھہروومت حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تہندون چھہ بالکل غلط۔ یہ چھہہ کانہہ بنوومت بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَأْتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بلکہ چھہ یہ کتاب پڑپاٹ تہندس پروردگارہ سہہ طرفہ نازل سپز مشیتہ تہہ امہ سیت نیم کروپروردگارہ سندہ عذابہ نشہ ممن لوکن یمن گن نہ توہہ بروٹھ کانہہ پیغمبرہ نیم کرہون آنت چھہ دیوہ تم لوکھ راہ راستس پیٹھ یں اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اللہ تعالیٰ گوسئی ذات پاک یم آسمانہ زمین بیہ تم مخلوقات یم تمسن دون منزباگ چھہ پادہ کرشین دون ہندس مدلس اندر۔ توپتہ سپد مستوی عرش پیٹھ تمہہ طریقہ نس تہندس شانس سزاوارتہ لایق چھہ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ سہ چھہ تیتھ بوڈتہ عظیم الشان کہ تہندہ رضاتہ اجازتہ ورائے چھہ تہند

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۴﴾ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ
 يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿۵﴾
 ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۶﴾ الَّذِي أَحْسَنَ
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿۷﴾ ثُمَّ جَعَلَ
 نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿۸﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ
 رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا

کانہ مددگارانہ کانہہ سفارش کر وہاں البتہ تمہدہ اجازت سپدہ شفاعت۔ مگر نصرت و مدد متعلق
 آسہ نہ اجازت تھی۔ بس کونہ چھوہ نصیحت رہاں کہ تھس ذات پاکس بیجا شریک آسہ یدبیر الامر من
 السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقداره الف سنۃ مما تعدون سنی خدا ہتھ تھ کہ آسانہ
 پیٹھ زمینس تام یمہ کامہ چھہ تم سار نے ہند تدبیرتہ انتظام کر وہاں چھہ سنی۔ تو پتہ ین ساری معاملہ تہ
 سارے کامہ تس برو تھ کن پیش کرنہ تھہ دو ہس اندر سمہ ذہک مقدار تمہدہ گزرنہ موجب اکھ ساس
 وری آسہ یعنی قیامتک دوہہ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ سنی خدا چھہ زانہ و ن تہ
 سورے کھٹھ چھہ بیہ یہ نون چھہ سیٹھہ غلبہ و ول زبردست سیٹھہ رحمتہ و ول الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ
 شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ یم پروردگارن سیٹھہ رت کور پر تھہ چیزہ بیہ کور تم ابتداء
 انسانہ سزہ پیدائشہ ہند میوہ نشہہ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ تو پتہ کرن پادہ تمہد نسل
 تہ اولاد پتہ منزہ کڈنہ آمتہ بے قدر ضعیف آبہ قطرہ نشہہ۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ
 لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ تو پتہ کورن ماجہ ہندس شمس منز تمہد بدن
 برابر۔ تو پتہ واتہ نوون تھہ منز چھو کہ دتھ ہن روح۔ بیہ کزان پادہ تمہدے گن بوزنہ خاطرہ بیہ اچھہ
 وچھہ خاطرہ۔ بیہ دل زانہ خاطرہ۔ یم ساری چیز سموسیت تمہز کمال قدرت ثابت سپدان چھہ اس
 منگان تمہز شکر گذاری کر ین مگر سیٹھہ کم چھوہ تمہہ تمہز شکر گزاری کر ان وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي

تَشْكُرُونَ ۹ وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي
 خَلْقٍ جَدِيدٍ ۙ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۱۰
 قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 تُرْجَعُونَ ۱۱ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسَ وُجُوهِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۱۲ وَ
 لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي

الأرض إنا لفي خلقٍ جديدٍ قیامتک مقرر چھہ و نان کیاہ یلہ اس میوہ سیت میوہ گزہ هو کیاہ آسہ
 چھانو پادہ سپن بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ایم چھنہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدہ کسے یوت عجائب
 زانان۔ بلکہ چھہ ایم پنہ نس خدا نس سیت ملاقات کرہ نس تہ نس بروئٹھ گن حاضر سپد نس تہ مقرر قُلْ
 يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ تہہ فرما یو کہ یار سول اللہ توہہ چھنہ
 معدوم سپن بلکہ کڈہ تھندین روحن ملک الموت نس خدا یہ سبہ طرفہ مقرر کر نہ آمت چھہ۔
 تھند روح کڈنہ خاطرہ۔ تو پتہ ایو تہہ واتا ونہ پنہ نس پروردگار س نغہ سبہ دیوہ عملن ہنز مزور۔ رٹن
 ہنز رٹے پچھن ہنز پچھی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسَ وُجُوهِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ہر گاہ تہہ وچھو کہ ایم
 نافرمان تھہ پاٹھے آسن قیامتک دوہ کلہ یون گن تراوتھ پنہ نس خدا نس بروئٹھ کتہ سخت شرمندگی اندر
 تہہ وچھو تھند عجیب حالہ و نان آس رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ای
 سانہ پروردگارہ آسہ وچھہ تہ تھہ اس انکار کران اس بیہ بوز آسہ تہ سورے تھنہ نہ اس گن تھوان اس
 سانہ اچھہ تہ گن آسے مشروانہ معلوم سپد کہ یہ کیوہ ہاہ پیغمبر فرماوان اس تہ سوری اوس پوز پس سوز کھنا
 ژہ آسہ بیہ دنیا س گن اس کرہ ہوونے تہہ رٹہ عملہ بیشک چھہ اس وونے پور یقین کرہ ون۔ مگر یہ
 تھندون آسہ تہہ بالکل بیکار وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ ہر گاہ آسہ منظور آسہ ہا اس کرہ ہو پر تھہ
 شخصس ہدایت دنیا س اندر ایمانس تہ رٹن عملن گن وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلِكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳﴾ فَذُوقُوا بَأْسَ
 نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا
 سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۵﴾ تَتَجَافَى
 جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۶﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مگر میان تمہہ مجھہ ازلہ تقدریری یوسہ میہ از لکہ دوہہ وار بہو حکمو موجب
 محقق سہز مرہ مجھہ کہ ضرور برن تہ ہر کرن بو جنہم جنو تہ انسانوسیت۔ ہم کافر اس یکہ وئہ۔ ووان سیلہ
 تہند دنیاء س کن گوہن نامکن مجھہ ہذا میہ تمن وئہ فَذُوقُوا بَأْسَ نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ
 وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وون زہو تہہ سمیک مزہ کہ توہہ اوسوہ ناہن تہہ دوہس منز
 سکھن مشر دوومت اسہ تہ مشر اووہ تہہ کیازہ رحمتہ نشہ کرووہ اس تہہ محروم۔ وون زہو ہمیشہ گی ہند
 عذاب کیازہ تہہ اسوہ ناہوہ کامہ کران إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ایمان انن نہ سائین آیاتن مگر تے لو کہ تمن یکہ تم آیاتن تہیس
 پاوہہ مجھہ یوان وعظ و نصیحت مجھہ کرنہ یوان متاثر سہد تہہ چھہ تم سجدس منز تہہ پنہ نس خدایہ سہد پیاکی
 حمد و ثنایاد کران۔ بیہ چھہ تم ایمان اننہ نشہ کنہ قسمہ سحجر تہ غرور کران تہہ پاٹھ کافر چھہ سحجر کران یہ
 گو تہندہ اعترافک حال امہ پتہ چھو بیان تہندین اعمالن ہیوند تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
 يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ایمان انن نہ سائین آیاتن مگر تے لو کہ تہزہ
 لرہ و تھر نیو نشہ محقق نماز تہ تہجدج نماز پر نہ خاطرہ تمہ علاوہ چھہ منگان تم پنہ نس پروردگار س آلودی
 وی عذابچہ خوفہ تہ ثوابچہ امیدواری سان بیہ چھہ تم ثمنہ مالہ منزہ نس اسی عطا کورومت چھہ خرچ کران
 خدایہ سزہ و تہ اندر فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نس چھہ

اَعْيُنٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ
 فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۸﴾ اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
 جَنَّاتُ الْمَاوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا
 فَمَا لَهُمْ نَارُ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ
 قِيْلَ لَهُمْ دُوْعُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ ﴿۲۰﴾
 وَلَنْ يُقَيِّدَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اِلَّا الَّذِي دُوْنَ الْعَذَابِ

کانسہ اکس خبر تمن چیزن ہنزیم کھتھ تھانہ آمت چھ تھندہ خاطرہ غیبہ کس خزائس اندر سمو چیز وسیت
 تہزہ اچھ شہلن تھے چیز آسن رژ مزور تھندہ خاطرہ تمن رژن عملن ہنزیمہ تم کران اس دنیاء س
 اندر اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ کیا ئس شخص با ایمان آسہ نہ چھا برابر ئس
 شخص ئس نافرمان نہ کافر آسہ نہ ہرگز جھنہ سم زہ برابر اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
 جَنَّاتُ الْمَاوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس گے تم لوکھ سمو ایمان اُون بیہ کرکھ رژہ عملہ تھندی
 خاطرہ جھ روز نگ باغ بطور پیش کشی۔ تھ پاٹ مہمان عزیزن چھ نفیس نفیس چیز بکمال احترام پیش
 کرنہ یوان تھہ پاٹھ نہ تھہ پاٹھ سائل نہ تھتا جس بے قدری نہ بے وقعتی سان دنہ یوان تھہ۔ تمن عملن
 بدلیمہ تم کران آس دنیاء س اندر وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ نَارُ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا
 مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وون سمو لو کو نافرمانی نہ کھر کور تھندہ روز نچ جائے تھہ نار جھنم۔ تھ اندر واتھ یلہ
 یلہ تم تھہ منزہ نیر تک خیال آسن کران۔ بیہ آسن تھہ منز واپس واتا ونہ یوان وَقِيْلَ لَهُمْ دُوْعُوْا
 عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ وندہ آسکھ یوان ژہو مزہ تھہ نار جھنمک تھہ تھہ انکار آسہ
 کران وَلَنْ يُقَيِّدَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اِلَّا الَّذِي دُوْنَ الْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بیہ
 ژھنا و وکھ اس تم لو بونہہ ڈر جک عذاب دنیاء س اندر قیامتہ بڑہ عذاب برو تھہ دیو تم پائس پین کھرہ نہ شکرہ
 نشہ پوت پھیرن۔ تھین لوکن ہند عذابس گر فاسقن جھنہ عجائب کتھاہ کینہہ نہ کیا زہ وَمَنْ اَظْلَمُ

الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ
بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿۲۲﴾
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ
مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۲۳﴾ وَ
جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا ﴿۲۴﴾ وَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿۲۵﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ


مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ کوه اکاهه چھہ یژ ظالم تس
شخصہ سندہ خوتہ نس وعظ و نصیحت آیہ کر نہ پنہ نس پروردگارہ سندہ آیہ توسیت توپتہ پھیر تم بھہ تمو آیا تو
نہہ لہذا کیاہ چھہ چھہ تہندس مستحق عذاب آس اندر۔ ضرور تہمواس تمن نافرمان انتقام۔ تہہ روزو
مظنن یار سول اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ بے شک امہ کز عطا چندی پاٹھ موسیٰ علیہ السلام کتاب (تورات) یمہ کس
اشاقس اندر تمن تکلیف برداشت کرن پو۔ تھہ پاٹھ کر اسہ تہ توہہ کتاب عطا امہ کس اشاقس اندر چھو
توہہ تہ تکلیف برداشت کرن۔ نس مہ روزو تہہ شمس تہ ترددس اندر امہ کتابہ ہندس عطا سپد نس اندر۔
اتھ منز چھنہ کانہہ شک تہ خبہ یامہ کرو تردد موسیٰ علیہ السلام سیت در شب معراج ملاقات کرہ نس
اندر توہہ کو روہ حقیقتہ پاٹھ تمن سیت ملاقات سہ کانہہ نظر بندی یا خیالی ملاقات اوس نہ بیہ کز اسہ سو کتاب
یعنی توراہ بنی اسرائیل اندہ خاطرہ سبب ہدایت تھہ پاٹھ سپدہ تہزہ کتابہ سیت تہ وار تہن لوکن ہدایت تہہ
روزو خوش وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ بیہ
کر اسہ بنی اسرائیل واندرہ واریاہ پیشوا۔ یم وتھ ہاوان آس لوکن سانہ حکمہ موجب یلہ تمو صبر کور
مکروبین ہندین تکلیفین پیٹھ بیہ آس تم سائین آیاتن پیٹھ یقین کران امہ سیت چھہ تسلی با ایمان کہ یلہ تم تہ
اشاعت قرآنس پیٹھ صبر کرن تم تہ کروکھ اس دنیا بک امام تہ پیشوا یہ گوود نیا کہ اعتبارہ تسلی

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۲۵﴾ أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ
 كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ ط
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۶﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ
 الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
 أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى
 هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۸﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک تمہند
 پروردگارے کرہ فیصلہ بنی اسرائیل منز قیامتک دوہ تم سارنے تھن اندر تم منز تم اختلاف کران
 آس۔ سہ فیصلہ گوویو ہے کہ بایمان و اتاواہ جنس اندر۔ کافرن و اتاواہ جنس اندر۔ اَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ
 كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا
 تمہندین دشمن یعنی مکہ کین کافرن کرہ نارہنمائی یہ تھ کہ کاتیاہ لو کہ کراسہ تم برونھ ہلاک گھر وانکارہ
 سبہ اہندیو مکاوتہ شہر و منزہ چھند تم ازتہ شہر شامہ کس سفرس اندر یوان گڑھان تمو جایو منزہ
 گذران۔ پزپاٹھ اتھ منز چھہ صاف صاف نشانہ یمہ کتھ ہند کہ اللہ تعالیٰ چھہ گھر س تہ کافرن شرگس تہ
 مُشرکن پیٹھ بیزار کیا تم چھنا تمں تباہ و برباد گاتین لوکن ہند حال بوزان دون تمں
 شبہ چھہ قیامتہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدس متعلق اَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ
 فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ کیا تم چھنا و چھنا کہ اس چھہ
 خشک زمینس کن آب و اتہ ناوان دریاؤن ہندیو بارانک تمہ پتہ چھہ اس تمہ سیت سہ زراعت کھاران یمہ
 منزہ تمہند چارپا بیہ تم پانہ تہ کھیوان چھہ۔ کیاہ تم لو کہ چھنا اتھ سانس کمال قدرتس کن روز مرہ و چھان۔
 تھہ پاٹھ کیاہ کرو کہ اس مردہ بیہ زندہ۔ تو پتہ کڈو کہ زمینہ منزہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَّمَانُهُمْ **وَأَلَهُمْ يُنظَرُونَ** ﴿۲۹﴾ **فَاعْرِضْ**
عَنَّهُمْ **وَأَنْتَظِرُ** **أَنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ** ﴿۳۰﴾

صِدِّقِينَ تم کافر چھ ونان کر آسہ یمہ فیصلک دودہ ہر گاہ تہہ پوزونہ ون چھوہ **قُلْ يَوْمَ الْقِيَامِ لَا يَنْفَعُ**
الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَّمَانُهُمْ وَأَلَهُمْ يُنظَرُونَ * **فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرُ أَنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ** فرما یو کہ
 یار سول اللہ فیصلہ کہ دودہ دیہ نہ کانہہ نفع تہ فائدہ تمن کافرن پڑھ کرن تہنز بیہ بیہ نہ تمن تہمہ دودہہ عنہ
 قسمہ مہلت ونہ پس پھر ونہہ روی مبارک پن تمن نشہ یار سول اللہ۔ کھن تہنز ان ہندمہ کرو تہہ کانہہ
 خیالہ بیہ کرو تہہ خدایہ سندہ حکمک تہ فیصلک حقہ انتظار بیشک تم تہ چھ تہندہ تکلیف و ضررک انتظار
 کران۔



سُورَةُ الْأَحْزَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝^۱ وَأَتِيعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ ط
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝^۲ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَكِيلًا ۝^۳ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ای پیغمبر خدا تمہارے
کھوڑو حض خدا ایسے بیہ مہ کھوڑو کا نہ۔ کافرین ایم ن پائٹ وینس خلاف چھہ بیہ منافقن ایم کافرین سیت
محقق چھہ تہندس ونس منہ ہز کرو اعتبار۔ تہزہ آتھہ مہ حض مانوبے شک اللہ تعالیٰ چھہ سوروی زانہ ون پور
حکمۃ وول۔ تہند ساری حکم چھہ فاندہ سیت برت وَأَتِيعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا تہہ پکوتی حکمہ موجب ئس تہہ گن وحی سوزنہ یوان چھہ، تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ ای
لو کو پز پائٹ اللہ تعالیٰ چھہ پور زانان تہ سورے یہ تہہ کران چھہوہ تہہ اندرہ ئس اکھاہ سانس پیغمبرہ سنز
مخالفت کرہ تمس سیت انزرا و اس پانے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا بیہ کرو توکل خدا ایس
پیٹھ۔ پس چھہ اللہ تعالیٰ تہز کام پورہ کرہ ون۔ اتھ مقابلہ ہیجہ نہ چلتھہ تمن لوکن ہند کا نہہ تدبیر۔ معجھہ
چھو حقیقی چھو زانان تو پتہ تمسزہ طلاق دنہ آمزہ زانہ سیت تہتھر کرہ ئس پیٹھہ طعنہ زنی کرن اوس تیتھہ غلط
چیزاہ مشہور، تھہ پائٹھہ پنہہ آئہہ موج ون یا ما جہ سیت تشبیہ وئس پیٹھہ نکاح ژھین اوس خیال کرنہ یوان
پاہر گاہ کا نہہ شخصاہ اوس سیٹھاہ ہشیارہ تہ تقلند آسان و پان آس امس چھہ زہ دل سینس منز یمن ترشون
تھن ہند اصلاح کور اللہ تعالیٰ ان فرموون مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ واقعس منز کرنہ
اللہ تعالیٰ ان کا نہہ ہندس سینس منز زہ دل پیدہ تھہ پائٹھہ فرموون وَمَا جَعَلَ آذُنًا كَأُذُنِ الْبُظُرِ ۚ

أَرْوَاكُمْ إِلَىٰ تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَ
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ أَلَيْسَ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ بپہ کرہ نہ اللہ تعالیٰ ان تہنزہ زنانہ یمن سیت تہہ ظہار چھوہ کران یعنی پنہ نین محرمانہ
 سیت چھو کہ تہشہہ دو ان تمہ چہند سپدان نہ کرنہ سیت تہنزہ ماجہ وَاَجْعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ سیتہ پاتھ
 کرنہ اللہ تعالیٰ ان تہند مکتہ پتو حقیقتا تہند پتوے ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ یہ تھہ تہنزہ چھہ صرف
 تہند یو چائٹو ونہ یوان۔ یمن نہ واقس سیت کانہہ مشابہت چھہ بلکہ چھہ غلط تھہ چھہ کانہہ واقعی امرہ
 سپدان۔ لہذا مکتہ پتوے سزہ طلاق ونہ آمرہ زنانہ سیت نکاح کرنس پیٹھ طعن و تشنیع کرن چھہ محض
 جہل وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اللہ تعالیٰ چھہ پرتھہ فرماوان۔ سنی چھہ سیزوتھہ
 ہاوان۔ چنانچہ تم ن ترین غلطین ہند اصلاح کور اللہ تعالیٰ ان یلہ نہ تم واقس منز تہند پتو چھہ۔ بس مہ
 آسو تہہ نس مکتہ مال سند پتو وان اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ مکتہ پتوین آسو تہہ
 نادووان پنہ نین حقیقی مالین کن نسبت کرت سوی چھہ زیادہ النصاب تھہ خدا یس نشہ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
 اَبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ہرگاہ نے توبہ معلوم آسن تہند مال تلہ گئے تم تہند دینی
 ہاوی آتھہ بیہ گئے تم تہند دوست نہ رفیق۔ تمی مناسبتہ آسو کانہہ موزوں لفظہ استعمال کرت تم
 آلودوان وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ توبہ چھہ کانہہ قصور ہرگاہ تہہ اتھہ منز عنہ وقتہ
 وشفہ گڑھہ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ہرگاہ تہہ زانتھہ کرتھہ عمد او قصد اتھہ چیز کریوتیلہ چھہ گوناہ۔
 ہرگاہ تمہہ گونہہ نفعہ توبہ نہ استغفار کرو۔ تھہ کروہ اللہ تعالیٰ مغفرت۔ کیاہہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۶﴾
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمَنْ نُؤَخِّرْ وَأَبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿۷﴾

اللہ تعالیٰ چھ سیٹھاء مغفرت کرہ دن سیٹھاء رحم کرہ دن الٰہی اٰولیٰ بالکلمۃ المؤمنین من انفسہم پیغمبر برحق ہٹھ زیادہ تعلق تھاوان بالایمان سیت تہند یوپانو خوتہ کیازہ شخصہ سندپان ہر گاہ ہچھ آسہ تیلہ ہچھہ ظاہرے کہ سٹھ ہچھہ بد خواہ امند۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ہچھہ خیر خواہ بالایمان ہندہ خاطرہ ہمیشہ رُت یرشان۔ ہر گاہ شخصہ سندپان جانے آسہ توتہ ماہچھہ تمس خبر سارنے چیزن ہنز کتھ کتھ منز ہچھہ تمس نفع تہ فائدہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہن ہچھہ اللہ تعالیٰ ان سارنے مفید تہ نافع چیزن ہند علم عطا کورمت۔ بہر حال تہندہ طرفہ ہچھہ نفعی نفع۔ لہذا ہچھہ تہندی حق پانہ خوتہ تہ زیادے۔ تمی موکھ گڑھن تہ زیادہ ٹاٹھ آسن قبیلہ کرانہ خوتہ ماس ماجہ ہندہ خوتہ بلکہ ہندہ پانہ خوتہ تہ۔
وَأَزْوَاجَهُمْ تہندہ ازواج طاہرات ہچھہ بالایمان ہنزہ والدہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہندہ معنوی بابہ صاب آسن ہچھہ لازم کہ تہندہ ازواج طاہرات گڑھن آسنہ بالایمان ہنزہ معنوی والدہ وجوب تنظیم اندر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ بیہ چھہ بالایمان ہند قریبی رشتہ دار اڈاؤین زیادہ حقدار وراثتس اندر فِي كِتَابِ اللَّهِ خدایہ سزہ کتابہ اندر یعنی تہندہ شرعی حکمہ موجب مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ بالایمانو خوتہ بیہ مہاجر و خوتہ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا مگرے تہہ پندہ نین دوستن نسبت کانہہ احسانہ کرو تہہ ہچھہ کانہہ حرج یعنی بخشائیشہ پانٹھیہ یا وصیتہ پانٹھیہ دیو کینہہ چیزہ تہن كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا یوہے حکم ہچھہ لوح محفوظس اندر لیکنہ آمت یعنی وراثت ہچھہ رشتہ دارنے اندر جاری کرین وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

لَيَسْئَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدَقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ

وَمِنْ ثَمَرِهِمُ الْقُرْآنُ بَيِّنَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمُ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝
بہ ہتھ سہ وقت قابل ذکر
یلہ اسہ روٹ عہد پیغمبر ان نصحہ خاص کرت توبہ نصحہ یار رسول اللہ۔ بہ نوح علیہ السلام نصحہ بہ ابراہیم
علیہ السلام بہ موسیٰ علیہ السلام بہ عیسیٰ علیہ السلام بس مریم علیہا السلام سند فرزند چھہ۔
بتھہ کتھہ پیٹھہ کہ بندگی کرو خدایہ سنز۔ بہ دیولوکن تہ ناد تہنزی بندگی تہ عبادتس کن۔ یوہے عہد روٹ
آسہ تمن نصحہ مضبوط عہدہہ لَيَسْئَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدَقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ بتھہ اللہ
تعالیٰ تحقیقات کرہ قیامت دوہ پزیرا رین نصحہ یعنی پیغمبر ان نصحہ تہنہہ پز یوک یمہ سیت تہنہہ شرف ظاہر
سپدہ بہ سپدہ حجت تہ دلیل قایم منکر ن پیٹھہ امی اندرہ سپد ثابت صاحب و حیس پیٹھہ ہتھہ واجب
و حیس اتباع کرن۔ صاحب و حیس و رای یم چھہ تمن پیٹھہ چھہ واجب صاحب وحی سند اتباع تہ پیروی
کرن۔ بہ چھہ اللہ تعالیٰ ان کافرن تہ منکر ن ہندہ خاطرہ تیار تھوومت دگ تہ دود تملہ ون عذاب امہ پتہ
چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان اکھ واقعاہ سہ گوویوہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور قبیلہ بنی
نضیر کہ یہود مدینہ شریفہ نصحہ جلاوطن۔ تمن سپد حکم مدینہ شریفہ منزہ نیر نگ۔ توپتہ سونہہ راہ تمو
عربک مختلف قبیلہ قریب دہاہہ ساس لو کہ مدینہ شریفہ پیٹھہ حملہ کرنہ خاطرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلمو کور حکم کہ مدینہ شریفہ انداند کھنوخندق۔ تمن ہندس کھنہ نس اندر بنفس نفیس تمو پانہ تہ کام
کر۔ میوہ سارک بکنہ پھڑاوک اکس ر تمس تان رود تم مدینہ شریفہ محاصرہ کر تھہ۔ تھہ منز آس کتہ کتہ
جایہ دورہ دورہ لڑائے تہ سپدان بالآخر کر اللہ تعالیٰ ان مسلمان یاری۔ ظاہر پاٹھہ سپد اکھ تیز ہوا تم
کافرن ہند خیمہ دیر تھہ دت۔ خیمس ہنزہ رزہ ژچن باطنہ پاٹھہ سوزن ملاکن ہنز لشکر تمو کافرن چھلہ
چھا نگر کر۔ تم پوش نہ ژلہ نس۔ تمو کھیو بالکل شکست۔ بتھہ جنگس چھہ ونان جنگ احزاب۔ بحیا زہ
مختلف قبیلہ آس آمت جنگ کرنہ بہ چھس ونان جنگ خندق بحیا زہ ہمشورہ حضرت سلمان فارسی
آی بجکم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفہ انداند خندق کھنہ نہ۔ امہ جنگ نصحہ فارغ
سپت سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودن ہندس قبیلہ بنی قریظس سیت جنگ کرنس کن متوجہ۔
کیازہ تمو اوس خلاف معاہدہ بنی نضیرن مدینہ شریفہ محاصرہ کرنس اندر مدد گور مت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرًا ۙ اِذْ جَاءَ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ
زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ
الظُّنُونَ ۙ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۙ
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۙ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا هَلْ

الْمَوَادُّ لَوْ رَأَيْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ كُمْ جُنُودًا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اے بالیمانوژیتس
پاؤواللہ تعالیٰ سنز سونعت یوسہ تم توہمہ عطا کر۔ یہہ ساتہ توہمہ پیٹھہ دشمن ہندواریاہ فوج آئے حملہ کرنہ
خاطرہ۔ پس سوزاسہ تمن پیٹھہ تیز واؤبیہ سہہ فوج ملاکن ہندئس نہ توہمہ بوزنہ اوس یوان وَكَانَ اللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللہ تعالیٰ اوس تہمد تم ساری تدبیر وچھان یم تہہ تمہ ساتہ کران آسوہ خندق
کھن ہیوسیہ ثابت تہ مضبوط روزن کافرن ہندہ مقابلہ خاطرہ تہ وجہتہ اوس اللہ تعالیٰ خوش گڑھان توہہ
پیٹھہ راضی سپدان تہ توہہ مدد کران یہ واقعہ سپد تمہ ساتہ اِذْ جَاءَ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ
مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ دشمن آی توہہ پیٹھہ
حملہ کرنہ توہہ پیٹھہ کن تہ یعنی میدا نکہ ہیر مہ طرفہ توہہ ہون کن تہ۔ یہہ یلہ خوفہ سبہہ تہمزہ اچھہ درہ لہ
دشمن کن بیہ آسوہ وانجہ واژمژہ ہیرن پیٹھہ بیہ آسوہ تہہ خدائس متعلق عجیب عجیب مختلف خیال کران
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اسی وقتہ آیہ آزمائش کرنہ بالیمان۔ بیہ آی تم دنہ ونہ
دنہ دناہ سیٹھہ سخت وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا
بیہ یہہ ساتہ ونہ لگ منافق۔ بیہ یمن لوکن ہندین دن منرفاق تہ شج بیاری اس اسمہ سیت ئس وعداہ
خدائس تہ تہمد بیہرن کورمت اوس سہ اوس نہ مگر دھوکہ تہ فریب وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا هَلْ
يَأْتِيكُم مَّقَامِكُمْ فَادْجِعُوا بیہ یلہ تہمزہ ای کہ منافقن ہنز جماعت ونہ لہ ای مدینہ کیولو کو توہمہ ہیوکونہ

يَنْتَرِبَ لِمَقَامِكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا
فِرَارًا ۝۱۳ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا تَمَّ سَبْلُ الْفِتْنَةِ
لَاتَوْهَا وَمَاتَلَبْتُوْا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝۱۴ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَـلَّهِ
مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدُّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝۱۵
قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا
لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۶ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِن

دشمنہ سند مقابلہ کرتے ہیں اور پھر واپس دشنہ سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر واپس
بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا بے ہیوت اک جماعت توماندہ نبی کریم ﷺ واپس
ہند اجازت مگن۔ تم اس دپان بیشک سان گرہہ غیر محفوظ حالانکہ تم غیر محفوظ آس نہ مگر تم آس
یڑھان ای یہانہ ٹکن۔ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا تَمَّ سَبْلُ الْفِتْنَةِ لَاتَوْهَا وَمَاتَلَبْتُوْا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا
ہر گاہ تم شہر س منز آتھہ شہرہ کیو طرف نوکن کا نہہ غیماہ دشمنانہ و تلھہ یہہ ہا۔ توپتہ یہہ ہاڑھانڈہ تمن نشہ
فتنہ تہ فساد اسلامس خلاف برپا کران ضرور سپدہ ہن تم گرہ بار تراوت تھہ قنفس سیت شامل توپتہ کرہ ہن
نہ تھہ منز مگر کی تار۔ یعنی گھرن منز روزہ ہن نہ زیادہ کاس وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَـلَّهِ مِنْ قَبْلُ
لَا يُولُونَ الدُّبَارَ۔ حالانکہ سمو لو کو اوس عمد گورمت امہ بروئھ خدائس سیت کہ تم آسن نہ پوت
پھیر تھہ ڈلان وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ خدائس سیت ئس عہد کر نہ آمت آسہ تمیک یہہ ضرور
بازہر س کر نہ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا تہہ فرما دیو کہ
یار رسول اللہ ہر گز دیہ نہ توہہ کا نہہ فاندہ ڈلن ہر گاہ تہہ ڈلو مر نہ نشہ یا قتلہ نشہ۔ ہر گاہ ڈلو تہہ، توتہ تلونہ
تہہ زندگی ہند فاندہ مگر کم سی کاس کیا زہ آخر ہجو مرہ ئے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِن

ارَادِكُمْ سُوءًا وَاَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَّلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ
 اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ﴿۱۷﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَّالْقَائِلِينَ
 لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۸﴾ أَشْحٰةٌ
 عَلَيْكُمْ ۖ فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدْوُرًا
 اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ
 سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ جَدًا ۗ اَشْحٰةٌ عَلٰى الْخَيْرِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا

ارَادِكُمْ سُوءًا وَاَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً فرماو پوکھ تہہ یار رسول اللہ اے لو کو تمہے اکھاہ ہیجہ توبہ بجاوت خدائس
 نغمہ ہر گاہ سہہ تہمدہ خاطرہ ہر شہہ کانہہ سختی یا تمہے اکھاہ ہیجہ تہہ سختی واند تاوتھ ہر گاہ خدا یہ سندا ارادہ آسہ
 توبہ نسبت تہہ مہربانی ہند وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا لہن نہ تم پندہ خاطرہ
 خدائس ورائے کانہہ دوستس نہ کانہہ مددگار س قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَّالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ
 هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ لچھہ توبہ منرہ تمن منافقن پور زماناں تم بین
 لوکن چھہ جہادس منز شامل سپد نہ نغمہ پتھ رٹان بیہ ہم پندہ نین بائن ونان چھہ آسہ نغمہ ابو جہادس منہ
 سپد و شامل تم چھہ تیت بزدل کہ پانہ تہ چھہ لڑایہ منز شامل سپدان مگر کی۔ تھہ منز تہ چھہ نہ آسان
 نیت صاف اَشْحٰةٌ عَلَيْكُمْ بخیل چھہ تم تہندہ حٹھہ حتمہ شمولیت اندرہ چھو جہند غرض آسان کہ
 مسلمان گوڑہ نہ پورہ حصہ مال غنیمتک ترن۔ آس تہ روز وبل برائے نام شامل بیٹھہ آس تہ پتولا کہ مال غنیمتہ
 حصک حق دارینو فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدْوُرًا اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ
 مِنَ الْمَوْتِ ادہ یلہ خوفک وقت واتان چھہ تمہ ساتہ چھو کہ تہہ وچھان تم توبہ کن ار زمان پاٹھ نظرہ
 دو ان۔ اچھہ تہنرہ چھہ نژان آسان۔ تس شخصہ سند پاٹھ لیس مر ن ژھٹھ پھیر مژ آسہ فَاِذَا ذَهَبَ
 الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ جَدًا ۗ اَشْحٰةٌ عَلٰى الْخَيْرِ ادہ یلہ خوف تہ خطرہ ژلان چھہ تمہ ساتہ چھہ تم
 توبہ تیز زیوہ سیت ایڈ او ان یعنی بچھہ تھہ ونان سیٹھاہ حریص چھہ تم مال غنیمت حاصل کرہ لیس پیٹھ

فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝۱۹ يَحْسِبُونَ
 الْأَحْزَابَ لَمْ يُدْهِبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوهُمُ وَإِنَّهُمْ
 بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أُنْبِيَائِهِمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا
 قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝۲۰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
 لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ۝۲۱ وَلَتَأْتِيَنَّ
 الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

توہم سیت چھکھہ یہ معاملہ خدا پس سیت چھہ تہند معاملہ کہ اولیک لہ یومیئوفا حبط اللہ اعمالہم
 وکان ذلک علی اللہ یسیرا یم گے تہ سموہتھنہ گوڈہ پیٹھے ایمان اومت خدا پس۔ تمہ موکھہ چھہ کر مڑہ
 اللہ تعالیٰ ان تہنزہ سارے عملہ بے کار تمن ہند ثواب تمن عنہ قسمہ آخرتس منز حاصل سپدہ۔ یہ تھہ
 چھہ اللہ تعالیٰ اس نش آسان یعنی تہنزہ عملہ بیکار کرند۔ تہنزہ ہ بزولی ہنز حالتھ چھہ اڑھہ کہ یحسبون
 الاحزاب لہم یدھبوا تمن چھہ گمانہ کہ دشمن ہنزہ لشکرہ چھہ ونہ واپس گامڑہ۔ حالانکہ تمو چھہ ہن
 محاصرہ تہ گھیرہ تھمت وان یأتی الاحزاب یوڈو والو انھم بادون فی الاعراب یسألون عن انبیائکم
 ولو کانوا فیکم ما قتلوا الا قلیلا ہر گاہہ ہ دوبارہ دشمن ہنزہ لشکرہ واپس ین تم کرن پنہ خاطرہ پسند
 کہ گان اندر روز تھ آس کران تہند حالات بین لوکن نفسہ دریافت، غالب تھہ گوو تہ مغلوب تھہ
 گووپانہ سپدہ ہن نہ جھہ کین مشکلاتن شامل ہر گاہہ بالفرض توہہ سیت جنگس شامل تہ روزن توتہ کرن نہ
 دشمن ہند مقابلہ مگر کمی۔ بل ہاونہ خاطرہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لیمن کان
 یرجو اللہ والیوم الآخر و ذکر اللہ کثیرا واقعی چھہ تہندہ خاطرہ ای مسلمانو پیغمبر خدا جنگس اندر
 ثابت قدمی خاطرہ اکھ عمدہ نموناہ اکھ۔ توہہ اندرہ تمن لوکن ہندہ خاطرہ یم امید چھہ تھوان خدا پس
 سیت ملاقات کرنچ۔ بیہ یم امید چھہ تھوان آخرتس اندرہ بڈہ ثوابچ، بیہ خدایہ سند یاد چھہ کران
 سیٹھہ زیادہ تمن لوکن یزہ کہ ریتھہ معاملس اندر حرکت و سکونس نشست و برخواس اندر ہمت و

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝^{۲۷}
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَبِمُمْ
 مِّنْ قَضَىٰ تُحِبُّهُ وَفِيهِمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۗ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا ۝^{۲۸} لِيَجْزِيَ
 اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝^{۲۹} وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمِنَ الْأَخْيَارِ ۗ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۗ

استقلال اندر کجی تم جہدی قدمہ جہدی متابعتہ وکثارا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا
 الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما بايمان كامل وجهه دشمن
 ہنزہ واریہ لشکرہ حملہ کرتھ یوان فہنہ لگیوہے چھ سہ موقعہ سمیک وعدہ اسہ تہوومت اوس خدائن
 نہ جہد پیغمبرن پوزاوس فر موومت خدائن نہ جہد پیغمبرن۔ یہ موقعہ پیش ینہ سیت ہر یونہ تم نگر تہند
 ایمان نہ تہنزہ فرمانبرداری ہند جذبہ یہ وصف اوس سارنہ با ایمان اندر مشترک بعضی اوصاف آس
 بعضی با ایمان اندر مخصوص تمن متعلق چھ فرماوان اللہ تعالیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
 مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ تَموے با ایمان اندر ہہ چھ بعضی تم سمو پورہ کورسہ وعدہ جان ثاری ہندی نیس
 تہمو کورمت اوس خدایس سیت فَبِمُمْ مِّنْ قَضَىٰ تُحِبُّهُ وَفِيهِمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۗ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا چنانچہ تہمو
 اندرہ کر ہہضو پورہ ہن ذمہ واری یعنی شہید سپد جنگ کران۔ بیہ چھ تہمو اندرہ یم تہمہ کس انتظار س
 اندر ہہ چھ کہ کروا تہ اسہ نہ امہ شہادت سعادتک موقعہ۔ تہمو کورنہ تبدیل پنہ نس معاہد س اندر اکھ ذرہ
 تہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ یہ واقعہ سپد سمہ تہمہ موکھ یتھ اللہ تعالیٰ پزیرا س پزیرج مزوردیہ
 وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ بیہ یتھ عذاب کرہ اللہ تعالیٰ تمن منافقن ہر گاہ سہ
 یزھہ نہ دیہ تمن توبہ کر ٹگ توفیق إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا پزیاٹ اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ سیٹھاہ
 مغفرت کرہون سیٹھاہ رحم کرہون تہمند تمن نشہ توبہ قبول کرن چھنہ کینہہ بعید تہ دور وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ

وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿۲۵﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ مِنْ صِيَابِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا
تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿۲۶﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ
أَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۲۷﴾
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعْكَنَّ وَأَسْرِ حُكُنَّ سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿۲۸﴾

كُفْرًا وَبِعِظَمِ أُمَّتِنَا وَآخِرًا اللهُ تعالیٰ ان کورپنہ قدرتہ سیت کافر دنع مدینہ شریفہ نشہ زکھہ ہتھ۔
تمن پیوونہ پلہ کہنی۔ تم بیمہ مقصدہ آمت آس سہ مقصد سپد کہ نہ پورہ زکھ شریکھ پنہ نین کاڈین۔
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اللهُ تعالیٰ سپد کافی اتھ جنگس اندر با ایمان تمن پیہ نہ جنگ کرج
ضرورت تھے۔ جنگ نہ کرنے زور اللہ تعالیٰ ان کافرن ہند شردنع وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اللهُ تعالیٰ چھہ
ہمیشہ سیٹھاہ قوتہ وول سیٹھاہ غالب تس نشہ جھنہ کافرن امہ طریقہ شکست دین کہنہہ عجائب تہ نوکٹھاہ
وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَابِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ
وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا بیہ سمو اہل کتابو یعنی یہود و مسومو بد عہد۔ بحر تھہ کافرن مدد دستمت اوس تم وال اللہ
تعالیٰ ان بیہ پنہ نیو قلا یو اندرہ بون۔ بمن منز تم محصور اس۔ بیہ تروون تہندین دلن اندر سخت رعب تہ
ہبت توبہ مسلمان ہند چنانچہ تمواندرہ مارووک توبہ بعضی لوکھ بعضی کرووک گرفتار وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ
وَ دِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا بیہ کردہ تہہ وارث تہ مالک اللہ تعالیٰ ان تہندین زمین ہند
تہندین گرن ہند۔ تہندین ماکن ہند بیہ تمہہ زمینک یپارنہ تہہہ پحمت تہ آسوہ زانہہ یعنی زمین خبیرک
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللهُ جُھہ ہمیشہ پرستھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ وول۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ
لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعْكَنَّ وَأَسْرِ حُكُنَّ سَرَّاحًا جَمِيلًا ای
عینمہر بر حق تہہہ فرماو ووض پنہ نین زنانن ہر گاہ تہہہ ژھانڈان جھوہ دنیاہ ج زندگی بیہ تمہہ زندگی ہند

وَأَنَّ كُنْتُمْ تَرُدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آخَرْتُمْ فَإِنَّ
 اللَّهَ آعَدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۹﴾ يٰنِسَاءَ
 النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ
 لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۴۰﴾
 وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا
 نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۴۱﴾ يٰنِسَاءَ

سازو سامان تلہ یکومہ نشہ بیوہ کرہ توہہ دنیاء ک مال و متاع عطا کر تھہ رخصت رتہ طریقہ۔ طلاق و مووہ
 تہہ یتہ نس خوش کر وہ یتہ نس گڑھتھہ کر وہ تہہ حاصل دنیاء ک سازو سامان۔ وَأَنَّ كُنْتُمْ تَرُدُّونَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آخَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ آعَدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا نئے چھوہ تہہ ژہا نڈان
 خدانہ تہہ نہ رسول یعنی یعنی موجودہ حالتی پیٹھہ کر و تہہ قناعت بیہ کرو اختیار عالم آخرت یعنی جنک
 تھو دور جہ یم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند حرم محترم آسنہ موکھ تہہ نہ خاطرہ مقرر کرنہ آمت چھہ
 نس یوسہ توہہ اندر نیکو کار آسہ تمسندہ خاطرہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تید تھو مژ بڈ مزور۔ اوتان لوس نبی کریم ﷺ
 سندہ طرفہ حکم خدا الزواج طاہراتن کن خطاب امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان تہن ازواج طاہراتن یٰنِسَاءَ
 النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
 اللَّهِ يَسِيرًا ای بڈس پیغمبرہ سنزو باژوتہ زانو یوسہ اکھاہ توہہ اندرہ کانہہ بے ہودہ کاماہ کرہ یعنی
 تہہ معاملہ کرہ یمہ سیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل تنگ تہہ پریشان گڑھن نس بیہ آخر نس اندر
 دو گن عذاب کرنہ تہہ چھہ اللہ تعالیٰ اس آسان۔ نس ہیچہ نہ تہہ نشہ کانہہ چیز پتہ رتہہ وَمَنْ يَقْنُتْ
 مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا بیہ یوسہ
 اکھاہ توہہ اندرہ فرماوان برداری کرہ خدایہ سنز بیہ تسندس پیغمبرہ سنز بیہ کرہ ژ عمل نس و مواس مزور تہہ
 دو گن بیہ چھہ آسہ تسندہ خاطرہ عزتک روزی تید تھوومت یٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اِن

النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿۳۳﴾
 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
 وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۴﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ

اتَّقِيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
 سنز و زانو ٹہہ چھو نہ عام زانو اندرہ کانہہ زنانہ ہشہ بلکہ چھہ تہمد مرتبہ سینہا تھو ہر گاہ ٹہہ پر ہیز گاری
 اختیار کرو۔ پس گروہن نہ تہمزہ وو پر مردن سیت نرم ترایہ نزاکتہ سان تھہ کرنہ۔ یلہ تھہ کرنج
 ضرورت پیہ۔ ہتھہ سہ شخص نس دلس منز پچھ خیالن ہنز بہارے آسہ توه نسبت پچھ خیالچ خواہش
 کرہ۔ بیہ آسوتھہ کران عام دستورہ مطابق۔ اشاروتہ کنائو ورائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
 تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى بیہ کروٹہہ قرار پنہ نین گرن اندر۔ بیہ مہ آسو برو ٹھم پائٹھ وو ہر مردن زینت
 ہاندہ خاطرہ شیرت پیرت گرومنزہ ہیر نیران۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ بیہ آسوسارے نمازہ برپا تھوان بیہ آسوزکوتہ او اکران۔ کیا زہ ہم دوشوے ہجہ اسلامک بد نشانہ بیہ
 کرو فرمانبرداری خدایہ سنز بیہ تہمدس پیغمبرہ سنز۔ تہمد ساری احکام آسوجانان ایم احکام بجانہ نس اندر ہجھہ
 تہمدوی فاندہ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ایم
 احکام بیان کرنہ اندرہ ہجھہ اللہ تعالیٰ سند ارادہ کینہہ تہ مگر توبہہ نفعہ گنہن ہنز کشافت دور کرن ای پیغمبرہ
 سند یو گروہ الویوبیہ چھہ سہ یرشان توبہہ پاک و پاکیزہ کرن وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
 اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ بیہ کرو یاد خدایہ سند تم آیات ایم پر نہ یوان چھہ تہمدین گرن اندر بیہ تہ عقلہ ہنزہ
 تھہ یمہ بیان کرنہ چھہ یوان یعنی احکام خداوندی۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا تہ تھوو خیال کہ

مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝
 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
 وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ
 الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِينَ
 فَرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ
 الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

پڑھا اللہ تعالیٰ چھ رازوں میں سے چھ ساری پور خبر، لہذا آگے ظاہر اباظنا تمسندین حکم ہند تعمیل کرن بیہ
 گمہ تمسند یومنون چیز و نشہ پتھ روزن إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ
 وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بیشک مسلمان
 مرد و مسلمان زنانہ ایماندار مرد بیہ ایماندار زنانہ بیہ پزار مرد و بیہ بیزارہ زنانہ بیہ صبر کردون مرد و
 صبر کردونہ زنانہ۔ بیہ خشوع و خضوع کردون مرد و بیہ خشوع و خضوع کردونہ زنانہ، بیہ خیرات و
 صدقات کردون مرد و خیرات و صدقات کردونہ زنانہ، روزہ دار روزہ دار مرد و روزہ دار، روزہ دار
 زنانہ۔ بیہ پنہ نین سترہ چین جاین راجھے کردون مرد و زنانہ، بیہ سیٹھا یاد خدا کردون مرد و سیٹھا یاد
 خدا کردونہ زنانہ، یکن سار نے ہندہ خاطرہ چھ اللہ تعالیٰ اَن یُوْمَغْفِرَ لَکُمْ بِذُنُوبِکُمْ تَارَةً مَثْرًا وَقَمَا
 كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذْ أَقْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخَبْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ بیہ چھنہ کانہ
 ایماندار مرد و سترہ کانہ ایمان دار زنانہ عجائش یمہ کتھ ہنز کہ یلہ خدائین بیہ کتھ بیغمبرن کانہ کھماہ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿۳۳﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ
عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ
مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا

جاری کور۔ اده کیاہ آسہ ہائس مردس یازنانہ اختیار تہہ خمس اندر پندہ عنہ حکمہ سیت مداخلت کرنج یعنی
برابری زانہ ہن تہہ خمس تعمیل کرنہ تہ نہ کرن - بلکہ چہہ تمن واجب تہہ خمس تعمیل کرن و من
یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا نُس اکھاہ نافرمانی کرہ خدا یہ سندس پیغمبرہ سد عنہ خمس
پز پانھ سہ پیوونہ گمر ای اندر۔ یتہ نُس چہہ لفظ مؤمن کس عمومس اندر حضرت عبداللہ بن حبش بیہ لفظ
مؤمنہ کس عمومس اندر حضرت زینب بنت حبش داخل بیہ امر ہم کس عمومس اندر حضرت زید بن
حارثہ سیت نکاح کرن داخل۔ چنانچہ یم آیہ کریمہ نازل سپندہ پتہ سپد یہ نکاح منظور وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ بیہ یادو ژ تمیس یلہ تہہ ای پیغمبر برحق بطور
مشورہ دنان آسوہ نُس شخصس بس پیٹھ اللہ تعالیٰ ان مہربانی تہ انعام کور کہ مشرف باسلام کردن یوسہ
دینی نعمت چہہ ، غلامی نشہ مولودون یوسہ دنیوی نعمت چہہ بیہ نُس پیٹھ توبہ تہ مہربانی تہ انعام کور وہ کہ
توبہ کورون سہ آزاد بیہ کروس دینج تعلیم بیہ کوروس پندہ پو پھتر ہمشیرس سیت نکاح امہ اندرہ چہہ
مراد حضرت زید بن حارثہ تہہ آسوہ تس فرماوان ای زید بن آشین (یعنی بی بی زینب) ارٹن پانس نشہ
پندہ نُس نکاحس اندر سومہ تراون نکاحہ اندرہ معمولی غلطیوسبہ۔ تمسرن غلطین گن مہ آس و چھان بیہ
کھوژ خدا یس تمسدرین حقوقن اندر مہ کمر و کوتاہی تہ کمی وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ بیہ یادو تہہ تہ
ژتیس سوکھ یوسہ تہہ آسوہ یارسل اللہ پندہ نُس پانس منز پوشیدہ تھاوان۔ تہہ آخر کار اللہ تعالیٰ نتر اوہ ون
اوس یعنی توبہ آس خاہش دل مبارکس کہ ہر گاہ حضرت زید بن حارثہ ہنوز زینبس طلاق دیہ تملیہ کرہ
بوپانہ تمن سیت نکاح وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ تہہ آسوہ نہ سہ خیال نتر اوان لوکن ہنزہ

قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا اقْتَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ
 اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۳﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ
 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿۳۴﴾
 لِلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا

طعنہ زنی سببہ۔ نہہ آسوہ لوکن ہنزہہ طعنہ زنی کھوڑان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اوس زیادہ سزاوار کہ نہہ کھوڑ
 ہوتس۔ چونکہ ہتھ معاملس اندراس فی الواقع اکھ دینی مصلحتہا۔ لہذا نہہ کرو نہہ کانہہ اندیشہ لوکن ہنزہہ
 طعنہ زنی ہند فلما قضى زيد منہا وطرًا زووجناکھا لکی لا یكون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم
 إذا اقتضوا منہن وطرًا ادیہ یلہ زید بن حارثن پور کور ہن مقصدتہ تم دیت بی بی زینبس طلاق تسمیگ
 سہ بروئٹھ پیٹھ خواہش مند اوس تو پتہ مؤکلہ یہ تہس پور عدت اسہ کور نکاح توبہہ یار رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم تس بی بی زینبس سیت یوہے گوونکاح آسمانی یٹھنہ امہ سیت آندہہ بالیمان کانہہ حرج واقع
 سپدہ پنہ نین منگن ہنز ن زنان سیت نکاح کرنس اندر یلہ تم مکتہ تہ تمن نشہ ہن مقصد پورہ آسن
 کران۔ وکان امر اللہ مفعولاً خدایہ سند حکم اوس بہر حال پورہ سپدہ ون تھہ پٹھہ پائٹھہ گڑھہ ہابدل
 ماکان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل کانہہ حرج تہ الزام اوسنہ
 تہس پیغمبر برحقس سو کام کرنس اندر یوسہ مقرر آس کر مرہ تہندہ حقہ اللہ تعالیٰ ان خدایہ سند چھہ
 یوہے دستور رودمت تمن پیغمبرن اندر یم بروئٹھ گذرے متہ چھہ۔ کہ تمن یمہ کامہ ہند حکم آو کرنہ
 سوہ کام آس تم کران کانہہ ہندہ طعنہ زنی ہند خوف کرنہ ورائے۔ ہتھہ پائٹھہ چھہ تہس پیغمبر برحقہ سند
 شان تہ وکان امر اللہ قدا مقدرًا خدایہ سندین یمن پیغمبرن ہنزہہ امہ قسچہ یم کام آس تمن سارنہ
 کابین اندر تہ اوس خدایہ سند حکم بروئٹھ پیٹھہ مقرر کرنہ امت للذین یبلغون رسالات اللہ
 یم ساری گزشتہ پیغمبر آس تہ یم زن پرورد گارہ سند احکامات آس لکن واتہ

اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
 وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَ
 سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

تاوان۔ بیہ اس عند وقتہ تبلیغ قوی خیرہ مامور سپدان۔ تمہ ساتھ آس تبلیغ قوی کران۔ یہ ساتھ تبلیغ
 فعلی خیرہ مامور سپدان آس تمہ ساتھ آس فعلی تبلیغ کران۔ پیش سے سپد لہم نبی کریم کہ بروٹھم
 اکھ بے دلیل رسما پھر اوٹھی پتہ فعلہ سیتے سہ گو کہ معہہ پنچوے سزہ زمانہ سیتے کروٹھے عملاً نکاح تمی
 سیتے پھٹہ یہ اکھ جاہلیتک بے دلیل رسما وَيَحْشُونَكَ وَلَا يُخِشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ تم پیغمبر آس
 اللہ تعالیٰ اس کھوڑان بیہ آس نہ کانہ کھوڑان اللہ تعالیٰ آس ورائے تہندہ مزید تسلی
 خاطرہ آس ونان وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ تعالیٰ ای چھہ اعمالن حساب ہینہ خاطرہ بس۔ وون کیاہ
 چھہ بیہ کانہ کھوڑان توہہ ہم لو کہ تعیل احکام خداوندی کرنس پیٹھہ طعنہ زنی کرن تمن تہ کرہ اللہ تعالیٰ
 عذابس گرفتار۔ لہذا مہ سپد وٹھہ نمگین تہ پریشان مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
 وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا حضرت محمد ﷺ چھونہ توہہ مردواندرہ کانہ اسد بابہ
 صاب۔ زید بن حارثہ سندے تھہ پاٹھے آسہ ہن پیغمبرہ سندہ روحانی مُرتی آسنہ موکھ چھہ تم توہہ سارنی
 ہندے روحانی بابہ صاب اتھہ روحانتیس منز چھہ تمن کمالک درجہ حاصل کیاہہ تم چھہ
 سارنے پیغمبرن ختم کرہ ون۔ یعنی سلسلہ نبوتس آیہ تہندہ سیتے مہر کرنہ ون یہیچہ نہ آئندہ تمن پتہ
 کانہہ پیغمبریتھہ۔ حضرت عیسیٰ یہ آخر زمانس اندر بحیثیت اکھ انبیاء، بحیثیت پیغمبر یہ نہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ
 پرستھہ چیز کہ عدم وجودچ مصلحت پورہ زانہ ون۔ یہ معاملہ کہ وجودچ تہ مصلحت آس تس خبرے تمی
 آویہ معاملہ وجودس اندر بی بی زبجہ سند نکاح سپد با حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اے باایمانو اکھ کرو خدا یہ سندین عام احساناتن ہندیادیہ بڈہ احسانچ شکر
 گذاری سہ گو ووجود مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ احسانک تہ کرو شکر ادا خدا یہ

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿۲۲﴾
 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۗ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿۲۳﴾ يَا أَيُّهَا
 النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۲۴﴾ وَذَاعِبًا إِلَى
 اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿۲۵﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّن

سند کرو بکثرت یاد تمسندین سارنے احکا من کرو تعمیل۔ وَسَيَحْوَاهُ بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا بے آسوپا کی تہمد
 کران یاد صبحس تہ شامس تہ یعنی ہمیشہ دلہ سیت تہ زیوہ سیتہ تہ بدنہ سیتہ تہ ہوا لذی یصل علیکم
 وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا سہ پروردگار چھہ بیٹھہ رحیم نس
 توہہ پیٹھہ رحمت چھہ سوزان پانہ تہ بے تہمدہ حکمہ تہمد ملایک تہ بیٹھہ توہہ امہہ رحمتہہ برکتہ کڈہ وہ
 جہالت و ضلالتہ کیونکو منزہ علم و ہدایہ کس گاش کن امہ اندرہ سپد ثابت کہ سہ پروردگار چھہ ہمیشہ ایمان
 دارن ہندہ حقہ رحمتہ و ول دنیاء س اندر۔ آخرتس اندر تہ آسہ تہمز رحمت تمن شامل۔ چنانچہ
 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ تعظیم و تکریم تہمد آسہ تہمدہ دوہہ بے دوہہ تم تس سیت ملاقات کرن۔
 سلامتی سان سلام تی گوو سلام قولاً من رب رحیم، حدیث شریفس منز چھہ کہ اللہ تعالیٰ فرماو جتین
 السلام علیکم یا اہل الجنة۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا بے ہٹھہ تے تیار تھا و مز عزیج مز، و تہمدہ خاطرہ
 جتس منز یا ایُّهَا النَّبِيُّ ای بڈہ پیغمبر تہ مہ حض سپد و دل آزرده معمولی کنیون لوگن ہند یو طعنو سیت
 اگر یمن بے و قوفن تہمد تھو دم تہہ در بیٹھہ چھنہ یوان، متہ ای تھکھ، با ایمان بےہ رحمہ تہ مہر بانہ آسہ
 عطا کرہ یمن ہند واسطہ چھوہ تہ تہمدین مخالفن بےہ سزا ونہ تہمدس بیانس پیٹھہ توہہ نش بےہ نہ تمیگ
 ثبوت مٹھہ کینہہ تہ۔ ای سیت سپد ثابت کہ تہمہ کہہ درجہ چھوہ آسہ نشہ مقبول تہ محبوب إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
 بے شک آسہ ہز سوزو تہمہ بےہ تھدہ شانک پیغمبرہ کہ تہمہ آسو قیامتک دوہ شہاداً اُمتہ خاطرہ پانہ
 سرکاری گواہ تہمدی بیانہ موجب بےہ تہمد فیصلہ کرنہ۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا تہمی چھوہ با ایمان بشارت تہ
 خوش خبری دوہون بےہ کافرن بیم کرہون وَذَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا بےہ سوزے وہ آسہ

اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿۳۷﴾ وَلَا تَطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعَاؤُهُمْ
 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۳۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
 نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِئَعُوهُنَّ
 وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿۳۹﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا

تہم لوکن نادودہ و نے معبود برحقس کن تہدی لحمہ یہ بشارت تہ بیم کرن تہ دعوت د نے چھ بواسطہ
 تبلیغ۔ مگر بذات خود چھوہ تہہ کمالات تہہ یو صفو عادات تہہ عبادات کئے از سر تا پا ہدایتک نمونہ آس
 اندر اکھ نہ نہ کرہ دن تہ پر یزلہ ون ژونگاہ لہذا ترا او تہہ ساری غم تہہ روزو مشغول پنہ کامہ سیت سوگیہ
 یہہ کہ وَبِئْسَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ونو خوشخبری ایماندارن کہ تہندہ خاطرہ چھ
 پروردگارہ سیدہ طرفہ تمن پیٹھ بوڈ فضل سپدہ ون یتھ پاٹھ روزو تہہ بیم کران کافر تہہ منافقن بڈہ
 عذابک وَلَا تَطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعَاؤُهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا بیہ مانو کافر ن
 تہ منافقن ہنزہ تھہ بیہ مگر و تہندہ تکلیف دنگ کانہہ پروا۔ ہر گاہ امیک خیال دل مبارکس منز یہ
 اعتماد کرو تہہ وقتہ معبود برحقس پیٹھ سہ رچھہ توبہہ پر یتھ ضرر ریشہ بس چھ اللہ تعالیٰ کار ساز آسہ کن
 کافی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ای با ایمانویلہ تہہ با ایمان زنان سیت نکاح کرو تو پتہ دیو تمن طلاق تھہہ
 کرنہ تہ اتھ لاگنہ یعنی تمن سیتہ ہم بستری کرنہ بروٹھہ ادہ چھنہ توبہہ کانہہ حق تمس عدتس منز
 تھاو نگ تا کہ گزراو ہو تہہ تہندہ عدتک دودہ یعنی تمن چھنہ عدتھہ۔ تمن چھنہ پیار نوی۔ تمہہ بیکن فوراً
 بیس شخصس سیت نکاح کر تھہ فَمِئَعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا پس و اتا و تمن کانہہ
 فاندہ یعنی تمن دیو کینہہ لباس پوشاک حسب حیثیت۔ کینہہ ہاہ دتھہ کرو تمن رتہ طریقہ روخصتھہ۔
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ

لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
 مِنَّا فَأَعَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَتِ عَمَّكَ وَبَنَتِ عَمَّتِكَ وَبَنَتِ
 خَالِكَ وَبَنَتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً
 مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا
 مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

اے بڑے پیغمبرہ بیشک اسے کہہ حلال ٹہندہ خاطرہ تہنزه تمہ زمانہ بیمہ ون کینس ٹہندس خدس منز حاضر
 ہجھ۔ ٹہندس عقدس تل ہجھ سکن توہمہ مہرہ دیت وہ بیمہ تمہ زمانہ یمن ٹہے مالک چھوہ سپد مت ہمملک
 یمین یعنی کینزہ بیمہ دشمن نضرہ مال غنیمتس اندر توہمہ اللہ تعالیٰ ان عطا کرہ مژہ ہجھہ وَبَنَتِ عَمَّكَ وَبَنَتِ
 عَمَّتِكَ وَبَنَتِ خَالِكَ وَبَنَتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ بیمہ تہنزه پترہ پینرہ، بیمہ پو پھترہ پینرہ، بیمہ
 ماترہ پینرہ بیمہ ماسترہ پینرہ سیمو خاندانی رشتہ دار زناؤ اندہ ہجھہ حلال توہمہ پیٹھہ تمہ زمانہ سیمو توہمہ سیت
 ہجرت کر۔ وطن پن تراوتھ آیہ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
 يَسْتَنْكِحَهَا بیمہ کراسہ ٹہندہ خاطرہ حلال سو باایمان زمانہ بیمہ پن پان پیغمبرس یعنی توہمہ مہرہ
 درائے پیش کورتہ بخش۔ ہر گاہ پیغمبرس یعنی ٹہمہ ارادہ کران چھوہ تس زمانہ سیت نکاح کرہ نگ
 خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ بیم ساری حکم ہجھہ خاص ٹہندہ خاطرہ، باایمان درائے ٹہندہ
 خاطرہ چھہ بے احکام قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ
 عَلَيْكَ حَرَجٌ تھیق اسہ چھہ معلوم تم احکام بیم اسہ فرض کرے باایمان پیٹھہ زنانن تہ کینرن ہندہ ہجھہ
 تہ گووای زہ کہ ثوروز ناؤ خون تہ زیادہ پھنہ اجازت نکاح کرہ نگ کینزہ ایشہ خوش کرہ نگ تہ تھنہ توہمہ

تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَىٰ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَايَتِ
 مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهَا
 وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
 فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ
 مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

کنہ قسمہ وقت سپدہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھہ ہمیشہ سیٹھاہ مغفرت کرہہ ون سیٹھاہ
 رحم کرہہ ون سہ چھہ پنہہ رحمتہ سیت احکامن منز مناسب سہولت فرماوان تَرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ
 وَتُؤَىٰ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ سم ازواج طاہرات توہہ نشہ موجود چھہ تمواندرہ چھہ توہہ اختیار تموز منزہ ایٹس
 کالس توہہ خوش کرہہ پانس نشہ دور تھاوان یعنی نوبت تہ وار نہ دن سو بیکیون تہہہ دور تھاو تھہ یوسہ تہہہ
 یڑھیون پانس نش تھاوان وار تہ نوبت تس عطا کرنے سو بیکیون تہہہ پانس نشہ تھاو تھہ وَمِنْ ابْتِغَايَتِ
 وَمِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ بیہ یوسہ تہہہ دوبارہ پانس نزدیک اتن یڑھیون تموز ناواندرہ تہہہ خاص مدتہ
 خاطرہ الگ آسوکھ تھاومرہہ تھہ پیٹھہ تہ چھہہ توہہہ کا نہہ گناہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهَا وَلَا يَحْزَنَ
 وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ یہ توہہہ وارہہ تہ نوبتس منز اختیار دیکن چھہ زیادہ نزدیک تہزنن اچھن
 شہجار واتنہ خاطرہہ۔ دلس سکون و قرار پادہ سپدنہ خاطرہہ بیہ سپدن نہ تمہہ غم گین بیہ سپدن تمہہ
 رضامندی ساری تمہہ سیت یہ توہہہ تمن عطا کورہہ مالہ منزہ یا آلفت، محبت مای تہ شفقتہ منزہ۔ ای
 مسلمانویم خاص احکام یوز تھہہہ تھہہہ توہہہ خیال گڑھہ کہ یم احکام کونہ سپد عام طور سارنہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللہ تعالیٰ چھہہ زنان تہ سورے یہ تہمدین دکن منز چھہہ۔ اللہ
 تعالیٰ چھہہ ہمیشہ پنہہ نین مخلوقن ہند حال پور زانہ ون سہ چھہہہ یہ اعتراض کرہہ ونین جلد گر قمار کران۔
 کیاہہ سہ چھہہہ سیٹھاہ بردبار تہہہہ تحمل کرہہ ون۔ کہہہ چھہہہ سزادوان یشکال تہہہہ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا
 أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنَهُنَّ ای پیغمبر برحق تہہہہہ خاطرہہ نہ حض چھہہہ حلال از

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 رَاقِبًا ﴿۵۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ
 إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا
 دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا اطْعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
 لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ
 وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

کہ پتہ نوہ زانہ بیہ چھنہ توہمہ جائزیمہ موجودہ سارنے زانہ یا سمو اندرہ اچہ تراونہ تہ تمن بدل بین
 زنان سینتے نکاح کرن اگرچہ تہند حُسن و صورت سپد تن توہمہ مرغوب تہ پسند **إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ**
 مگر چھہ حلال تہ جائز توہمہ کثیرہ یعنی تمہ زانہ یمن تہہ مملک یمین مالک سپدو **وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ**
شَيْءٍ رَاقِبًا اللہ تعالیٰ چھہ پریتھہ چیزچہ **حقیق** تہ **مصلح** پورنگرانی کران تہ سوروی ژرژان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**
آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْظِيرٍ ائی باایمانو! تہہ
 مہ آسواژان نبی کریم **ﷺ** سندین گرن اندر حجرات مبارکن اندر مگر تلہ بیلہ توہمہ نادییہ ونہ کینہہ غذا کھینہ
 خاطرہ۔ سہ غذا کھینہ تہ گدھہ یُن کھینہ کس و قس پیٹھہ۔ وقتہ بروٹھہ گدھہ نہ یُن تاکہ توہمہ بیہ نہ انتظار کرن
 غذا کس تیار سپد نس **وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا اطْعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ** **لِحَدِيثٍ إِنَّ**
ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ لیکن یلہ توہمہ ناداسہہ یوان ونہ کہ غذا چھہ تیار تلہ آسواژان توہ
 پتہ یلہ تہہ کھیٹھ چھیٹھ آسو موکلان توپتہ گدھہ نیرن تہہ گدھہ نہ تمن سیت یا پانہ وان تھن منز مشغول
 روزن کیا زہ تمہ سیت چھہ نبی کریم **ﷺ** تکلیف واتان تم چھہ توہمہ نشہ مند چھان۔ تم چھہ پانہ توہمہ
 فرماو تھہ ہیکان نیرنگ **وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ** مگر اللہ تعالیٰ چھہہ پرتھہ ونہ نس اندر کانہہ ہند
 لحاظ کران۔ لہذا آو توہہ واضح طور حکم کرنہ بیہ چھہ از کہ پیٹھہ حکم یوان کرنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم سند ازواج طاہرات کرن توہمہ نشہ پردہ لہذا **وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ**

فَسَلُّوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۗ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۗ
 وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ
 مِنْۢ بَعْدِهَا اَبَدًا ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝۵۳
 تَبْدًا وَّاشِيْءًا اَوْ تَخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝۵۴
 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اَبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَاؤِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ
 وَلَا اَبْنَآءَ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءَ اَخْوَانِهِنَّ وَلَا اِنْسَاءِ اِهِنَّ وَلَا

حجاب از کہ پیچہ بلہ تہہ نبی کریم ﷺ سندن ازواج مطہراتن نشہ کا نہہ چیز آسہ مگن سہ سہو تمن نشہ
 مگان پردہ نہر یعنی بے ضرورت پردس نزدیک سپدن تو پتہ تمن سیت کتھ کرنہ تہ چھ ممنوع لیکن
 سخت مجبوری تہ ضرور سچہ وقتہ چھ تھ کرنہ جائز مگر تمن مگن نظر دن چھنہ جایز ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ
 وَقُلُوْبِهِنَّ یہ چھ ہمیشہ خاطرہ تہمدین دلن تہ تہمدین دلن پیچہ خیالا تو نشہ پاک و صاف روز نکھ اکھ بوڈ
 ذریعہ۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْۢ بَعْدِهَا اَبَدًا یہ چھنہ توہہ
 جایز نہ صورتس اندر پیغمبر خدا لیس تکلیف و اتاون۔ یہ چھنہ توہہ ہرگز جائز تہمدین باژن یعنی ازواج
 طاہراتن سیت تمہ پتہ مگنہ وقتہ نکاح کرن اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا یہ چھ اللہ تعالیٰ اس نشہ
 بوڈ گوناہ۔ پتھ پاشی یہ گوناہ چھ تھہ پاتھ چھ امیک زیوہ سیتہ تذکرہ کرن یاد کس اندر امیک خیال کرن تہ
 گوناہ اِنَّ تَبْدًا وَّاشِيْءًا اَوْ تَخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا چنانچہ ہر گاہ تہہ نے راوہ کا نہہ چیز اہ یا
 کھتھ تھا و اللہ تعالیٰ چھ ہم دو شوے چیز پور زمان کیا زہہ چھہ پر ستھ چیز اہ پورہ زانہ ون۔ سہ دیہ توہہ
 ضرورتہ پتھ سزا۔ اسہ لیس یہہ پر ڈک تہ حجاب کھم بیان کور تمہ منرہ چھہ بعضے اشخاص مستحی تہ
 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اَبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَاؤِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءَ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا
 اِنْسَاءِ اِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ کا نہہ گناہ چھنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندن ازواج طاہراتن
 پنہ نین مایین یا پچوین یا باین یا باپہ تھرن، یا بینہ تھرن یا پنہ نین زنانن یعنی مسلمان زنانن یا پنہ نین

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَأَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ

غلامن تہ کنیرن نشہ بے پردہ بروٹھ گن نیس تہ تھہ کرنس اندر **وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا** ای نبی کریم ﷺ سنزوزانو مذکورہ احکامن ہندس تعلیمس اندر کھوڑو خدا لیس۔
 گنہ کھمس منز مہ کبرو خلاف ورزی۔ بے شک سہ چھہ پرتھہ چیزس پیٹھہ شاہد۔ ممکن چھہ خلاف ورزی ہندس صورتس اندر دیہ سہ توہہ سزا۔ **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** بے شک اللہ تعالیٰ بیہ تہند ملائک چھہ درود سوزان نبی کریم ﷺ پیٹھہ ای باایمانو تہہ تہ سوزو درودو سلام تمن پیٹھہ بیہ کرو سلام رز سلام یعنی وانان آسوالسلام علیک ائہا النبئی ورحمة اللہ و برکاتہ یلہ یہ آیہ کریمہ نازل سپد صحابہ صابو کور عرض نبی کریم ﷺ سندس خدس منزیا رسول اللہ خدا این ہر کور آسہ کھم توہہ پیٹھہ درودو سلام سوزنگ سلام کرن توہہ سو پٹھہ آسہ۔ وون پٹھہ ناوے تو آسہ درود تھہ پاٹھہ آسواسے پران توہہ پیٹھہ فرموو کھ تہہ آسوپران اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنک حمید مجید اللھم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنک حمید مجید اللہ تعالیٰ سند درود ہرزان گوور حمت سوزن تمن پیٹھہ یوسہ تہندس تھدس شانس مناسب آسہ ملائکن ہند درود سوزن گوو خدا لیس سو خاص رحمت سوزنہ خاطرہ دُعا کرن تھہ پاٹھہ آسہ کھم کرنہ آو تہہ خاص رحمتہ خاطرہ دُعا کرن ملائکن ہندہ مگنہ سیت بیہ سانہ یعنی باایمان ہندہ مگنہ سیت تہ دعا کرنہ سیت چھہ حضور نبی کریم ﷺ سندس مراتب عالین اندر ترقی سپدان۔ ترقی در جاتن چھنہ کانہہ حدے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمو کور عام امتین کھم بانگہ پتہ دعا سلیہ مگنہ ک حضرت فاروق اعظم فرموو کھ جس گھنہ وقتہ اُشر کنا فی الدعاء لے عمر آسہ تہ تھوے زہ شامل پنہ نین دعاءن اندر امہ ساری اندر ہ سپد ثابت ڈٹھہ کیتھ تے آسہ انسان سیٹھاہ تھو در تہہ وول تہ مگر خدا یہ سندس فضل ورحمتس گن چھہ پرتھہ وقتہ ممکن چنانچہ حدیث شریفس منز چھہ پانہ فرموو مت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانہہ دیہ نہ نجات پنکن عمل یوتان نہ رحمت خدا شامل حال

يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ
لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝ يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكْ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

آسیس عرض آکھ کرنہ توہمہ تہ دیہہ تانجات عمل یار رسول اللہ فرموو کہ میہ تہ دیہہ نہ نجات عمل یوتان نہ میرہ ہونہ میہ اللہ تعالیٰ پنہ رحمتہ سیت ولہ یعنی یوحس زیادے محتاج خدایہ سندس زیادہ رحمتس کن تہندہ خاطرہ اللہ تعالیٰ اس درود و سلام معھ نس اندر چھہ درود پرہ ونس تہ پنہ حقہ فائدے فائدہ کیا زہ رسول اللہ تعالیٰ ان چھہ فرموومت نس اکھاہ مہ پیٹھ آکھ درود پرہ اللہ سوزہ تس پیٹھ دہ رحمتہ اِنَ الَّذِیْنَ یُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِیْنًا بزنی پانکھے سم لوکھ ایذا دن خدایس بیہ تہندس پیغمبرس ناشاستہ کتھ ونہ سیت اللہ تعالیٰ کرہ تمن لعنئس گرفتار دنیا س منز تہ آخر تس منز تہ۔ بیہ چھہ تہندہ خاطرہ تم تیار تھوومت ذلیل کرہ ون عذاب وَالَّذِیْنَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اِکْتَسَبُوْا فَقَدْ اِحْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِیْنًا سیتھ پانکھ یم لوکھ ایذا دن با ایمان مردن تہ با ایمان زنانن تہندہ کانہہ جرم تہ تصور کرنہ ورائے پس بیشک تمو تل پانس پیٹھ بڑھ اپزیک تہ بڑھ گنہک بور یا ایُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِیْنَ یُدْنِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْبِهِنَّ ای پیغمبر برحق فرماو تہ پنے نین ازواج طاہراتن بیہ پنے نین صا جزا دین بیہ نین با ایمان ہنزن زنانن کہ کلہ نشہ آسن بون کن الوند تراوان پنے نیو پوژ و تہ ڈیٹو آندرہ آکھ حصہ پنے نین تھین پیٹھ ذَلِكْ اَدْنَىٰ اَنْ یُّعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ امہ طریقہ آسن تمہ جلد پر زہ ناو نہ یوان کہ یمہ چھہ شریف تہ نیک بخت زنانہ ادہ آسکھ نہ ایذا واتا ونہ یوان۔ امہ سیت آسہ سپدان فرق کنیرن تہ آزاد زنانن اندر۔ اتھ تھس ستر کرنس اندر ہر گاہ کمنہ وقتہ بلا قصد و ارادہ بے

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۵۹ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
 لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝۶۰ مَلْعُونِينَ ۝
 أَيَّمَا تَقْفُوا أَوْ قَاتِلُوا تَقْتِيلًا ۝۶۱ سُنَّةَ اللَّهِ فِي
 الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝۶۲
 يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝۶۳ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ

احتیاطی سپدہ وَاكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھ سیٹھاہ مغفرت کر وہون سیٹھاہ رحم کر وہون۔ تھہ
 بے احتیاطی تہ کرہ سہ درگذرتہ مغفرت لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
 وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ہر گاہ نے منافق بیہ تم لو کہ
 یہہدین دلن اندر شہوت پرستی ہند مرض چھ تے چھ کینرن آنان بیہ یم لو کہ شہرس منز ایزہ خبرہ
 پھیلاوان چھ پنہ نیو پیچھ کتھوتہ حرکتونشہ پتھ روزن تیلہ ہسہ راوودہ تھی اس تمن پیٹھ اکہ نتہ اکہ دوہہ
 یعنی اُس کرودہ توہہ حکم تہندہ خاطرہ شہرہ نہر کڈٹک۔ توپتہ ہمکن نہ ادہ تم توہہ نکھ تل پتھ شہرس منز
 روز تھ مگر کسے کالس مَلْعُونِينَ أَيَّمَا تَقْفُوا أَوْ قَاتِلُوا تَقْتِيلًا تمن آسہ پر پتھ طرفہ لعنت کرنہ
 یوان۔ یتہ تَسْ أَس تم لبندین تیسین تم رٹنہ بیہ مارنہ تہ ژٹنہ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ یہ
 چھ خدایہ سند دستور بروظھین مفسدہ تہ شریر لوکن پیٹھ تہ جاری کرنہ اُمت وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
 ژہ لبھ نہ خدایہ سندس دستورس تہ طریقس منز کانسہ ہندہ طرف عنہ قسمہ تغیر و تبدیل یَسْأَلُكَ
 النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ای پیغمبر برحق
 یم مکر لو کہ چھ توہہ یژٹھان قیامتک کہ سو کر آسہ تہہ فرما دیو کہ جواب کہ تمہ وینج خبر پتھنہ خدایس

وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿۶۳﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يُجَدُّونَ وَلِيًّا وَلَا
 نَصِيرًا ﴿۶۴﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ لِيَلَيْتَنَا أَطَعْنَا
 اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿۶۵﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا
 فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿۶۶﴾ رَبَّنَا إِنْتُمْ ضَعُفْتُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَمِ
 لَعْنَا كَبِيرًا ﴿۶۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذُوا
 مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿۶۸﴾


ورائے کانہہ تہ توہمے کس چیز زانراوہ کہ شاید قیامت ما آسہ تہہ کُن نظر کرتھہ پڑہ ہاتمن قیامتس کھوژن
 بیہ تمہ خاطرہ کانہہ سامانہ پادہ کرن ان الله لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا پڑپاٹھ اللہ تعالیٰ اَن چھہ
 لعنت کر مژ کافرین۔ تم چھین پنہ رحمتہ نشہ دور کر مت بیہ چھین تہندہ خاطرہ دزہ ون نار تیار تھوومت
 خَلِيدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَا يُجَدُّوْنَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا تہہ نارس منز روزن ہمیشہ نہ لہن سہہ کانہہ دوستس نہ
 کانہہ مددگارس يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ لِيَلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا بیہہ دوہہ
 کھکھرہ پکناوتھہ مَن دَر تھہ ونہ نارس منز۔ تھہ منزواتھہ آسہ تلک پیٹھ پھیر یوان دنہ تہندین تھہن۔
 دپن تمہہ ساتہ اے کاش آسہ کونہ کرے یہ فرمانبرداری خدایہ سنز بیہ کونہ کرے یہ فرماں برداری پیغمبر
 خدایہ سنز دنیا س اندر ہر گاہ آسہ کرہ ہو تہمز فرماں برداری تھہ مصیبتس گوشہ ہونہ گرفتار وَقَالُوا رَبَّنَا
 اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّونَا السَّبِيْلًا بیہ دپن اے سانہ پروردگارہ بیشک آسہ کہ فرمانبرداری پنہ نین
 زٹھین ہنز تہ بڈین ہنز تمو ڈال اَس سیزہ وتہ نشہ رَبَّنَا اِنْتُمْ ضَعُفْتُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَمِ لَعْنَا
 كَبِيْرًا اے سانہ پروردگارہ تم ن کرتہ ڈوگن عذاب بیہ کرتمن پیٹھ بڈلعنت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذُوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا اے باایمانو
 تہہ مہ آسو تم ن لوکن ہی سموا ایذا دیت اپز تو جمت لاگنہ سیت موسیٰ کلیم اللہس۔ تو پتہ کورسہ اللہ تعالیٰ
 اَن بری تہ پاک تمو تہمز وہانز نشہ پیچھ کتھونشہ اوس سہ موسیٰ کلیم اللہ خدایس نشہ عزتہ وول صاحبہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصَلِّهِ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ
حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۝ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ

تمی موكھ کر تھی اللہ تعالیٰ ان تہمز براءت ثابت اے باایمانو کھوژو اللہ تعالیٰ اس بیہ آسو نیزہ تہ ہزہ کھہ کران یُصَلِّهِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ہر گاہ تہ کروتلہ سنبھالہ تہ شیرہ اللہ تعالیٰ تہمزہ کامہ۔ تہمز کامہ کرہ قبولیتس لائق بیہ کرہ توہہ گنہن مغفرت وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بیہ نئس اکھاہ فرماں برداری کرہ خدا یہ سز تہ تہمدس پیغمبرہ سز بیشک تس بنے یہ بڈ دستگاری تہ کامیابی إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۝ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا پز پاتھ آسہ اُون احکام وشرائعن ہندامانت آسمان زمین تہ کوہن بروٹھ گن تئلہ خاطرہ۔ تمین احکام وشرائعن پیٹھ عمل کرنے خاطرہ تمو کور انکار یہ تئلہ نشہ یین احکامن پیٹھ عمل کرنے نشہ۔ بیہ کھوژو تم اتھ خبر چھامیگ انجام کیاہ سپدہ ہیکوہ اس یہ بار تئلہ کنہ نہ آسمان زمین تہ کوہ پیدہ کرنے پتہ آوانسان پیدہ کرنے اس انسانس تہ اولامانت پیش کرنے چونکہ یہ انسان اوس علم الایس اندر زمینس منز خلیفہ سپدہ ون نئس چیز بروٹھ پیٹھ مقرر کرنے آمت اوس لہذا اٹل تے یہ بارامانت ہیون ایچ ذمہ واری (آسمان بارامانت نتوانست کشید۔ قرعہ فال بنام من دیوانہ زند) بیشک یہ انسان اوس ظالم تہ جاہل (ظالم پنہ نس نفس پیٹھ یہ بارامانت تئلہ سیت اور جاہل اوس آملہ بار سیت) تو پتہ سپدہ امہ پتہ زہ حال لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ
 اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۴۱

یہ اللہ تعالیٰ عذابس گرفتار کرہ منافق مردن ۽ منافق زنانن بیہ مشرک مردن ۽ مشرک زنانن یم گئے تم لوکھ سمو احکام خداوندین ہند کانہہ پرواکورنہ امانت ضائع کثرت بیہ کرہ توجہ پتہ رحمتہ سیت اللہ تعالیٰ باایمان مردن ۽ باایمان زنانن کن یم گے تم لوکھ سمو امانتس راپجھ کر احکامن ہنز پابندی کر پتھ روز ترم جماعت یمو گوڈہ مخالفت کرہ مگر پتولا کہ سپدکھ احساس تو پتہ سپدی نادم ۽ پشیمان تم ۽ کری اللہ تعالیٰ ان شامل مومنین و مومناتن منزکیازہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔



سُورَةُ سَبْأٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ
 الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلْجُرُ فِي
 الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
 فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ② وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآتَيْنَا
 السَّاعَةَ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ
 مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ تس
 معبود برحقس تم سند ملک چھہ تہ سورے یہ آسمان منز چھہ بیہ تہ سورے یہ زمین منز چھہ چھہ
 سزاوار ساری حمد تہ ثابہ چھہ تمس سزاوار ساری حمد تہ ثا آخرتس منز تہ بیہ چھہ سے سیٹھاہ حکمت و دل۔
 تس چھہ سارچی پور خبر۔ سہ چھہ تیتھہ با خبر ذات کہ یعلم ما یلجری فی الارض وما یخرج منها وما
 ینزل من السماء وما یعرج فیہا وهو الرحیم الغفور سہ چھہ زانان تہ سورے یہ زمینس منز واتان چھہ بیہ تہ
 سورے یہ زمینہ منز کھسان چھہ۔ بیہ تہ سورے یہ آسمانہ وسان چھہ بیہ تہ سورے یہ آسمان کن کھسان چھہ سہ
 چھہ سیٹھاہ حم کروان سیٹھاہ مغفرت کرہون وقال الذین کفروا الاتیننا الساعۃ قل بلی وری لاتیئکم
 علو الغیب بیہ چھہ ونان یم کافر کہ اسہ پیٹھہ بیہ نہ قیامتھہ نہ فرما یو کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یقینا بیہ تو بہ قیامت مہ چھہ پنہ نس پروردگارہ سند قسم نس سورے غیب زانہ ون چھہ۔ لایعزب عنہ
 مثقال ذرۃ فی السموات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتب مبین پس پروردگار س

وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝۳ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝۴ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۴ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ۝۵ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۶ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبَشِّرُكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ مَشْرَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۷

نشہ پھنڈ پو شیدہ تہ کھٹھہ کانہہ چیزہ اکس ذرس برابر تہ آسمانن اندرنہ زمین اندرنہ اکہ ذرہ خوتہ لوکت کانہہ چیزہ انہ اکہ ذرہ خوتہ بوڈ کانہہ چیزہ۔ پر ہتھ چیزہ ہتھ تس نغہ لیکھتھ نہ کتاب یعنی لوح محفوظ اندر لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝۴ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۴ قیامت بیہ ضروریمہ ہتھ خاطرہ کہ بھہ اللہ تعالیٰ تمہن لوکن رٹمزور عطا کرہ سمو ایمان اون تہ رتہ عملہ کرکھ تہندی خاطرہ ہتھ بوڈ مغفرت تہ عزتک روزی تہ جنس اندر وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ۝۵ بیہ یم لوکھ دورہ دورہ تہ کوشش کران آس سانین آیاتن تہ دلیل پھڑ اونہ خاطرہ تہندی خاطرہ چھ سخت عذاب دگ تہ دودنلہ ون وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۶ بیہ چھ زانان تم لوکھ یمن علم آو عطا کرنہ (یعنی علماء اہل کتاب) تھہ کتابہ یوسہ توه پیٹھ نازل کرنہ آہی تہندس پروردگارہ سُنَد طرفہ پز کتاب بیہ یوسہ پکنوان ہتھ لوکن تس خدایہ سنزہ ونہ نس غالب ہتھ حمد پنے آمت ہتھ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبَشِّرُكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ مَشْرَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۷ بیہ

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝۸ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءُ نَحْنِفُ
 بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِم كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَٰلِكَ
 لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنبِئٍ ۝۹ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا
 يُجِبَالٌ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّعْلُ الْحَدِيدُ ۝۱۰ إِن أَعْمَلُ

چھہ ونان کا فریادہ وان ٹھٹھہ پاٹھہ اس ماہادونو توہہ سہ تخص نئس عجیب خبراہ ونان چھہ زہ یلہ توہہ میزہ
 منز پھتہ پھتہ تہ ریزہ ریزہ سپدہ توہ پتہ ایوتہہ دوبارہ بیہ نوہ زندگی منز انہ **أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ**
جِنَّةٌ کیاہ ساتہ شخص ٹھہروہ خدائس پیٹھ اپرہنہ تس چھہ مژرتہ جنون **بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ**
بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ نہ چھہ افتزانہ چھہ مژر۔ بلکہ چھہ تم لوکھ یم قیاس تہ آخر تس
 معر چھہ ہڈس عذابس تہ جہ گراہی منز گرفتار۔ **أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ**
وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءُ نَحْنِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِم كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ کیا سمو لوکو وچھنا آسانس تہ زمینس کن نئس تمن برونھ کن تہ تھروکن یعنی پریتھ طرفہ چھہ احاطہ
 کرتھ۔ ہرگاہ اس یٹھو تم نموکھ زمینس تل واتھ یا تراؤ تمن پیٹھ آسانچہ چھلہ توپتہ گالوکھ تمی سیت
 سائین آیاتن انکار کرنہ خاطرہ پزی پاٹھ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ پروردگارہ سد قدرتہ وول آسنس پیٹھ
 پریتھ رجوع بخدا کرہ وئس بندہ سدہ خاطرہ **وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا** بیہ کوراسہ عطا حضرت
 داودس پننہ طرفہ ہذ فضیلت تہ ہذ نعمت **يُجِبَالٌ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ** بیہ کورھم جانورن ٹھہ تہ اسو تمن
 سیت سیت تسبیح پران روزان چنانچہ حکم کوراسہ کوہن کہ توہ آسیوگرہ گرہ تمن سیت تسبیح پران۔
وَالنَّعْلُ الْحَدِيدُ بیہ کوراسہ ٹھہدہ خاطرہ شستر موم ہیوزم **إِن أَعْمَلُ سِبْغَتٍ وَقَدَّرْتَنِي السَّرْدُ**
 حضرت داودس کورھم ٹھہ آسوی بناوان اتھ شسترس زرباہ کشادہ کشادہ بیہ کرو پراندا زہ کرین ہندس

سَبِغَتْ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ۝۱۱ وَلَسْلَيْمَ الرِّيحِ غَدُوَهَا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا
 أَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ
 رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝۱۲
 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ
 وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ ۝۱۳ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ

ملہ نانس تہ واٹھ دس اندر وَاَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اے خاندان داؤد تمہے ساری
 دپو یمن نعمون پیٹھ حمد تہ شکر بیہ کرو تمہے رزہ عملہ پز پائٹھ بہ ہتھس تمہزن سارے کائین پیٹھ پور واقف
 وَلَسْلَيْمَ الرِّيحِ غَدُوَهَا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا بیہ کور اسہ سلیمان علیہ السلامس واو مخر - صمخس اوس
 سہ رتق و تھ طے کران شامس تہ اوس رتق و تھ طے کران۔ وَاَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ بیہ پکھ نوو اسہ
 تمہدہ خاطرہ تراک ناگ ترام اوس گاتھ نیران آبک پائٹھ پنہ کانہ منزہ تھ تمہن بانہ ٹھ تیار کرنس اندر
 سہولت سپدہ تمہ کی اس تم جہ جہ دیگہ تہ بڈ بڈ بانہ بناوان وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ بیہ
 کراسہ تمہن مخر تہ تابع جنو اندرہ تم اشخاص یم تمہن بروٹھ کنہ خدایہ سندہ حکمہ سیت کام آس کران
 وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ بیہ نُس اکھاہ تمواندرہ سانہ حکمہ نشہ روگردانی کرہ
 سہ ژہہ ناوون اس آخرتس اندر نارہ کہ عذاب مزرہ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ
 كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ تم جن آس بناوان تمہدہ خاطرہ تم تم چیز یم تم یٹھ ہن جہ جہ قالب لرہ
 ہشہ۔ بیہ کلین تہ کوہن ہنزہ شکلہ۔ بیہ بڈ بڈ ٹھل تلاو بیہ جہ جہ دیگہ۔ بیہ اکسے جایہ ٹھہرت اسہ آسان
 اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا اسہ کور حکم حضرت داودہ سندس خاندانس کہ یمن نعمون پیٹھ دپو شکر۔ شکر
 گذاری کرورث عمل کرنہ سیت وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ میانو بندواندرہ چھہ کے شکر گذاری کرہ
 وَنَ فَكُنَّا قَاضِيًا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّةٌ اَلْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتِهِ اودہ یلہ اسہ

الشُّكُورُ ﴿۱۴﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ
 إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ
 أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۵﴾
 لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ
 كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ

حضرت سلیمانہ سندھ مرنگ حکم جاری کورہ تم گئے یہ عالمہ تخلص پیٹھ بہتھ لور آسکھ تھاومر ہوئے
 تل، تھے پاٹھ کور تھند روح مبارکن پرواز اتھ حالتس اندر رودے تم آس ور یس تانے جن آسے
 وچھان تمن تخلص پیٹھ بہتھ کانہہ اوس نہ جرات ہیکان کر تھ نکھ تل تھ نظر دلس۔ منہ چیزن دیت نہ
 پتاہ تمن جن سلیمان علیہ السلامہ سندھ مرنگ مگر کھوڑہ یکم اک بس تھنہ لورہ اندر اندرے کوران تہ
 کھیوان اوس فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ اودہ یلہ
 سولور کھو کھر گیہ تہ پیہ دستھ تم تہ آئے وکرانہ یون کن اتھ تخلص پیٹھ اودہ سپد معلوم جن تھنہ یہ عالمہ
 گدھہ نگ دپنہ لگ کہ ہر گاہ بچ خبر آسہ ہاتیلہ ما آسہ بن تم ور یس ذلتہ کس عذابس منز گر قنار لَقَدْ
 كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ بے شک اُس قوم سبا خاطرہ تھندس وطنس اندر خدایہ سنز اطاعت تہ فرماں
 برداری کرنس پیٹھ بڈے بڈے نشانہ تہ دلیلہ موجود جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ تمون نشانہ اودہ اوس
 اکھ نشانہ کہ زہ باغ اسکھ سڑکہ دچھن تہ کھو فرے قطار در قطار یعنی تھندس علاقس اندر اُس عام
 شاہراہ تہ سڑکہ دچھن کھو فرہ دور تان نکھ نکھ باغات یمن منز کم کم میوہ آس بکثرت آمدنی تہ آسکھ
 کافی رونق تہ سایہ تہ اوسکھ کمال آسہ ونہ نوو تمن انبیاءن تہ ناھن ہندہ ذریعہ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
 وَاشْكُرُوا لَهُ کھیو پنے نس پروردگارہ سند عطا کورمت رزق تو پتہ کرو تھنہ شکر گذاری تہ فرماں
 برداری۔ کیا زہ دویہ تسجہ نعرہ کرہ نوہ عطا بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ اکھ کورنوہ عطا دنیاعس منزیہ
 شہر سبأس نہایت رت شہراہ چھہ آب و ہوا کہ لحاظ بیا کہ نعمت کورنوہ عطا آخرتہ کہ اعتبارہ پروردگارہ

غَفُورٌ ﴿۱۵﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ
 بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ
 قَلِيلٍ ﴿۱۶﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجِزِي إِلَّا الْكُفُورَ ﴿۱۷﴾
 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بُرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً
 وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرُ سَيْرًا لَّيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿۱۸﴾

چھ سیٹھ مغفرت کرہوں۔ ہر گاہ کئے قسمہ کو تانی بیہ لبہ تہندہ کئے تھہ کر وہ در گذر فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ تَمُوزَان
 نہ اتھہ نغمس قدر بلکہ پھیر تموسانیو حکموندہ تھہ ادہ کوراسہ تمہن پیٹھ ہن قہر نازل جاری کوراسہ تمہن
 پیٹھ بوڈیپ تہ سیلاب نُس توتان بنداوس۔ یہہ سیت تہندہ تم ساری باغات تباہ و بُر باد گئے بیہ بدلاو اسہ
 تہندین دون باغن بدل بیہ قسمک زہ باغ یمن منزیم چیز پتھ کُن رود بد مزہ میوہ دار کل۔ بیہ میوہ
 ورائے جنگلی کل۔ بیہ جنگلی بریہ کل کینہہ کے یمن منزہ مزہ تہ لطافت اُس ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا
 وَهَلْ نُجِزِي إِلَّا الْكُفُورَ یہہ سزاؤیت اسہ تمہن کُفرہ سببہ کفران نعمت کرنہ سببہ اُس چھا تھہ سزاؤوان
 کفران نعمت کرن والین ورا بیہ کانسہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بُرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً بیہ
 کز اسہ اہل سباعن منز تہ بیہ شامہ کین تمہن شہرن منز یمن منز اسہ پیداوار ج برکت کر مثر اُس واریاہ
 شہر آباد کھہ کھہ یم برب لب سڑک اُس یم سارنے پکھ و نین بوزنہ یوان اُس۔ یموسیت نہ مسافرن
 سفرس منز کئہ قسمک وحشت پیدہ سپدان اوس یہہ نس تمہن ٹھہر نچ خواہش سپدان اُس تہہ نس اُس تم
 و تھہ ٹھہر تھہ ہیگان وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ مُقَرَّر اوس کورمت اسہ اکہ خاص اندازہ موجب تموسہر
 و منزے لوگ ہندین گڑھن سَيْرًا لَّيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فر موومت اوسکھ اسہ کہ کروسیر رات
 کیت تہ ڈوبلہ تہ امن و امانس اندر چنانچہ ساری لوکھ اُس سہمنہ پیٹھ شام و اتان سموے آباد شہر و منز
 کوچ اُکس شہرس تہ کال میں شہرس منز کھیوان ساری فقیر تہ دنیا دار اُس کھین چلین پانس سیت تلنہ

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ
 أَحَادِيثَ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ
 صَبَّارٍ شَكُورٍ ۱۹ ۝ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ
 إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۲۰ ۝ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ
 إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِآلِ الْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ط وَ
 رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۲۱ ۝ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ

ورائے اُسے وہ پکان دینا داروون ہتھ منز چھنہ سانے شان بوزن یوان تم لگے دعا کرنہ فقَالُوا رَبَّنَا
 بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا کہ پروردگار ادوری تراوڑہ سائین سفرہ کین منزلن اندر۔ منزہ منزہ کرکھ بعضے
 شہر غیر آباد تا اینکه اُسے اُسے یوان سامانہ سیت تلنہ تہ حفاظتہ خاطرہ نوکر چاکر مسلح سامانہ سیت تلنہ
 وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ پس کور تمو ظلم پانے پانس بنی اسرا ایلن ہندے پاتھ لوگھ کھینہ منزہ و وگس فَجَعَلْنَاهُمْ
 أَحَادِيثَ چنانچہ تھاوہ اُسے پتھ گن تہزہ کتھہ باقی پتہ اوہ نین ہندہ خاطرہ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ بیہ کر
 اُسے تمن چھلہ چھاگر تم قبیلہ وات دور دور مختلف شہرن اندر ژلان ژلان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ
 صَبَّارٍ شَكُورٍ بے شک یہ اُسے بیان کور اتھ منز چھہ بڈ بڈ نشانہ عبرت رنہ نک پر پتھ صبر تہ شکر کرہ
 و نین ہندہ خاطرہ یعنی بالایمان تہ فرما بردارن ہندہ خاطرہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا
 فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پز پاتھ تصدیق کور ایلین تمن منز پنہ نس خیالس چنانچہ تمو کر پور بیروی تہز
 مگر روز پتھ تس بیروی کرنہ نشہ اکھ کے جماعتہاہ بالایمان ہنزیم کامل الایمان آس تم رُود بالکل محفوظ
 یم ضعیف الایمان آس تمو کرنہ اگرچہ شرک و کفر س منز تم سز بیروی مگر معاصین اندر کور کہ تم
 سندا اتباع وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِآلِ الْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ بیہ اوس نہ ابلیسہ سند تمن پیٹھ کا نہہ زور تہ جبر مگر یہ اوس اُسے نہ راوان کہ گس
 چھہ آخر تچ پڑھ تمو لو کو اندرہ بیہ گمن چھہ آخر تک شک تہ تردد و لن اندر ہتھ زن پر پتھ اکس مناسب

دُونَ اللَّهِ لَا يَسْلُكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿۲۲﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ

سزاییہ دنہ نہند پروردگار چھہ پرستہ چیزس پیٹھ نگہبان تہ راجھہ سارکوی چھہ تس پور اطلاع۔ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فرماویو کہ تہہ یار رسول اللہ فرماویو کہ تہہ یار رسول اللہ اے لو کو تہہ دیتو ناد تمین یم تہہ معبود زانان چھوہ کہ معبود برحقس ورائے معکھہ تو تہہ تمین ہن حاجات۔ معلوم سپدہ پانے تمین اتھہ کیاہ چھہ تہنر۔ حقیقی حالتھہ چھہ کہ لَا يَسْلُكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تم چھوہ نہ مالک تہہ چیزک اکس ذرس برابر تہہ آسمان اندر نہ زمین اندر وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ بیہ چھہ تمین آسمان زمین پیدہ کرنس منز خدا یس سیت کانہہ شر اکٹھاہ بیہ چھہ تمواندرہ کانہہ اکٹھاہ خداہ سند مددگار تہہ چیزس اندر وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ چھہ پاٹھہ تم پانہہ تمین نہ کانہہ کاماہ کر تھہ چھہ پاٹھہ تمین نہ خدا یس و تھہ یعنی سفارش تہ شفاعت کر تھہ کرہ ناوہ ہن کانہہ کاماہ چنانچہ یم معبودان باطل بے جان چھہ کنہہ وغیرہ ہشتہ تمین ہنز چھہ کتھہ تم کیاہ شفاعت تمین کر تھہ تمین منز چھہ صحیح قابلیتھہ تھہ پاٹھہ یم جاندار تہہ چھہ مگر اللہ تعالیٰ اس نشہ چھہ تم مقبول تہ قابل اعتبار شیطان وغیرہ ہی تم تہ کیاہ شفاعت تمین کر تھہ بلکہ یم ذی روح جاندار آتھہ مقبول تہ باعتبارہ بندہ چھہ ملایک ہی تمین مشرک خداہ سزہ کورہ و تھہ مستحق عبادت زانان چھہ تم تہ تمین نہ کانہہ شخص خدا یس نشہ سفارش تہ شفاعت کر تھہ خدا یس نشہ چھہ کانہہ ہنز سفارش تہ شفاعت کام دوان مگر تس شخصہ سندہ خاطرہ بندہ حقہ شفاعت کرہ و تس اللہ تعالیٰ شفاعت کرہ نگ اجازت دیہ دلایلو سیت چھہ ثابت کہ شفاعت کرہ و تمین ایہ شفاعت کرہ نگ اجازت دنہ گنہ گار با ایمان بندہ خاطرہ فقط کافرن تہ مشرکین بندہ خاطرہ ملایک تہ تمین نہ کانہہ اکس بلا اجازت سفارش کر تھہ تہندہ غلبہ پہنچتہ حالتھہ چھہ یہ کہ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ چنانچہ یلہ خداہ سندہ طرفہ تمین پیٹھہ کانہہ حکماہ

الْكَبِيرِ ﴿۲۳﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ
 إِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۲۴﴾ قُلْ لَا اسْتَعْلَوْنَ
 عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ
 بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۶﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ الْحَقَّتْهُمُ

جاری چھ سپدان تمن چھ نٹھ ووتھان ادہ یلہ سونٹھ تہندہ یود لو نٹھہ ژلان چھ اکھ اکس چھہ پر ژھان
 کیاہ فر موونٹھہند پروردگارن یم زیادہ مقرب چھہ آسان تم ہھکھہ دپان فلانے پوز لحم فر موو خدا این۔
 تس بروٹھہ کنہ ملائکن یٹھہ حال سپدان کیاہ عجب چھہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ واقعی سہ چھہ عالی شان
 سارنے ہندہ خوتہ بوڈ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي
 ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ٹھہہ پر ژہیو کہ یار رسول اللہ بیا کہ تھہہ یمہ سیت یمہ ہن توحیدک تحقیق سپدہ اے لو کو توہہ
 ٹھہہ چھہ رزق دوان آسان ہندہ طرفہ رود تراوتھہ زمین ہندہ طرفہ زراعت کھارتھہ چونکہ امیک
 جواب چھہ تمن نشہہ متعینے لہذا فرما یو کہ ٹھہہ اللہ تعالیٰ چھہ رزق عطا کران۔ اتھہ تھہہ چھہ تم تہ اقرار
 کران یہ تہ فرما یو کہ کہ ہتھہ مسئلہ توحیدس اندر چھہ اس یا تہہہ ضرور سیزہ و تہ پیٹھہ یا صریح گمراہی اندر یہ
 تھہہ چھہ ناممکن کہ توحیدہ و آل تہ توحیدک مٹھر کیا آسن دوشوے پزس پیٹھہ یا کیا آسن دوشوے غلطی پیٹھہ
 یہ چھہ لازمی تھہہ کہ دیو منز آسہ اکھ پزس پیٹھہ اکھ آپزس پیٹھہ۔ اکھ جماعتھہ ہدایتس پیٹھہ بیا کہ گمراہی
 پیٹھہ۔ توحیدہ جن دلیلن پیٹھہ غور کرنہ سیت چھہ ثابت سپدان کہ اہل توحیدے چھہ پزس پیٹھہ قُلْ
 لَا اسْتَعْلَوْنَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ یہ تہ فرما یو کہ ٹھہہ یار رسول اللہ کہ اگر اس خطاکار آسو
 توہہ یہ نہ پر ژھنہ سائین مجر من ہند۔ یہ یہ نہ آسہ تہ پر ژھنہ تمن کائین ہند یہ ٹھہہ کران چھوہ۔ ہتھہ
 نہ امہ سیت توہہ خیال گڑھہہ کہ پر ژھنے مایہ نہ کانسہ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ
 الْعَلِيمُ فرما یو کہ ٹھہہ یار رسول اللہ سون پروردگار کہہ قیامت دودہ آسہ دوشونے فریقن جمع تو پتہ کہ سہ
 فیصلہ آسہ منزرت فیصلہ کیاہہ سہ چھہ ژھین کرہ و ان رتہ فیصلہ سیت۔ سہ چھہ سورے زاندون۔ تس
 نٹھہ چھنہ کینہہ تہ پوشیدہ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ الْحَقَّتْهُمُ بِهِ سُرَّتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فرما یو کہ ٹھہہ

بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۵﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
 لِلنَّاسِ بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ وَيَقُولُونَ
 مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۷﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا
 تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿۲۸﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا نُو
 تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

تلازمہ تہ ہا تو کہ تم ایم تو بہ خدائیں سیت رلاو تھ تہند شریک ٹھہراوے وکھ تھے کیاہ بیجو کہ میہ تم
 ہاوتھ۔ ہرگز چھنہ تس کا نہہ شریک بلکہ واقس منز چھ سہ معبود برحق شریک آسنہ نشہ منزہ تہ پاک
 سیٹھاہ غالب تہ زبردست سیٹھاہ حمتہ وول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ بیہ سوزوہ نہ آسہ تہہ مگر پیغمبر سارنہ لوکن ہندہ خاطرہ بلکہ جنن تہ بشارت دوہ ونے
 باایمان بیم کردنہ کافرین۔ لیکن واریاہ لو کہ چھنہ پٹن نفع و نقصان زانان۔ جہالتہ سیت چھہ انکار کران
 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ ونان کافر مسلمان کہ یہ قیامت تمیک تہہ ونان
 چھوہ بیہ وعدہ کر سپدہ پورہ چھوے تہہ پوزوانان قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا
 تَسْتَقْدِمُونَ تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ تو بہ سیت میہ ڈہک وعدہ چھہ سہ چھہ ضرور یوہ ونان۔ تمہہ نشہ نہ
 ایو تہہ پتھ کڈنہ نہ ایو بروٹھہ آنہ تہندہ پر تھہندہ اندرہ چھہ ننان تو بہ چھہ تھہ انکار وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ
 نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بیہ چھہ ونان مکر کہ ہرگز انونہ اس ایمان تھہ قرآن مجیدس
 نہ تمہن کتابن بیہ آمہ بروٹھہ آسہ۔ میہ کتھہ چھہ تمن پھوران بیٹھہ دنیاہ سی اندر قیامتک دوہ گڑھہ نکھ میہ
 سارے کتھہ مشھہ وَكُلُّهُمْ لِيَوْمٍ مَّوْجُودٍ عِندَ رَبِّهِمْ ہر گاہ تہہ وچھوہ وقت میہ وقتہ ایم ظالم
 تہ نافرمان ایستادہ یں کرنہ پنہ نس پروردگارس بروٹھہ کنہ جواب دہی خاطرہ تہہ وچھوہاک ہولناک
 منظرہ اکھ یُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ اکھ آسہ بیس الزام ووان يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا الَّذِينَ

إِلْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَالْوَلَا أَنْتُمْ
لَكِنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَالَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا الْخُنُ
صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْإِيلِ وَالْهَمَارِ
إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ

اسْتَكْبَرُوا وَالْوَلَا أَنْتُمْ لَكِنَّا مُؤْمِنِينَ چنانچہ ادنیٰ درجہ لوگہ و نون یم تابع آسن اعلیٰ درجہ کین لوکن یم
متبوع آسن کہ تہندی وجہہ گئے اس برباد تہہ نے کہہ ہو اس آسہ ہو با ایمان قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
لِلَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا الْخُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ اتھ پیٹھ و نون تم سرکش
لوگہ ادنیٰ درجہ کین لوکن کیاہ آسہ رتوہ تہہ ہدایتس پیٹھ عمل کرنہ نشہ پتھ زورہ۔ یلہ سہ ہدایت وارہ کارہ
توہہ نش ووت بلکہ اسوہ تہہ پانہ نافرمان تہ مجرم کہ حق واضح سپدنہ پتہ تہ کوروہ نہ توہہ سہ قبول وون
چھوہ آسہ گن لاگان۔ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْإِيلِ وَالْهَمَارِ توپتہ و نون ادنیٰ
درجک لوگہ تمن سرکش لوکن۔ بلکہ رت اس پتھ حق قبول کرنہ نشہ تہند راتس تہ دوہس مکر تہ فریب
کرہ نون إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا یلہ تہہ لوگہ و نون آسوہ کنس خدا یس انکار کرن
بیہ تس شریک ٹھہرون۔ اتھ گفتگو اس اندر اگرچہ و نون یم اکھ اس الزام مگر پندہ جایہ زانن کہ قصور
چھہ واقعی سونے۔ گمراہ کرہ و نون دین واقعی اسی آس یس کفر و شرکک تجویز کران تم بونمہ درجے لوگہ
دین اگرچہ یم اسے آسہ غلط و تھ ہاون مگر اسہ تہ پڑہ ہاتن نفع و نقصان و چھن اس کیا زہ رود تمن تابع
سون چھہ زیادے قصور وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ مگر یہ ندامت تہ پیشمانی تھاون اکھ اس نشہ
پوشیدہ یلہ پنہ نین عملن پیٹھ عذاب و چھن وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا آسہ آسن
جہنمک ہنزہ تمن کافرن ہزن گردن منتر او مت تہند اتھ کھور آسن آسہ ہانکو سیت زور بند

كَفَرُوا هَلْ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ
 مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۳۳﴾ وَ
 قَالُوا مَنَّا كَثُرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۳۴﴾ قُلْ
 إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ
 عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَ الْأَمَنُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ

کرے مت تھے پاٹھین ژوپنیدل کر تھے جہنمیں منزدار تھے دنہ ہل مجزوں الاما کانوا یعلمون تمہن
 یہی نہ سزا نہ مگر تمہن کا میں ہند یہ تمہ کران اسی تھے ووومت او سکھ تھے لون اے پیغمبر برحق یمن
 کافرن ہند یو گراہانہ کامیو سیت تہ جاہلانہ کتھو سیت مہ سپدن تہندے دل مبارک آزردہ یہ نو کتھاہ
 کانہہ چھنہ بلکہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال متروفوا انابما ارسلتم بہ کفرون سوزنہ اسہ سئہ
 شہرس منز کانہہ نیم کرہون پیغمبراہ مگر تمہ شہرہ کیو خوشحال لو کو ڈوپ تمہن از کین کافرن ہندے
 پاٹھ اس چھہ تھہ ساری انکار کران یہ ہتھہ تہہ سوزنہ امت چھوہ وقالوا مہن اکثر اموالا و اولادا و ما
 نحن بمعذبین بیہ اس تم وان اسے چھہ تہندہ خوتہ زیادہ مالہ و آل تہ اولاد و آل۔ امہ اندرہ چھہ سپدان
 معلوم زہ خدا چھہ اسہ نشہ خوش اسے چھہ تس نش مقبول تہ قابل احترام لہذا کرہ نہ سہ اسہ ہرگز عذاب
 تہہ چھوہ اسہ ہل کھوژہ ناوان قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و لکن اکثر الناس لا یعلمون
 تہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ جواب کہ وسعت رزق چھنہ دلیل مقبول عند اللہ آج بلکہ چھہ یہ محض تہند
 یشھن بے شک میون پروردگار چھہ وسعت کران رزقس اندر یمن یشھان چھہ بیہ چھہ سئ کمی کران
 رزقس اندر یمن یشھان چھہ تمہن یہ چھنہ تہندس خوش آسس یا ناخوش آسس پیٹھہ دلیل۔ لیکن اکثر
 لو کہ چھنہ یہ تھہ زانان تمہن چھہ خیال مال تہ اولاد بکثرت آسں چھہ کینہہ شرنے وما اموالکم ولا
 اولادکم بالتی تقر بکم عندنا زلفی الامن امن وعمل صالحا فاولیک لهم جزاء الضعون بما

جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَتِ الْمُؤَنِّۙ ۝۳۷
 الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْآيَتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ
 مُحْضَرُونَ ۝۳۸ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ
 يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝۳۹ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
 ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝۴۰
 قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مَنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَتِ الْمُؤَنِّ مگر البتہ یہو ایمان اون بیہ کر کچھ رتہ عملہ پس تمنے لوکن ہندہ خاطرہ
 چھ دوگناو تھ مزور بیہ آسن تمے جنہ کین بالاخان تہ بنگلن منز آرام واطمینانہ سان بہتھ
 وَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْآيَتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ دون یم لوکھ اتھ بدل محض
 مال واولاد آسنہ سیت مغرور آسن ایمان و عمل صالح اختیار کرن نہ بلکہ آسن سائین آیتن پھڑاونہ تہ
 باطل کرنہ خاطرہ کوشش کران بہتھ آسہ یاسائین پیغمبرن عاجز کرن تم ین نار ^{بہنمکس} عذابس گرفتار
 کرنہ خاطرہ حاضر کرنہ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ تہ
 فرماو یو کہ یارسول اللہ بے شک میون پروردگارہ چھہ وسعت کران رزقس اندر یکن یشھان چھہ پنہ نیو
 بندواندرہ بیہ چھہ سنی رزقس اندر تنگی کران یکن یشھان چھہ پنہ نیو بندواندرہ لہذا چھہ خرچ نہ کرنہ
 سیت رزقس ہران خدا یہ سزمن و تن اندر خرچ کرنہ سیت چھہ رزقس کم سپدان وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
 فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بیہ یہ کینزھاتہہ خرچ کران چھوہ رژن و تن اندر تمے سندہ حکمہ
 موجب سہ چھہ تمیک بدلہ عطا کران دنیا س اندر تہ آخرتس اندر تہ بیہ چھہ سنی رزقس عطا کرہ و ن
 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ بیہ یمہ دوبہ اللہ تعالیٰ
 سارنے میدان محشرس منز جمع کرہ تو پتہ یرتھہ ملائکن کیاہ یم لوکھ آسہ تو ہی عبادت تہ بندگی کران
 قَالُوا سُبْحٰنَكَ ملائک وپن ای سانہ پروردگارہ تہ چھہ منزہ تہ پاک شریک آسنہ نشہ أَنْتَ وَلِيِّنَا

الْحِجْنَ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۳۱﴾ فَأَيُّوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ
النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِذَا شِئْنَا عَلَيْهِمُ ابْتِئْنَا
بِئْتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُ
يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفِكُ مُفْتَرِيٌّ وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۳﴾

من دُونِهِمْ ثے جھٹھ سون مولا اُسہ چھہ ثے سیت تعلق۔ یمن لوکن سیت چھہ نہ کہنہ تعلق بل
گانوا یعبدون الْحِجْنَ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ بلکہ اُس تم بندگی کران جن ہنز۔ تمواندرہ اکثر و اوس
تجے ایمان اومت فَأَيُّوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا اللہ تعالیٰ فرماوہ از چھہ توہہ اندرہ
کانہہ اختیار نہ کہنہ فائدہ و اتاؤنگ نہ کہنہ ضررتہ نقصان و اتناؤنگ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ بیہ و اوس تمن ظالم یعنی کافرن ژہ مزہ تمہ نار جہنمک تمہ
عذابک سٹھ نہہ اہو زمانان آسہہ وَإِذَا شِئْنَا عَلَيْهِمُ ابْتِئْنَا بِئْتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ
يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ بیہ یلہ تمن پیٹھ پر نہ یوان چھہ سان واضح تہ ن آیات، دپان چھہ یہ شخص
چھہ مگر اسی ہوموہنہہ۔ اسی ہوانساناہ اُس پانس پیغیر دپان چھہ یہ چھہ یژھان توہہ پتھ رشن تمن
معبودن نشہ یمن معبودن نشہ یمن ہنز پرستش ٹھندے مال بدب کران آس وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفِكُ
مُفْتَرِيٌّ بیہ اُس دپان یہ قرآن مجید چھہ ایزاہ ٹھہرونہ آمت اچ نسبت خدایس کن صحیح چھہ
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ بیہ آس ونان کافراتھہ پزس یعنی
قرآن مجیدس یلہ سہ تمن نشہ و اتان اوس یعنی پر نہ یوان اوس دپنہ اوسکھ یوان یہ یلہ ٹھہرونہ آمت
ایز چھہ ادہ کیاہہ چھہ عاقلن تہ گالین امہ سیت اثر گڑھان تمیک جواب آسے ونان یہ چھہ مگر نون جوداہ
تہ سحر اہ تی چھہ لوکن پیٹھ امیک اثر سپدان تہزہ عقلہ چھہ مغلوب سپدان وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ

وَمَا اتَيْنَهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُبَلِّغًا
 مِنْ نَذِيرٍ ۗ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ
 مَا اتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ قُلْ إِنَّمَا
 أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفِرَادَىٰ شُجْرَةٍ
 تَتَفَكَّرُونَ ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ


یَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُبَلِّغًا مِنْ نَذِيرٍ یعنی پڑھنا یا قرآن مجید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سز سیٹھاہ قدر کرن کیا زہ یہ ہندہ خاطرہ آسہ یمہ دوشوے نعمو غیر مترقبہ یمن ہنزہہ تمن کانہہ شاکھے
 آس کیا زہ آسہ اُس نہ تمن پیٹھ امہ قرآن مجیدہ بروٹھ کانہہ آسمانی کتاب نازل کر مٹیوسہ تم پر ان سے
 پرہ نادان آسہ ہن پیٹھ پاٹھ سوزنہ اسہ تمن گن توبہہ بروٹھ کانہہ بیم کرہ دن پیٹھبراہ داریاہ کالہ پیٹھ۔
 ٹہندہ خاطرہ اوس پیٹھبر یعنی تہند ذات مہارک سے بد نعمت امہ تعجب سے شوبہ ہا تمن قدر کرن مگر تمو کرنہ
 کانہہ قدرہہ بلکہ کورکھ انکار سے بخذیب۔ مگر یہ بخذیب کر تھ ہٹھنہ تمن فکرے روزن کیا زہ بخذیب
 کرہ ٹک سزا چھہ سیٹھاہ سخت وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا اتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي
 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ چنانچہ یمن بروٹھ یم کافر آس تمو سے کورپنہ نین پیٹھبرن سے تہندس وحس انکار
 حالانکہ یم کافر واتہ ہن نہ تمہ کس دہمس حصّ سے یہ آسہ تمن عطا کورمت اوس مال ودولت و اُلس سے
 طاقت تمہ پتہ سے یمہ تمو میانین پیٹھبرن انکار سے تہنز نافرمانی کرادہ چھہ ژیہ خبرے میون انکار کیتھہ اوس
 یعنی تہندہ انکار ک ٹرا کیتھہ دیت میہ تمن تیوت مال ودولت آستھہ ما اؤ تمن لحاظ کرنہ یمن از کین
 کافر ن ہٹھنہ تمیک دہیم حصہ سے یمن میک غرور سے پندار چھہ کہ یم چھہ کران سائین آیاتن سے سائین پیٹھبرن
 انکار قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفِرَادَىٰ شُجْرَةٍ تَتَفَكَّرُونَ ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ
 مِنْ جِنَّةٍ تہہ فرما دیو کھ یار رسول اللہ بہ تھسوسہ توبہہ اکے مختصر کتھہہ ونان یمہ سیت واضح سے روشن سپدہ
 توبہہ پیٹھ معاملہ کہ تہہ و تھیو محض خدایہ سندہ خاطرہ ہٹھ اندر نفسانیت یا تعصب آسہ زیززن یا الگ

بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿۳۶﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ
 فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 شَهِيدٌ ﴿۳۷﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمَ الْغُيُوبِ ﴿۳۸﴾
 قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿۳۹﴾ قُلْ إِنْ
 ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ
 إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿۴۰﴾ وَكَوْتَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَافُوا

الگ آہ آہ زون تو پتہ کر تو وارہ فکر تہ غور تہندس رفیقس ئیس گرہ گرہ تو بہہ سیت آسان چھہ یعنی میہ پانس ماچھہ نہہ قسمہ مثر عقلہ اندر کنہ قسمہ خلل نقصان نہہ کمی۔ بلکہ چھہ میہ کمال عقل عطا کر نہہ آمت
 اِنُّ هُوَ الْاِنْدِيءُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ یہ صاحب چھہ نہہ مگر تہندہ کمال شفقتہ موکھہ تو بہہ
 بیم کر ان کہ ادہ ونہ سخت عذابہ نہہ۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ یہ تہہ فرما یو کہ تہہہ یار رسول اللہ کہ یہہ تو بہہ کانہہ مزدور یاہہ، معاوضہ منگان
 چھہس دین حق وانناونہ خاطرہ سومزور نہہ معاوضہ گووہ تو ہی مہ چھہ نہہ کانہہ ضرورتہ۔ میان مزدور چھہ
 خدایہ سے مہ نہہ چھہ پر تہہہ چیزس پیٹھہ مطلع تہہ گواہ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمَ الْغُيُوبِ تہہہ
 فرما یو کہ بے شک میون پروردگار چھہہ اپزس پیٹھہ پوزدارت ودان یمہ سیت اپز گلگان چھہہ۔ نہہ چھہہ
 سورے غاب زانہ ون قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ تہہہہ فرما یو کہ کہ پوز دین حق آو
 اپز دین رود نہہ نہہ کامہ ہند معبودان باطل نہہ ہمکن گووہ کانہہ چیز اہ پادہ کہ تھہ نہہ ہمکن دبارہ کانہہ چیز اہ پادہ
 کہ تھہ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ
 یہ تہہہ فرما یو کہ تہہہہ کہ یلہ دین اسلامگ پوز آسن ثابت سپد ہر گاہ بالفرض ڈولمت آسہ ادہ تمیک نقصان
 چھہ میانسے ذاتس پیٹھہ ہر گاہ بہہ تھہہ پزس دینس پیروی کر تھہہ سیزہ وتہہہ پیٹھہ چھہس ادہ تہہہ چھہ تہہہ کی برکتہ
 یہہ کنیہہ ہاہ پروردگار میون مہ گن وحی سوزان چھہہہ پز پاٹھہ نہہ چھہہ سورے بوزہ ون سیٹھاہ نزدیک پر تھہہ

وَإِخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝۵۱ وَقَالُوا الْمَثَابَةُ إِنْ أَتَىٰ لَهُمُ
التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝۵۲ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ
وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝۵۳ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا
يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ۝۵۴

اک سند حال چھتس معلوم پر چھتس اکس دیہ سہ پنتہ عملہ موجب مزور وکو تری اذ فزعوا فلا فوت
وَإِخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ہر گاہ تہہ وچھویار رسول اللہ سہ وقت یمہ ساتہ قیامتگ دودہ کافر قیامتگ
احوال وچھتس بانبر میت آسن خوفہ سبہ آسن تمہ ساتہ اورہ یور کران ژلہ نچ آسکھ نہ کانہہ صورتھاہ
فور این تم رنہ گرفتارین کرنہ وَقَالُوا الْمَثَابَةُ إِنْ أَتَىٰ لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ تم ساتہ دین
تم کافر قیامتگ خوفناک حال وچھتس اسہ اُون ایمان دین حقس پیٹھ وون سپدن سون توبہ قبول سہ کتہ سنا
بنہ تمن ایمانس گن تمہ ساتہ اتھ زیتھر اون دورہ جایہ پیٹھ ایمان آنہ نچ جائے اُس دنیاہ کیاہ سہ اوس
دار العمل آخرت چھ دار الجزاء۔ اتہ نہ ییہ ایمان قبول کرنہ نہ ییہ کانہہ عمل قبول کرنہ نہ ییہ توبہ قبول
کرنہ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ حالانکہ بروٹھ دنیا اس اندر موقعہ وزہ کورکھ تھہ انکار وَيَقْدِفُونَ
بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ * وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ
ٹھور آو کرنہ تمن منزبہ تہزن تمن خواہشاتن منزبتھہ پاٹھ کرنہ آویوہے درتاوتھندین ہم مشربن
سیت یموتوہ بروٹھ کھر وٹک کور۔ کیاہہ تم نہ آسے ناجیران کرہ ولس بڈس شکس اندر بتلا یم تم
ترددس منزاس تراومت۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكَةِ رُسُلًا
 أُولَىٰ أَجْحَدَةٍ مِّثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعٌ يَزِيدُنِي الْخَلْقَ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ
 لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَاجْحَدَةٍ مِّثْنٰی وَثَلَاثَ وَرُبْعٌ ساری حمد و
 ثنا چھ تس معبود برحقس سزاوار ایم گوڈہ پادہ کور آسمان تہ زمین بس ملائکن چھ بناوان قاصد ایم ملک چھ
 بعضے زہر پکھ و آل بعضے ترہ ترہ پکھ و آل بعضے ژور ژور پکھ و آل ژورن پیٹھ چھنہ بس کران یزیدنی الخلق
 مایشاء بلکہ چھ ہرہ راون پیدایشہ اندریہ یژھان چھنہ بعضے ملکن چھنہ امہ خونہ زیادہ پکھ عطا کران۔
 جبریل امینس چھن عطا کرہ مرہ ژورنہ پکھ اِنّ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھ پریتھ
 چیزس پیٹھ قدرتہ دول کا نہ ہندہ مزاحمتہ ورائے مَا یَفْتَحُ اللّٰہُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا یُمْسِكُ
 فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِہ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ یوسہ رحمتہا مرہ راوان چھ اللہ تعالیٰ لوکن ہندہ خاطرہ تھ
 بیحہ نہ بندہ کر تھ کا نہہ بیٹھ سہ بند کرہ تھ بیحہ نہ پتہ یلہ تراوتھ کا نہہ۔ سنی چھ سیشہا غالب حکمتہ
 دُول یَا اَیُّہَا النَّاسُ اذْکُرُوْا نِیْعَمَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ اے لو کو یاد کرو خدا یہ سزہ تمہ بیشمار نعمہہ بیمہ توہہ تم عطا
 کرہ نوہ تمہن نعمہن ہند شکر کرواد۔ سہ شکر گوویوہے کہ شرک تراو۔ توحید کرو اختیار، چنانچہ اسہ
 کرووہے تھے باخبر دو یو بچو نعمتوسیت سؤگیہ نعمت خلق تہ نعمت رزق نعمت ایجاد تہ نعمت بقا هَلْ مِنْ خَالِقٍ
 غَیْرِ اللّٰہِ یَبْرُؤْکُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کیاہ چھا کا نہہ پادہ کرہ وناہ معبود برحقس ورائے بس توہہ رزق

بِرُزُقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنى تُؤْفَكُونَ ﴿۶﴾
 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
 الْأُمُورُ ﴿۷﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا وَلا يُغُرِّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۸﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
 عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿۹﴾ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

سوزان چھ آسانہ تہ زیمچہ طرفہ یلہ تے اتھہ تمہ دوشوے کامہ چھ لہذا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کانہہ معبودہ
 جھنہ تس وراے سئی چھ سزاوار عبادت یلہ معبودیت تسدے حق چھ فَأَنى تُؤْفَكُونَ ادہ تھہ کنہ چھوہ
 تھہ شرک کر تھہ ہوت پکانوہ یوان وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
 اے پیغمبر بحق ہر گاہ توہمہ یمہ مکہ ہک لوکھ اپن پور زانان چھ ادہ یہ کانہہ نوکٹھہ جھنہ توہہ برو تھہ یم پیغمبر
 آس تمہن تہ چھ محذیب کرنہ آمت لہذا مہ سپدو تہہ امہ سیت آزدہ دویم چھ یہ تھہ کہ سارے کامہ
 ین خدایہ سے گن واتانوہ تے نشہ پیش کرنہ سہ انزراوہ پانے یہ سوری توہہ مہ برو کانہہ غم۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يُغُرِّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ اے لو کو یہ بوز تھہ کہ خدایہ سے
 گن ین واتانوہ ساری امور متھنہ توہہ دنیا چ زنگدی ڈھو کہ دیہ تھہ منز بوڈ تھہ سپدو غافل قیامتہ نشہ بیہ
 متھنہ توہہ دھو کہ باز شیطان بچھ دھو کس منز تراوہ کہ اللہ تعالیٰ چھ غفور ترہ رحیم سہ کرہ نہ توہہ کینہہ تہ
 عذاب إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ہمزے پاٹھہ یہ شیطان (سمسز پیٹھ ذکر آبیہ) چھ تھند دشمن
 تھہ تہ زانیون سہ ہن دشمن۔ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ سہ جھنہ پنہ نس جماعتس
 ناودوان شرکس تہ ٹھرس گن مگر تھہ تم تہ سپدن جہمید اندرہ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ یم لوکھ
 کافر سپدے یمو شیطان سندس نادس اجابت کور تھندس دھو کس منز آئے تھہہ خاطرہ چھ سخت
 عذاب آخر تس اندر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ بیہ سمو شیطانہ سز مخالفت

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ وَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ
 اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ
 عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ
 الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْتَنَّهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهِ الْأَرْضَ

کرتھ ایمان اون بیه کرکھ رتھ عملہ تہندہ خاطرہ چھ گنہن بوڈ مغفرت بیه ایمان و عمل صالحس پیٹھ بڈ
 مزور۔ یلہ کافرہ سُنْد انجام عذاب شدید چھہ با ایمانہ سُنْد انجام مغفرت تہ اجر کبیر چھہ کیاہ یم زہ بیکنہ
 برابر آتھ یعنی اَمَّنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ کیاہ سہ
 شخص اُس بہن پچھ کام مزین آہیہ کرنہ تو پتہ لوگ سہ تھ پچھ کامہ رتھ نظرہ و چھنہ بیاکھ شخص چھہ پچھ
 کامہ پچھ نظری و چھان ہنہ تہ یہ چھا برابرے گوڈہ نیک شخص گوو کافر اُس شیطانہ سُنْدہ ڈالہ سبہ باطلس
 حق زانان مضر چیزس نفع دوہ و ن زانان دوم شخص گوو با ایمان اُس پیغمبرن ہنز پیروی چھہ کران،
 شیطانہ سنز مخالفت چھہ کران باطلس چھہ باطل زانان حقس چھہ حق زانان مضر چیزس چھہ مضر زانان
 مفید چیزس چھہ مفید تہ نافع زانان تم زہ چھنہ ہر گز برابر بلکہ چھہ اکھ جہنمی بیاکھ چھہ جنتی۔ پس شیطانہ
 سندس دھوکس منز اوہ و ن تہ شیطانس دشمن زانہ و نین منز چھہ ایڑ فرق لہذا چھہ اس توہہ و نان پتھنہ
 توہہ شیطان دھوکہ دیہ۔ سہ چھہ تہند بوڈ دشمن۔ ہر گاہ توہہ اتھ پیٹھ تعجب سپدہ کہ عاقل شخص تھہ
 پاٹھ زانہ پچھ کامہ رتھ کام تمیک وجہ چھہ ای زہ اللہ تعالیٰ اُس یڑھان چھہ تس چھہ گمراہ کران تسز عقل
 چھہ چھنمب گڑھان۔ اُس یڑھان چھہ تس چھہ ہدایت کران۔ تس چھہ عقل درست روزان۔ وون یلہ
 ہدایت تہ گمراہی چھہ اللہ تعالیٰ سندس یڑھ تس تان فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ اُس مہ گڑھن
 توہند بدن مبارک گلت تمس پتھ غم کیوان کیوان، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھو
 پوزانہ و ن تہ سوروی یہ تم کران چھہ سو دیہ تمس پانے سوسز ایس تمس شوبہ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ
 فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْتَنَّهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ معبود بر حق چھہ سہ

بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۹ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ وَ
الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السِّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ

قدرت و دولتِ اوست و در روز قیامت بر او سوزان چھہ، تم و او چھہ تھان اوبرن تو پتہ چھہ اس تم اوبر
پکہ تاوان کنہ مردہ تہ خشک زمین کن تو پتہ چھہ اس سہ زمین تمہ رودہ سیت زندہ تہ سر سبز کران تھہ پاٹھ
کیاہ کرو کہ آسہ لو کہ تہ قیامتک دوہ دوبارہ بیہ زندہ یلہ لو کن قیامتک دوہ دوبارہ زندہ سپدن چھہ تمن پزہ
تہ چہ ذلت و خواری نشہ بچہ نچ کاہنہ فکراہ کرن مُشرک چھہ شیطان سہہ اغوا سیت معبودانِ باطلن
زانان ذریعہ تمہ ذلت نشہ پنہ خاطرہ چنانچہ تم آس و نان ہو لاء شفعا نا عند اللہ یعنی یم معبودان
باطل چھہ آسہ سفارش کرہ و ن خدا یس نشہ دنیا کین حاجتن اندر تہ آخرتس اندر تہ تھہ متعلق چھہ اللہ
تعالیٰ فرماوان **مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا** اُس اکھاہ ژھانڈان آسہ عزت دنیا و آخرتس اندر
سہ ژھانڈان عزت خدایہ سنز فرمانبرداری کر نہ سیت تھہ حکم مانہ سیت کیاہہ سوروی عزت چھہ
بالذات خدایہ سے بین چھہ عزت بالعرض اُس چیز بالعرض آسہ سہ چھہ ہمیشہ محتاج آسان تس لیس
متصف بالذات آسہ پس چھہ ساری محتاج عزتس اندر خدا یس یا خدا یس نشہ یہ عزت حاصل کرن قولاً
تسنز اطاعت کر نہ سیت خدا یس نشہ چھہ یکے چیز پسند چنانچہ **إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ** خدایہ سی کن چھہ
واتان رُت کلام تہ رت کلمات سی تھہ تمن قبول کران۔ رتس کلامس اندر او کلمہ ء توحید یہ ساری
اوراد و اذکار۔ **وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ** بیہ چھہ رتہ عملہ تہ ہیور کھاران قبولیتہ چہ درگاہ منز سارے
عملہ چھہ قبول سپدن توحیدہ سیت **وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السِّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ** یم لو کہ اتھہ خلاف
طریق اختیار کر تھہ تہمز مخالفت چھہ کران یوسہ عین مخالفت گیہ خدایہ سنز کرنے تو پتہ چھہ بیچہ بیچہ
تدبیر کران توہہ تکلیف و اتناونہ خاطرہ۔ تھہہ خاطرہ چھہ آخرتس اندر سخت عذاب اُس تمن ذلتک
باعث بنہ تھہ معبودانِ باطل ہمکن نہ تمن عنہ قسمک عزت عطا کر تھہ بلکہ سپدن تم تمن برخلاف
وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْوَ تھہ ساری تدبیر فندہ فریب گڑھن بے کار۔ چنانچہ تی سپدہ تہ تم آس برٹھان تہ
کوشش کران اسلامکہ ختم کرہ نچ تھہ منز گے تم پانہ ختم اسلامس و ژا اللہ تعالیٰ ان روز بروز ترقی **وَاللَّهُ**

يَبُورُ ۱۰) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ
 أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ
 مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۱۱
 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَابٌ فَرَاتٌ سَابِغٌ شَرَابُهُ وَ
 هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لِحْمَاطٍ يَا وَيْلَتَى أَلَسْتُمْ تَعْرِفُونَ
 حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَيْسْتَ تَتَّبَعُونَ

خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا۔ بیہ کر وہ توہ اللہ تعالیٰ ان پادہ در ضمن پیدا ایش آدم
 علیہ السلام میوہ۔ تو پتہ کرے نوہ مستقل طور ٹوہہ پادہ آبہ قطر س منی ہندس تو پتہ کر نوہ ٹہہ جورہ
 جورہ مردتہ زنانہ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ۔ بیہ چھہ تہند علم امہ قسمہ کہ چھہہ کانہہ زنانہ
 باردار سپدان بیہ چھہہ کانہہ زنانہ پر بیان مگر سوری چھہہ سپدان اللہ تعالیٰ سہدہ علمہ موجب وَمَا
 يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ تھہہ پاٹھہ چھہہہ کانہہ ہنز عمر زیادہ کرنہ یوان نہ چھہہ کانہہ
 ہنز عمر کم کرنہ یوان مگر تہ سوری چھہہ لوح محفوظس اندر لیکھتھہ اللہ تعالیٰ ان پنہہ علم قدیمہ موجب تھہہ
 منز لیکھتھہ تھوومت إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بے شک یمہ کامہ چھہہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ سیٹھہہ آسان
 کیازہ تہوند علم چھوڑاتی، قبل از وقوع برابر تہ یکساں، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَابٌ فَرَاتٌ سَابِغٌ
 شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ وچھہ ژہ قدر تچہہ دلیلہ کہ آب چھہہ اکوی مادہ باوجود آں چھہہ تھہہ منز
 اختلاف۔ چنانچہ زہ سمندر چھہہ بوزنہ یوان ہی مگر اکہ سمندر ک آب چھہہ مؤڈر میوٹھہ تہ مزہ دار شیریں
 تہ خوشگوار تریش ہمہ راوہون چھہہ آسان تمیک ہٹہ یون والن کیازہ طبیعت چھہہ تھہہ قبول کران۔ بیاکھ
 سمندر، تمیک آب چھہہ ن ژوش تہ یوٹھہ تمیک اکھ دام تہ چھہہ ہٹہ بون وسان تمہ پتہ چھہہ تہندہ
 قدر تک بے بے نشانہ کہ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لِحْمَاطٍ يَا وَيْلَتَى أَلَسْتُمْ تَعْرِفُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا۔ سمودوشوے
 دریاوہ منزہ چھوہ تہہ گاڈہ رٹان تہ تہند تازہ ماز چھوہ ٹہہ کھیوان بیہ چھوہ دوشوے دریاوہ اندرہ گھنہ

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيرٍ ﴿۱۳﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْعَوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَاعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۗ

کڈان یعنی محنت سے لدھرتمہ کوی گہنہ چھوہ پانس پاران وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِلَ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بے چھٹ ڈہ اے مخاطب وچھان ناوہ تہ جہازہ اتھ سمندرس منزتھ پاٹھ چھہ تم آبس ژنان پکان بیتھ تہہ تمن منز سفر کرتھ ژھاندو۔ خدایہ سُنْد فضل تہ روزی سہ روزی حاصل کرتھ کرو تہنز شکر گزاری بے چھوہ تہنزہ بے قسمہ نعمہ مثلاً يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَالنَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى سہ معبود برحق چھہ راتھ ہندین اجزاءن واتہ ناوان ڈہیہ کین اجزاءن منز بے چھہ ڈہہ کین اجزاءن واتاوان راتھ ہندین اجزاءن منز بے چھہ سیت تم نفع حاصل سپدان چھہ یم ڈہہ کس تہ راتھ کس بدلنس تہ ژھوٹہ نس منز حاصل سپدان چھہ بے چھہ تم آفتاب تہ زون کامہ لاگہ مت، تمواندرہ چھہ پریتھ اکھاہ پکان وقت مُقرر رس تام یعنی قیامتس تان روزن پکان بیتھ پاٹھ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ یوہے پروردگار یم سند یہ شان چھہ کیاہ گووتہند پروردگار تہمسز ساری سلطنت چھہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيرٍ تس ورائے یم معبودان باطل چھہ یمن ہنز تہہ پرستش کران چھوہ یمن تہہ آلودوان چھوہ خدایس ورائے تم چھہ مالک خضر آنچہ ہندس دیلس یا تمہ کس منزہ مس پنس إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْعَوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَاعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ہر گاہ تہہ تمن نادوان چھوہ تم چھہ تہند نادبوزان ہر گاہ بوزہ بن تہ توتہ بیچہ بن نہ تم توبہ کا نہہ مدد کرتھ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ تہہ چھوہ تمن خدایہ سند شریک ٹھہراوان قیامتک دوہ کرن تم تہندہ شرکہ نشہ انکار وَلَا يُبَدِّلُكَ وَمِثْلَ حَبِيرٍ اللہ تعالیٰ چھہ پریتھ کہ چیزج حقیقت زانان اے

وَلَا يَنْبِئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿۱۳﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۴﴾ إِنَّ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿۱۵﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿۱۶﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِوْهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّهَا سَمُّ مُنْتَنِرٌ

مخاطب ثریہ وئی نہ اصلی حقیقتک حال کانہہ تہ واقف کارس ورائے واقف کارچھہ خدائی یوت تس چھہ سارچی پور خبر یایہا الناس انتم الفقراء الى الله واللہ هو الغنی الحمید اے لوکو تہہ چھوہ محتاج پریتھہ چیزس اندر اللہ تعالیٰ اس گن اللہ تعالیٰ چھہ پانہ بے نیاز تس چھہ نہ کانہہ حاجت مٹنہ چیزس اندر۔ تس چھہ پانس ساری صفت تہ سارے خوبہ تہند محتاج آسس گن نظر کر تھہ کر تم تہندہ فائدہ خاطرہ توحید تہ عملہ ہنز تعلیم ہر گاہ تہہ سو تعلیم مانونہ تمہ سیت واتیو پانس نقصان تہ ضرر اللہ تعالیٰ اس چھہ غنا ذاتی تہ کمال ذاتی تہ تس چھہ نہ تہنز نہ تہنز نہ عملن ہنز بالکل ضرور تھی **إِنَّ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ** ہر گاہ سہ یزہا تہندہ کفر ونا فرمانی موکھ نیہ ہا تو بہہ سارنہ یمہ عالمہ منزہ تو بہہ کرہ ہا گرفتار۔ تو پتہ آنہ ہایتھہ عالمس منز بین لوکن تہ نوین مخلوقن یم نہ تہند پاتھ کفر ونا فرمانی کرہ ہن **وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ** یہ تھہ اللہ تعالیٰ اس نشہ کیہہ مشکل اس نہ مگر سہ چھہ تو بہہ مہلت دیوان تھہ منز چھہ زائتمہ تم مصلحت دنیا س اندر چھہ تمہہ ضررک احتمال مگر قیامتک دوہ سپدہ سہ ضرر ظاہرنی الواقع **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِوْهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ** ہر گاہ کانہہ گنہن ہند بورتلہ ون ناددیہ کانہہ شخصس کہ میانہ بارہ منز نکل تہ ہناہ تم سندہ بارہ منزہ بیہ نہ ہرگز تلنہ کانہہ چیز اہادہ آسس سہ پن کانہہ رشتہ دار سہ تللیس نہ تمہ وقتہ آسہ کفر و بد عملی ہند ضرر اس پانس تلن یمن آیاتن منز چھہ مکرن ہندہ خاطرہ بیم کرہ نک تہ کھوڑہ ناو نک مضمون آمہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ تسلی دیوان سانس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد تو بہہ مہ حض سپد و غم گین بہندہ انکار

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۵۸﴾
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿۱۹﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿۲۰﴾
 وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ ﴿۲۱﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ
 إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ۗ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي
 الْقُبُورِ ﴿۳۲﴾ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۳۳﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

کرنہ سیت تمکن چھہ اکہ نتہ اکہ دوہہ ضرور امہ انکارہ سببہ ضرورتن اِنَّمَا تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ تہہ نہ حض کھوڑہ ناویوکہ نہ مگر لوکھ یم پنہ نس خدا بس وجہنہ ورائے کھوڑان آسن بیہ یم نماز گزار آسن نماز آسن پابندی سان وقتہ ادا کران وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۗ نس اکھاہ ایمان انتھہ پاک سپد شرک و معاصیٰ نشہ سہ چھہ سپدان پاک پنہ فائدہ خاطرہ نس نہ ایمان آنہ سہ تلہ تمیک نتیجہ پانے کیا زہ سارنہ چھہ بتولا کہ واتن اللہ تعالیٰ اس نغمہ متہ تلن تم پانے پنہ نین عملن ہند پھل ۷ نتیجہ ضرور وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ یمن لوکن نغمہ کیاہ توقع بیہ تھاونہ یمن ہند ادا رک چھا با ایمان ہند ادا رک یہ چھا ممکن یم تہ کیاہ کرن با ایمان ہند پاٹھ قبول یوز تھہ کیا زہ با ایمان ہنز مثال چھہ قبول حق کرہ نس اندر گاشدارہ سنز تہنز۔ مثال چھہ قبول حق نہ کرہ نس اندر اعماء س تہ نابینا سنز لہذا جہنہ برابر اون تہ گاشدار وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۗ تھہ پاٹھ با ایمان یوسہ و تھہ اختیار کر تھہ نورج کافرن یوسہ و تھہ اختیار کر تھہ تاریکی ہنز لہذا جہنہ برابر گھہ تہ گاش وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ ۗ تھہ پاٹھہ یس نتیجہ تہ شمرہ کفر س پیٹھ مرتب سپدہ ون چھہ تھج مثال چھہ متہ تاتج۔ لہذا جہنہ برابر خوشگوار شہل تہ توت تاپا جہ تاپہ ژنڈ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ بیہ جھنہ برابر زندہ تہ مردہ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ۗ پتر پاٹھ اللہ تعالیٰ چھہ بوزہ نادان نس یرھان جھہ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۗ بیہ نہ حض بتوکھنہ تہہ بوزہ ناو تھہ تم

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۲۲﴾
 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ
 أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۲۴﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
 اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا
 أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ

یہم قبرن منز مردہ چہہ کافر تہ بوزی توکھ تہن مردن ہو پتھ رود تمن ہندہ متاثر نہ سپدہ موکھ تہند غم
 کیوں تج چھند ضرورت کینہہ تہ کیا زہ ان انتہ الا نذیر یہ بیم کرن تمن چھند توبہ پندہ طرفہ بلکہ
 چھہ یہ توبہ سانہ طرفہ کیا زہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا بے شک اسی سوزوہ تہہ
 پوزدین ہیتہ بشارت فرماوہون بالیمان فرمانبردارین بیم کرہون کافرن تہ نافرمانن یہ امہ شانہ سوزن نو
 کتھاہ چھندہ وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر بلکہ کانہہ امۃ چھند گذرے مرثین منز نہ اکھ بیم کرہ وناہ
 چھہ اوستہ وان یكذبوک فقد کذب الذین من قبلہم ہر گاہ ہم کافر توبہ اپر گزراں چھہ یہ
 تہ نو کتھاہ چھندہ بیشک تمولو کو تہ چھہ اپرے گزراومت ہم یمن بروٹھ اس پندہ وقتک پیغمبر جآءتم
 رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر تمن نعرہ تہ وائے تہندے بعضے پیغمبر نہ دلیلہ ہیتہ
 بعضے پیغمبر صحیفہ ہیتہ، بعضے پیغمبر نورانی کتابہ ہیتہ تمویلہ تمہ کتابہ اپرہ زانہ تہ تمن انکار کورٹھ اخذتہ
 الذین کفروا فکیف کان نکیر تو پتہ کر میہ گرفتار تم کافر تہ چھہ ثریہ خبری میون انکار کیتھہ اوس
 یعنی تمہ انکار ک سزا کیتھہ اوس الم تران اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا
 الوانها کیاہ ثریہ وچھت ناے مخاطب بے شک اللہ تعالیٰ ان تر و آسمان کہ طرفہ رود۔ تو پتہ کڈاہ
 تمہ رودہ سیت زمینہ منزہ مختلف رنگن ہند میوہ ومن الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها
 و غرابیب سودیہ چھہ ہیتھ پاٹھ کو ہواندرہ تہ مختلف حصہ اڈے ووزل۔ تمواندرہ تہ مختلف اڈسخت سفید

الْوَانِهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ﴿۲۷﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ
 وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
 مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿۲۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿۲۹﴾
 لِيُؤْفِقَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ

تہ سخت وزل اڑے کے سفید تہ کے دوزل۔ بیہ بعضے کوہ سخت کرہن۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ
 وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ بیہ لو کو اندرہ تہ جاناد و اندرہ چار و ابو اندرہ تمن ہندے رنگ تہ
 مختلف بیہ پاٹھہ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ خدا بیس چھتھہ کھوژن ان
 تہند یو بند و اندرہ مگر تے عالم تہ زان وال تہ سمجھ دار بندہ یم دلا کل قدرت و چھتھہ تمن منز غور تہ فکر
 چھہ کران تہندین دن اندر چھہ تہنزہ عظمک علم حاصل سپدان پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ اس کھوژن چھہ
 در ذات خود ضروری کیاہ سہ چھوز بردست سہ بیجہ سورے کر تھہ بیہ چھہ غایت مقصودہ کہ اعتبارہ تہ
 ضروری کیاہ سہ چھہ پانس کھوژہ و نین بدن سینہاہ مخشہ ون پانس چھہ نس کھوژن عزتک مقتضی تہ
 غفور تیک مقتضی تہ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ بے شک یم لو کہ ہران چھہ قرآن مجید تو پتہ چھہ تمہ موجب
 عمل تہ کران بیہ چھہ خصوصیت و اہتمامہ سان پران نماز برابر و تچہ پابندی سان بیہ چھہ خرچ کران تمہ
 مالہ اندرہ بس اسی چھہ عطا اور مت کھٹ تہ نن پاٹھہ تہ۔ تہہ پاٹھہ ممکن سپد کھہ تم چھہ خدا یہ سہدہ وعدہ
 موجب امیدوار تہہ نجاست تہہ ہمیشہ دائمی نفع تہ فائدہ چھہ۔ تہہ منز نہ زانہہ تہ نقصان تہ گانہ آسہ
 کیاہ امہ سُدواء ک خریدار کانہہ مخلوقاہ چھہ بلکہ چھہ امیک خریدار پانہ خالق کردگار۔ سہ چھہ محض
 لوکن فائدہ و اتانہہ موکھ امہ معالج قدر کران لِيُؤْفِقَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ

شُكْرٌ^{۳۰} وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ^{۳۱} ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ

شُكْرٌ سے اللہ تعالیٰ تم پر موزور دینے جہنم عملن ہنزیہ دینے تمہن پنے فضلہ منزہ بیہ ہن زیادہ موزور
پز پائٹھ سہ چھ بخشن ہارتہ قدر دان جہنم عملن اندر یوسہ کیاہ آس روز مژ سو کر اللہ تعالیٰ ان پورہ
موزورہ علاوہ دیتن تمہن انعام تہ قرآن مجیدس پیٹھ عمل کرنکہ برکتہ بیوہو تمہن اجر تہ فضل تہ کیا زہ بیہ
قرآن مجید چھ تڑھ کتاباہ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ بیہ یوسہ کتاب آسہ توہہ پیٹھ نازل کر سو چھ پز کتاب یوسہ تصدیق تہ تاسید چھ
کر ان تمہن بھانن یمہ تمہہ بروٹھ چھ نازل کرنہ آٹڑھ کہ تمہ کتابہ تہ چھ خدایہ سدی طرفہ نازل آٹڑھ
کرنہ۔ اگرچہ تمہ پتہ آو تمہن کتابن تحریف کرنہ اوڈھلوانو تہ اوڈھلوانو بے شک اللہ تعالیٰ چھ پنے نین
بندن ہنز پور خبر تھاوہ ون۔ جہنم مصلحتن چھ وارہ وچھ ون۔ لہذا ایشہ کامل کتاب نازل کرن آس
تسز مصلحت منگان۔ کامل کتابہ ہند پورہ عامل تہ چھ کامل موزورہ ہند مستحق بلکہ اجر تہ تہ فضل تہ چھ
گن نظر کر تھہ کر آسہ بیہ کتاب توہہ پیٹھ نازل یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ
اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا توپتہ واتاوا آسہ بیہ کتاب تمہن لوکن ہندس اٹھس اندر یم آسہ پنے نیو ساروے
بندواندرہ باعتبار ایمان ہند کرے۔ آسہ اندرہ چھ مراد اہل اسلام تم آسہ ایمانکہ حیثیتہ تمام دنیا کیو لوکو
اندرہ خدایس نعمہ مقبول چھہ اگرچہ تمواندرہ آس پیٹھ عملہ سببہ بعضے لوکھ قابل ملامت تہ مطلب چھہ
کہ سو کتاب واتاوا آسہ مسلمان ہندس اٹھس اندر توپتہ چھہ تمہن مسلمان اندر برگزیدہ تہ پسندیدہ
آسہ باوجود تریہ قسم فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ تمواندرہ بعضے چھہ کاہنہ گناہ کرنہ سببہ پنے نین پانن پیٹھ ظلم کرہ ون۔ بعضے چھہ

هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۳۳﴾ جُنْتُ عَدْنٍ يَدُّ خُلُونَهَا يُحَلَوْنَ
 فِيهَا مِنْ آسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤٌ أَوْلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۳۴﴾
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا
 لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۵﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ
 لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ ﴿۳۶﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ

گناہ کران نہ چھ رٹن عملن اندر ضرور یا تو نغمہ تجاوز کران بلکہ چھ متوسط در جس اندر روزان بعضے چھ نیکی بہتہ برو نغمہ گنہہ ون خدایہ سندرہ توفیقہ سیت گنہو نشہ پتہ روزان۔ فرایضو علاوہ چھ نوافل تہ ادا کران۔ غرض یہ کتاب واتا واسہ یمن تریثونی قسمن ہندین اتھن اندر۔ یہ کامل کتاب یمن تریثونی قسمن عطا کرنہ ذلک ہُو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یو ہے گو خدایہ سند بوڈ فضل۔ امہ پتہ چھ امہ اجر و فضلک تفصیل جُنْتُ عَدْنٍ يَدُّ خُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ آسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤٌ أَوْلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ سو بڈ مزور گیہ ہمیشہ روزنک باغ تمنی منزواتن تم تریثونی قسمن ہندے لوکھ تہہ تیجک گہنہ لاگنہ سونہ سندرے کمرے بیہ موختہ۔ بیہ آسہ پو شاک تہند جس اندر پوٹ توت و اتھہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ توت اثر تھ دین تم جتنی کچھ بود محمد یوین تس معبود بر حقس یم دور کر اسہ نغمہ ہمیشہ خاطرہ ساری غم ان رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ پڑے پاٹھ سون پروردگار چھہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ قدر دان الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ یم پروردگارن بساواسہ ہمیشہ ٹھہرنچہ جایہ پنہ فضلہ سیت بیتہ نہ اسہ واتہ آسندہ کانہہ مشقتانہ واتہ اسہ پتہ کانہہ تکلیفانہ تھگناہ یہ اوس قرآن مجیدس پیٹھہ عمل کرہ ونین ہند حال وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وون سمو لوکو بمن برخلاف ٹھہر کور تہندہ خاطرہ چھہ نار جہنم تمن پیٹھہ نہ بیہ موتک حکم کرنہ زانہہ تا اینکہ تی مر نہ سیت

عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿۳۶﴾ وَهُمْ
يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ
الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن
تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿۳۷﴾
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ نُذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿۳۸﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْفًا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ

کیاہ مٹوکلہ ہن امہ عذابہ نشہ نہ بیچھ جہنمہ کس عذابس اندر تخفیف نہ کمی کرنہ کذالک نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ
کفُورِ ہتھ پاٹھ کیاہ چھ اسے سزاوان پرہتھ کافرس وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا تم لوکھ آسن جہنمس
منزکزیکہ ووان نہ ووان رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ اے سانہ پروردگارہ
اسہ کڈیمہ جہنمہ اندرہ اس کرہ ہوون سیٹھاہ رزہ عملہ تمسن عملن بدل یمہ اس کران آس اَوَلَمْ
نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اللہ تعالیٰ فرما دیو کھ کیاہ اسہ کرے یہ ناتوبہ سوعمر
عطاہتھ منز نصیحت رٹہ ہا پس نصیحت رٹن آسہا صرف آہ نہ توبہ ہہ عمرے یاژ عطا کرنہ بلکہ تمہ علاوہ
آوتوہ ہہ نشہ سانہ طرفہ بیم گرہ ون تہ یعنی پیغمبر۔ مگر توبہہ بوزوہ نہ کیہنہ تہ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
نَّصِيرٍ وون ژہ بو پختہ نافرمانی ہند مزہ۔ تھین ظالمن ہچھنہ بیتہ کانہہ مددگارہ اسے کرووہ نہ مدد کیاہ اس
چھ توبہہ نشہ بے زار اسہ وراے تہ کرہ نہ توبہہ کانہہ مدد۔ کیاہہ تمسن ہچھنہ مدد کرہ نس پیٹھ قدر تھے
راضی آس تن یا متہ آس تن إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ نُذَاتِ الصُّدُورِ بے
شک اللہ تعالیٰ ای ہچھ زانہ ون آسانن تہ زمین ہندے پوشیدہ چیز سکی ہچھ پور زانہ ون وکن ہنزہ
سارے تھہ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْفًا فِي الْأَرْضِ سکی گو سہ پروردگار۔ تم تہہ زمینس پیٹھ آباد کروہ
بساوے وہ یمن دلین تہ نعمشن کن نظر کرتھ پزہ ہا توبہہ تس شکر و شادمان۔ مگر تھہ بدل چھ بعضے توبہہ
اندرہ کُفْر و انکارس پیٹھ ڈاڈ کرتھ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا

فَعَلِيهِ كُفْرًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا
 مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿۱۰﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
 شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا
 مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا
 فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا الْأَعْرُورًا ﴿۱۱﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

مَقْتًا پس نُس اکھاہ کُفر کرہ تمسندہ کُفر ک دو بال چھ تس پانس۔ بیس کانہہ کیاہ بیکن تم بگار تھہ تہ نقصان کر تھہ کافرن ہرہ راونہ کُفر کرن خدا بیس نشہ کینہہ تہ بیزاری ورائے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا بیہ ہرہ راونہ نہ کافرن کُفر تہند آخر نُس اندر کینہہ تہ تاوانہ نقصانہ ورائے نہ گو وجنتہ نشہ محروم سیدن جہنمک عندہ ہُن قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یمن لوکن یم کفرو شرگس پیٹھہ اصرار کر تھہ چھ فرماو تہہہ یار رسول اللہ اے مُشرک۔ میہ ون تو تہہ تمن شرکیں ہند حال یمن تہہہ معبود برحق ورائے پر سزہ کران چھوہ۔ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ میہ ہا تو تموگس حصہ ہچھہ زینک پادہ کور مُت کینہہ کاہنہہ شر اکٹھاہ چھہ تمن آسمان ہندس پادہ کرہ نُس اندر تاکہہ عنہ عقلی دلیلہہ سیت سپدہ ہاتہند عبادتس مستحق آسن ثابت اَم آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ کینہہ اسہہ ہچھہ دژ مشرکین ہنن کاہنہہ کتاباہ ہچھہ منز شرکہہ درست آسنک تذکرہ چھہ سیمہ چہ کیند دلیلہہ پیٹھہ تم قائم ہچھہ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْأَعْرُورًا بلکہ چھہنہ یم ظالم اڈے اڈین وعدہ کران مگر محض دھوکہ تہ فریبک کہ تہند یو بڈیو ہچھہ تمن بے دلیل اکھ کتھاہ ون مشرکہ یم معبودان باطل کرن تمن خدا بیس نشہ سفارش حالانکہ تم معبود چھہ بے اختیار محض۔ لہذا کتھہ پاٹھہ بیکن تم مستحق عبادت آسٹھہ البتہ مختار مطلق ہچھہ ذات باری تعالیٰ نسی چھہ سزاوار عبادت۔ چنانچہ پروردگارہ سندہ مختار آسٹھہ تمن ورائے یم چھہ تہندہ بے اختیار آپخو دلیلو منزہ ہچھہ اکھ مختصر کتھہ بیان

أَنْ تَرْوُلَاهُ وَلَكِنَّ زَالَتَانِ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ
 بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۳۱﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
 أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى
 الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ قَاذَاهُمْ الْأَنْفُورًا ﴿۳۲﴾ اِسْتَكْبَارًا
 فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا


یوان کرنے کہ ٹہہرہ وچھتو اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَرْوُلَا یعنی تھہ چھ کہ اللہ تعالیٰ چھ
 آسمان تہ زمینس پنہ قدرتہ سیت تھہہ کر تھہ۔ تھہہ تم موجودہ حالت تراون وَلَكِنَّ زَالَتَانِ
 اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بیہ ہر گاہ تم موجودہ حالت تراون تہ تمن
 بیجیا کا نہہ اکھاہ تھہہ کر تھہ تہ بیہ پنہ نس حالس پیٹھ قائم تھاوتھہہ تہس ورائے یلہ نہ عاج حفاظت کانہہ
 ہندگن بیجہ سپد تھہ پادہ کرہ بچ چھنہ کتھہ تہ حاجت روائی ہنز چھنہ دلیلہ ہذا تھہ گن نظر کر تھہہ یں تم زانہ
 مستحق عبادت و نہ شرک باطل آسہہ باوجود لاشریکس شریک ٹھہراون یہ اوس منگان مشرکن
 گوشہ فوراً سزا دینے۔ مگر چونکہ سہ چھہ سیٹھاہ حلیم تمہ موکھ چھہ سہ تمن مہلت دوان کیا زہ کانہہ
 مایہہ تمواندرہ سیزہ وتہ گن بیہ چھہ سہ غفور سہ کرہہ بروٹھہن سارنہ گنہن مغفرت وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
 اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ بیہ اس کافر قریشواندرہ قبل از
 بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوردار قسم ہاوان کہ ہر گاہ تمن نشہ واتہ کانہہ بیم کرہون پیغمبر اہ
 بیشک تلہ آسن تہے یعنی اسی پر تھہ امتہ اندرہ زیادہ ہدایت قبول کرہونے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ قَا
 زَاهُمْ الْأَنْفُورًا * اِسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ ادہ یلہ دوت تمن نش بیم کرہون پیغمبر یعنی حضرت
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھہدس نفر تس سپد ہریر کیا زہ تم آسے پانس بوزانان نفر تہ سے پیٹھ
 آسنہ اکتفا کران بلکہ آسے تمن تکلیف تہ ایذاواتہ ناوان تہ تمہ خاطرہ بچھہ بچھہ تدبیر کران یم لوکھ یم
 یم تدبیر آس سانس پیغمبرس ایذاواتا ونہ خاطرہ کران تمن ہند ضرر اوسکھہ پانس پنان کیا زہ

بِأَهْلِهِ ۖ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۗ فَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿۳۳﴾
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿۳۴﴾ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا

وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ تکیف رسائی خاطرہ پیچھ تدبیر کرن چھنہ ولن
یوان مگر تم نے ایم سو تدبیر کروون آسن فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ کیاہ ہم کافر چھاپنہ حقہ تھہ
چیزس پیاران ئس چیز برو نھین کافرن ہندہ حقہ آواستعمال کرنہ یعنی تھہ پاٹھ تم گانہ آئے تھہ پاٹھ
گوشن ہم تہ گانہ ین فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تی ہنہ ضرور
کیازہ توبہ لبونہ خدایہ سندس طریقس منز کانہہ تبدیلیاہ بیہ لبونہ تہہ خدایہ سندس اتھہ دستورس منز
کانہہ تغیراہ تہ تبدیلاہ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً کیاہ تم چھناہ پھیران ملکس منز۔ ئس وچھہ ہن کیاہ چھہ انجام سدمت تم
لوکن ہند ہم تمک برو نھہ آس۔ ہم آسے بہندہ خوتہ زیادہ قوتہ کن باوجود آس آئے گانہ تہ ختم کرنہ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ اللَّهُ تعالیٰ چھنہ تھہ تہس کیاہیچہ عاجز کر تھہ کانہہ چیزاہ فی
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آسمان اندر یازمین اندر کیازہ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا بے شک سہ چھہ
سورے زانہ ون سارے پیٹھ قدرتہ دول۔ علمہ سیت چھہ سہ پن پر تھہ ارادہ نافذ کران۔ دو ہم چھنہ
کانہہ اکھاہ تھہ۔ لہذاہیچہ نہس کہنہ اکھاہ مغلوب کر تھہ۔ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ
عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَاتِ بَرٍّ وَالْحَيُّ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ہر گاہہ اللہ تعالیٰ یمن لوکن گھرہ

كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِا مِنْ دَابَّةٍ وَّالَكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيْرًا ﴿۳۵﴾

چن کابن پيٺه ره باگر فگار کره باتله چهره بانه ز مينس پيٺه کانه حرکت ته صرصر کره ونس جاندارس
کيازه نافرمان گيو و پوزے فرمانبردار ته يهن يمه دنيا منزه بيس عالمس منز و اتاونه حيوانات ته يهن ختم
کر نه کيازه تم ساری چه انسان هندی خاطره هته دنيا وس منز۔ لیکن سه چه لوکن مهلت دوان اکس
مقرر کر نه آمتیس وقتس تان **فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيْرًا** اده يله تم ن پهن مقرر
کر نه آمت وقت واته، پس چه الله تعالی پنه نین بدن هند سوری حال پور و چه ون۔ تمس چه ساری
بنده نظری۔ پس تم به کورمت آسه تم ن دیه سه پانه تمج مزدور رته کامه ر ژ مزدور بچه کامه بچه مزدور۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 یس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ۲ إِنَّکَ لَیْمَنَ الْمُرْسَلِینَ ۳ عَلٰی صِرَاطٍ
 مُسْتَقِیمٍ ۴ تَنْزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ ۵ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ
 آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۶ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ
 لَا یُؤْمِنُونَ ۷ إِنَّا جَعَلْنَا فِیْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَافًا هِیَ إِلَى
 الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۸ وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیْهِمْ

یسیم چھ حروف مقطعات اُندرہ زہ حرف۔ امیک معنی زانہ پانہ پروردگار وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ قسم
 چھ مضبوط و محکم با حکمت قرآن مجید کہ إِنَّکَ لَیْمَنَ الْمُرْسَلِینَ بے شک چھوہ نہ اے محمد پیغمبر و
 اُندرہ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ سیزہ و تہ پیٹھ۔ کس تہنز پیروی تہ متابعت کرہ سہ و اتہ خدایس نش۔
 تَنْزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ نازل چھ یہ قرآن مجید کورمت تے خدایس کس سیٹھاہ غالب چھ کس سیٹھاہ
 رحمتہ و ول چھ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تہ اوہ پیغمبر سوزنہ یتھ تہ یم کرو
 خدایہ سندہ عذابہ نشہ گوڈہ تھ قومس یمن ہندین مالین بذین اوس نہ امہ عذابک یم امت کرنہ
 تمی چھ تہ دین حقہ نشہ بے خبر لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ بے شک تمو
 اُندرہ چھ اکثرن پیٹھ از لکہ تقدیر چ تھ برابر آثر تہ موکھ آن نہ تم ایمان إِنَّا جَعَلْنَا فِیْ أَعْنَاقِهِمْ
 أَغْلَافًا هِیَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ تہنز مثال چھ زن اسہ چھ تراومت تہنز ان گردن منز
 غول تم غول چھکھ ہو گنگین تان۔ یمہ سبہ تم کلمہ ہیورگن تھا و تھ و تھ چھکھ نہ بوزنے یوان تہندہ
 ایمانہ دُور آنچ چھ بیاکھ مثال۔ وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیْهِمْ سَدًّا وَأَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشٰیٰهُمْ فَهُمْ

سَدَّ اَوْ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغَشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ④
 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑤
 اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرُ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ
 فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيمٍ ⑥ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ
 وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي
 اِمَامٍ مُّبِينٍ ⑦ وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ

لَا يُبْصِرُونَ۔ بے زن اسے قائم کورمت چھہ تمن بروٹھ کنہ اکھ دیوارہ۔ بے تہنہ تھر کنہ تہ بیاکھ دیوارہ تو
 پتہ چھہ ولت اسے تم پر پتھ طرفہ کس چھہ تمن بوزنے یوان کینہہ دوشونے مثالن ہند حاصل چھہ ای کہہ
 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ہشی تھہ چھہ ٹوبہ تمن نیم کرتویامتہ کرتو۔
 تم ایمان ان نہ ہرگز اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرُ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ تہہ کرو نیم تس لیس
 نصیحتہ موجب پکہ بے کھوڑہ حضرت رحمانس وچھہ ورائے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيمٍ تھس
 شخص دیوتہہ بشارت گوئہن ہندہ بدہ مغفرت۔ بے طاقت و عمل کرنس پیٹھرتہ معاوض۔ ای اندرہ سپد
 معلوم کہ یم پتھ پھرن تہ گرائی اختیار کرن تم چھہ مغفرتہ تہرتہ عوضہ نشہ محروم۔ اگرچہ امہ جزاء و
 سزاء ک ظہور دنیا س منز سپدن لازم چھہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاثَارَهُمْ
 کیا زہ اس کرو کہ اکھ دوہہ ساری مردہ زندہ تی دوہہ سپدہ امیک ظہور بے چھہ اس تمہ سارے عملہ
 لیکھان یمہ تموروتھس سوزہ بے چھہ اس لیکھان تمہ عملہ تہ یمہ تم تھسک تراوان چھہ وَكُلَّ شَيْءٍ
 اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّبِينٍ۔ بے چھہ اسے پر پتھ چیزہ لیکھتھ تھوومت واضح کتابہ منز یعنی لوح
 محفوظس منز تہدہ عملہ اندر آنہ بروٹھ۔ وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
 بے کروٹھہ بیان تمن کافرن بروٹھ کنہ (پتھ تائید سپدہ تھندس رسالتس بے سپدہ تھندس انکار توحید و
 رسالت کرہ لیس پیٹھ حجت قائم) مثال کہہ گامہ کین لوگن ہنز نیلہ اتھ بستی منز سوز اسے کینہہ پیغمبر

جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۱۳ اِذْ ارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۱۴ قَالُوا
مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ ۱۵ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم
لَمُرْسَلُونَ ۱۶ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۱۷ قَالُوا
إِنَّا نَطِيرُنَا يَوْمَ يُكْفَرُنَّ كَمَا كَفَرْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَمُبْرَأُونَ
مِنَّا عَذَابُ الْيَوْمِ ۱۸ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَلَيْسَ

اِذْ ارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ يله گوڑه نی سوزا سہ تمہن
نہہ زہ پیغمبر تموزان تم دوہ شوے اپز تو پتہ کوراسہ تمہن دون پیغمبرن مدد تر کس پیغمبرہ سہدہ سیت تمو
تری شوے پیغمبر و دوپ تمہن لوکن بیشک چھہ آسے توہہ کن خدایہ سہدہ طرفہ پیغمبر نہہہ کرو تو حید اختیار بت
پرستی تراو قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ
تمو لو کو دوپ ہچھہ توہہ منز کیاہ خصوصیت چھہ پیغمبر آسہہ بخ نہہہ چھوہ نہ مگر آسی ہو انسان خدائے
رحمان چھہ نہہہ آزانان کا نہہہ چیزے کتاب یا احکام نازل کر مت نہہہ تری شوے چھوہ بالکل لہو و نان قَالُوا
رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ تمو پیغمبر دووپک سانس پروردگار س چھہ معلوم کہ بے شک نہ
یقیناً چھہ آسے توہہ کن تہندی طرفہ بطور رسول سوزنہ آمت وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ آسہہ
پیٹھہ چھہ نہہہ مگر پیٹھہ وائے ناوہ پورہ پورہ سو کام کر آسہہ دون چھہ مان یا نہ مان نہہن کام قَالُوا إِنَّا
نَطِيرُنَا يَوْمَ يُكْفَرُنَّ كَمَا كَفَرْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَمُبْرَأُونَ آسہہ چھوہ توہہ زانان پھیشل کیا زہ تہندہ ی نہہہ سیت ووتھہ شہرس منز دراک
بیہہ پیو تہندہہ تحریکہ سیت لوکن منز تفرقہ نہہہ فساد لکن لَمْ تَنْتَهُوا لِرَجْمِكُمْ وَلَيَسَّ لَكُمْ مِّنَّا عَذَابُ
الْيَوْمِ ہر گاہ نے تہہہ پتھہ روزویہ تبلیغ کرنہہ نشہہ یہہ تھہ و نہہہ نشہہ اس لایوہہ توہہہ کنہہہ بیہہ وائے توہہہ سانہ

ذِكْرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۱۹﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا
 الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۰﴾
 اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾
 وَمَالِيَ لَأَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي تَرْجَعُونَ
 آخِذِينَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِيدِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي

طرفہ سخت عذاب سے رنگارنگ تکلیف قالوا طائبرکم معکم آین ذکرتکم بل انتم قوم
 مُسْرِفُونَ پیغمبر و دو پہنکے تہنر نحو سٹھ چھ توہہ گووہ پیٹھے پانس سیت کیا زہ ساری تکلیف چھ توہہ
 حق قبول نہ کرنہ موکھ ہر گاہ تہہ ساری دین حق قبول کر تھ منفق سپدہ ہوتیلہ نہ آسما توہہ پانہ وان
 جنگ وجدال نہ فتنہ نہ فساد نہ آسوتہہ قسط سالی نہ در اگس بتلا۔ کیا تہہ چھوہ ہتھ کتھہ نحوستہ زانان یوسہ
 نصیحت سعادت تک کن نہ بنیاد چھ واقفس منز یہ نحوست چھنہ بلکہ چھوہ تہہ عقلہ ہندہ نہ شرعکہ حدہ نشہ
 ڈلہ ون تمی مخالفت شرع سیت واثر توہہ یہ نحوست امہ گفتگو اوج خبریلہ شہرس منز شائع سہز وَجَاءَ مِنْ
 أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ توپتہ آوشہر کہ اندرہ پیٹھ اکھ شخصہاہ اُس مسلمان اوس دوران دوران
 ہتھنہ یم لوکھ پیغمبرن کیہنہہ تکلیف واتاوان یم سیت تو مگ تو م تباہ گوہہ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ *

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ تم شخصن دو کچھ ای لو کو پیغمبرن ہنر کرو پیروی۔
 تہہہ پکو ضرور تہنرہ و تہہہ یم نہ توہہ سیزو تھ ہاونہ خاطرہ تہہہ قسمہ معاوضہ منگان چھہ سبہ چھہ تم پانہ سبہ و تہہ
 پیٹھ تمن کانہہہ خود غرضیہ چھنہ اتھ اندر۔ وَمَالِيَ لَأَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي تَرْجَعُونَ مہ
 نشہہ کیاہ عذر چھہ تہہہ میہ کیاہ گو کہ بہ کیاہ کرنہ بندگی تس پروردگارہ سنز یم بہ پادہ کورنس۔ و ن اوس
 اُس توہہہ کیاہ گووہ تہہہ چھوہ نہ پروردگارہ سنز عبادت کران تم تہہہ پادہ کمر نوہہ و ون آئی پانہ سے ہتھ
 نہ مخاطبین باعث اشتعال سپدہ۔ بیہ چھوہ توہہہ سارنہ تس کن رجوع کرن، پتولا کہ واتن موجودہ حالتس
 کن نظر کتر تھ گمہ ہتھہہ ہکو تہہہہ اُس برو تھ کتہہ ہتھہہہ تھہہہہ آخِذِينَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِيدِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونَ ﴿۲۳﴾ اِنِّي اِذَا لَفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۲۴﴾ اِنِّي
 اَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿۲۵﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَيْلَتَ قَوْمِي
 يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿۲۷﴾ وَمَا
 اَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۲۸﴾
 اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خُمُودٌ ﴿۲۹﴾ يَحْسُرَةُ عَلَى

نَعْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونَ کیا ہے ہیکہ تہند یا ٹھہس درائے تم تم چیز معبودز آنتھ تم
 ہندہ عجز کیفیت یہ تھہ کہ ہر گاہ خدای رحمان مہ نسبت کا نہہ تکلیفہ واتہ تاون یڑہ تم معبودان
 باطن ہنز سفارش ہیجہ نہ میہ کا نہہ فایدہ واتنا و تھہ نہ ہیکن تم پانہ پنہ قدرتہ سیت تہ طاقتہ سیت میہ
 تمہ تکلیفہ نشہ موہ کلا و تھہ اِنِّي اِذَا لَفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ہر گاہ بہ تھہ ناہہ کار پنی معبودز انکھ تلہ تھس بہ
 تہہ گمراہی منز اِنِّي اَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ میہ تھہ تہندس پروردگار س پیٹھ ایمان او نمٹ۔ تہہ تہ
 بوزویہ میان تھہ وارہ۔ مگر تم لوکن پیٹھ پیو نہ اس شخصہ سزن تھن ہند کا نہہ اثر بلکہ روٹھ تو پتہ
 مورکھ۔ تھہ لائی لائی کوڈہس جان یازو لکھ نارس اندریا چور ہس ہوٹ۔ بہر حال یوموتیو طریقہ آندرہ
 اکہ طریقہ کورکھ شہید قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ شہید سپدو نے سپد تمس خدایہ سندہ طرفہ ارشاد کہ اے
 باایمانہ گڑھہ اڑہ جنس قَالَ لَيْلَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ سو باایمان
 لوگ امہ ساتھ تہ ونہہ کا شہہ میانس قومس سپد ہا معلوم میون حال، کہ مہ کز مغفرت میان پروردگارن
 ایمان واتباع رسول کہ برکتہ بیہ کورنس بہ باعزت کو کو آندرہ۔ یہ بوز تھہ انہ تہن تہہ ایمان۔ تم تہہ یہ
 ہاتھہ پاٹھ مغفرت کرنہ تہ عزت دنہ۔ یلہ امہ شہرہ کیولو کو پیٹھن تہ تہندین تابعن سیت تھہ معاملہ
 کور۔ اسہ ہیوت تم امیوک انتقام ہینہ خاطرہ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا
 مُنْزِلِينَ وائل نہ اسہ تہس باایمانہ سندس قومس پیٹھ تہندہ شہید سپد نہ پتہ سہ قوم گالہ خاطرہ کا نہہ
 لشکرہ ملاکن ہند آسمانہ طرفہ نہ اس اسہ تھ ضرورت کیا زہ تہند ہلاک کرن اوس نہ محتان تھہ تھہ لشکرہ

الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۳۱﴾ الْمُرُوا
 كَمَا هَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِنْ
 كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِيَّاهُ لَهَمُ الْأَرْضِ السَّيِّئَةُ
 أَجْبِنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿۳۴﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتٍ
 مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿۳۵﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ
 ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ

کن ان كانت الاصبعة واحدة فاذا هم خمدون بلکه اوس سہ سزا کہ۔ سخت آوازہ جبریل امینہ سنز
 یاسیہ کانہہ ملکہ سنز۔ یان سوہ کر یکہ گنہیہ تان شہلے تم ساری یحضرہ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا
 کانوا بہ یستہزؤن افسوس تھین بدن ہندس حاکس پیٹھ یکن نشہ بلہ ووت کانہہ پیغمبرہ تیلہ اس تم
 تس پیغمبرس سنہ نہ ٹھٹھہ کران المرورا کما هلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون کیاہ تمو
 وچھہ ناسہ کاژاہ جماژہ کاژاہ امرہ کرہ تین بروٹھ ہلاک محض امی موکہ کہ تم اس سانین پیغمبرن
 ٹھٹھہ کران تہ ایزیری زانان ہم نہ زانہہ تمن نغہ واپس ہمکن ہتھہ دنیاہس کن۔ اتھہ تھہ اندرے تم
 ذرا غور کرہ ہن ممکن اوس کہ تکذیب واستہزاء بشہ روزہ ہن پتھہ وان کل لما جمیعہ لدینا محضرون
 ہتھہ تمو اندرہ کانہہ تہ ٹیس نہ قیامتک دوہ سارنے لوکن سیت اسہ بروٹھہ کنہ حاضر کرنہ پیہ۔ وایئہ لھم
 الارض السیئۃ اجبنہا وخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون پیہ ہتھہ لوکن ہندہ خاطرہ سانسہ قدر تک بوڈ نشانہ
 پیہ توحید بڈ لیل۔ مردہ زمین ٹیس اسی زندہ چھن کران رودہ سیت تو پتہ چھہ اسی کڈان تمہ زمینہ منزہ
 غلہ تہ اتاج۔ تمہہ منزہ چھہ لوکہ کیوان وجعلنا فیہا جنت من نخیل واعناب وفجرتا فیہا من العیون
 پیہ کراتھہ زمینس منز اسہ خضر کلین ہند پیہہ دچھہ راٹھن ہند باغ۔ تمنے منز کور جاری اسہ ناگہ رادہ
 کولہ لیا کلو امن ثمرہ ہتھہ لکھہ کھین اتاجک پاٹھہ تمیک میوہ تہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون تم
 چیز کرنہ یادہ تھند یو اتھو اگرچہ بیول وودہ نج سگ درنج کام کر تمووی مگر پھل تہ غلہ پیدا کرن چھہ اللہ تعالیٰ

الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مَنَاطِئُتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾
 وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿۳۷﴾
 وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۳۸﴾ وَالْقَمَرَ
 قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۳۹﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي
 لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

سنزے کام بیہ نہ کانسہ ہنز۔ کیاہ یثہ قدر تجہ دلیلہ وچھتہ تہ کرن ناتم شکر گذاری سمیک گوڈہ نیک
 ہیرہ پو وچہ توحید مَبْنُ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مَنَاطِئُتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ منزہ تہ
 پاک چھ سہ ذات پاک تم پیدہ کر پنہ قدر تہ سیت سارنہ چیزن ہندے جورہ تہ مقابلہ تمو چیز واندہ
 یمن کھاران چھ زمین نباتا تو اندرہ بیہ چھ بیہ کیفیت خود تممن ہندیو پنہ نیو ذاتو اندرہ یعنی بشر و تہ
 انسانو اندرہ چھ اڈ مو ہنوی اچہ زنانہ۔ بیہ تمو چیز زواندرہ یمن ہنز نہ تممن خبرے چھ کینہ۔ غرض کیاہ
 خدایاہ چھ ساری مخلوق کرن پادہ اکھ اکب سندے مقابل پنہ چھ خالق یکتا مقابل تہ جورہ آسنہ نشہ منزہ
 تہ پاک وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ بیاکھ نشانہ چھ لوکن ہندہ خاطرہ خدایہ
 سدہ قدر تک، راتک وقت۔ تاریکی اصل آسنہ موکھ چھ آفتابک گاش تھہ پیٹھ اکھ مسئلہ ہیو۔ تمی راتھ
 پیٹھ یلہ آس والان چھ دُبَحْمِ گاشک سہ مسئلہ کہ اتی چھہ لوکھ واتان بیہ اُنہ گئی منز وَالشَّمْسُ تَجْرِي
 لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بیاکھ نشانہ چھہ معبود برحق سنزہ قدر تک آفتاب۔ اُس پکان چھہ
 پنہ مقررہ جاہہ پیٹھ۔ بیہ چھہ اندازہ کورمت سیٹھاہ زبردست، سیٹھاہ زانن والی خدائین وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ
 مَنَازِلَ بیہ کراسہ زونہ ہندہ خاطرہ پڑاومقرر۔ ایم اٹھووہ چھہ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ تالیکنہ
 پکان پکان چھہ سوہ بیہ گڑھان ہو چھہ مژ پراُن خضر چہ مور ہش لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
 وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اسہ چھہ زونہ تہ آفتابچہ پکہ تک تیتھ اندازہ تھوومت،
 بیہ چھہ اسہ رات ودبھکینہ گڑھہ تک سہ انتظام کورمت کہ نہ ہیچہ آفتاب زونہ رتھہ کیاہ سہ چھہ اکس

يَسْبَحُونَ ﴿۳۰﴾ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿۳۱﴾
 وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِنْ نَشَاءُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ
 لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقذُونَ ﴿۳۳﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾ وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا

آسمانس پیٹھ یہ چھ بیس آسمانس پیٹھ۔ نہ ہیچہ راتھ برونھ گوتھہ دوہ ہس پریتھ اکھاہ چھ بیواندرہ اس
 اکس آسمانس منز ژھانٹھ دایان یعنی پکان۔ پریتھ اکھاہ چھ پنہ نس پنہ نس دایرس منز حسابہ موجب
 تمہ طریقہ پکان گھ آکسندس حسابس منزتہ انتقاس منز ہیچہ نہ کانہہ اکھ خلل تر آوتھ یعنی آفتاب ہیچہ
 نہ پانے پنہ اختیارہ تمہ ساتہ طلوع کتر تھ، پنہ روشنی سیت زمین روشن کتر تھ۔ تمہ ساتہ آفتاب آسہ
 زمینس پنہ روشنی سیت نورانی گران حدیث شریفس منز چھ کہ آفتابک مستقر چھہ عرش مجیدس
 تل۔ یہ چھہ غروبہ وقتہ سجہ دوان تھ منز حکم دریافت کران بیہ دہیچہ طلوعک۔ اکہ دوہہ بیہ تس حکم
 کرنہ کہ طلوع مہ کر۔ واپس گوتھ تپاری بیار آکھ۔ تمہ دوہہ کھسہ آفتاب مغربہ کہ طرفہ۔ سہ چھہ
 قیامتہ چونشانو اندرہ اکھ نشانہ **وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ** خدایہ سندہ قدر تک
 بیاکھ نشانہ چھہ لوکن ہندہ خاطر کہ اسہ نکل تہندہ آباء و اجداد تھہ ناوہ منز یوسہ بر تھہ آس ضروریاتو سیت
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ بیہ کراسہ پادہ تمن ہندہ خاطرہ تھی ناوہ ہیشہ بیہ ناوہ یمن منز تم سوار
 سدان چھہ۔ بیہ تھہ ناوہ ہی بیہ تم چیز یمن پیٹھ تم سوار سپد تھہ خشکی ہندسفر کران چھہ یعنی وونٹھ
 وغیرہ۔ چنانچہ عرب چھہ ونان وونٹس سفینتہ البر خشکی ہنز ناوہ۔ اتھہ منز چھہ شامل تمہ سوارہ یسہ نوہ ایجاد
 آہ کر نہ۔ ریل موٹر، ہوائی جہاز، راکٹ وغیرہ ہیشہ **وَإِنْ نَشَاءُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقذُونَ**
 ہر گاہ اس یڑھ ہو تم پھاٹھ وہو کہ تمونادوسان۔ پس آسہ نہ تہندہ خاطرہ تمو معبودان باطلو اندرہ تمن
 تم شریک خدازانان چھہ کانہہ فریادرس وادتہ وناہ۔ نہ یں تم بچاونہ پھٹنہ کیو حادثاتویشہ **إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا**
وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ مگر چھہ تم پتھہ سانی مہربانی سیت بیہ چھہ تم تمتع تہ فایدہ تلہ ناوین دنیاجہ زندگی ہند

تَاتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۷۱﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اطْعَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۷۲﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷۳﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا الصَّيْحَةَ وَوَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۷۴﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

اِس مُعِين و قس تان وَاذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بِلَه تَمَن لو كُن توحيدِه
چَن و لیلن سیت مضمون و عید و ونه یوان کہ نَبه کھوژو تھه عذابس لُس تو بہ برو نھہ کنہ چھہ یعنی لُس دُنیا
س منز تو بہہ کرنہ یہہ، غرق یا خسف ہو یہہ تھہ عذابس لُس تو بہہ مر نہ پتہ یوہ و ن چھہ یعنی انکار توحیدس
پیٹھ لُس عذاب تو بہہ پیٹھ واقع سپدہ و ن چھہ تھہ کھوژو توادہ سہ دُنیا س منز و آت تن یا آخرتس اندر تھہ
کھوژو تھہ اَن تو ایمان دیوہ تو بہہ پیٹھ یہہ رحم کرنہ وَمَا تَاتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا
مُعْرِضِينَ یہہ چھہ و اتان تَمَن لُغہ کا نہہ آیہ ہندس پروردگارہ سند یو آیا تو اندرہ مگر تم چھہ تمہ لُغہ تھہ
پھر ان تہ سر تابی کران۔ یہہ پاٹھ ہم کرہ نَک تہ کھوژوہ ناوک تَمَن پیٹھ کا نہہ اثر چھہ سپدان تھہ پاٹھ
چھہ تَمَن ترغیبک تہ کا نہہ اثر پیوان چنانچہ وَاذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ بِلہ ونہ یوان چھہ
تَمَن اللہ تعالیٰ ان یہہ نعمہ تو بہہ عطا کر مژہ چھہ، لُس مال تو بہہ دیتمت چھہ توہہ تہہ کرو خرچ خدایہ
سزہ و تہ اندر قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اطْعَمَهُ و نان چھہ تھہ موقس پیٹھ
کافر با ایمان کیاہ اَس کیاووک تم لو کہ یمن ہر گاہ اللہ تعالیٰ کیاوون یژہ ہاتہ سہ کیاویم چھہ اِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ نَبہ چھہ نہ مگر نہہ گرا ہی منز وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہہ چھہ و نان
کافر لو کہ پیغمبر ہر حقس تہ مسلمان بطور انکار کہ یہ قیامتک وعدہ کر سپدہ پورہ چھوے تہے پوزوان تیلہ
کرو تو بہہ بیان کرایہ قیامت اللہ تعالیٰ چھہ فرماوون کہ ہم لیس یہ تھہ بار بار پر ژھان چھہ، زن تَمَن سخت
انظار چھو قیامتک مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا الصَّيْحَةَ وَوَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ تم لو کہ چھہ انتظار کران تہ

تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝۵۰ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمُ
 مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝۵۱ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا
 مِنْ مَرْقَدِنَا إِنَّ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝۵۲
 إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝۵۳
 فَالْيَوْمَ لَا نُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا نُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۵۴ إِنَّ
 أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ ۝۵۵ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ

پیاران مگر کئی سخت کریکہ یعنی نفخہ اولی یوسہ تمن ہیکہ تہ معہ رطہ۔ تم آسن پانہ وآن تمہ وقتہ حسب
 معمول پنہ ہن معاملاتن اندر ہرہ ہرے کران تہ آوازہ سینٹی گڑھن تم ختم فلا یستطیعون تَوْصِيَةً
 وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پس یسکن نہ تم تمہ ساتہ شرین باثرن ہندہ خاطرہ کانہہ وصیتاہ کر تہ۔ نہ یسکن
 پنہ نس عیاس کن و اہل بیتہ۔ نس بیتہ نس آسہ سہ مرہ تہی تہ۔ یہ گوہ گوہ ڈہ نیک پھوکہ۔ یمہ سیت
 ساری مزن وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو پتہ بیہ ڈچہہ ڈہر بیاکھ پھوکہ دنہ
 پوغس منز سیمہ سیت ساری بیہ دوبارہ زندہ سپدن یان سہ پھوکہ پیہ دنہ تام نیرن قبر و منزہ تو پتہ یکن پنہ
 نس خدا نس کن دوران دوران۔ تو پتہ یلہ تہ ہولناک تہ ہیبت ناک حالات و تہن قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا
 مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ حیران سپد تہ ون اکھ اگس ہائے افسوس اس کمی
 سناٹل نندرہ ہنزہہ جلیہ رطہ یعنی قبر و منزہ۔ ملایک دنہ لکھ۔ یکنے چھ سو قیامت سیمیک وعدہ حضرت
 رحمن اوس فرماوان پوز اس فرماوان پیغمبر مگر ٹہہ آسہ نہ مانان۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان إِنْ كَانَتْ إِلَّا
 صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ بہر حال سہ نفخہ ثانیہ یعنی دو تم پھوکہ آسہ کئی سخت
 کریکھہ یان سوسپدہ تان بن تم ساری جمع سپد تہ آسہ برونھ کن حاضر کرنہ فَالْيَوْمَ لَا نُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا
 وَلَا نُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس تمہہ دوہہ یعنی قیامتگ دوہہ پیہ نہ کانسہ شخص سہہ قسمہ ظلم کرنہ بیہ
 ایوہ نہ توہہہ جزاتہ بدلہ دنہ مگر تہنے کامن ہندیہہ ٹہہ ڈنیاء ہس منز کران آسہ۔ یہ گوونارہ کین لوکن ہند

عَلَىٰ الْأَرْيَافِ مُتَّكِنُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾
 سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾
 أَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ بِبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
 مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ
 مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
 كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ

حال اِنْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ بے شک جنتی آسن تمہہ دوہہ واریمین شغلن سیت خوش دل ہوں وَاذْوَابُكُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْيَافِ مُتَّكِنُونَ تم تہمزہ بیہ زمانہ آسن سائین تل۔ مزمین
 بیہ آرایش کرنہ آستین پلنگن بیٹھہ بحیہ و تھ بہتھ لہم فیہا فاکہۃ و لہم ما یدعون تہندہ خاطرہ آسن
 تمن جنتن منز کم کم میوہ بیہ آسہ تہندہ خاطرہ سورے تک تم خواہش تہ رغبت کرن سَلَامٌ قَوْلًا مِّن
 رَبِّ رَحِيمٍ بیہ بوزن تم سلام رحمتہ والس پروردگارہ سندہ طرفہ۔ پانہ فرماوہ تمن سلام رحمتہ وول
 پروردگار تمن لفظن اندر السلام علیکم یا اہل الجنتہ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ حکم سپدہ موقفس منز
 اصحاب نارن کہ جداروز واز با ایمان نشہ ای کافر و کفر و شرک جرم کرہ وینوہ لوکو۔ کیازہ با ایمان بین
 سوزنہ جنتس کن۔ تہہ ایوسوزنہ نار جہنمسن کن۔ تمی وقتہ بیہ تمن بطور زجر و ملامت و نندہ أَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ
 بِبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ای بنی آدمو کیاہ میہ آسوہ نا تہہ عمدہ کرہ ناومت۔
 بیہ اوس نامیہ تاکیدی حکم کورمت کہ بیٹھنہ تہہ پرستش تہ عبادت کثریو شیطانہ سز کیازہ سہ چھہ تہند
 نون دشمن وَاِنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بیہ آسوہ نا عمدہ کرہ ناومت کہ عبادت کری زہ میانی
 یاثر بیئے چھوہ سیز و تھ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ بے شک تم ذال توہہ
 اندرہ واریاہ لوکھ۔ کیاہ تہہ آسوہ نا یژمن تہ زمانہ کہ اگر آسن شیطانہ سندہ گراہ کرنہ سیت ذکو تہ
 گراہ سپد و آس تہ عذابس مستحق هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کیا گووہ جہنم سمیک توہہ وعدہ

نَحْتُمُ عَلَىٰ أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۷۵﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿۷۶﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۷۷﴾ وَمَنْ نَعْبُدُهُ نُؤَنِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۷۸﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿۷۹﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿۸۰﴾

یوان اوس کرنہ۔ اِصْلُوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اُڑو اُتھہ جہنم اندر جتھ توہہ انکار آسوہ کران الْيَوْمَ نَحْتُمُ عَلَىٰ أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تمہہ دوہنہ کرو اس موہر تہندین چائین پیٹھ توپتہ کرن تھہ امہ سیت تہند اتھ۔ بیہ دن گواہی تہند کھور تم ن سارنہ کائین ہنزیمہ تم کران اس دنیا س اندر۔ یہ عذاب سپدہ تم آخرتس اندر وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ہر گاہ اس بڑھہ ہو دنیا سے منزومہ ہو اس تم ن گھر ک سزا۔ گاشہ روستوی کرہ ہو کہ اچھہ تہزہ۔ اچھی تھاوہ ہو کہ نہ ہنہ۔ توپتہ بہن تم وتہ کن چکن تہ دورن۔ سوکتہ سنالیہ بھک وتھہ بوزنہ۔ اچھو وراے یا اچھن ہندہ گاشہ وراے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ امہ خوتہ زیادہ بیہ ہر گاہ اسے بڑھہ ہو گھرہ کس سزاس منز تم ن مسخ صورت کرن ضرور ہیکہ ہو کہ مسخ صورت کمر تھہ۔ یہ ن س آسن تے نس گوہن روز تھہ۔ پس ہیکہ ہن نہ بروٹھ پتھ نہ پوت پھیر تھہ۔ مسخ صورتس سیت سپدہ بھک ڈو کھور۔ اکسے جایہ گوہہ ہن روز تھہ۔ یہ گوہہ نہ کیہنہ عجیب زان کیا زہ اچھہ نظیر بھہ موجود وَمَنْ نَعْبُدُهُ نُؤَنِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ بیہ ن س شخصس اس زیادہ عمر چھہ ووان ن س چھہ اسے صورتس منز تبدیل کران۔ کیا یہ حالت وچھت تہ چھن تم ن فکرہ تران وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ تم کافر، ایم نیوتس انکار کرنہ خاطر حضرت محمد س شاعر و نان چھہ یہ تہند ون چھہ محض باطل، کیا زہ اسے بھنا ونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنْ اَخْلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿۴۱﴾
 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿۴۲﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 وَمَشَارِبٌ اَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ
 يَبْصُرُونَ ﴿۴۴﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿۴۵﴾ فَلَا


ہاتھ دُتَن۔ نہ جھہ تہندس شائس سزاوار کیا زہ تم جھہ اعلیٰ درجہ تھن۔ مضامین شعر یک بنا چھ
 محض تخلیا تن پیٹھ آسان۔ بین دون کھن منز چھ کافی تانی تہ تاقض یہ تم بیان کران جھہ تہ جھنہ مگر
 نصیحک کلام۔ بیہ احکام الہی منہ راہ و ن قرآن مجید لَیْبِنْدُ مِنْ كَانَ حَيًّا وَيُحْيِي الْقَوْلَ عَلَى الْكُفْرَيْنِ
 یٹھ تم بیم گرن تس شخصس سم سندا دل زندہ آسہ۔ بیہ یٹھ کافر ن پیٹھ عذائ نجا بحت قاتم سپدہ۔ تم ن
 بیہ ونہ باوجود ایں کہ خبے بو زوسا ن احکام مگر بو ز تھ کٹر وانکار اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنْ اَخْلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا
 فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیاہ تمومشکر لو کو کتر تا یٹھ کُن نظر کہ آسہ کور تہندہ فایدہ تہ نفعہ خاطر ہ پنہ نیوا تھو
 سیت ہناوے متوجیزہ واندرہ چارواے پادہ۔ چنانچہ سان مالک ہناوہ سیت بنائے تم تم ن چاروا لکن ہند
 مالک وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ بیہ کٹر آسہ تم چارواے رام تہ مسخر تہندہ خیطرہ۔ پس
 جھہ تمبو اندرہ اڈین پیٹھ سوار سپدان بیہ جھہ تمبو اندرہ اڈین تم کھیوان وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ
 اَفَلَا يَشْكُرُونَ بیہ جھہ تہندہ خاطرہ تم ن چاروا این منز واریا ہ فایدہ بیہ دود چنہ چہ جلیہ۔ کیاہ اتھ پیٹھ تہ
 کرن تا تم شکر گد آری سان یٹھ منز ساروے چیزہ واندرہ اہم تر اقدام اوس توحید قبول کرن۔ مگر تمو
 کور شکرہ تہ توحیدہ چہ جلیہ کفر تہ شرک اختیار وَالْتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ يَبْصُرُونَ یہ یہ
 مہربانیہ عطا کتر تھ ٹھہر او تمو معبود بر حقس وراے ایز معبود۔ یٹھ دو میز پیٹھ کہ دیوہ تم ن معبودان
 باطلن ہندہ طرفہ ولتہ کا نہہ مددہ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ مگر تم ہیکن نہ تم ن منہ قسمہ مدد کتر تھ۔ مدد کرہ نچ
 کیاہ تھ جھہ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ حالانکہ تم تہ بین ٹھہند فوج ہتھ یجہ و لہ جبر حاضر کرنہ۔ تو پتہ
 کرن تہنڑے مخالفت تم ن خلاف دن بیان دپکھ تہ آسونہ آسہ عبادت کران۔ دون یلیہ سم لوکھ تم ن

يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۳۶﴾ اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ
 اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ وَاذًا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۳۷﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ
 نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْجِبُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿۳۸﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
 اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۳۹﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ

واضح یہ صاف امورِ خلاف کرانِ چہہ فلا یحزُنُکَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ پس نہ حض
 کمرِ غمگین تو بہ یارِ رسول اللہ تہنرہ کتھ توحید و رسالتس متعلق۔ کیا زہ آزدگی چھہ سپدان اُمیز ہنزہ
 جلیہ۔ دو میز ہنزہ جلیہ چھہ آسان سہ مخاطب بس عقل و انصاف آسہ۔ یم لو کھ چھہ غبی۔ لہذا چھہ
 سمن عقل۔ بیہ چھہ سمن لو کن غبار لہذا معاندس نشہ انصافک توقع تھاؤن چھہ غلط۔ لہذا چھہ تم محل
 امیدے۔ تھہ سُن نظر کمر تھہ چھہ غم کھیٹک تہ کا نہہ موئے۔ بے شک اُس چھہ زانان تہ سورے یہ تم
 کتھہ کران چھہ دُن اندر۔ بیہ یہ ظاہر کران چھہ تم زیو و سیت۔ وقت و اتن تہن پیہ تمہ ساتھ پور سزاؤنہ
 اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ وَاذًا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ بیہ و چھنا اُم انسان بس مر نہ پتہ بیہ پیدہ سپدنس
 انکار چھہ کران کہہ کورسہ پاؤہ اگس حقیر آہ قطر س۔ لازم اوس تس انسانس ہنن یہ ابتدائی حالت
 ژینس پاؤ تھہ لہہ ہائہ زیر نظر ہنن حقارت تہ پنہ بس خالقہ سبز عظمت تو پتہ کرہ ہائہ جزأت انکار کرہ نگ
 نہ کرہ ہاگتسخی اتھ پیٹھ اعتراض کرہ نگ۔ شرمندہ گی سیت گلہ ہا اندر اندری بیہ کرہ پایانے پنہ
 نس اتھہ حالس پیٹھ نظر کمر تھہ مر نہ پتہ زندہ سپدنس اقرار تہ پڑھ۔ تہ کورن نہ بلکہ لوگ تنن ہائہ
 اعتراض گرنہ۔ بلکہ کورن آسہ سیت مقابلہ کمر تھہ قیاس انکار وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ
 يُعْجِبُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ بیہ لگ بیان کرہ سانس شانس منز عجیب عجیب مثالہ سمہ سیت انکار قدرت
 چھہ لازم یوان۔ ہنن اصلیت گنیس و سٹدے۔ یاد رودس نہ۔ حقیر قطرہ آستھ بنو اسہ انسان۔ یوہے چھہ
 دپان، کوہہ بیچہ زندہ کمر تھہ دودرے مزہ اڈے جہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
 تہہ فرمایوس یارِ رسول اللہ تہن دودرے مؤن اڈ جن گہ زندہ سنی ذات پاک۔ ستم یم پاؤہ کرہ گوڈنچہ لہہ

الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿۸۶﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ
 الْخَلِيقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۷﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۷﴾
 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۸﴾

یلہ نہ یہ کہی اوس یلہ یہ حیاتہ نشہ سیٹھاہ دور اوس۔ وون چھہ ام اکہ لئہ حیات وزندگی قبول کورمت۔
 وون پادہ کران کیاہ عجائب چھہ۔ سہ چھہ پر چھہ طریقہ پادہ کران پورزانان۔ ابتداء تہ۔ دوبارہ تہ۔ تس نشہ
 چھہ کہنی مشکل لِّلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ سہ گوئے قدرتہ
 وول ئیس ٹہندہ خاطرہ سبز اسبز کلہ منزہ نار چھہ پادہ کران۔ ادہ چھوہ ٹہہ تمہہ سیت ژکھ ووان تہ ہرہ
 ہیوان۔ چنانچہ کلیو منزہ چھہ بعضے کل سمن ہنزہ اکہ چہ سے پِس چہ گھہر دھہ نار چھہ نیران۔ أَوَلَيْسَ
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کیاہ سہ ذات پاک سم آسمان تہ زمین سم پڈ
 مخلوقات پادہ کمر چھٹا قدرتہ وول سہ کیاہ کرہ انسانس ہوس لوکئس مخلوقس دوبارہ بیہ پادہ بلی
 وَهُوَ الْخَلِيقُ الْعَلِيمُ البتہ سہ چھو بو پادہ کرہ وون پادہ کران پورزانان إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ
 كُنْ فَيَكُونُ ٹہنز قدرت چھہ تہہ کہ یلہ سہ ارادہ چھہ کران ٹہنز چیز کیمہ پادہ کرہ ٹگ۔ سہ چھہ دپان
 تہہ چیزس سپد پادہ۔ اتی چھہ سہ چیز پادہ سپدان۔ تس نشہ کوسہ تھہ چھہ وون مشکل فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ
 مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اترھو کتھو سیت سپد ثابت کہ سہ معبود چھو منزہ تہ پاک سم سندس
 اتھس منز سارنے چیزن ہند اختیار چھہ۔ سہ چھتہ ٹہنز چیزس اندر ٹہنز قسمہ عاجز۔ ٹہہ ساری بیو تس گن
 پتولا کہ قیامتگ دوہ واتا ونہ۔



سُوْرَةُ الصَّفَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 وَالصَّفٰتِ صَفًا ۱۱۱ فَالزُّجْرِتِ زَجْرًا ۱۱۲ فَالتَّلٰیٰتِ ذِكْرًا ۱۱۳
 اِنَّ الْهٰكُمَ لَوَاحِدٌ ۱۱۴ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَبٰیْنَهُمَا وَرَبُّ
 الْمَشَارِقِ ۱۱۵ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمٰءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ الْكَوٰكِبِ ۱۱۶ وَحِفْظًا
 مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ تَارِدٍ ۱۱۷ لَا یَسْمَعُوْنَ اِلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ الْاَعْلٰی وَیَقْدِفُوْنَ
 مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ۱۱۸ دُحُوْرًا ۱۱۹ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۱۲۰ اِلَّا مَنۡ خَطَفَ

وَالصَّفَاتِ صَفًا قسم چھ تین ملائکین ہند قسم عبادت کر بچہ وقتہ یا احکام الہی بوز بچہ وقتہ صف دی دی
 چھہ ایستادہ روزان فَالزُّجْرِتِ زَجْرًا بیہ چھہ قسم تین ملائکین ہند ہم زوتہ ونین تارکن ہندہ ذریعہ
 آسمانی خبرہ انہ ونین شیطان گر نزلہ لار کران چھہ فَالتَّلٰیٰتِ ذِكْرًا بیہ چھہ قسم تین ملائکین ہند ہم یاد
 خدا تسبیح و تقدیس ہر ان چھہ۔ ہم تریہ قسم چھس بہ ہاوان چھہ آتھ پیٹھ کہہ اِنَّ الْهٰكُمَ لَوَاحِدٌ بے شک
 تہند معبود چھہ اکوے رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَبٰیْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ سچ دلیل چھہ یعنی کہ سہ چھہ
 پروردگار آسمان تہ زمین ہند۔ بیہ تمہہ سارکے یہ آسمان تہ زمین در میان چھہ۔ بیہ چھہ سہ پروردگار
 تین سارنے جابن ہند تین جابن ساری ستارہ طلوع کران چھہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمٰءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ الْكَوٰكِبِ پڑنا چھہ
 اَسْمٰہِ ذٰیٰتِ زینت تہ اسی کر آرائش چھہ آسمانس ستارن ہندہ سیت وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ تَارِدٍ
 بیہ کمر حفاظت تہ ر آچھہ سموستا رو سیت آسمانی خبرن پر پتھہ سرکش تہ شریر شیطانس نشہ لَا یَسْمَعُوْنَ
 اِلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ الْاَعْلٰی وَیَقْدِفُوْنَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُوْرًا چنانچہ نمی موکھ چھہند تم شیطان ہیکان نہ گن دتھ
 ملاء اعلیٰ اس یعنی ملائکین ہمز ن مجلس۔ بلکہ چھہ ہر تھ یوان نہ تم پر پتھہ طرفہ۔ دکہ دی دی چھہ تم

الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ⑩ فَاسْتَفَيْهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا مِّنْ
 مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ⑪ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ⑫
 وَإِذَا ذُكِرُوا بِالْأَيْدِ كُرُوءًا ⑬ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ⑭ وَقَالُوا لَئِن
 هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑮ وَإِذَا امْتَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنْ أَلْبَعُوثُونَ ⑯

دور یوان کرنے۔ یہ گو توین دنیاءس اندر سزا وَاَلَمْ عَذَابٌ وَأَصْبُ۔ بیہ ہتھ تہیدہ خاطرہ آخر تیس اندر
 ہمیشہ گی ہند عذاب نار جہنم اندر لَأَلْمَنَ خَطْفَةَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ مگرے کانہہ شیطانہ
 تھپہ تھوسہ کانہہ خبراہ ہتھ ژلان جھہ۔ تیس جھہ پنے لاران اکھ نارہ رہیماہ اکھ زوتہ ون تہ پرزلہ ون۔
 سوے جھہ تیس گالان فَاسْتَفَيْهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا مِّنْ خَلَقْنَا جھے ہر ژھو تین مخرن یار سول اللہ تیم
 انکار جھہ کران قیاس تہ مرنہ پتہ بہر زندہ سپد تیس، تم لاجواب کر جھہ طریقہ کہ کیاہ تم پادہ کرن چھا
 سخت کنہ تم مخلوق تم اسمہ پادہ کمر، تمکن ہنز ذکر گرنہ آیہ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ تم لوکھ جھہ اسمہ
 پادہ کمر مت لار تھہ گڑھہ ونہ تہ پشاجہ میوہ۔ ہتھ نہ کانہہ قوتھاہ تہ طاقھاہ جھہ کس یلہ اسمہ طاقت تہ
 قدرت جھہ ابتداء قوی تہ سخت مخلوقات پادہ کرہ تیس پیٹھ، ضعیف تہ سٹ مخلوقات بیہ دوبارہ پادہ
 کرن کیاہ مشکل جھہ اسمہ نشہ۔ مگر باوجود اژھہ واضح دلیلہ بیان کرتھہ تہ جھنہ تم لوکھ مرنہ پتہ بہر زندہ
 سپد تیس پڑھ گران بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ نہہ جھوہ ہلکھ بہندس حالس پیٹھ تعجب کران کہ تمکن کونہ
 جھہ بیہ صاف کتھہ فخرہ تران۔ تم جھہ انکار کر جھہ علاوہ تہزن کتھن پیٹھ تمسخر تہ ٹھٹھہ کران وَإِذَا
 ذُكِرُوا بِالْأَيْدِ كُرُوءًا یلہ تمکن فخرہ یوان جھہ تارنہ، ہمالیش تہ نصیحت جھہ یوان کرنہ تمکن جھنہ کتھہ قسمہ
 فخرہ تران وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ بیہ یلہ وہجھان جھہ تم کانہہ مخرہ تیس تمکن ثبوت نبوت خاطرہ
 ہاونہ یوان جھہ تھہ جھہ ٹھٹھہ تمسخر گران وَقَالُوا لَئِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ بیہ جھہ دیان بیہ معجزہ جھہ صاف
 جودتہ سحر ءَإِذَا امْتَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنْ أَلْبَعُوثُونَ کیاہ سنایلہ آس عرو تہ میوہ گڑھہ اوڈے یاژہ روزو
 توپتہ سمواس دوبارہ زندہ کمر تھہ تھو دتھنہ اَوَابًا وَاَلْوَانُونَ کیاہ سان برو تھم مال ہڈ باب تہ بیہ

أَوْ أَبَاؤَنَا الْأَوْلَادُ ۖ قُلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ دَخِرُونَ ۗ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ
 وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۗ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۚ هَذَا
 يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۗ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
 وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۗ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى
 صِرَاطِ الْحَيِّ ۗ وَفَقَهُهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَسْلِمُونَ ۗ مَا لَكُمْ لَاتَتَّصِرُونَ ۗ بَلْ
 هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۗ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۗ
 قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۗ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۗ

یہی زندہ کرنے قُلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ دَخِرُونَ تمہے فرمایا کہ یا رسول اللہ اوہ تمہے بیو ضروریہ زندہ کرنے۔ یہی
 سپرد تمہے ذیل سے خوار **فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ** فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ قیامت چھتہ مگر کئی کریکھاہ۔ یا ان سو کریکھ
 گڑھہ آئی تیرن لوکھ زندہ گڑھتھ قبر ومنزہ تو پتہ لگن حیران سپد تھ وہ چھتہ **وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ**
 یہی دین انفس سائہ خاطرہ او ہو، یہ چھتہ جزاعک دوه **هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ** ونسہ یہ کھ
 اوہ یو ہے کیا گویصلک سہ دوه سٹھ تمہے انکار کران آسوه **احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ** *
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَيِّ حکم سپدہ ملائکن کہ سونبر آویو کہ سم لوکھ سمو ظلم کور پان
 پانس شر کہ سیت، یہی تھند تابع تہ پیر وہیہ تھند معبودان باطل بہنر تم عبادت کران آس معبود بر حقس
 ور آئے یعنی شیطان تہ پوتل تو پتہ ہاویو کہ چھتہ یعنی واتنا ویو کہ جھنمس اندر **وَفَقَهُهُمْ إِنَّهُمْ**
مُسْتَسْلِمُونَ سردست ٹھہر آویو کھ تم دوتھہ ذہ تھاویو کہ تم تمن چھتہ کینہہ پر ژھن **مَا لَكُمْ لَاتَتَّصِرُونَ**
 دپنہ یہ کھ توہہ کیا گوه، تمہے چھوہ نہ اکھ آگس مدد کران **بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ** بلکہ آس تم تمہہ
 دوهہ اکھ آگس ٹھولہ دوه ونے تہ اکھ آگس نشہ بے توجہ سپدہ ونے **وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ** تو پتہ
 پھیرن تم اڈے اڈین گن۔ اکھ آگس گن متوجہ سپدت گرن سوال وجواب **قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا**

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿۳۱﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا
 قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّآ اِلٰنَا لَذٰ اٰيَقُوْنَ ﴿۳۲﴾ فَاغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿۳۳﴾ فَاِنَّهُمْ
 يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۳۴﴾ اِنَّا كُنَّا لَك نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۳۵﴾
 اِنَّكُمْ كَانُوْا اِذْ اَقِيْلَ لَهُمْ اِلٰلَهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَيَقُوْلُوْنَ
 اِنَّا لَتٰرِكُوْا الْهَيْتٰنِ لَشٰعِرٍ مُّجْنُوْنٍ ﴿۳۷﴾ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ
 الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۸﴾ اِنَّكُمْ لَذٰ اٰيَقُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿۳۹﴾ وَمَا يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا

عَنِ الْعٰلَمِيْنَ چنانچہ تابع دین متبوع عن اُس کمرے وہ تو ہی گمراہ۔ کیا زہ تمہے آسوہ اسہ نغمہ زبردستی سان
 ذالہ یوان۔ اسہ پیٹھ آسوہ دباؤتہ زور تر اوتھہ اسہ گمراہ کران **قَالُوْا بَلْ لَمْ يَكُنْ لَنَا مُؤْمِنِيْنَ** تم متبوعین
 دیکھ سون زور اوس نہ توہہ پیٹھ کینہہ تہ۔ بلکہ آسوہ نہ تھی پانہ ایمان انہ ذن **وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ**
بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ بیہ اوس نہ توہہ پیٹھ سون کا نہہ زور تہ جبر۔ بلکہ آسوہ تھی پانہ سر کش توہہ **فَحَقَّ**
عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّآ اِلٰنَا لَذٰ اٰيَقُوْنَ معلوم ہجھ سپان کہ اُس ساری اُس ازلی محروم ایمانہ نغمہ۔ تھی سہز اسہ
 پیٹھ ازلی تھہ محقق تھہ کُن نظر کمر تھہ چھہ اسہ سارنہ عذابک مزہ ضرور تھن **فَاغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ**
 اسہ ذال وہ تھہ۔ اُس اُس پانہ تہ ڈعالتے راہ راستہ نغمہ **فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ** کس اَسَن تم
 ساری تھہ دوہہ عذابس اندر شریک **اِنَّا كُنَّا لَك نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ** اُس چھہ نا فرمان جرم کارن سیت یوہ
 ہے سلوک کران **اِنَّكُمْ كَانُوْا اِذْ اَقِيْلَ لَهُمْ اِلٰلَهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ** یم گے تھے تھن نہ توحید چ پڑھ
 اُس نہ رسالت۔ وندہ اوس یوان تھن دنیا س اندر پتر ولالہ الا اللہ۔ تورہ آسے سر کشی تہ تکبر کران
وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّا لَتٰرِكُوْا الْهَيْتٰنِ لَشٰعِرٍ مُّجْنُوْنٍ دپان آس کیاہ اُس ترا وکھ پنے معبود اُس شاعر س تہ
 دیوانس اک سندہ وندہ موجب۔ اللہ تعالیٰ ہجھ فرماوان یہ پیغمبر برحق نہ چھہ شاعر تہ نہ چھہ دیوانہ **بَلْ**
جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِيْنَ بلکہ چھہ پیغمبر برحق آؤس تھن نغمہ پوزدین بیٹھ۔ بیہ ہجھ سہ
 بروٹھن پیغمبرن تہ تصدیق تہ تائید کران **اِنَّكُمْ لَذٰ اٰيَقُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ** اے مشرکوتہ کافر توہہ

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾ الْإِعْبَادَ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۳۲﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ
مَعْلُومٌ ﴿۳۳﴾ فَوَاكِهِ وَهُمْ يُكْرَمُونَ ﴿۳۴﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۳۵﴾ عَلَى سُرِّ
مُتَقَبِلِينَ ﴿۳۶﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿۳۷﴾ بَيضَاءَ لَدَاةٍ
لِلشَّرِيبِ ﴿۳۸﴾ لَافِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿۳۹﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ
الطَّرْفِ عَيْنٍ ﴿۴۰﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿۴۱﴾ فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

سارنے یعنی تابعین سے متبعین سے جھگڑا دگ تکلہ ونہ عذابک ضرور مزہ ژہن و ما تجزؤن الا ما کنتم
تعملون اتھ منز چھنہ توہر پیٹھ کاہنہ ظلم کیا زہ توہر بیہ نہ سزا دنہ مگر تے کا میں ہند یہ نہہ کر ان آسوہ
الاعباد اللہ المخلصین مگر چھہ محفوظ عذابہ نشہ پروردگارہ سند خاص کرنہ آمت، ژارنہ آمت سے
شرکہ نشہ صاف و پاک کرنہ آمت بندہ۔ مراد چھہ تموا ندرہ اہل ایمان۔ تمو کمر پزنج پیروی۔ اللہ
تعالیٰ ان کمر تم مقبول سے مخصوص بندہ اُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ لہذا چھہ تہندہ خاطرہ سے رزق تیار
تھاوند آمت سمیگ حال قرآن مجیدہ کین بن سوزن اندر معلوم چھہ سپد مت فَوَاكِهِ وَهُمْ يُكْرَمُونَ
یعنی کم کم میوہ بیہ یہ تمین سیٹھاہ عزت کرنہ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ نعمون ہندین باغن اندر عَلَى سُرِّ
مُتَقَبِلِينَ تختن پیٹھ آسن روبرواکھ اکس کن ہتھ کمر تھ بہتھ۔ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ پھرہ
ناونہ بن تمین نشہ پیالہ ہم پکھ ونہ سے جاری شراب طہورہ سیت بر تھ آسن۔ بَيضَاءَ لَدَاةٍ لِلشَّرِيبِ سنی
شراب آسہ سفید، صاف و شفاف۔ یس چینس اندر چینہ والین سیٹھاہ لذیذ معلوم آسہ سپدان لَافِيهَا
غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ نہ آسہ تھہ شرابس منز کلہ دود سے بے ہوشی سے نہ عقلہ ہند نور وَعِنْدَهُمْ
قَصْرٌ الطَّرْفِ عَيْنٍ تمین نشہ آسن یہ تے جورہ تم نہ پنہ نین مردن ور اے کانسہ کن اچھہ تھان
آسن۔ تم اچھہ آسکھ دیکھہ دیکھہ۔ کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ تے جورہ آسن سفیدر اچھہ کرنہ آمت پھرہ
تک ٹھول ہشہ۔ یعنی گردو غبارہ نشہ محفوظ۔ تو پتہ بلہ تم با ایمان اگس جلس، مجمع منز جمع آسن
فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ کس پھیرن سے متوجہ سپدان اڈے اڈین کن سے اکھ اگس ہن دنیاہ ک

يَتَسَاءَلُونَ ﴿۵۱﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿۵۱﴾ يَقُولُ
 إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿۵۲﴾ إِذْ آمَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
 وَأَنَا لَكَ بِئُورٌ ﴿۵۳﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿۵۴﴾ فَاطَّلَعَ
 فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿۵۵﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ ﴿۵۶﴾
 وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿۵۷﴾ أَفَمَا نَحْنُ
 بِبَيِّنَاتٍ ﴿۵۸﴾ الْأَمْوَاتِ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿۵۹﴾ إِنَّ

حالاتھ پر ژھنہ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ تمومنزہ ونہ اکھ وُن دولاہ زہہ دنیاء س اندر اوس
 میہ اکھ ملاقاتیا، مٹرک سئ اوس میہ بطور تعجب پر ژھان یَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ سہ اوس
 دپان میہ کیاہ ژہ ہتھ ہتھ تصدیق کران إِذْ آمَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَأَنَا لَكَ بِئُورٌ اس یلہ
 مَر و توپتہ سہد و میٹرتہ اڈجہ توپتہ تموہ اُس بیہ زندہ کرنہ۔ کیاہ توپتہ بیما سہ جزاوسزاوہ۔ سہ میون
 ملاقاتی اوس مر نہ پتہ بیہ زندہ سہد نس مٹر۔ سہ آسہ ضرور جہنم و وٹمت۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ
 اللہ تعالیٰ سندر شاد سپدہ کہ اے جنتیو کیاہ جہہ چھونہ سہ کافر و ٹھن یرھان اگر یرھان چھوہ توہہ چھوہ
 تمیک اجازت فَاطَّلَعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ اتی دیہ نظر سہ جنتی، و جہہ تس مٹرک ملاقاتیس
 جہنم منز باگ دزان قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ دپیس قسم خدا تیہ ہیرو ٹھس بہ تباہ کرن، ڈلہ
 تراون کھوہ ڈس منز۔ ژبیہ ہیرو ٹھس بہ تیہ قیامتک مٹر بنلان۔ از آسہ ہاہہ تیہ ژے سیت عذابس گرفتار
 وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ہر گاہ نے میانس پروردگارہ سز میہ پیٹھ مہربانی تیہ فضل
 آسہا بوہ تیہ آسا ژے سیت عذابس گرفتار۔ مگر خداین کور میہ پن بوڈ فضل۔ بوہ تھوونس صحیح اعتقادس
 پٹھہ قائم۔ توپتہ ونہ یہ جنتی پنہ نین اہل مجلس سن أَفَمَا نَحْنُ بِبَيِّنَاتٍ کیاہ دوون جہنا اسے جنتی
 مرہ و نین اندر زانہہ الْأَمْوَاتِ الْأُولَى مگر سہ مرن ٹیس بروٹھ اکھ پھر دنیاءس اندر لبہ آو۔ وَمَا
 نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ بیہ بیہ نہ آسہ عذاب تیہ کرنہ زانہہ إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ اللہ تعالیٰ جہہ فرماوان

هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۶۰﴾ لِيُنْثَلِ هَذَا فَيَعْمَلِ الْعِمْلُونَ ﴿۶۱﴾ أَذَلِكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴿۶۲﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿۶۳﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿۶۴﴾ طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿۶۵﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَئُونٌ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۶۶﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿۶۷﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ ﴿۶۸﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَاؤُا بَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿۶۹﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ

کہ جنس اندروانتھ روحانی تہ جسمانی نعموہ حاصل سپدنہ، بے شک عینے گنہیہ بڈر ستگاری لیسئل ہذا فلیعمل العیلون یشھی کامیابی خاطرہ گومہ عمل کردین ہنز عمل کرن، ایمان اُنن تہ اطاعت کرن اذلك خیر نزلًا ام شجرۃ الزقوم یہ جنت تہ سمہ جتہ نعموہ جھا بہتر دعوتہ کن با ایمان ہندہ خاطرہ کنہ زقومک کل تمیک میوہ بیوہ تہ پھم لہ جتہ کافر ن ہندہ خاطرہ بے شک آسہ کورسہ زقومک کل آخرتس اندر عذابک ذریعہ بناوہجہ علاوہ ظالمن ہندہ خاطرہ امتحانک تہ آز مایعہ ہند سبب کہ سہ کل بوزت کرنہ سم تھہ پڑھ کنہ انکار تہ استہزاء۔ چنانچہ تمو کافر و کور استہزاء، تہ انکارے۔ دینہ لگ کہ کتہ جتہ بوزمت از تاں نارس اندر کل آسن۔ اللہ تعالیٰ جھک فرماوان اِنہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم سو جھہ اکھ کلاہ اُس کھوئمت جتہ جہنمہ کہ تکہ تلہ نارہ منزے نازک کل کھوئمت۔ جتہ پائٹھ دنیاس اندر نارس اندر اکھ خاص قسمک لگر پادہ سپدان تہ نوان چھہ تم ن لگرن جھہ ”سمندروان“ طلعمہا کاتہ رؤوس الشیطان تمیک پھل تہ میوہ آسہ سرفہ کلہ ہی بد شکل تھی سیت پیہ کرنہ ظالمن ہنز دعوت فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَئُونٌ مِنْهَا الْبُطُونَ بوچھہ سیت یلہ بے تاب آسن سپدان پس آسن تم یوہے پھل کھیوان۔ تھی سیت آسن یڈ بران ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ توپتہ یلہہ تریش آسکھ لگان تم آسن تھہ پیٹھ ہلہ نانہ آمثر سر سخت تیز گرم آب جتھہ سیت پال تہ پاکھ ملہ نانہ آمت آسہ تریعہ بدل چاوندہ یوان ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ توپتہ آسہ

يُهْرَعُونَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿۴۲﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُنْذِرِينَ ﴿۴۲﴾ الْإِعْبَادِ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۴۳﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا
 فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿۴۴﴾ وَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۴۵﴾
 وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿۴۶﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۴۷﴾
 سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿۴۸﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۹﴾

سمن بیہ و اہل سن نارِ جہنم منز۔ یعنی تہ روزن بدستور۔ یہ بیٹھ عذاب کیا زہ سنا بیٹھ کرنہ۔ تم کیا
 آس نہ خدایہ سندہ ہدایہ موجب پکان بلکہ اِنھُمُ الْقَوَائِدُ هُمْ ضَالِّينَ تم لو سب ہنن مال بدب
 ڈلٹ فہم علی اشرؤم یہرعون ہل آس تم تہ تخنہ پتہ پتہ اچھ ڈلٹھ دوران سمن اکہہ وقتہ کین کافر
 بروٹھ تہ ولقد ضل قبلہم اکثر الاولین بے شک ڈلٹ آس بروٹھ ہو اندرہ اکثر لوکھ ولقد
 ارسلنا فیہم منذرین تو پتہ سوز آسہ تہن منز بیم گرہ ون پیغمبر فانظر کيف كان عاقبة
 المنذرین ہل وچھ زہ تہن بیم بیم کرنہ آمتین ہند انجام کیا ہد۔ تھہ پاٹھ گئے تم عذاب گر فدا
 ہل عذاب تہن پیٹھ دینا سے منز کرنہ آو الاعباد اللہ المخلصین مگر بچائے تمہ عذاب دنیوی نشہ
 اللہ تعالیٰ سند خاص کرنہ آمت بندہ ولقد نادینا نوحاً فلنعیم المجیبون تھتق بیہ کور آسہ نشہ فریاد
 نوح علیہ السلام یاری تہ مدتہ خاطرہ۔ یعنی دعا موٹھ۔ ہل کمر آسہ تہن فریاد سی کیا زہ آسہ چھہ رٹ
 فریاد سی کرہ ون وجعینہ و اہلہ من الکرب العظیم تو پتہ ڈیت آسہ نجات تہ بیہ تہندین تابعین جہ
 پریشانی تہ غمہ نشہ یعنی کافر ہندہ ایذا و تکلیفہ نشہ۔ بیہ انکار تکذیبہ نشہ۔ طوفانہ سیت کمر تم کافر
 غرق۔ تہن تہ تہندین تابعین ڈیت نجات وجعلنا ذریتہ ہم الباقین تو پتہ کمر آسہ تہن ذریتہ پتھ
 گن باقی روزہ ون۔ بیہ کانسہ ہند نسل رودنہ پتھ گن باقی وترکنا علیہ فی الاخرین آسہ تھو تھند ذکر خیر
 پتہ یوہ نین منزوار ہل کاس تان سلا علی نوح فی العالین پر بیٹھ طرفہ آسہ لوکن ہنزن

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۱﴾ ثُمَّ أَخْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿۸۲﴾
 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿۸۳﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۸۴﴾
 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿۸۵﴾ إِنِّي كُنَّا لِلَّهِ
 رُبُودًا ﴿۸۶﴾ فَمَا ظَنَّمُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ فَظَنَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿۸۸﴾
 فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿۸۹﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿۹۰﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمِ

زیون پیٹھ یہ کتھہ جاری کہ سلامتی بوین حضرت نوحس عالمین منز۔ خدا کھرن کہ تم تمام جن انسان تہ
 ملا یک روزن تمن پیٹھ سلام سوزان اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ اَسے چھہ تھے عوض نیکو کارن دووان
 اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ سہ نوح علیہ السلام چھہ سانیو بایمان بند و اندرہ ثُمَّ أَخْرَقْنَا الْآخِرِيْنَ تُو
 پتہ پھاٹو اَسہ باقی ساری لوکھ سمو تهنز نافرمانی کمر۔ وَاِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيْمَ بیہ چھہ بے شک نوح
 علیہ السلام سنزہ وتہ پکہ و نیو اندرہ۔ تمن سیت اصولن اندر اتفاق گرہ و نیو اندرہ ابراہیم علیہ السلام تہ
 اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ جہند قصہ تہ چھہ قابل ذکر۔ یلہ سہ پنہ نس پروردگار سُن متوجہ سہ صاف
 دلہ سیت نُس پچھہ شرکی اعتقادوتہ ریاء لشمہ پاک اوس تہہ منز خالص توحیدتہ کامل اخلاص موجود اوس
 اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ یلہ سمو پنہ نس مالس بیہ پنہ نس قومس دوپ یم بت پرست
 آس کہ تہہ کتھہ واہیات چیزس چھوہ پرستش کران اِنِّي كُنَّا لِلَّهِ رُبُودًا کیاہ اپزین مپزہ یین
 باطل معبودن چھوہ تہہ معبود بنلان یشھان معبود برحقس در آے فَمَا ظَنَّمُ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ تہند کیاہ
 خیال چھہ رب العالمیس متعلق۔ توہہ بے چھوہ نُس عبادت کرن تراثر توہیہ چھا تہندس معبود آسٹس
 منز کانہہ شک۔ سہ شک کمر و دور۔ امی قسمگ بحث و مباحثہ اوس تمن منز آسان۔ اکہ وقتہ دوت تمن
 اکہ میلک تہ عرسک موقہ۔ تمو لوگووون تمن کہ تہہ تہ سپد و نا تھہ سانس میلکس منز شامل۔ تہند غرض
 اوس کہ تمن پیٹھ پیہ مالہ کہ شان و شوکتک اثر فَظَنَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ توپتہ دژاکھ نظراہ ابراہیم علیہ
 السلامن ستارن سُن فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ توپتہ دوپکھ بہ چھس بیمار لہذا ایکنہ بہ میلکس تہندس شامل

فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ^{۹۱} مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ^{۹۲} فَرَاغَ عَلَيْهِمْ
ضَرْبًا بِالْيَمِينِ^{۹۳} فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ^{۹۴} قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا
تَنْحِتُونَ^{۹۵} وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ^{۹۶} قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا
فَالْقُوَّةُ فِي الْجَحِيمِ^{۹۷} فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ^{۹۸}

سپد تھ۔ یہ ہند ارادہ اوس کہ تم گڑھن سے مہیہ یہ موقعہ تہندین پوتلین سمار کرہ نگ۔ تمی موکھ کوزکھ
حیلہ برتارن گن دژکھ نظر۔ تمین لوکن اوس برتارن ہند اعتقاد۔ تمہ موکھ ہیوک نہ تمو کینہہ جواب
دنتھ۔ یہ ہند غرض اوس حضرت خالق حقیقی سز کمال عظمت متحضر کرن فتوکوا عنہ مدیرین توپتہ
گے تم لوکھ تمین تینے تر آوتھہ پنہ کلمہ گن فراغ الی الہیم توپتہ ژاوا ابراہیم علیہ السلام تہندس
بت خائس منز پوتلین نشہ تمین نشہ دہکھ واریاہ کینہہ چیک چیز لوکو تھومت فقال ألا تأکلون
پوتلین گن دوپکھ نہہ کیا زہ چھوہ نہ تم چیز کیہوان۔ یلہ نہ تمو تورہ کینہہ تہ جواب دوپکھ ما لکم لا
منطقون توہہ کیاہ گووہ تہہ چھوہ نہ کینہ کتھاہ کران فراغ علیہم ضربا بالیمن توپتہ ہیوکھ تمین
دہکھہ اتھہ سیت زورہ لائن۔ یوتان تمین ٹیگ کوزکھ مکڑہ سیت فأقبلوا الیہ یزفون توپتہ آے تم
لوکھ وانس تمین گن دوران دوران بانبر سیت تہ ژکھ بیتھ قال أتعبدون ما تنحيتون ابراہیم علیہ
السلام دوپکھ اے لوکو کیاہ نہہ چھوہ پرستش کران تہ چیزن ہنز تم تہ پائے پنہ نیوا تھوگران وچو کھ۔
نہ چیز پانہ توہہ گن محتاج آسہ شے شویا خدا واللہ خلقکم وما تعملون حاللہ اللہ تعالیٰ ان چھوہ تہہ
تہ ہیہ تم چیز نہہ بناوان وچو کھ تم تہ پادہ کثرت۔ تم گئے لاجواب۔ تمین پھور نہ کینہہ تہ قالوا ابناؤا
بناؤا فالقوة فی الجحیم پانہ وان لگ تم دہنہ وون کمر و تیار آم سدہ خاطرہ کوندہ ہش اکھ عمارتھاہ۔
تہہ منز زالونار۔ توپتہ تراویون سہ تہہ دزہ و نس نارس منزہ۔ فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین پس
یرشو تموا ابراہیم علیہ السلام نسبت اکھ حیلہ گرن تکلیف واتناو نگ مگر اسہ کمر تم ذلیل تہ خوار۔ سہ نار
سپد سانہ حکمتہ سیت تمین پیٹھ گل تہ گلزار پنہ قومکہ آمہ ورتاؤہ سیت یلہ ابراہیم علیہ السلام تمین نشہ

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهْدِينِ ﴿۹۹﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۰۰﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۰۲﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿۱۰۳﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿۱۰۴﴾ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّءُيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّ

ما یوس سپد وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهْدِينِ تموووپ وون کره بو-سمه شهره نشه هجرت- بوگرهه پنه نس پروردگار س لغه- سه باوه میه و ته نمبر رزه جلیه کن- توتے گرهه به- تمه پته واتناوی تم اللہ تعالیٰ ان شهر شامس منز- توت واتته کور تمووعا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ بدوردگار میه کرتے وون فرزنداه عطا نیکوکار واندره فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ توپته فرمواسه تمن بشارت ائس نرم مزاج فرزندہ سنز فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ اده یلیه سه فرزندہ ووت تمن سیت اوره یور پھیر نجہ عمره دوپ اس اے فرزند میه وچھه خوائس منز زن به ثیہ کھش کران خدایه سده حمه وونی وچھه ژه چانی راع کیاہ چھه قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فرزندن دوچھه اے میانہ بابہ صابہ نہہ کمر و حض سوکام سمیک توہہ حکم کرنے آو- میون مہ بمر واندیشہ کینہہ تہ- خدائے یوژھ میه لبوئہہ صبر کره و نیو آندره فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ توپته یلیه تموووشوے خدایه سُد حکم مون توپته سوو تموسه فرزندن ذبح کرنے خاطرہ ہتھہ کنی تو پته ہنوکھ گردنہ شر اکھ واینی وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقَتِ الرُّءُيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تان کوڑاسہ آلو تمن اے ابراہیم مر جبا- بے شک توہہ ہووہ پئن خواب عملاً پوز- وون چھہ اس حکم کران وون تراویون اسماعیل علیہ السلام تموو ترووسہ- ٹھند زوہچو تمہ علاوہ سپد تمن دو شونی مال ہتھرن تھد مرتبہ حاصل- اس چھہ تھتھ کننہ رژ مزوری دوان نیکوکارن إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۱۰۶﴾ وَقَدَيْنَهُ يَذْبُجِ عَظِيمٍ ﴿۱۰۷﴾
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۰۸﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۰۹﴾ كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۰﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۱﴾ وَبَشَّرْنَاهُ
 بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۲﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَ
 مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿۱۱۳﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ
 مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۱۴﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۱۱۵﴾
 وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۱۶﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿۱۱۷﴾

بے شک حق تعالیٰ نے اس پر تہمیدہ خاطرہ اٹھ کر ہوا امتحان۔ یہ منزلت کا مایاب سہل۔ وَقَدَيْنَهُ يَذْبُجِ عَظِيمٍ
 یہ دیت ہے کہ ہوا جانور اور تم بدلہ دینا کرنے خاطرہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ یہ تھو و اسے باقی پتہ
 یوں دینا ہندہ خاطرہ تہمید ذکر خیر۔ تم آسن دان سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سلام بوبین حضرت ابراہیم
 پیٹھ۔ چنانچہ از تان ہجرت تم پتہ یوں ہون تہمیدہ نام مبارکہ پتہ دان علیہ السلام كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
 یہ کھ کھتہ ہجرت اس نیکو کارن زور سے صلہ دوان اٹھ من عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بیشک ہجرت سہ سانبو ایمان دار
 ہند و اندرہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ یہ دڑ اسے بشارت تم حضرت اللہ سز۔ سہ
 اسے ہجرت نیکو کار و اندرہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ یہ کر اسے تم پیٹھ یہ اسحاق علیہ السلام پیٹھ
 برکت نازل وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ یہ کر اسے تہمیدہ ذریعہ اندرہ بعض نیکو کار سے بعض
 تم ہم ہجرت عمل سب سے پتہ اس پائس تن پائٹھ ظلم کر ہون اس وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ہجرت ہجرت
 کر اسے احسان موسیٰ علیہ السلام یہ ہارون علیہ السلام پیٹھ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ
 یہ دیت نجات اسے تم دوشون یہ تہمید س قوم یعنی بنی اسرائیل ہڈہ غمہ کہ ہجرت وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا
 هُمُ الْغَالِبِينَ یہ کر اسے تم یاری سے مدد فرعونس مقابلہ۔ پس سپد تم تمی تس دشمنس پیٹھ غالب

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۱۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي
 الْآخِرِينَ ﴿۱۱۹﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۲۰﴾ إِنَّا كَذَبْنَاكَ بِحُزِيِّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۲﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ
 لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْآتَتُّوْنَ ﴿۱۲۴﴾ أَتَدْعُونَ
 بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿۱۲۵﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
 الْأَوَّلِينَ ﴿۱۲۶﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۲۷﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
 الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۲۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۲۹﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ

وَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُنِيرِينَ * وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بے کمر عطا آسہ تمن دوشونی واضح کتاب
 بے ہاو کہ تمن سزوتھ و ترکنا علیہما فی الآخرین بے تھو تھندہ خاطرہ پتہ یوہ و نین منز ذکر
 خیر۔ پتہ یوہ ون چھہ ونان سلم علی موسی و ہارون سلام بوین حضرت موسی اس تہ حضرت
 ہاروس بیٹھہ انا کذبتک بحزوی المحسنین اس چھہ بیٹھہ کنیکو کارن مزوری عطا کران انہما من
 عبادنا المؤمنین تم تہ چھہ دوشوے سانو ایمان دار بند و اندرہ فان الیاس لمن المرسلین بے چھہ
 حضرت الیاس تہ تنغمبر و اندرہ اذ قال لقومہ الاتتقون یلہ تمود و پتہ نس کیاہ تہہ چھہ نا
 کھوژان خدا نس۔ اتدعون بعلًا و تذرون احسن الخالقین کیاہ تہہ چھہہ اگس پوتیس (نس
 ناو چھہ بعل پرستش کران تہ نا دووان۔ نس پروردگار ت پادہ کرہ ون چھہ تس پرستش کران چھہ
 تراوان۔ اللہ ربکم و رب ابائکم الاولین سوگو و معبود برحق نس تھند پروردگار تہ تھندین مالین بدبین
 بند پروردگار چھہ کذبوہ فالہم لمحضرون تموتہ زون سہ اپن۔ پس ین تم تہ گر فاکر تھ
 عذابہ خاطرہ حاضر کرنہ قیامتگ دہہ الاعباد اللہ المخلصین مگر ین نہ رتہ ژارنہ آمت بندہ
 و ترکنا علیہ فی الآخرین بے تھای آسہ باقی پتہ یوہ و نین اندر تھند ذکر خیر تم اس ونان سلم علی

إِلْ يَا سَيِّئٌ ۙ إِنَّكَ لَبِجْزَى الْمُحْسِنِينَ ۙ إِنَّهُ مِنْ
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۙ وَإِنَّ لَوْ طَالَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۙ
 إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۙ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ۙ ثُمَّ
 دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ۙ وَإِنَّكُمْ لَتَسُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ۙ وَبِالْبَيْتِ
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۙ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۙ إِذْ أَبَقَ إِلَى

إِلْ يَا سَيِّئٌ سلام بوبین حضرت الیاس پیٹھہ اِنَّا كَذَلِكَ بَجْزَى الْمُحْسِنِينَ سَتَّه پاتھ چھہ اَس نیکو
 کارن رثمزوری عطا کران اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ سہ حضرت الیاس تہ چھہ سانیو ایمان دار
 بندو آندره وَاِنَّ لَوْ طَالَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بیہ چھہ پز پاتھ حضرت لوط تہ چھہمیر آندره اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
 أَجْمَعِينَ یلہ اسہ تمن بیہ ٹھہدس سارسے عیاس نجات ڈیت۔ عذابہ نشہہ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ
 مگر نہ تہمزوزنانو، اہل بیٹو آندره اِنْس بجز زنانہ۔ سوروز تھی عذابس منزروان والین سیت۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا
 الْآخَرِينَ توپتہ کڈ اسہ باقی لوکن ہنزخ۔ تم گال ساری تمن کور تلک پیٹھہ وَاِنَّكُمْ لَتَسُرُّونَ عَلَيْهِمْ
 مُصْبِحِينَ * وَبِالْبَيْتِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ توپتہ چھوہ ای مکہ کیو لو کو تہمزو بسیتو کن صُحس یارات گیت پکان یلہ
 تہہ شامس کن سفر کران چھوہ۔ کیاہ توہہ چھنا فکرہ تران نافرمان لوکن ہند انجام کیاہ چھہ سڈمت وَاِنَّ
 يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بیہ چھہ یونس علیہ السلام تہ بے شک بیغیرہ آندره۔ ٹھہند تمہہ وکک قصہ تہ چھہ
 قابل ذکر۔ یلہ تموپنہ نس قومس ایمان نہ لہنہ موکھ خدایہ سہہ حکمہ عذاب بنگ وعدہ کور۔ توپتہ درای
 پانہ تمہہ شہرہ نشہہ سمہ دوہہ عذابگ وعدہ اوس تمہہ دوہہ یلہ عذاب نازل سپدنگ آثار بتین سپدن قومس
 ہیوت یونس علیہ السلام ژھاندن ایمان ائکھہ ارادہ یلہ نہ بیہ تم لبکھ کنہ تہ ساروے کور متفقہ طور رجوع
 بخدا سیٹھاہ کمر کھگریہ وزاری۔ بیہ اوکھہ بصدق دل ایمان، بجمل پاتھی۔ چنانچہ عذاب در اوپتھہ۔ یونس
 علیہ السلامس سہز امہہ واقع خیر تم دراے پنہ اجہتہادہ سیت خدایہ سندہ صرحت اجازتہ درائے توپتہ کور کھ
 ارادہ کنہ دور جایہ گوٹھہ نگ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ توپتہ گئے ژلتھہ امہہ جایہ نشہہ۔ وات اس
 مسافر وسیت بر تھہ ناوہ پیٹھہ۔ تمن ہوو کھ اشارہ۔ تمورث ناوہ۔ توپتہ سپد تم تھہ ناوہ منز سوار ہناہ گنیہ۔

الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿۱۴۰﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۱۴۱﴾
 فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۱۴۲﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۱۴۳﴾
 لَلِيتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۴۴﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
 سَقِيمٌ ﴿۱۴۵﴾ وَأَبْنَيْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿۱۴۶﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ

یکدم دوتھ سمندرس منز طوفان۔ ناوہ ہانزو وہمکھ اسہ منز چھہ گس تام بس تازہ قصوروار چھہ۔ سہ
 شخص پیہ اسہ ناوہ نچہ الگ کرن۔ ادہ ہمہ طوفان نتہ چھہ اسہ سار نے پھہ تک خطرہ
 فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ سہ قصوروار معین کرنہ خاطرہ تراوکیہ چیرہ۔ چیرین
 اندر دراو یونس علیہ السلائے خطاوار۔ توپتہ کور تمو پین پان دریاوس منز تراونہ خاطرہ پیش۔
 دوپہکھ واقعی چھس بوی پنہ بس آغس نچہ بلا اجازت ژولمت۔ تراوومیہ آبس اندر تمن اوس خیال
 دریاوک کنارہ چھہ زیادہ دور۔ یہ وایہ ژھانٹھ توپتہ کھسہ پنھس پیٹھ۔ چنانچہ تم آے تراونہ حسب
 معمول دریاوس اندر۔ مگر تھہ تمو دریاوس اندر وٹھ لائے۔ خدایہ سدہ حکمہ آیہ اکھ گاڑا۔ تھی
 کور تمن لقمہ تہ توپتہ نچہ لاون۔ یک دم پچ ناوہ۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ توپتہ نیگل تم اکھ گاڑہ
 تھہ حاکس تھہ تم آس پانس ملامتھ کران پنہ بس قصورس پیٹھ۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ بس نے
 تم آسہن تسبیح پرہ و نیو آندرہ یعنی نماز پرہ و نیو آندرہ۔ چنانچہ گاڑہ ہندس کرہنہہ مازس پیٹھ ڈیت تمو بجدہ
 تھہ منز پور کہ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لَلِيتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
 نتہ روزہ ہن تم گاڑہ ہنزہ یڈ منز قیاس تانی۔ سمہ دوہہ لھہ قبر و منزہ کڈنہ بھن۔ تمو ییلہ زیوہ سیت تسبیح
 واستغفار پور دلہ سیت ندامت تہ توبہ کور فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ توپتہ تراوی اسہ تم تمہ کی
 برکتہ میدا اس گن۔ تھہ منز نہ کانہہ کلاہ نہ سائیگ کانہہ چیزاہ اوس بحالیجہ تم آس گاڑہ ہنز یڈ منز آب و
 ہوا تہ ضروریات زندگی خاطر خواہ میسر نہ سپنہ موکھ۔ بیمار سپد مت وَأَبْنَيْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ
 پیہ کھور اسہ تمن نچہ تا پہ نچہ محفوظ روزنہ خاطرہ۔ مشادی الہ کل۔ کیاڑہ تمک و تھر چھہ بڈتہ شادہ
 آسان۔ بیہ واتاوا اسہ تمن بس اکھ جنگلی ژھاوج، یوسہ تمن دودچاوان آس وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفِ

مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۱۴۷﴾ فَأَمَّنُوا فَمَنَّبَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۴۸﴾
 فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿۱۴۹﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ
 إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿۱۵۰﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكَهَمُ لَيَقُولُونَ ﴿۱۵۱﴾
 وَلَدَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۵۲﴾ أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿۱۵۳﴾
 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۱۵۴﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۵﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ
 مُّبِينٌ ﴿۱۵۶﴾ فَاتُوا بِكْتٰبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿۱۵۷﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ
 وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۵۸﴾

اَوْ يَزِيدُونَ تو پتہ سوز اسہ تم پیغمبر اکھ لچھ خوتہ زیادہ لوکن کن تم شہر نیوآء س منز آس نئس شہر
 موصلس قریب چھہ۔ یہند تعداد اکھ لچھ تہ ترہ ساس (۱۳۰،۰۰۰)۔ اوس فَأَمَّنُوا فَمَنَّبَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ
 تمولو کو اوان ایمان گوڈہ آثار عذاب وچھتہ۔ ایمان مجمل تو پتہ تفصیلی ایمان۔ یلہ یونس علیہ السلام
 واپس آئے تمن کن۔ نئس تلہ ناو اسہ تم متع، عیش کرہ ناو ایمانچہ برکتہ آکس مد تس تام یعنی یوت تان تم
 زندہ رود فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ نئس پر ژتھو تمن تم دپان چھہ ملائیک چھہ خدایہ
 سزہ کورہ۔ کیاہ ٹھندس پروردگارہ سندہ خاطرہ گیا کورہ تہ تمن گئے پائس تھہ گبر۔ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ
 إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ کنہ اسہ کرہ پادہ ملائیک کورہ تمن تھی۔ تم آسیا تمن بناوچھہ وقتہ حاضرہ تہ موجود
 تمن وچھان أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكَهَمُ لَيَقُولُونَ وارہ چھوہ بوزان، تم چھہ پنہ نیو اپزو تھو منزہ تہ تہ اکھ تھہ
 ونان تہ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ تم چھہ بالکل اپزونان أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ
 عَلَى الْبَنِينَ کیاہ تمو کر یا پسند کورے پچوین پیٹھ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیاہ گوڈہ تو ہیہ تھہ بے
 ہودہ تجویز چھوہ کران أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیاہ تو ہیہ چھوہ ناغور کران أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ کنہ تو ہیہ
 نغمہ چھہ نئی کانہہ دلیلہاہ اتھہ پیٹھ فَاتُوا بِكْتٰبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ انو تو ہیہ پئی کانہہ کتاباہ چھوے

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۵۹﴾ ۱۵۹ اَلْاَعْبَادِ اللّٰهِ الْمَخْلُصِيْنَ ﴿۱۶۰﴾
 فَاَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۶۱﴾ ۱۶۱ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِيْنَ ﴿۱۶۲﴾ ۱۶۲ اِلَّا مَنْ هُوَ
 صَالِحٌ الْجَحِيْمِ ﴿۱۶۳﴾ ۱۶۳ وَمَا مِثْلَ الْاِلٰهَةِ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿۱۶۴﴾ ۱۶۴ وَاِنَّا لَنَحْنُ
 الصّٰقُوْنَ ﴿۱۶۵﴾ ۱۶۵ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيْحُوْنَ ﴿۱۶۶﴾ ۱۶۶ وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿۱۶۷﴾
 لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۶۸﴾ ۱۶۸ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمَخْلُصِيْنَ ﴿۱۶۹﴾

تو ہیہ پوزونہ ون وجعلوا ابیتہ و بین الجنۃ سببا بیہ چھہ ٹھہر وومت تمو خدا نس نہ جنن منزاکہ رشتہ۔
 دپان چھہ جن چھہ خدایہ سند داماد و لَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ اَنَّهُمْ لَمَحْضُوْرُوْنَ حالانکہ تھقیق جن چھہ پانہ بیہ
 کتھہ زانتھہ کہ تم تہ یلن گرفتار کتر تھہ عذابہ خاطرہ حاضر کرنہ قیامتک دوہ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ اللّٰهُ
 تعالیٰ چھہ منزہ تہ پاک سموسارو پوتھو نشہ، یلہ سم لوکھ ونان چھہ نس خلاف اَلْاَعْبَادِ اللّٰهِ الْمَخْلُصِيْنَ
 مگر چھہ محفوظ تمہہ گرفتاری نشہ اللّٰهُ تعالیٰ سندی ژارنہ امت بندہ۔ سم جنواندرہ اس تن یا نساؤ اندرہ
 فَاَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ * مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِيْنَ نَس اے مگر کیو کافر و تو ہیہ تہ بیہ تم ساری تمن ہنز تو ہیہ
 پرستش کران چھوہ میہ کو نہ خدانس نشہ کانہہ اگس دھو کہ دتھہ پانس کن پھر تھہ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ الْجَحِيْمِ
 مگر تس نس جھنمسن کن واتہ ون آسہ ازلے۔ بیہ گوہ جنن ہند حال۔ ملا یکن ہند حال چھہ، تم چھہ ونان پانہ
 وَمَا مِثْلَ الْاِلٰهَةِ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ آسہ منز چھنہ کانہہ تہ یس نہ جایاہ چھہ مقرر کرنہ امر آکھ درجہ معین
 کرنہ امت وَاِنَّا لَنَحْنُ الصّٰقُوْنَ بیہ چھہ اس صحن منز ووتھندہ روزن و آل دست بستہ کھمس تعمیل
 کرنہ خاطرہ۔ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيْحُوْنَ بیہ چھہ اسی بے شک تسبیح پڑن و اکی۔ خدایہ سنز پاکی بیان
 کران۔ غرض اسی چھہ پرستھہ طریقہ محکوم وون یلہ ملا یک پانہ پنہ نس بندہ آسئس اقرار چھہ کران۔
 تمہہ باوجود تم معبود زانن کاژاہ بے وقوفی چھہ۔ وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ * لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ *
 لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمَخْلُصِيْنَ بیہ اس سم عربکی کافر ونان نبی کریمہ سندہ تشریف انہ بروٹھہ ہر گہہ آسہ
 نشہ آسہا کانہہ نصیحت گروہن کتاباہ بروٹھہین لوکن ہندی پاٹھہ۔ استہ آسہو خدایہ سند خاص بندہ تو پتہ یلہ
 تمن بروٹھہن و اثر نصیحت کرہ ون کتاب پیغمبرہ سندہ ذریعہ فَاَنْتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُوْنَ تھہ کوڑکھ تو

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴۰﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۱﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۱۴۲﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ
 الْغَالِبُونَ ﴿۱۴۳﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۴۴﴾ وَأَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿۱۴۵﴾
 أَفَبِعَدَايُنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۴۶﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ
 الْمُنْذَرِينَ ﴿۱۴۷﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۴۸﴾ وَأَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿۱۴۹﴾
 سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۵۰﴾ وَسَلٰمٌ عَلٰی
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۵۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۵۲﴾

پتہ انکار وہ ان زانن بروٹھ پہن پانے کہ کیا ہے تمہن **وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ** تحقیق یہ
 چھ مقرر کر نہ آمت سون حکم خاص بدن یعنی پیغمبرن متعلق لوح محفوظ اس اندر **إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ**
 کہ بے شک تمہنی چھہ یقینا یاری تہ مدد کر نہ آمت تمہن یہ غلبہ دنہ **وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ**
 بے شک سان اسلامی لشکر چھہ یقینا غالب سپہ دن **فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ** پس پھر و تمہن مکہ کین کا فرن
 بصرہ تو بہ پن بٹھ بیس طرف سن یار رسول اللہ کینہہ کالاہ **وَأَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ** یہہ و چھوٹہ تمہ
 و چھن بروٹھ پہن کیا ہے تمہن **أَفَبِعَدَايُنَا يَسْتَعْجِلُونَ** کیاہ تم چھہ سانس عذائس جلد منگان **فَإِذَا نَزَلَ**
بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ادہ یلہ سہ عذاب تہمدین آنگن منرو اتھہ یہہ ادہ سپدہ سبٹھاہ بچھہ
 تمہن نیم کر نہ آمتین لوکن ہند صبح یعنی روز بڈہ بیکھ **وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ** * **وَأَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ** بلہ یہ
 تھہ یقین چھہ کہہ تمہن پیٹھہ و اتہ ضرور عذاب۔ تو بہہ تھا و تسلی کینہہ کالاہ تان کروٹہہ صبر۔ تہمدہہ تکلیفہ تہ
 ایذاک مہہ بزر و کا نہہہ غم۔ تہمز حالت روز و چھان۔ عنقریب و چھن تمہ تہ پن حالتھہ کیاہ ہے تمہن
سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ منزہ تہ پاک چھہ تہمد پروردگار اس عزتہ و ول پروردگار
 چھہ تمہو ساروی کٹھو بٹھہ ہمہ تھہ تس کن لاگان چھہ دشمن **وَسَلٰمٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ** * **وَالْحَمْدُ لِلَّهِ**
رَبِّ الْعَالَمِينَ یہہ بوین سلام پیغمبرن پیٹھہ یہہ چھہ ساری حمد و ثناء سار رب العالمین



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ① بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ②
 كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ ③
 وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفْرُونَ هَذَا سِحْرٌ
 كَذَّابٌ ④ أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا ⑤ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ⑥
 وَأَنْطَلَقَ الْمَلَكُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصِبُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ⑦ إِنَّ هَذَا

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ حرف ص ہجھ حروفِ مقطعاتِ اَو اُنْدَرہ۔ امیک معنی زلزلہ پانہ اللہ تعالیٰ۔ قسم
 ہجھس بہ ہاوان قرآن مجیدک۔ بس نصیحتہ سیت ہر ہجھ۔ یعنی ہجھ منزبے شمار نصیحتہ ہجھ ہجھ ہجھ ہجھ کہ
 ہرگز ہجھتہ تمہ کتھ پڑہیم ہم کافر ونان ہجھ کہ خدائس ورا ای کیاہ ہجھ یہیہ معبودیا سمہ کتھ رسالتس خلاف
 ونان ہجھ۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ بلکہ سمولو کو شرک و کفر س پیٹھ کمر گونڈمت ہجھ تم ہجھ
 تکبر س، تعصبس تہ بیہ مخالفس منز بوڈمت۔ امہ تعصبک تہ مخالفک سزایہ دنہ تمن اکہ دوہہ ضرور
 كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ ہجھ پاٹھ اسہ ہجھ تمورونھ کاتیاہ لو کہ عذابو
 سیت گال مت بس کر یو، تمور ہلاکتہ کہ وقتہ کریحہ نادتہ زارہ پارہ مگر سہ اوس نہ عذابہ نشہ آزاد سپد نگ
 موتہ۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ سم قریش ہجھ تجب کران ہجھ کتھ پیٹھ کہ تمورے منزہ
 آو تمن نشہ بیم کرہ ون پیغمبر اہ یعنی بشر اہ وَقَالَ الْكُفْرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ تو پتہ لگ دہتہ کافر یہ پیغمبر
 ہجھ معجزان اندر جادوگر، دعوائے نبوتس اندر آپز یور۔ کیاہ یہ شخص ہیجیا پز یور آتھ أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ
 وَاحِدًا ای تہو وار سمن معبودن ہنزہ جلیہ گئے معبود باقی سار نے ہجھ کران انکار إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ

كُنْتُمْ تُرَادُّونَ ۚ مَا سِعْنَا بِهَذَا فِي الْآخِرَةِ ۗ إِنَّ هَذَا إِلَّا
 اخْتِلَافٌ ۗ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ
 ذِكْرِي بَلْ لَتَأْتِيَنَّوْا عَذَابَ ۗ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ
 رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۙ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۙ جُنْدًا مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ

عجاہ بے شک یہ چھ آکھ عجیب چیزہ وانطلق السلامہم ان امشوا واصيدوا على العتق ان هذا
 کُنْتُمْ تُرَادُّونَ یہ ہوت نیرن وعظہ چہ مجلسہ منزہ تہند یوز ٹھیوز ٹھیو۔ باقین تہ دوچھہ پکونیرو، مضبوط تہ
 قائم روزوپنہ نین معبودن ہندس عبادتس پیٹھ۔ بے شک بیتھ منز چھہ ائس پیغمبرس خبر کیاہ ذاتی
 مطالبہہ مَا سِعْنَا بِهَذَا فِي الْآخِرَةِ ۗ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ کیازہ اسہ چھنہ یوز مثری یہ کتھہ
 بروٹھس ندیس اندر۔ یہ چھنہ کینہہ تہ مگرپانے ٹھہر وومت چیزہہ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا کیاہ اسہ
 اییو منزہ سپدہ امسی یوت پیٹھ نازل نصیجگ کلام۔ ہر گاہ کانسہ بڈس موہوس کانسہ رئیس پیٹھ سپدہ ہاتوتہ
 آس بیاکھ کتھہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان کہ یہ ہند یہ ون کہ ائس پیغمبرس پیٹھ کیازہ سپد نازل کلام الہی، اسہ
 منزہ کانسہ بڈس شخصس پیٹھ کونہ سپد نازل یہ چھنہ امہ خاطرہ کہ ہر گاہ تی سپدہ ہاتیلہ کیاہ کرہ ہن تم پڑھہ
 بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَتَأْتِيَنَّوْا عَذَابَ بلکہ چھہ تمن میانس کلامس پیٹھ وحی سوز نی اندر
 شک بلکہ ژہن تم وونہ میون عذاب اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ تہ ماچھہ تمنہ نشہ
 ٹھہندس زبردست تہ فیاض پروردگارہ سندین رحمن ہند خزانہ جمع تمن منز نبوت تہ شامل چھہ۔ نیس
 تمن خوش کرہ تس ون نبوت نیس نہ خوش کر کیکہ تس دن نہ کینہ۔ اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ سکہ تہنز حکومت چھہ زمین تہ آسمان منز۔ یہ یہ تمن دون منز
 باگ چھہ تھہ منز اگر تمن کانہہ اختیارہ چھہ آسمان وز مینس پیٹھ نیس کھس تن ہیر لاکھہ آسمانس۔ تور
 کھتھہ بدلاون تم نبوتک حکم۔ جُنْدًا مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ یہ چھہ آکھ مختصر جماعتہہ ٹھہندین

الْأَحْزَابِ ۱۱ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ ۱۲
 وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ۱۳ إِنَّ
 كُلَّ الْإِلَّاكَذِّبِ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ ۱۴ وَمَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا
 إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۱۵ وَقَالُوا رَبَّنَا
 عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۱۶ إصْبِرْ عَلَىٰ مَا
 يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۱۷

مخالفین ہنز برو تھمیدو شکت خوردہ جماعتو آندرہ یہ تہ اکھ جماعتہاہ۔ بہنز، وکھو تہ حرکتو سیت کیا زہ چھوہ
 توہیہ غمگین سپدان كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ پیغمبرن ہتھ تکذیب کورمت مکہ
 کین کافر ن برو تھ قوم نوحن، قوم عادن، بیہ قوم فرعونن اُس میٹہ وول اوس۔ اُس سزا ونہ کہ وقتہ
 اتھن تہ کھوزن اوس بحر من میٹہ تھکان وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابِ بیہ قوم
 تھودن، بیہ قوم لوطن بیہ شہر ایکہ کیو لوکو۔ تی ایزہ جما تہ لوکھ سمو شکت کھیو پیغمبرن ہندس
 مخالفین اندر اِنَّ كَلِّ الْإِلَّاكَذِّبِ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ سمو ساروی کور تکذیب پیغمبرن۔ اُس سپد
 تمن پیٹھ میون عذاب ثابت وَمَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ سم ملک
 کافر چھنہ پیاران مگر تھ گنی کریجہ تھ منزہ شہہ تھکنہ موکھ ژھین آسہ بلکہ آسہ گنی شہہ سیت سہ
 چھو کہ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ بیہ چھہ دنان سم کافر ٹھٹھہ پآٹھ اے سانہ
 پروردگارہ جلد مکن وانہ ناوتہ آسہ پن حصہ عذابک حسابک دوہینہ برو تھ اِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
 وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ تہہ کمر و صبر یار رسول اللہ تمن تھن پیٹھ سمہ تم کافر دنان
 چھہ۔ بیہ پآویون ژیتس سون بندہ داؤد علیہ السلام اُس قوتہ وول تہ صبرہ وول اوس عبادتس تہ دشمن
 ہندس تکلیف پیٹھ۔ تم اُس خدا ایس گن سیٹھاہ رجوع کرن وائل۔ آسہ آسہ کر مرزہ یمن یہہ نعمتہ عطا
 اِنَّا سَعَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِالْعِشِيِّ وَالْاَشْرَاقِ آسہ آس مخر تہ رام کمر مت کوہ یم تمن سیت

إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعِثِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝^{۱۸}
 وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ آوَابٌ ۝^{۱۹} وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ
 وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ۝^{۲۰} وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخِطْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝^{۲۱}
 إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِينَ بَغْيِ
 بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى
 سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝^{۲۲} إِنَّ هَذَا آخِرُ لَه تَسْعَةٍ وَتَسْعُونَ نَعَجَةً وَّوَلِي

اَس تَبِيحُ بَدَانِ شَاسٍ تَه صَحْسُ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ آوَابٌ بِيه كَرِي تَمَن مُمْخَر جَانُورِ يَم سُونَبَرِنَه اَسِي
 اَمَتِ تَمَن رِغْمِه سَارِي كُوه تَه جَانُورِ اَسِي تَهْبِدِه وَجِهَه ذِكْرَه سِيَتِ مَشْغُولِ رُوزَانِ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ
 الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ بِيه كَرِ اَسِيه مَضْبُوطَه تَه مَحْكَمِ تَهْمَزِ سُلْطَنَتِ بِيه كَرِ اَسِيه عِظَا تَمَن حِجْمَتِ كَالِه جَارِ بِيه
 فَيَصْلَه كَرِه وَان كَلَامِ نَسِ نَهَايَتِ وَاصْح تَه جَامِعِ اَوْسِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخِطْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ بِيه چَهَاوَاثِرِ مِثْر
 تُوْبِه رِغْمِه مَقْدَمِه وَالْيَمَنِ هَمَزِ خَبْرِ يَلِيَه زَيْنِ جُورَاهِ تَمَن رِغْمِه مَقْدَمِه تَهْتَه اَعْرَا تَهْتَه كَيْتِ سَمِيَه وَوَقْتِه تَمِ خُلُوتِ
 عِبَادَتِ خَانَسِ مَنْزِ مَشْغُولِ اَسِي خَدَايَه سِنْدِسِ يَادَسِ سِيَتِ - پَهْرَه وَالْيُوسُفُوهُو تَرَاوَنَه تَمِ سِيْدِه دَرُوزَاهِ كَنِ بِيه
 وَوَقْتِ يَنَه مَوْكَه - مَكْر تَمِ تَرَايَه تَمَن رِغْمِه دِيَاوَرَه پِيْئَه دُوْثَه دِهْتَه - تُوْبَه تَه وَآتِ تَمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَه سِنْدِسِ
 عِبَادَتِ خَانَسِ مَنْزِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ يَلِيَه تَمِ تَرَايَه دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَسِ رِغْمِه
 نَسِ كَهُو تَمِ تَمَن رِغْمِه تَهْبِدِه بِيه وَوَقْتِ يَنَه كَه سَبِيَه تَمُو دُوْپَه كَه كَهُو تَرُوْمَه حَضِ حَصْمَيْنِ بَغْيِ بَعْضُنَا عَلَى
 بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ اَسِي چَهَه تَازَاك زَه فَرِيْقِ - اَسِيه اَنْدَرَه
 كَمْرَاكِ بِيْسِ پُوْثَه زِيَادَتِي - نَسِ كَمْر وَتَه اَسِيه مَنْزِ فَيَصْلَه پَرَه سِيَتِ - تَهْتَه بِيه اَلْصَانِي كَمْر - هَاوُو سِيَز وَتَه تُوْبَه
 دُوْپ تَمُو اَنْدَرَه اَك زَيْنِ مَقْدَمِ مِجِ صُور تَه حَضِ پَهْتَه يَهْتَه پَاْطَشِي اِنَّ هَذَا آخِرُ لَه تَسْعَةٍ وَتَسْعُونَ نَعَجَةً
 وَّوَلِي نَعَجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ الْكَلْبِيُّهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ اَك شَخْصِنِ دُوْپِ يَه دُو سَمِ زُونِ حَضِ پَهْتَه مِيُونِ
 بُوِي - اَسِي رِغْمِه چَهَه نَمَه نَمَه ۹۹ كَمْبِه - مِيَه حَضِ پَهْتَه حَرَفِ اَك كَمْبِه نَن - يَه بُوِي پَهْتَه مِيَه دِيَا نِيَه اَك كَمْبِه نَن

نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ الْغَلْبِيُّهَا وَعَزَّيْنِي فِي الْخُطَابِ^(۱۲) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ^(۱۳) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ^(۱۴) يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ط

ترہ ذہنہ می۔ بہرہ حض چھم تھو سیت غالب سپدان۔ میہ ہجھہ تھہ تہ دو ان کرنہ **قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ** تم دو پوچھ یہ ہجھہ یقیناً تہ پٹیہ ظلم کر ان چا ان آکھ گہہ ہن معجہ سیت یوہ سہ ملہ ناوہ ہا پنہ نین گمن سیت **وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ** اکثر شریک ہجھہ زیادتی کر ان آکھ اگس پٹیہ مگر ہجھہ کر ان تم سمو ایمان اون بہرہ کر کیکہ رثہ عملہ۔ تمہہ قسمک لوکھ یعنی ایماندار چھہ کمنے **وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ** تو پتہ آو دو او علیہ السلام خیال کہ یہ مفدہ میہ نیشہ بیگانہ وقتہ پیش کرنس اندر ہجھہ بیہ حکمت کہہ آسہ کور امہ سیت ٹھنڈا امتحان کہہ آس وچھو کوتاہ صبر و تحمل گرہ و ن ہجھہ داو دو علیہ السلام۔ کیا زہہ تھس ہنڈس جلیل القدر پادشاہ سندس خلوت خانس بلا اجازت کانہہ ہنڈ واٹن تو پتہ امہ بے ربطی سیت کلام کر ان یجھہ منز کافی گستاخی آس تہ ٹھنڈا تھہ سہاری پٹیہ صبر و تحمل کر ان۔ چنانچہ تممو مونگ مغفرت پنہ نس پر و درگارس۔ بہرہ نے یہ بون گن بہرہ کور ر کھ رجوع بخدا **فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ** نس بخش آسہ تمن سہ معاملہ سمہ خاطرہ امتحان کرنہ آکھ۔ بہرہ ہجھہ بے شک تمن آسہ نیشہ خاص قر بک مقام بہرہ رت انجام **يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ** آسہ

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا
ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿۲۸﴾
أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿۲۹﴾ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ

فرمود تم ن اے داؤد اُسے بنو کہ ژہ حاکم ز مینس اندر۔ نِس کر ژہ حکم آئیدہ لوکن اندر انصاف سیت۔
یتھ پاٹھ از تان کران رو دکھ۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِیہ یتھ پاٹھ از تام نفع پیروی
کمر وہ نہ یتھ پاٹھ مہ کمر و پیروی نفعی خاہے ہنز۔ نفع پیروی کرن ڈالوہ تو بہرہ خدایہ سزہ و تہ نفع۔ إِنَّ
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ہنز پاٹھ سم لو کہ ڈالان چھہ
خدایہ سزہ و تہ نفع تہندہ خاطرہ چھہ سخت عذاب کیا زہ تمو مشر و حسابگ دوہ یعنی قیامت وَمَا خَلَقْنَا
السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا بِیہ کمر نہ اسہ آسمان تہ زمین بیہ یہ تمن دون منز چھہ پیدہ بے ہودہ
خال از حمت ذَلِكْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِہ چھہ خیال کافر ن ہند فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ کافر ن
ہندہ خاطرہ چھہ آخر نِس اندر بڈ خرابی۔ سہ گوہ جہنمک عذاب کیا زہ انکار کرنہ سیت سانس اگس بڈس
حتمس تہ انکار کران۔ کیا زہ بدلائل نقلیہ و قطعیہ چھہ اسہ بتصریح بیان کورمت کہ قیامتس اندر چھہ بیہ
حکمت کہ یتھ اَس نیکو کارن جزاء تہ مُفسدن سخت سزا دم۔ وون نِس قیامتس انکار چھہ کران سہ چھہ
خدایہ سندس اتھ حتمس انکار کران بلکہ چھہ سارنہ برابر زانان۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان أَمْ يَجْعَلُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیاہ اَس کر وہ تم سمو
ایمان اون بیہ کر لیکہ رژہ عملہ تمن لوکن ہی سم ز مینس پیٹھ کفر و نافرمانی کمر تھ دُنیا س منز فساد تہ
تباہی کران چھہ بین الفاظن اندر گوہ یتھ پاٹھ کہ بیہ کر وہ اَس پر ہیز گار تہ خدائس کھو ژہ و ن تہ بدکار
برابر۔ یتھ پاٹھی توحید تہ بعث دلیلو سیت ثابت چھہ یتھ پاٹھی چھہ نبوت و رسالت تہ بدلیل ثابت۔

لِيَذَّبَنَّ رُؤْيَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ (۲۹) وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ
 نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ (۳۰) إِذْ عَرَّضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفِيْنَتُ
 الْجِيَادُ ۝ (۳۱) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى
 تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ (۳۲) رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ

کتاب آنزلنے الیک مُبرک لید بَرُوْا ایتہ ولیتذکر اولو الالباب یہ قرآن مجید ہے کتاب یوسہ آسہ
 نازل کمر یار رسول اللہ توہم کن، بابرکت کتابہ یمہ کین الفاظن، حرفن یتہ معائن اندر چھہ پور برکت یتہ
 لوکہ یمن آیتن اندر غور یتہ فکر کرن یمہ یتہ عقلہ والی تمہہ سیت نصیحت رُٹن وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ
 نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ یمہ کر آسہ عطا داد علیہ السلا مس فرزند سلیمان علیہ السلام۔ کیاہ رُت بندہ چھہ
 سہ سلیمان علیہ السلام۔ پر یتہ وقتہ خدا نِس کن رُجوع کرہ ون۔ چنانچہ تمہند قصہ چھہ قابل ذکر اِذْ
 عَرَّضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفِيْنَتُ الْجِيَادُ یمہ کہ دوہہ تمہن پیش آئی کرنہ شامہ وقتہ عمدہ تیز رفتار گُر
 تم جہادہ خاطرہ تھاونہ امت آس تمہندس وچھنس یتہ ملاحظہ کرہ نِس اندر لوگ واریاہ وقت۔ نمازہ
 گووڑیر۔ چنانچہ جلال و ہیبتہ سببہ ہیوک نہ کانسہ جرات کمر تھہ کہ تمہن کرہ ہن اتھہ پیٹھہ مطلع توپتہ سپد
 تمہن پانہ سے امیک خیال فَقَالَ توپتہ لگ فرماونہ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى
 تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ افسوس یمہ کورا اختیار مالگ محبت یمہ سیت بہ غافل سپدس پنہ نِس پروردگارہ سندہ عبادتہ
 نِعْمَ یوتان آفتاب کھٹھہ رود شامہ کس ہر درس تل رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْتِنَا
 فرموو کہ یمہ اینوکہ واپس تمہ گری یمہ نِشہ۔ توپتہ ہیو کھٹھہ تمہن گُرین گروزن یتہ گردن پھش دِسِن
 شمشیرہ سیت۔ یعنی تمہ کمر کہ ساری ذن۔ کیاہہ نِس مال خدلیہ سندہ یادہ نِشہ غافل سپدنگ سبب سپدہ
 سہ مال گودھہ نہ پانس نِشہ روزے۔ اکھ قصہ تمہند گوویہ۔ بیا کہ قصہ چھہ۔ متفق علیہ چھہ حدیث شریفچہ
 اکھ نِشہ سپد سلیمان علیہ السلام پنہ نین امراء لشکرن نِشہ جہادہ کس اگس معاملس اندر آزردہ۔ توپتہ
 فرموو کہ ازرات کیت سپدہ بہ پنہ نین ستہ تن زنان سیت ہم بستر تمہن نِشہ سپدن پیدہ ستھہ فرزند یم

وَالْأَعْنَاقِ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَانَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ
 أَنَابَ ﴿۳۸﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَبْتَغِي لِإِحْدَىٰ مِنْ
 بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۳۹﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ
 رُحَاءَ حَيْثُ أَصَابَ ﴿۴۰﴾ وَالشَّيْطَانَ كُلًّا بِنَاءٍ وَعَوَاصٍ ﴿۴۱﴾ وَالْآخِرِينَ
 مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿۴۲﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ

مجاہد سپدن ان شاء اللہ ہر دن گوکہ مشیت۔ نتیجہ در او کہ کانسہ زنانہ رود نہ امہ شبہ حمل۔ صرف رود اکس زنانہ
 نائہ پیاد یعنی ناتمام چیر۔ سہ ناتمام چیر ہتھ آیہ دای تو پتہ ترود کھ تخس پیٹھ **وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَانَ**
عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ تحقیق بیہ کمر اسہ آزمائش تہ امتحان سلیمان علیہ السلام بیہ ترود اسہ
 تہندس تخس پیٹھ بدناہ، بے روح تو پتہ کور تمور جوع بخدا بیہ کور کھ ان شاء اللہ نہ پرہ نس پیٹھ توبہ
مَوْجَّهًا دُعَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَبْتَغِي لِإِحْدَىٰ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ دعا کور کھ ای
 میانہ پروردگارہ میہ کر مغفرت پتہ میں گو نہن۔ بیہ کرم عطا آئیدہ خاطرہ سو سلطنت یوسہ نہ کانسہ آگس
 میہ ور آئے اسہ۔ بے شک ژے چکھ سورے عطا کرہ ون۔ ژبیہ نشہ چھنہ بیہ دعا قبول کران کینہہ دشوار
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءَ حَيْثُ أَصَابَ نس کور اسہ واؤ تمین مسخر تہ تابع۔ سہ واواوس پکان
 تہندہ حکمہ وارہ وارہ یوت تمین واہنگ ارادہ آسان اوس۔ سمہ سیت تمین گرین ہنز چنداں ضرورت
 روزنہ **وَالشَّيْطَانَ كُلًّا بِنَاءٍ وَعَوَاصٍ** بیہ تھادو تابع تہ مسخر اسہ تمین شیطان یعنی جن۔ تم ساری تم دسل
 آس بیہ ڈونگل آس سمندرہ منزہ غوطہ دتھ موختہ کھاران **وَالْآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ** بیہ تمین
 ورارے بے جن یم ہانکو سیت بند آس کرنہ امت قید تھانہ امت عدول حکمی سبہ۔ خدمات مفوضو
 نشہ تم جن ژلان آس تعمیل حکم آس نہ کران۔ تمین اوس امی قسمہ سزاد نہ یوان **هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ**
أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ اسہ فرموس اے سلیمان یہ چھٹی ژبیہ سانہ طرفہ اکھ عطیہ بے پادشاہ چھنہ
 آسان ملکہ کین خزان ہند مالک۔ بلکہ چھہ تم آسان ملکہ ناظم۔ مگر جہ کمر وہ اسہ مالک تمام خزان

حِسَابٍ ﴿۳۹﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسْنَ فَاٰبٍ ﴿۴۰﴾ وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّآءًا
 اٰیُوْبَ اِذْ نَادٰی رَبَّهٗ اِنِّیْ مَسْنِی السَّیْطٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿۴۱﴾
 اَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿۴۲﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗ
 اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرًا لِّاُولٰٓئِی الۡاَلْبَابِ ﴿۴۳﴾

ہندس خوش کردہ نس دیو۔ ہر گاہ پانسے نیشہ تھا و۔ سانہ طرفہ چھنہ کانہہ باز خواست وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا
 لَزُلْفَىٰ وَحَسْنَ فَاٰبٍ امہ دنیا کے سامانہ علاوہ چھ تہندہ خاطرہ اسہ نیشہ خاص قرب۔ بیہ نہایت اعلیٰ
 درج نیک انجامی۔ سمیک ظہور آخر نس منز سپدہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّآءًا اٰیُوْبَ اِذْ نَادٰی رَبَّهٗ اِنِّیْ مَسْنِی
 السَّیْطٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ بیہ پایون تہیتس سون بندہ ایوب علیہ السلام۔ یلہ تمو پنہ نس ہروردگار س
 ہد اکورای میانہ ہر وردگارہ شیطان چھہ واتاوان میہ ایذاتہ تکلیف۔ سہ تکلیف اوس یوہے کہ اکہ دوہہ
 سٹھہ وتہ پکان شیطان تہندین باژن طیبیہ سزہ شکلہ منز۔ تمو کور خیال یہ چھہ حکیم۔ اہس اٹھہ کرہ ناؤو
 ایوب علیہ السلامس علاج۔ تمی دوپچھہ بہ کرہ تمن علاج چھہ شرتس پیٹھہ کہ ہر گاہ شفا بہ تمن۔ ٹہند گڑھہ
 دہن کہ ژے دُیْتھہ تمن شفا۔ امہ ورائے چھس نہ بہ کانہہ معاوضہ توہہ نیشہ یرشہان۔ تمو کور امیک
 تذکرہ ایوب علیہ السلامس نیشہ۔ تمو فر موو کہ بی بی بی بی پچھے ناخبر یہ کس چھہ یہ چھہ شیطان۔ تمن سپد
 امیک سخت رنج۔ تمو دوپ میانہ بیماری سببہ لوب شیطانس موقہ میانہ گرواجہ اٹھہ چھہ شرکک کلمات
 ونہ ناوک۔ لہذا ہوو کہ قسم کہ بہ لایہ پنہ نین باژن ہتھہ قچہ۔ اللہ تعالیٰ اَن کمر تہندس معھ نس
 اجابت۔ فر موو چھہ اَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ اے حضرت ایوب لٹھہ دیو پنہ کھورہ
 سیت ز مینس۔ آتی دراوتہ نس ناگہ راد۔ اللہ تعالیٰ اَن فر مووس اے حضرت ایوب یہ آب چھہ ٹہندہ
 سران کرنے خاطرہ، جڑن آب۔ بیہ چھہ ٹہندہ چنہ خاطرہ۔ چنانچہ تمویان امہ آبہ سیت غسل کور، بیہ
 چو کہ سہ آب تانی سپد کہ سوڑی تکلیف دور وَوَهَبْنَا لَهٗ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرًا لِّاُولٰٓئِی
 الۡاَلْبَابِ بیہ کمر اسہ عطا تمن گرک باژ۔ سم مکانہ کس ہمش تل گڑھتھہ مووست اس بیہ تمن ہی تمن سیت

وَحَدُّبَيْدِكَ ضَعْفًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْتَسِبْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا
 نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۳۶﴾ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَأَسْحَقَ وَيَعْقُوبَ
 أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿۳۷﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرْنَاهُ الْكَلِمَ
 وَاللَّهُمَّ عِنْدَنَا لَيْسَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ ﴿۳۸﴾ وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَ
 الْيَسَعَ وَذَ الْكِفْلَ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿۳۹﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ

بہے باثر ہے، پندہ خاص مہربانی سیت بہے ہتھ عقل مندن ہندہ خاطرہ اکھ یادگار روزہ۔ یعنی عقلہ والین ہند گوشہ یاد تھاون کہ صبر کرہ وین کیتھ رت جزاء چھہ اللہ تعالیٰ ووان۔ امہ پتہ کور ایوب علیہ السلام ارادہ کہ پنن قسم کرہ پن تم پورہ یعنی الین پنن لایہ پنن ہتھ قچہ۔ مگر چوچہ تموا اس ایوب علیہ السلام سیتھا خدمت کمر مژ خصوصاً تھہ بیمارہ اندر بہہ اس نہ تھندہ طرفہ خاص کانہہ نافرمانیاہ امر کرہ لہذا کمر اللہ تعالیٰ ان پندہ مہربانی سیت تھندہ خاطرہ اکھ خاص حکماہ نازل سمہ سیت تھندہ حثہ اکھ تھنفاہ سپد بہہ فرموا سہ ایوب علیہ السلام وَحَدُّبَيْدِكَ ضَعْفًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْتَسِبْ رَلُوْجُہہ اَحْس منز مورہ بودارہ ہتھ منز اکھ تھہ مورہ آسن تھی سیت لایوئہہ ژند باژن پنن پنن قسم مہ پھڑہ رآوود۔ چنانچہ تی کور ایوب علیہ السلام من امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرمادان ایوب علیہ السلام تعریف کہ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ بیشک اسہ لوب سہ صبر کرہ وون بندہ۔ کیاہ رت بندہ چھہ سہ۔ بے شک سہ چھہ سیتھا رجوع کرہ وون پنن نس خدائس گن وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَأَسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ بہے کمر ویاہ سانین بندن ہند، ابراہیم علیہ السلام سہ، اسحاق علیہ السلام سہ بہے یعقوب علیہ السلام سہ۔ ہم اٹھو کھو روسیت اسی بندگی کران۔ اچھو سیت اس آثار قدرت و چھتھہ مغفرت حاصل کران۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرْنَاهُ الْكَلِمَ اسہ اس تم مخصوص کمر مت کہ خاص کتھہ سیت۔ سہ گوہ آخر تک گھرہ بکثرت یاد کر نہ سیت وَأَلَّهُمْ عِنْدَنَا لَيْسَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ بہے چھہ تم حضرات اسہ نشہ یقیناً ژار نہ آتیر تو بند واندردہ وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَ الْكِفْلَ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ

لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَا بٍ ﴿۵۹﴾ جَدَّتِ عَدْنٌ مُفْتَحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿۶۰﴾
 مُتَكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِغَاكِهِ كَثِيرَةً وَّشَرَابٍ ﴿۶۱﴾
 وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الطَّرْفِ اُتْرَابٍ ﴿۶۲﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ
 الْحِسَابِ ﴿۶۳﴾ اِنَّ هَذَا الرِّزْقُ مَالَةٌ مِنْ تَفَادٍ ﴿۶۴﴾ هَذَا طِرَانٌ
 لِلطُّغْيَانِ لَشَرِّ مَا بٍ ﴿۶۵﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْاِبْهَادُ ﴿۶۶﴾ هَذَا

بیہ کریون یاد اسماعیل علیہ السلام بیہ الیسع علیہ السلام، نیس صاحب الیاس علیہ السلام بن نایب
 سوڑمت اوس بنی اسرائیل کن۔ پتہ سبز تمّن نبوت عطا۔ بیہ ذوالکفل علیہ السلام۔ سم ساری تہ چھ
 رتیوبند و آندرہ ہذا ذکر یہ چھ نصیحت کلامہ۔ یہ سپد ختم امہ پتہ چھ بیان جزاء و سزاء اک۔ تمیک
 تفصیل چھ تھہ پاٹھی کہ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَا بٍ بیہ چھ پر ہیز گارن ہندہ خاطرہ آخرتس منز
 رز جایاہ روزنہ خاطرہ جَدَّتِ عَدْنٌ مُفْتَحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ یعنی ہمیشہ روزنک باغ تمّن ہند دروازہ و تھ
 آسن تراونہ آمت تمّن پر ہیز گارن ہندہ خاطرہ مُتَكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِغَاكِهِ كَثِيرَةً وَّشَرَابٍ
 تکیہ و تھ آسن بہتھ تمّن جنمّن منز۔ طلب آسن کران تمّن جنمّن کین خدمت گارن نشہ تمّن جنمّن منز
 واریاہ قسمک میوہ بیہ واریاہ قسمک چنہ چیز۔ وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الطَّرْفِ اُتْرَابٍ بیہ آنکھ بروٹھ کنہ
 خوب صورت تہ خوش شکل زنانہ یعنی حورہ بیہ بون کن نظر تھاونہ آسن۔ تم آسن اکی عمرہ ہم سن وندہ
 بیچھ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اے مسلمانو سیمہ چھ تمہ نعمت تمّن ہند توہم وعدہ اوس تھاونہ
 یوان قیامتک دوہ نپٹھ اِنَّ هَذَا الرِّزْقُ مَالَةٌ مِنْ تَفَادٍ بے شک یہ چھ سون رزق۔ اتھ چھونہ زانہہ
 تہ و و برن تہ ختم گڑھن میہ چھہ دائی نعمت ہمیشہ پوشہ و نہ یہ مضمون گوو ختم نپٹھ اہل سعادتن متعلق
 اوس۔ وون بوزو امہ پتہ اہل شقاوتن ہند حال هَذَا وَاِنَّ لِلطُّغْيَانِ لَشَرِّ مَا بٍ بیہ چھ کرش تہ نافرمان ہندہ
 خاطرہ سیٹھہ بیچھ روزنک جائے جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْاِبْهَادُ سو جای گیہ جنم بیچھ منز تم داخل سپدن۔
 نپٹھ چھہ سیٹھہ بیچھ جائے هَذَا فَلْيَذُوقُوْهُ حَبِيْبًا وَّعَسَاۗءُ وندہ بیچھ اے جنم بیوہ چھوہ سر بیہ پال تہ

فَلْيَذُوقُوا حَبِيمٌ ۙ وَغَسَّاقٌ ۙ وَالْآخِرِينَ سَكِيلَةً ۙ أَرْوَاجٌ ۙ هَذَا
 فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ۙ لَا مَرْجَاءَ لَهُمْ ۙ أَنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ ۙ قَالُوا
 بَلْ أَنْتُمْ لَمَرْجَبًا بِكُمْ ۙ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا ۙ قَيْسُ الْقَرَارِ ۙ
 قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فِرْدُةً عَذَابًا ۙ ضَعُفَانِي النَّارِ ۙ
 وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۙ
 أَخَذْنَا لَهُمْ سِخْرِيًّا ۙ أَمْزَاجَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۙ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ

پاک۔ اتھ تہ وچھو مزہ۔ وَالْآخِرِينَ سَكِيلَةً أَرْوَاجٌ بہیہ آسن اتھ ہی واریاہ چنک تہ کھنک چیز۔ تم سیکھاہ
 پیچھ، ناگوار تہ تکلیف دہ آسن ہذا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَاءَ لَهُمْ صَالُوا النَّارَ یلہ زکھین تہ
 منبو عن ہنز جماعت جہنم منز داخل سپدہ توپتہ بن آنہ تہ داخل کرنہ تہندی تابع۔ تم وہن پانہ وانی
 یکیا آیہ بیاکھ جماعت یم توہمہ سیت عذابس اندر شامل سپدہ نہ خاطرہ جہنم اندر ٹریل کمر تھہ چھہ
 اثران۔ خدا ان سمن بلایئ سمن مہ بن کشادہ جائے کئے۔ سمن تہ چھہ اثرن نارس اندر قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ
 لَا مَرْجَبًا بِكُمْ تم دیکھہ تورہ بلکہ مہ بلن کشادہ جائے کئے تو ہی ان خدایند بلایئ آنتم قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا قَيْسُ
 الْقَرَارِ پس کا تراہ پیچھ جائے چھہ یہ جہنم پس اسہ تہندہ وجہہ پیش آؤ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فِرْدُةً
 عَذَابًا ۙ ضَعُفَانِي النَّارِ پانہ وان اکھ اُس پیٹھ چھاوہ داسی کمر تھہ کمرن دُعا، اے سانہ پروردگارہ سمویہ
 عذاب تہ مصیبت اسہ بروٹھکن ترودتہ واتنا تمکن کرنہ ژہ زیادہ عذاب دوگنا و تھہ نارس اندر وَقَالُوا مَا لَنَا
 لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ توپتہ دہن ساری جہنمی کیاہ سنا و جہہ چھہ اس چھہکنہ و چھان
 یتہ تم لوکھ تم اسی گنزران آسکھ پیچھ تہ ناکارہ لو کو اندرہ یعنی مسلمان أَخَذْنَا لَهُمْ سِخْرِيًّا ۙ أَمْزَاجَتْ عَنْهُمْ
 الْأَبْصَارُ کیاہ اس آسہ تم ناسق ٹھٹھہ کران۔ تم آس نہ فی الحقیقت نارس لایق۔ کنہ جہنم اندر چھہ
 تم تہ موجود، مگر سانہ نظرے چھہ تم نیشہ ڈجہ مژہ یت آتھہ چھہ نہ در میٹھی یوان عذابس سیت چھہ
 یہ کتھہ سانہ حقہ باعث حسرت إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُكُمْ أَهْلُ النَّارِ بے شک یہ چھہ واقعی سپدہ ون یعنی

تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿۳۶﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمِمَّنْ إِلَّآ اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۷﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ
 الْغَفَّارُ ﴿۳۸﴾ قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٍ ﴿۳۹﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿۴۰﴾ مَا
 كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿۴۱﴾ إِنْ يُؤْتَىٰ
 إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۲﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي

جہنمین ہنزپانہ والی ہر ہر کرن قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ جہمہ فرما یو کہ یار رسول اللہ ای لو کو جہمہ بس توحیدو
 رسالتس انکار کران چھوہ، امیک ضرر چھوہ توہمہ پانس۔ میہ کتہہ قسمیہ امیک ضرر چھنہ کیا زہ بہ چھس
 توہمہ اکہ نیم کرہ وناہ خدایہ سندہ عذابہ ریشہ وَمِمَّنْ إِلَّآ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ بیہ فرما یو کہ بیہ پاتھ
 میون پیغمبر تہ نیم کرہ وناہ اسن اکہ امر واقعی چھہ بیہ پاتھ چھہ توحید تہ اکہ پوز تہ واقعی امرہ یعنی خدا بس
 وراے بس کتہے تہ غالب چھہ چھنہ کانہہ اکہاہ عبادتس لایق رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ
 الْغَفَّارُ بس آسمان تہ زمین ہند پروردگار چھہ بیہ تہن دون منز چھہ تمہ سارکے پروردگار تہ مالک
 سیٹھاہ زبردست تہ سیٹھاہ چھنہار چھہ ہندن ہندین بے شمار گوئمن قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٍ * أَنْتُمْ عَنْهُ
 مُعْرِضُونَ جہمہ فرما یو کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر یعنی اللہ تعالیٰ سندن توحیدو شراعتن ہنز
 تعلیم کرنہ خاطرہ بوسوزن، بیہ چھہ اکہ عظیم الشان مضمونہہ سمیک توہمہ سیٹھاہ اہتمام کرن شوبہہ ہاگر
 افسوس جہمہ چھوہ امہ ریشہ سیٹھاہ بے پروا سپدان۔ اکہ عظیم الشان آسک وجہ چھہ یوہے کہ امہ وراے
 چھہ سعادت حقیقی حاصل سدن محال مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ میہ اس نہ کہین
 خبر عالم علوی ہنزن مجلس ہنز۔ بلکہ ہم یعنی ملاء اعلیٰ اک لو کہ آدم علیہ السلامہ سزہ پاد ایشہ متعلق بحث
 اس کران۔ میہ آہ خبر کرنہ بعض تمن معاملن ہنز وجیہہ ذریعہ إِنْ يُؤْتَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
 میہ گن چھنہ وحی یوان نازل کرنہ مگر ای زہ بہ چھس اکہ پیغمبرہہ تہن پاتھ نیم کرہ وناہ چنانچہ تمو معاملو
 اندرہ گوواکھ معاملہ بیہ منز ملاء اعلیٰ اس منز بحث اوس یوان کرنہ۔ آدم علیہ السلامہ سزہ پادہ کرن۔ بیہ

خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۚ ﴿۴۱﴾ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُّوحِي
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۚ ﴿۴۲﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ ﴿۴۳﴾ إِلَّا
إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ ﴿۴۴﴾ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ
أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي ۖ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
الْعَالِينَ ۖ ﴿۴۵﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ
مِنْ طِينٍ ۖ ﴿۴۶﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۖ ﴿۴۷﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ


تہ سپد میہ معلوم و حیحہ کہ ذریعہ۔ بیاکھ کانہہ ذریعہ میہ نشہ چھنہ۔ یوہے چھہ ثبوت میانہ نبوت و
رسالت۔ لہذا پڑہ توہہ میانیس پیغمبر برحق آسہ پڑہ کرن۔ تفصیل تمہ گفتگو ک چھہ اذ قال ربك
للملائكة اني خالق بشر من طين سہ گفتگو سپد تمہ وقتہ یلہ فرمود چھندی پروردگار ان ملائکین
اے ملائیکو میوں ارادہ چھہ بہ کرن پادہ میوہ اکھ بشرہ اذ اسوئیتہ و نفخت فیہ من روجی فقووالہ
سجدین تو پتہ یلہ سہ بہ وارہ پور بناؤن یعنی تہند اعضاء مکمل گرہ بہہ واتا وہ بہ تس منز پتہ طر نہ
روح ہس شمرہ تمہ تس بروٹھ کنہ سجدہ دو ان تو پتہ اللہ تعالیٰ ان سہ تیار کور فسجد الملائکۃ کلہم
اجمعون ساروے ملائکو ڈیت تس سجدہ یکہ دوہہ الا ابلیس مگر ڈیت نہ سجدہ ابلیس استکبر
وکان من الکفرین تم کور سبخر تہ غرور بہہ سپد سہ کافر و اندرہ قال یابلیس ما منعک ان تسجد لہما
خلقت بیدی استکبرت امرکنت من العالین اللہ تعالیٰ ان فر موس اے ابلیس کم چیزن روٹھ
تہ پتھ تس سجدہ نہ نشہ ہس میہ پتہ نیو اتھو پیدہ کور۔ یہ کور تھہ تہہ سبخر تہ غرور، بوڈنہ آتھہ کنہ واقعی
اوسکھ تہ تھدہ درجہ کیولو گو اندرہ سکن نہ سجدہ کرن زیباوس قال انا خیر مینہ خلقتنی من نار
وخلقتہ من طین ابلیس لوگ دہنہ کہ یہ دویم تھہ چھہ ثابت یعنی بہ چھس تہندہ خوتہ بہتر۔ بہ
کور تھس پادہ نارہ نشہ۔ سہ کور تھس پادہ رہہ نشہ قال فاخرج منها فانک رجیم اللہ تعالیٰ ان فر موس
نیر سمہ آسانہ نشہ ہیر بے شک امہ عدول حکمہ سبہ چھکھہ تہ مردود۔ و ان علیک لعنتی الی یوم

لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۸۸﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ﴿۸۹﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۹۰﴾ إِلَى يَوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۹۱﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۲﴾
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿۹۳﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿۹۴﴾
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۵﴾ قُلْ

الدِّينِ یہ جھٹھڑیہ بیٹھ میاں لعنت قیامتہ کس دوہس تان۔ تمہ پتہ چھنہ مرحوم سپدنگ امکانے۔
قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ البلیسن دوپ اے پروردگارہ ہر گاہ آدم علیہ السلام سندہ
وجہہ بہ مردود کور تھس تلہ دتہ میہ مہلت مر نہ نشہ قیامتہ کس دوہس تان۔ تھہ بہ تم ن نشہ بیہ تہندین
اولاد ن نشہ پورہ بدلہ ہیمہ ہا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اللہ تعالیٰ ان فر موس یلہ ژہ مہلت چھکھ
منگان گڑھ ادہ کیا ژہ آئی مو بلتھ دنہ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تمہ دوہس و قس تام یس مقرر
چھہ۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ دہنہ لوگ یلہ میہ مہلت آیہ
دنہ تلہ چھٹم چانہ عزتک قسم کہ یم ساری بنی آدم ڈالکھ بہ ضرور سیزہ و تہ نشہ مگر نہ تموا اندرہ چان
برگزیدہ بندہ یم ژہ میانہ اثرہ نشہ محفوظ تھاو تھکھ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ
وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ تعالیٰ ان فر موس پس چھنہ ہڑتیکے تھہ کہ بہ چھس ہمیشہ پوزے
ونان کہ یقیناً بہ گزن ہر چھٹم چانہ سیت بہ چانین سارنہ بیرون تہ تاہن ہندہ سیت قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ فرماو بوکھ توہیہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوگو بہ
چھنہ توہیہ منگان دین حق و اتانہ خاطرہ کانہہ مزدوریاہ۔ بیہ چھس نہ بہ زورہ ہن پان پیغمبر بناوٹ کہ
طریقہ کرہ ہابہ نبوتک دعوی۔ غیر قرآن ونہ ہابہ قرآن۔ بلکہ چھہ فی الواقع یہ قرآن مجید کلام الہی
إِنَّ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھہ ساری جہانکھ خاطرہ اکھ و عظامہ تہ نصیحتہاہ۔ سمجھہ تبلیغہ

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۸۶﴾ إِنَّ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۸۸﴾

خاطرہ مہ نبوت عطا کرنے آئیے۔ منزهتہندی خاطرہ بود نفع سے فایدہ چھہ۔ ہر گاہ توہمہ پوزواضح سپدنہ پتہ
تہ مانونہ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ توہمہ زانو پائے ضرور کنیز و دوہو پتہ امیک پورہ حال۔ مرنہ پتے
سپدہ توہمہ پورہ حقیقت ظاہر۔



سُورَةُ الزُّمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْمِدِ اللَّهُ مَخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② الْإِلَهَ الَّذِي
 خَالِصٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ
 إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ یہ ہجھہ نازل کرنے امر کتاب اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ نئس غالب
 تہ حمتہ وول ہجھہ۔ غالب تہ زبردست آسن تہند اوس متگان کہ نئس ہجھہ کتابہ انکار گرہ ہائس گرہہ
 سزاد نہ من فوراً مگر حکیم آسن تہند ہجھہ متگان کہ تمن گرہہ مہلت دنہ یں۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ
 بِالْحَقِّ فَأَعْمِدِ اللَّهُ مَخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اسی کمر نازل یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ ہجھہ یہ کتاب
 (قرآن مجید) پتر پائٹھ۔ نئس روزو توبہ خدایہ سز عبادت کران قرآنی تعلیمہ مطابق خالص اعتقاد
 کمر تہ ہجھہ پائٹھی ازتان توبہ کران رودو الْإِلَهَ الَّذِي خَالِصٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
 آے لو کو وارہ بو زویوسہ عبادت خالص شر کہ نشہ آسہ سو ہجھہ سز او ار خدایہ لئس۔ یعنی توحید ہجھہ واجب
 سار نے پیٹھ یلہ توبہ ہجھہ تہ یہ واجب تہ مطہ ہجھہ بن ہنز ہجھہ کتھہ۔ وونی سمولو کو خالص عبادت تر او تہ
 خدائس ور اے شریک تجویز کمری تمن متعلق تم و نان چہہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
 اسی ہجھہ تہنز پر سٹش کران مگر بی خیالہ کہ تم و اتاؤن آسہ خدائس نزدیک، سان عبادت تہ مطالبات
 کرن پیش خدائس نشہ۔ ہجھہ پائٹھی دنیا س اندر ہجھہ وزیر و اتاوان پادشہن نشہ لو کن ہندی معاملات
 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بیشک اللہ تعالیٰ کرہ عملی فیصلہ تمنی منزبہ تہند یں
 مقابن اہل ایمان منز تمن سار نے کتھن تمن منز تم اختلاف کران چہہ۔ سہ فیصلہ گو کہ اہل توحید یں

يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ۝ لَوْ أَرَادَ
 اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الْأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ ۗ
 هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ
 يَكْوَرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

وانتا ناوله جنس اندر اهل شرکن و اتاوه دوزخ اندر۔ نجه مه کھپو تهنس نہ مانہ نس بیٹھ کا نہہ غم۔
 سمیک تہ مہ کمر و تجب کہ یم کونہ ہجھ باوجود نہہ دلیلہ آتھہ سیزہ وتہ پیٹھ پکان۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
 مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھنہ کامیابی ہنز وتھ ہاوان تس نس قولاً اپز یور آسہ بیہ نس
 اعتقاد یعنی نس زیوہ اپز یور آسہ بیہ آسہ کفر چہ تھ ونان۔ دلہ کنی آسہ گھری اعتقاد اپیٹھ ڈاڈا تھ۔
 بعض مشرک آس اللہ تعالیٰ آس کن اولاد لاگان۔ ملائکن آس دیان تمہ چھہ خدایہ سزہ کورہ تمن چھہ
 اللہ تعالیٰ رد ذکران۔ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الْأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ہر گاہ اللہ تعالیٰ بالفرض یٹھہ ہا کانسہ اولاد بنوان پنہ نیوے مخلوقہ آندرہ نس یٹھہ ہا تس
 گرہ ہا امہ خاطرہ منتجب۔ مگر نہ ہجھ پانہ خالق تس وراے سم ہجھہ تم چھہ مخلوق۔ غیر جنس اولاد آس
 چھہ عیب۔ اللہ تعالیٰ چھہ ساروے عابونہ پاک۔ لہذا چھہ مخلوق آندرہ ولدیہ خاطرہ کا نہہ منتجب کرن
 محال۔ لہذا چھہ ارادہ بحال کرن تہ محالے۔ پد ثابت کہ نہ چھہ معبودا گن۔ شریک بالفعل تہ چھہ نس
 کا نہہ بیہ چھہ نہ زبردست۔ تس چھہ شریک بالقوہ تہ کا نہہ۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
 يَكْوَرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ سنے چھہ راتچہ تاریکی ولان ڈچر روشنی پیٹھ سمہ سیت
 دوہ چھہ غائب سپدان تہ رات چھہ یوان۔ ڈچر روشنی چھہ ولان راتچہ تاریکی پیٹھ یمہ سیت راتھ چھہ
 ختم سپدان تہ دوہ چھہ یوان وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ تم چھہ لاگت کامہ آفتاب تہ زون کل یجری
 لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ تموا آندرہ روزہ پریتھہ اکھاہ پکان اکس مقررہ و قس تام سمود لیلو

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ
 مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ
 بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۚ إِنَّ تَكْفُرًا وَقَاتَانَ اللَّهُ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا
 يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

پستہ تو حیدس انکار کر نس چھہ اندیشہ عذاب اللہ تعالیٰ اس چھہ تھہ پیٹھ قدرت کیا زہوارہ بوزوسہ چھہ
 زبردست۔ ہر گاہ کا نہہ انکار کمر تھہ توحید تسلیم کرہ ٹس کرہ نہ ہتھ گزشتہ انکار س پیٹھ عذاب۔ کیا زہ
 سہ چھہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون۔ بیا کہ دلیل چھہ تہندہ توحید ج۔ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثہہ
 لو کہ کمر نوہ پادہ اگس شخصس نشہ۔ سہ گوو آدم علیہ السلام ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا تو پتہ کرن پادہ آدم
 علیہ السلام نغہ تسز زمانہ سوگیہ حوالیہا السلام تو پتہ پھیلاون تہن دوشونی نغہ ساری بنی آدم وَاَنْزَلَ
 لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ بہہ کمرن پادہ تہندہ فایدہ خاطرہ چار وایو آندرہ آٹھہ نرمادہ۔ دونٹھ، گادہ،
 ژھاوول، کھ، یَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ سہ پروردگارہ چھہ توہہ
 اے انسانو پادہ کران ما جن ہندین شہمن آندر کہ کیفیت پتہ ہمیس کیفیتس پیٹھ۔ تمہہ کیفیت پتہ ہمیس کیفیتس
 پیٹھ۔ گوڈن کیفیت چھہ نطفہ یعنی آب منی آسان دویم کیفیت چھہ، موٹ خون آسان، ترمیم کیفیت
 چھہ ما ز پھول آسان۔ بہہ چھوہ توہہ پادہ کران ترین گٹن اندر ٹیہ ہنرگتہ، بچہ دانہ ہنرگتہ، کھچ کھچ تھہ منز
 چہ آسان چھہ۔ مختلف کیفیتن پیٹھ پادہ کمرن چھہ تہندس کمال قدرتس پیٹھ دلالت کران۔ ترین
 تاریکین منز پادہ کمرن چھہ تہندس کمال عکس پیٹھ دلالتہ کران ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ یوہے اللہ
 تعالیٰ چھہ تہندہ پروردگار۔ تہوندے چھہ سورے ملک، تہنزے چھہ سارے سلطنت تہ حکومت لآلہ
 إِلَّا هُوَ کا نہہ اکھاہ چھہ عبادتس سزاوارتس وراے فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۚ یشہہ دلیلہ تہندس معبود
 برحق آسٹس پیٹھ آتھہ کوت چھوہ تہہ پھر نہ یوان إِنَّ تَكْفُرًا وَقَاتَانَ اللَّهُ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ

وَدَّرَ آخِرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَرَجِعْكُمْ فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ
مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ
مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ

الْكَفَرِ اے لو کو تہہ بوز و کفر و شرک چھ محض باطل۔ ہر گاہ تہہ امہ پتہ تہ کفر و شرک کمر و۔ پس اللہ
تعالیٰ اس چھ تھمک کا نہ ضرر۔ کیا زہ سہ چھ تہہ کن یا تہہ س عبادتس کن محتاج۔ تس و اتہ تہہ تہہ ہ
عبادت نہ کرنے یا توحید اختیار نہ کرنے سیت کا نہ ضرر۔ مگر یہ تہہ چھ ضرور کہ تس چھ تہہ بدن ہند کفر
کرن پسند۔ کیا زہ تہہ کفر نہ سیت چھ تہہ تن پانس ضرر۔ **وَلَا تَشْكُرُوا بَرِّئَةٌ لَّكُمْ** ہر گاہ شکر
گذاری کمر و سیمیک بوڈ فردتہ باقی افرادن ہند موقوف علیہ چھ ایمان، تھہ چھ تہہ تہہ حقہ پسند
کران۔ امہ تہہ چھ اکھ قاعدہ مقرر کہ **وَلَا تَزِدْوا زِينَةً وَّ دَرَاخِرَىٰ** کا نہ اکھا تہہ نہ کانسہ پندین گو نہن
ہند بور پانس پیٹھ۔ پر تہہ اگس چھ پائے پنہ نین گو نہن ہند بور تھن۔ لہذا آگہ نہ کانسہ ہند خیال کرن کہ
کفر کمر تھہ کیا ہہ سون کفر لیکن ہہ سہ سندس نامہ اعمالس اندرتہ سپد و تمہ نشہ بری۔ نہ ہمکن تابن ہند
جرم متبوع برداشت کمر تھہ تہہ تھہ۔ یا کا نہ ونہ کانسہ ژہ گریہ کام امیک گوناہ چھ میانہ ذمہ۔ غرض یہ
بتہ نہ تہہ صورتس اندر۔ بلکہ چھ پر تہہ اگس پنہہ جرمگ سزایانہ کھیون **ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَرَجِعْكُمْ فَيَنْبِئُكُمْ**
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو پتہ چھ تہہ پنہ نس پروردگارس کن رجوع کرن۔ پس کرہ سہ تہہ خبر تہن
سارنے کا مین ہنزیمہ جہہ کران آسہ۔ سئی دہہ تہہ بیچہ کا مین ہند سزا **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** بے
شک سہ چھ پوزانہ ون دن ہنزہ تھہ **وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً**
مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ یہ یلہ مشرک انسانس کا نہہ سختیا و اتان چھ متگان چھ تمہہ ساتہ
پنہ نس حقیقی پروردگارس پروردگارس چھ تہہ تس کن بے معبود چھس تمہہ ساتہ مشان تو پتہ یلہ سہ تس
عطا چھ کران پنہہ طرفہ کا نہہ نعمہ، امن و آسایشاہ مشان چھ تس، تہہ یمہ خاطرہ سہ متگان اوس امہ
برونٹھ بالکل چھ غافل سپدان **وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ** تو پتہ چھ بہ ٹھہراوان معبود

بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۗ أَمْ مَنْ هُوَ قَائِلٌ
 أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
 يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
 رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ

برحقش شریک۔ بکتھ لوکن ڈالہ تہنہ و تہ نشہ۔ یعنی پانہ گمراہ سپد تھ چھہ بن لوکن ڈالان تہ گمراہ
 کران۔ قُلْ مَثَعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فرماو توہہ یارسول اللہ تس شخص ای
 شخصہ تل ژہ فایدہ پنہہ کفرک کم کینہہ کاس تان۔ آخر کار ہتھ ژہ نارہ کیو لوکنو اندرہ۔ امہ پتہ چھہ اللہ
 تعالیٰ فرماوان اہل توحیدن ہند مدح۔ اَمَنْ هُوَ قَائِلٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو
 رَحْمَةَ رَبِّهِ کیاہ سہ شخص نئس امس مشرکس برعکس عبادت آمہ کران رات کیت نئس وقت عموماً
 غفلتک چھہ آسان سجدہ تہ قیامہ سیت، کھوژان آمہ آخرتس بیہ آمہ امیدوار پروردگارہ سدس
 رحمتس۔ سہ چھا برابر تس شخص سیت نئس نافرمان تہ بے نماز آمہ۔ ہرگز نہ بلکہ چھہ عبادتس پیٹھ شب
 و روز مداومت تہ ڈاؤ کرہ ون، محمود تہ مقبول، مشرک تہ بے نماز مطرود تہ مردود۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
 الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ فرماو کہ تہہ یارسول اللہ برابر چھا تم
 لو کہ تم عالم تہ زانہ ون آسن بیہ تم تم جاہل آسن کینہہ تہ آسن نہ زانان۔ سمہ بیانہ سیت اگرچہ سپد ثابہت
 کفرک تہ کافرن ہند مذموم آسن بیہ ایمانک تہ اہل ایمان ہند محمود آسن، مگر توتہ رٹن نصحت تہ تم
 صاحب عقل سلیم آسن۔ قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
 حَسَنَةً فرما دو میانہ طرفہ بالیمان، ای میانو با ایمان ہند و تہہ کھوژو پروردگارس پنہ نئس مداومت
 کمر و طاعتن پیٹھ۔ پتھ روزو گنہو تہ نافرمانیہ نشہ۔ تم ہتھ دنیاءس اندر نیکی گرن تہندہ خاطرہ چھہ رت
 صلہ تہ رت بدلہ آخرتس اندر وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ہر گاہ توہہ وطنس اندر کانہہ چیز عبادت کرنہ نشہ

وَإِسْعَاءُ إِتْمَايُوفِي الصَّيْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑩
 قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ⑪ وَأُمِرْتُ لِأَنْ
 أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ⑫ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑬ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ⑭ فَأَعْبُدُوا مَا
 شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ⑮ قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ
 أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكُمْ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑯ لَمْ يَنْ

مانع چھ، تیلہ کمر و ہجرت کیا زہ خدایہ سُنڈ زمین چھ کھول تہ و وسیع۔ اُکس جاہیہ نے دشمن ہندہ و جہہ
 خدا ہیوگن سرت، بیس شہر س منزگو ہتھ سز یون پُن خدالہ دینس پیٹھ رو زو صبر و استقالہ سان اِتْمَا
 یُوفِي الصَّيْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ مستقل روزہ و نین تہ صبر کرہ و نین یہ مزدور نہ بے حساب و
 بے شمار قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ تہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ میہ آو خدایہ سندہ
 طرفہ حکم کرنہ کہ بہ کرہ عبادت خدایہ سز یوسہ عبادت خالص تہندی خاطرہ آسہ۔ یتھ منز نہ شریک
 اکھ زیش تہ آسہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ بیہ آومیہ حکم کرنہ کہ بہ آسہ سمہ اُمتہ کیو گوڈہ
 نیو مسلمانو آندرہ یعنی اسلامس دین حق تسلیم کرہ و نیو آندرہ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
 تہہ فرما یو کہ پتہ کہ ہر گاہ بہ پنہ نس پروردگارہ سز نا فرمانی کرہ تیلہ چھ میہ اندیشہ بڈہ ڈہجہ عذابگ سہ
 گو و قیامتگ دوہ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي تہہ فرما یو کہ بہ چھس بندگی کران خدایہ سزے یاژ۔
 یہ زمانتھ کہ بندگی شو بہ خاص تسی یاژ۔ توہہ تہ پزہ ہایشے عبادت کرن تہنز۔ لیکن ہر گاہ تہہ تہ مانان
 چھوہ نہ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ تلہ کمر و جہہ عبادت تس ورائے سمن ہنز خوش کرہ۔ تمبگ
 نتیجہ تلو توہہ پائے قیامتگ دوہ۔ قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 پتہ فرما یو کہ تہہ کہ بے شک تاوان زد گے تھے سمن تاوان بیو پنے نین پانن تہ پنہ نس عیاکس قیامتگ
 دوہ أَلَا ذَلِكُمْ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ وارہ بو زوتہ یاد تھا و یہ تھہ کہ یوہے کیاہ گوون تاوان تہ بوڈ نقصان

فَوَقِهِمْ ظُلْمٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْمٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ
 عِبَادَهُ يُعْبَادُ فَاتَّقُونِ ﴿۱۶﴾ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ
 يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿۱۷﴾ الَّذِينَ
 يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
 وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۱۸﴾ أَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
 أَفَأَنْتَ تُتَّقِدُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿۱۹﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُوفٌ مِّنْ

تجہ کیفیت چھہ پٹھہ کہ اَمَنْ مِنْ فَوَقِهِمْ ظُلْمٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْمٌ تہہہ خاطرہ چھہ تمن پیٹھہ
 کن تہہ نارہ شعلہ، وُزْن تہہ نارہ کئے تہ تمن بون کن تہ چھہ نارہ کی شعلہ یعنی و تھرن تہ نارہ کئے۔ پر پٹھہ
 طرفہ آسن تمن احاطہ کتر تھہ نارہ کی شعلہ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ یہ گووسی عذاب سمہ سیت
 کھوڑہ ناوان چھہ اللہ تعالیٰ پنہ بنن ہندن، اَمہ عذابہ نشہ چنگ تہیر تہ چھہ بیان کران۔ سہ گوودین حقس
 عمل گرن یُعْبَادُ فَاتَّقُونِ فرماوان چھہ کھہ اکی میانو بندو، کس کھو ڈرومیہ یعنی میانس عذابس۔ میانی
 مہ کتر ونا فرمانی۔ دین حقس پیٹھہ کتر و عمل۔ یہ اوس کافر ن تہ مشرکن ہند حال۔ اَمہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ
 فرماوان با ایمان ہند حال وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ
 عِبَادِ یہہ سم لوکھ پتھہ رود شیطانس پر ستش کرنہ نشہ یعنی معبودان باطلن ہنز پر ستش کرنہ نشہ، یہہ
 کوڑکھ رجوع اللہ تعالیٰ اس گن تم چھہ مستحق خوش خبری بوزہ ناوس۔ پس فرماو بشارت تہ خوش خبری
 میانن تمن ہندن الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ سم بوزان چھہ خدلیہ سُد کلام گن دار تھہ
 تو پتہ چھہ تمہ چن رزن کھن پیروی کران تمہ چھہ سارے کھہ رزہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ
 هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ تہہ لوکھ کیاہ گئے تم تمن اللہ تعالیٰ ان رژو تھہ ہا۔ یہہ گئے تہہ خاص کر عقلہ وال تہ
 گائل اَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُتَّقِدُ مَنْ فِي النَّارِ کیاہ کس پیٹھہ عذابک حکم ثابت سُد
 کیاہ توہہ ہیکیو نہ موکلاو تھہ سہ شخص کس حکم الہی نارس منز و تہمت آسہ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

فَوْقَهَا عَرْفٌ مَّبِينَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَا لِلَّهِ لَا يُخْلِفُ
 اللَّهُ الْبَيْعَادَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ
 فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا
 ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝
 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ طَوِيلٌ

عَرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عَرْفٌ مَّبِينَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لیکن تم لو کہ تم کھو ژ ہر درو گارس پنہ نس تو پتہ رود چھ تہندہ نا فرمانی نشہ، تہندہ خاطر چھ جتک بالا خانہ یکن پیٹھ کن بے بالا خانہ بناؤ مت آسن تمو بالا خانو بون کن چھ کولہ تہ جو یہ پکان وَعَدَا لِلَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْبَيْعَادَ امہ کے چھ اللہ تعالیٰ ان وعدہ کورمت اللہ تعالیٰ چھنہ وعدس بدل کران أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ کیاہ ثیہ ڈھتھتھ نالے وچھونہ پتھ کن کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان تروو آسا چھ طرفہ رود تو پتہ پکہ ٹوون سہ آب نا گوتہ کیر یو کن زمینس اندر ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا تو پتہ چھ تہی آہ سیت کھاران زراعت۔ سمیک قسم مختلف چھ آسان۔ تو پتہ چھ سہ زراعت خٹک سپدان نس پتھن سہ وچھان ژہ زرد سپدان۔ تو پتہ چھ تھ اللہ تعالیٰ چورہ کران إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ بے شک چھ تھ زراعت کس ابتدا س تہ انتہا س منز بڈ نصحت گائین ہندہ خاطرہ۔ یکنے حالتھ چھ بعینہ انسان ہنزہ دنیوی زندگی ہنز۔ اتھ زندگی اندر مشغول سپد تھ ابدی راحت و آرامہ نشہ پن پان محروم کمر تھ ابدی مصیبتن گرفتار چھ بڈ حماقت تہ نادانی۔ اگرچہ سون بیان چھ سیٹھاہ بلین مگر بو زن و آل چھ ساری ہوی آسان أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ چنانچہ سہ شخص یم سُنَد سینہ اسلام قبول کرنہ خاطرہ اللہ تعالیٰ ان مژہ روو یعنی اسلامہ حقیقتک سپد نس یقین، سہ چھ پکان پنہ نس ہر درو دگارہ سندہ عطا کمر متہ گاشہ موجب یعنی عمل کران تہند یو ہدایتو مطابق۔ تس شخص برابر چھاسہ شخص یس کفرہ چین تاریکن منز بو ڈمت

لِلْقِسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۲﴾ اللَّهُ
 نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ
 اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ
 فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۲۳﴾ أَمَّن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۲۴﴾ كَذَّبَ

آسہ فَوَيْلٌ لِلْقِسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ پس سیٹھاہ خرابی تہ افسوس چھہ تمن
 لوکن بہمد دل سخت در چھہ خدایہ سزہ ذکرہ لغہ۔ دنیا س منز چھہ تمے لو کہ نہ گمراہی منز بتلا تہ گرفتار
 امہ پتہ چھہ تمہہ نورک ذکر تہ بیان اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعیر منہ جلود
 یخشون ربہم اللہ تعالیٰ ان کور نازل سیٹھاہ رت کلام یعنی قرآن مجید کتاباہ یک مضامین اکھ آگس
 ہی چھہ پھیر پھیر بیان کرنہ آمت یچھہ منز لوکن فکرہ تارنہ خاطرہ چھہ بعضے بعضے مضامین یچھہ تکرار س
 منز باوجود فائدہ تاکید دلس منز مدعا تہ مطلب راں خسد یچھہ بے بے خاص لطایف موجود چھہ۔ امہ کلامہ
 سیت چھہ تیرہ کنڈی پھٹان تمن لوکن ہندین بدن تم کھوڑان چھہ پنہ نس پروردگار س ثم تلین
 جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ تو پتہ چھہ نرم سپدان تہمد بدن تہ دل خدایہ سدس یاؤس کن متوجہ
 سپدنہ سیت یعنی قرآن مجیدہ موجب عمل گرہ نس گن متوجہ سپدان ذلک ہدی اللہ یهدی بہ من
 یتشاء یہ قرآن مجید چھہ خدایہ سمد ہدایت امہ سیت چھہ سہ و تھ ہاوان تمن تمن ہندسہ یڑھان چھہ
 ومن یضلیل اللہ فمالہ من ہادی نس اللہ تعالیٰ و تھ راورہ نس چھنہ کانہہ و تھ ہاودن اقمین یتقی
 بوجہہ سوء العذاب یوم القیامۃ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کیاہ سہ شخص نس بچاؤہ
 پن پان یچھہ سیت جہنم سخت عذابہ لغہ قیامتگ دوہ، عام دستور چھہ کہ انسان چھہ پن پان بچاوان
 تکلیفہ لغہ اتھو سیت قیامتگ دوہ آسن خالمن ہندی اتھ پتھ گن گنڈ تھ تمی موکھ بچاوان تم پن پان یچھہ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾
 فَآذَاهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةَ
 أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا
 الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۷﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ
 ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۳۸﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ
 شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا

سیت عذابہ نشہ تو پتہ بیہ تمن ظالمین وندہ ژہومزہ تمن یتھ کائین ہند یمہ ٹہہ کران آسودہ دنیاس اندر۔
 کیاہ امہ قسمک ظالم تہ بیہ تم با ایمان یم جنٹن اندر ہمیشہ تہ آرامہ سان آسن بہتھ چھا برابرے ہر گز نہ
 کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون تکذیب چھہ کورمت حضرات انبیاءن
 تمولو کو تہ یم تمن اذکین کافرن بروٹھ اسی تو پتہ چھہ واکٹھ پیومت تمن خدایہ سُد عذاب۔ تھہ تھہ
 تمن خیال تہ اوس نہ۔ فَآذَاهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
 کس ژہہ ناوی تم اللہ تعالیٰ ان رسوائی ہند عذاب دنیاچہ زندگانی اندر بیہ چھہ ضرور آخر تک عذاب
 سیٹھاہ بوڈ تھندہ خاطرہ۔ ہر گاہ تمن معلوم آسہا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بے شک بیہ گرہ آسہ لوکن ہندہ ہدایتہ خاطرہ یتھہ قرآن مجیدس اندر پر یتھہ قسچہ
 مثالہ تہ پر یتھہ قسمک مضمون یتھہ تم نصیحت رٹن قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تہ کیفیت
 چھہ بیہ کہ بیہ قرآن مجید چھہ بزبان عربی یتھہ مز نہ کنہ تہ کمی تہ چیدگی چھہ یتھہ تم لوکھ امک مضامین ہلیغہ
 بوڑھ کھوژن ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 چھہ موجودہ مٹھرن متعلق اکھ مثال بیان کران۔ اکھ شخصہاہ چھہ غلام۔ سنی چھہ مشترک وار یتھن
 بد مزاج شریکن ہند۔ بیاکھ موہوہاہ چھہ غلام اکسے شخصہ سُد هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا کیاہ یمن دون ہنز
 حالتھہ بیچیا برابر یتھہ۔ ہر گز نہ بلکہ گوڈنیک شخص چھہ ہمیشہ حیرانی اندر گرفتار کہ کھند مانہ تہ کھند مانہ نہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّكَ مِثٌّ وَإِنَّهُمْ
 مَمِيَّتُونَ ﴿۴۰﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۴۱﴾
 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ
 إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۴۲﴾ وَالَّذِي جَاءَ

دویم شخص بہہ آرا مس اندر۔ اکیس آغس سیت چھس تعلق۔ گوڈنچ بیٹال گنیہ مشر کہ سنز۔ منہ بہہ سہ
 آغس چیزس پر سٹش کران تہ منہ بیس چیزس۔ موجد بہہ پر سٹش کران اکیس معبود برحقہ سنز۔ یہ تہہ
 کرن تسلیم نہم مشر کہ تہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حق سہ ثابت لہذا ابوبن حمد وثا معبود برحقس باوجود آل کرن نہ
 ہم لوکہ یہ تہہ قبول بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ ہجہنہ اکثر کافر زانان یہ صاف تہہ۔ بلکہ پر تہہ
 اعتبارہ خشک فیصلہ سہ مگر مخالفتہ فاصلہ قبول کورنہ۔ دون بہہ باقی قیامتگ آخری فاصلہ۔ ہمہ فاصلہ
 نفعہ نہ کاہنہ تہ بیجہ سر تابی کمر تہہ۔ تمیگ ابتداء بہہ موتہ سیت اے پیغمبر برحق ہر گاہ ہم لوکہ دنیا س
 اندر یہ معقول فیصلہ تسلیم کرن نہ تہہ مہ کھیو، تمیگ غم کیا زہ اِنَّكَ مِثٌّ وَاِنَّهُمْ مَمِيَّتُونَ
 دنیا آندرہ بہہ توہہ تہہ مہ تہہ نیرن۔ تم تہہ بہہ دنیا آندرہ مہ تہہ نیرن۔ دنیا س اندر روزن
 کانہ بہہہ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ توہہ بہہ دوشون فریقن قیامتگ دوہ
 ہن مقدمات ہیتہ پنہ نس پروردگار س برو تہہ کنہ حاضر سہ دن تمہ دوہہ گرہ سہ عملی فیصلہ۔ سہ فیصلہ گو
 ناحق پر ستن جہنمگ عذاب تہہ حق پر ستن اجر عظیم یعنی جنت۔ یہ تہہ بہہ ظاہر کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ الْبَيِّنَاتُ کس شخصہ سہہ خوتہ
 کس اکھاہ بہہ زیادہ بے انصاف۔ ہم اپن نور و معبود برحقس پیٹہ۔ زنانہ، پچو تہہ کورہ شریک ٹھہرونہ
 سیت۔ یہہ کوزن تکذیب تہہ انکار پز س کلاس یعنی قرآن مجید سہہ قرآن مجید دوت تہہ نفعہ
 بواسطہ پیغمبر برحق۔ تہہس شخصہ سہہ ظالم آس بہہ ظاہر۔ اظلمہ سہہ متحن عذاب عظیم آس تہہ بہہ
 ظاہر۔ سہہ عذاب عظیم گو دنار جہنم۔ کیا زہ تہہن کافر ن ہنز جائے شوہہ نار جہنم وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ

بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۳﴾ لَهُمْ مَا
 يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۴﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ
 عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
 الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۵﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ
 بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾
 وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ

وَصَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ ۳۳ ۝ تم بدل گے تم لو کہ تم خدایہ سندہ طرفہ یا پیغمبرہ خدایہ سندہ
 طرفہ پوزیتھ آئے۔ یہ کوزکھ پانہ تہ تھہ ہزس تصدق۔ تے لو کہ چھہ یقیناً متقی تہ پرہیزگار۔ تھہہ فیصلہ
 چھہ کہ لہم ما یشاءون عند ربہم تھہہ خاطرہ چھہہ سورے یہ تم بہ صحن پنہ نس پروردگار س
 نچہ۔ ذلک جزاء المحسنین ۝ ۳۴ ۝ یچہ چھہ مزرور تہ بدلہ نیکو کارن ہند۔ تھہہہ خاطرہ سپد یہ تجویز
 لیکفر اللہ عنہم اسوا الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون ۝ ۳۵ ۝ تھہ اللہ
 تعالیٰ دور کرہ تہزہ ہچہ عملہ یہ تھہہ رٹومزور عطا کرہ تم عملن ہنزیمہ رٹہ عملہ تم کران آس الیس
 اللہ بکاف عبده کیا اللہ تعالیٰ چھنا کافی پنہ نس بندہ خاص (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
 حفاظت کرنہ خاطرہ۔ سہ چھہ سارنہ ہندہ حفاظتہ خاطرہ کافی پنہ نس بندہ خاصہ سندہ خاطرہ گوٹھہ
 نا اسن ۝ ۳۶ ۝ یخوفونک بالذین من دونه ۝ تم کافر چھہ امہ قسمک احق کہ خدایہ سنزہ حفاظتہ نش تجاہل
 کمر تھہ چھہ توبہ کھوڑہ ناوان معبودان باطلن ہندہ سیت تم تمو خدا یس ورانے چھہ پائے ٹھہر اومت۔
 حالانکہ تم چھہ پانہ بے جان تہ عاجز۔ ہرگاہ قادر تہ آسہ کن توتہ کیاہ چلہ ہاتمن خدایہ سنزہ راچھہ تہ
 حفاظتس مقابلہ۔ یہ چھہ تم تھہ راومر ۝ ۳۷ ۝ ومن یضلیل اللہ فما لہ من ہاد ۝ نس اللہ تعالیٰ و تھہ راورہ
 نس چھنہ کانہہ تہ و تھہ ہاودون تہ ہدایت کرہ ون ۝ ۳۸ ۝ ومن یتھد اللہ فما لہ من مضیل ۝ نس اللہ تعالیٰ
 و تھہ ہاودون تھنہ کانہہ وتہ نچہ ڈالہ ون تہ گراہ کرہ ون ۝ ۳۹ ۝ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام کیاہ تم

ذِي انْتِقَامٍ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط قُلْ اَفَرَايْتُمْ مَاتَدْعُوْنَ
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِي اللّٰهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ
 ضَرِّيْٓ ۙ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِيْ ط قُلْ
 حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝ قُلْ لِّقَوْمٍ
 اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۙ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

وہنا خیال کہ اللہ تعالیٰ چھ زبردست انتقام بہنے والے۔ تعجب چھ کہ تم چھ پائس سے تمہے تمہے ہند تسلیم
 کہ اللہ تعالیٰ چھ پنہ نین بدن نصرت کرہ نس پیٹھ کافی۔ قدرتس اندر چھ سیٹھہ کامل چنانچہ وَلَئِنْ
 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ہر گاہ چھہ تم لوکن پر ژھو کہ آسمان سے
 زمین کم کر پادہ ضرور ون تم کہ اللہ تعالیٰ ان کمر پادہ چھہ بڈ اجرام فلکی از عدم بوجود اُن چھہ دلالت
 کران ہمیں کمال قدرتس پیٹھ اتھ پیٹھ بنا کر تھ قُلْ اَفَرَايْتُمْ مَاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ
 اَرَادَنِي اللّٰهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضَرِّيْٓ ۙ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِيْ پر ژھو چھہ
 تم اے کافر و میہ و نتو توہہ تم معبودان باطن ہنز چھہ پر ستش کران چھوہ خدائیس و رائے۔ ہر گاہ
 اللہ تعالیٰ میہ کانہہ تکلیف و اتہ ناون یڑھہ کیاہ تم معبود ہیکنہ سہ تکلیف میہ نشہ دور کمر تھ یا ہر گاہ اللہ
 تعالیٰ میانہ حقہ یڑھہ کانہہ مہر بانیاہ کیاہ تم معبود ہیکنہ سو مہر بانی چھہ رتھہ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ نہہ
 فرما دیو کہ امہ اندر ہ سپد ثابت ای آیو گوڈوہ سے بیان کرنہ۔ چو چھہ سہ چھہ چھہ قدرتہ و ول سے چھہ مدد کرہ و ن
 مہ چھہ بس س اللہ تعالیٰ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ لہذا چھہ تس پیٹھ توکل کرہ و نی توکل
 کران۔ بہ سے چھہ تس پیٹھ توکل کران۔ چھہ مخالفک سے دشمنی ہند چھہس نہ بہ کانہہ پروا کران قُلْ
 لِّقَوْمٍ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۙ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ بالاخر فرما دیو کہ چھہ یا رسول اللہ اے لوکو
 ہر گاہ اتھ پیٹھ سے توہہ کیئہہ ماونہ تیلہ زانو توہہ سے کار زانو۔ توہہ گڑھو کام کران پنہہ جلیہ پیٹھ۔ بہ سے

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۹﴾
 اِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
 فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
 بِوَكِيلٍ ﴿۴۰﴾ اَللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ
 تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ
 يُرْسِلُ الْاٰخِرَىٰ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

پچھس پنہنہ طورہ عمل کران۔ بروٹھ پھن زانو توبہ پائے مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ سہ کس شخص آسہ کس نش وائتہ دنیا اس اندر سہ عذاب کس کس خوار و ذلیل گرہ۔ یہ کس پیٹھ پیہ آخر کس اندر سہ عذاب کس ہمیشہ دایم تہ پوشہ ون آسہ اِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ہنر پانٹھ آسہ کمر نازل توبہ پیٹھ یہ کتاب ہتھ منز پلازے پوز چھ لوکن ہندہ نفعہ فایدہ خاطرہ۔ ہنر کام ہتھ یہ وائتہ ناون فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا تمہ پتہ کس اگس و تھ آسہ امہ قرآن مجیدہ سیت کس ہتھ تمیک فائدہ کس پانس۔ کس اکھاہ و تہ نغہ ڈول سہ ڈلہ نہ مگر پنہنہ پانہ کہ ضررہ خاطرہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ توبہ نہ حض و تہ چھوہ نہ لوکن ہند ذمہ دار زورہ کیاہ انبو کہ تم سیزہ و تہ پیٹھ۔ لہذا کیا زہ توبہ تہ ہندہ گراہی ہندہ سبہ غمگین سپدان اَللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا اللہ تعالیٰ اکی ہتھ قبض کران تمن روحن یہ ہندہ مرہ نیک وقتہ دو تمن آسان ہتھ۔ یہ تمن روحن تمن نہ ونہ مر نیک وقتہ دو تمن ہتھ آسان۔ تمن تہ ہتھ قبض کران ہندہ اندر فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاٰخِرَىٰ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى کس چھہ رٹان تمن روحن تمن پیٹھ مر نیک حکم تم جاری کورمت آسان ہتھ۔ یہ ہتھ وائس سوزان باقی روحن اگس متعین تہ مقرر کرنہ آقس و قس تان یعنی عمرہ ہندس مدتس تام اِن فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ بے شک اتھ مجموعہ تصرفس منز چھہ خدایہ سندہ قدر تہ تہ ہندہ منفرد فی التصرف اسچہ واریاہ دلیلہ تمن لوکن ہندہ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۲﴾ اِمْرَاتُخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شَفَعَاءَ ط قُلْ
 اَوْ لَوْ كَانُوْا اِلٰهِيْمَلِكُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۳۳﴾ قُلْ لِلّٰهِ
 الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَّهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ ط ثُمَّ اِلَيْهِ
 تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ

خاطرہ سم فخر یہ تامل کران آسن اِمْرَاتُخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شَفَعَاءَ کیاہ سمو مشرک لوکو چھا باوجود
 واریاہ دلیلہ توحید چہ قاسم آسجہ خدائس ورائے ہیہ معبود قرار دتیت تم من متعلق تم خیاں چھہ کہ تم
 کرن اسہ سفارش قُلْ اَوْ لَوْ كَانُوْا اِلٰهِيْمَلِكُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَعْقِلُوْنَ توہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ اے
 لوکو کیاہ اگر تم نمبر چیزس پیٹھ اختیار تہ قدرت نہ آسجہ ہیہ کانہہ چیزانہ زانتھ چھوہ توہہ تم زانان ہن
 سفارش کرہون۔ حالانکہ سفارش کرہ نس گروہہ آسن قدرت تہ علم بے جان چیز چھہ سمودو شوے چیزو
 نہہ خالی۔ وون ہر گاتم و ن آس چھکنہ تم بے جان چیز فی نفسہ زانان شفاعت کرہون بلکہ چھہ آسی تم
 زانان شفاعت کرہون تم ہنزہ ہیہ شلکہ چھہ۔ تم چھہ ذی روح تم منز چھہ قدرت تہ تہ علم تہ۔ اللہ
 تعالیٰ چھہ تھہ رد فرماوان آمہ پتہ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا نہہ تارو یمن وارہ فکرہ ہیہ تھہ کہ سفارش
 ہند سورے اختیار چھہ خدایہ سے یوت۔ تہندہ اذنہ تہ اجازتہ ورائے ہیچہ نہ کانہہ تہ کانہہ سفارش
 کمر تھہ۔ اذنہ خاطرہ چھہ زہ شرط۔ اکھ گروہہ شفع مقبول آسن ہیہ بس شفاعت ہیہ کرنہ سہ گروہہ قابل
 مغفرت آسن۔ تمین ارواحن ہنزہ سم پر سٹش کران چھہ تم اگر شیطان چھہ تیلہ چھہ تم منز دو شوے
 شرط مفقود ہر گاہ تم ملائکہ چھہ تیلہ چھہ دو تم شرط مفقود۔ لہذا سہز تہنز شفاعت کرن باطل امی موکھ
 آس یوان تم معبود قرار دنہ لہذا سہد تہند معبود آسن باطل امی سیت سہد اللہ تعالیٰ سہد معبود بر حق آسن
 ثابت تس معبود برحقہ سہد شان چھہ کہ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ آسان تہ زمین ہنز سارے
 حکومت چھہ تس اٹھہ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بتولا کہ سورے عالم خم گروہہ پتہ ایو تہہ تس سُن و اتناونہ
 وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ کافرن تہ مشرک ہند حال چھہ کہ

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۵﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ﴿۳۷﴾ وَبَدَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿۳۸﴾

یلعہ خدایہ سُنَدے یوت یاد کرنے چھہ یوان کہ سنی معبود برحق تئس چھہ تصرف سارنے کائین پیٹھ تمہہ
ساتہ چھہ تمہن لوکن ہند دل چو نگراونہ یوان تمہن نہ پٹھہ چھہ آخرت چ کیا زہ تمہن چھہ توحید چ نفرت
وَأِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ستمہ ساتہ تذکرہ چھہ کرنے یوان تمہن ہند ہم تئس معبود
برحقس ورائے چھہ، تمہن تم شریک خدازانان چھہ، تم چھہ خوش گڑھان کیا زہ تمہن چھہ شرک ٹوٹھ
قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ تمہہ مہ سپدیارسول اللہ تمہزہ دشمنی
سیت غمگین۔ توبہ کمر و دغا۔ خدائس معویا اللہ تے چھہ آسمان تے زمین ہند پادہ گرہون تے چھہ
سورے پوشیدہ تے نون زانہ ون أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تے کرکھ
قیامتک دوہہ فاصلہ پنہ نین بدن منز تمہن تھن ہند تمہن منز تمہ پانہ وان اختلاف کران اس تمہہ فیصلہ کہ
وقتہ سپدہ حال کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ
الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر گاہ تمہن لوکن نیشہ سمو ظلم کور شرکہ تے ٹکڑہ سیت سہ سورے مال آسہ، تئس
سارسی زمینس منز چھہ بیہ تھہ سیت بیہ تیوت مال تے دولتھ ضروردن تمہ سہ سورے مال، تم تامل
تے تار کرنے ورائے ہن پان موکلاونہ خاطرہ قیامتک دوہہ کہ سخت مشکل عذابہ نیشہ وَبَدَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ
مَا لَهُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ تمہن تئس تمہہ دوہہ اللہ تعالیٰ سیدہ طرفہ تمہ حالاتھ تمہن ہند نہ تمہن وہم و
گمانے اوس وَبَدَّ اللَّهُ مِنْ سَيِّئَاتِكَ مَا كَسَبُوا وَاحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِئُونَ بیہ سپدن ظاہر

وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۸﴾ فَاذْأَمَسَ الْاِنْسَانَ ضُرُّدَعَانَا ثُمَّ اِذَا
 خَوْلَتْهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ طَبْلُ هِيَ فِتْنَةٌ
 وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 فَمَا اَعْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۴۰﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتِ
 مَا كَسَبُوا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتِ
 مَا كَسَبُوا وَاَهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۴۱﴾ اَوْ لَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ

تمہ دوہہ تمہ سارے بچھ کامہ تمہ تمو کر مرہ آسن۔ یہیہہ ولہ تمن سہ عذاب تہہ تم ٹھٹھہ کر ان اس
 فَاذْأَمَسَ الْاِنْسَانَ ضُرُّدَعَانَا مُشْرک انسان اُس ذکر اللہ نشہ نفرت ہتھہ کر ان، غیر اللہ سدس یادس
 سیت ہتھہ دل چہسی تھوان تمہہ ساتہ آس مُشْرک انسانس کانہہ سختیہہ واتان ہتھہ اتی ہتھہ تمہہ ساتہ باقی
 ساری تراوتھہ آسے نادودوان نُشْر اِذَا خَوْلَتْهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ تمہہ پتہ یلہ اس
 اُس کانہہ نعمتہہ عطا کر ان چھہ تمہہ ساتہ ہتھہ یہ نعمت خدا اُس کن منسوب کرنہ نشہ گریز کر ان۔ دہنہ ہتھہ
 لگان کہ یہ نعمت بنیہ میہ پنہہ تدبیرہ سیت اُس انسانس نہ یہ زان چھہ غلط بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلٰكِنَّ
 اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ ہتھہ یہ نعمت آزمائش تہ امتحان کہ آیایہ نعمت واتھہ مشراویایہ انسان آسہ کنہ
 امہ نعیج شکر گذاری گرہ مگر لوکھ چھنہ یہ تھہ زانان قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا اَعْنٰى عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نتیقن اثرہ تھہ ہتھہ ونموہہ تمولو کو تہہ تم تمن بروٹھہ آس (قارون وغیرہ) اُس دیت
 نہ کانہہ فایدہ تمن تمو چیز ویم تمو حاصل کر مت اس فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا
 مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَاَهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ یہہہ تمولو کو ظلم کور تمومکہ کیولو کھواندرہ۔
 تمن تہ واتہ عنقریب تمن بچھہ عملن ہند بچھہ نتیجہ میہہ تمو کرہ مرہ ہتھہ۔ تم تمن کن نہ خدا اُس عاجز تھر تھہ۔

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾ قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۵۳﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوهُ
مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۵۴﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ

چنانچہ جنگ بدرس منز کھوو تھو کافی سزا اولکم یعلو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لِّقوم یتؤمنون بے شک اتھ کمی وزیادتی کرہ نس اندر چھہ واریہ نشانہ خدایہ سبہ قدر تک تمن لوکن ہندہ خاطرہ سمو پڑھ کمرہ ایمان اون معبود برھس قُلْ یعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ فرماو توہہ میانین ہندن تم پر ژھان چھہ کہ ہر گاہ اس اسلام اتو سائین گوئمن کیا ہنہ۔ اے میانو بندو سمو گناہ کرنہ سیت پنہ نین پانن پیٹھ زیادتی کمر کہ نامید منہ سہو اللہ تعالیٰ سندہ رحمتہ نعمہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً اللہ تعالیٰ کرہ تہمدین سارنہ بروٹھمن گوئمن بخشائش۔ ادہ اس تن تم گوناہ شرک تہ کفرے۔ یہ آیہ کریمہ چھہ اعلان کران حضرت ارحم الراحمینہ سندہ بے شمار رحمک بے تہندہ غفودر گزر کر چھہ تھدہ شانگ۔ بیہ ہر گاہ کانہ سخت مایوس العلاج گوئمن ہند بیماراہ آسہ تہندہ حقہ چھہ یہ آیہ کریمہ کسیرک حکم تھوان۔ مٹرک، طہد، زندیق مرتد یودی، نصرانی، مجوس، بدعتی، فاسق، فاجر آس تن یہ آیہ کریمہ بوڑ تھ گھس نہ تہمد خدایہ سندہ رحمتہ نعمہ مایوس سڈن۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ بس یشہ تس کرہ مغفرت سارنہ گوئمن۔ تسد ارادہ ہیچہ نہ کانہ تہ چھہ رتھہ انہ ہو الغفور الرحیم واقعی سہ چھہ سیٹھاہ بخشنہار، سیٹھاہ رحمتہ وول، چوچکہ امہ معافی تہ بخشائشہ ہند شرط چھہ تہ مسلمان سڈن وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون لہذا کمر و تہ رجوع تہ توبہ پنہ نس ہرورد گارس ن بے کمر و تہمز تابعدری، توبہ پیٹھ عذاب الہی نازل سڈنہ بروٹھ عذاب نازل سڈنہ پتہ بیہ نہ توبہ کانہ مدد

مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۵﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسِّرُنِي عَلَى
مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ﴿۵۶﴾
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۷﴾ أَوْ
تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةٌ فَاكُونَ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ
وَكَنتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۵۹﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا

کرنه کانسہ ہندہ طرفہ **وَابْعُوْا اَحْسَنَ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً**
وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ یہ کمر و پیروی سخن رتین حکمن سم توہمہ کن نازل آے کرنہ تہندس پروردگارہ
سندہ طرفہ ہجرتہ معجہ عذابس گرفتار سپندنہ بروٹھ۔ توہمہ آسہ نہ تمیک وہم و گمانے عنہ قسمہ۔ **اَنْ**
تَقُوْلَ نَفْسٌ يُحَسِّرُنِي عَلٰی مَا فَرَطْتُ فِيْ جَنبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِيْنَ تہنہ یہ وہ ہناہ ہند کہ
توہمہ آندرہ ونہ کانہہ شخصہہ افسوس تہہ میانہ کوتاہی پیٹھ یوسہ میانہ طرفہ آیہ خدایہ سزہ فرماں برداری
اندر۔ واقعی بہ اوس ٹھٹھہ کرہ ونیو آندرہ سخن تمہن پیٹھ دنیاس اندر **اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ**
لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ یا ونہ کانہہ شخصہہ کہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ ان میہ ہدایت کورمت آسہ ہاہہ تہہ آسہ ہا
پرہیز گارہ آندرہ **اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرٰى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كُرَّةً فَاكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ** تہہ ونہ
کانہہ شخصہہ سمہہ سائہ نظر نہیں عذابس پیٹھ کاش کہ میہ ہے دنیاس کن وانہس وان گروہنہ ادہ ہناہہ نیوکارو
آندرہ **بَلٰى قَدْ جَاءَتْكَ الْاٰتِيْ فَاكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكَنتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ** تہہ سمہہ ونہہ البتہ تھتھ
تہہ ہٹھہ وات میان آیات تم زان تھتھہ تہہ اپز۔ تہہ کور تھہ تم ماننہ ہٹھہ ہجرتہ غرور۔ یہہ اوسٹھہ تہہ

عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۶۰﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا
يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۱﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۶۲﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۶۳﴾ قُلْ
أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿۶۴﴾

ہمیشہ کافر نے سیت و یوم القیمۃ تری الذین کذبوا علی اللہ قیامتہ دو وہجہ ہجہ ذہ تم لو کہ سمو
اپنورود اللہ تعالیٰ اس پیٹھ۔ یہ تمہہ خدا من فرماوہ نہ تمہہ لاجھہ تس یمہ تمہہ تم فرماوہ تمن کو رکھ
انکار۔ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۚ تمہہ تہدی اسن کرن سیاہ۔ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ
کیا ہجہ چہناروزنج جائے تمن مہجر ن ہندہ خاطرہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ یہ دیر
اللہ تعالیٰ نجات رستہ گاری تہ کامیابی سیت تمن لو کن تم ہتھ رود شرک و کفرہ نغمہ بیہ رود ہتھ تہزہ
تا فرمانی لغہ لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تمن ولتہ نہ کا نہہ تکلیف، نہ اسن تم غمگین اللہ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللہ تعالیٰ ای ہتھ پر ہتھ چیزک پیدہ کرہ ون۔ بیہ ہتھ سنی
پر ہتھ چیزک ذمہ دار لہ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تس اتھہ ہتھہ کوزہ آسمان تہ زمین ہندین خزان
ہنزہ۔ سنی ہتھ موجد سار گوی۔ باقی تھاوہ ون تہ حافظ پر ہتھ چیزک۔ سنی ہتھ متصرف پر ہتھ چیزک
آسمان وزمین ہندین خزان ہنزہ کوزہ ہتھہ تسی اتھہ۔ لہذا ہتھہ کمالک صفت آسہ ونس شو بیا شریک
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ سم لو کہ باوجود آل انکار ہتھہ کر ان خدا یہ سندین
آیا سن تھے لو کہ ہتھہ تاوان زد تہ سیٹھاہ نقصان تلہ ون۔ سم لو کہ آس پانے کھر و شرکس بتلا۔ مگر سم ہتھہ
امہ قسمک بے حیاء کہ یم ہتھہ توہہ تہ فرمائش کر ان نعوذ باللہ پنہ نس طریقس پٹھہ عمل کرنج قُلْ
أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ توہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ کیا ہ توحید ثابت سپد تھہ تہ

أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۵﴾ بَلِ اللّٰهُ
فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِينَ ﴿۶۶﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ
قَدْرِهِ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ
مَطْوِيَّٰتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۷﴾
وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

شرک باطل سپد تھ چھوہ توہہ میہہ دیان معبود برحقس ورائے بین ہنز عبادت کرن۔ اے نادانو تہہ
جاہلو، ای پیغمبر برحق توہہہ نعمت تھہ پاٹھہ ہیچہ نعوذ باللہ شرک وکفر صادر سپد تھہ میگ تم احق توقع چھہ
تھوان کیاہہ ولقد اوحی الیک وای الذین من قبلیک لئن اشركت لیحبطن عملک
ولتکونن من الخسیرین تھہین وحی آسوزنہ توہہہ کن سم توہہہ برونھہ آس کہ پنہ نین امتین ونو
توہہہ پریتھہ اکس فردا فرداکہ ہرگاہ تھہ شرک بخدا انکھ چان سارے کام گڑھہ ضایع۔ بیہ سپد کہ تھہ
ضرور نقصان تلہ ونیواندرہ۔ لہذا تھہہ کافرن ہندہ بارونہہ سیت متاثر سپد تھہ شرکس کن مایل سپدو۔
بلی اللہ فاعبد وکن من الشکرین بلکہ کمر و خدایہ سنزے یاثر عبادت بیہ آسوتس شکر دپہ ونیو
اندرہ وما قدروا اللہ حق قدرہ والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیمۃ والسماوات مطویاتاً
بیمینہ سبحنہ وتعالی عما یشرکون افسوس تمولو کو کہنہ خدایہ سنز قدر و عظمت تھہہ ہر تھہ
تس شوہہ ہا۔ حالانکہ تمسہ شان چھہ کہ سورے زمین آسہ ہمزہ موچھہ منز قیامتک دوہ ساری آسمان
آسن وبتھہ تہندس دچھنس اتھس اندر۔ منزہ تہ پاک بیہ تھود تہ بلند تھہ شرکہہ چوساروے کتھو نعمہ سمہ
کتھہ لو کہ تس ٹھہراوان چھہ ونفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ
قیامتک دوہ بیہہ پو غس منز پھو کہ دنہ۔ تمہہ سیت سپدن بے ہوش تم ساری سم آسمان تہ زمین منز
آسن۔ یم زندہ آسن تم مرن۔ یم مومت آسن قبرن منز تہند روح سپدن بے ہوش۔ مگر تم ہند اللہ

اِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ط ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ اٰخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ﴿۷۸﴾
 وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرٍ رَّبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئَتْ بِالْتَّيْبِيْنَ
 وَالشَّهَادٰءِ وَقَضٰى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۷۹﴾ وَوَقِيَتْ
 كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَسَيُقَ
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جِءَ وُّهَا فُتِحَتْ
 اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
 يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوْنَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ


تعالیٰ پر شبہ تم روزانہ اُمہ بے ہوشی سے مرندہ نشہ محفوظ ط ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ اٰخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ تو پتہ
 بیہ پو غس منز بیا کہ پھو کہ دنہ۔ سہ پھو کہ یاں دنہ بیہ تان ساری ہو ش منز روحن ہند تعلق سپدہ
 بدن سیت۔ تو پتہ دو تھن قبر و منزہ تھو د۔ پر تھ طرفہ لکن و چھنہ۔ تھہ پاٹھ کٹھہ حادثہ وقتہ انسان سند
 عادت چھہ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرٍ رَّبِّهَا تو پتہ کرہ اللہ تعالیٰ حسابہ خاطرہ پن تھلی نزول زمینس
 پیٹھ زمین سپدہ روشن پنہ نس پروردگارہ سپدہ نورہ سیت۔ وَّوَضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئَتْ بِالْتَّيْبِيْنَ وَالشَّهَادٰءِ
 وَقَضٰى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ بیہ یں پر تھہ اگس برو تھہ کتہہ تھانہ عملن ہنزہ کتابہ یعنی نامہ
 اعمال۔ بیہ یں پیش کر نہ پیغمبر بیہ تھند گواہ۔ تو پتہ بیہ فیصلہ کر نہ تھن منز بعدل۔ تھن بیہ نہ کٹھہ قسمہ ظلم
 کر نہ وَوَقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ بیہ بیہ پورہ پورہ دنہ پر تھہ اگس تمیک بدلہ
 یہ تم کورمت آسہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ زیادہ زانہ ون تمہہ سارے کامہ بیہ لو کہ کر ان چھہ۔ تمہہ بد لگ بیان
 چھہ تھہ پاٹھ کہ وَسَيُقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جِءَ وُّهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ
 لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ تالینکہ یلیہ جھنمس نشہ و اتن تمہہ
 ساتہ یں مورا ونہ تمک دروازہ بیہ دپکھ تمہہ ساتہ بطور فضیحت و ملامت جھنمک داروغہ کیاہ تو بہہ نش

هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۴۱﴾
 قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۴۲﴾ وَسَيَقُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿۴۳﴾ وَقَالُوا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَاةَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ضَ

واثر اے ناپیغمبر ہم تو ہی منزه اس۔ ہم پرہ من بوزہ ناوہ من توہمہ تہندس پروردگارہ سند آیات
 وَيَنْذِرُوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ یہ کرہ من نیم توہمہ سمہ
 دہمہ پیش بیک۔ تم دین بے شک اے پیغمبر اسہ نیشہ تمو بوزہ ناوہ اس خدایہ سند آیات۔ تم اس اسہ سمہ ذبک نیم
 کران۔ لیکن عذابک وعدہ سپد کافرن پیٹھ پورہ سم منز اس یہ داخل چھہ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ
 فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ وندہ پیٹھہ اژو جنم کیودروازو منز۔ اتھہ جہنم منز چھہ توہہ ہمیشہ
 روزن غرض خدایہ سند یوا حکامو نیشہ حکمہ کرن والین ہندہ خاطرہ کاژاہ پیٹھہ جای چھہ یہ جہنم۔ وَسَيَقُ
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا یہ من بکمال عزت پکناوندہ تم لوکھ تم پنہ نس ہروردگار
 کھوژان اس، جنس کن، سیمک گوڈنیک مرتبہ ایمان گووجماژو جماژو حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ
 أَبْوَابُهَا تَالِيحہ بلہ تم تھہ نزدیکہ واتن سیمکی دروازہ اسن موراونہ آمت بروٹھے متھنہ تمن پیازن یہہ وَقَالَ
 لَهُمْ خَزَنَتُهَا یہہ ون تمن جنک باغوان سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ سلام بوین توہہ اے جنتیو۔ توہہ
 روزو عیش و آرامس منز۔ فَادْخُلُوهَا خَلِيدِينَ کس اژو چھہ تمن جتن اندر ہمیشہ روزنہ خاطرہ
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَاةَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ضَ نَبَّوْا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ
 فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ جنتی ون جتن منز اژو تھہ، حمد بوین اس معبودر حقس ہم اسہ پن وعدہ پوز کور۔ اس بناون

نَتَّبُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿۴۴﴾
 وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
 رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۵﴾

وارث سے مالک جتنے کہ سر زینک۔ جائے زلواؤں سے ہمہ جہت منزه ستین خوش گرہ امہ۔ غرض کیاہر ژمزوریہ سے رت بدلاہ
 بچھ جنت عمل سے محنت کروئین ہمدہ خاطرہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
 بیہ وچھو کہ جہ یارسول اللہ ملایک حسابہ اجلاسہ کہ وقتہ عرش مجیدس آنداند گھیر کمر تھ، حلقہ کمر تھ روز تھ تسبیح
 سے حمد پران پنہ نس پروردگارہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِالْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ لَوْ كُنْ مِنْ فِئْلِهِ كَرِهَ لِيَ كَيْفَ أَصْلُكَ وَقِيلَ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ امہ رتہ فیصلہ پتہ سپدن پر تھ طرفہ نعرہ ہای تحسین بلند۔ دننہ سارے خوبہ سے
 تعریف چھہ سز اواری معبود برحقس نُس عالمین ہند پروردگارہ ہھ۔ یم رت فیصلہ لوکن منز کور سبھن نعرہ
 ہائے تحسین پیٹھ سپدہ دربار برخواست۔



سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 أَحْمَرَ ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۲ غَافِرِ الذَّنْبِ
 وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ ۳ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۴ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا
 يَغْرُرُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۵ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

احمر اسم زه حروف چھ حروف مقطعاتو آندرہ۔ سمن ہند معنی زانہ اللہ تعالیٰ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ
 اللہ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ کتاب قرآن مجید چھ نازل کرنے آمت اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ کس سیٹھا غالب تہ
 سیٹھا زانہ ون چھ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ
 سہ گوناہ بخشہ ون توبہ قبول کرہ ون، سخت عذاب کرہ ون کافر ن تہ مثر کن، قدر تہ وول کا نہہ معبوداہ
 چھنہ تس ورائے کس کن چھہ سارنہ تہ لاکہ واتن مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا
 يَغْرُرُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ اللہ تعالیٰ سندن آیاتن منز چھنہ بحث تہ اختلاف کران مگر تہ لوکھ
 سہموتس انکار کور۔ کس مہ تراون توبہ دھو کس تہ شہس منز چھنہ اورہ یورگرن، پھیرن تہ تھورن شہرن
 منز تجارت کرنہ خاطرہ۔ سمن کونہ چھہ کفرہ سبہ کینہہ نقصان گڑھان۔ توبہ روزو مطمئن کہ کس تہ کس
 وقتہ بن سمن گرفتار کرنہ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ سمن مکہ کین کافر ن
 بروٹھ تہ چھہ انکار کورمت نوح علیہ السلامہ سند قومن بیہ واریہو جماژون تہن پتہ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ
 بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ بیہ کر پرتھ اتس اندر

لِيَاخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ
حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

ارادہ پڑھ نہ کرے وہ نیولو کو کہ تم گرہ مان پنے نس پیٹھرس گرفتار کر تھ قتل کر نک، بیہ کور تمواپز یوتھو
سیت تنازہ بیٹھ تم تمہہ اپزہ سیت ہزس باطل گرن۔ ادہ رٹ میہ تم فکیف کان عقاب ادہ پٹھے خبر
میون سز اکتھ اوس تہمدہ حقہ۔ تہمدہ پاٹھ تم ن دنیاس منز سزا آؤد نہ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ بیٹھ پاٹھ چھہ سارنے کافرن ہندہ حقہ تہمدس پروردگارہ مند حکم
ازلی ثابت سپد مت کہ تم آن ضرور آخرتس اندر نارس اندر وادہ ون یعنی تم سیدہ بیتہ سزاستہ تہ
آسہ تم ابدی سزائے پاٹھ ہنہ تم موجودہ وقتہ کین ہند حال اتھ بدل تم با ایمان تہ مؤحدہ چھہ تم چھہ
خدائس نشہ تھنی مکر م تہ محترم کہ ملائکہ مقررین چھہ مولاء سندس تسبیح و تقدیس سیت و وظیفہ مقرر
آمت تھاونہ با ایمان ہندہ خاطرہ دعا و استغفار کرن۔ سمہ سیت ظاہر چھہ سپدان با ایمان گمہ قسمہ چھہ
اللہ تعالیٰ اس نشہ محبوب تہ مقرب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ تم ملائکہ تم ملائکہ تم تھہ اند اند
روز تھ چھہ یا طواف کران چھہ تم چھہ تسبیح تہ حمد پان پنے نس پروردگارہ مند بیہ چھہ تس بیٹھ پور پڑھ
کر تھہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بیہ چھہ تم ملائکہ مغفرت منگان تم لوکن ہندہ خاطرہ سمو ایمان
اؤن۔ دپان چھہ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ اے سانہ پروردگارہ پرستھہ چیزس چھہ واتھہ چان رحمت تہ چون علم پس کر تھہ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ
 فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقَّتْ اللَّهُ الْأَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ
 إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا

مغفرت تمن لو کن سمو شرک و کفرہ نشہ توبہ کوربیہ کر کہ پیروی چاہو و تہ ہنزیہ رہتھک تم جہنمہ کہ
 عذابہ نشہ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ای سانیہ پروردگارہ بیہ و اتناؤ کہ تم ہمیشہ روزنہ
 کین جتن اندر تمک جتن بند تہیہ تمن وعدہ کورمت ہتھتہ۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
 وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیہ یم تہند یو مالو ماجو آندرہ بیہ تہنوز ناؤ آندرہ بیہ تہندیہ
 اولاد و آندرہ، تم تھ لائق آسن یعنی با ایمان آسن بے شک ژے ہتھک زبردست جنتہ و ول وَقِهِمُ
 السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ بیہ رہتھک ژہ تم قیامتک دوہ ساروے تکلیفونہ
 میدان محشر کیو بیہ تکلیفوتہ پریشانیو نشہ۔ کس اکھاہ ژہ رہتھہ ہن تمہ دوہہ کیو تکلیفونہ بے شک ہتھ
 تس پیٹھ چانی مہربانی وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کینے گنیہ مغفرت تہ حفاظت عذاب اکبرہ نشہ تہ
 عذاب اصغرہ نشہ بیہ جنتس واتن ہنڈر ستگاری تہ کامیابی إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقَّتْ اللَّهُ
 الْأَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ بے شک سمو لو کو کفر کور تم یلہ جہنمسن منزواتھ
 پنہ کس کفر و شر کس پیٹھ حسرت و افسوس کمر تھ سخت ژگھ اندر پانے پنہ اتھ چہ اونگہ آسن کھیوان تمن
 بیہ بدہ و منہ قیامتہ دوہ اے کافر و توبہ جھوہ آہ پنہ نین پانن پیٹھ بیزار۔ اللہ تعالیٰ اوس توہہ پیٹھ تہندہ ون
 کینس پنہ نین پانن پیٹھ بیزار سپندہ خوتہ زیادہ بیزار۔ تمہ ساتہ یلہ توہہ ایمانس کن نادا لوس یوان دنہ توپتہ آسو

اٰثِنْتَيْنِ وَاٰحِيَّتِنَا اٰثِنْتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلَىٰ
 خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝۱۱ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُۥ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحَدّٰهُ
 كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرِكْ بِهٖ تُوْمِنُوْا فَاَلْحٰكُمُ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝۱۲
 هُوَ الَّذِي۟ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا
 وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنۢ يُنِيْبُ ۝۱۳ فَاَدْعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ
 الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝۱۴ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ

توہمہ انکار کران قالوا ربنا ائمتنا ائمتين و احييتنا ائمتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروجه من سبيل تم دين اے سارے پروردگارہ، مارتھ تہیہ اس دویہ پھرہ اکھ پادہ سپدنہ بروٹھہ ہیہ دنیاچہ زندگی پتہ۔ زندہ تہ کمر تھہ تہیہ اس دویہ پھرہ اکھ دنیاچ زندگی دوتم آخرچ زندگی۔ سمہ گنیہ ژور حالو۔ سمو آندرہ اس اس انکار کران اگسی حالس سہ گوومرنہ پتہ ہیہ زندہ سپدنس۔ پس جھہ اس اقرار کران پنہ نیں گو نہیں۔ وون چھانکینہہ وقھاہ سمہ جہنمہ منزہ نیسرنج۔ دنیاچ اس اندرواچھہ گرہ ہو اس سمں سارنے گو نہیں ہند تدارک جواب پیکھ ذنہ کہ ہر گزنہ۔ تہندہ خاطر جھہ نیسرنج کہنہ صور تھہ۔

تہندہ خاطرہ جھہ ہمیشہ تی روزنک حکم جاری ائت کرنہ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُۥ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحَدّٰهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرِكْ بِهٖ تُوْمِنُوْا فَاَلْحٰكُمُ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ یہ سزا جھہ توہہ امی موکھ دنیاچ منزیلہ کنہ سے خدا نیس نادوس یوان دنہ توہہ اسوہ تھہ انکار کران ہر گائس شریک ٹھہراونہ اس یوان جھہ اسوہ کران تہہ ہڈتہ تسلیم۔ اڈ جھہ اس خدلیہ سنز حکومتہ نیس تھودتہ بوڈ جھہ تس پیٹھکن جھہ کاہنہ تہ نیس تھندس کھمس پھر اوہہ۔ هُوَ الَّذِي۟ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنۢ يُنِيْبُ سہ گووسی نیس توہہ ہاون جھہ پنہ قدر تک نشانہ ہیہ جھہ سوزان آسانکہ طرفہ تہندہ خاطرہ رزق۔ سوزنہ جھہ تہندہ قدرتہ کیونشاؤ آندرہ اکھ نشانہ۔ یم نشانہ وجھہ سیت ریلہ نہ نصیحت مگر سنی نیس خدا نیس کن رجوع کرنگ ارادہ آسہ تھوان۔ وون یلہ توحیدس پیٹھہ دلیل قائم جھہ فَاَدْعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ
يَوْمَ التَّلَاقِ ۝۱۵ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ
مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝۱۶
الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۷ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى
الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ

الْكَافِرُونَ اے لوگو! تم کو کفر و شرک تراوتھ معجو توہم معبود برحقس، تسی یاژ بندہ گی مخصوص زانتھ
اگرچہ کھرتن تہ ناگوار گذرتن مکن تہ کافرن رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ سہ چھ تھوددرجہ دول۔ باایمان ہنددرجہ چھ بند
کرہون۔ عرش مجیدک مالک چھ سہ۔ سہ چھ سوزان وحی پندہ حکمہ سیت۔ پندہ نیوبندواندرہ بس پیٹھ
سہ یرھان چھ، پٹھ سہ بندہ خاص لوکن بیم کرہ قیامتھ ڈہک۔ سیمہ دوہہ ساری جمع سپدن یَوْمَهُمْ
بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ بیمہ دوہہ تم ساری لوکھ قبر ومنزہ نیرن نیر، توپتہ سپدن
جمع خدا بس برونھ کتھ روزہ نہ نھز کا نہہ کتھ اللہ تعالیٰ اس نشہ نہ نھند کا نہہ چیزاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماوہ
لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ از کھنزا سا حکومتھ چھ۔ کا نہہ تہ بیمہ نہ جواب دتھ۔ پائے فرماوہ اللہ تعالیٰ لِلَّهِ
الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ از چھ حکومتھ کسی خدا یہ سنز۔ بس قبرہ دول تہ غلبہ دول چھ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ از یہہ پریتھ اکس بدلہ دنہ تمہہ ساریوہ تم کورمت
آسہ دنیاس اندر۔ از یہہ نہ کا نہہ نسبت عمہ قسمہ ظلم کرنہ۔ بیشک اللہ تعالیٰ چھ جلد حساب ہوہون۔
یتھ پاٹھ سارنے پیغمبرن آو حکم کرنہ کہ قیامتھ ڈہک کمر ولوکن بیم یتھ پاٹھ چھ توہہ تہ حکم کرنہ
یوان وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ نھہ تہ کمر و حض بیم لوکن یارسول
اللہ کہ نزدیک یوہونہ مصیبتہ کہ ڈہک یلہ وانجہ آسن لوکن واژ مرہ ہرس پیٹھ۔ تے آسٹھ عمہ سیت پد

يُطَاعُ ۱۸ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۱۹
 وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا
 يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۲۰ أَوَلَمْ
 يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي
 الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
 مِنْ وَاقٍ ۲۱ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَبِيبٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ تمہ دہمہ آسہ مٹر کن تہ کافر ن کا نہہ ولی دوستانہ
 کا نہہ سفارش گرہ و ناہ نسنز سفارش مانہ یہ ہا یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور اللہ تعالیٰ
 چہہ زانان اچھن مہدس خیائس یہ تم ن سارنہ کھن تم ن دل کھٹٹھ تھوان چہہ۔ یہ کھہ سین منز
 پوشیدہ آسان چہہ تم ن پٹھ نہ کا نہہ واقف سہان چہہ واللہ یقضی بالحق اللہ تعالیٰ سہ علم چہہ
 کامل۔ سہ کرہ پوز فاصلہ تمہ دہمہ والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ ہوا السميع
 البصیر یہ تم ن باطل معبودن یم لو کہ خدایس ورائے آلودوان چہہ تم ن تم ن نہ کھنہ قسمہ فاصلہ کمر تھ
 کیا زہ بیشک اللہ تعالیٰ اے چہہ سہ سوروی و چہہ ون۔ ا ولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان
 عاقبة الذین کانوا من قبلہم کیا ہ تم لو کہ چھنا پھیر مت شام و سمنہ کس ملکس اندر تا نیکہ و چہہ ہن
 تم کیا چہہ سہ مت انجام تم ن نافرمان لو کن مہد یم تم ن برو تھہ آس کانوا ہم اشد منہم قوۃ
 واثاراً فی الارض فآخذہم اللہ بذنوبہم تم آس تمہدہ خوتہ زیادہ قوتہ کن یہہ تمو تراو پتھ کن
 ز میس اندر جہ جہ عمارث۔ تو پتہ رٹ تم اللہ تعالیٰ ان کمر ن گرفتار عذاب تمہد یو گونہوسبہہ وما کان
 لہم من اللہ من واق تو پتہ تہ اوس نہ تم ن کا نہہ بچاؤن وولاء خدایہ سندہ عذابہ ن شہہ ذلک بانہم

فَكَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آلَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۲۳﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ
 هَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿۲۴﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
 بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
 وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿۲۵﴾
 وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي
 اتَّخَذْتُم مِّن دُونِي آلِهَةً إِنِّي أَعْتَبُكُمْ

كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آلَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ عذاب سزا دہن
 بیٹھ سمہ موکہ نازل کہ تم نغمہ آس واتان ہند پیغمبر نہ دلیلہ ہتھ۔ تو پتہ آس تم انکار کران۔ کس کس
 تم گرفتار اللہ تعالیٰ ان عذابس۔ بیشک نہ ہتھ سینہا قوتہ دول سخت عذاب کرہ ون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ہنز پاٹھ بیہ سوز اسہ موسیٰ علیہ السلام ہن آیات تہ نغمہ دلیلہ ہتھ
 اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ فرعونس ہانسن تہ قارونس کن دوپ تمو
 یہ ہتھ جادوگر تہ ایزور فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
 وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ توپتہ یلہ آو موسیٰ علیہ السلام عام لوکن نغمہ سانہ طرفہ پوزدن ہتھ تمو
 منزہ اون ایمان بعضے لوکو۔ تم کافر اس تمو دوپ پانہ وان بطور مشورہ کہ ماریو کہ تم لوکن ہندی
 لوکت تمو ایمان اون حضرت موسیٰ آس سیت۔ ہتھ تم لوکن ہند قوت زیادہ سپدہ ورنہ ہتھ اندیشہ
 سلطتمہ زوالک۔ کورہ ہنز تھاویو کہ زندے کیازہ تمہہ بن خدقس تہ کامہ کوچہ بکار۔ یہ سوچ تمو غلبہ
 موسویہ بندشہ ہند تدبیر وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ کافرن ہند تدبیر چھنہ مگر بالکل بے اثر
 وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ بیہ دوپ فرعون میہ تراوہ۔ بہ مارن موسیٰ۔
 غالباً آسہ ہن اہل دربار تس توہ حرکت کر نہ نغمہ پتھ رٹان۔ گوہن نہ کمرن فریاد پنہ نس خدایس بہ
 وچھہ نہ ہتھ پاٹھ بچاوہ نس اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ وَاِنِّي اُظْهِرُ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ

أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ
 الْفُسَادَ ﴿۲۶﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
 مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾ وَقَالَ رَجُلٌ
 مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا
 أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ
 وَإِنَّ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ
 بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

میں چھ خطرہ گڑھان کہ سہ بدلاوہ دین تمہد۔ یہہ ما پھیلاوہ ملکس منز تاہی۔ سمہ سیت سان سلطنت کرہ
 ختم وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ موسیٰ
 علیہ السلامن دوپ پنہ نس قوس توبہ مہ بر و ہر و اکینہ بہ چھسنہ کھوژان فرعونہ سندس خوف دس۔
 میں چھ پناہ ہیوت مت پنہ نس تہ تمہدس خدلیہ سندہ سیت پریتھ مغرور شخصہ سندہ شرہ نشہ نس نہ پڑھ
 چھ حسابچہ دُجَّ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ
 اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ تو پتہ وون اک با ایمان مردن نس اتھ مشورچہ مجلسہ
 منز اوس فرعونہ سندہ خاندانہ منز، نس پن ایمان کھٹٹھ تھاوان اوس اے لو کو کیاہ تہہ چھوہ نہ اکھ شخصہ
 محض سمہ تمھ خاطرہ ماران کہ سہ چھہ دپان میون معبود چھہ اللہ تعالیٰ حالانکہ سہ چھہ توبہ نشہ نہہ دلیلہ
 پیش کران پنہ نس ہروردگارہ سندہ طرفہ وَإِنَّ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ اگر سہ بالفرض اہزوان
 آسہ تس چھہ تمیک و وبال پانس وَإِنَّ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ہر گاہ سہ پزوریور
 آسہ تلہ ولتہ توبہ ضرور تمہہ منزہ کینہہ سمیک سہ توبہ و عیدہ چھہ کران إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
 مُسْرِفٌ كَذَّابٌ اللہ تعالیٰ چھہ و تھ ہوان نس شخص نس حدہ ڈلہ ون تہ سخت اہزوریور آسہ يَقَوْمُ لَكُمْ

كَذَّابٌ ۲۸ ۞ يَقَوْمِ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرَيْنَ فِي الْأَرْضِ
 فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ
 مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۲۹ ۞
 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ
 يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۳۰ ۞ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ
 وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ ۳۱ ۞
 وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۳۲ ۞

الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرَيْنَ فِي الْأَرْضِ اے قوم ازبھتہ توہمہ سلطنت تہ حکومت۔ تہمہ ہجھوہ غالب ہتھہ
 مملکتس اندر فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ہر گاہ تہمہ حضرت موسیٰ شہید کریوں۔ تمہہ
 پتہ خدایہ بندہ طرفہ کانہہ بلایاہ واتھہ پیہ تمہہ ساتہ تہمہ گرہ اسہ مدد تہ یاری۔ تہمہ ہچا وہ اسہ تمہہ بلایہ نشہ
 قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ یہ بوز تھہ وون فرعون بہ
 جھنہ توبہ مشورہ دیوان مگر تھی تھہ ہندیوس میہ پانس جان آیہ بوز نہ سہ گو موسیٰ قتل کرن بہ جھنہ توبہ
 ہوان مگر سوی وتھہ یوس سیز چھ ہتھہ منز عین مصلحت چھہ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ
 عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ بلہ تم با ایمان شخص وچھہ کہ نرم تقریہ سیت بنیونہ کینہہ، تم ہیوت
 زور دار تقریر کرن۔ تو پتہ وون تم با ایمان مردن اے قوم مہ ہتھہ خطرہ گوہان تہندہ ہتھہ توبہ پیٹھہ تہ
 مایہ پیٹھہ دوہ ہتھہ برو ٹھمن لوکن پیٹھہ آمت ہتھہ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ
 بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ ہتھہ حال بیونمت ہتھہ قوم نوحس، قوم عادس، قوم ثمودس،
 یہ تم لوکن یم تم پتہ آس۔ اللہ تعالیٰ جھنہ بدن پیٹھہ ظلم کرن یشھان وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ

يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ
 اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳۳ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلُوبُكُمْ
 لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ
 مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ۝۳۴ ۚ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ
 أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ای میانہ قومہ بہ چھس کھوژان نمہدہ خاطرہ تھہ دوہس سچہ منز واریاہ آلوپین دنہ۔
 گوڈینگ نداگوپو غس منزیہ پھوکھ دنہ سمہ آوازہ سیت ساری مردہ زندہ گڑھن۔ بیہ پیہ پریتھہ اگس
 شخصس پنہ ماجہ سیت نسبت کمر تھہ نداکرنہ یَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ سمہ دوہہ نمہ ژلان آہو تھر
 پھر تھہ حسابہ کہ موقعہ نعرہ دوزخس کن۔ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ تمہ ساتہ آسہ نہ کانہہ تہ توہہ
 خدلیہ سندرہ عذابہ نعرہ بجاوہ ون۔ یہ مضمون اوس سیٹھاہ غایت درجہ ہدایتس مقضیٰ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ
 فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ مگر یس خداوتھہ راورہ آس چھنہ کانہہ تہ وتھہ ہادہ ون وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ
 مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ تھہ پیہ آوتوہہ کن موسیٰ علیہ السلامس برو تھہ
 یوسف علیہ السلام نبرہ دلیلہ ہیٹھ۔ کس رودوہ توہہ ہمیشہ شک کران تھہ منزیہ سہ توہہ کن ہیٹھ آمت
 اوس خدلیہ سندرہ پیغام حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلُوبُكُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا تالیجہ یلہ تم گئے سمہ عالمہ
 نمہ لکم وہ ونہ پائے ون سوزنہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلامس پتہ کانہہ بیغمیرس كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
 مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ سچہ پاٹھ چھہ اللہ تعالیٰ وتھہ راوران تہ غلطی منز تھاوان تمہن کوکن ہم حدہ
 چھہ ژلان انکار کرنس اندرہیہ تم شک چھہ کران ۚ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ
 تم گئے تمہ بحث تہ قضیہ چھہ لاگان اللہ تعالیٰ سندین آیاتن اندر کمرہ تڑھہ دلیلہ ورائے یوسہ تمہن
 نعرہ واژمڑ آسہ ہا۔ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ آس چھہ سیٹھاہ نفرت امہ کج

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكِدِّرٍ جَبَّارٌ ﴿۳۵﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰمُنُ ابْنُ
 لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿۳۶﴾ ۱۱ صَرَاحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿۳۶﴾ ۱۱
 إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَكْفُؤُهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ
 عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا كِيدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿۳۷﴾
 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿۳۸﴾
 يَوْمَ اتَّمَاهِدِيهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ

بجی ہنز۔ با ایمان نے تہہ پہنچ کر نہ تھی۔ لہذا اللہ نے ہر قلب پر متکدیر جبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تہمدین وکن پیٹھ موہر کر مرچھ پیٹھ پائھ پھ اللہ تعالیٰ موہ ہر کران پر پیٹھ منجھرتہ سرکھہ سندس دس پیٹھ۔ یہ اوس تقریر تس با ایمان مردہ سندس پن ایمان کھیت تھاوان اوس۔ امہ تقریرہ پتہ کور تم پن پان ظاہر۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰمُنُ ابْنُ لِي صَرَاحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ فرعون نے یہ جواب تقریر یوز تمس با ایمان سے کہ اے ہامان میانہ خاطرہ بناوڑہ اکھ تھود مکانا دیوہ بہ تھ پیٹھ کھنٹھ خیالہ دلیل قائم کرنے خاطر ہامان سے اے ہامان میانہ خاطرہ بناوڑہ اکھ تھود مکانا دیوہ بہ تھ پیٹھ کھنٹھ وائت آسانہ جن وتن پیٹھ۔ ۱۱ صَرَاحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ یعنی آسان کھنٹھ جن وتن پیٹھ تو پتہ وچھ بہ موسیٰ علیہ السلامہ سندس خدا جس کن۔ بہ چھس زانان سہ چھویہ ونہ نس اندر اپز پور۔ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ پیٹھ پائھ آوزینت ونہ فرعونہ سندہ خاطرہ تمسزن یکچہ کاٹین۔ بیہ آؤسہ ہتھ رٹنہ سیزہ وتہ نشہ۔ تم کر یہ موسیٰ علیہ السلامس مقابلہ داریاہ بڈ بتدیر وَمَا كِيدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ مگر فرعونہ سند پر پیٹھ تدیراہ گود ضایع تہ بے کار۔ کینہ تدیرس منز پند نہ سہ کامیاب وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ تم با ایمان شخصن یلہ وچھ کہ فرعونس پھورنہ کانہہ معقول جواباہ تم کور یہ۔ تقریر۔ تم دوپ ای میانہ قومہ تہہ پچھ میانہ وتہ۔ تہہ کمر و میان پیردی۔ بہ ہاودوہ توہہ رڈو تھ۔ یعنی سبیل الرشاد ہتھ میانی وتھ فرعونہ سنز

الْقَرَارِ ۳۹) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ
 عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ وَأُنْتَبِئْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْمَوْنَ فِيهَا بغيرِ حِسَابٍ ۴۰
 وَيَقُومُونَ مَعَالَىٰ أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ التَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَىٰ النَّارِ ۴۱
 تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
 وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۴۲ لِأَجْرَمَ أَنَا تَدْعُونَنِي
 إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا

و تھ و جھنہ۔ تم سدا دعوہ جھہ اہز یقومو اٹھا لہذا العیوۃ الدنیا متاعاً و ان الآخرة ہی دار القرار اے
 میانہ قومہ یہ دنیا ج زندگی جھنہ مگر کیوں دو دن فایده تلخ اصل روزہ نک گرہ گوو آخر تک گرہ۔ مَن
 عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ وَأُنْتَبِئْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْمَوْنَ فِيهَا بغيرِ حِسَابٍ ایم اکھ بیچھ کو م کمر تس بیہ نہ تمیک سزا نہ مگر
 تھہ برابر بس اکھاہ رث عمل گرہ مر دو یا زنا و اندرہ با ایمان آتھہ تے لوکھ اثن جنس اندر۔ تہہ بیچھ برزق
 عطا کرنہ حسابہ روستے وَيَقُومُونَ مَعَالَىٰ أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ التَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَىٰ النَّارِ ای میانہ قومہ یہ کدھ
 کتھاہ جھہ کہ بہ جھسوہ توہہ نادوان نجائس کن جہہ جھوہ میہ نادوان نارس کن تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ
 وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ جہہ جھوہ میہ نادوان معبود
 بر حقس انکار کرنس تہ شریک ٹھہراونس کن تہج نہ میہ نشہ کاہنہ خبراہ جھہ، دلایلاہ جھہ۔ بہ جھس توہہ
 نادوان تس معبود بر حقس کن بس سیٹھاہ جھنہار جھہ لِأَجْرَمَ أَنَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي
 الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ یہ کتھہ جھہ ظاہر کہ بس پر ستش کرنس کن جہہ میہ نادوان جھوہ سہ جھنہ

إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿۳۳﴾ فَسْتَذَكُرُونَ
 مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
 بِالْعِبَادِ ﴿۳۴﴾ فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مِمَّا مَكَرُوا وَحَاقَ
 بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿۳۵﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا
 غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
 فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۳۶﴾ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ

قابل نہ دُنیا سے اندر کئی حاجت و زہ نادرس نہ آخرتس اندر دفع عذابہ کہ وقتہ کیا زہ نادرنج صلاحیت
 ہتھ تہس نِس قدرت و علم آسہ۔ ہم دوشوے چیز ہتھہ غیر اللہس نشہ مفقودہ وَأَنَّ مَرَدًّا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ
 الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ یہ ہتھہ یقینی تہتھ کہہ آسہ سارنہ ہتھہ وانس رجوع کران اللہ تعالیٰ اس
 گن۔ یہ تہ ہتھہ یقینی تہتھ کہ حدہ نشہ ذلہ ون یعنی غیر اللہس عبادت گرہ ون ہتھہ نارس اندروانہ ون
 فَسْتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ میان تہتھ ہتھہ تہہ بہان بیوہ توہ ژیتس سو تہتھہ۔ یوسہ ہونان ہتھوس مگر
 برو تہتھہ بہن۔ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بہ ہتھس ہن معاملہ ہتھہ لوان
 اللہ تعالیٰ اس بے شک اللہ تعالیٰ ہتھہ پانہ وچھان پنہ نین ہندن ہند حال فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مِمَّا مَكَرُوا
 وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ نِس روچھہ سہ بالیمان بندہ اللہ تعالیٰ ان تہند یومضر تدیر و
 نشہ۔ پوت ہتھہ تہہ آؤولہ عذاب فرعونہ سندین لو تین پو تین چنانچہ فرعون تہ تہند قوم پھوٹ
 دریائے قلمس اندر۔ موسیٰ علیہ السلام تہ تہند یو تا ہو لوب نجات۔ آل فرعونہ منزہ ہم بالیمان اس
 تمویہ لوب موسیٰ علیہ السلام سیت غرق سپندہ نشہ نجات النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا
 عالم ہرز خس منز چتھہ تم صُحس تہ شاس نارس برو تہتھہ کنہ آئند یوان تہن ہتھہ ونہ یوان کہ قیامتگ دوہ کیاہ
 بیو تہتھہ تہہ نارس منز داخل کرنہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ
 قیامت قاسم سپدہ تمہہ دوہنہ ہتھہ حکم کرنہ واتہ ناویو کہ فرعون تہ تہند قوم سخت عذابس اندر وَإِذْ

فَيَقُولُ الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ
تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَبَرُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿۳۷﴾
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ
بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿۳۸﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿۳۹﴾
قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ
قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دَعَا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿۴۰﴾

يَتَحَايَجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ
مُعْتَبَرُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ سہ وقت تہ جہہ قابل ذکر علیہ کافر نارِ جہنم اُنڈر پانہ وان ہرہ ہر
گرن توپہ ونن کمزور لوکھ تمن لوکن تم مغرور تہ سرکش اَس اس توہی تابع۔ کیاہ جہہ ہیکوہ نازک
کا نہہ جہہ اَسہ نشہ دور کمر تہہ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ
مغرور تہ سرکش لوکھ ونہ کھ اَس ساری جہہ نارہ سے منز (اَس ہر گاہ توہہ کینہہ کمر تہہ ہیکوہ ہو گوڈہ کرہ
ہو اَس پانہ سے) بیشک اللہ تعالیٰ اَن کور فاصلہ بدنن منز۔ وون ہیکوہ نہ تہہہ فاصلس منز بدل سید تہہ۔
تہہہ فاصلس منز اَس ساری نارِ قرار ونہہ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ
يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ حمہ پتہ ونن تم ساری لوکھ تم جہنم منز دزان اَسن جہنمہ کین
داروغن، جہہ معنو سانہ خاطرہ خدا بس سہ کرہ ہاکنہ وہہ عذابس منز سہل قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ
رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تم دپکھ کیاہ توہہ نش اَس نایوان پیغمبر تہند نہہ دلیلہ ہیتہ جہنمہ کہ عذاب نشہ کھنچ
کا نہہ طریقہہ تہ صور تہہہ ہیتہ قَالُوا بَلَىٰ تم دپکھ اوہ یوان اَس مگر اَس اَس نہ تہند مانان قَالُوا
فَاذْعُوا وَمَا دَعَا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ تم دپکھ تورہ جہہ معکوپانے اَسہ چہہ کافر ن سفارش

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿۵۱﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
 مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿۵۲﴾ وَلَقَدْ
 آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿۵۳﴾
 هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿۵۴﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ
 اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

کرہ نچ ممانعت۔ مگر تھہ مگنسن تہ کانہہ نتیجاء نیر یونہ کیا زہہ کافر ن ہند مگن جھنہ مگر بیکار تہ بے اعتبار۔
 اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اِس جھہ یاری تہ
 مدد کران پنہ نین پیغمبر ن بیہ با ایمان دنیا چہ زندگی اندر بیہ سمہہ دوہہ گواہ یعنی تم ملائیک، تم نامہ
 اعمال لیکھان اسن گواہی خاطرہ تھو دوو تھن۔ تم دن گواہی پیغمبر ہندہ تبلیغ بیہ کافر ن ہندہ انکار چ
 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ سمہہ دوہہ نہ کانہہ
 فایدہ دیہ ظالم ن یعنی مضر کن تہ کافر ن عذرتہ بہانہ پیش کرنہ تھندہ خاطرہ جھہ لعنت (یعنی خدا یہ سندہ
 رحمتہ لغہ دوری) بیہ جھہ تھندہ روزنہ خاطرہ بچھہ مکان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي
 إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ تھیق توبہہ بروئھہ کورائہ عطا موسی اکلم
 الھس بوڈ ہدایت یعنی تورات بیہ کمر بنی اسرائیل اُسہ وارث کتابہ ہندی یعنی توراتک اُس تورات ہدایت و
 نصیحت جھہ عقلہ والین تہ گائین ہندہ خاطرہ۔ بے عقل سم اس تمن ووت نہ تمہہ کتابہ ہند کانہہ فایدہ۔ جہہ تہ
 چھوہ موسی علیہ السلامہ سند پاٹھہ صاحب رسالت و وحی۔ تھندین اقعین اندر ایم گائل تہ عاقل جھہ تم تہ
 کرن تمہہ کتابہ ہنز یوسہ توبہہ عطا کرنہ آیہ خدمت تہ اشاعت۔ بے عقل سم جھہ تم کرن اتھہ کتابہ انکار
 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ مگر جہہ
 کمر و تھہ پیٹھ صبر یار سول اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سُنو وعدہ جھہ پوز۔ بیہ مگن مغفرت پنہ نین گونہن ہندہ خاطرہ

بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝۵۵ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ
 اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمُ الْإِكْبَرُ
 مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْبَصِيرُ ۝۵۶ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَبِيرُ مِنْ خَلْقِ
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۷ وَمَا
 يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

ہیہ روز و ٹوہہ تھہ کلمہ سیت مشغول سمہ سیت نہ غم س کن التفاتھے سپان آسہ۔ سہ گووکہ تہہ سہو تسبیح تہ
 حمد پنہ نس پروردگارہ سندہ خاطرہ پران شامس تہ صبحس تہ اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ
 سُلْطٰنٍ اَتٰهُمُ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمُ الْاِكْبَرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيْهِ بے شک سم لوکھ بحث تہ قضیہ چھہ
 کران خدایہ سندین آیاتن اندر کنہ دلیلہ ورائے یوسہ تہن نشہ واثر مثر آسہ ہا، تہندین وکن اندر چھہ کینہہ
 تہ بڈی یعنی سبخر و غرورہ ورائے۔ تہن سمہ بڈی ہند خیال چھہ تھہ ممکن نہ و آنتھ یعنی سوہ سپنہ تہن
 حاصلے زانہہ بلکہ گڑھن تم خوار و ذلیل فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ بلکہ منگ توجہہ
 اللہ تعالیٰ آس پناہ تہن لوکن ہندہ شرہ نشہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ سوڑے بوزہ ون، سوڑے وچھہ
 ون۔ سم لوکھ انسان ہندس دوبارہ پادہ سپنہس انکار کران چھہ تم چھہ سیٹھاہ بے عقل، کیا زہ لَخَلْقُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْكَبِيْرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ آسمان تہ زمین
 ہند پادہ گرن چھہ زیادہ کام انسان دوبارہ کرنہ خو تہ لوکن ہنزہ نظرہ اندر یلہ بڈ کام کرنس پیٹھ تس پور
 قدرت چھہ لوکت کام کرن کیاہ عجایب چھہ تس نش۔ مگر باوجود آل چھہ اکثر لوکن یہ تھہ فخرہ تران۔
 وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمِيْسِيْ قَلِيْلًا
 مَا تَتَذَكَّرُوْنَ ہیہ تھہ پاٹھ برابر چھہ اون تہ گاشدار تھہ پاٹھ چھہ برابر تم لوکھ سموا ایمان آنتھ رتھہ
 کلمہ گڑہیہ سم ہند کار آسن۔ سیٹھاہ گم چھوہ تھہ فخر کران ورنہ روزہ میونہ تھہ اعلمی تہ بدکار اِنَّ السّٰعٰةَ

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الِيسَىٰ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿۵۸﴾
 إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۹﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
 إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
 دُخْرَيْنَ ﴿۶۰﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
 وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ
 لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۱﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ

لَا تِيَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ قیامت بچھ ضرور یوہون تمہہ کس میں منز
 چھنہ کانہہ شکھاہ۔ لیکن واریاہ لوکھ چھنہ مانان نہ پڑھہ کران کیاہہ تم چھنہ چھنہ چھنہ دلیمان اندر تہہ نہ غور
 کران۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ بیہ چھہ فرماون تہہہ پروردگارے لوکو منگو تہہہ سے۔
 بہ گره تہہہہ پر چھہ جایز درخواستہ قبول إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
 دُخْرَيْنَ میہ ورائے مہ منگوین حاجت کانسہ تہہ۔ بیشک تم لوکھ منجبر چھہ کران میانہ عبادتہ نشہ یعنی
 میہ منجگہ نشہ میہ ورائے بن چھہ منگان، میہ چھہ بن حاجت منگان، تم اثران چھہ منس منس تھہ خوار گہ تھہ
 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا معبود برحق گووسی یم راتھہ کر تہہہہ
 فایده خاطرہ تھہہ تھہہ منز آرام کرو، بیہ کرن دوہو چھہ خاطرہ روشن تھہہ تکلیفہ ورائے تھہہ معاش
 حاصل کرو إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ بے شک
 اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھاہ فضل کرہون لوکن پیٹھہ۔ لیکن واریاہ لوکھ چھہہ تمن نعمون ہنز شکر گذاری کران
 بلکہ چھہ تھہہ بدل شرک کران۔ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تَوْفَكُونُ بیہ چھہ
 اللہ تعالیٰ تہہہہ پروردگار سمسد ذکر کر نہ آو۔ تم چیز نہ یم تہہہہ پانے چھو کہ ٹھہراوان۔ سئی چھہ پر چھہ

كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۶۲﴾ كَذَلِكَ
يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۶۳﴾ اللَّهُ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ
فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ
اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۴﴾ هُوَ
الْحَيُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۵﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ

چیز کا پادہ کرہ و ن کا نہ معبودا چھنہ تس وراے۔ توحید ثابت سپد نہ پتہ کوت چھوہ تہہ مشرک کر تھ
پوت پھیر ان كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ تھے پائٹھ آس یوان
و تھ راہ راونہ تمن یم سائین آیاتن آس انکار کران اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ معبود برحقے گووسی یم تہنہہ خاطرہ
کور روزنج تہ قرار کرہ نج جای زمین۔ بیہ کورن آسمان ہیر مہ طرفہ پشاہ ہیو۔ بیہ کرنوہ عطا توہہ صورتھ
سوی صورت کمرن رث صورتھ۔ بیہ کورن توہہ رزق عطا۔ رت رت چیز کھنہ خاطرہ۔ ذَلِكُمْ اللَّهُ
رَبُّكُمْ یوہے گوونہندہ وردگار فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بس جھ اللہ تعالیٰ سیٹھاہ عالیشان۔
سے جھ عالین ہند رب هُوَ الْحَيُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ سے جھ ازلی تہ ابدی زندہ روزہ و ن کا نہ معبودا چھنہ تس وراے۔ اے لو کو بس معگوہہ
ساری تس، خالص اعتقاد کر تھ، شریک مہ ٹھہراو تس کئی چیز س اندر عبادت تہ بندگی خالص سزوارانتھ بیہ
نہ کاسہ۔ ساری حمد و ثناء سارے خوبیہ جھ تسی معبود برحق سزوارن بس رب العالمین جھ قُلْ إِنِّي
نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ نَہہ فرما ویوکھ یا رسول اللہ یمین مشرک
کہ میہ آو منع کرنہ بہ کیاہ کرہ پرستش تمن معبودان باطن ہنز یمین تہی

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ
 مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾
 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا
 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَلَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا
 يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي

پرستش کران چھوہ معبود برحقس درائے لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ یکہ زن میہ نش میانس پروردگارہ سندہ طرفہ واضح دلیل چھہ آشرتہ مہ او حکم کرنہ کہ بہ
 نومراوہ کلہ عبادتس اندر فقط رب العالمینس بردنھ کنہ ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
 مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا سہ پروردگار گودسی یم تمہہ
 پادہ کمری نوہ گوڈہ میوہ یعنی تمہند جد اعلیٰ آدم علیہ السلام توپتہ تمہند نسل آہہ قطرس توپتہ خونہ دتہ تو
 پتہ کڈی نوہ تمہہ چھہ سبزہ شگلہ اندر ماجہ ہندہ شکمہ اندرہ۔ توپتہ چھوہ توہمہ زندہ تھاوان تمہہ تمہہ واتوپتہ
 جوانی ہندس وقس توپتہ چھوہ توہمہ زندہ تھاوان تمہہ تمہی بڈہ سپدو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَلَّى مِنْ قَبْلُ بیہ چھہ
 توہی اندرہ کتیبہہ اتھہ جوانی یا بجرہ کس وقس واتنہ بروٹھے مران وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى بیہ چھہ سہ
 توہمہ زندہ تھاوان تمہہ تمہہ واتوپتہ نس مقرر گرنہ آقس وقس تان وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بیہ سورے کور
 آسہ تمہہ توہمہ فخرہ ترہ خدایہ سند توحید بیہ بیہ کہہ سزہ تمہہ بیہ سہ پروردگار آسہ بیہ زندہ کمر تمہہ یم آسہ پتو
 دور و منزی گڈاری ہُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سہ گودسی

اٰیٰتِ اللّٰهِ اٰتٰی یُصْرَفُوْنَ ۙ۶۹ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِیِّنٰ
 اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلًاۙ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ۙ۷۰ اِذِ الْاَعْمٰلُ فِی
 اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ یُسْحَبُوْنَ ۙ۷۱ فِی الْحَبِیْمَةِۙ ثُمَّ فِی
 النَّارِ یُسْجَرُوْنَ ۙ۷۲ ثُمَّ قِیْلَ لَهُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۙ۷۳
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوْا مِنْ
 قَبْلُ شَيْئًا كَذٰلِكَ یُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِیْنَ ۙ۷۴ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

نہیں زندہ کران تہ ماران ہتھ۔ یلہ کنہ کامہ ہندہ پورہ کرہ ٹک ارادہ کران ہتھ، سہ ہتھ تھہ چیزس کن
 فرماوان سہد آئی ہتھ سہ سپان آلم ترالی الذین یجدلون فی آیت اللہ آئی یصرفون نہہ ہتھودہ
 ناوچھان تھن لوکن ہندس حاس کن یم بحث تہ قصیہ چھہ کران اللہ تعالیٰ سندین آیاتن منزکہ کوکن ہتھہ
 تم پھر نہ یوان۔ الذین کذبوا بالکتب و بیئا ارسلا بنا بہ رسلنا سوف یعلمون سمولو کو اوپازان
 یہ کتاب یعنی قرآن مجید، بیہ سم مجزہ سم ہتھہ آسہ سوز ہن پیغمبر، مٹر کین عرب آس نہ کانسہ پیغمبرس
 مانان۔ تھن سپدہ معلوم بروٹھہ پہن یعنی قیامتگ دودہ یوسہ نزدیکہ ہتھہ اذ الاعمال فی اعناقہم
 والسلسل یسحبون * فی الحمیمہ ثم فی النار یسجرون یلہ غل آسن تھنزن گردن منزہہ
 ہانکھہ سمن طوق سیت واٹھ کمر تھہ آسہ سمیک ہیاکھ اند آسہ ملائکن ہندین اتھن اندر۔ سموے ہانکو
 سیت آسن تم کھکھرہ پکانوندہ یوان جھنچہ رسرہ منز تراوندہ خاطرہ توپتہ یین تم نارس اندر زانہ ثم قیل
 لهم این ما کنتم تشرکون * من دون اللہ توپتہ بیہ تھن وندہ تم معبودان باطل کوت گئے سم
 توہہ خدایہ سند شریک آسوکھ ٹھہراوان تم کونہ ہتھہ توہہ مدد کرنہ یوان قالوا ضلوا عنابا بل لَمْ نَکُنْ
 ندعوامن قبل شیئا تم دپن تم روا سہ۔ بیہ تھہ کنہ نظرہ گڑھان بلکہ ہتھہ ہنر تھہ تھکے کہ آس نہ
 کانسہ تہ آزی کہ بروٹھہ پرستش کران۔ یعنی آسہ سپد معلوم سمہ سم آس نہ کہنی کذالک یضل اللہ
 الکفرین ہتھہ پاٹھہ ہتھہ اللہ تعالیٰ کافرن غلطی منز بھساوان ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض

تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿۱۵﴾
 ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوَى
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۱۶﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَمَا تُرِيدُكَ
 بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّئِكَ فَاَلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۷﴾
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
 وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
 بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ یہ سزا جہ توہمہ تمہن ہند کہ تمہہ اسوہ ذنیاءس اندر ناحق شرکہ
 سیت تہ کفرہ سیت خوش گروہان۔ بیہ اسوہ تمہہ مخبر تہ غرور کران۔ امہ بروٹھ آسہ تمہدہ کھہ حکم
 سہمت ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اترو جہنمہ کیو دروازو منز توہمہ ہجوہ ہمیشہ آتھ منز
 روزن فَبئسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ پس کا تراہ بچھ جای چھہ یہ جہنم مخبرن ہنز یلہ انتقامیہ سزایہ ونہ
 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ پس کمر و تمہہ کینہہ کالاہ صبر یار رسول اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ سُنَد وعدہ چھہ
 فَمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّئِكَ فَاَلَيْنَا يَرْجِعُونَ سمہ عذابک اس تمن
 وعدہ چھہ کران تمہہ اندرہ کا نہہ حصاہ ہر گاہ آس توہمہ ہاووہ یعنی تمہدہ سے وقس اندر گرو آس تمن پیٹھ عذاب
 نازل یاسہ عذاب نازل کرنہ بروٹھ نمووہ اس تمہہ سمہ عالمہ منزہ بہر حال چھہ تمن واتن آس نشہ تمہہ ساتہ
 سہدن تم یقینا عذابس گرفتار وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ
 نَقْصُصْ عَلَيْكَ تحقیق بیہ سوز آسہ واریاہ بنمبر توہمہ بروٹھ تموا اندرہ چھہ بعضے بعضے تم تمن ہند حال
 آسہ بیان کور توہمہ پیٹھ مجمل پانٹھ یا تفصیل۔ بیہ چھہ تموا اندرہ بعضے یہند حال نہ آسہ بیان کور توہمہ نشہ مگر
 یہ کھہ چھہ سار نے اندر مشترک کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

هٰذَاكَ الْمُبْطِلُونَ ۝۱۰۰ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ
لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝۱۰۱ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ
لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ
تُحْمَلُونَ ۝۱۰۲ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۝۱۰۳
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَ

قُصِي بِالْحَقِّ وَخَيْرٌ هٰذَاكَ الْمُبْطِلُونَ کانہ رسول اوس نہ مقدور کہ سو کیا آئے ہا کا نہہ نفا علی مگر یہ کہ
اللہ تعالیٰ سندہ اجازت سے تادہ یلہ خدایہ سند حکم عذابس متعلق ولتہ ذنیاس اندریا آخرتس اندر تمہ
ساتہ سپدہ فیصلہ پڑہ سیت۔ تمہ وقتہ روزن اہل باطل آپزیر خسارس تہ تاوانس اندر اللہ الَّذِي جَعَلَ
لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللہ تعالیٰ ای گووسہ یم پادہ کمر تہمدہ خاطرہ چاروائے
بیتھ تمواندرہ بعضین پیٹھ تہہ سوار سپدہ تمواندرہ بعضین ہندماز کھیدو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوا
عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ بیہ چھہ تہمدہ خاطرہ تمن منز واریاہ فایدہ۔ بیہ بیتھ تہہ تمن پیٹھ کھسنتھ
سوار سپدہ تھ واتو تمن مظلمین یم تہمدین وکن منز آسن وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ بیہ چھوہ تہہ
اکھ تمن چاروائس پیٹھ بیہ ناون اندر تلنہ یوان تہ سیر کرہ نانہ یوان وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ
تُنْكِرُونَ اللہ تعالیٰ چھہ توبہ پنہ قدر تک نشانہ ہاوان۔ پنہ نس پروردگارہ سندس کتھ کتھ نشانس بیکو
تہہ انکار کمر تھ یم لوکھ یم دلائل قائم سپدہ تھ تہ چھہ توحیدہ نشہ انکار کران کیاہ تمن چھنا شرسکھ ووبالچی
خبر أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیاہ تم چھنا پھیر
مت ملکس اندر۔ پس وچھہ تمن تم کیاہ سپد مت چھہ انجام تمن ممکن ہند یم تمن برونٹھ آس شرسکھ سببہ
كَانُوا أَكْثَرًا مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَ أَثَارًا فِي الْأَرْضِ حالانکہ تم برونٹھم لوکھ آس تہمدہ خوتہ زیادہ
عددہ کن۔ بیہ آس تہمدہ خوتہ زیادہ قوتہ کن، بیہ تمن نشان اندر یم تموز مینس پیٹھ پتھ کن تراوی بجہ بجہ

اِنَّ اَرْضَ الْاَرْضِ فَمَا اَعْتَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾
 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
 وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا يَهِيمُونَ ﴿۸۳﴾ فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا
 قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدّٰهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا يَهِيمُوْنَ مُشْرِكِيْنَ ﴿۸۴﴾
 فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهِ
 الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۵﴾

عمارؓ و غیرہ۔ فَمَا اَعْتَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ پس دُیت نہ تمہن کا نہہ فایدہ تم مال و دولتیں یوسہ
 تم حاصل کران اَس۔ نہ آکھ سہ مال و دولت بکار عذابہ نیشہ پچہ کس اندر فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم
 بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا يَهِيمُونَ پس یلہ تمہن نیشہ وات نہند
 پیغمبرنہ دلیلہ ہتہ تم اَس تہنگان تہہ علم معاش پیٹہ بہہ مادی ترقیاتہ کس علمس پیٹہ بہہ یمن غلط اعتقادن
 پیٹہ۔ تم اَس پیغمبرن ہندین علوم ہداتین پیٹہ اَس تھتہ کران فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدّٰهُ
 وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا يَهِيمُوْنَ مُشْرِكِيْنَ پس یلہ تمووچھ سون عذاب۔ تموون اَسہ ان ایمان کُنس خدائس تہ
 اَس چھہ انکار کران تمہن سارئی اپزین معبودن ہم اَس خدائس آسچھہ شریک گنزران کیا زہ سہ اوس
 ایمان اضطراری۔ بندہ چھہ مکلف ایمان اختیار یک فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا تیلہ
 دیہ نہ تمہن ایمان انن کا نہہ فائدہ تیلہ تم سون عذاب وچھن سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهِ یہ
 چھہ اللہ تعالیٰ سُنَد دستورِ قدیم برو تھتہ زمانہ پیٹہ پنہ نین بدن اندر۔ یہ چھہ تم ہن معمول مقرر
 کورمت وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ یلہ نہ نہند ایمان نفع دوہون ثابت سہد، نقصانس منز رود تہہ
 وقتہ تم کافر تہہ مکربے باشی بنہ تمہن کافرن ہم تو بہہ انکار کران چھہ یار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 حَمِّ ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا
 عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ
 لَا يَسْمَعُونَ ④ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي
 آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُونَ
 قُلُوبَنَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ آتَمِّ آلِهِمْ إِلَهُ وَّاحِدٌ

حرف سیم زه حرف چھہ حروفِ مقطعات تو آندرہ۔ تہن ہند معنی زانہ پانہ اللہ تعالیٰ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یہ کلام چھہ نازل یوان کرنہ تس خدایہ سندہ طرفہ نئس رحمن ورحیم چھہ کِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یہ کلام چھہ کتابہہ ہمک آیات صاف صاف تہ ویژہہ ناوتہ آمت چھہہ یہ چھہ قرآن مجیدہ عربی زبوتہ اندر سمجھہ دار لوکن ہندہ خاطرہ۔ چھہ تہن آسانی سان فجرہ ترہ اگرچہ مخفف چھہ ساری لوکھ مگر نفع تہ فایدہ چھہ واتان سمجھہ دار لوکنے بَشِيرًا وَنَذِيرًا بشارت دہون چھہ یہ قرآن مجید مانن والین بیہ چھہ بیم گرہون نہ مانہ ونین۔ لازم اوس تہن صفتن کن نظر کتر تھہ کہ ساری گدہ اتھ مان تہ تسلیم کرن۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ مگر وار یہو لو کو کتر روگردانی۔ پس چھہ تم یہ قرآن مجید بوزان۔ یلہ تہہ تہن یہ قرآن مجید بوزہ ناوان چھوہ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعمل إِنَّا نَحْمِلُونَ تم چھہ دپان سان دل چھہ تھیلن تہ گو ژرین منز بند تمہ نشہ چھہ کن تہہ آسہ ناد چھوہ دووان۔ بیہ چھہ سائین کنن دوگہ تہ زر سمہ موکھ سائین کنن منز تہنز آوازے چھہ واتان۔ بیہ چھہ آسہ منز تہ توہہ منز ٹھور سمہ سببہ آسہ منزہ کاہہ اکھ آگس سیت ملیتھہ ہیکہ نہ۔ لہذا کتر و تہہ پن کام۔ آس تہ چھہ کران پن کام۔ یہ مہ تھاو تہہ توفی

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۗ قُلْ أَيْتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ إِندَادًا ۗ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۙ وَجَعَلَ فِيهَا رِيسًا مِّنْ قَبْلِهَا

کہ آس سید و تہنہ و تھوہ نہ نصیحتو سیت متاثر قُلْ إِنَّمَا آتَاكُم مِّنكُمْ يَوْمَئِذٍ مِنَ اللَّهِ ذِكْرًا وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ توبہ فرما دیو کہ یارسول اللہ اے لوگو میرے ہتھ نہ قدرت کہ بہ زبردستی کیا کرناودوہ بہ تہہ توحید قبول۔ کیا زہ بہ تہہ تھس تو ہی ہوا کہ انسانہ تہ بشرہ مگر اللہ تعالیٰ ان ہتھ میرے امتیازی شانہ عطا کورمت کہ میرے کن ہتھ و حی یو ان سوزنہ۔ سنی و حی لیس عقلمہ کن قابل قبول ہتھ۔ سہ و حی ہتھ ای کہ تہند معبود ہتھ کئے معبود۔ لیس روز تہہ متوجہ عبادتس اندر تہس کن۔ تہس و رای مہ کمر و کانہ ہنز عبادت۔ از تان کانہ ہنز عبادت تہس و رای کمر مژ ہتھوہ تہہ معنیوس مغفرت۔ یعنی توحید کمر و قبول شر کہ نہ کمر و توبہ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ سیٹھاہ بد خرابی ہتھ تمن مٹر کن ہندہ حقہ تم نہ مضمون ثبوت نبوت سیدہ وجوب اتباع بوڑتھ ہن روش تراؤن بیہ تم ہاچ زکوٰۃ ادا کر نہ۔ بیہ تم آخرتس ہتھہ بدستور انکار کر ان إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ تمن بر خلاف تم لو کہ رسالتہ کس حق آسٹس پڑھ ہتھہ کر ان بیہ تم لو کہ تممو ایمان اون بیہ کر لیکہ رتھ عملہ ہتھہہ خاطرہ ہتھہ آخرتس اندر سو موزور یوس نہ زانہہ ختم سیدہ موکلہ تہہ موقوف سپدہ قُلْ أَيْتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ إِندَادًا تہہہ فرما دیو کہ یارسول اللہ تمن لو کن اے لوگو کیا تہہہ ہتھوہ تہس خدایہ سدس تہہ کن آسٹس انکار کر ان یم یہ یوت زمین پادہ کور دون دوہن اندر۔ بیہ ہتھوہ تمسی خدائیس شریک ٹھہر اون ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ یوہے ہتھہ ساری عالمک تہہ جہانک رب۔ سنی ہتھہ معبود تہہ۔ وَجَعَلَ فِيهَا رِيسًا مِّنْ قَبْلِهَا وَبَرَكْنَا فِيهَا

وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
 لِلسَّائِلِينَ ⑩ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ
 لَهَا وَاللَّأَرْضِ انْتِيَاطُوعًا أَوْ كَرْمًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ⑪
 فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَنَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا
 وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِصَابِغٍ مَّحْفُوظًا ⑫ وَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ ⑬ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ بپہ کمر تھی اللہ تعالیٰ ان پادہ زمینس پیٹھ کو بہن
 ہندی لنگر۔ پیتھ تھاون اتھ زمینس منز فاندک چیز پیہ کوڑن اتھ پیٹھ روزن والین ہندہ خاطرہ رزقک
 تجویز۔ پیتھ زمینس الگ الگ قسمگ غذا۔ پیتھ قسمگ غلہ تہ میوہ کوڑن پادہ۔ پیہ سوڑے سپد ژورن
 دوہن اندر۔ سارنہ مگن والین ہندہ خاطرہ برابر ⑩ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا
 وَاللَّأَرْضِ انْتِيَاطُوعًا أَوْ كَرْمًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ تو پیتھ سپد اللہ تعالیٰ موجه آسمان پادہ کرہ نس گن۔
 سہ اوس دوہ ہاکھ زمین پادہ کرہ برونتھ۔ بس فر موون آسمانس تہ زمینس تہہ دو شوے ایوسانس کھمس
 گن۔ بس کھماہ اس فر ماوہ سہ ماہو۔ دون بھتھ توہہ اختیار خوشی سان مان تو یاز بردستی سیت مان تو۔ تمو
 دوہ شوے دوپ اس چھہ احکام مانہ خاطرہ دو شوے حاضر نہایت خوشی سان فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَنَاتٍ
 فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا چنانچہ بس بناون بھتھ بس آسمانس سٹھ آسمان دون دوہن اندر تو پیتھ
 کرن جاری پیتھ آسمانس منز تہہ کین ملائگن ہندہ خاطرہ ہم آسمانس منز بسہ ون تہ روزہ ون بھتھ پن
 پن حکم وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِصَابِغٍ مَّحْفُوظًا بپہ ڈیت اسہ زینت آسمان دنیاہس ستاروسیت بپہ کمر اسہ
 راجھ شیطان ہندہ گن دنہ نشہ ذلک تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بپہ بھتھ تجویز بردست واقف الکل خدایہ
 سڈ بس عبادتس لایق بھتھ۔ یوہ بھتھ کامل الصفت خدایہ کہ تم چیز ہم ناقص الذات تہ بھتھ تہ ناقص
 الصفت تہ بھتھ۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عاد و ثمود بس اگر پیہ دلیلہ بوز تھ

عَادٍ وَثَمُودَ ۱۳ اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَانزَلَ
مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِنَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ ۱۴ فَاَمَّا عَادُ فَاَسْتَكْبَرُوْا فِى
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مَنَاقِبَةً اَوْ لَمِيْرًا اِنَّ اللّٰهَ
الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۱۵
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ اَيَّامٍ مَّحْسٰتٍ لِّنُنذِرْهُمْ

تہ تم لو کہ توحیدہ نشہ پھیرن ادہ فرما یو کہ تمہ یار رسول اللہ اے لو کہ تمہو توبہ ہم کران توجہ
ترہ ہند یوسہ ترہ قوم عادس تہ قوم ثمودس پیٹھ شرک و کفر گرنہ سببہ واقع سہز اذ جاءتهم الرسل من
بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله يله يوان اس تمن نشہ پیٹھ پتہ بروٹھ بلکہ پرہتھ
طرفہ یے تھ و نان کہ ہالو کو عبادت مہ کمر و کانہ ہنز معبود برحقس وراے قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ
مَلَائِكَةً فَاِنَّا بِنَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ تمو کافر و دوپٹھ تہ جھوہ تہ تھ غلط و نان کہ اس سوز اللہ تعالیٰ ان۔
اگر سانس ہرورد گارس یہ منظور آسہا تیلہ سوزہ ہائے کانہہ ملکس توبہ پیٹھ کیا زہ و اتہ ہانوت۔ لہذا جھہ
اس تھ سارے سے یہ تہہ ہتھ سوزنہ آمت جھوہ انکار کران فَاَمَّا عَادُ فَاَسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مَنَاقِبَةً کس کس قوم عاد اوس تم لگ بکتر تہ غرور کرنہ ملکس منزنا حق۔
یہ دیکھ سانہ خوتہ کس جھہ زیادہ قوتہ کن۔ سہ گہہ حادثہ جھہ تھ نہ اس مدافعت مہ کو کمر تھ اَوْ لَمِيْرًا اِنَّ
اللّٰهَ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً کیاہ تمن آوانوزنہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پادہ کمری، سہ جھہ
سیٹھہ زیادہ تہہہ خوتہ قوتہ کن۔ کس بیٹھ تمن پیٹھ عذاب واقع کمر تھ و کانوا بايتنا يَجْحَدُوْنَ مگر
باوجود آن اون نہ تموا ایمان بلکہ رود تم سائین آیاتن انکار کران۔ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ اَيَّامٍ
مَّحْسٰتٍ لِّنُنذِرْهُمْ عَذَابَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کس تر وویلہ اسہ تمن پیٹھ تیز واوتھن دوہن
اندر تم دوہ بوجہ نزول عذاب الہی تہہہ حقتہ منحوس تہ پھیلل آس تھ اس تم تہہ ناو کہ خواری ہند

عَذَابِ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ آخِرِي وَهُمْ
 لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۷﴾ وَأَمَّا سُودُ فَهَدْيُهُمْ فَاسْتَجَبُوا الْعَيْ عَلَى الْهُدَى
 فَآخَذَتْهُمْ صِعْقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۸﴾ وَ
 نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۱۹﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ
 اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۲۰﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ
 عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾
 وَقَالُوا الْجُلُودُ هِيَ لَمْ شَهِدَتْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ

عذاب دنیا چہ زندگی اندر و لعذاب الآخرة آخری و ہم لا یبصرُونَ یہ ہتھ آخرتک عذاب زیادہ رسوا کرہ و ن
 تو پتہ بیہ نہ تمن ثمنہ وقتہ کنہ قسمہ مدد گر نہ و اما سُودُ فَهَدْيُهُمْ فَاسْتَجَبُوا الْعَيْ عَلَى الْهُدَى فَآخَذَتْهُمْ
 صِعْقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وون نُس قوم شمرداوس تمن ہوو اسہ پیغبرن ہندہ ذریعہ
 سیز و تھ۔ مگر تمو مگر اختیار گمراہی ہدائیس مقابلہ ہس رٹ تم خوار کرہ و نہ عذاچہ خرید۔ بُئیل آو تمن
 تھہ سیت آس کر کیہ سمہ کر یکہ سیت ہندے جگر پھٹ۔ تمن کاین ہندہ سببہ یمہ تم کران آس
 وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اسہ ڈیت نجات تمنہ عذابہ نشہ تمن لوکن سموا ایمان اولن بیہ اس
 تم شرکہ نشہ ہتھ روزان سانس عذائس کھوژان وَیَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
 تمن لوکن پاوونہہ رئیس سہ دوہ سمہ دوہ خدایہ سند دشمن ملن جمع گر نہ نارِ جہنمَس تراونہ خاطرہ تو پتہ
 ملن تم آکسی جلیہ ٹھہراونہ تہ پیارہ ناونہ ہتھ ساری سمن۔ سمجھین تراونہ جہنمَس اندر حَتَّىٰ إِذَا مَا
 جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تا ایچہ یمہ تم جہنمَس نکھ تل واتن
 گواہی دن تمن پیٹھ کن ہندہ آجھ ہنزہ یمہ مسلمہ جہنم تمن سار نے کاین ہنزہ سمہ کامہ تم کران آس دنیاعس
 اندر۔ وَقَالُوا الْجُلُودُ هِيَ لَمْ شَهِدَتْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ تَوْبَتہ و ن

الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ
 سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ
 لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي
 ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۲۳﴾ فَإِنْ
 يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ
 الْمُعْتَبِينَ ﴿۲۴﴾ وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيْنُوا لَهُمْ مَابِينَ

تم پنہ نس مُسَلَس تہ پنہ نین تان توبہ کیا زہ و ڈوہ گواہی اسہ خلاف۔ اسی تہندی خاطرہ و نیاء س منز
 سوڑے کینہہ کران اس زیوہ سیت اوُس بہ سارنہ گونہن انکار کران۔ توبہ کس مُصِیَّت اوہ توبہ
 ہڑوہ کتھ گرنہ۔ آخریمہ کتھ کرنہ کم پتھناؤ نوہ توبہ۔ تم دیکھ جواب اس کرہ ناؤ کتھ تم خدا ن س
 سارنہ کتھ گرہ و نین چیزن کتھ کرہ ناوان ہتھ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم کردہ
 توبہ پادہ گوڈیچ لٹہ۔ بیہ چھوہ دوبارہ زندہ کر تھ کس ن و اتاوانہ یوان وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ
 عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ توبہ اسو و نیاء س اندر غیر نشہ پوشیدہ روز تھ گوانہ
 کران۔ بیہ اسو نہ خیر کہ توبہ پیٹھ کیاہ دن گواہی کن تہند اچھ تہزہ تہ مسلہ تہند وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ
 لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ لیکن توبہ اوس گمان کہ اللہ تعالیٰ اس چھنہ خبرے وار سکن چیزن
 ہنز تموچیز و اندرہ تم توبہ کران اسوہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ اسی تہند خیال ن س توبہ پنہ نس پروردگار س متعلق اوس کیاہ کردہ توبہ تباہ تہ بر باد کس
 سپد وہ توبہ تادان زڈو اندرہ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ کس ہر گاہ تم صبر کرن توتہ چھ تہز
 جاے نار جنم وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ بیہ ہر گاہ تم کینہہ عذرو معذرت کرن،

أَيَدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّهِمْ
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا
 خَاسِرِينَ ﴿۲۵﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ
 وَالْغَوَافِیَهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا يُقَنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَكُنْزِيَّتَهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا
 دَارُ الْخُلْدِ ط جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۲۸﴾

معافی مگن زارہ پارہ گرن تمن بیہ نہ ہرگز معافی دنہ کنہ صور تہس اندرہ وَفِيضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنُوهُ لَهُمْ
 مَا لَبِثَ أَيَدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ بیہ اُس اُسہ دُنیا س اندر تمن سیت روزن وائل شیطان مقررہ کر
 مت تمواوس تہنزن پتہ بین برو تھمن غمکن زینت دہشت تمنی کا میں پیٹھ اُس تم ڈاڈکر تھ تھر س پیٹھ
 اصرارتہ ڈاڈکر نہ موکہ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ
 إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ہنس سید تمن پیٹھ خدلیہ سُد و عدہ عذاب پورہ تمن لوکن سیت سیم تمن برو تھ
 گذرے مت جھہ جوتہ انسانو اندرہ بے شک تم ساری آسن تاوان زدو اندرہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 لَأَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَافِیَهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ بیہ جھہ سیم کافر پانہ وان ونان سچھ قرآن
 مجید س مہ تھا ووگن سہ ساتہ پیغمبر قرآن ہر دن آسہ ہیوان تو ہیہ اُسو شور لاگان۔ شاید امہ طریقہ سپد
 تہہ غالب فَلَمَّا يُقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَكُنْزِيَّتَهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
 ہنس امہ نالائق حرکتہ موکہ ژہہ ناو کہ اُس سیم کافر سخت عذابگ مزہ بیہ دمو اُس تمن سزا تمن پیچھ
 کا میں ہند سہ تم کران اُس ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ یوہ جھہ سزا خدلیہ سندن دشمن ہند یعنی
 نار لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ط جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ تہہہ خاطرہ جھو اتھ نارس اندر

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ آذَلْنَا مِنَ الْجِنَّ
 وَالْإِنْسِ نَجَعَلُهُم تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۲۹﴾
 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
 الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
 تُوعَدُونَ ﴿۳۰﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۳۱﴾ نَزَّلْنَا مِنْ

ہمیشہ روزگ گھرہ سزاء آمدے کہ تم اس کران سائین آیتن انکار
 الَّذِينَ آذَلْنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجَعَلُهُم تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ یہ دن کافرے
 ساتھ پروردگار اُسے ہاویجھ تم زہ شخص سمو اس گمراہ کری جنویہ انساؤ اندرہ۔ اس تھاوہ ہو کہ تم پنہ نین
 لتن تل بیجھ تم ساری تل کن واتہ کن۔ یہ آسہ گمراہ کرہ ونین پیجھ تم نیہ سخت غصہ تہ ڈکھ۔ اِن
 الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
 كُنتُمْ تُوعَدُونَ بے شک تم لو کہ سمو دلہ سیت اقرار کور کہ سون حقیقی پروردگار جھ صرف اللہ تعالیٰ
 توپتہ کر کہ تجھ پیجھ استقامت تہ کوز کہ یہ اتھ اقرار اس شوہ تر و کہ نہ یہ خیال کنہ صورتس اندر تم
 پیجھ دن ملایکہ اکھ مریمہ وقتہ یہ قبرن منزبہ قبر و اندر میرینہ کہ وقتہ کنہ دیکھ تہ ہو یہ مہ کھوژ و آخرتہ
 کین ہولناک حالاتن۔ یہ مہ سبر و تمہ غم دنیاء کس تراؤس پیجھ کیا زہ توہہ بنہ تمہ خوتہ تہ رت چیز۔
 بشارت بوین توہہ تمہ جتج سمیک توہہ پیغمبرن ہندہ واسطہ وعدہ یوان اوس تھاوہ نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اس جھہ ہندرفیق دنیاءہ زندگی اندرتہ۔ یہ روز و اس ہندرفیق آخرتس
 اندرتہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ جھندہ خاطرہ جھہ جھہ جنس اندرتہ سوزی
 موجود بیجھ کن توہہ خواہش گدھ۔ یہ جھوہ توہہ گیت تہ سوزے یہ توہی مگو۔ ساری چیزین تھاوہ توہہ
 مہیا نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ یہ جھہ گوڈنج ضیافت جھندہ خاطرہ غفور و رحیم پروردگارہ سندہ طرفہ یہ

غَفُورٍ رَّحِيمٍ^{۳۲} وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ^{۳۳} وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ
لَا السَّيِّئَةُ يُدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ^{۳۴} وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّرُودُ وَحِطَّ عَظِيمٌ^{۳۵} وَإِنَّمَا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^{۳۶} وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ

نعمودین توہمہ عطا کرنے بکمال عزت و احترام تمہے کن معزز تر ہیں چھہ بروئہ کین اُنہ یوان وَمَنْ أَحْسَنُ
قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ کہہ اکھاہ چھہ زیادہ رُت کلامہ
کن تسدہ خو تہ یم لوکن نادویت معبود برحقس کن یہہ کرین پانہ تہ رتہ عملہ یہہ دوہن اظہار اطاعت
کران کہ بہ چھس فرمانبر دارو آندرہ یعنی بہ چھس خدایہ سز بندگی کرن فخر زانان مُکبرن ہند پاٹھ
چھس نہ عار زانان وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ يُدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یہہ چھہ نیکی تہ بدی برابر بلکہ
چھہ پریتھہ کنیک اثر الگ الگ۔ یلہ یہہ کتھ متحقق سہز وون کزو وٹوہہ مع اتباع بدی ہند مدافعہ تمہہ طریقہ نیس
بہتر آسہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تمیک نتیجہ نیرہ کہ سہ شخص نیس منز تہ
توہہ منز عداوت و دشمنی آسہ سہ نہ بیٹھ بیٹھ زن سہ دوست جانی آسہ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّرُودُ وَحِطَّ عَظِيمٌ یہہ کتھ چھہ تمنی لوکن نصیب سدان تم ثوابہ اعتبارہ سیٹھاہ خوش نصیب تہ
نیک بخت آسن وَإِنَّمَا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تہس و قس اندر
ہر گاہ توہہ شیطانہ سدہ طرفہ غضبک تہ خشک کانہہ و سوسہ پیدہ سپدن ہیہ تمہہ ساتہ آسور فور اپناہ متکان
اللہ تعالیٰ اس۔ بیشک سہ چھہ سورے بوزہ وون سورے زانہ وون وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ آيَاَهُ تَعْبُدُونَ ﴿۳۷﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ
عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۳۸﴾
وَمِن آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا

بہ چھ خدایہ سند یو قدرت کیو توحیدہ کیو نشانو آندرہ رات تہ دوہ بہ آفتاب تہ زون لا سجدوا
للسمس ولا القمر و السجدوا للذی خلقهن ان کنتم ایاہ ت عبدون اے لو کو تو بہ مہ دیو سجدہ نہ
آفتاب نہ زونہ بلکہ دیو سجدہ تہس معبود برحقس تم تم پادہ کر چھوہ تو بہ تہس یوت عبادت کر ان یعنی
مشرک تم خدایہ سندہ عبادتک دعوہ چھہ کر ان تم چھہ عبادتس اندر شرک انان۔ چھہ عبادتس اندر
شرک آسہ حقیقتس منزگیہ نہ سو خداوند کریمہ سنز عبادت۔ بلکہ تہندسہ دعوہ چھہ باطل۔ خدایہ سنز
عبادت چھوہ کر ان تیلہ کر یوس عبادت شرک تراوتھ تہ شرکہ وراکی فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ
عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ توپتہ ہر گاہ تم لوک غرور تہ تکبر کر ان تہس
عبادت کر نہ نشہ سو چھہ تہنز حماقت تہس کیاہ پروا چھہ تمیک۔ تم ملایک تم تہندس پروردگارہ سند
مقرب چھہ تم شان و عظمتس منز ساسہ گنہ زیادہ چھہ راتس تہ دوہ تہس تہنز پاکی بیان کر ان۔ توپتہ چھہ
تم نہ قسمہ گنہ وقتہ چھکان وَمِن آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ
الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتِ بہ چھہ تہندہ قدر تہ کیو توحیدہ کیو نشانو آندرہ اکھ نشانہ تہ چھہن وچھان
اے مخاطب یہ زمین ژ میومت تہ ہو کھفت۔ خشکی ہندہ وقتہ چھہ ہوا الج گردنمان تہ چھہکر او ان اتی یلہ اس
تراوان چھہ تھہ پیٹھ روواتی چھس تازگی پھیلاں بہ چھہ پھولان تہ سر سبز سپدان بے شک یم
پروردگارن یہ زمین مرتھہ بہ زندہ کورسئی پروردگارہ چھہ مردن زندہ کرہ ون۔ لَانَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ بے شک سہ چھہ پرتھہ چیزس پیٹھ قدرتہ وول یم پروردگارن یہ مردہ زمین زندہ کورسہ ہیچہ

اَمَّنْ يَلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَّاتِيْ اِمْنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمَلُوا مَا
 سَأَلْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۳۱﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا
 جَاءَهُمْ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿۳۲﴾ لَا يٰٓاَيُّهَا الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حٰكِمٍ حَمِيْدٍ ﴿۳۳﴾ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا
 قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ

نامردہ انسان ہندین بدن اندر روح و اتنا و تھہ، تمن دوبارہ زندہ کر تھہ۔ کیاہ سہ قادر مطلق ہیجہ
 نامؤمنین دلن زندہ کر تھہ پنہ نور توحیدہ سیت بے شک سہ ہیجہ سوڑی کینہ کر تھہ۔ سہ ہجھہ پر ہجھہ
 چیزس پیٹھ قدر نہ وول اِنَّ الَّذِيْنَ يُلٰجِدُوْنَ فِي الْاٰيٰتِنَا لَيُغْفَرُوْنَ عَلَيْنَا بے شک ہم لوکھ سانن آیاتن
 منز ہم آیات توحیدس پیٹھ دلالت کران چھہ تمنی منز چھہ ہول پکان یعنی تمن منز چھہ شک نہ شبہ
 یادہ کران۔ تم لوکھ چھہ نہ نشہ کھٹھہ۔ آسہ ہجھہ تھند سوڑی حال معلوم۔ تمن و موائس سزای نار اَمَّنْ
 يَلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَّاتِيْ اِمْنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ کیاہ سہ شخص ئیس نارس منز تروانہ پیہ چھا بہتر کین سوئیس
 قیامتک دوہو امن و المائس اندر ولتہ اَعْمَلُوا مَا سَأَلْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ یہ خوش کرہ وہتہ کمر و بے
 شک اللہ تعالیٰ ہجھہ نہ سوڑی وارہ و چھان یہ توبہ کران چھوہ سارنی عملن ہند دیوہ سہ سزای اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ بیشک سمولو کو انکار کور قرآن مجیدس یلہ سہ تمن نشہ دوت تم نہ
 و چھن تھند انجام کیاہ آسہ تمن ہجھہ نقص نہ کی پائس اندر۔ ہجھہ قرآن مجیدس اندر کانہہ کیاہ چھہ نہ۔ یہ
 قرآن مجید چھہ باعزت و با وقعت کتاباہ لَا يٰٓاَيُّهَا الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حٰكِمٍ
 حَمِيْدٍ اتھہ ہیجہ نہ آپز نہ غیر واقعی کھہ لکھ پچھہ نہ بروٹھ کن نہ نہ تھر کن یہ ہجھہ نازل آمت کرنہ حکمتہ
 وائس نہ حمد دینہ آتس خدا یہ سہہ طرفہ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ توبہ چھہ یوان
 ونہہ مگر تمہ کھہ ہم ونہہ آثرہ چھہ تمن پیئمبرن یم توبہ بروٹھ آس۔ یہ نوکھاہ کانہہ چھہ نہ۔ تمو پیئمبرو
 کور تمن کھن پیٹھ صبر۔ ٹہہ نہ کمر و صبر۔ ہمہ کھہ سیت نہ کمر و ٹوہہ تسلی حاصل کھہ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ

اَلَيْمٌ ﴿۲۱﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا مَّجْمُوعًا لَقَالُوا لَوْلَا فِصَلتُ الْاِيتَةُ
 ءَا عَجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَّ
 الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَقُرْوْهُ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰٓئِكَ
 يُنَادُوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿۲۲﴾ وَاَقْدًا تَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ
 فَاخْتَلَفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقَضٰى

کڈو عقاب الیم بے شک تہند پروردگار چھ مغفرتہ دول تہ سخت عذاب کرہ دن تہ ہس اگر ستم
 مخالفین مخالفت کرنہ نشہ بازیتھ مستحق مغفرت سدن نہ تلمہ بیہ تمن ضرور سزادنہ لہذا گمہ موکھ چھوہ
 توہہ پریشان روزان وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا مَّجْمُوعًا لَقَالُوا لَوْلَا فِصَلتُ الْاِيتَةُ بیہ ہر گاہ اس کرہ ہون یہ قرآن
 مجید عجمی زیوہ اندر توتہ وَنہ ہن لکھ امگ آیات کونہ آئے وارہ پاٹھ وشرہ ناونہ عربی زیوہ اندر۔
 ءَا عَجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ کیاہ کتاب چھ عجمی زیوہ اندر، پیغمبر تہ لوکھ چھہ
 عربی۔ یہ قرآن مجید چھہ عربی۔ دپان چھہ یہ کونہ عجمی۔ ہر گاہ عجمی آساہاد پہ ہن یہ کونہ چھہ عربی۔ کمنہ
 حاکس پیٹھ چھہ ستمن قرار لوکن ہنز ذہنیت چھہ یڑھے۔ توہہ فرماو لوکھ یار سول اللہ۔ یہ قرآن مجید چھہ
 با ایمان ہندہ خاطرہ رثہ کامہ کرنگ اکھ ہدایت بیہ دن ہنز ن بیمار من ہندہ خاطرہ شفا وَالَّذِيْنَ
 لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَقُرْوْهُ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى بیہ ستم لوکھ اتھ قرآن مجید س پڑھ چھہ نہ گران تہندین
 کمن چھہ وگہ۔ یہ قرآن مجید چھہ تہندہ خاطرہ آسرتہ تاہنای اُولٰٓئِكَ يُنَادُوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ستمن
 لوکن زن چھہ آلو یوان دنہ دورہ جلیہ پیٹھ لیس نہ تم بوزان چھہ وَاَقْدًا تَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ فَاخْتَلَفَ
 فِيْهِ تھتھق اسہ کر یہ عطا حضرت موسیٰ اس تہ کتاب۔ تھہ منز تہ آؤ اختلاف کرنہ کانسہ مأن تہ کانسہ
 مآنی نہ توہی مہ سپد و مغنوم یہ نوکتھہ چھہہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقَضٰى بَيْنَهُمْ ستم
 منکرین چھہ تیت متھق عذاب کہ ہر گاہ سوکتھ آسہانہ یوسہ تہندس پروردگار سہدہ طرفہ بروٹھ مقرر
 کرنہ آسٹھ چھہ کہ پورہ سزایہ کافر ن دنہ آسرتس اندر تہ بیہ ہا ستمن کافر ن منز قطع فاصلہ کرنہ دنیا س

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿۳۵﴾ مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا
 فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا وَمَا تَرْبُكَ بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۳۶﴾
 إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ
 الْأَشْجَارِ وَمَا تُحْمَلُ مِنْ أُثْقَالٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا وَعَلَيْهَا وَيَوْمَ
 يُنَادِيهِمْ ائِنَّ شُرَآءِئِي قَالُوا اذْذٰنِكَ مَا مِمَّا مِّنْ شٰهِيْدٍ ﴿۳۷﴾

منز وَلَا تَهْمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ تم کافر ہجھ باوجود دلائل، عذاب موعودہ کس شکس اندر ایم تم
 تر دس منز تر اومت ہجھ تمکن ہجھنہ عذابک یقینہ یوان حالانکہ فیصلہ ہجھ ضرور واقع سپدہ ون۔ تمہ
 فیصلک حاصل ہجھ ای کہ مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا وَمَا تَرْبُكَ بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ
 ئس شخصہ رث عمل گرہ تمیک فائدہ ہجھ ئس پائس یعنی تمیک نفع یت فائدہ تلہ سہ آخر ئس اندر۔ بیہ ئس
 شخصہ ہجھ عمل کرہ تمیک نقصان یت ضرر ہجھ ئس پائس تہند ہر در دگار ہجھنہ بندن پیٹہ ظلم گرہ ون إِلَيْهِ
 يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ سمہ بروئھ سمہ قیامتک ذکر آمت ہجھ کرنہ کہ تھ منزایہ تمکن جتلانہ تمہ
 قیامتہ علمک حوالہ ہجھ خدایہ سی دنہ یوان۔ یعنی سمہ سوالک جواب کہ قیامت کر بیہ۔ چنانچہ کافر آس
 یہ سوال کران انکارہ خاطرہ۔ امہ سوالک جواب ہجھ یوہے کہ امیک علم ہجھ خدایہ سی یوت۔ مخلوقن
 تمیک علم نہ آسنہ موکھ ہجھنہ لازم یوان کہ قیامت کیا آسی نہ۔ قیامتہ کہ وقوع علم کیاہ تھ ہجھ۔ ئس
 ذات پاک سندن علم ہجھ محیط پر تھ چیزس۔ حلی کہہ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ الْأَشْجَارِ وَمَا تُحْمَلُ
 مِنْ أُثْقَالٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا وَعَلَيْهَا کانہ پھل یت میوہ ہجھنہ پندہ نورہ یعنی غنچہ منزہ نبر نیران۔ نہ ہجھ کانہ
 مادہ گو بہ گھورہ روزان یعنی باردار سپدان نہ ہجھ کانہ مادہ پر بیان مگر یہ سورے ہجھ تہیدہ علم واطلاع
 موجب سپدان یہ ہجھ تہندس توحیدس یت کن آسسن پیٹہ دلیلِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ائِنَّ شُرَآءِئِي قَالُوا
 اذْذٰنِكَ مَا مِمَّا مِّنْ شٰهِيْدٍ سمہ دوہہ اللہ تعالیٰ مُشْرَکِن آلود تھ فرماوہ تمکن توہہ میان شریک قرار
 ودان اُسوہ ازنتہ چھوہ تم شریک۔ تین دیو آلو۔ تم موکلاوہ نوہ مُصِیْبَہ نَشِیْہ۔ تم دین ازہجھ اسی گذارش

وَضَلَّ عَنْهُمْ تَاكَاثُورًا يُدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنَ
 مَحْيِصٍ ﴿۳۸﴾ لَأَيْسَرُ الْإِنْسَانَ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ السُّرُّ
 فَيُؤَسِّ قَنُوطٌ ﴿۳۹﴾ وَلَئِنْ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ
 مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ
 رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۴۰﴾ وَإِذَا


کران کہ آسہ منز چھنہ کا نہہ تہ آسہ عقیدہ ک مدعی۔ آس چھہ اڑ پینہ غلطی ہند اعتراف کران۔ از تہ آسہ
 سورے و ضلَّ عَنْهُمْ تَاكَاثُورًا يُدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنَ مَحْيِصٍ بیہ سپدن غایب تمین نشہہ
 تم ساری تمین پرستش کران آس دنیاء س اندر تمہہ بروٹھہ بیہ زانن تم یقینہ پاٹھ تہندہ خاطرہ چھنہ
 کا نہہ موکلج تہ پنچج صورتھہ۔ آسہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان لَأَيْسَرُ الْإِنْسَانَ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ کہ
 شرک و کفرک اثر چھہ انسانی طبیعتس پیٹھہ بیوان کہ بس شخص توحید و ایمانہ نشہہ بے بہرہ چھہ آسان،
 تسند اخلاق، اعمال تہ عقاید چھہ تھئی خراب آسان کہ آرام و سختی ہندس حالتس منز چھنہ تس انسانس
 ترقی ہنزہ خواہشہ نشہہ یڈیوان کمال حرصہ موکلہ وَاِنْ مَسَّهُ السُّرُّ فَيُؤَسِّ قَنُوطٌ یلہ تمس کا نہہ تکلیفہ
 چھہ واتان تنگی و غیرہ ہش آتی چھہ بد دل تہ نا امید سپدان وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ مَسَّتْهُ
 لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ بیہ یلہ آس تس کئہ سختی پتہ پنہہ مہربانی ہندہ مزہ چھہ ہاوان تمہہ ساتہ چھہ ونان بیہ اوس
 میانی خاطرہ کیا زہ میون تدبر، لیاقت تہ قابلیت اوس آتھہ منگان۔ بیہ گیہ غایت درنج تا شکر می تہ حکمر
 وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ بیہ چھہ دپان میہ کتہ چھہ گمانہ کہ قیامت کیا سپدہ وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ
 رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ہر گاہ بفرض محال بیہ تہ قیامت تو پتہ سمہہ بیہ پنہ نس خدا بس نش و اتاوندہ
 تہ بیشک میانبہ خاطرہ آسہ تس نش ضرور رتے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ
 عَذَابٍ غَلِيظٍ بس خبر گرو آس ضرور کافر پنہ نین کر تو تن کا میں ہنز۔ بیہ ژہنا وکلہ آس تم سخت

انْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَابَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
 فَذُودِعَاءٌ عَرِيضٌ ۝۵۱ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
 تَمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۝۵۲
 سَرُّهُمْ ائْتِنَانِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

عذابك مزه وَإِذَا انْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَابَ بِجَانِبِهِ بيه يله اس شخص انسان نعمت عطا
 کران چھہ تمہہ ساتہ چھہ سانو حکمونہ پھہ پھر ان دور ژلان تھر پھر تھہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودِعَاءٌ
 عَرِيضٌ توپتہ یلہ تہس کا نہہ سٹیاہ واتان چھہ تمہہ ساتہ چھہ کران زہٹھہ زہٹھہ دعاء قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ توہہ فرماو یوکھ یار رسول اللہ کہ
 اے منکر و قرآن مجیدہ کس حق تہ پوز آسنس پیٹھہ سمہہ دلیلہ قائم چھہ مثلاً تمیک معجز آسن، تچہ غابہ چہ
 خبرہ دنہ۔ ہر گاہ توہہ تمہہ دلیلہ عدم تدبرہ سببہ مورث یقین زانان چھوہ نہ تہ کم از کم مورث احتمال تہ
 چھو کہ ضرور زانان کیا زہ تمہہ کس نفیس پیٹھہ چھہ توہہ نش کہنہ دلیل۔ لہذا تھہ احتمال پیٹھہ بنا کر تھہ
 ونو توہہ کہ ہر گاہ یہ قرآن خدایہ سے نشیہ آمت آسہ توپتہ کرو توہہ تھہ انکار، تھس شخصہ سندہ خوتہ
 کبھہ اکھاہ آسہ غلطی منزئیس پڑہ نشیہ دور و دراز مخالفتس منز پیومت آسہ سَرُّهُمْ ائْتِنَانِي الْأَفَاقِ وَفِي
 أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهَتْقُ عنقریب ہاؤو اس تمن پنہہ قدر تک نشانہ سم دلالت اس کران
 قرآن مجیدہ کس پوز آسنس پیٹھہ۔ تمن گرد و نواح تہ ہاؤو اس تم نشانہ کہ اقطار عرب سپدن سائین پیشین
 گوئین مطابق فتح۔ بیه ہاؤو خود تھندین پانن اندر تہ نشانہ کہ تم یں مارنہ تہ قتل کرنہ جنگ بدر س منز۔
 تھند شہر خود مکہ شریف تہ سپدہ فتح سہ بیه مسلمان ہندس اتھس اندر۔ تا یچہ تمن نہہ کہ یہ قرآن مجید
 چھہ بالکل پڑ اچہ پیشین گوئیہ چھہ پڑہ اَوْلَمْ يَكْفُ بِرَبِّكَ اَنْهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ کیاہ تھندس
 پروردگارہ سزنیہ کتھہ چھہا کافی تھندس پڑس پیٹھہ آسچہ گوئی خاطرہ بیه تھندہ تسلی خاطرہ کہ سہ چھہ

اِنَّهُ الْحَقُّ اَوْلَمَ يَكْفِ بِرَبِّكَ اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۳﴾
 اِنَّهُمْ فِي مَرِيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿۵۴﴾

پریتھ واقعی چیزس پیٹھ گواہ اَلَا اِنَّهُمْ فِي مَرِيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ وارہ بوزو کہ
 تم لو کہ چھ پنہ نس ہر دگار سیت ملاقات کرہ نس اندر شمس منز بتلا تمی چھکھنہ دلن منز کاہنہ
 خوف یمہ سببہ تم ہز کی طلب گار آسٹھن بیہ بوزوارہ کہ سہ چھہ پریتھ چیزس پنہ علمہ سیت احاطہ
 کرتھ۔ سہ چھہ تہندس شک و شبہس تہ زانان۔ تھ پیٹھ دیہ سہ تہن پورہ سزاء۔



سُورَةُ الشُّورَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 حَمْدٌ ۝ عَسَقٌ ۝ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۝
 اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَهُوَ
 الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ
 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۝ الْآرَاءُ
 اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ

حَمْدٌ * عَسَقٌ * تم چھہ حروفِ مقطعات * تم ہند معنی زانہ پانہ خدا کَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * پتھہ پاٹھہ یہ سورہ شریفہ بڈین فاندن تہ اصول دینن ہندہ تحقیقہ خاطرہ توہہ پتھہ نازل کرنہ آو، پتھہ پاٹھہ کور اللہ تعالیٰ آن نُس سیتھہ غالب چھہ، سیتھہ جمتہ وول چھہ دینی اصولن ہندہ تحقیقہ خاطرہ توہہ پتھہ یہ تم تینہ برن پتھہ تم توہہ بروٹھہ اَس وَحی نازل نُس خدایہ سُنڈ شان چھہ کہ لَہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * تہندوی چھہ تہ سورے یہ آسمان تہ زمین اندر چھہ۔ سَی چھہ ساروے خوتہ بوڈ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ الْآرَاءُ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * تمندس عظمت و شانس اگرچہ بعضے اہل زمین مَہ زان تن، متہ مان تَن مگر آسمان اندر چھہ تمند شان زانن وال۔ یعنی ملائکہ تیت بکثرت کہ کینہہ دور چھہ کہ تم آسمان کیاہ پھشن پنہ ہیر مہ طرفہ ملائکن ہندہ گو برہ سیت چنانچہ حدیث شریفس منز چھہ اُمّت اُطت السماء وحق لها أن تظ ما فيها موضع أربعة أصابع الا وملك واضع جبهته ساجد الله (رواہ الترمذی و ابن ماجہ) فرمونہی کر تممن صلی اللہ علیہ وسلم آسمانس چھہ کر کر گوشان،

حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝۶ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ
الْجَمْعِ لَأَرْيَبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝۷ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ

تھ پڑہ کر کرگوہن کیا زہ تھ منز چھنہ اگس چس برابر تہ جای خالی یتہ نس نہ اکھ اکھ ملک بن ککھ
تراوتھ اللہ تعالیٰ اُس سجدہ دو ان چھ۔ تم ملایک چھہ تسبیح تہ حمد پنس پروردگارہ سند ہر ان بیہ چھہ زمینہ
کین لوکن ہندہ خاطرہ مغفرت منگان۔ وارہ بوزوسہ پروردگار چھہ سینہا مغفرت کرہ ون سینہا رحم
گرہ ون وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ بیہ سمولو کو ٹھہر اوی
مت چھہ تس ور ائے دوست تہ مددگار اللہ تعالیٰ چھہ تہنزہ سارے کامہ ژر ژان۔ سہ دیہ پائے وقس
پیٹھ تم سزاء۔ توہ نہ حض چھوہ نہ یار رسول اللہ تم لوکن پیٹھ کانہہ اختیارا کہ سمہ ساتھ خوش کرہ ہا
تمہ ساتھ کرہ ناوی ہو تم پیٹھ عذاب نازل۔ امیک اختیار چھہ خدایہ سے تہ توہ مہ سپد و غمگین
تہندس ایمان نہ انہ نس پیٹھ، کیا زہ تہنز کام چھہ صرف تبلیغ کرن تہ حکم و اتنا ون۔ چنانچہ وَكَذَلِكَ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَأَرْيَبَ فِيهِ اس سوز تھہ پاٹھ
توہ کن قرآن مجید چھہ پاٹھ توہہ وچھان چھوہ عربی زیوہ اندر۔ تھہ توہہ۔ بیم کرو سارے بروٹھ مکہ
کین لوکن بیہ تم لوکن سم تھہ انداند بسان چھہ تہ روزان چھہ بیم تہ کرہ یو کھ سمکھہ ڈبک یعنی قیامتہ
کہ ڈبک سمہ دوہہ ساری اولین و آخرین جمع کرنہ ین تھہ منز نہ شکھہ چھہ سمہ دوہہ یہ فاصلہ کرنہ بیہ
کہ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ سمہ دوہہ گرہن لوکن زہ حصہ اکھ حصہ جنس منز۔ بیا کھ حصہ
چہنٹس منز۔ تہنز کام چھہ محض امہ دوہہ نچہ لو کھ کھوڑہ نا ون۔ باقی لوکن ہندہ ایمان انہ نک یانہ انہ
نک، اتھ سیت کیاہ چھہ توہہ یہ سورے چھہ خدایہ سندس یڑھنس تان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ ہر گاہ خدائس منظور

فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۸ أَمْ اتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۹ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ
 إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝۱۰
 فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ

آسہائے کرہ ہاتھن سارنے لوکن ہندہ خاطرہ آکے و تھہ یعنی سارنے کرہ ہا ایمان نصیب۔ مگر وار بہن
 حتمن کن نظر کرتھ سپند نہ تس یہ منظور لیکن سہ نئس یڑھان چھہ تس چھہ ایمانس کن و تھہ ہاوتھہ و اتناوان
 پنہ نس رتھس منز سمن یڑھان چھہ تھن چھہ کفر و سرکش منز مبتلا کرتھ پنہ رحمتہ نشہ نیر کڈان تہ
 دور کران۔ چنانچہ تھن ظالمین آسہ نہ قیامتگ دودہ نہ کانہہ دوستا تہ نہ کانہہ مدگارہ اَم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
 أَوْلِيَاءَ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیاہ تمہو لوکو چھار و ثمت معبود
 برتھس و رآے بدل دوست تہ مدگار پس اگر کانہہ کار ساز تہ دوست بناون چھہ سہ چھہ اللہ تعالیٰ ای
 یوت بہ نہ کانہہ۔ سئ چھہ مردن زندہ کرہ و ن بہ چھہ سئ پر تھہ چیزس پیٹھ قدر تہ و ول وَمَا اخْتَلَفْتُمْ
 فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ توبہ فرماؤ تھن لوکن تھم توبہ سیت توحیدس اندر اختلاف کران چھہ
 کہ بہ تھہ تھہ چیزس اندر تھہ پزیرین سیت اختلاف چھوہ کران۔ توحیدس وغیرہ چیزن اندر، تمیک
 فیصلہ چھہ تس سپرد۔ دنیا س اندر صحیح دلیلو سیت آخرتس اندر فریق فی الجنة و فریق فی السعیر
 سیت ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ یہ اللہ تعالیٰ سمسد شان یہ چھہ، چھہ میون رب۔
 تس پیٹھ چھس بہ توکل کران تس کن۔ چھس بہ سارنے دینہ چمن تہ دنیا چن کا مین اندر رجوع کران۔
 فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا سئ چھہ آسمان تہ
 زمین ہند پادہ کرہ و ن تھی کرتھندہ خاطرہ تو ہی منز تھند جورہ تھہ پاتھہ کرن چاروا ن اندر تہ پادہ جورہ

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۳ شَرَعَ لَكُم
مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ
لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۝۱۴ وَمَا

جورہ بڈرؤکم فیہ لیس کتبہ شئیؕ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سُبْحٰنہ توہمہ آتھ ز مینس منزہ تھکر او ان؁
تھند نسل بڑاوان تہس ہیو چھنہ کانہہ۔ سُبْحٰنہ سورے یوزہ ون؁ سورے وچھ ون کہ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ تہس آتھ چھ آسمان تہ زمین ہندین خزانن ہنزہ کوزہ۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
سُبْحٰنہ رزق زیادہ کران تہس یشھان چھہ؁ بیہ چھہ سُبْحٰنہ رزق کم کران تہس یشھان چھہ۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ بے شک سُبْحٰنہ پر تھہ چیزہ پوززانہ ون شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اللہ تعالیٰ
ان کور توہمہ لوکن ہندہ خاطرہ سُبْحٰنہ دین مقرر تھیک حکم فرموان نوح علیہ السلام بیہ تہس آسہ
توہمہ کن وحی مگر بیہ تھج وصیت اسہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کر بیہ موسیٰ علیہ السلام
بیہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تھنزن امتن تہ فرموانہ اتھ دینس پیٹھ روزو قائم اتھ منزہہ کرو تفرقہ۔
مراد چھ امہ اندرہ اصول دین یم سارنہ اندر مشترک چھہ مثلاً توحید؁ رسالت تہ معاد۔ پس
اوس لازم لوکن تھہ اتھہ کرہ ہن قبول مگر افسوس كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ سیٹھہ دشوار
چھہ گذران مشرکن پیٹھہ سوٹھہ تھہ کن توہمہ تمن ناد چھوہ دوان یعنی توحید اتھہ سیت چھہ یہ تھہ تہ کہ
اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھہ درہ دوان پانس کن نہہ خاطرہ تمن بین یشھان چھہ۔ یعنی
دین حق قبول کر تک توفیق چھہ دوان وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ بیہ چھہ تھہ ہاوان پانس کن تمن
سہم تہس کن پھیران تہ رجوع کران چھہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا لِّبَنِيهِمْ سون

تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا
 كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَ
 إِنَّ الَّذِينَ أُوْرثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿۱۷﴾
 فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
 وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ
 بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا

حکم پس بروٹھمن امتن اوس کہ آقِیْمُوا الدِّیْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیْهِ واریاہ لو کہ رود نہ اتھ خمس پیٹھ قائم تم
 سپدے اکھ اگس نشیہ جدا لیکن امیک سبب اوس نہ کئیہ قسمک اشتباہ تہ شک کیا اوس تمن بلکہ سپد تمن نشیہ
 علم صحیح واتنہ پتہ محض اکھ کہ سندہ ضدہ تہ عداوتہ وَلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
 لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ہر گاہ تے تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ اکھ حکم (یعنی تمن مملت دن اگس معین
 وقس تان بروٹھ جاری سپد مت آسہا۔ نتہ بیہ ہا تمن منز دنیا سی منز فاصلہ کرنہ۔ یعنی تم بہن تنھس
 عذائس گرفتار کرنہ سمہ سیت تم ملہ موجب گانہ بہن وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ
 مِنْهُ مُرِيبٍ بے شک تمہ لو کہ تمن کتاب آیہ دنہ بروٹھمن امتن پتہ (امہ اندرہ چھہ مشرکین
 عرب۔ تمن آئے یہ کتاب یعنی قرآن مجید بواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنہ) تم چھہ
 ضرور تمہہ کتابہ ہندس حقس اندر بدس شکس اندر تراونہ آمت پس تمن تردس منز تراوان چھہ
 فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ لہذا مہ سپد تو بہہ دل شیکستہ کانہہ ہندہ انکار
 کرنہ سیت بلکہ دیو تو بہہ ناد تمن اتھ قرآن مجیدس نُن برابر۔ بیہ کرو تو بہہ پانہ تہ استقامت تنھہ پیٹھ تنھہ
 پاٹھ تو بہہ حکم آو کرنہ تہنزن خواہشن ہنزمہ کرو پیروی۔ تم چھہ یڑھان مخالفت کرنہ سیت ایو تو بہہ عاجز
 تو پتہ تراوو تو بہہ تمن تبلیغ کرن۔ مگر تنھہ نہ کرو بہرگز وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ بیہ فرما یو کہ تو بہہ بو تنھہ تنھہ

حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۵﴾
 وَالَّذِينَ يُجَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ
 دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۱۶﴾
 اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ

کُن توہمہ ناد چھس دو ان بو چھس پانہ تھہ عمل کران۔ چنانچہ میہ کر پڑھ تمہن سار نے کتابن میہ اللہ تعالیٰ اَن نازل چھہ کرہ موہ۔ بیہ آومیہ حکم کرنہ کہ توہمہ منز گرہ چھندین اختلافان عدل وانصافہ موجب فیصلہ یعنی کس چیزہ توہمہ پیٹھہ واجب مقرر کرہ سہ چیز زانہ پانس پیٹھہ تہ واجب۔ یہ تھہ چھہ کہ توہمہ تراوہہ لکھیس اندر تہ پانہ روزہ آزاد۔ سمہ تھہ آسہ سلیم الطبعن ہندہ خاطرہ رغبت تہ شوق دوہ و تہ ہر گاہ تمہن سمو کھو سیت تہ کینہہ بنہ نہ تیلہہ و نیو کہ آخری تھہ کہ معبود بر حق چھہ سون مالک تہ تہ تہند مالک تہ سہ چھہ سار نے ہند حاکم سانہ عملہ چھہ پانس، چھنڑہ عملہ چھہ توہمہ پانس لِحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ آسہ منز تہ توہمہ منز چھہ کانہہ بخشے۔ اللہ تعالیٰ کس آسہ سار نے ہند مالک چھہ سہ سو مبر اوہ آسہ سار نے قیامتگ دوہ۔ آتھہ منز چھہ کانہہ شھہ کہ کس کُن چھہ آسہ سار نے واٹن۔ سہ کرہ سار نے ہند فاصلہ عملہ موجب۔ ون کینس توہمہ سیت بحث کرن چھہ فضول مگر تبلیغ روز و آس توہمہ کران وَالَّذِينَ يُجَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بیہ ہم لو کہ بحث چھہ لاگان خدایہ سندس دینس اندر مسلمان سیت سمہ تھہ پتہ کہ سہ دین آو تسلیم کرنہ کیاہہ واریاہ عاقل و داناسپی دی مسلمان سمو کور اقرار دین اسلامہ حق آسگ۔ وونی ہم آسہ پتہ تہ بحث لاگان تہنڑہ دلیل چھہ تہندس پروردگار س نسیہ بالکل باطل۔ تمہن پیٹھہ چھہ خدایہ ہند غضب واقع سپدہ ون۔ تہندی خاطرہ چھہ قیامتگ دوہ سخت عذاب سپدہ ون۔ تمہہ عذابہ نسیہ چھنک ذریعہ چھہ اللہ تعالیٰ اس پڑھ کرن۔ تہند دین پوز زان گو و قرآن مجید چھہ منز حقوق اللہ تہ حقوق العباد ویرتھہ ناوتھہ بیان کرنہ آمت چھہ واجب العمل زان کیاہہ اللہ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ معبود بر حق گووسی ہم پڑ پانھی کتاب نازل کر۔ خصوصاً

لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝۱۷ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ
 الْآيَاتُ الَّذِينَ يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝۱۸
 اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝۱۹

نہیں حکم تھے منز انصاف کے لیے تھے۔ سب سے عدل و انصاف کرنے والوں کے لیے۔ وَمَا يُذَرِّبُكَ لَعَلَّ
 السَّاعَةَ قَرِيبٌ ہم لوگ کہ ہم قیامت و اوقات بوز تھے تو ہمہ نشین تھے۔ وہی تعین یزہان جہہ تو ہمہ کیا
 جہہ تھی۔ مگر خیر نہ آسنہ سیت یا خبر نہ کرنے سیت۔ جہہ لازم یوان سو کیا ہا آسی نہ بلکہ جہہ تمک و قوع
 دلہو سیت ثابت تعین و قس متعلق جہہ ایشہن کافی کہ عجب جہہ سو قیامت ما آسنہ نزدیکہ یَسْتَعْجِلُ
 بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ہم لوگ نہ بوز تھے جہہ ہم جہہ باوجود ہمہ یقینی نہ نزدیکہ آسنہ کھوڑانی
 بلکہ جہہ بطور استہزاء و انکار ہمہ و قوع تقاضا کران وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ
 ہم لوگو ایمان اون ہم جہہ کھوڑان تھے۔ ہمہ اعتقاد تھاوان کہ قیامت دودہ ہمہ حق نہ پوز الْآيَاتُ الَّذِينَ
 يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وارہ بوزو کہ بے شک ہم لوگ قیامت مکر آسنہ ہر نہ قصیہ
 جہہ لاگان ہمہ کس یس منز یقیناً ہمہ ہم زبچہ نہ دور دراز گراہی اندر بتلا اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ
 مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ہم مکر ہم دنیا جن نازو نعمن پیٹھ و یٹھان جہہ تمنے منز بوڈ تھ جہہ آخر نہ
 نشہ غافل نہ بے خبر سپدے مت۔ امہ پتہ نازو نعمن اندر آسنہ سیت جہہ ہم استدلال کران کہ سون
 مسلک جہہ پسندیدہ اگر تہ آسہانہ تھہ سانس مسلکس پیٹھ آسنہ باخدا بیزار۔ تیلہ کیا زہ تھاوہ ہا آسنہ عیش و
 آراس اندر۔ یہ جہہ تہمز حماقت کیا زہ یہ جہہ رضا مندی ہنزہ دلیل بلکہ جہہ امیک وجہ ای زہ اَللَّهُ
 لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ اللہ تعالیٰ جہہ دنیا س منز سیٹھاہ مہربان پنہ نین بدن پیٹھ۔ عام طور امی رحمت عامہ
 سیت جہہ سہ سار نے روزی عطا کران۔ اگرچہ مصلحتہ موجب جہہ تھہ منز کمی زیادتی نہ سپدان یَرْزُقُ
 مَنْ يَشَاءُ کس یوت یزہان جہہ تھہ تھہ تیوت دوان۔ مگر نفس رزق جہہ سار نے منز مشترک۔ امہ
 لطف فی الدنیا اندرہ جہہ لازم یوان کہ تہند مسلک کیاہ جہہ خدا نہیں پسند۔ تمن کیا یہیہ آخر تس اندرہ نہ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ
 كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ نَصِيبٍ ۲۰ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
 مَالٌ يَآذِنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۲۱ تَرَى الظَّالِمِينَ

لطف و مہربانی عطا کرنے بلکہ آسن تم آخرتس اندر بوجہ ایسچہ تم اس باطلس پیٹھ کڈرس عذابس گرفتار
 دنیاس اندر۔ تم عذابس گرفتار کرن چھنے کینہہ مشکل کتھاہ کیا زہ و فَوَالْقَوٰی الْعٰزِمُوْا سہ چھہ سیٹھاہ
 قوتہ وول، سیٹھاہ زبردست تمکن سارنے خرائٹن ہندوجہ چھہ دنیاء سیت گڑھن۔ لوکن پزہ نہ
 دنیاءہ سیت مغرور گڑھن بلکہ پزہ ہاتمن آخرت ژھانڈن تمکن پزہ وارہ بوزن کہ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
 الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ
 ئس شخصہہ پڑھان آہہ آخرتک زراعت گرن یعنی آخرتک ٹوا بگ طالب آہہ آخرتہ خاطرہ کرہ رتہ عملہ
 بامید ثواب اس دموترتی ئس تہمدیس تھہ زراعتس اندر یعنی رٹن عملن پیٹھہ دموا س ئس رت ثواب۔
 بلکہ گرو اسی تھہ ثوابس اندر تس زیادتی۔ اگس عملہ کروس ادنی درجہ ذہہ گنہ ثواب عطا۔ یہ ئس اکھاہ
 پڑھان آہہ دنیاءک زراعت ئس دموا س یہ اگر اس پڑھو کینہہ تمہہ دنیا، آندہ مگر آخرتس اندر آہہ نہ
 تس کیت کا نہہ حصہ۔ کیا زہ سہ چھہ مشروط ایمانس سیت حاصل چھہ ئس اکھاہ عمل کرہ دنیائی مطلب
 حاصل کرنے خاطرہ تس یہہ دنیاء عطا کرنے مگر تنوی یوت اس پڑھو تو پتہ چھہ سہ آخرتکہ ثوابہ نشہ محروم۔
 دین حق کور اللہ تعالیٰ ان مشروع و مقتر مگر تم لو کہ اگر سہ دین چھہ مانان اَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا
 لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَالٌ يَآذِنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ
 اَلِيمٌ کیاہ تمو چھا خدا ئس شریک ٹھہراوی مت سمو شریکو تہندہ خاطرہ کا نہہ دیناہ مقررہ کورمت
 چھہ۔ تمیک اجازت اللہ تعالیٰ ان تمکن دیتمت چھہ۔ ہر گاہ خدا یہ سندہ طرفہ اکھ قول فیصل مقرر

مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا
 يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۲۲﴾
 ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ

آسپانه كرنه آمت سه گواي زه اصل عذاب سپده تمن پيڻه مر نه پته نته بيه ها دنيا سے اندر تهند عملي فيصله كرنه۔ بيٽڪ يمن ظالمين هنده خاطر هه آخريس اندر دودنكده ون عذاب تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ تمه دوهه وچھوڪه توهه تم نا فرمان نه ظالم سيٽهاه كهوثران تمو كمايوسبه يه تمو كره مره آسن بيله تم تمن كا مين هند عذاب وهنن بس عذاب تمن پيڻه يقيناً سپده ون هه وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ بيه سمو لو كوايمان اون ته رڙه عمله كر كيه تم آسن جنته كين باغن اندر داخل تهند ه خاطر هه تهندس پروردگارس نشيه ته سورسه يه تم يڙهن ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ يوهه گوود خليه سند بوڏ فضل، بوڏ انعام۔ اته مقابله هه نه دنيا، ك عيش وعشرت كهي ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يه پيڻه خوشخبري يوسه فرماوان هه الله تعالى پنه نين بدن سمو ايمان اون ته رڙه عمله كر كيه چوهه كا فراس مضمون پور بيان كرنه بروڻه زيوه پيڻه ڙانگ ڙاوت هه، چونج كرت هه تڪديه چه ڪهه كر ان تمي آو ٿيس بشارتڪ مضمون پور بيان كرنه بروڻه جمله معترض منزه تڪذيب كرن۔ وكنه خاطر هه سه مضمون بيان كرنه سمه سبت تهدي دل ويگه بن۔ نبى كريم صلى الله عليه وسلمس آو ڪم كرنه قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ توهه فرماو و تمن اے لو کو بوچھنه توهه نشيه كا نهه مطلبهاه ڙهانڻان توهه سبت يه ڪهه بات كر نس اندر رشته ڌاري ههده محبت وراے يعنن سته هه سبت به توهه نشيه ڙهانڻهان كهه ميان ته تهند تعلقات رشته ڌاري سم هه سم ساري قريش سبت وابسته ههه بلڪه تمام عربه كين لوڪن

حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۱﴾ أَمْ يَقُولُونَ
 افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ
 اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۲﴾
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

سیت پیوستہ چھہ تم دور چھہ یا نزدیک تم تعلقان ہندین حقون ہند تھاوی تو تھی خیال۔ تم تعلقان
 چھہ مقصی تھہ تھہ کہ تمہ بیو میانس مخالفس اندر جلدی کرن۔ بوزنہ بروٹھے شور لاگن بلجہ چھہ تم
 تعلقان منگان کہ نہایت اطمینانہ سان، سودلہ بوزو توہہ گوڈہ بہ کیاہ چھس توہہ ونان توپتہ تویون
 سومیان تھہ عقلہ ہنزہ تکرہ اندر توپتہ پر کھاویون وارہ سوکھہ غور و تاملہ سیت ہر گاہ تھہ اندر کانہہ شہاہ
 تہ اشکالاہ گزہ ہوہ سہ کر و صاف۔ ہر گاہ سومیان تھہ غلط آسہ تہہ تار و میہ وارہ فکرہ بوہر گاہ ڈلھہ آسہ توہہ
 آید میہ سیزہ و تہہ پیٹھہ غرض یوسہ تھہ آسہ سواکن خیر خواہی پیٹھہ، یہ چھہ دستور کہ میہ دیونہ توہہ ونہ نے
 تہ فوراً ہیو توہہ شور و غل لاگن۔ آشنائی ہندین تعلقان ہر گاہ توہہ نشہ کانہہ احترامہ چھہ تیلہ بوز
 تو میان تھہ تھہ منز تھہند خاطرہ سیٹھاہ فاندہ چھہ وَمَنْ يَفْتَرِ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ شَكُورٌ بیہ ئس اکھاہ نیکی کرہ اس گرو تم نیکن اندر زیادہ رزہ خوبی عطا یعنی اس دم و تس زیادہ ثواب۔

بے شک اللہ تعالیٰ چھہ فرماں بردار ہندین گو نہن سیٹھاہ عشمہار۔ تھزن نیکن سیٹھاہ قدر دان تہ رت
 ثواب عطا کرہ ون أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ
 وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کیاہ سہ لکھ چھا توہہ نسبت ونان زہ تمو چھہ یہ قرآن
 مجید خدا ئس پیٹھہ اپز ٹھہرو و مت نعوذ باللہ یعنی نبو تک تہ وحیک خلاف واقعہ دعو کور مت۔ اتھہ صورتس
 اندر چھہ خدا ئس قدرت کہ ہر گاہ سہ یژہ تھندس دس پیٹھہ کرہ سہ مہر۔ بیہ چھہ اللہ تعالیٰ سہ یہ
 طریقہ فطرت کہ سہ چھہ ہنہاوان اپز تہ پوزہ چھہ پزراوان غالب تہ ثابت پنہ نیوا حکامو سیت پزی پاٹھہ
 سہ چھہ دلہ جن گھن ہنزتان پور خبر تھاوان وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
 وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ بیہ چھہ سئی تھہر رحیم کہ پنہ نین ہندن ہند توہہ چھہ تھہ کیو شرطو سان قبول کران

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ
 بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ
 مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ
 مِنْ أَعْدَاكُمْ قَنْطُورًا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

پس اگر کانہہ کافر توبہ کرچھ مسلمان سپدہ سہ چھہ ہند ایمان ان قبول کران بیہ چھہ سئی توبہہ برکتہ پنہ
 نین بدن ہندین گوہن عفو کران۔ بیہ چھہ سئی تہ سورے زانان بیہ توبہہ کران چھوہ تہس چھہ معلوم کہہ
 کم کور توبہ خلوص دل تہ کم کور توبہ خلوصہ ورآے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ
 مِنْ فَضْلِهِ بیہ چھہ سئی تمہن لوکن ہندس دعاءس اجابت کران۔ سمو ایمان اون تہ رزہ عملہ کرکھ۔ بیہ
 چھہ تمہن زیادہ عطا کران ہن فضل وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ہم کافر کفرس پیٹھہ اصرار کرن اسلام
 ان نہ تمہن ہندہ خاطرہ چھہ مقرر سخت عذاب۔ اللہ تعالیٰ سدہ صفت رحمتک اثر چھہ کہ سہ چھہ
 سارنہ لوکن زیادہ مال عطا کران کیاہہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ہر گاہ اللہ تعالیٰ
 پنہ نین بدن روزئس اندر وسعت گرہ وہا تیلہ کرہ ہن تمہن زمئس اندر سرکشی تہ شرارت۔ عام طبعین
 ہندہ اعتبارہ چھہ لوکن ہنزہ ہستی ہند سبب اکہ اگس کن محتاج آئن۔ مال دارن چھہ کامہ منزدہ حاصل
 کرنہ خاطرہ مزورن تہ کاری گرن کن حاجتہ۔ فقیرن چھہ پونہ حاصل کرنہ خاطرہ مالدارن کن
 حاجت۔ تھہ پاٹھہ چھہ دنیاہک کارخانہ پکان وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ لیکن سہ چھہ روزی نازل کران
 تمہہ اندازہ موجب ئس سہ یشہان چھہ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک سہ چھہ پنہ نین بدن ہند
 سورے زانان، سورے وچھان وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ أَعْدَاكُمْ قَنْطُورًا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ
 الْحَمِيدُ سہ پروردگار چھہ تھہ حکیم کہ سہ چھہ رود تراوان لوکن ہندہ نا امید گرہنہ پتہ۔ بیہ چھہ سئی پنہ
 رحمتک آثار عالس منزواتاوان یعنی رود پریتھہ جایہ واتاوان۔ پریتھہ جایہ چھہ زمئس سر سبز کران بیہ

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ
 وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْمُرُ بِالْقُرْآنِ ۚ وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا
 كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
 فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝
 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ إِنَّ يَتَشَاءُ يَكِينُ الرِّيحِ
 فَيُظَلِّلَنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ

بہت ساری سار نے ہند کارسازتہ کار سازی پیٹھ چھ سے قابل حمد و ثنا و مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْمُرُ بِالْقُرْآنِ ۚ یہ چھ تہندہ قدرت کیونشانو اندرہ آسمان سے زمین
 ہند پادہ کرن یہ تمہن جاندارن ہند پیدہ کرن ہم آسمان سے زمینس منز چھکر آوی مت چھن۔ سئی چھ
 تمہن سار نے مخلوقا تہ دوبارہ زندہ کر تہ قیامتگ دود سو مہرئس سے جمع کرنس پیٹھ یلہ سہ تمہن جمع کرن
 یڑھ۔ پور قدرت وول۔ وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ یہ چھ سہ منتقم
 آسکہ باوجود عفو سے در گذر کر وون۔ چنانچہ کس مصیبتاہ توہمہ واتان چھ اے گنہ گار و سہ چھ حقیقتا واتان
 توہمہ تمو چھ عملو سببہ توہمہ ہم پنہ نیو اتھو کران چھوہ۔ توتہ چھوہ سہ وار یکن گونہن عفو سے کران
 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ یہ ہم کیون نہ توہمہ زمینہ کس
 کمنہ حصص منز پناہ حاصل کر تہ تہ روز تہ۔ اللہ تعالیٰ عاجز کر تہ۔ نہ چھ تہ حاکس اندر تہندہ خاطرہ
 کانہہ مدد گارہ تہ یاری کر وناہ خدا کس ور اے وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ یہ چھ تہندہ
 قدرت کیونشانو اندرہ ناوہ سے جہاز یہ دریا وون سے سمندر ن منز پکان چھ۔ یہ تہندین کوہن سببہ چھ۔
 تمہن بڈین جہازن ہند سمندر س منز پکن چھ تہندی قدرت سے تہ إِنَّ يَتَشَاءُ يَكِينُ الرِّيحِ فَيُظَلِّلَنَّ
 رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ ہر گاہ سہ یڑھ واوس ٹھہراوہ تمہ ناوہ سے جہاز یہ واوہ سیت پکان چھ۔ تمہ گڑھن
 روز تہ اچہ تھر پیٹھ یعنی سمندرہ کس سطحس پیٹھ۔ یہ چھ تہنز سے کام کہ واوس چھ پچہ ناوان۔ تمہ سیت

شُكْرٍ^(۳۳) أَوْ يُوقِنُ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ^(۳۴) وَيَعْلَمَ
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ^(۳۵) فَمَا أُوتِيْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى
لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ^(۳۶) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ
كِبْرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ^(۳۷)

چھہ جہازتہ پکان ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بے شک اتھ منز چھہ واریاہ قدر تک نشاندہ۔ پرستھ
سیٹھاہ صبر کرہ ونہ سندرہ تہ شکر پہ ونہ سندرہ خاطرہ۔ یعنی با ایمان ہندہ خاطرہ اَوْ يُوقِنُ بِمَا كَسَبُوا
وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ۔ یاہر گاہ سہ یرتھ سخت تیز و اور توادہ تمن جہازان اندر سارنہ سوارن گالہ تہزہ پیچھ
عملو سببہ۔ یعنی پھانڈ ویکھ وریاؤس اندر۔ وار مین لوکن گرہ در گذر یعنی تمن پھاٹوہ نہ تمہ ساتہ مگر آخر تس
اندر یہیہ تمن عذاب کرنہ۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ۔ امہ تباہی ہندہ وقتہ حکمہ
زان تمن لوکن تم کج محشی چھہ کران سائین آیتن اندر کہہ تہندہ خاطرہ چھنہ کانہہ ژکن جایاہ ساتہ عذابہ
نشہ چنہ خاطرہ فَمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ امہ اندرہ سہد
معلوم کہ مطلوب بناؤس قابل چھہ دُنیا بلکہ چھہ آخرت مطلوب مقدس بناؤس قابل۔ دون یہ
کینتر ہاہ دنیاء کیو چیز و اندرہ توہمہ عطا کرنہ اَوْتِیْتُمْ چھہ محض چند روزہ دنیاء کہ زندگی ہندہ اکھ تمتع تلنک
چیزاہ نِس عَمْر خَم حَمْدِ هُنَّ پیٹھ خَم گودہ۔ بیاکھ گودہ کینوہا اللہ تعالیٰ اس نشہ تہندہ خاطرہ چھہ تہ چھہ
رُت تہ پوشہ ون۔ لہذا گرہ دنیا طلبی تراوتھ آخر تک طالب سہدن۔ مگر سہ سہدہ حاصل ایمان و اعمال
صالحو سیت بہ شرک و کفرہ نشہ پتھ روزنہ سیت چنانچہ سہ ثواب مذکور چھہ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ تہندہ خاطرہ سمو ایمان اون۔ بہہ کوڑ کہ پنہ نِس پروردگار س پیٹھ اعتماد تہ بھروسہ وَالَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كِبْرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ بہہ ہم لوکھ بڑو گناہو نشہ چھہ چھہ
روزان بہہ پیچھ کا مو نشہ بہہ ہم ژکھ کھستھ ژکھ کھارہ و دینن معافی ووان چھہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ
الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٢٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾
وَلَمَنْ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ
سَبِيلٍ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ
يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ بیه سمو حکم مون پنہ نس پروردگارہ سند بیه تھاو کہ نماز قائم پابندی سان
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ بیه آسہ تہزہہ پرستہہ کاماہ متھ منز نہ شرعی حکماہ بیان آسہ
کرنہ آمت پانہ وانی مشورہ کر تھ پورہ سپدان۔ بیه آسن تم تمہ مالہ منزہ نس اسی عطا کو رکھ خرچ کران
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ بیه تم لو کہ تمکن پیٹھہ سمہ ساتہ کانسہ ہندہ طرفہ ظلم
کرنہ آسہ یوان، تم اگر بدلہ آسن ہیوان سہ آسن برابر برابر ہیوان۔ زیادتی آسن نہ کران۔ بدلہ ہنک
اجازت ہتھہ اسی تمکن دہشتت کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا بدی ہند سزا ہتھہ بدی تھہ ہش فَمَنْ
عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ تمہ پتہ یعنی انتقامگ اجازت ونہ پتہ نس اکھاہ معاف
کرہ ظالمس بیه کرہ معاملس منز اصلاح سمہ سیت دشمنی دور سپدہ دوستی پادہ سپدہ تمیک ثواب ہتھہ حسب
وعدہ اللہ تعالیٰ اس مہ۔ واقعی اللہ تعالیٰ مٹھنہ پسند کران ظالمس۔ وَلَمَنْ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ
مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ وون سم لو کہ بدلہ نہ انتقام ہن ظالمن نشہ تہندہ ظلم کرنہ پتہ نس مٹھنہ تمکن
لوکن پیٹھہ کاہنہ الزامہ نہ باز خواستہہ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ بلکہ ہتھہ باز خواست نہ الزام تمکن لوکن پیٹھہ ہم ناحق لوکن ظلم کران آسن۔ بیه آسن

أَلِيمٌ ﴿۳۶﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۳۷﴾
 وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَدْيٍ مِّنْ بَعْدِهَا وَتَرَى الظَّالِمِينَ
 لَمَّارًا وَالْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿۳۸﴾ وَتَرَاهُمْ
 يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ
 وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿۳۹﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ

سرکشی سے بغاوت کران زمینس منزناحق اولیک لہم عذاب الیم تمہیں لوکن ہندہ خاطرہ چھہ
 مقرر عذابہ دگ سے دودتکہ ون لکن صبر و غفران ذلک لمن عزم الامور بے شک نئس شخص
 کانہ ہندس ظلمس پیٹھ صبر کرہ، انتقامس درپے روزہ نہ عفو سے در گذر کرہ بے شک صبر سے در گذر کران
 چھہ بڈہ ہمتہ چوکا میواندرہ یعنی عفو سے در گذر کران چھہ سیٹھا بہتر۔ ومن یضلیل اللہ فمالہ من ودی من
 بعدہ یہ اوس اوت تان حال مہتدین ہندون چھہ امہ پتہ ضالینن ہند حال بیان کرنہ یوان کس اللہ
 تعالیٰ و تھہ راوہ راوہ تس چھہ دنیا س منز تس پتہ کانہہ چارہ سازہ سے مدد گارہ نئس تس و تہ پیٹھ ائہ ہا۔
 قیاس اندر تہ آسہ نئس سیٹھا چھہ حال وتوی الظالمین لمارا وال عذاب یقولون هل الى مرد من سبیل
 وچھو کہ تہہ تم ظالم سے کافر یلہ تم عذاب و تھن قیامتگ دوہ دپنہ لکن نہایت حسرتہ سان کیاہ سادنیاس
 کن وائس گھہہ نچ چھنا کانہہ صور تھہ سے کرہ ہو اس تعیل احکام سے نیک بنہ ہو وتراہم یعرضون
 علیہا خشیعین من الذلیل یظرون من طرف خفی
 بروئھ کن انہ یں لکہ بون کن تراوتھ آس نجالت در سوائی ہندہ سببہ وچھان آس نار چھنمس کن اچھہ
 بون کن تراوتھ تلی نارہ وقال الذین امنوا ان الذین خسروا انفسهم واهلہم یوم القیامۃ تمہ
 ساتھ دین بالیمان پنہ نئس چہ نئس پیٹھ شکر دپنہ خاطرہ کہ بیشک تاوان زد گئے تھے سمونا فرمانیو سیت
 تاوان ہیو پنہ نین پان پنہ نین شرین باذن از قیامتگ دوہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم وارہ بوڑو

مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
 مِنْ سَبِيلٍ ﴿٣٦﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ
 مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَّالٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ تُكْبِرٍ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا
 فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
 الْإِنْسَانَ مِتَارِحَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
 أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٣٨﴾ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط


یاد تھا و کہ ظالم یعنی کافر تہ تا فرمان لو کہ آسن دائمی عذابس اندر گرفتار و ما کان لکم من اولیاء
 یَنْصُرُوهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ بے آسہ نہ تمن ستہ کانہہ مد گارہ بس تمن مدد تہ یاری کرتہ بیکہ با خدا بس
 و رآے و مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ بے بس خدا و تہ راورہ تس جھنہ نجات کانہہ دتھاہ استجیبوا
 لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ای لو کو حکم ملو پنہ بس پروردگار سہد - ایمان آنو
 فرمانبرداری کرو سہ دوہینہ برو تہ بھہ دوہس بھہ نیرہ بچ صورتہ جھنہ خدا یہ سہہ طرفہ مَا لَكُمْ مِنْ
 مَّالٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ تُكْبِرٍ آسہ نہ تمہہ دوہہ کانہہ چھن جایا نہ آسہ تمہہ دوہہ تہہہ خاطرہ خدا بس
 کانہہ باز خواست کرناہ - نہ آسہ توہہ بے تہ انکار کرہ بچ صورتہہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
 إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ اے پیغمبر برحق تہہ بوزہ ناویو کہ تم پس ہر گاہ تم لو کہ یہ بوز تہ تہہ بھران تہ
 ایمان آن نہ اہہ ٹھی مہ روز و غمستہ فکرہ اندرہ آسہ چھوہ نہ سوز مت تہہ تہہہ شکر د رتہ رچہ بچہ کامیو
 نشہ کیارٹو کہ تہہ زورہ بھہ - توہہ جھنہ مہہ مگر سون حکم و اتناون بس تہہ با حسن وجہ انجام دو ان جھوہ -
 بہہہہ خدا بس نشہ اعراض کرہ ٹک وجہ بھہ کہ تمن جھنہ خدا بس سیت کمل تعلق تہہہ بھہ پانٹہ
 نان کہ وَاِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِتَارِحَةً فَرِحَ بِهَا آس یلہ تمہن انسان جھہ پنہہ رحمتک مزہ ژہناوان
 تمہہ ساتہ بھہ نہ ٹہنگان تمہہ نعمتہ سیت - ویزان جھنہ مہہ مگر محسس پیٹہ نظر کرتہ جھنہ تس شکر و ثنا
 دپان وَاِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ تو پتہ یلہ تمن انسان کانہہ سختیاہ تہ

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِخَ بِهِ ۗ إِنَّ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۹﴾
 أَوْ يُزَوِّجَهُمْ ذُرِّيًّا أَوْ إِنَّا نَافِئًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ
 قَدِيرٌ ﴿۵۰﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ
 حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذُنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿۵۱﴾
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ

تکلیف و اتان چھ تمو پیچھ کامیو سببہ ستمہ تمو پنے نیو اٹھو کرہ مژہ آسان چھ تمہ سائہ چھ خدلیہ سنز
 شکایت نہ گرو کران بے شک انسان چھ سیٹھاہ احسان فراموش نہ ناشکر گزار **بَلِّغْ لَهُمُ الْبَرَكَاتِ**
وَالَّذِينَ خَدَلُوا خَدَلُوا سَنَزَلْنَا بِآيَاتِنَا أَنْتَ نَزَلْنَا بِآيَاتِنَا أَنْتَ نَزَلْنَا بِآيَاتِنَا یہ یڑھان چھ
يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِخَ بِهِ دوان چھ سمن یڑھان چھ کورہ بیہ چھ دوان سمن
 یڑھان چھ گبر **أَوْ يُزَوِّجَهُمْ ذُرِّيًّا أَوْ إِنَّا نَافِئًا** یا چھ سمن عطا کران پتوتہ کورہ تہ۔ **وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا** بیہ
 چھ کران سمن یڑھان چھ ہانٹھ یعنی بے اولاد، اولاد نسیہ محروم **إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ** بے شک سہ چھ
 سورے زان ون۔ پور قدرتہ دول **وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ** بیہ چھنہ
 کانہہ انسان یہ جسم عنصری تھاوتھ موجودہ قوتن ہندہ اعتبارہ یہ طاقتھ تھاوان کہ دنیا س منز کیاہ کرہ
 تس بروٹھ کتہ اللہ تعالیٰ تس سیت کلام۔ مگر چھ یہ ممکن سموتریو صورتو آندرہ کتہ صورتہ یا بلا واسطہ بلا
 حجاب بطریق الہام کانہہ ہندس دس منزواتہ ناوان کانہہ رٹکٹھاہ بیداری منز یا خوا بس منز۔ یا بلا واسطہ
 مگر پردہ تل **أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذُنِهِ مَا يَشَاءُ** یا چھ سوزان کانہہ پیغام واتاوتہ نس سئ چھ واتاوان
 خدلیہ سہہ حکمہ تمہ تھہ یسہ سہ یڑھان چھ کانہہ بندہ خاص نسیہ **إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ** بے شک سہ چھ
 سیٹھاہ عالیشان نہ سیٹھاہ تھو، سیٹھاہ حکمتہ دول **وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا** تھہ پانٹھ سوز اسہ
 توہہ گن یار سؤل اللہ کلاماہ یعنی قرآن مجید پنے طرفہ۔ بیہ بناوی وہ اسہ تہہ پیغمبر خاص لوکن بلکہ خاص
 الخاص لوکن سیت۔ سانہ کلام کرچہ صورتہ چھ تہہ ترہ صورتہ۔ یلہ توہہ سیت باوجود صلاحیت یوہے

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
 وَإِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۲﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ الْأَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿۵۳﴾

سلسلہ جاری ہے باقی عام لوگوں سے تھک پائے اور اس نبرہ وانہ بطریق مشابہہ و معاینہ کلام۔ تھک پائے وحی
 سوزنہ سے تھک پائے توہم بے مثل علوم حاصل ورنہ مَأْتَتْ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ
 نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا لیکن اسے کور توہم عطا نبوت و قرآن۔ یہ قرآن مجید کور اسے اول
 تہندہ خاطرہ دوم توہم وراکی میں لوگوں ہمدہ خاطرہ اکھ نوراہ سمہ سے تھ ہاوان تہن تہن
 ہند اس یرٹھان تھہ پنہ نیوہند و آندرہ علوم و اعمال کن وَإِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تہہ تہ تھوہ
 بیشک امہ قرآن مجیدہ سے تھ ہاوان عام لوگوں راہ راستہ کن صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ تہ خدایہ سزہ و تہ کن یسند تہ سورے تھہ یہ آسمان تہ زمین منز تھہ الْأَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
 الْأُمُورُ اے لوگو کووارہ بوزکہ سارے کائین ہند انجام تہ مرجع تھہ اللہ تعالیٰ سہ وہ سارے
 عمل کن، تھہ یہ شو بہ، موزور۔



سُورَةُ الرَّخْرِفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 حم ﴿١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ أَفَضْرِبُ
 عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿٥﴾ وَكَمْ أَرْسَلْنَا
 مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ

حَمْ سَمِ چھہ حروفِ مقطعات سَمْن ہند معنی زلہ پانہ اللہ تعالیٰ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ قسم چھہ سَمِ
 قرآن مجید ک سَمِک معنی بالکل واضح چھہ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِسْمِ کریمہ کتاب
 عربی پانٹھ قرآن۔ تہہ توبہ اے عربیہ کیولو کو باسانی فخرہ ترہ۔ تہندہ واسطہ پچھن ساری دنیاء کی اقوام
 یہ مقدس کتاب وَاللّٰهُ فِيْ اُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ بیشک یہ قرآن مجید چھہ لوح محفوظ اندر اِسْمِ
 نشہ وجوہ اعجاز اسرار عظیمین مشتمل آسنہ موکہ سیٹھاہ تھدس مرتبس اندر تبدیل و تحریفہ نشہ محفوظ
 آسنہ موکہ سیٹھاہ محکم تہ مضبوط۔ امیک احکام چھہ ساری مبنی برحمت۔ امیک مضامین چھہ اصلاح
 معاش و معادہ خاطرہ اعلیٰ ترین ہدایات پینٹھ مشتمل لوح محفوظ اندر چھہ یہ قرآن مجید سارنئے
 آسمانی کتابن پینٹھ کبہ لیکنہ آمت۔ یژھ جلیل القدر کتاب گدھ ضرورمان۔ لیکن اگر تہہ ماؤنہ توتہ چھہ
 اِسِ یہ کتاب توبہ بوزنادنہ خاطرہ ضرور نازل کرن۔ تہہ مَآن تُوایمَہ مَآن تُو افَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ
 صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ اے معر و کیاہ توبہ چھا خیال کہ اِس رُلون یہ نصیحت نامہ قرآن مجید
 توبہ نشہ پٹھ سَمِ تھہ موکہ کہ تہہ کیاہ چھوہ حدہ روئے نافرمانی گرہ و ن امرہ خیالہ نشہ نیرو و کَمْ اَرْسَلْنَا
 مِنْ نَبِيِّ فِيْ الْأَوَّلِيْنَ اِسْمِ سوز کاتیاہ پیغمبر برو نظھین لوکن منز۔ تہندہ انکار تکذیبہ کہ باوجود یہ کورنہ
 اِسْمِ کہ تہندہ تکذیبہ موکہ گرہ ہو اِس پیغمبر سوز نِک سلسلہ بند۔ تہہ پانٹھ اِسْمِ تہندہ تکذیب کرہ نِک

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤﴾ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ
 الْأَوَّلِينَ ﴿٥﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
 خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ
 جَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَنْشُرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿٨﴾
 وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ

كانه هر دو کورنه بیته پاڅه منه کرو ته به تبه کانه هر دو اته نم کبازه تمن برو نجه سم لوکه اس ته مند حال ته اوس
 بیته وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ تَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ تمن لوکن نجه اوس نه واتان کانه بیغمبراه نيس نه
 تم نجه اس کران فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ نيس گال اسه تم لوکه سم از
 کين کافر ن هنده خونه زياده طاقتور اس۔ چنانچه تمن برو نجه ن لوکن هنده تباو بر باد گوشه نک واقعات
 آی بیان کر نه آیات کر يمن اندر۔ به ته مند حال سپه تی سپه ازی مکر ن هنده حال ته وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ به هر گاه ته تمن لوکن پر شهوزه آسمان ته
 زمین کم کور پاڅه ضرور ون تم که پاڅه کر تم نمی خداين نيس سيטהه زبردست، سوزی زانه ون چته
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بی خداين ته مند خا طره زمین
 کور فر شاه بیته پیته ته آرام جهوه کران به کران ته مند اوره یور پچیره خا طره، منزل مقصود س تان
 واته خا طره ته منز و ته بیته نه تمو و تو پچیره مطلبس ته مقصد س واتان آسو وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً يَقْدَرُ به سم خداين ترو و آسمانه طرفه روده اندازه کر ته حسب مشیت و حکمت فَأَنْشُرْنَا بِهِ
 بَلْدَةً مَّيِّتًا نيس کور اسه تمی روده سیت زنده مومت زمین کذالك تُخْرَجُونَ بیته پاڅه کبیه قبر و
 اندر ته ته به زنده کر ته نیر کذنه قیامتک دوه وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا به بی خداين پاڅه کر
 مختلف قسمک چیز وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ به ته مند خا طره ناوه ته جهاز به چار پایاڅه

مَا تَرْكِبُونَ ﴿۱۱﴾ لِيَسْتَوَاعِلَ ظُهُورَهُ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿۱۲﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿۱۴﴾ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿۱۵﴾ وَإِذَا ابْتِشَرَّ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ

سمن پیٹھ تہہ کھسان تہ سوار سپدان چھوہ۔ لِيَسْتَوَاعِلَ ظُهُورَهُ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ
 پیٹھ تہہ وارہ بہو تہمدین پٹھن پیٹھ توہتہ پاوژ تیس پنے نس ہروردگارہ سزہ یہ نعمت یلہ تہہ سواری پیٹھ
 وارہ روزان آسبو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ تہمہ وقتہ آسوپران یہ مضمون
 کہ منزہ تہ پاک چھہ سہ پروردگار ہم تابع تہ رام کر یہ سواری سانہ خاطرہ ورنہ فی الحقیقت آس آس نہ
 پانہ یہ قابلیت تہلوان تہہ آس کیالہ ہو آس سواری پیٹھ قابو۔ کیا زہ سہ جانور چھہ سانہ خوتہ زیادہ طاقتور آسان
 یہ چھہ محض مہربانی اللہ تعالیٰ سزیتھہ پاٹھہ بیچہ ہونہ آس آس پیٹھ جہاز تہ ناوہ پکہ ناو تھ۔ اللہ تعالیٰ نے آسہ
 جہاز تہ ناوہ بناوہ نلک توفیق دت توپتہ تہمہ آس پیٹھ پکہ ناوہ نلک تدبیر تہ چھہ ناوہ ہا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ
 ان کر خشکی تہ دریائی سوارین ہنزہ کریتھہ آسہ کر تہمس منزامہ اندرہ چھہ سپدان معلوم کہ ناوہ گھسہ ون
 تہ گروہہ ہرکن سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ بیہ چھہ
 آس پنے نس ہروردگار سکن واپس رجوع کرہ ونی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا توحیدس پیٹھ بے
 شمار دلیلہ آسبحہ باوجود چھہ ٹھہر اوان لوکھ خدائس تہمدوے بند واندراہ کورہ تہ تہمہ سمن جزع بناوان چھہ
 خدایہ سندی۔ حالانکہ نس اجزاء آسن چھہ محال تہسدہ خاطرہ جزع قرار دین گو نعوذ باللہ تہسد حادث
 ماں نس بوڈ کفر تہ ناشکری چھہ۔ اکھ خرابی چھہ اتھ منز یہ بیاکھ خرابی چھہ اتھ منز کہ سمن لوکھ چھہ
 کورین ناقص زنانان توپتہ چھہ خدائس سیت تہمہ نسبت ٹھہر اوان إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ بے شک
 انسان چھہ نن پاٹھہ ناشکری گرہ ون اَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ کیاہ تم چھاپنہ نیو

لِلرَّحْمَنِ مَثَلًاظَلَّ وَجْهَهُ مُسَوِّدًا ۱۷ وَهُوَ كَظِيمٌ ۱۸ أَوْ مَنْ يُنْشِئُوا
 فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۱۸ وَجَعَلُوا الْمَلِكَةَ
 الَّذِينَ هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَأْشَهُدُ وَأَخْلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ
 شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ۱۹ وَقَالُوا الْوَيْلُ الرَّحْمَنِ مَا عِبَادُهُمْ

مخلوق تو آندرہ پنے خاطرہ کورے کورہ زحمہ سے تہہ مکر نوہ خاص پتو یوسیت حالانکہ تو بہہ چھوہ کورہ تیوہ
 ناہندہ کہہ وَاذْ اُبْتِرَاحُدُهُمْ بِمِثَابِ رَبِّ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًاظَلَّ وَجْهَهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ چنانچہ بلکہ تموا آندرہ
 کانہہ خبر چھہ یوان دنہ تمہہ سیتی یہ تموا ٹھہر اور حمہہ وائس خدائیس یعنی کور، تمہہ ساتہ چھہ سپدان ٹھہ
 تہہندہ سیاہیہ چھہ نمہ سیت برنہ یوان اَوْ مَنْ يُنْشِئُوا فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ کیاہ خدائسن کریا
 اولاد ہلانہ خاطرہ کورے ہند یوسہ ضعیف چھہ رایہ کن یہ عقلہ کن یہ غرض تس چھہ تم خدای قدوس
 سندی جزو ٹھہر او ان یوسہ گہنہ پاتہ سے منز چھہ پلان تس چھہ زینت و آراشہ کئے خیال آسان نس
 تہہندہ ضعف رایہ ہند علامت چھہ۔ بیہ چھہ مقابلہ کہہ وقتہ سہ مطلب پن ظاہر ہیکان کرتھ نس ضعف
 عقلہ ہند علامت چھہ کیاہہ تم چھہ قوت فکر نس منز ضعف تہہ سستی۔ لہذا چھہ سوچو کہہ وقتہ مکمل بیان
 تہہ تھہ ہیکان کرتھ۔ یا چھہ تمہہ قسمہ چہ تھہ کران سمن نہ اصل مطلبس سیت کانہہ تعلق آسان چھہ سمہ
 سیت مقصد بیان کر نس اندر خلل واقع سپدان چھہ ترسم خرابی چھہ آتھ اندر کہہ وَجَعَلُوا الْمَلِكَةَ الَّذِينَ
 هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَأْشَهُدُ قطع نظر لزوم شر کہہ نشیہ کرتھ کہہ بیہ چھہ لو کو ملا تک
 ہم حضرت رحمانہ سندی خاص بندہ چھہ، تھے چھہ زانمت بلا دلیل زنانہ اَشْهَدُ وَأَخْلَقَهُمْ کیا سنا تم
 آسہ تہہندہ پادہ کر تکہ وقتہ موجود تو پتہ آسہ تم وچھان تہنز کیفیت و حقیقت مرد آسہ کنہ زنانہ آسہ
 سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ تہنزہ یمہ بے بنیاد تھہ چھہ یوان لیکتھ تھانہ تہندین نامہ اعمالن آندر تو بہہ
 پیکھ سمن تھن ہند پر ژھنہ قیامتک دوہ وَقَالُوا الْوَيْلُ الرَّحْمَنِ مَا عِبَادُهُمْ بیہ چھہ ونان ہم کافر کہہ
 ہر گاہ حضرت رحمان یژہ ہائس گرہ ہونہ سمن ملاکن ہنز پر سٹش مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ أَيْنَهُم
 كِتَابٌ مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿۲۱﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا
 آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۲۲﴾ وَكَذَلِكَ مَا
 أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
 إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۲۳﴾
 قُلْ أَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا

الْأَخْرُصُونَ تم۔ جھنہ اوج خبرے کہینہ۔ تم جھہ بل تھقیقہ در اے کتھہ کران اندازہ لگاوان امر ایتھہم
 کتبا من قبلہ فہم بہ مستمسکون کیاہ اسہ ہتھا تمین کا نہہ کتاباہ امہ قرآن مجیدہ۔ بروٹھ عطا کر مثر
 اتھہ دعویٰ اس اندر کیاہ جھہ تم تمی سیت استدلال کران حقیقت جھہ یہ کہ نہ جھہ تمین عقلی دلیلہاہ
 اتھہ پیٹھ نہ نقلی دلیلہاہ بل قالوا اننا وجدنا ابائنا علی ائمہ وانا علی اثرہم مقتدون بلکہ جھہ تم
 کران پیروی بروٹھیم ہندین رسکن ہنز۔ ونان جھہ کہ اسہ وچھہ مائل بڈب ہتھن کہہ طریقہ پکان اس تہ جھہ
 پکان تھہندوے نقش قدم موجب وکذالک ما ارسلنا من قبلك فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوہا
 اننا وجدنا ابائنا علی ائمہ وانا علی اثرہم مقتدون ہتھہ پاٹھہ سوزنہ اسہ توہہ بروٹھہ یار سول اللہ کتھہ
 شہرس منز کا نہہ بیغیراہ تمین بیہم کرنہ خاطرہ۔ مگردوان اسی تمہہ شہرک لوکھ مالدارتہ آسودہ حال کہ اسہ
 وچھہ پنی مائل بڈی بب اکہ وتہ پکان اس تہ جھہ تھہندے نقش قدم پیٹھہ ہتھہ تھنز پیروی کران قل
 او لو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ ابائکم قالوا انما ارسلکم بہ کفر وون تھہند تم پیغیران فر موو تمین
 کیاہر گاہ بہ توہہ نطہہ پیش کرہ سووتھہ یوسہ زیادہ مطلبس واتاہون اسہ تمہہ وتہ خوتہ ہتھہ پیٹھہ توہہ
 وجھو کہ پن مائل بڈب توہہ پکوتہ تہہ تھی وتہ۔ تم لگ ڈہنہ عنادہ کنی تہہ ٹیس دیناہ تھہ سوزنہ آمت چھوہ
 اس جھنہ سہ دین مانائی۔ بلکہ جھہ اس تھہ انکار کران۔ یلہ تھہند عنادا تھہ در جس ووت فانتصنا منہم
 فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین کس ہیوت اسہ تمین پور، انتقام۔ کس وجھو کیاہ سپدا انجام تمین نہ

بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كُفْرُونَ ﴿۲۳﴾ فَأَنْتُمْ نَامٌ مِنْهُمْ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۲۴﴾ وَاذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَآبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنتِي
بِرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿۲۵﴾ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَاِنَّهُ سَيَهْدِيْنُ ﴿۲۶﴾ وَ
جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۷﴾ بَلْ مَثَعْتَ
هُؤُلَاءِ وَاٰبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۲۸﴾ وَكَلَّمَا
جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۲۹﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا

مانہ و نین ہند۔ ہر گاہ تم آباء و اجدادہ نے ہنز متابعت کئے تھے کرن تھیلہ شوبہ متابعت کرن تہس جد اعلیٰ
سزیم مسلم و معظم جھہ سارنے عربن نشہ۔ تم و چھو تھی مضبوط تہ محکم آس توحیدس پیٹھ و اذ قال
اِبْرَاهِيْمُ لَآبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنتِي بِرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ بیہ یاد یو کہ تہیس قصہ ابراہیم علیہ السلام تھیلہ فرمود
تمو پنہ نس مالس تہ پنہ نس قومس بے شک بہ چھس بیزار تم سارنے ہنز عبادت کرنہ نشہ یمن ہنز
پرستش کران چھوہ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَاِنَّهُ سَيَهْدِيْنُ مگر بہ چھس تہ ذات پاکس سیت تعلق تھاوان
یم بہ پیدہ کورس بے شک سہ جھہ میانہ دینی و دنیوی مصلحتن کن میہ رہنمائی کران تہ و تھ ہاوان
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بیہ قائم روزہ دن کتھ تراؤ تمو باقی پنہ نین اولادن منز
تھہ تم ہزس کن رجوع کرن۔ یعنی تمو کرنہ نین اولادن وصیت شرک تراہ نس تہ توحید پالہ نس
متعلق مگر سیم لو کہ جھہ شرک نشہ باز یوان بَلْ مَثَعْتَ هُؤُلَاءِ وَاٰبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ
بلکہ تہ ناومیہ سیم لو کہ بیہ تہند مال بدبب زتھہ عمرہ تہ میٹھہ رزقہ سیت تمح۔ یوتان و اثر تم نشہ ہز
کتاب بیہ سوزی نزاہون تہ صاف بیان کرہون پیغمبر خدایہ سندہ طرفہ و کَلَّمَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا
هٰذَا سِحْرٌ وَاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ تو پتہ یلہ دوت تم یہ پوز قرآن مجید تم ہزہ ہاشکر و شاد ہن تھہ بدل
دیکھ یلہ سیمک معجزات و چھہ کہ بیہ چھہ بحر تہ جود۔ اُس جھہ اتھہ انکار کران یہ و وکھہ قرآن مجیدس
نسبت و قَالُوْا لَوْلَا نَزَّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيْبِيْنَ عَظِيْمٍ بیہ لگ دہنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ﴿۳۱﴾ أَمْ
يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ نَسُنَّ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۲﴾ وَلَوْ لَا أَن
يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ

دسلن متعلق کہ یہ قرآن مجید کو نہ آواز ل کر نہ سمودوہ یو شہر و منزہ مکہ و طائفہ کیو لو کو منزہ کا نہ
بدس شخصس پیٹھ **أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ** کیاہ تہندس ہروردگارہ سنز خاص رحمت یعنی نبوت چھا
سم پائے تقسیم کرن تہ باگرن یژھان۔ یہ چھہ سراسر تہنز نادانی۔ تمن کیاہ حق چھہ اتھ منز دخل
دنگ کیاہہ **لَنْ نَسُنَّ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** اس چھہ تقسیم کران تہ باگران تمن منز تہند
رزق تہ روزی دنیاچہ زندگی اندر **وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ** تھہ تقسیمس اندر کور اسہ تمو
آندرہ اڈین ہند درجہ تھو اڈین پیٹھ **لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا** تھہ تمہہ سیت یہ مصلحت حاصل
سپدہ کہ تمو آندرہ اڈین کوم اڈین نشہ تمہہ سیت روزہ عالمک نظام قائم **وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ**
تو پتہ چھہ یہ کتھ ظاہر تہ یقینی کہہ تہندس پروردگارہ سنز رحمت یعنی نبوت چھہ بدرجہا بہتر تہ افضل تمہہ
مال دنیاخوتہ ئس سم سونبر اوان چھہ یعنی بلہ یہ دنیوی معیشت ئس ادنی درجک چیز چھہ تمیک تقسیم
کرونہ اسہ تہنزہ راہیہ موجب، کیاہ نبوت ئس اعلی درجک چیز چھہ تمک مصالحتہ چھہ اعلی درجکی تمیک
تقسیم تھہ پاٹھ گرو اس تہنزہ راہیہ موجب تھہ روز تجہ صلاحیتک بناعتہ چھہ نہ اشہ مال وریاست، دنیاءک
مال و دولت جاہ و شہمت چھہ اسہ نشہ حقیر و ذلیل تمہہ تمہہ کہہ **وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً**
لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ بیہ ہر گاہ یہ کتھ آسہانہ
کہ ساری لوکھ کیاہ نہ ہن گئی جماعت کا فرن سیت موافقت کر تھہ نہ کرہ ہو اس حضرت رحمانہ سندین

أَبُو آبَا وَسُرَّرَ عَلَيْهَا يَتَكُونُونَ ﴿٣٧﴾ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾
 وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٩﴾
 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٤٠﴾
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْبُشْرَقَيْنِ

مَنگرن، تہندین گرن ہندی نیش تہ تالورویہ سندھیہ تمہ ہیرہ سمو پیٹھ ہبور کھسان تہ بون وسان چھہ تمہ
 تہ گرہ ہو کہ روپہ سزے وَلِيُوِيْلِيْمَ اَبُوَابَا وَسُرَّرَا عَلِيْهَا يَتَكُونُوْنَ * وَزُخْرُفًا بپہ کرہ ہو کہ تہندین گھن
 ہندے دروازہ پیہ چار پیہ تمکن پیٹھ تم ڈوکہ و تھ بہان تہ آرام کران چھہ روپہ سند تے چیز گرہ ہو اُس سونہ
 سند تیوت چھہ آسہ نشہ مال دُنیا بے اعتبار تہ بے قدر وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ یہ سوزے کہینہ چھہ مگر ناپا سدا ر دنیا چہ زندگی ہندا کہ ساماناہ پائیدا ر
 آخرت پیہ آخر تک پوشہ و ن سازو سامان چھہ تہندس خدا اُس نشہ تمکن لوکن ہندہ خاطرہ تم تس
 کھو ژن شرکہ نشہ پتھ روزن وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اُس اکھاہ حضرت
 رحمانہ سندہ نصیحتہ نشہ یعنی قرآن مجیدہ نشہ چھہ زانتھہ کر تھ اون بنان پتھ پاتھ تم کافر چھہ شانی دلیلہ
 آتھہ سمو سیت علم ضروری حاصل سدا ان چھہ تجاہل تہ تغافل کران اُس چھن تس پیٹھ مقرر کران اکھ
 شیطانہ اُس تس سیت سیت روز تھ کتہ چیز چہ کامہ کن آتھہ و تھ ہتھہ ووان وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ
 السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ بے شک تم شیطان چھہ تمکن لوکن سیرہ و تہ نشہ پتھ رمان مگر تمکن
 چھہ پتہ جایہ گمانہ کہہ تم چھہ سیرہ و تہ پیٹھ تمکن ہنزہ گرا ہی ہنزہ صورت آسہ تہندہ و تہ پیٹھ پکہ نچ کیاہ
 امید پیہ کرنہ تہند غمے کیاہ چھہ کیون حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْبُشْرَقَيْنِ فَيَسْ
 الْقَرِينُ یوت تام قیامتک دوہ پتھہ شخص آسہ نشہ و تہ سہ آسیس سیت۔ آسس سدا ہ پتہ غلطی ہند
 احساس۔ اُس شیطانس کن لکھ و تہہ کاشکے میہ منز تہ ذبیہ منز آسہا دُنیا س منز تیوت دور ریوت

فَيْسُ الْقَرِينُ ﴿۳۸﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿۳۹﴾ اَفَاَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۰﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿۴۱﴾ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿۴۲﴾ فَاَسْمِعْ سِكِّ بِالَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۳﴾ وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ

مشرقس تہ مغربس منز چھ کیا زہ ڈہ چھ سیٹھا بچھ رفیق ژہیہ کور تھس بہ گمراہ۔ مگر اکی سندیہ وئیں یہ نہ
 افس ئیں یکار امہ ساتہ وندہ بچھ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ یلہ توہدہ دنیا س
 اندر کفر کرنہ سیت ظلم کور وہ۔ بچھ پاٹھ نہ از توہہ افسوس و حسرت کرنس کا نہہ فاندہ چھہ ہتھ پاٹھ
 چھہ بچھ کتھہ تہ تہندہ کتھہ کا نہہ فایدہ کہ توہہ کیاہ چھوہ عذابس اندر اکہ اکی سندی شریک یعنی ہتھ پاٹھ
 دنیا س اندر کتھہ بلا یہ گرفار گچھنہ سیت اکہ افس کتھہ کچ لوژر محسوس آس سدا ن تہ آسہ نہ ہتھ بلکہ
 آسہ جہنمکہ عذاب شدت امہ کچھ امہ کتھہ ہند ہوشی آسہ نہ کانسہ سہ کیاہ گرہ یس کانسہ کن التفات تہ
 توجہ۔ پر ہتھ اکہاہ آسہ پنہ بس حالس اندر بتلا اَفَاَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ
 مُّبِينٍ اے پیغبر توہہ یلہ بہنہزہ حالتھ معلوم سپز کیاہ تہہ ہیکو کہ زربوزہ ناتھہ یا ہیکوہ ائین و تھہ ہاوتھہ۔
 یہہ ہیکو نہ سہ شخص بس منہ گمراہی منز پیومت آسہ و تہ پیٹھ اکتھ۔ یعنی تہندہ ہدایت چھہ تہندہ اختیارہ نشہ
 نیر۔ لہذا مہ کھو تہہ تمیک غمے۔ تم ہنزیہ سرکشی تہ نافرمانی یہہ نہ نظر انداز کرنہ بلکہ یہہ تم نیشہ امیک
 ضرور انتقام ہنہ۔ اوہ سہ تہزہ موجودگی اندر اس تن یا تہندہ سمہ عالمہ گرھنہ پتہ اس تن فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ
 فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ بس ہر گاہ اس تہہ یہہ عالمہ نمودہ توتہ چھہ اس تم نیشہ ضرور انتقام ہیوہ ون
 اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ تہ ہاوہ توہہ تہ سہ عذاب سمیک آسہ تم وعدہ کور مت
 چھہ سہ گرو اس تم نازل تہزہ موجودگی اندرے۔ بہر حال اس چھہ تم پیٹھ پر ہتھ طریقہ پور
 قدرت تھادان فَاَسْمِعْ سِكِّ بِالَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بس روز توہہ پورہ اطمینانہ سان

لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿۳۷﴾ وَسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا
 مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً
 يُعْبَدُونَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
 فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۹﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ

اتھ قرآن مجید س پیٹھ قائم۔ ئس توہم پیٹھ وجیہ کہ ذریعہ نازل آو کر نہ۔ تہہ ہجھوہ پیشک سیزہ و تہ پیٹھ
 ورائہ لڈ کڈ لک و لِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ یہ قرآن مجید ہجھ شرف تہ عزت تہندہ خاطرہ ہیہ تہندہ
 قومہ خاطرہ تہندہ خاطرہ ہجھ سمہ موک کہ توہم گن ہجھ بلا واسطہ اتھ اندر خطاب تہندہ قومہ خاطرہ
 ہجھ امہ موک کہ تم ہجھ تہندہ واسطہ مخاطب عام پادشہن ہندہ طرفہ خطاب سڈن ہجھ باعث کمال
 شرف و عزت ون ہجھن کتھ یلہ ملک الملوکہ سندہ طرفہ خطاب آسہ۔ سہ کوتاہ باعث کمال شرف و
 عزت ہجھ قومہ آندرہ ہجھ مراد قریش یاساری عربک لوکھ یاساری امتی۔ توہ سار نے ہیہ یہ پر ژھنہ
 پنہ پنہ ذمہ داری ہندین حقوقن متعلق ہجھ منز تمو کوتاہی کر مژ آسہ ہیہ پر ژھنہ تبلیغس متعلق باقین
 نغیر ہیہ پر ژھنہ تعمیل احکامن متعلق ہجھ منز تمو کوتاہی کر مژ آسہ وَسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
 رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ یا رسول اللہ ہر گاہ توہم خوش گرہ تھی پر ژھنہ تہ
 دریافت کمر تو تمین نغیر سم آسہ توہم ہرونٹھ پنہ نیو پیغیر و آندرہ سوزی لوکن گن کیاہ آسہ چھا حضرت
 رحمانس و رائے ہیہ معبود مقرر کر مت تمین ہنز پر ستش کرنہ ہیہ بائینہ تہنز و تھ تہ ہجھ سوے یوسہ بن
 حضرات انبیاءن ہنز آس۔ شرکچہ تعلیم ہجھنہ کانسہ پیغیرن و ژھنہ نہ ہجھ اللہ تعالیٰ ان کتہ دیکس منز یہ
 تھ جائز قرار و ژھنہ خدائس و رائے کیاہ ہیہ کانسہ ہنز پر ستش کرنہ۔ خدا ہیہ سندیہ ارشاد کرن کہ تھی
 پر ژھنہ پیغیرن، سہ گو و سمہ وقتہ تمین سیت ملاقات سپدہ مثلاً شب معراجس اندر۔ یا و جھنہ تہنز
 کتابن اندر۔ بہر حال ئس ئس ذریعہ توہم ممکن سپدہ سہ کر تو تہہ استعمال۔ توہ سپدہ صاف معلوم کہ کتہ
 آسانی دیکس اندر ہجھنہ کتہ وقتہ شرک اجازت دہہ امت و لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
 فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑ پاٹھ ہیہ سوز آسہ موسیٰ کلیم اللہ پنن آیت ہتھ فرعونس تہ تہندین

مِّنْهَا يَصْحَكُونَ ﴿۴۶﴾ وَمَا تُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَ
 أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۷﴾ وَقَالُوا يَا آيَةُ
 السَّاجِدِ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿۴۸﴾
 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿۴۹﴾ وَنَادَى فِرْعَوْنُ
 فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ
 تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۵۰﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ

اہل کارن کین تو پتہ فر مو تمن نشیہ یتھ تمو اکی فرعون بہ جھس پیغمبر رب العالمین سدہ طرفہ توہیہ
 لوکن ہدایت کرنہ خاطرہ مگر فرعونؑ تہ تمی سند یولو کو مون نہ فلما جاءهم بالآيات اذا هم منها ياصحكون
 ادہیلہ موسیٰ علیہ السلام دوت تین نشیہ سان آیات یعنی آیات تسعہ نو آیات ہیتھ۔ یکبار لگ تم لو کہ تم
 آیات و جھتھہ اسنہ تہ جھتھہ کرنہ و ما تریہم من آية الا هي اكبر من اوتھا تہ آس نہ آس تین کا نہہ معجزہ
 ہاوان مگر سہ اوس بیہ معجزہ خود بوڈ آسان و اخذناہم بالعداب لعلہم یرجعون اسہ کرے تم گرفتار
 مختلف عذابو سیت دیوہ تم نافرمانیو نشیہ بازیتھ خدا بس کن رجوع کرن و قالوا يا آية الساجد ادع لنا ربك
 بما عهد عندك اننا لمهتدون بیہ دوپ تمو موسیٰ علیہ السلام عذابو سیت تنگ یتھ اے جادوگرہ
 سانہ خاطرہ معجتہ پنہ نس پروردگار س کیا زہ ثیہ چھے تم قبولیت دعاء ک وعدہ کورمت۔ بے شک آس
 جھہ و تہ پیٹھ پوہ دن ہر گاہ آس سمو عذابو نشیہ نجات لبو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کور تہندہ خاطرہ دعا
 عذاب سپد تین نشیہ دور فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون ادہیلہ اسہ تین نشیہ عذاب تل تہ
 دور کور یکبار ہوت تمو بیہ سہ وعدہ پھر اون بیہ ہڑک نافرمانی کرن۔ و نادى فرعون فى قومه قال
 يا قوم اليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى افلا تبصرون بیہ کرفرعون کرکھ تہ منادی
 پنہ نس تو س منزعاً لبایہ خیال کرتھ کہ خیر چھا موسیٰ علیہ السلامہ سندواریہ معجزہ و چھت ماسدن عام
 لو کہ متاثر سپد تھ مسلمان منادی اندر ونہ نو وکھ اے میانہ قومہ کیو لو کھو قبطیو میہ چھنا سمہ مصر ج

مِهِينٌ ۵۴ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿۵۴﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ
 أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿۵۵﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۵۶﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿۵۷﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلْفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵۸﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ

حکومت سے سلطنت پر۔ جھٹنا مایا نیو مکانو تہ باغو منز سمہ جو یہ تہ کولہ پکان یمہ دریای نیلہ نشہ کڈنہ آمزہ
 ہتھ۔ کیاہ ہتہ چھوہ ناو چھان تم چیز۔ موسیٰ علیہ السلا مس نشہ ہتھہ کہین۔ وون ونو تہ ہتہ ہتھہ بہتر تہ
 قابل اتجان عنہ موسیٰ علیہ السلام ہتھہ امر اتاخو من ہذا الذی ہو مہین و لا یکاڈ یبین بلکہ ہتھس ہوی
 بہتر اہس شخصہ سہہ خوتہ نس نہ کہے اعتبار تہ عزت ہتھہ ہتھہ سہہ کتھہ تہ وارہ پاٹھ کر تھہ ہیکان۔ زیوہ
 ہتھہ ہتھہ سبہ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ہر گاہ ہتھہ شخص خدایہ
 سہہ فرستادہ آسہ ہا۔ ادہ کونہ آئی تر وانہ تمس پیٹھ خدایہ سندہ طرفہ سونہ سند کر۔ ہتھہ پاٹھ پاد شہن ہنز
 طریق ہتھہ تم یلہ کانسہ شخصس پیٹھ مہربان آس ہتھہ تم ہتھہ تس شخصس سونہ سند کر لاگان اگر تمس
 شخصس تہ نبوت عطا کرنہ آسہا آمز تلہ آسہ ہن اہس تہ آمت لاگنہ سونہ سند کر۔ یا کونہ چھہ تمس سیت
 سیت ملایک پکان پر پن اکھ اکس ستی ملہ ناو تھہ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ تہ
 تھہ ونی کہین عقل پتہ کوچ تم آئی امی سندس دھو کس منز تمو کر امہ سز ن تھن پیٹھ عمل۔ بے شک تم
 آس برو تھہ پیٹھہ شرارتہ ہت۔ نافرمانی کرہ ون۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ادہ یلہ
 تمو لو کو بر ابر کفر و عنادس پیٹھہ اصرار کر تھہ آسہ تھہ کھار آسہ ہیوت تہن پورا نقام۔ چنانچہ پھاٹو آسہ تمہ
 ساری دریائے قلز مس اندر فَجَعَلْنَاهُمْ سُلْفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ تو پتہ بناو آسہ تم گامز گذرے مرث جماعتھہا
 اکھ یہ مثالا پتہ یوہ و نین ہتہ عبرت رفتہ خاطرہ۔ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو یہ آسہ کریمہ تلاوت
 کور لَئِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَن لَّمَّا هَاؤُدُونَ مشرکین عرب لگ دہنہ کہ
 نصاریٰ ہتھہ عیسیٰ علیہ السلا مس سز عبادت کران لہذا ہتھہ تم تہ سمہ آسہ کریمہ کس عمو مس اندر داخل
 سہان۔ لہذا اگر سان معبود تہ اتھہ منز داخل سہان کیاہ ہش کتھہا چھہ بعضے رواتین اندر چھہ کہ نبی

ابن مریم مثلاً إذا أقومك منه يصدون ﴿٥٨﴾ وقالوا الهتنا خير
 أم هو ما ضربوه لك الأجدال لئلا يبلهم قوم خصمون ﴿٥٩﴾ إن هو
 إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لئنبي إسرائيل ﴿٥٩﴾ ولو
 نشاء لجعلنا منكم مملئكة في الأرض يخلفون ﴿٦٠﴾ وإنا لعلم
 للساعة فلا تتترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ﴿٦١﴾

کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ دوہندہ لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر مشرک لگ دہندہ کیاہ
 مسیح علیہ السلام منزتہ چھنہ کاہنہ خیر یہ تھہ چھہ ظاہر کہ آیہ کریمگ تہ نبی کریمہ سندین یمن
 الفاظن ہند مطلب چھہ تہن چیزن متعلق یمن چیزن ہنز پرستش کرنہ یوان چھہ تم چھنہ تہن پرستش
 کرہ وینن تہمہ نعیہ چھہ رٹان تہ ممانعت کران۔ مگر یمن اعتراض کرہ وینن ہند مطلب چھہ فقط جگرہ
 کرن تہ قضیہ لاکن تہی موکہ چھہ تم معنی پیدا کران سہمہ منکلمہ سندس مقصدس خلاف چھہ آسان
 وکتا ضرب ابن مریم مثلاً إذا أقومك منه يصدون بیہ یلہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام متعلق اکہ
 عجیب مضمونہ او بیان کرنہ مقررہ سدہ طرفہ آتی ہوت تہند قوم سنہ مضمون بوز تھہ کریکہ ناد کرن
 شور تکلن تہ اظہار خوشی کرن وقالوا الهتنا خير أم هو دہندہ لگ سان معبود چھا بہتر کنہ عیسیٰ علیہ السلام
 ما ضربوه لك الأجدال تمو کرنہ عیسیٰ علیہ السلامہ سنز مثال پیش توہہ برو تھہ کنہ مگر محض قضیہ لاگنہ
 خاطرہ توہہ سیت بلہم قوم خصمون بلکہ چھہ تم ہندہ عادتہ موجب قضیہ لاگہ ون لو کہہ ان هو
 إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لئنبي إسرائيل عیسیٰ علیہ السلام چھہ محض اکہ ہندہ اکہ نس پیٹھ
 اسہ مقبولیت و کمالات نبوتہ سیت ہنن احسان تہ انعام کور بہہ کر اسہ تم بنی اسرائیلن تہ بین لو کن ہندہ
 خاطرہ ہندہ قدر تک اکہ نمونہ آسی چھہ امہ خودہ زیادہ عجیب و غریب امور ظاہر کرہ نس پیٹھ قادر۔
 چنانچہ ولو نشاء لجعلنا منكم مملئكة في الأرض يخلفون ہر گاہ اس یژہ ہو توہہ نشہ تہ گرہ ہو کہ
 ملا یک پادہ تھہ پاٹھ تہند چہ چھہ توہہ نعیہ پادہ سپدان۔ یا آسانہ پیٹھ والو کہ توہہ بدل ملا تک۔ تہی بسا کہ

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۶۲﴾ وَ
لَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلاِبَيِّنٍ
لَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۶۳﴾
إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۴﴾
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴿۶۵﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ

ز میںس منزاکہ اُکس پتہ وَاِنَّهُ لَعَلُّهُ لِّلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاطِيعُونَ بیہ چھہ عیسیٰ علیہ السلامہ سُنَد بے
پدر پادہ سُنَد اُکھ بوڈنغاناہ تہ یقینک ذریعہا قیامتہ حق آسک۔ کس مہ کرو تہہ لوکھ قیامتس منز مگرہ قسمہ
شک تہ ترد۔ بیہ کرو میانی پیروی تہ تابعداری هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بیہ چھہ سیز و تھہ یوسہ بہ توہہ
ہاوان چھسورہ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ بیہ چھہ شیطان توہہ اتھہ سیزہ و تھہ
پیٹھ پچھہ نشہ پتھہ رُتہ تہ ذالہ کیا زہ بے شک سہ چھہ ناتھند نون دشمن و لَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ
جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلاِبَيِّنٍ لَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ تو پتہ بلہ پانہ او عیسیٰ علیہ السلام نون معجزات تہ
نہ ذلیلہ ہتھہ۔ لوکن دوہن بہ آس توہہ نشہ عقلہ ہنز مکتہ ذلیلہ ہتھہ۔ بیہ آس بہ توہہ نشہ ہتھہ بہ صاف
گرہ تم مسئلہ تہ احکام سمن منز توہہ اختلاف تہ قضیہ کران چھوہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا کس کھوژو
خدا لیہ سندس عذابس۔ میان مخالفت مہ کرو۔ میانس نبوتس مہ کرو انکار بیہ کرو میان فرمانبرداری اِنَّ
اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ اکی ہتھہ میون پروردگارتہ چھند
پروردگارتہ۔ کس کرو تھنرے یا تہ عبادت تہ پرستش بیہ چھوہ توحید، پرہیزگاری، فرمانبرداری، سیز
و تھہ مگر باوجود وضاحت فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ کس کور تمومنزہ وار یہو جمائو اختلاف عیسیٰ
علیہ السلامہ سندس حقس منز۔ اذ بود پ سہ ہتھہ خدا یو دوپ سہ ہتھہ خدا لیہ سُنَد چو۔ یو دوپ تریو خدا لیو
منزہ چھہ سہ اُکھ خداہ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ کس سمن ظالمن یعنی مُشْرِك اہل

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا
 تَأْكُلُونَ ﴿۴۴﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۴۵﴾
 لَا يُفْتَرَعْنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۴۶﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ
 لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۷﴾ وَنَادُوا يٰلَيْلِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا
 رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُّكْتُوبُونَ ﴿۴۸﴾ لَقَدْ جُنْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ
 أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿۴۹﴾ أَمْ أَبْرُمُوا أَمْ أِنَّا مَبْرُمُونَ ﴿۵۰﴾

چھ تمہیں جتن اندر روزن ہمیشہ ابد الابدیہ تکھ وندہ وَاِنَّكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُوْرِنْتُمُوْمَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 یہ جنت جس توہمہ وراثتہ پائٹھ دنہ آؤ تمہک تہمہ مالک بناونہ اوہ یہ چھ توہمہ بدلہ تمہ عملن ہند سمہ تہی
 دنیاء س منز کران اسوہ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ جہند خاطرہ چھہ اتھہ جنس
 اندر واریاہ میوہ تمہوے منزہ چھوہ تہمہ کھیوان یہ گوہا ایمان ہند حال امہ پتہ چھہ کافر ن ہند حال بیان
 یوان کرنہ اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ بے شک نافرمان یعنی کافر روزن جہنمہ کس
 عذابس منز ہمیشہ لَا يُفْتَرَعْنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ سوژاوند تہ کم یہیہ نہ کرنہ تمہ نشیہ سہ عذاب۔
 بلکہ تم روزن تھہ عذابس اندر مایوس تہ ناامید وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ اسہ کورنہ
 تمہن پیٹھ کٹھہ قسمہ ظلم لیکن تم اس پائے ظالم کفر و شرک کرنہ سببہ وَنَادُوا يٰلَيْلِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ
 آلودن تم نافرمان لوکھ (جہنمہ کس داروغس) اے مالک تھہ معتہ پنہ نس پروردگار سہ کرہ ہا حکم سائہ
 مرنگ دیوہ تمہہ سیت سمہ عذابہ نشیہ موکلہ ہو قَالَ إِنَّكُمْ مُّكْتُوبُونَ سہ دیکھہ جواب تہمہ چھوہ روزہ ون
 ہمیشہ اتھہ عذابس اندر نہ چھوہ توہمہ مرن تہ نہ چھوہ امہ منزہ نیران لَقَدْ جُنْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ
 أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ بیشک اسہ واتوہہ توہمہ نشیہ بنمبرن ہندہ ذریعہ پوزدین مگر توہمہ اندرہ وارہن لوکن
 اوس پوزدین کھران أَمْ أَبْرُمُوا أَمْ أِنَّا مَبْرُمُونَ پیغمبرس تکلیف واتوانہ خاطرہ کورتمو کاہنہ انتظام
 درست لہذا کور اسہ تہ اکھ انتظام درست یہ تھہ چھہ ظاہر کہ خدائی انتظامس مقابلہ کیاہ چلہ تھند انتظام۔

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ
 يَكْتُبُونَ ﴿۸۱﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ﴿۸۱﴾
 سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۸۲﴾
 فذَرَهُمْ يَبْغُضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۸۳﴾
 وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ
 الْعَلِيمُ ﴿۸۴﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

چنانچہ تم ردی محفوظ تہمہ شرہ نشہ۔ تہمہ دشمن سپدی ناکام پنہ نین تدیرن اندر اَمْرٌ یَحْسِبُونَ اَنَّا لَآ
 نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیاہ تمہن چھا گمانہ کہ اَس کیاہ جھنہ بوزان تہنزہ پوشیدہ تہ لوتہ لوتہ
 کتھ بیہ تہنزہ پھسرایہ تہ خفیہ مشورہ بے شک جھہ اَس بوزان تہمہ سوزے بلی وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ
 یَکْتُبُونَ بلکہ جھہ سانی خفیہ پولیس ملک تہمہ سوزے تمہن کتھ کل روز تھہ لیکھتھ تھوان قُلْ اِنْ
 كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَبْدِیْنَ فرماو یو کہ تھہ یار سول اللہ ہر گاہ رحمتہ و اہلس خدائیس اولاد آسہ ہن
 بہ او س تیلہ گوڈہ نیک پر سترش کرہ ون تس۔ مگر اللہ تعالیٰ جھہ تمہہ نشہ منزہ تہ پاک سُبْحٰنَ رَبِّ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ منزہ تہ پاک جھہ سہ آسمان تہ زمین ہنہ مالک اُس عرش
 مجید ک مالک تہ جھہ، تمہو ساروے کتھو نشہ بیہ کتھہ کافر تس کن لاگان چھہ فذَرَهُمْ یَبْغُضُوا
 وَیَلْعَبُوا حَتَّىٰ یُلْقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی یُوْعَدُونَ اُس تراو کہ تم آتھہ پنہ نس شغلس اندر یوتان تم سمکھن تھہ دوہس
 سمیک تمہن وعدہ کرنہ یوان جھہ یعنی قیامتگ دوہہ تمہہ نشہ ترن پانے۔ یعنی تہمہہ مخالفک مہہ کرو کاہنہ
 اندیشہ۔ تہمہہ ایمان نہ انہ ٹک مہ کھبو کاہنہ غم وَهُوَ الَّذِیٰ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلٰهُ وَهُوَ
 الْحَكِیْمُ الْعَلِیْمُ سہ پروردگار گوئے اُس آسمان اندر تہہ معبود جھہ اہل ساواتن ہنہ۔ زمین اندر تہہ
 معبود جھہ زمینہ کین لوکن ہنہ بیہ جھہ سہ بوڈ حکمتہ وول سیٹھاہ زانن وول وَتَبَارَكَ الَّذِیٰ لَهُ مُلْكُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بیہ جھہ سیٹھاہ عالی شان سہ ذات پاک اُس آسمان تہ زمین ہنہ بیہ تمہہ

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۵﴾ وَلَا يَسْبِقُكَ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
 يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى
 يُؤْفَكُونَ ﴿۸۷﴾ وَقِيلَ لَهُ رَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾
 فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾

سارے کی یہ تمن منزا باگ چھہ حاکم تہ پادشاہ چھہ۔ تم سزے سلطنت چھہ قائم پر چھہ جاہ تہد علم چھہ
 تھے کامل کہ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ قیاح تخمیر تہ علم چھہ خاص تسی یوت بیہ چھہ تیج خبر کانہہ اگس۔
 بیہ چھہ سے جزاء و سزاؤک مالک وَاللَّيْئُوتُ تُرْجَعُونَ چنانچہ تہ ساری ایومرنہ پتہ بیہ زندسید تھ حساب
 دنہ خاطرہ اُس گن واتانہ وَلَا يَسْبِقُكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
 يَعْلَمُونَ بیہ چھہ کانہہ اختیارہ تمن معبودان باطن تمن تم خدا اُس ورائے معبودانان چھہ سفارش
 کرہ تک تہ مگر کرن شفاعت تھے لو کہ سمو گواہی و ژمژ آہہ پزج یعنی پزس خدا اُس آسیکھ اقرار کورمت
 درحالیہ کہ تم اُس پور زانان یعنی دن اندر تہ آسیکھ پورہ تھہ۔ تھے کرن شفاعت فقط بایمان گنہ گارن۔
 مخر کن تہ کافرن چھہ توتہ کانہہ فائدہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ بیہ
 ہر گاہ تھی تمن کافرن پر ژھویار سول اللہ تم کم کم پادہ ضرور دپنہہ جواب کہ اللہ تعالیٰ اُن گر اُس
 پادہ۔ یہ اکھ مقدمہ سید ثابت تہندہ تسلیم کرنہ سیت دویم مقدمہ چھہ بدیہی۔ عبادتس سزاوار چھہ مگر
 سے اُس قادر آہہ پادہ کرہ اُس بیٹھہ۔ بدیہی تہ چھہ ملے ہیو، اُس چھہ تیم لو کہ مقدمائے مانان۔ مگر
 مطلوب مانہ کہ وقتہ خبر کو گن چھہ گڑھان وَقِيلَ لَهُ رَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ مہ چھہ قسم پینمبر
 برحقہ سہد یارب ونہ ٹک، بیشک تم لو کہ چھہ تھی سجدل کہ یم ہر گز ایمان اُن نہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ
 سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اُس بھر وجہہ تمن نشہ روی سخن یعنی تراؤو تمن تبلیغ کرن۔ تمن دپو میان چھہ
 سلام۔ میہ چھہ توبہ سیت کانہہ تعلق۔ بروٹھ پھن زانن تم پائے تمن کیاہہ اتھ روگردانی کرہ اُس
 پیٹھہ۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 حَمْدًا ۱ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ
 إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۳ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۴
 أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۵ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۶ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا إِنَّ
 كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۷ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ

حکم سے ہم چھ زہ حرف مقطعاً تو آندرہ۔ تم ہند معنی زانہ پانہ پروردگار وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا
 أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ قسم ہتھ سمعہ مقدس کتاب ہند یوسہ بیان کرہ وئی ہتھ
 احکامن حلال و حرامس تہ حق و باطلس۔ بیہ کمر آسہ سو کتاب یعنی قرآن مجید نازل لوح محفوظہ پیٹھ آسمان و میاعس
 گن ہارکت شمس اندرہ کمبازہ آس ہتھ لوکن تہندہ شفقتہ موکھ اتھ قرآن مجیدس اندر تم چیز بیان کرہ وئی تم
 تمہن مضر ہتھ، پتہ عدلہ سمیت کھوڑہ ناوہون فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اتھ شمس اندر ہتھ پر ہتھ
 حکمتہ وول معاملہ سانہ پیشی تلہ حکم صادر سپد تھ طے یوان کرہنہ أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا ای ہتھ سپدانسانی
 حکمہ سمیت إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ آسی بوجہ رحمت یوسہ تہندس پروردگارہ سندہ
 طرفہ ہتھ توہمہ پیغمبر سوزہون ہتھ تہندہ واسطہ لوکن پور اطلاع سپدہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک سہ
 ہتھ سیٹھاہ بوزن دول تہ سیٹھاہ زان دول رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا نس مالک ہتھ آسمان تہ
 زمین ہند۔ بیہ تمہ سارگے یہ تمہن منز باگ ہتھ إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ اگر تہہ یقین کرہون ہتھوہ لآ إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ کانہہ معبوداہ ہتھنہ نس ورائے سئی ہتھ بدہ نس منز
 زووانہ ناوہون، سے ہتھ بدنہ منزہ زو کدہون۔ بیہ ہتھ سئی تہندہ پروردگار تہندس مالین بدین ہند مالک تہ

الْأُولَئِينَ ۸ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۹ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
 بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۱۰ يَغْشَى النَّاسَ ۗ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۱ رَبَّنَا اكْشِفْ
 عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۱۲ أَلَيْسَ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ
 رَسُولٌ مُّبِينٌ ۱۳ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۱۴ إِنَّا

مردودگار بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بلکہ چھہ تم توحید وغیرہ پر نہ تھوڑے شکیس منز۔ دنیا کس کس بند کس
 درو کہ کس سیت مصروف۔ آخر حج چھکنہ کا نہہ فکرے۔ وون یلہ سم لو کہ پوزواضح تہ صاف سپد تھہ تہ
 مأن نہ کینہہ **فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ** کس پیاروتہہ تہمدہ خاطرہ تھہ دوہس سمہ دوہہ
 آسمانہ طرفہ اکھ دہ ہاوزنہ یہہ کس سارنہ درینھی آسہ یوان **يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ** سہ یہہ
 ولنہ لوکن تم دمن یہہ چھہ عذابہ دگ تلمہ ون۔ امہ اندرہ چھہ مرادسہ قحطیتھ منز اہل مکہ بتلا سپد۔
 سمیک سبب اوس بددعا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہیلہ تمبو سخت تکلیف ہیوت دمن نبی
 کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم یہہ مسلمان۔ ظاہری سبب سپد امہ قحطک کہ حضرت ثمامہ سم شہر یمامک
 بڈی رئیس اس سپدے مسلمان۔ مکہ کیو کافر و ہنزہ تم سخت ملامتھ کرن تھہ پیٹھ۔ تمو کور شہر یمامہ پیٹھ
 مکس گن غلہ سوزن بند۔ مکس گن اوس یمامہ پیٹھ غلہ یوان۔ پیاری کن سپز بارش تہ بند مکک لو کہ ہتین
 بوچھہ سیت مخرن قایدہ چھہ سخت بوچھہ ہمدس حالس اندر خشک سالی ہندس و قس اندر چھہ ہوزنہ
 یوان آسمانکہ طرفہ دہ دوتھان۔ عرض مکک لو کہ یلہ سخت تنگ سن قحطہ سببہ تم لگن عاجزی کرنہ تم ہن
 دُعَاؤُن رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اے سائہ پروردگارہ دور کرتہ آسہ نغیر یہہ قحطک عذاب۔
 بے شک اس انووون ضرور ایمان۔ چنانچہ یہہ پیشین گوئی سپز چھہ پانھی پورہ کہ اوسفیان یہہ بھٹیو قریشو
 لیٹھ نبی کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم سہ ہٹہ کر تودعاے خیر یہہ کر تو ثمامہ یمانیس فہمایش سہ سوزہ ہادیہ
 غلہ۔ یہہ کور اوسفیان وعدہ پننہ مسلمان سپد نگ۔ چنانچہ امہ بروندھ گن چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان سہ وعدہ
 اوس نہ بصدق دل **أَلَيْسَ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ** سم لو کہ کھ پانٹھ رٹہ ہن نصیحت

كَاشَفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿۱۵﴾ يَوْمَ نَبِّئُشُ الْبَطْشَةَ
 الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ
 جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿۱۷﴾ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
 أَمِينٌ ﴿۱۸﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ اللَّهُ إِنِّي إِلَيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۱۹﴾ وَإِنِّي

امہ عذابہ سیت سیمہ سیت تہمدہ ایمانگ توقع یہ ہاتھاونہ حالاحہ تم نرہ واژوو پیغمبر ہتھہ شاگ
 ویرھہ ناوہون تھوگوا عنہ وقالوا معکم لجنون توپتہ تہ کرمو تہس پیغمبرس نرہ سرتابی تہ ای لگ
 ومنہ کہ یہ چھ موتاہ کم تان سیمہ تھہ بچھ نوومت انا کاشفوا العذاب قلیلا انکم عایدون اسی گروحت
 پورہ کرنہ خاطرہ کینہہ کالاہ تمن نرہ یہ عذاب دور مگر تھہ کمر وہیہ تی یہ کران آہو۔ کفر تہ تا فرمانی۔ چنانچہ
 یہ پیشین گوئی سہزیتھہ پانٹھ پورہ کہ نبی کریمو صلی اللہ علیہ وسلم کور دعاتوپتہ پیژورود۔ یہہ لیوکھ تھہ تمامہ
 یمائش تم سوزغلہ۔ مکہ کین لوکن سہز فارغ البالی میسر پریشانی گیکھ دور۔ مگر تھہ سنا کرہ ہن تم ہن
 وعدہ پورہ۔ یہہ ہیوکھ تی کزن یہ کران آس یوم نبیش البطشہ الکبریٰ انما منتقمون اذہ سیمہ دوہہ رٹو کہ
 آس تھہ بوڈ سخت رٹہ وناہ تھہ دوہہ تھہ وکھ نہ۔ آس گئے تھہ دوہہ پور انتقام ہنہ وال ولقد فتنا قبلہم
 قوم فرعون و جاءہم رسول کریم البتہ یہ کمر اسہ آزمائش تمن بروٹھ فرعونہ سندس قومس سیمہ
 طریقہ کہ آو تمن نرہ پیغمبر ہتھہ وول یعنی موسیٰ علیہ السلام ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین
 تم فرمو کہ اے قوم فرعون کریو کہ میہ حوالہ خدایہ سند بندہ بنی اسرائیل توہہ رنگارنگ تکلیف
 چھو کہ کمر مت۔ پتہ غلامی نرہ کریو کہ تم آزاد۔ بہ چھس خدایہ سندہ طرفہ پیغمبر ہتھہ امانت دار۔ بہ
 چھسوہ نہ کانہہ کتھاپتہ طرفہ ونان میہ ئس حکم خدایہ سندہ طرفہ واتان تھہ بہ چھس تھہ حکم توہہ نرہ
 واتان۔ لہذا پڑہ توہہ تعمیل احکام کزن۔ وان لاتعلوا علی اللہ انی ایتکم سلطان مبین یہہ فرمو کہ
 کہ مہ کمر و سرکش خدائس نرہ۔ بہ چھس توہہ نرہ امت یعنی دلیل ہتھہ پتہ بیوتج یعنی عصا تہ ید بیضا۔ یلہ
 فرعون تہ تہند قومس مون نہ بلکہ ہیوکھ مشورہ کزن موسیٰ علیہ السلام سہہ تھک تہ مارنگ وانی

عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ۚ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُونِ ۖ ﴿۳۱﴾
 فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَأَنَّ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ۖ ﴿۳۲﴾ فَأَسْرِعْ بَعَادِي لَيْلًا
 إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ۖ ﴿۳۳﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُوَ إِتْمَعُوا جُنْدًا مُعْرِفُونَ ۖ ﴿۳۴﴾
 كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ ۖ ﴿۳۵﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۖ ﴿۳۶﴾
 وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۖ ﴿۳۷﴾ كَذَلِكَ تَضَاءُ أَوْرَثْنَا قَوْمًا آخِرِينَ ۖ ﴿۳۸﴾

عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ یہ جھس پنہ نس خدا نئس نھند خدا تہ جھہ پناہ منگان تہہ کیا کر و میہ شہید کنہ لائی لائی وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُونِ ہر گا تہہ میہ پڑھ کر ونہ تیلہ روز و میہ نشہ الگ۔ یہ دنتہ تہ رود تم موسیٰ علیہ السلا مس تکلیف و اتنا وان فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَأَنَّ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ نس مونگ دعا موسیٰ علیہ السلا مس پنہ نس پروردگار س یا اللہ تم جھہ سخت شری لوکھ۔ میہ وہ نجات بہندہ شرہ نشہ۔ اللہ تعالیٰ ان فر موو کھ اے موسیٰ اسہ کور نھند دعا قبول۔ وون ووت بہندہ فاصلک وقت فَأَسْرِعْ بَعَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ نس کر اسہ حکم موسیٰ علیہ السلا مس کہ تہہ نیر و میان بندہ بنی اسرائیل بیتھ رائزی منز۔ برو نھہ یہ و تہ اندر توہہ دریا و۔ تہہ لائی زہ تھہ دریا و س لورہ سیت ژنڈ۔ سہ سپدہ خشک۔ سہ دیہ توہہ اپور تہہ خاطرہ و تھہ تہہ یلہ بنی اسرائیل بیتھ اپور تہہ دریا و روزہ اتھہ حاکس پیٹھ۔ تہہ کمر زہ نہ کا نہہ فکر خبر چھا فرعون تہہ مایہہ سہ تہہ ما و سہ اتھہ دریا و س اندر تو پتہ ماترہ اپور۔ ایچ فخر تہہ اندیشہ کمری زہ نہ تہہ کینہہ تہ۔ کیا زہ توہہ پتے نیرہ فرعون لشکر بیتھ توہہ گرفتار کرنہ خاطرہ۔ رات رائی نیر نہ سیت ہیکہ نہ سہ توہہ رتھہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُوَ اِتْمَعُوا بَلْحَم تہہ تہہ تہہ دریا و پنہ نس حاکس پیٹھ بیتھ فرعونہ سنز لشکر تہہ دریا و س منز و سہ۔ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُعْرِفُونَ بے شک سو لشکر چھہ دریا و س منز و اتھہ پھند و نی تہہ غرق سپدہ و نی۔ تو پتہ یلہ تم پھٹ تہہ ہلاک گئے كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ بیتھ کن ترا و تمو کا تیاہ باغ یہہ کا تیاہ ناگہ را و۔ کوتاہہ زراعتک زمین یہہ کا تاہ عمدہ جاہہ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ یہہ عیش و آرامک سامان بیتھ منز خوشالی آس آسان كَذَلِكَ تَضَاءُ نافرمان سیت جھہ آس

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿۲۹﴾ وَلَقَدْ
 بَخَّيْنَا بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ مِنْ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۳۰﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
 كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى
 الْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾ وَاتَّيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ﴿۳۳﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ
 لَيَقُولُونَ ﴿۳۴﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَمْوَاتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿۳۵﴾
 فَاتُوا يَا بَنِي آدَمَ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۶﴾ أَهْمُ خَيْرًا مَقُومٌ تَبِعَ لَا وَ

یوہے معاملہ کرانِ اَدْنٰیہَا قَوْمًا خَیْرًا مِمَّنْ سَارَىٰ جَہنمہ مال و دولتکب وارث بناو اُسہ پیہ لوکھ یعنی بنی اسرائیل فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ کس وود نہ تمین پیٹھ نہ آسمان نہ نہ زمین پیہ اَس نہ تم مہلت دہ آمتی یعنی تمین آہ نہ مزید مہلت دہ وَلَقَدْ بَخَّيْنَا بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ مِنْ الْعَذَابِ الْمُهِينِ الْبَيْتِ ذِيْتِ اُسہ تھے یا ٹھ نجات بنی اسرائیل سخت ذلت کہ عذابہ بشرہ مِنْ فِرْعَوْنَ یعنی فرعون سہہ ظلم و ستم بشرہ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِيْنَ بے شک سہ اوس سخت سرکش سیٹھا حدہ بشرہ ذلہ و نیو آندرہ۔ اکھ نعمت کمر اُسہ بنی اسرائیل پیٹھ یہ کہ نجات دیتکھ فرعون سہہ شرہ بشرہ اُسہ علاوہ کمر کہ بیاکھ نعمت وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ بیہ دژ اُسہ فوقیت بنی اسرائیل تمہ زمانہ کین بین لوکن پیٹھ پتہ علم و حجتہ موجب وَاتَّيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ بیہ دت اُسہ تمین پتہ قدر تک تھے نشانہ کن منز جہنمہ تھی انعامات اَس من و سلوی وغیرہ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُوْنَ * اِنْ هِيَ إِلَّا اَمْوَاتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِيْنَ بیشک ہم کافر جہہ قیامتک و عید بوز تھ قیاس انکار کران۔ تو پتہ جہہ و نان سانِ اخیرى حالت جہہ پیٹھ کہ اُسہ جہہ دنیاس اندر مرن۔ تو پتہ جھنہ اُسہ بیہ زندہ سڈن۔ یعنی اخیرى حالت سانِ حیاتِ اُخروی جھنہ بلکہ جہہ اخیرى حالت موت دنیوی۔ اُسہ جھنہ مگر اکی لہ مرن تو پتہ سمونہ اَس بیہ زندہ کرنہ فَاتُوا يَا بَنِي آدَمَ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے مسلمانو ہر گاہ جہہ مرن پتہ بیہ زندہ گرھنہ کس اعتقادس منز پز زیر جھوہ زیادہ انتظار کیا جہہ کزان تیلہ اَن توکھ سان سال پڈب تم سپدن

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۳۵﴾ وَمَا
 خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿۳۶﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا
 بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ
 مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۸﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا
 هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۹﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۴۰﴾
 إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ﴿۴۱﴾ طَعَامُ الْإِثْمِ ﴿۴۲﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي


بہ زندہ اَمْحَقُوا مَرْقُومًا نَجِيمًا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كِیَاہ سَنَاتِم قَرِیش چھا تو تس تہ شو کس منز زیادہ کنہ
 شیخ (سمہ کس پادشاہ) سہ قوم یا سہم لو کہ تم برونٹھ آس عا دو شو دو وغیرہ اَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ
 آسہ وچہ نہ تم کینہہ۔ آسہ کمر تم ہلاک تہ برباد۔ کیا زہ تم آس سخت تا فرمان۔ ہر گاہ یم قریش منک
 کافر تا فرمانی لشہ با زمین نہ سہم تھہ کنتی بچاؤن سانہ عذابہ لشہ پن پان وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ بہ گرنہ آسہ پادہ آسمان تہ زمین بہ یہ تم منز ہتھہ سمہ طریقہ کہ آس کیاہ آس اکھ
 عبث تہ بے ہودہ کا ماہ کران مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ آسہ یلہ تک سم ہتھہ بڈ مخلوق پادہ کرن آسہ نش کیاہ
 عجیب ہتھہ انسان مر نہ پتہ بہ زندہ کرن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لو کہہ چھہ زانان إِنَّ
 يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ہنز پانٹھ فیصلک دوہ یعنی قیامتک دوہ چھہ سارنہ ہندہ دوبارہ زندہ
 سہد تک بہ جزاء دیک وقت مقرر کرنہ امت يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ سمہ
 دوہ نہ کانہہ تعلق دار کانہہہ تعلق دار اس بکار بہ نہ بہ سمہ کانہہ ہندہ طرفہ کانہہ مددے کانہہہ واتھہ إِلَّا
 مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ مگر سم پٹھہ اللہ تعالیٰ ان رحم کو مرت آسہ یعنی با ایمان تم بہ یہ
 یاری تہ مدد کرنہ بہ گرن تم تہ مدد اکھ آگس شفاعتہ سیت۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ غالب تہ زبردست۔
 سمہ بہ کافر نہ لشہ انتقام۔ کس سہ وکرہ تہ بیزار آسہ کس بہ سمہ نہ مدد کمر تھہ کانہہ بہ ہتھہ سہ رحمتہ وول
 سمہ ہمز رحمت شامل حال آسہ تم دیہ سہ شفاعتک مرتبہ إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ * طَعَامُ الْإِثْمِ *

فِي الْبُطُونِ ﴿٢٥﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴿٢٦﴾ خُدُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ
 الْحَمِيمِ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ صُوبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٢٨﴾
 ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٢٩﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ
 تَمْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٣١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٣٢﴾
 يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٣٣﴾ كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ
 بِحُورٍ عِينٍ ﴿٣٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِحُلٍّ فَاكِهَةٍ أَمِينٍ ﴿٣٥﴾ لَا يَدْخُلُ فِيهَا

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلِي الْحَمِيمِ پز پائٹھ زو تک کل ہتھ نافرمان ہند غذا۔ سمیگ رنگ
 آسہ بلکہ ہند۔ سنی آسہ گریکان تہنزن یڈن منز ہتھ پائٹھ آہ رسر چھہ دیچہ منز گروہہ تہ کران۔ خُدُوهُ
 فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْحَمِيمِ اللہ تعالیٰ فرماوہ عذابہ کین ملکن ریٹون یہ کافر تو پتہ نیون کھکھرہ۔
 تراویون منز باگ جہنمئس ثُمَّ صُوبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ تو پتہ تراوواہس کلہ بیٹھی
 سورسراہ سمہہ سیت زیادہ عذاب واتیس۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ عذابک ملکہ ونہ نس وچھہ
 مزہ سمہہ عذابک۔ بے شک ژہ او سکھنا پنہ نس قومئس منز بوڈتہ ژیتھ پائس زانان یہ چھہ ژیہ تعظیم و
 تکریم کرنہ یوان۔ ہتھ پائٹھی ژہ پنہ نس پائس معظمہ و مکرسم زانتھ سائین احکامن تحقیر تہ عار او سکھ
 کران جہنمین یہ ونہہ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ بے شک عذاب کیاہ گووسی ہتھ توہہ شیکھ آسوہ
 کران إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ بے شک ہم خدائس کھوژہ ون آسن تم آسن امن و آراچہ جایہ
 منز محفوظ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ یعنی باغن تہ ناگہ راڈن منز يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ نال
 لاگن تم زاوول تہ موٹہ پاکک جامہ اکھ اگس سیدہ سیود آسن بہتھ۔ كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ یہ
 گرواَس تمن نیتھر جنہ چن حورن سیت یہہ پرہنہ تہ اچھہ و ہتھ کمر تھ آسن يَدْعُونَ فِيهَا بِحُلٍّ فَاكِهَةٍ
 اَمِينٍ مگھ ناوان آسن تم جتنن منز اطمینان سان پرہتھ میوہ لَا يَدْخُلُ فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةُ
 الْأُولَى ژکن نہ تہہ موٹک مزہ مگر سنی گوڈیک موت سمیگ مزہ تموود نیاءس منز ژمٹت آسہ یعنی تہہ

فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿۵۷﴾
 فَضَلَّامِن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵۸﴾ فَأَتَمَّا يَسَّرْنَاهُ
 بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۹﴾ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿۶۰﴾

مَرَن نہ تم زانہہ تہ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ بیہ رَہجہ تمَن اللہ تعالیٰ جہنمہ کہ عذابہ نَشہ فَضَلَّامِن رَّبِّكَ یہ سورے آسہ تمَن جہنمَس پروردگارہ سُنَد فضل تہ مہربانی ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کبھی گبیہ بڈرستگاری تہ کامیابی فَأَتَمَّا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ یہ قرآن مجید کور آسہ سہل تہ آسان امی موکھ جہنمہ لُغتہ یعنی بزبانِ عربی تہ تمَن لوکن فکرہ تہ تمَن تہ تمَن نصیحت رُشَن یلہ نہ اُمہ سیت تہ تمَن کینہہ بنہ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ پس پیاریو تہ تمَن کیاہ بنہ تمَن جہنمہ پیارہ ون کہ تہند حال کیاہ سیدہ۔ تہندہ حقہ سیدہ عذاب، تہندہ حقہ آسہ نصرت ویاری





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ② إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ③ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْدئُ مِنْ دَابَّةٍ
 آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ④ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ
 تَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑤ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا

حَمْدٌ اسمِ زہ حروفِ مقطعاتِ اَو اَندَرہ۔ ممن ہند معنی زلہ پانہ خدا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
 اسمِ کتابِ ہند نازل سُپدن چھ اللہ تعالیٰ سندرہ طرفہ نُس سبھاہ غالب چھ سبھاہ جمتہ وول چھ۔ لہذا
 گرہن امکِ مضامین بوزنِ توجہ سان اِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ بے شک آسمان تہ
 زمین منزبہ یہ تمن منز چھ تھ منز چھ واریاہ نشانہ قدر تک تہ توحیدک با ایمان ہمدہ استدلال کرنہ
 خاطرہ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْدئُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ بیہ چھ تھہ پائٹھ تھندس پادہ گرہ نُس منزبہ
 حیوانان ہندس پادہ کرہ نُس منز، سم تمنی زمیںس منز چھکر اوی تمن سارنہ منز چھہ بڈ بڈ نشانہ خدایہ
 سندرہ قدر تک تمن لوکن ہمدہ خاطرہ سم یقین تہ پڑھ تھوان چھہ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تھہ پائٹھ
 چھہ راتہ کس تہ ڈہہ کس اکھ اگس پتہ پیش گوئہ نُس منز، تھہ رزقہ کس ہارس منز نُس آسمانہ طرفہ اللہ
 تعالیٰ تراوان چھہ یعنی رود سمہ سیت مردہ گاقس زمیںس زندہ گر ان چھہ۔ تھہ پائٹھ واؤن ہندس اورہ پور
 پھیر نُس منز چھہ بڈ بڈ نشانہ تمن لوکن ہمدہ خاطرہ سم گائل چھہ۔ ممن عقل سلیم چھہ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَ اللَّهُ وَآيَتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾
 وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْتَكْبِرًا
 كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا
 اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩﴾ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ
 وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَٰذَا هُدًىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ

نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ بِمِجْهَدِ خَدَّيْهِ سَدِّحٌ صَحِيحٌ آيَاتِ سَمِ اسْ بَدَانَ جَهْمِ تَوْبِهِ بِيْطِهِ سَمُو سِيْتِ نَبُوْتِ
 ثَابِتِ سِدَانِ جَهْمِ - لِيَكُنْ هِرْكَاهُ تَهْمِ تَوْبَةٍ مَانُوْنَه فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَ اللَّهُ وَآيَتِهِ يُؤْمِنُونَ بِسِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ بِه
 تَهْمِدُ يُوْتَهْمُوْ اَيَا تُوْبَةٍ تَهْمِ سَنَاتِهْ يُوْسَه اَمَهْ خُوْتَهْ بَدَّ اَسَهْ اَنْ تَمِ اِيْمَانِ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ بَدَّ خِرَابِيْ جَهْمِ
 پَرِيْتَهْ تَهْمِسْ شَخْصَه سِنْدَه خَا طَرَه نِيْسْ عَقَائِدِن اَنْدَر اِيْز يُوْر اَسَه - عَمَلِن اَنْدَر نَا فَرْمَانِ بَدْ كَارِ اَسَه يَسْمَعُ آيَاتِ
 اللّٰهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا نِيْسْ بَاوُجُوْدِ اِيْجِهْ بُوْزَانِ اَسَه خَدَّيْهِ سِنْدِ آيَاتِ سَمِ تَسْ
 بَرُوْتَهْمِ كَنَبَه مَدَنَه بِوَانِ جَهْمِ تُوْبَةٍ تَهْمِ جَهْمِ سَه مَكْتَبَرِ و غُرُوْر كَمِ تَهْمِ كَفْرَسِ بِيْطِهِ ذَا ذِكْرَانِ زَنْ نَه تَمِ تَمِ آيَاتِ
 بُوْزِيْ مَتِيْ جَهْمِ فَبِأَيِّ عَذَابٍ أَلِيمٍ بِسِ وُتُوْبَتِهْ تَهْمِسْ شَخْصَسْ كُدْرَه عَذَابِ بَشَارَتِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا
 شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا يِلَهْ سَه سَانِيُوْ اَيَا تُوْ اَنْدَرَه كِنْتِهْ اَتَجْ خَبْرِ جَهْمِ بُوْزَانِ تَهْمِ جَهْمِ طَهْمَه تَهْمِ مَحْوَلَه كِرَانِ
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مَعْنِيْ لُوْگُنْ هِنْدَه خَا طَرَه جَهْمِ آخِرْتَسْ اَنْدَرِ ذَلِكْ عَذَابِ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ
 وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ تَمْنِ جَهْمِ بَرُوْتَهْ بِوَانِ جَهَنَّمِ تَمَهْ سَا تَهْمِ دِنِ نَه
 تَمِ چِيْزِ تَمْنِ كَانَه نَفْعِ تَهْمِ فَايِدَه بِمِ چِيْزِ تَمُوْ دُنْيَا سْ مَنْزِ حَاصِلِ كَمِ مَتِ اَسْنِ مَالَه تَهْمِ عَمَلُوْ اَنْدَرَه - نَه دِنَكْ
 مَعْبُوْدَانِ بَاطِلِ كَانَه نَفْعِ تَهْمِ فَايِدَه - مَعْنِ مَعْبُوْدِ بَرِ حَقْسِ وِرَا عِ تَمِ مَكْنِ مَدْكَارَتَه كَارِ سَا زَانَانِ اَسِ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تَهْمِدِيْ خَا طَرَه جَهْمِ بُوْ عَذَابِ - اَمَهْ عَذَابِكْ وَجَهْ جَهْمِ اِيْ زَهْ هَٰذَا هُدًىٰ بِه

عَذَابٍ مِّن رَّجْزِ إِلَهِ^{۱۱} اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَجْزِيَ الْفُلْكَ
 فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^{۱۲} وَسَخَّرَ لَكُم مَّا
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^{۱۳} قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
 أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^{۱۴} مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

قرآن مجید چھ سر امر نوڈ ہدایت تہ واجب التسلیم وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ إِلَهِ^{۱۱} سم لو کہ انکار چھہ کران پنہ نس ہروردگار سندین آیاتن۔ تہندہ خاطرہ چھہ عذاب دگ تہ دودنلہ ونہ عذاب منزہ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَجْزِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ^{۱۲} معبود برحق گووسی سم تہندہ نفعہ خاطرہ مسخر قدرت کمر دریاو۔ تہندہ ناہ تہ جہاز کن تہندہ منز تہندہ حکمہ سیت وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^{۱۳} بیہ تہندہ تمن جہازن منز سوار سید تہ ژہانڈ و تہندہ خدایہ سند فضل تہ رزق بیہ تہندہ تہ سہ رزق حاصل کرتہ شکر گذاری کمر و تہندہ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^{۱۴} تہندہ پاٹھ سم چیز آسمان تہ زمین اندر چھہ تم ساری چیز کرن پنہ حکمہ سیت تہ پنہ فضلہ سیت مسخر قدرت تہندہ تہندہ نفعک تہ فایدک سبب بن۔ ہنر پاٹھ اتھ منز چھہ بڈ نشانہ تہ آیات تمن لوکن ہندہ خاطرہ سم فکر کرن تہ غور کرن کہ سم چیزیلہ سانہ خاطرہ چھہ کامہ لگ مت اسہ تہ ما پزہ ہاپنہ تہ کامہ سیت سمہ خاطرہ آس خدائن پادہ کمر مت آس لچھ روزن قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ^{۱۴} فرماو تہندہ یارسول اللہ با ایمان تہ درگذر تہ عفو کرن تمن لوکن سمن نہ پڑھہ تہ امید چھہ اللہ تعالیٰ سندین آخروی معاملن ہنر یعنی سم آخر تک منکر چھہ۔ بیہ اللہ تعالیٰ نیکو کارن ر ژ مزدوری عطا کرہ تہ نافرمان عذابس گرفتار کرہ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^{۱۴} تہندہ اللہ تعالیٰ آگس قومس یعنی با ایمان تمن ر ژن عملن ہند رت ثواب عطا کرہ سمہ تم کران آس کیا زہ تس نش چھہ قاعدہ کلیہ سمہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ نُس ا کھاہ ر ژ عمل کرہ تمیک نفع تہ ثواب چھہ تس پانس وَمَنْ

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ
 آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَابِنَاهُمْ أَن رَّبَّكَ
 يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷﴾

اَسَاءَ فَعَلِيَهَا یہ نُس اکھا ہتھ عمل گرہ تمیک ضرر ہتھ نُس پانس ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ توپتہ الیوجہ ساری واتانہ پنہ نُس پروردگار س نشہ ہتھ یہ توہرہ رژن عملکن تہ رتین اخلاقن ہند رت بدلہ عطا کرنہ۔ ٹھندین مخالفن یہ کفر و شرک تہ معاصین ہند ہتھ عذاب کرنہ۔ لہذا پڑہ نہ توہرہ معاملہ پنہ نُس اٹھس منز ہتھ تمن یہ تہ تہ قسمگ سزادین توہرہ پڑہ درگذر تہ غفوعے کرن۔ البتہ اگر اعلائی کلمتہ اللہ خاطرہ تمن سیت باقاعدہ جہاد یہ کرن ہتھ جھنہ کا نہ چارہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ نبوت و ہنہ کا نہ نو چیزہ ہتھ انکار۔ یہ کرنہ۔ چنانچہ آکرہ بروٹھ کرا سہ عطا بنی اسرائیلن اکھ کتاب آسمانی یہ حمت یعنی علم احکام یہ نبوت یعنی تموا آندرہ کرا سہ بیغمبر پیدا۔ یہ کھیواوی اسہ تم پاک و پاکیزہ نفیس نفیس غذا میدان نہیں منز کور اسہ تمن پیٹھ من و سلوا نازل۔ یہ بناوی اسہ تم ملک شاکم مالک نُس برکات ارضیک منع ہتھ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یہ دیت اسہ تمن فضیلت پنہ وقتہ کین سارنے لوکن پیٹھ بعضے چیز و سیت مثلاً بحر قزقس باہ کوچہ کرنہ سیت۔ یہ او برہ کہ سا بنانہ سیت وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ یہ دژہ اسہ تمن دینہ کس معاملس منز نہ دلیلہ یعنی تمن ہاونی معجزات۔ نُس پڑہ ہائین پورا طاعت تہ فرماں برداری کرن فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَابِنَاهُمْ مگر تموا کور اختلاف پانہ وان علم حاصل سپنہ پتہ اکھ اک سندرہ ضدہ تہ عداوتہ موکھہ لَان رَّبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک ٹھند پروردگارہ کرہ فاصلہ تمن منز قیامتگ دوہ تمن سارنے چیزن منز تمن منز تمن اختلاف کران اس۔ توپتہ بنی اسرائیلن اندر

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾ إِنَّكُمْ لَن تُعْنَوْنَ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ
إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹﴾
هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ
حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۲۱﴾

دوره نبوت ختم کر دہنہ پتہ۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ تو پتہ ڈیت اُسہ نبوت تو بہ۔ اُسہ کمر وہ
تہہ یار رسول اللہ دینہ کس اُس خاص طریقہ پتہ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لہذا پتہ
تہہ تہہ طریقہ پتہ یعنی عملہ کن تہہ تبلیغہ کن تہہ۔ تہہ مہ کرو پیر وی تمن لو کن ہنز تمن نہ حقیقت حاج
کہنی خبر تہہ۔ تہزہ خاہشہ موجب مہ پکو تہہ۔ تہزہ خاہش تہہ کہ تہہ تراود تبلیغہ کرن ﴿۱۸﴾ لَن تُعْنَوْنَ
عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا بے شک تم ہمکن نہ کانہہ فایدہ وابتاوت تہہ تو بہ خدا اُس نشہ نہ ہمکن تہزہ کانہہ کامہ
کمر تہہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ بیشک ظالم یعنی مشرک تہہہ اوی اؤین
ہندی دوست اکہ اگی سزہ تہہ مانان۔ اللہ تعالیٰ تہہہ دوست پر ہیز گارن تہہ اہل تقویٰ ان ہند۔ اہل
تقویٰ تہہہ خدایہ سُدے حکم مانان۔ تہہہ ہجوہ رئیس المتقین۔ تو بہہ تہہ پزہ اللہ تعالیٰ سُد حکم مان ہذا
بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ یہ قرآن مجید اُس تو بہہ عطا آو کر نہ یہ تہہہ عام لو کن ہندہ
خاطرہ عقلہ تہہ دانش مندی ہند سبب یہہ ہدایتک بوڈر یہہ یقینہ والین ہندہ خاطرہ ہڈ رحمت اَمْ حَسِبَ
الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیاہ تم قیاس انکار کردون لو کہ
تم پیچہ کامہ شرک و کفر تہہ ظلم و معصیت تہہہ کران تمن چھا خیال کہ تم کیاہ تھادو کہ آس برابر تمن
لو کن سیت سمو ایمان اون یہہ کر کیہ رزہ عملہ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ تہہہ مران تہہہ زیون
کیاہ آسہ برابرے یعنی با ایمان ہند مران تہہہ زیون کیاہ تہہہ سمہ معنی برابرے کہہ تہہہ پاٹھ تم دنیاوس

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
 كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ
 عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْرَةَ قُرْآنٍ
 يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۳۳﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
 الدُّنْيَانِ مَوْتٌ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ

اندر عقوبت و سزاء لشبه محفوظ اس تھے پائے کیار وزن تم مرند پتہ تہ محفوظ۔ تہ ہر گز بندہ نہ۔ سیمہا بیچہ
 چھہ تہ سیمک تم حکم کران چھہ۔ کیاہہ صحیح دلیلویت چھہ امیک باطل آسن ثابت سپدنت۔ حیات
 اخروی چھہ امی خاطرہ کہ یٹھہ پر یٹھہ اکھاہ پنہ نین نیک و بد عملن ہند ثمرہ تہ نتیجہ حاصل کرہ۔ رژن
 عملن رژ موزور۔ بیچہ عملن بیچہ موزور و خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بہ کمر اللہ تعالیٰ ان آسمان
 تہ زمین پادہ حکمت۔ سو حکمت چھہ ییہ کہہ وَلَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ بہ یٹھہ بدلہ ییہ دنہ پر یٹھہ
 شخصس تمیک یہ تم کورمت آسہ وَّهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لوکن ییہ نہ ظلم کرنہ کئہ قسمہ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ
 هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْرَةَ وچھان چھوہ تس شخصہ سندس
 حالتس گن یم معبود پنہ بنو مت چھہ پنہ نفع خواہش۔ یہ دس منز یوان چھس تس چھہ پیروی کران۔
 اللہ تعالیٰ ان کورسہ گراہ۔ حالانکہ سہ اوس زان پھکان تھوان یعنی پوزاوس سہ بوزان تہ فخرہ اوس
 تران۔ مگر نفسہ چہ خائمشہ اتباع کرنہ سیت سپدسہ گراہ۔ تم بوزہ فن تہ فخرہ خرہ فن دیشس نہ کانہہ فایدہ
 بلکہ کمر اللہ تعالیٰ ان تہمدین کنن تہ تم سندس دس پیٹھ موہر تہمز ن اچھن پیٹھ تروون پردہ تہ ٹھور۔
 امی اتباع ہوا کہ شامتہ، چنانچہ حق قبول کرہ نگ نئس کم زیادہ استعدادہ تس اوس سہ سپدس متحمل تہ
 کمزور قُتُنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ پس کبہ اکھاہ ییچہ چھس شخصس و تھہ ہاوتھہ خدایہ سدہ گراہ کرنہ
 پتہ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیاہہ تم بیانات بوز تھہ تہ چھوہ ناتوہہ فخرہ خران تھہ پائے تھہ پائے توہہ نفعاہ تہ
 فایدہ و اتاواہا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَانِ مَوْتٌ وَنَحْيَا بہ چھہ ونان قیاس انکار کرہ ون کہ سمہ

مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۲۷﴾ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْيَتَابَ إِنِّي
 مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابًا بَيْنَنَا إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿۲۸﴾ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ إِلَىٰ
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾
 وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدُ خَيْرٌ

دنیاچہ زندگی و راعے چھنہ بیہ کا نہہ اُخروی زندگیاہ۔ موت تہ زندگی چھہ ہتھہ دنیاوی زندگی سیت وابستہ۔
 زندگی تہ ہتھہ اکے موت تہ ہتھہ اکے وَمَا هُمْ بِأَلَّا الذُّهُرُ بیہ چھنہ اسہ ماران مگر صرف زمانک
 گردش وَمَا هُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ حقیقتس منز چھنہ تمن اُن کا نہہ خیر اہ۔ تم چھنہ
 بیہ کتھہ ونان مگر پنہ طرفہ بے دلیل اکھ رایاہ قایم کران۔ یعنی آخرتچہ زندگی ہندس انکارہ کرہ کس پیٹھ
 چھنہ تمن نشہ کا نہہ دلیلانہ ہتھہ ہیکان تم اہل حقن ہنزہ دلیلہ ہند کا نہہ جواباہ پیش کمر تھہ۔ چنانچہ
 وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْيَتَابَ إِنِّي مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابًا بَيْنَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بلہ
 پر نہ یوان چھہ تمن پیٹھ اتھ متعلق سان روشن تہ صاف آیات تمن منز مر نہ پتہ بیہ زندہ سپد نک
 مضمون چھہ آسان تہندہ طرفہ چھنہ کتھہ انکار کرس پیٹھ کینہہ تہ دلیل آسان مگر سیت کہ دہنہ لگان چھہ
 کمر توکھ زندہ سان آباواجداد اگر دوبارہ زندہ کرس پیٹھ پوزونان چھہ۔ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّبُكُمْ تہہ فرماویا
 رسول اللہ یمن لوکن اللہ تعالیٰ چھہ توہہ (عندہ وقس تام ہتھہ عالس منز) زندہ تھادان ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ امہ
 پتہ دہیہ سہ توہہ موت ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ امہ پتہ کرہ سہ توہہ جمع الی یَوْمِ الْقِيَامَةِ قیا تمکس دوہس تام
 لَا رَيْبَ فِيهِ اتھ منز چھنہ عندہ قسمک کا نہہ شک و شبہ یعنی قیا تمکس نیس تہ تہندس امہ دوہہ جمع
 آسئس منز چھنہ کا نہہ شک تہ شبہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوکھ چھنہ بیہ زانان تہ
 کتھان۔ اکثر لوکن ہندہ آنجان لاگنہ سیت یانہ کتھہ سیت یانہ زانہ سیت پیہ نہ قیا تمکس حق آسئس پیٹھ
 کا نہہ اثر۔ یا تھہ منز گورھنہ کا نہہ شک تہ شبہ پیدہ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بیہ (چھہ یثہ حقیقت

الْمُبْطُلُونَ ﴿۲۷﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِثَةً تَسْكُلُ أُمَّةٌ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا
 الْيَوْمَ تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ
 بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۹﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْمُبِينُ ﴿۳۰﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
 فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۳۱﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ


زہ) آسمان سے زپنج بادشاہی چھہ اللہ تعالیٰ ہس۔ ساری آسمان سے زمین چھہ تہس ماتحت و یوم تقوم
 الساعۃ سے سمہ دہہ سوگر یعنی قیامت برپاسد یوم یقضی المبطلون تمہ دوہہ گڑھہ گائے گائے
 آپرس پیرو کرن والین۔ یعنی یم حق تراوتھ کنہ مصلحتہ خاطرہ چھہ آپرس ساتھ دوآن۔ آپرس چھہ پیروی
 کران۔ تمن پیہ تہہ تاون و تری کل امة جائثہ سے ژہ و چھہن پریتھہ کانہہ آمت ہیبتہ سے خوفہ سیت
 کوٹھین پیٹھہ نمٹھہ کل امة تدعی الی کتباہا پریتھہ کانہہ آمت پیہ بلاونہ پنہ کتابہ یعنی اعمال نامس کن
 پریتھہ آتس پیہ ہاونہ سہ کارنامہ کس امہ کورمت آسہ۔ آتی یس ونہ الیوم مجزون ازپیہ توہہ پورہ
 جزانہ ما کنتم تعملون تھہ سارسے کارس تمن سارنہ کامین یہہ توہہ دنیاہس منز کران آسہ وہ
 ہذا کتبنا یہ چھہ سانی کتاب سانی رجسٹر۔ یطوق علیکم بالحق یہ چھہ توہہ خلاف پوز پوزونان
 اناکنا نستنسخ اس اس درج تھاوان کرتھہ اتھہ رجسٹری منز پنہ جایہ ما کنتم تعملون سے سورے
 یہ توہے کران آس وہ یعنی تھند سورے قول و فعل اوس اسہ نس سے درج سپان لہذا پیہ از توہہ اتھہ
 سارسے قول و فعلس جزانہ۔ فأما الذین امنوا و عملوا الصالحات وون سمو ایمان اون سے اتھہ مطابق
 کر کیہ رژہ عملہ فیدخلہم رهم فی رحمتہ سے تمن ولہ اللہ تعالیٰ پنہ رحمت سیت ذلك هو الفوز
 المبین کیے چھہ کن کامیالی و اما الذین کفروا وون رود تم یموٹھر کور۔ یوحق سے پوزمانس انکار کور
 افلم تکن آیتی تتلی علیکم یمن پیہ پر ژھنہ کیا توہہ آئے نامیان پیغام پر تھہ بوزاونہ فاستکبرتم

اللَّهُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَارِيبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ
 إِنَّ نَسْفَاتِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ بِمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿۳۲﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا
 عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۳﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ
 نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ
 مِنْ نَصِيرِينَ ﴿۳۴﴾ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَتَكَبَّرُونَ ﴿۳۵﴾

توہ آے میان پیغام تہ احکام بوزنادنہ مگر توہہ کورودہ تکبر توہہ تھونہ زانہہ کن وکنتم توہما
 مجرمین تہہ آسودہ اکہ جرم کرن وول قوم اللہ تعالیٰ سُد پیغام بوز تہہ آسودہ نہ پڑہ کران بلکہ
 آسودہ کبر تہ نخوتہ سیت اتہہ انکار کران تہ بوزہ ناون والین ٹھٹھہ تہ مذاق کران رنگہ رنگہ ایزادہ تہ تکلیف
 دو ان وَاذَاقُوا بِيَهُمْ ذَاقُوا وَنَسُوا اِنْ اِنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا زہ اللہ تعالیٰ سند وعدہ چھہ پوزاتہہ بیحہ نہ
 خلاف سپد تہہ وَالسَّاعَةُ لَارِيبَ فِيهَا تہ قیامت چھہ پڑے اتہہ منز چھہ کنہ قسمک کانہہ شک تہ خجہ
 یہ سپدہ ضرور برپا قُلْتُمْ توہے آسودہ اورہ ونا ن مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ اس چھہ زانان زہ یہ قیامت
 کیاہ گیہ اِنَّا نُنْفِئُ الْاَرْضَ اس چھہ زانان صرف اکہ خیلا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ تہ اس چھہ یقین
 تھاون وائل یعنی اسہ چھہ یقین زہ کیوں لکن ہند یہ گمان زہ قیامت سپد برپا چھہ پوز۔ اسہ چھہ قیامت
 پیٹھ کانہہ یقین وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا تہ یمن بحر من نین ناکارہ پاٹھ پینن پیچھہ کار وَحَاقَ بِهِمْ
 ولہ تم نال مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ تہ تہہ تم ٹھٹھہ اس کران یعنی تہہ عذابس تہ تہہ سزا اس تم
 پڑہ نہ آسکھ سببہ ٹھٹھہ اس کران سے عذاب تہ سزا ولہ یمن نال وَقِيلَ بِيَهُمْ ذَاقُوا وَنَسُوا
 الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا تہہ پاٹھ توہہ آسودہ مشرومت
 تہندہ یمہ دوہک یمن تہہ اسہ برو نہ کن جزائہ سزا باپتہ حاضر سپدن وَمَا لَكُمُ النَّارُ وولن چھہ تہنز چھین
 جائے نار یعنی جہنم وَمَا لَكُمُ مِنْ نَصِيرِينَ بیہ چھہ تہندہ باپتہ کانہہ مددگار و منزہ توہہ آسودہ مشرومت
 قیامتگ برپا سپدن اسہ سیت ملاقات کرن، عملن ہند جزایا سزا حاصل کرن۔ یہ تعلیم یدہ توہہ ہاونہ آہ

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۳۵﴾
 فَبِاللَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾
 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۷﴾

توہ کروہ نہ اتھ پڑھ توے کروہ لا پروائی۔ لہذا چھ اس تہ از توہ سیت لا پروائی ورتاوان۔ توہہ چھہ پنہ
 نن پیچہ کارن ہند انجام نارو چھن تہ توہہ بیسہ نہ کانہہ تہ امہ نش مجلس منزد کر تھہ ذلکم یاتکم
 اتخذتم الیت اللہ ہزوا تہندیہ پیچہ انجام چھ نتیجہ یہ تھہ ہندزہ توہے آسؤہ اللہ تعالیٰ سندین پیغامن
 مذاق زانان وَخَوَّجْكُمْ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا بیہ دیت توہہ دوکھ دنیاچہ زندگی یعنی دہس منز بس عیش تہ
 عشرت توہہ حاصل سپد امہ سیت لوگ توہہ دوکھ توہہ گنیہ رائے زہ یہ عیش تہ عشرت موکہ لی نہ
 زانہہ تہ توہہ جھوٹی روزن فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا لہذا این نہ از نیپر کڈنہ امہ نارہ منزہ یعنی از
 قیامتک دوہ چھ یمن ضرور نارس منز ایذاہ تکلن وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ تہ نہ بیہ یمن کانہہ عذر قبول کرنہ
 فَبِاللَّهِ الْحَمْدُ لہذا شو بن ساری حمد تہ ثا اللہ تعالیٰ ہس رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ بس رب چھ
 آسمان ہند بیہ بس رب چھ زمینک رَبِّ الْعَالَمِينَ بس رب چھ سارنہ عالمن ہند وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تہ تنس چھہ بجز تہ طاقت آسمان تہ زمینس منز وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تہ سوی
 چھہ زبردست طاقتہ وول تہ حکمتہ وول۔



سُورَةُ الْأَحْقَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 حَمَّ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②
 مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
 مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ③ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
 مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
 أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَيُّونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ

حَمَّ ہم چھہ حروفِ مقطعات۔ خدایہ سے چھہ معلوم ہمن ہند معنی تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قرآن مجیدک نازل سپدن چھہ نس معبود برحقہ سہہ طرفہ نس غالبہ حمہ وول چھہ لہذا آٹھہ امہ کین مضمون پیٹھ پور غور کرن۔ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اسہ کرنہ پادہ آسمان تہ زمین بیہ یہ تمن منز چھہ، مگر حکمت بیہ اکہ مقرر تہ معین مدتہ خاطرہ۔ سہ مدت گو وقت قیام قیامت۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ مگر ہم لوک کافر چھہ تمن سمو چیز وسیت توحیدہ کس انکار کرہ نس پیٹھ نیم چھہ کرنہ یوان تم چھہ تنھ کن کنہی توجہ تہ التفات کران۔ توحید چھہ قبول کران قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ نہہ فرما یو کہ یار سول اللہ تمن نہہ خدایہ سنز عبادت تراو تھ چھہ عبادت کران تمن ہندس متحق عبادت آسئس پیٹھ کیاہ دلیل چھہ تو بہ نشہ۔ اگر عقلی دلیل چھہ میہ ہا تو زینٹ کہہ چھہ تمو پادہ کورمت۔ کنہ آسمانہ کس پادہ کرنس منز چھہ تمن کانہہ شر اکتھاہ۔ یہ کتھہ چھہ ظاہر کہ نہہ چھہ کہ نہ تم خالق مانان۔ بلکہ چھہ کہ نہہ تم تہ مخلوقے مانان۔ مخلوق آس چھہ معبود آسئس بالکل منافی دلیل عقلی ختم۔ اگر تو بہ نش دلیل نقلی چھہ ایُّونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا میہ نعرہ ان

أَشْرَۃٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ
 دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴿۵﴾ وَإِذَا حِشَرَ النَّاسَ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ
 كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿۶﴾ وَإِذَا نَسَّأْتُمْ عَلَيْهِمُ الْيَتْنَابِ يَنْتِ
 قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۷﴾

تو تلمیہ کا نہہ صحیح کتاباہ۔ یہ منہ شریک لحم آسہ یوسہ کتاب سمہ قرآن مجیدہ بروئہ نازل کرنہ آمر
 آسہ اَوْ اَشْرَۃٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یا اگر کتاب آسہ نہ توتہ کر تو پیش معتبر علمی کا نہہ مضمونہ،
 رواستہاہ یوسہ منقول آسہ، چھوے نہہ شریک دعوائے کرہ نس اندر پوزونہ ون۔ یہ تہہ چھہ ظاہر کہ
 یرہہ دلیل ہیجہ نہ کا نہہ تہ پیش کمر تہہ مگر نہہ چھوہ نہ امہ پتہ تہ باطل تہہ نشہ باز یوان۔ وَمَنْ أَضَلُّ
 مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہہ اکھاہ چھہ جس شخصہ سندہ خوتہ زیادہ گمراہ
 نس دلیل پیش کرنہ نشہ چھہ عاجز۔ باوجود آل چھہ معبود برحق تراوتہہ تمن باطل معبودن آلودوان
 سم نہ قیاس تان تہندس ناس تہ آوس جوابے ممکن دتہ۔ تمن چھہ تہندہ آلودنچ خبرے کینہہ کیاہ
 تمن چھہ تمیک شعورے تمن چھہ خبرے سجدہ کم دیت تہ تہ کم دتہ۔ وَلَمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ تم
 چھہ تہندہ آلودنہ نشہ بالکل بے خبر۔ جمادات یعنی کمنہ تہ بے جان چیزن ہند چھہ ظاہرے کہہ تمن چھہ
 قوت سامع کینہہ۔ باقی ذوات الارواح، ملائکہ، حضرات انبیاء، بیہ اولیاء اللہ تم چھہ سوے کہہ
 بوز تہ ہیگان یوسہ اللہ تعالیٰ بوزہ ناویکھ۔ سوی کام ہیگان کمر تہہ سمیک اجازت تہ قدرت تمن اللہ تعالیٰ
 دیہ پانس تمن بذات خود کا نہہ اختیارہ چھہ۔ وَإِذَا حِشَرَ النَّاسَ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ
 کفرین چنانچہ یلیہ لوکھ ہمشرہ کس مید انس منہ جمع من کرنہ حساب دنہ خاطرہ تے معبودن باطل
 آسن، تمن تم نادتہ آلودوان آس، تہند دشمن۔ بیہ آسن تے تہندس عبادت تہ پرستش کرہ نس مکر۔
 دیکھ آسہ چھہ خبرے نہہ کیاہ آسہ عبادت کران وَإِذَا نَسَّأْتُمْ عَلَيْهِمُ الْيَتْنَابِ يَنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ
شَهِيدًا ابْنِيَّ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۸﴾
قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاءِ مِنَ الرَّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِيكُمْ
إِنْ أَتَيْتُمُ الْآمَاطِيَّ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

لِلْحَقِّ لَتَأْتِيَآ هُمْ هَذَا وَيَوْمَئِذٍ يُنْفِثُ بِهِ يَلَهُ پرنہ چھہ یوان تمن پیٹھ سان صاف صاف تہ واضح آیات،
وانان چھہ تم کافر اتھہ پڑس قرآن مجیدس کہ یہ چھہ نعوذ باللہ نون سحر تہ جود اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ کیاہ تم لوکھ چھہ وانان کمر یہ قرآن مجید ٹھہر دو آم پیغمبرن پائے۔ ٹہہ فرما دیو کہ یا
رسول اللہ ای لو کو ہر گاہ میہ یہ قرآن مجید پانے پنتہ طرفہ بنوومت آتھہ خدا یس کن لوگمت آسہ ہاتیلہ
کہہ ہا اللہ تعالیٰ پنتہ عادتہ موجب میانس اُپڑد عوی نبوت کہہ نس پیٹھ میہ ہلاک۔ تو پتہ یلہ سہ میہ (نعوذ
باللہ) ہلاک کرن پنتہ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ٹہہ لوکھ یاباتی لوکھ میکو نہ میہ خدایہ سندہ عذابہ
رشتہ بجاوتھہ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ نس چھہ پور خبر ٹہہ کمہ کمہ کتھہ چھہواتھہ قرآن مجیدس
متعلق کران کفی یہ شَهِيدًا ابْنِيَّ وَبَيْنَكُمْ بس چھہ سنی گواہ میہ منزتہ تو بہ منز۔ نس چھہ آسہ
سارنہ ہند حال پور معلوم ٹہہ چھہ صادق تہ ٹہہ چھہ کاذب وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سنی چھہ سینٹھاہ
مغفرت کہہ ون سینٹھاہ رحم کہہ ون۔ سہ چھہنے کافرن دنیا س اندر عذابس گرفتار کران۔ مگر تمن
عذابس گرفتار نہ کرن چھہنے دلالت کران تھندس پڑس پیٹھ آسئس قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاءِ مِنَ الرَّسُلِ ٹو بہ
فرما دیو کہ یا رسول اللہ ای لو کو بہ نو پیغمبر ہا چھس نہ۔ میہ برونتھہ تہ چھہ بہ تہ واریاہ خدایہ سندی احکام
ہتھہ آمت۔ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِيكُمْ بہ چھہنے میہ خبر میہ سیت کیاہ معاملہ سپدہ آئندہ۔ پنتہ نین
آئندہ حالائن ہنز یلہ نہ میہ خبر چھہ بین متغیباتن ہندد عوی کتھہ یا ٹھہ ہیچہ بہ کمر تھہ۔ تمن حالائن ہند
میہ بذریعہ وحی علم سپد تمن ہند چھہ واقعی علم کامل إِنْ أَتَيْتُمُ الْآمَاطِيَّ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ بہ

اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَٰهِدٌ مِّنْ بَنِي
 اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهِ فَاَمِنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَآيْهَدِي الْقَوْمَ
 الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا
 سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ وَاذْكُرْ مِثْلَهُ وَاِيْهِ فَيَسْبِقُوْنَ هٰذَا اِنْ كُنْتُمْ قٰدِرِيْنَ ﴿۱۱﴾
 وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسٰى اِمَامًا وَرَحْمَةً وَّهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ
 لِّسَانَ عَرَبِيٍّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَّبَشِّرِ لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲﴾ اِنَّ

چھٹسہ علم و عملہ اندر پیروی کران مگر تھے یہ میرے سُن وحی نازل یوان چھہ کرنہ۔ پانہ پتہ طرفہ کانہہ چیز
 ٹھہر اونچ چھہ صورتھے کانہہ بہہ چھٹس نہ بہ مگر سُن پانٹھ بیم کردن قُلْ اَدْرٰیْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ
 کَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَٰهِدٌ مِّنْ بَنِي اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهِ فَاَمِنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ فرما یو کہ تہہ یار رسول اللہ ای
 لوگو میرے دن تو ہر گاہ یہ قرآن مجید واقعی طور خدا لیے سیدہ طرفہ آتھ تہہ آتھ انکار کرمیہ آسہ بنی اسرا ئیلو
 اندرہ تہہ کانہہ معتبر گواہ گواہی ودوان یرھہ کتابہ ہندہ نازل سپد نچ، تھہ پیٹھہ بنا کتر تھہ آسہ سہ تھہ ایمان
 اتان تہہ پڑھ کران مگر تہہ روز و محبت تہہ غرورہ سببہ آسہ کس انکار س پیٹھہ، تھہ صورتس اندر تہہ اکھاہ چھہ
 تہہ ہدہ خود تہہ زیادہ بے انصاف تہہ ظالم۔ اِنَّ اللّٰهَ لَآيْهَدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ بے
 انصافن تہہ ظالمن و تھہ ہادان بلکہ چھہ تم ہمیشہ گمراہی تہہ ضلالتس اندر روزان۔ گمراہی ہند انجام چھہ نار
 جہنم۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ بہہ چھہ تم کافر ودان با ایمان ہندس
 ایمان اُنہ نس نسبت کہ ہر گاہ یہ قرآن مجید پیٹھہ تم پڑھ کتر مڑ چھہ رت آسہ ہا، تیلہ گڑھن نہ تم کم
 درجہ لو کہ آتھ دینس سُن آسہ برو تھہ۔ یہ گوو تہند کمال درجہ استکبار تہہ غرور وَاذْكُرْ مِثْلَهُ وَاِيْهِ
 فَيَسْبِقُوْنَ هٰذَا اِنْ كُنْتُمْ قٰدِرِيْنَ یلہ نہ آسہ غرورہ تہہ استکبارہ سببہ تمن آسہ قرآن مجیدہ سیت دینس کھس سُن
 و تھہ آسہ لہذا چھہ تمن دنہ لے کہ یہ چھہ پرائیو اہو و کتھو منزہ اکھ اپز کتھاہ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسٰى
 اِمَامًا وَرَحْمَةً وَّهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانَ عَرَبِيٍّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَّبَشِّرِ لِلْمُحْسِنِيْنَ حالانکہ سمہ

الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿۱۳﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ

قرآن مجیدہ بروٹھ آس حضرت موسیٰ سز کتاب یعنی تورات نازل آمز کرنہ یوسہ امت موسویہ خاطرہ بالعموم و تھ ہاودن آس، اہل ایمان ہندہ خاطرہ بالخصوص بڈ رحمت آس، یہ قرآن مجید تہ پیشین گوئی تور آس منز تہ چھ، تہ چھ کتابہ نمہ کتابہ ہنز پیشین گوئی تصدیق کران یوسہ عربی زیوہ منز چھ، یٹھ یم گرہ تم ن لوکن سمو ظلم کور یعنی شرک تہ کفر کرنہ سیت۔ یہ چھ بڈ بشارت نیکو کارن ہندہ خاطرہ **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** بیشک سمو لو کو بصدق دل اقرار کور زہ سون پروردگار چھ اللہ تعالیٰ تو پتہ رود اتھ اعتقاد س پیٹھ آخر س تان، یہ اعتقاد تروو کہ نہ زانہہ ہس چھہ تم ن آخر س اندر کانہہ خوفاہ واقع سپدہ ون نہ آس تم تہ نمگین **أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** یم لو کہ چھہ جنتی، یم ہمیشہ روزن تم ن جتن اندر۔ یہ چھہ تم ن رت جزا تم ن رزن عملن ہند تم کران آس دنیاس اندر یعنی ایمان تہ استقامت بر ایمان تہ پٹھ پٹھ اسہ پنن حق بندن پیٹھ واجب کمر سیمگ ذکر کرنہ آوتیٹھ پٹھ کور اسہ حقوق العبادتہ واجب چنانچہ تموا ندرہ گوو سیٹھاہ بوذ حق مالس ماجہ ہند **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا** تمی مو کہ کور اسہ اناسس تاکیدی حکم پنہ نس مالس ماجہ نسبت احسان کرہ نک۔ بالخصوص ماجہ نسبت زیادہ احسان کرہ نک حکم۔ کیا زہ یہ موج آس نہایت شفقتہ سان تلان اسس اناسس پنہ یڈ منز تو پتہ تروون یہ یڈ منز نہایت سختی سان **وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا** اسس انسانہ سڈ ماجہ ہنزہ یڈ منز روزہ نک مدت بہہ دودر تہ نک مدت چھہ اکثر ترہن ر تین یعنی ڈاین و رین پورہ سپدان۔ تمہ پتہ چھہ سہ نشوونما لبان۔ **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّاهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً** تالیٹھہ یلہ سہ نشوونما

أَشَدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۵﴾
أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ
فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصَّدُوقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۱۶﴾ وَالَّذِي
قَالَ لَوَالِدَيْهِ أَقِ لَكُمَا أَعَدَنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ

کہاں چھ، پندرہ جوانی ہندس توتس واتان چھ یعنی جوان چھ سپدان تو پتہ چھ واتان ژ تہجن ہنزہ عمرہ،
نہیں سعادت مند چھ آسان قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ سہ چھ دپان ای میانہ پروردگارہ وہ تہ تہہ پٹھ مداومت گرہ نلگ توفیق کہ بہ کیاہ کرہ
شکر گذاری تمہہ نچ یوسہ ژہ میہ عطا کر تہہ بیہ میانس مالس ماجہ عطا کر تہہ بیہ دہ میہ توفیق سمیک زہ بہ
کیاہ کرہ رژہ کامہ بیہ ژہ ہند آسہ نے، سمو سیت ژہ راضی گوہکھ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي بیہ کر
صلاحیت پادہ میانہ نفعہ خاطرہ میانین اولادن منز۔ نفع دنیوی گو یوہے کہ بہ کیا آسہ تم و پتہ تہ
پھولان۔ نفع دینی گو یوہے کہ میہ تہ آسہ اجر و ثواب حاصل سپدان إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ بیہ چھس توبہ
کران سمو کو تاہیہ نشہ سمہ میانہ طرفہ آیہ چانین حقوقن یا چانین بندن ہندین حقوقن اندر وَإِنِّي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ بیہ چھس بہ چانس کھمس گردن دارہ و نیو آندرہ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصَّدُوقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ سہ لوکھ گے تم سمن ہنزہ رژہ
عملہ آس قبول گرہ بیہ گرد آس تہند خطا معاف سمہ طریقہ کہ تم آس جنتیہ آندرہ، تمہہ بزہ وعدہ کہہ وجہہ
نہیں سیت دنیاءس اندر کرنہ اوس یوان وَالَّذِي قَالَ لَوَالِدَيْهِ أَقِ لَكُمَا أَعَدَنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ
الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي بیاکھ گووسہ شخصس سم حقوق اللہ تہ حقوق العباد ضایع کمر تہہ پاٹھس شخصہ سندہ
حالہ سیت معلوم چھ سپدان، سم مالس ماجہ، بیہند حق حقوق العباد و منزہ نہایت موکد اوس، خصوصاً

مِنْ قَبْلُ ۚ وَهِيَ اسْتَيْغِيثُ اللَّهِ بِكَ مِنْ إِيَّانٍ وَعَدَا اللَّهِ حَقٌّ ۚ
 فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۷ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنَّهُمْ
 كَانُوا خَاسِرِينَ ۝۱۸ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا أُولَئِكَ فِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۹ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

یہ تم مسلمان آس، خصوصاً یہ تم آس تہ اسلامک تبلیغ کران آس، آس آس حقوق ادا کرہ نک
 واریاہ ذرائع حاصل یہ یہ یہ تم آس دین حقس کن دعوت ووان آس ام دو پنکھ اف، توہہ اونوس بہ عاجز
 عجیب کتھ ون ون کیا تہہ چھوہ میہ ونان قیامتگ دوہ سپد کھ تہہ یہ زندہ سپد تھہ کتھ تہہ قبر واندہ
 منزہ کڈنہ حالیکہ میہ برونٹھ گذرے یہ واریاہ اُمترہ تمن پر تھہ وقتہ پنن پیغمبر تھہ وعدہ ووان آس مگر
 از تام سپدنہ عنہ وعدک ظہور امہ اندرہ چھہ معلوم سپدان زہ سمہ کتھہ یا تہہ وَهِيَ اسْتَيْغِيثُ اللَّهِ
 وَيْلِكَ اٰمِنٌ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهُ حَقٌّ تم دوشوے یعنی مول تہ موج اُمند، اُمندہ انکارہ تہ عُزْ عَظِيْمَةٌ سَبِيح
 سخت دولتھ لگ تم اللہ تعالیٰ اس فریاد کرہ۔ آس پنچوس لگ وننہ درد مندی سان۔ وال بوئے تہہ ان
 جلد ایمان بہ زان قیامت برحق۔ بیشک خدایہ سُد وعدہ چھہ حق تہ پوز۔ مرنہ پتہ چھہ ضرور بہ زندہ
 گوٹھن سارنہ۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سہ چھہ تورہ تمن ونان کہہ یہ کتھہ چھہ بالکل بے
 سَنَد۔ بروٹھمن لوکن نشہ نقل یوان کرنہ اُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
 الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ سبے گئے تم لوکھ یہندہ چھہ عذابگ حکم مقرر سپد مُت چھہ تمن
 اُمتن سبت یہہ تمن برونٹھ آسہ جنو تہ انسانو اندرہ۔ بیشک تم آس از لے تاوان زُد وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ
 مِمَّا عَمِلُوا تمن دوہ شوئی فریقن ہندہ خاطرہ چھہ تہنز و مختلف عملن ہندہ اعتبارہ الگ الگ درجہ مقرر
 کرنہ آمت۔ آس فریقس جتنس منز پس فریقس جہنمس منز، تمو کامیو موجب یہہ کامہ تمو کرہ مرثہ
 آس دنیاس اندر وَلَئِكَ فِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ سبھ اللہ تعالیٰ تمن سارنہ تہنز عملن ہند

أَذْهَبْتُمْ طِبَابِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ
تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۖ وَادْكُرُوا آخَا
عَادٍ إِذْ أَنْذَرْتُمُوهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ السُّدُورُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ

بدلہ پورہ عطا کرہ یہ یہ نہ کانسہ آگس تمو آندرہ مئے طریقہ ظلم کرنہ **وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى
النَّارِ** یہ یہ دوہہ کافر بروٹھ کن آنہ سن نار جھنمس ومنہ بیکھ **أَذْهَبْتُمْ طِبَابِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا** اے کافر توہہ وچھوہ پنہ دُنیاچہ زندگی منزرتین نمون ہند پن حصہ حاصل کورمت یہ
چھوہ تہن ہند پورہ تمح سے فایدہ توہہ تکت یہ سپدہ نہ توہہ کانہہ نعمتہ حاصل **فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ** وون یہ توہہ ازیتہ
بدلہ دنہ خواری ہند عذاب کیا زہ تہہ آسوہ نادنیاعس منز بختہ سے غرور کران ناحق۔ یہ سہہ موکھ کہ تہہ
کیا آسوہ سخت نافرمانی کران۔ ناحق آوونہ امی موکھ کہ مخلوقس پڑہ نہ بختہ کران۔ تہس بھنہ مئے وقتہ حق
بختہ کرہ ٹک خصوصاً زمینس پیٹہ۔ یہ چھہ انسانہ سدہ حقہ زیادے مذموم **وَادْكُرُوا آخَا عَادٍ إِذْ
أَنْذَرْتُمُوهُ بِالْأَحْقَافِ** یہہ کوروتہہ تہن کافران نشتہ قوم عادن ہندس برادر ہود علیہ السلامہ
سنزد کریلہ تموپنہ نس قومس تم تڑھہ جلیہ پیٹہ ہسان آس بیتہ خمدار سکہ بند تودہ آس تھہ جلیہ چھہ ونان
احقاف۔ یہ چھہ اکھ وادیاہ تہنس منز حضر موتس نزدیک۔ سوی پن قوم کھوڑہ نووڈک خدلیہ سدس
عذابس۔ فرماوان آسکھ تھنہ توہہ عبادت کمر وکانسہ ہنز خدالیس ورائے ورنہ گڑھو عذابس گرفتار۔ یہ
چھہ تڑھہ تھہ کہہ **وَقَدْ خَلَّتِ السُّدُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ** کہ بے شک
ہود علیہ السلامس بروٹھ تہ تہن پتہ تہ آی امی مضمون خاطرہ وادیاہ کھوڑہ ناؤن وال پیغبر ازتان۔ ہود
علیہ السلامن فرموپنہ نس قومس کہ عبادت مہ کمر وکانسہ ہنز معبود برحقس ورائے۔ **إِنِّي أَخَافُ**

عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۲۱﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا
عَنِ الْهَيْئَةِ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۲﴾
قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَابْلَغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي
اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۲۳﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ
قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّسْطَرِنًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ
فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۴﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا
فَاَصْبَحُوا الْاَيْرٰى اِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ

عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ بہ چھٹس کھوڑان چہندہ چھہ اکہ بڑہ دوہہ کس عذابس یعنی قیامتہ دوہہ کس
عذابس قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْئَةِ تمودوہس اے ہود کیاہ ژہ چھکھہ آمت اَسہ نِسہ امی
خاطرہ کہ ژہ کیاہ پھر کہ اَسہ پنہ نیو معبودوہ چہ۔ اس پھیرن وال چہنہ۔ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ دون ہرگاہ ژہ پوزونہ و نیو منزہ چھکھہ تیلہ و اتناوہ عذاب سیمگ ژہ اَسہ بیم کران چھکھہ
قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَابْلَغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ہود علیہ السلام
فرمو کہ عذابہ شیخ خبر چھہ خدلیہ سے یا ژہ بہ چھٹس توہہ و اتناوان سہ پیغام نس ہتہ بہ سوزنہ آمت
چھٹس۔ مگر بہ چھٹس توہہ و چھان اکہ قواہ خالص جمالتہ چہ۔ کتہہ کران یلہ نہ تموکتہ طریقہ حق تسلیم
کورائی ہن عذابک آثار شروع سپدن گوڈہ نی کھوت اوراہ اکہ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ اَدہ
یلہ تموٹہ اوروہ چھہ نِس پکان اوس یہہد سے زمینس زراعتس کن قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّسْطَرِنًا دینہ لگ
یہ اور تر اوہ رود اَسہ پیٹہ۔ ڈینہ آکھ یہ رود تراوہ ون اور بہنہ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بلکہ چھہ یہ
سے عذاب نِس توہہ دل دل ژہا نڈان آسہ اتھ اورس منز چھہ ریحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ واواہ چھہ
سیت کڈر عذاب چھہ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوا الْاَيْرٰى اِلَّا مَسْكِنُهُمْ یہ عذاب گالہ

الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَعَاءً وَابْصَارًا وَآفِئَةً فَمَا آغْنَىٰ عَنْهُمْ
 سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِيدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ
 كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۲۶﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ
 وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۷﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ

پرستھ چیزس پنہ نس خدایہ سہدہ حمہ سیت۔ چنانچہ سہ داویلہ در او تم تھوونہ کانہہ چیزاہ باقی گالہ
 وراے۔ پس سہ ختم کانہہ چیزاہ اوس نہ در پیشی یوان تہنز ولریو جایو وراے کذلک نَجْزِي الْقَوْمَ
 الْمُجْرِمِينَ تھے پانٹھ کیاہ جھہ آس نافرمان سزاوان وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَعَاءً وَابْصَارًا وَآفِئَةً بے شک آسہ اوس تمن طاقت دُئمت تمن تمن کامین ہند
 تمن ہند طاقت توہہ جھنہ دُئمت۔ تمہ اندرہ چھ مراد تم تصرفات تم جسمانی قوتس تہ مالی قوتس پیٹھ
 موقوف جھہ۔ ہیہ آس آسہ تمن کن اچھہ تہ دل دُئمت۔ سموسیت تم بڈین بڈین مشکلاتن ہند مقابلہ آس
 کران۔ مگر یلہ تمن سون عذاب دوت تھہ مقابلہ ہیو کھ نہ کینہہ تہ کمر تھہ فَمَا آغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ
 وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِيدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ نس دیت نہ تمن کانہہ فائدہ نہ کونہ اُھجو تہ نہ دلونہ
 چیزک إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ کیا زہ تم آس انکار
 کران خدایہ سندین آیاتن۔ توپتہ آدولنہ تمن سنی عذاب تھہ تم ٹھٹھ تہ محول کران آس وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
 مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اے مکہ کیولوکو تھمتن گال آسہ تمن
 شہرن ہند لوکہ تم توہہ لہد پک جھہ کفر وشرک سببہ۔ قوم ثمود تہ قوم لوط، آسہ و اتناوے یہ تمن نشہ
 پنہہ دلیلہ پھیر پھیر دیوہ تم کفرہ تہ شرکہ نشہ پٹھ روزن مگر تم رودنہ پٹھ کینہہ تہ۔ تمہ موکھ گے تم
 عذابس گرفتار فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً پس کونہ سناکور تمن

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلُّ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۴۸﴾ وَإِذْ صَرَفْنَا

مد تمو معبودان باطلو ہم معبود برحقس وراے معبود بناوی مت آس خدایہ سند قرب حاصل کرنے خاطرہ کہ ہم بن آسہ مصیبتہ کہ وقتہ بکار۔ ہنس کونہ سنا آے تم تمین بکار سمہ عذابکہ تہ ہلاک گروھنکہ وقتہ بَلُّ ضَلُّوا عَنْهُمْ مد کرہ نچ کیاہ ہجھہ کہتے بلکہ ژل تم تمین پیٹھ عذاب وسجہ وقتہ وَذَلِكَ أَفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ سورے تہند تم معبود زائن یا شفیع زائن اوس اہوئیس سموپانے دلہ نڈا اکھ ٹھہر دومت اوس بروٹھمین آیات کریمین اندر آویان کرنے کہ کافرن یہہ ونہ عذابس گر فاسپد سجہ وقتہ کہ یہ ذلتک عذاب چھہ توہہ (بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ) ٹہہ کیاہ آسوہ دنیاءس منزناحق سبخر کران بہہ کیاہ آسوہ ٹہہ نافرمانی کران۔ سبخر دنا فرمانی ہنز مذمت بوزانہ خاطرہ آوکافرن ونہ کہ وچھو کہ جن سم سبخرس اندر انسان ہندہ خوتہ زیادہ چھہ۔ تمو تروو سبخر، تہ کفرہ نشہ دست بردار سپد تھ کورتمو اسلام قبول۔ مگر ٹوہہ انسان آتھہ چھوہ نہ ٹہہ سبخر تہ کفرہ نشہ بازیوان۔ سمین جئن ہندہ مسلمان سپد نچ سبخر آہہ کر سمس منز ذکر چھہ تہند قصدہ چھہ حدیث شریفین منز ہتھہ پاٹھہ آمت کہ یلہ بعثت نبویہ کہ وقتہ جن آئی آسمانی خبرہ بوزنہ نشہ ستارن ہندہ شعلہ سیت ہتھہ رنہ تم سپد حیران کہ یہ کیاہ سناپد۔ امیک پزہ آسہ تحقیقات کرن۔ دریافت گھہ کرن کہ دنیاءس اندر گہہ سنا واقعہ سپد نمودار سمہ سبہ آس آے پتھہ رنہ۔ چنانچہ جن ہنزہ مختلف جماتر آہہ مختلف طرفن گن امیک تحقیقات کرنہ تموے آندرہ اکھ جماتھہ واژمکہ شریف۔ تمہہ دوہہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ صابن سیت اکس جاییہ ہتھہ بطن نخلہ ناواوس۔ لہہ پیٹھہ اوسگھہ سوق عکاظس گن بغرض تبلیغ دین و اشاعت اسلام تشریف نیک ارادہ۔ آتھہ جاییہ آس صبح نمازہ پان۔ جن ہنزہ جماتھہ تہہ و آتھہ جاییہ بوزکھ وارہ ٹہند قرآن مجید پان۔ دہنہ لگ سونو کتھہ سمہ کہ دریافت کرنہ خاطر آس درامت چھہ۔ سوچھہ ہیے سمہ سبہ نہ آس آسمانی خبرہ بوزتھہ ہیکان چھہ۔ بروایت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم چھہ کہ تم جنات یلہ اوت وات آتہ بوزکھ قرآن مجید۔ دہنہ لگ ژھوپہ لاگو وارہ بوزویہ قرآن مجید۔ تمہہ پتہ یلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ نشہ فارغ سپد سم جن سپد مسلمان تو پتہ گئے پنہ

إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
 قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿۲۹﴾
 قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا
 لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۳۰﴾ يَقَوْمَنَا
 أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ
 مِّن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۳۱﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِعَجِزٍ فِ


نس قومس کن واپس تمن تہ کر کہ ایج خبر یہ لکھ دہہ ترغیب ایمان انہ نس کن واذصرفنا الیک نقرأ من
 الجین یستمعون القرآن یہ کمر و تمن لو کن نعرہ ذکر تمہ و تک قصہ یلہ اسہ تو بہ کن سوزا کہ جماعتہا
 جو اندرہ۔ یوت واتھ لگ تم بوزہ قرآن مجید سمہ ساتہ نہہ صبح نمازہ اندر قرآن مجید پر ان آسہ
 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا تم یلہ ساری جمع سہد تھہ جاہہ بہہ قرآن مجید پر نہ اوس یوان اکھ ائس
 لگ و نہہ ژھوپہ کمر تھہ بوزویہ کلام فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ تمہ پتہ یلہ قرآن ہر ان
 ختم سہد تمہ پتہ گئے تم و ائس پنہ نس قومس کن یہ سوری واقعہ بیان کرنہ خاطرہ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا
 كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ چنانچہ پنہ نس قومس لگ دہنہ آے قوم آس آے بوز تھہ اکھ عجیب کتابہ
 ہند اکھ مضمونہ یوسہ کتاب نازل مجھہ آمو کرنہ موسیٰ علیہ السلام پتہ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ سوی کتاب مجھہ تصدیق کر ان تمن کتابن یہہ تمہ بروٹھہ نازل کرنہ
 آسہ مجھہ۔ سوی کتاب مجھہ و تھہ ہاوان دینن حقس کن یہہ مجھہ رہنمائی کر ان سیزہ وتہ کن يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا
 دَاعِيَ اللَّهِ اے میانو بھایو اجابت کمر وتہ مانو خدائس کن نادودہ ونس یعنی قرآن مجیدس یا نبی کر سمس
 صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھندس ونہ نس اجابت کرن گو کہہ وَإِمْنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّن
 عَذَابِ أَلِيمٍ ایمان انو تہ پڑھ کمر و خدائس۔ تمجہ برکتہ کر وہہ تھندس کن گو نہن مغفرت۔ یہہ زہوٹھہ

الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۲﴾
 أَوْلَمْ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِمْ
 بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُسْحِقَ النُّفُوسَ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۳﴾
 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا
 بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۴﴾ فَاصْبِرْ
 كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ

توہمہ آخر حکم کڈرہ عذابہ نشہ۔ وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ نَسِ الْكَاهِنَ اجابت کرہ
 نہ خدایہ سندس نادودہ و نَسِ اَدَسُہ بیچہ نہ زینہ کس کمنہ حصص منزگوہت نہ زلتہ۔ خدائس رشتہ نشہ عاجز
 کمر تھہ پُتَن پان، بچاوتھہ۔ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ نہ چھہ تہمدہ خاطرہ خدائس وراے کاہنہ حمایت
 کرہ وناتہ مددگارہ اُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ امہ قسمک لوکھ تمکن پنتہ جلیہ خیال آسہ کہ آسہ کیاہہ بیچہ
 بچاوتھہ نہ موکلاوتھہ کاہنہ تم چھہ نہ گمراہی اندر اَوْلَمْ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَلَمْ يَعْزِمْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُسْحِقَ النُّفُوسَ کیاہہ کتھہ جہنازانان تم کہ ہم پروردگارن آسمان نہ زمین
 پادہ کر تو پتہ تھوکنہ سہ تم پادہ کرنہ سیت نَسِ پروردگارس چھہ پور، قدرت قیامتک دودہ مردہ لوکھ بیہ
 زندہ کرہ نَسِ بیٹھہ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ گوٹھہ ناسہ تھہ بیٹھہ قدرتہ دول آسَن۔ سوے پریتھہ
 چیزس بیٹھہ قدرتہ دول چھہ۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ بیہ سمہ دودہ نہ کافرین نار چھہ نَسِ
 بروٹھکن آندہ دینہ بیچہ اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ کیاہہ دوزخ چھہناپوزتہ امر واقعی آتھہ آسودہ دنیا س اندر
 نفی وانکار کران قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا دین خدایہ سزدرے واقعی چھہ پوزتہ برحق قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
 بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماوکیہ دون ژہو توہمہ امہ جہنمکہ عذابک مزہ۔ کیا زہہ آسودہ ناتھہ
 انکار کران فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ یلہ معلوم سپد کہ تم نیہ امہ کفرو
 انکارک انتقام ہینہ لہذا کثر و جہہ صبر یار سول اللہ کافرین ہندس تکلیف س بیٹھہ چھہ پاٹھہ صبر کورہمتہ والیو

يَوْمِ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ط
 بَلَغٌ فَبَلَّغْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ۝۳۵

ترجمہ: تمہارے وہ ڈھانڈے دیکھنے والے جو اپنے عذاب کی انتقام سے تمہیں عذاب الہی سے گرفتار سپردن کا اٹھارے یوم یرون ما یوعدون لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَغٌ فَبَلَّغْ یَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ اسمہ دوہہ وچھن تم تھے عذاب اس سے تمہیں تمہیں وعدہ یوان ہٹھہ کرنے تمہے دوہہ پیہہ بوزنہ تمہن زن تم دنیا سے منورود مت آس آگہ سے گرہ۔ یہ آس تمہن کتھاہ واتہ ناون۔ سو آکھہ واتاونہ۔ تباہ تہ ہلاک ہچھنہ یوان کرنے مگر نافرمان تہ کافر۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ①
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ②
 ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
 اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ③

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ہم لو کہ ہنس دینس انکار کرنہ سیت پانہ کافر
 سپدی بیہ رچھ لوکھ تہ ہتھ خدایہ سزہ و تہ نشہ ہتھ پاتھ کافرن ہند زیکھ کران آس، ضائع کرہ اللہ تعالیٰ
 ان تہزہ سارے رتھہ عملہ ایمان قبول نہ کرنہ موکھ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ تمہ بدل گے تم لو کہ ہموا ایمان
 اون کئس خدا بس بیہ کرکھ رتھہ عملہ۔ بیہ اوکھ ایمان تھہ سارے بیہ نازل آو کرنہ حضرت محمدؐ پیٹھ
 تہ زوچھ سورے ہنس پاتھ پنہ نس خدایہ سند طرفہ۔ اللہ تعالیٰ کرہ تہندین گو نہن مغفرت بیہ سنبھالہ تہ
 رت کرہ تہند حال دنیا تہ آخرتس اندر۔ دنیا س اندر تم توفیق طاعات دنہ سیت، آخرتس اندر
 نجات و کامیابی عطا کرنہ سیت ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ
 مِنْ رَبِّهِمْ بیہ ہتھہ امی موکھ کہ بے شک ہم لو کو انکار کور تم پک غلط و تہ پیٹھ۔ بیہ ہم لو کو ایمان اون
 تہ پڑھ کتر کہ تم پک صحیح و تہ یوسہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ آس۔ غلط و تہ پکن باعث ناکامی
 آس تہ صحیح و تہ پکن باعث کامیابی آس ہتھہ ظاہر كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ تھہ پاتھ ہتھہ

فَإِذَاقِیْتُمْ الدِّینَ کَفَرُوا فَضْرَبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوا هُمْ
 فَشُدُّوا وَالتَّوَاتُقِ ۖ فَاِمَامًا بَعْدُ وَاِمَا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ
 اَوْزَارَهَا ۗ ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرْتُمْ ۗ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوْا
 بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالدِّیْنُ قُتِلُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَلَنْ یُّصِلَ اَعْمَالَهُمْ ۝۴

اللہ تعالیٰ لو کن جہند حالات بیان کران بیٹھ تم ن بوڑن سحہ رت کیاہ پچھہ تہ پچھہ کیاہ پچھہ یلہ کافر مسفد
 پچھہ آس پچھہ توہمہ فساد دفع کرنے خاطر حکم کران کہ **فَإِذَاقِیْتُمْ الدِّینَ کَفَرُوا فَضْرَبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا**
أَتَخْتَمُوا هُمْ فَشُدُّوا وَالتَّوَاتُقِ یلہ پچھہ کافر ن سیت مقابلہ کر ویلہ پچھہ تم ن منزہ واریاہ ماریو کہ تو پتہ یلہ
 تم ن منزہ کینہہ قید کریو کہ، پس آسیو کہ تم مضبوط گنڈ پھر تھ قید کران **فَاِمَامًا بَعْدُ وَاِمَا فِدَاءً حَتَّىٰ**
تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا تو پتہ پچھہ توہمہ دون کتھن ہند اختیار۔ یا آسیو کہ تم ن پچھہ احسان تھا و تھہ یلہ
 تراوان یا آسیو کہ معاوضہ تہ بدلہ ہتھہ یلہ تراوان۔ یوتان نہ لڑائی کرن و آل دشمن آسن سلاح و سامانہ تہ
 ہتھیار پچھہ تراوان یعنی دشمن آسن آن مانان، یعنی اسلام یا استسلام دیو چیرہ و آندرہ آسن اکھ چیز مانان،
 پس ہر گاہ تم قتل تہ قید کرنے بروٹھہ ایمان اون یا کور کہ ذمی آسن قبول تیلہ پچھہ تم نہ قتل کرن جائیز
 تہ قیدے کرن **ذٰلِكَ** یہ حکم جہاد ک نئس مذکور سپد گڑھہ بجائن۔ اسہ یوسہ صورت بیان کتر کافر ن
 انتقام پچھہ، پچھہ اندر پچھہ حجت ورنہ **وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرْتُمْ ۗ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوْا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ** ہر گاہ
 اللہ تعالیٰ پچھہ ہا تم ن کافر ن ہر ہا پانہ انتقام پیو حواد ثو تہ بلا یو سیت غرقہ سیت، لیکن تم کور توہمہ جہاد
 کرہ نک حکم پچھہ توہمہ آزمائش گرہ اذین اذین ہندہ سیت مسلمان پچھہ پچھہ پاٹھہ امتحان کہ کس کرہ
 خدایہ سندس حکم پچھہ عمل یعنی کس نیرہ جہادس۔ کافر ن پچھہ امتحان پچھہ پاٹھہ کہ کس سپدہ امہ عذابہ
 سیت متنبہ تہ آگاہ تو پتہ کرہ قبول دین حق اتھہ جہادس اندر پچھہ پاٹھہ قاتل سپن کامیابی پچھہ پچھہ
 پاٹھہ پچھہ مقتول سپن تہ کامیابی۔ **وَالدِّیْنُ قُتِلُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَلَنْ یُّصِلَ اَعْمَالَهُمْ** یہ تم لو کہ خدایہ سزہ
 و تہ اندر مارنہ آئے ہنزہہ عملہ کرہ نہ اللہ تعالیٰ ہر گز ضائع سیدہ یوہمہ ویصلہہ بالکھم اللہ تعالیٰ ہا وہ

سَيُهْدِيهِمْ وَيُصَلِّحُ بِالْحَمْدِ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ①
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّصِرُوا بِاللَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ ② وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّأَلَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ③
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ④
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ⑤ ذَلِكَ

تمن و تھ منزل مقصود حج بیہ تھا وہ تھند حال وارہ پریتھ قبر منزہ میدان محشرس منزہ پل صراطس
پیٹھہ، باقی مواقن اندر تہ **وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ** بیہ واتا وہ تمن تھ جنس منزج زان تمن
پورہ پورہ کرہ تاکہ بروٹھم مغفرت تہ زان نہ آسکھ باوجود اولتہ پریتھ جنتیہا پنتہ جلیہ پنتہ نس پنتہ نس
منزل و مقاس تکلیف یا اثر ہانڈنہ تہ تلاش کرنہ ور اے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّصِرُوا بِاللَّهِ يَنْصُرْكُمْ**
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اے بالیمانو اگر تھہ خدلیہ سندس دینس، (تھندس پیغبرس) مدد کمر و سوتہ کر
توہہ مدد بیہ در راوہ تھند کھورد شمن سیت مقابلہ کر بھہ وقتہ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّأَلَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ**
بیہ سمولو کو انکار کور تھندہ خاطرہ چھہ یلہ تم دنیا س اندر بالیمان سیت مقابلہ کرن تاہی تہ پسائی۔ بیہ
کرہ تھزہ عملہ اللہ تعالیٰ آخرتس اندر ضائع تہ برباد **ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ**
أَعْمَالَهُمْ بیہ خسران دارین چھہ تمن اہی موکھہ کہ تمو کور ناپسند سہ دین تہ تم احکام سم اللہ تعالیٰ
ان نازل کمر تھی موکھہ کرہ اللہ تعالیٰ تھزہ عملہ ضائع **أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ**
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیاہ سم چھنا پھیر متی اورہ یورز مینس منز تا لیچھہ وچھہ ہن کیاہ انجام چھہ
تمن نافرمان لوکن ہند سپد مت سم تمن بروٹھہ آس **دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا** اللہ تعالیٰ ان
گال تم مولہ موجبہ تمن کافرن ہندہ خاطرہ تہ چھہ تھی قسمگ معاملہ **ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ**
آمَنُوا وَإِنَّ الْكُفْرَانَ لَمَوْلَى لَهُمْ بیہ چھہ ام موکھہ زہ اللہ تعالیٰ چھہ مدد گارہ تہ کار سازہ بالیمان سھی

بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَمَوْلَى لَهُمْ ۝
 إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَبَّهُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا
 تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۝^{۱۲} وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ
 قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝^{۱۳}
 أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُرِّي لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ
 اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝^{۱۴} مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا

چھ تہندہ خیطرہ دنیاو آخرتس اندر کامیابی۔ کافرن چھنہ بیٹھ کاہنہ مددگاراہ تہ کارسازاہ تمی چھ تہندہ
 خاطرہ دنیاو آخرتس اندر ناکامی إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ بے شک اللہ تعالیٰ واتاہوہ باایمان، نیکوکارن تم جنن سمومنزری جوہ پکان آسن وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا يَتَنَبَّهُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ بیہ سم لوکھ کافرچھ تم چھ دنیا س
 اندر عاش کران کھیوان۔ بیٹھ پاٹھ گین چھ کھیوان۔ نار جنن چھ تہندہ روزنچ جائے۔ بیٹھ منزواتھ
 سورے کھیومت چومت نیرکھ۔ سمہ تمٹک تہ خوردو نوشی ہند ذکر آو کر نہ تھ تمٹس پیٹھ مہ گڑھن
 تہند مخالف مغرور۔ نہ مہ کمر و تہ تہندس غافل روزہ نس پیٹھ کاہنہ افسوس و غم کیا زہ و کایئن مِنْ قَرْيَةٍ
 هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ شہرہ کین لوکن ہندہ
 خود زیادہ طاقتور آس مال دوتس تہ جاہ و حشمتس اندر۔ یہ شہرہ کیولو کو تہ پندہ شہرہ منز کڈ تھ بے گرہ
 کمر ہوہ۔ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ تمے گال آسہ پندہ عذابہ سیت۔ پس لوس نہ کاہنہ اکھاہ تم بچا ہون تہ مدد
 کر ہون۔ سم لوکھ کیاہ چیزے چھ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُرِّي لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا
 أَهْوَاءَهُمْ کیاہ سنا تم لوکھ پندہ نس پروردگارہ سزہ واضح تہ صاف دتہ پیٹھ پکان آسن تم چھاہر ابر تم لوکن

أَنهْرٍ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ اسْنٍ وَأَنهْرٍ مِّن لِّبْنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنهْرٍ
 مِّن خَبْرٍ لَّدَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ هـ وَأَنهْرٍ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ
 فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي
 النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ①۵ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ
 إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 مَاذَا قَالَ انْفِئْنَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

سیت تین پنہ نین پیچھ عملن زینت ونہ آؤ تو پتہ کمر تمو پنہ نین نفسہ چن خواہن ہنز پیروی۔ مثلُ
 الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ اسْنٍ ۖ حُجَّتْ مَقَاصِلُهُمْ بِرَبِّهِمْ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ اسْنٍ
 کج کیفیت چھہ بیکہ کہ تھہ منز آسن واریاہ کولہ تہ جو یہ تمہہ آبہ چہ لیس آب نہ مزہ ڈولمت آسہ تھہ نہ اکھ
 ذرہ تغیر سپد مت آسہ۔ نہ مزس منزہ متشکس منزہ نہ رنجس منزہ وَأَنْهَارٌ مِّن لِّبْنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۖ بِيہ آسن
 واریاہ کولہ تہ جو یہ تمہہ وودہ چہ سمیک مزہ تہ ذائقہ نہ خراب گو مت آسہ وَأَنْهَارٌ مِّن خَبْرٍ لَّدَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ
 بیہ آسن واریاہ کولہ تہ جو یہ شرابہ چہ تھہ منز سیٹھاہ لذت آسہ چینہ والین ہندہ خاطرہ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ
 مُّصَفًّى ۖ بیہ آسن واریاہ کولہ صاف کرنہ آمتہ ماٹھہ چہ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ
 بیہ آسن تھندہ خاطرہ پر تھہ کئے قسمک میوہ۔ بیہ پنہ لیس پروردگارہ سدہ طرفہ بوڈ مغفرت تھہ منز اژنہ
 بروٹھ۔ ایم لوکھ چھا کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۗ تین لوکن ہی سم ہمیشہ
 آسن نار جہنم اندر۔ تو پتہ یکن تم چاونہ بر سرہ وولن لیس اندر من دو تہ دو تہ کر کیکہ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ
 إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ ۖ بیہ چھہ بعضے لوکھ یعنی منافق سم تھندہ تبلیغ ووعظکہ وقتہ ظاہرہ پاٹھ
 کن دار تھہ تھند کلام بوزان چھہ۔ ای محمد ﷺ تالیحہ یلہ تم ٹھنڑہ مجلسہ نشہ ووتھان چھہ تہ نیران چھہ قَالُوا
 لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انْفِئْنَا ۗ پر ژھان چھہ بعضے علمہ والین صحابہ صابو اندرہ یہ کیاہ سنا فر موونبی ﷺ
 کر تھن وونی یلہ آس تھہ مجلسہ منز بہتھ آس گویا چھہ ظاہر کران کہ سو تھہ آس نہ قابل توجہ۔ آسہ کورنہ

وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ^(۱۶) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ^(۱۷) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ^(۱۸) فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

تو کن توجہی اولیک الذین طبعہ اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم ہم گئے تھے لو کہ تم من موہر کر اللہ تعالیٰ ان تہمدین وکن پیٹھ۔ تم موکہ رود تم ہدایہ نشہ دور۔ یہہ یک تم پتہ نفسہ چن خواہش پتہ پتہ والذین اہتدوا زادہم ہدی و انہم تقواہم یومے منزہ ہم لو کہ راہ راستس پیٹھ چھہ تمین چھہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہدایت عطا کران یہہ چھہ پر ہیز گاری ہند توفیق عطا کران یعنی تم چھہ خدیہ سندین احکامن پیٹھ پور عمل کران۔ امہ پتہ چھہ منافقن ہند حال بیان یوان کرنہ کہ تم چھہ قرآن مجیدتہ احکام و دلائل بوزتتہ نصیحت مانان **فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا** معلوم چھہ سپدان کہ تم چھہ انکار کران قیامتس۔ سو کیا ہر گھہ بن تمین چھہ معہ ادہ رٹن تم نصیحت ہر گاہ تی چھہ تلخے قیامتہ نزدیک چھہ کیا زہ تمیک ڈیٹھ کئی علامتہ ظاہر سپد سمہ چھہ۔ چنانچہ خود بہشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھہ علامت قیامت، شق قمر چھہ علامت قیامت۔ نبوتک اپزد عومے کرہ وین ہند ظاہر سپدن چھہ علامت قیامت **فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ** سمہ ساتہ سو قیامت تمین نشہ ولتہ تمہ ساتہ تھہ پاتھہ ہیکن تم نصیحت رٹھہ **فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** یلہ توہہ فرماں بردارن تہ نافرمان ہند حال بوزہ لہذا اگر چھہ تہند گذشتہ زمانک پاتھہ آئیندہ زمانس منزتہ یہہ تھہ ہند پور یقین تھاون کہ کانہہ معبودا چھہ اللہ تعالیٰ اس ورائے۔ اتھ پیٹھ روز و تہہ قائم یہہ روز و تہہ مغفرت منگان پنہ نین صوری خطا عن ہندہ خاطرہ یعنی تہندہ معصوم آسبہ وجہہ آسہ نہ سہ فعل فی الحقیقت خطا مگر سمہ وجہہ کہ سہ آسہ سپد مت نخل تمہہ خوتہ افضل کلمہ سیت مشغول سپدنس۔ لہذا آسہ سہ تہندس شان ارفس کن نظر کر تھہ ظاہری صورتس منز خطا بنہ یوان۔

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ^(۱۹) وَيَقُولُ الَّذِينَ
 آمَنُوا لَوْلَا أَنْزَلْتَ سُورَةً فَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذَكَرْنَا فِيهَا
 الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ
 الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ
 فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ^(۲۱) فَهَلْ

بہ آسو منگان مغفرت با ایمان مردان سے با ایمان زنان ہندہ خاطرہ تاکہ تدارک روزہ سپدان تین چیزیں
 سم گل چھہ ٹہندہ شانہ کس کمال دین یا ٹہندہ آستین ہدس کمال دینس وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ
 وَمَثْوَاكُمْ اللہ تعالیٰ چھہ تہندہ پختک، ٹیک سے گھوہ نک، ٹھہر نک سے روزہ نک سوزی حال زانان
 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أَنْزَلْتَ سُورَةً^(۱۹) بہہ چھہ ونان تم لوکھ سمو ایمان اون سم پر چھہ وقتہ چھہ
 آسان سمہ کتھہ ہند مشتاق کہ کونہ چھہ کانہہ نوو سورہ شریفہ نازل گھوہان تاکہ اس بوزہ ہو کلام خدا
 ایمان گھوہہ ہا تازہ بہہ بوزہ ہو تازہ احکام تین ہند ثواب سے کہہ ہو حاصل۔ خصوصاً ہر گاہ جہادک حکم سے تھہ
 منز آسہا اس گرہ ہو خدایہ سنزہ و تہ اندر جہاد فَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذَكَرْنَا فِيهَا الْقِتَالَ تو پتہ یلہ
 نازل چھہ یوان کرنہ کانہہ مضبوط ناقابل نسخ، صاف صاف مضمونک کانہہ سورہ شریفہ تھہ منز چھہ اتفاقاً جہاد
 کرنہ نک حکم سے آسان رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
 تھہ ساتہ گھوہہ نظر دن تین لوگن کن بہندہ دن دن اندر نفاق پیمار چھہ۔ تین چھہ وہ گھوہان و تھہ۔ تم
 چھہ و چھان توہہ کن یار رسول اللہ زن موتن پان چھہ آسان ہوومت تہہ سیت چھہ وہ ڈھٹھ آسان
 پھیر مژساری سے پانس فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ تھہ آہ شہمت۔ تم سپدان عنقریب بلا یہ گرفتار۔ اگرچہ تم
 چھہ فرصت کہ وقتہ واریاہ تھہ اطاعتچہ سے فرماں برداری ہنزہ کران لیکن تہندہ اطاعت سے تھن ہنزہ حقیقت
 سہ معلوم جہادک حکم نازل سپدنہ سیت طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ تہندہ خاطرہ اوس بہتر ٹھہز
 فرمانبرداری کرن بہہ توہہ رت جواب پیش کرن۔ سمعنا و اطعنا و امنن فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ

فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ﴿۲۶﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ
 الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿۲۷﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا
 مَا اسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿۲۸﴾ أَمْ حَسِبَ
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿۲۹﴾
 وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمُ فَعْرَفْتَهُمْ بِسِينِهِمْ ۖ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ
 الْقَوْلِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿۳۰﴾ وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ

سیت کہ سمو منافقو دوپ تمن لوکن تمن ناہند چھہ قرآن مجیدک نبی کریمؐ پیٹھ نازل سپدن یعنی
 یہوؤن کہ اسی گرو تہنز فرمانبرداری بعضے معاطن اندر۔ اَس چھہ پن پان بظاہر مسلمان ستر وان مگر
 اندرونی چھہ اسی توہی سیت۔ یمہ کتھہ چھہ تم منافق ژورہ پاٹھ کران۔ مگر اللہ تعالیٰ چھہ زانان تہنزہ
 سارے کنہ پھسرایہ پورہ پاٹھ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ کس کیاہ سنا
 حال آسہ تہند سمہ ساتہ زوکن تمن ملایک۔ تے آس تہندین تمہن تھاپرہ لایان بیہ تہنز چھہ دگان
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ یہ امہ طریقہ تہند مران چھہ امی
 موکہ کہ تم پکب تمہہ وتہ تہہ بیزارہ چھہ اللہ تعالیٰ بیہ کرہ سمو نا پسند تمہہ عملہ سمو سیت خدایہ سنزہ
 رضامندی حاصل سپدہ بچھہ۔ کس کرہ اللہ تعالیٰ ان تہنزہ سارے عملہ ضایع۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ کیاہ تم لوکہ یہندہ ین وکن اندر نفاق بیمار چھہ تمن چھا
 گمان کہ اللہ تعالیٰ کیاہ کرنہ تہندین دی عداوتن تہ بغضن ظاہر وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمُ ہر گاہ اَس یڑھو اَس
 ہاووہ توہی تم لوکہ فَعَرَفْتَهُمْ بِسِينِهِمْ توہی چھو کہ تم ہرزہ ناومت تہند یو علامتو سیت۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ
 فِي لَحْنِ الْقَوْلِ بیہ ہرزہ ناویو کہ تہہ تم کھن ہندہ طرزہ سیت کیاہ تہنزہ کتھہ چھہ پڑہ دلہ پیٹھ
 دو تھان۔ بیہ چھہ پڑیک اژدلس پیٹھ یوان وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ اللہ تعالیٰ اَس چھہ خبر تہنز
 سارنے کا مین ہنز۔ سہ دیہ مسلمان پنہہ اخلاص مزور۔ منافقن نفاق تہ دھوکچ مزور۔ وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ

مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ^(۳۱) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
 تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَيَسْخِطُ أَعْمَالَهُمْ^(۳۲)
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
 أَعْمَالَكُمْ^(۳۳) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
 مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ^(۳۴) فَلَا تَهْنُؤُوا تَدْعُوا إِلَى
 السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ^(۳۵) وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكُمْ أَعْمَالَكُمْ^(۳۶)


تَعَلَّمُ الْمُتَهَيِّدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ^(۳۱) بے گروا اُس ضرور توہمہ سارے آزما ئیش مشکل سے سخت احکامو سیت۔ بٹھ ظاہر سپدہ توہمہ منزہ کم چھہ جہاد کردون بے کم چھہ جہادہ کین تکلیفین پیٹھ صبر کردون سے ثابت قدم روزہ دون۔ بے گروا اُس تحقیقات تہندین سارے حالاً ن ہند إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَيَسْخِطُ أَعْمَالَهُمْ^(۳۲) بے شک سمولو کو کفر کور بے رنجھ لوکھ خدایہ سزہ وتہ نشہ لوکن دیکھ نہ دین اسلام قبول کرنے بے کمر کہ مخالفت پیغمبر خدایہ سز تہن نشہ ہدایت صاف ظاہر سپدہ پتہ، تم بھکن نہ کانہہ نو نقصان وادہ تاوتھ خدائس کئی چیزہ سیت۔ اللہ تعالیٰ کرہ تہمزہ سارے کامہ ضائع تہ برباد یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ^(۳۳) اے با ایمانو تہہ کمر و فرماں برداری خدایہ سزہ بے پیغمبر خدایہ سز بے کمر و پتہ عملہ ضائع إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ^(۳۴) بے شک سمولو کو کفر کور بے کمر کہ خدایہ سز تو تھ بندہ، لوکن دیکھ نہ تمہ وتہ پتہ تو پتہ مود تم اتھ حاس پیٹھ ادہ اللہ تعالیٰ کرہ نہ ہر گز تہندین گو نمن مغفرت فَلَا تَهْنُؤُوا تَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ^(۳۵) اے مسلمانو تہہ مہ سپد و پست

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ دِرْهَمٌ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ
 أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنَّ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخُلُوا
 وَيُخْرِجْ أَمْوَالَكُمْ ۚ هَٰئِنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ۗ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَخِلْ عَن نَّفْسِهِ ۗ

ہمت نہ سست۔ تہہ مہ دیو کا فرن دعوت یوزے صلحس کن تمہہ سیت چھہ ذلت نہ پستی ننان تہہ چھوہ
 تھہ نہ غالب بہہ چھوہ توہہ پانہ خدیاری نہ مدد کرنہ خاطرہ سہ کرہ نہ ہر گز تہنزن عملن ہندس تو اہس
 اندر کی إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ دِرْهَمٌ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ یہ
 دنیا ج زندگی چھنہ مگر گنڈن نہ تماشہ۔ اگر کانہہ بن جان دمال امی دنیا خاطرہ بچاؤہ نہ یہ تمتع کیتہ کالہ
 خاطر چھہ نہ امیک حاصلہ کیاہ چھہ اتھ بدل ہر گاہ تہہ ایمان آؤہ نہ خدائس کھوڑو یعنی ایمان و تقوی اختیار
 کمر و تھہ منز جہاد بالنفس و المال شامل چھہ، سہ کرہ توہہ پتہ طرفہ پور مزدور عطا۔ بہہ چھنہ سہ توہہ نشہ
 بخنہ نفعک نہ فایدک طلب گار۔ توہہ نشہ چھنہ منگان مال تھہدئس تمئی عطا کورمت چھوہ اِن
 يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخُلُوا وَيُخْرِجْ أَمْوَالَكُمْ ہر گاہ اللہ تعالیٰ توہہ نشہ مال معہہ نہ زبردستی سان،
 تہہ کمر و تھہ منز بخل، توہہ سپہ مال خرچ کرن ناگوار۔ اللہ تعالیٰ کڈہ نہ ظاہر کرہ تمہہ سیت تھہدین دلن
 ہمد خیالات یعنی مال خرچ کرہ بچ ناگوارى هَٰئِنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ
 يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَخِلْ عَن نَّفْسِهِ توہہ بوزووارہ کہ توہہ گوہ ناتسے یمن نادا پوان چھہ دنہ
 خدیہ سزہوہ نہ اندر مال خرچ کرہ نس اندر حالانکہ تمیک اوس توہہ پانس نفع یس بخل کران چھہ خرچ
 کرہ نس اندر سہ چھہ بخل کران مگر پانس یعنی پن پان چھہ نفع دائمی نشہ محروم کران وَاللَّهُ الْعَزِيزُ

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝۴۸

وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ورنہ اللہ تعالیٰ جھنہ بے نیاز۔ سہ جھنہ محتاج کانسہ کن بلکہ چھوہ نمی تس کن محتاج
وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ہر گاہ تہہ تھ پھر و تہنہ ہ فرماں برداری نشہ
سہ آنہ توہہ بدل بھیس اگس قومس یم نہ تمہ پتہ توہہ ہی آسن۔ بلکہ آسن نہایت فرماں برداریہ کام بیہ
تمنی نشہ ہینہ۔



سُورَةُ الْفَتْحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ① لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ
 مَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ② وَ
 يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ③ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي
 قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ④ وَ اللَّهُ جُنُودُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑤ لِيُدْخَلَ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا بے شک اسہ کور توبہ عطا یار رسول اللہ من فتح یعنی صلح حدیبیہ۔ بس سبب سپہ سارنے تھن ہند لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ بھتھ اللہ تعالیٰ مغفرت گرہ توبہ برو تھنمین تہ پھنمین صوری خطاءن وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ سم پن احسانات اللہ تعالیٰ توبہ نسبت کران رود مثلاً نبوت، قرآن مجید بیہ واریہ علوم، وارہن اعمان ہند ثواب تمن احسانان اندر کرہ بیہ زیادتی تہ تکمیل بیہ کرہ توبہ بیہ نعمت تہ عطا کہ تہندہ واسطہ سپدن واریہ لو کہ مسلمان تمہ سیت سپدن تہندی در جات تھد۔ توبہ سپدہ اجر و ثواب و قرب زیادہ عطا بیہ بھتھ توبہ پکناوہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ راہ راستس پیٹھ کانہ ہندہ مزاحمتہ وراے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا بیہ بھتھ اللہ تعالیٰ توبہ دشمن پیٹھ یاری گرہ۔ سوے یاری بھتھ منز عزت تہ غلبہ آسہ۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ سہ معبود برحق گووسی تم پادہ کور بال ایمان ہندین وکن اندر سکون قرار تہ تحمل۔ بھتھ تمن ایمانس پیٹھ ایمان ہرہ تہ زیادہ سپدہ وَ اللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر دور دگاہ سزے چھہ آسمان تہ زمین ہنز لشکر۔ ملائکہ وغیرہ مخلوقات۔ ہر گاہ سہ یڑھہ آنا فنا منز بیہ سہ کافرن

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ ۝ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

زبردست انتقام مگر **وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا** اللہ تعالیٰ ہرچہ سورے زانہ ون، پور حکمت و دل۔ تس ہرچہ خبر کہہ ساتھ ہرچہ لڑائی کرن مفیدتہ گمہ ساتھ ہرچہ صلح کرن مفید۔ سہمہ ساتھ جنگ کرہ نس منز مصلحت آہہ تمہہ ساتھ ہرچہ تمہہ کوئے حکم فرماوان۔ تہنہ گورہہ چون وچراورائے تہہ منز شمولیت کرن۔ سہمہ ساتھ صلح کرہ نس منز مصلحت آہہ تمہہ ساتھ ہرچہ تمہہ کوئے حکم فرماوان۔ تہنہ گورہہ نہ تہہ اندر رنج و افسوس کرن۔ تہنہ گورہہ پر تہہ حاکس منز اطاعت کرن **لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا** تہہ تمہہ اطاعت و فرماں برداری سیت ولتہ تاوہ اللہ تعالیٰ با ایمان مردن تہہ با ایمان زنان تہہ تمن جتن منز سمو منز کولہ تہہ جو یہ پکان آسن۔ تمنے جتن منز روزن تم ہمیشہ۔ یہ تہہ اللہ تعالیٰ امہ اطاعت سیت تمن با ایمان ہندی گناہ دور کرہ۔ یہ بیان کر نہ او۔ یہی ہرچہ اللہ تعالیٰ اس نشہ بڈ کامیابی **وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ** یہ تہہ اللہ تعالیٰ منافق مردن تہہ منافق زنان، یہہ مشرک مردن تہہ مشرک زنان سم گمان بڈ اس تھوہون خدا یس نسبت کہ خدا کرہ نہ مدد تہہ یاری حضرت محمد س تہہ مسلمان **عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ** یہ ہرچہ مصیبت پنے تمن پانس۔ تمن ہرچہ عنقریب پوت کھور یوہ ون۔ چنانچہ مشرک سہد تمہہ پتہ کنیون و دہن تان ختم۔ منافقن گنیہ عمر ڈاکی افسوس و خسرتس اندر۔ اسلام رود۔ روز بروز ترقی کران۔ منافق رُود روز بروز خوار و ذلیل گورہان۔ یہ گو کہ دنیا س اندر **وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا** یہ ہرچہ آخرتس اندر تہہ

وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ①
 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ② لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ③
 إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
 فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ
 اللَّهُ فَمَنِّيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ④ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ

خاطرہ ای زہ اللہ تعالیٰ آسہ تمن بیزارتہ غضبناک بیہ کرہ سہ تمن پندرہ رحتہ رشتہ دور۔ بیہ تھوون تہندیہ
 خاطرہ تیار نار جنم یوسہ سیٹھاہ بیچہ جای چتھ تہندیہ وانتہ خاطرہ وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ
 اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا پروردگارہ سزے چتھ آسمانن تہ زمین ہنز لشکر۔ سہ چتھ سیٹھاہ حکمتہ وول تہ لہذا
 چتھ سہ تہندس عقوتس اندر توقف کران إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بے شک آسہ سوزوہ
 تہہ یار رسول اللہ امتہ چن عملن ہند گواہ قیامتگ دوہ بشارت فرماوہ ون با ایمان تہ بیم کرہ ون کافرن۔
 اے مسلمانو آسہ سوز تم پیغمبر لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ چتھ تہہ ایمان انو خدا ایس۔
 بیہ تہندس پیغمبرس۔ بیہ چتھ تہہ تہندس دینس مدد کمر و بیہ چتھ تہہ تہند سیٹھاہ تعظیم کمر و اعتقاد
 تھا و کہ سہ چتھ موصوف بصفات کمال۔ منزہ تہ پاک نقا پھو رشتہ۔ بیہ کمر و تہنز اطاعت و تَسْبِيحُوهُ بُكْرَةً
 وَأَصِيلًا بیہ چتھ تہہ پاک تہندیاد کران آسہ صحتس تہ شامس إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ
 پز پاتھ تم لو کہ توہہ سیت یار رسول اللہ حدیثیہ کہ دوہہ جہادہ خاطرہ بیعت آس کران تم آس فی الحقیقت
 بیعت کران خدا ایس سیت۔ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ گویا خدا یہ سندا تھہ چتھ تہندین اتھن پیٹھ فَمَنْ
 نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتْ عَلَى نَفْسِهِ ایس ایس اکھاہ یہ معاہدہ پھڑاوہ یعنی بجای اطاعت کرہ مخالفت تمہہ عہد
 پھڑاونک و بال تہ گوناہ چتھ تس پانس وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنِّيهِ أَجْرًا عَظِيمًا بیہ ایس اکھاہ
 پورہ کرہ تھہ عمدس ایس تم خدا ایس سیت کور ایس دہہ سہ عنقریب بدمزور سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ

الْأَعْرَابِ شَغَلْتَنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا يَقُولُونَ
 بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ طُفْلٌ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ
 اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۱۱ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَّ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۝۱۲
 وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝۱۳ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا

مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْتَنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا دُونِ يَلِهٍ تَهْمِ مَدِينَةِ شَرِيفٍ وَالتَّوْبَهُ نَشِ حَاضِرِ
 سِدِّ تَهْدٍ وَنَ تَوْبَهُ تَمَّ لَوْ كَه تَمَّ تَوْبَهُ سِيَتِ سَفَرِ حِدِّ تَيْسِ شَامِلِ سِدِّ نَهْ گَامَه كِيَلُو كُو أَنْدَرَه نَفَا قَه سَبِيَه اِبْرَ عَزْدَرَكِه
 اَسْ حَضْ كَمَرِ اَوْرَمَانِ تَه عِيَالِنِ - تَهْمِدِه رَا حَه خَا طَرَه اَوْ س نَه اَسِه گَرَن اَنْدَر كَانِه تَه - دُونِ مَعْوِ خَدَا لَيْسِ
 سَا تَه اَمِه كُو تَابِي خَا طَرَه مَغْفِرَتِ تَه بَخْشَا لَيْشِ يَقُولُونَ يَا لَيْسَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ تَمَّ لَوْ كَه وَنَ
 زِيُو سِيَتِ حَه تَهْمِه سَمِه نَه تَهْمِدِيَن دَلِنِ مَنْزِ اَسْنِ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تَهْمِه فَرَمَا يُو كَه
 يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كَهْمِه شَخْصِ هَهْمِه سَه لَيْسَ خَدَا لَيْسِ بَرُو تَهْمِه كَهْمِه تَهْمِدِه خَا طَرَه كَهْمِه چِيْزِ سِ پِيْطِه اَخْتِيَارِ حَهْمِه تَهْوَا وَا ن
 اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا هَر گَاهِ اللّٰهُ تَعَالَى تَهْمِدِه خَا طَرِيْطَهْمِه كَانِه نَقْصَا نَاهَا يَا كَانِه فَا سَيَا دِه اَبْ كَلْ
 كَانِ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ كَهْمِه اللّٰهُ تَعَالَى تَهْمِزِنِ سَارِنِه كَامِيَن پِيْطِه مَطْلَعِ تَمِي كُو رَمِيَه خَبْرِ بَذَرِيَعِه
 وَحِي كَه تَهْمِدِه هَهْمِه رُوْزِ كُ وَجِه اَوْ س نَه تَهْمِيَه تَوْبَهُ بِيَا نِ كُو رُو ه بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 اِلَىٰ اَهْلِيهِمْ اَبَدًا بَلْ كَه اَوْ س تَهْمِدِه هَهْمِه رُوْزِه نَكِ اَصْلِي وَجِه كَه تَوْبَهُ اَوْ س گَمَا نِ كَه حَضْرَتِ بِيْغَمِرِ خَدَا لَيْسِ
 بَا اِيْمَانِ بِيَن نَه پِنِه لَيْسِ عِيَا لِسْ لَنْ هَر گَزِ وَا لَيْسِ بَلْ كَه مُشْرِكِ گَرَن تَمْنِ سَارِنِه خَتْمِ وَزَيَّنَّ ذَلِكَ فِي
 قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ يَه تَهْمِه اَسْ تَهْمِدِيَن دَلِنِ مَنْزِرُ تَه جَا نِ بُوْزْنِه يُوَا نِ - نَبِي كَرِيْمِ صَلِي اللّٰهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَه بَا اِيْمَانِ هَهْمِه عِدَا وِتِه مَوْكَه اَوْ س تَوْبَهُ اَمِيْگِ تَمْنَا هِيَه - بِيَه اَسُو هَهْمِه وَا رِيَا ه گَمَا نِ بَدْ كِرَا نِ
 وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا تَهْمِه سِدِّ دِه مِيَه بِيْجَه گَمَا نِ هَهْمِه سَبِيَه هَلَا كِ تَه بَر بَا سِدِّ دِه وَا نِ لَوْ كَه - هَر گَاهِ دُونِ تَهْمِه عَذَا بْگِ

أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝۱۳ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط
يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۴
سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا
ذُرُوزًا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُل لَّنْ
تَتَّبِعُونَا كَذٰلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَمَيَّقُولُونَ

وعدہ بوز تھ ایمان آؤیہ گووجان ورنہ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا
تم نہ وعید بوز تھ تہ پڑھ کرن خدائس تہ تہمدس رسولس، اده متہ کرتن۔ اہہ چھہ تین پڑھ نہ کرہ
وینن تہ منکرن ہندہ خاطرہ وزہ ون نار تھوومت۔ باایمان تہ کافرن ہندہ خاطرہ الگ الگ قانون مقررہ
کرہ نس پیٹھ گڑھ نہ تعجب کرن **وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ سے چھ حکومت تہ سلطنت آسمان تہ زمین ہنز۔ سہ چھہ اختیارہ دول نس
خوش کریس نس کرہ مغفرت۔ نس خوش کریس نس کرہ عذابس گرفتار۔ باایمان ہندہ خاطرہ چھہ تہ
یوڑھمت مغفرت کرن۔ کافرن ہندہ خاطرہ عذابس گرفتار کرن۔ سہ چھہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون،
سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ ہر گاہا کافر تہ توبہ کرن تہ ایمان انن تہ کرہ مغفرت **سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ**
إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذُرُوزًا نَتَّبِعْكُمْ وون ون توبہ اے مسلمانو تم تم سفر حد بیس
نشہ پٹھ روزہ ون لوک آسن تمہ ساتہ تہہ ہیو پچن جنگ خیبرس کن تیک مال غنیمت حاصل کرنہ خاطرہ
کہ اہہ تہ دیو پیہر نیر نہ۔ اسی پچو تو ہی سیت خیبرس کن **يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ** تم چھہ یڑھان
امہ سیت خدایہ سندس کلامس بدل کرن۔ خدایہ سند حکم اوس کہ تم لوکھہ سفر حد بیس شامل اس تہن
ورائے گڑھ نہ جنگ خیبرس کا نہہ تہ نیرن **قُل لَّنْ تَتَّبِعُونَا كَذٰلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ** تہہ
فرماو یو کہ اے لوکو تہہ ہیو نہ اہہ سیت ہرگز شامل سپد تھہ تھہ پاتھ چھہ اللہ تعالیٰ ان بروٹھے
فرموومت **فَمَيَّقُولُونَ بَلْ نَحْصُدُونَنَا** تم دپوہ تورہ توبہ چھوہ ساتہ فایدک ازرون یوان، اہہ

بَلْ تَحْسُدُ وِنَتَابِلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۵
 قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سِتْرٌ مِّنْ قَوْمِ أُولَىٰ أَبْسِ
 شَدِيدٍ يُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۚ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا
 حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۶
 كَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْبٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْبٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
 حَرْبٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

سیت ہجھہ حسد کران بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا از زرون تہ حسد ہجھنہ۔ بلکہ ہجھنہ تمن اصل
 مطلب فکری تران۔ یہ ہجھنہ تم زمان کہ یہ ماہجھ تمن سفر حدیبیہ نشہ بے وجہ پتھ روز نگ سزا۔ تمہ
 علاوہ ہجھنہ تمن فکرہ تران کہ یہ حکم سپد نازل وحیہ کہ ذریعہ اتھ منز ہجھنہ حسد آسس تعلق قُلْ
 لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سِتْرٌ مِّنْ قَوْمِ أُولَىٰ أَبْسِ شَدِيدٍ يُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ جہہ فرماوو یا
 رسول اللہ تمن یم حدیبیہ نشہ پتھ روزہ ونین بدوین، ای لو کو ہر گاہ توہہ جنگ خیبرس منز شامل
 سپد ونہ، تہ کیاہ اتھہ جھہ۔ ہر گاہ توہہ واقعی ہنز پاتھ شوق ہجھہ جہاد کرہ نگ ثواب حاصل کرنہ خاطرہ سن
 توہہ واریاہ موقعہ چنانچہ عنقریب بیہ توہہ نادنہ آگس قوس سیت جہاد کرنہ خاطرہ تم سخت جنگ کرہ
 ون آسن مراد ہجھہ أمہ قومہ اندرہ فارس تہ روم۔ تہہ کرہ تمن سیت جہاد یوتان تم آن مان اسلام
 قبول کرنہ سیت یا جزیرہ دنہ سیت ۚ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا نَس ہر گاہ جہہ تمہہ ساتہ خدلیہ سُنْد
 حکم مانو، جہادس نیر واللہ تعالیٰ کرہ توہہ رث مزوری عطا ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا
 أَلِيمًا ہر گاہ جہہ تمہہ ساتہ تہ روگردانی کثرو، ہجھہ پاتھ توہہ برونہ تہ روگردانی کر مژہ ہجھوہ اللہ تعالیٰ کرہ
 توہہ کڈر عذاب۔ البتہ جہادہ نشہ ہجھہ بعض لوکھ متشئہ تہ کیس علی الاعمى حرب ولا على الاعرج حرب ولا
 على المریض حرب چنانچہ ہجھنہ انس پیٹھ کانہہ گوناہ بیہ ہجھنہ لنگس پیٹھ بیمارس پیٹھ کانہہ گوناہ ہر گاہ تم
 جہادس شامل سپدنہ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَس فرماں برداری

الْأَنْهَارِ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ
 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
 فَأَنْزَلَ السِّكِّينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۙ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً
 يَأْخُذُ وَنَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۙ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ
 كَثِيرَةً تَأْخُذُ وَنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ
 عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۙ

کرہ خدایہ سزبیہ تہمیدس پیغمبرہ سزئس واتاواہ اللہ تعالیٰ تمن جنتن منز سمو منز ر نگارنگ یتہ قسما قسم کولہ
 پکان آسن وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا نئس روگردانی کرہ، احکامونشہ بئھ پھرہ نئس کرہ اللہ تعالیٰ
 کڈر عذاب لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ تھقیق راضی یتہ خوش سئن اللہ
 تعالیٰ باایمان پیٹھیلہ تم توہمہ سیت یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت آس کران بگر کئس تل،
 کافرن سیت ثابت قدمی سان جہاد کرہ نس پیٹھ بئن پان اسلا مس پیٹھ فد اکرہ نس پیٹھ فَعَلِمَ مَا فِي
 قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السِّكِّينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ تعالیٰ آس اوس یتہ معلوم پیہ تھندین وکن منز
 اوس، اخلاص یتہ عزم وفاداری ہند۔ پس تروو اللہ تعالیٰ ان تمہہ وقتہ تمن پیٹھ الطمینان یتہ سکون سمہ
 سیت نہ تمو حکم خدانہ نس اندر عنہ قسمہ پس و پیش کور۔ پیہ دیتھکھ انعام امہ پتے بڈفخ یعنی فتح خیر
 وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُ وَنَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بیہ کور کھ عطا سیٹھاہ مال غنیمت یتھ پیٹھ تمو
 قبضہ کور۔ اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھاہ غالب یتہ قدر یتہ وول، سیٹھاہ حکمتہ وول۔ سہ چھہ پنہ قدر یتہ سیت حکمتہ
 سیت نئس یرٹھان نئس مناسب و قئس پیٹھ فتح عطا کران فتح خیر سے پیٹھ چھہ معاملہ ختم بلجم وَعَدَّكُمْ
 اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وَنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ اللہ تعالیٰ ان چھہ وعدہ کورمت توہمہ سیت اے باایمانو
 وار سئن مال غنیمت ہند تم توہمہ حاصل کرہ سمو منزہ جلد بکن سر دست پیہ فتح خیر عطا کرنوہ وَكَفَّ
 أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ پیٹھ پیہ واقعہ پیہ مال غنیمت

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۲۱﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلِيُّ
 الْأَدْبَارُ لَمْ يَجِدُوا لَكُمْ إِلَٰهًا وَلَا نَصِيرًا ﴿۲۲﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ تَجِدَاسُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۲۳﴾
 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ
 مِنْ بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿۲۴﴾

حاصل سپدن اکھ بوڈ نشانہ تہ نمونہ بنہ بالیمان ہندہ خاطرہ پروردگارہ سندن پزین وعدن پیٹھ تہ حضرت
 رسول کریمہ سزین ہون پیشینگو مین پیٹھ بیہ سٹھ اللہ تعالیٰ تھاوہ توہمہ محکم تہ مضبوط راہ راستس پیٹھ۔
 تہی آسو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ پورا اعتماد کران **وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ**
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا بیہ سٹھ کرہ اللہ تعالیٰ توہمہ عطا بیا کہ فتح یعنی فتح مکہ یوسہ نہ ونہ تہندس قابو اس
 منز آمز چھ مگر اللہ تعالیٰ سندس عکس تہ تہندس احاطہ قدرتس اندر چھہ آمز۔ یلہ سہ یٹھہ تمہ
 ساتہ کرہ سہ توہمہ عطا سو فتح۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھہ ہمیشہ پر سٹھ چیزس پیٹھ۔ قدرتہ دول **وَلَوْ قَاتَلَكُمُ**
الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلِيُّ الْأَدْبَارُ لَمْ يَجِدُوا إِلَٰهًا وَلَا نَصِيرًا بیہ ہر گاہ کافر توہمہ سیت صلح کرہ ہن نہ
 لڑائی کرہ ہن ضرور پھیرہ ہن تم پوت شکست کھیتھ کیا زہ تہندہ مغلوب سپدن وجوہ اس موجودہ تم بروٹھ
 بیان کرنہ یں۔ تو پتہ لبہ ہن نہ کانسہ اکس حمایت تہ مدد کرہ ون **سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ**
تَجِدَاسُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا کافرن شکست تہ بالیمان فتحیہ چھہ قانون خدایہ سندن بروٹھ پیٹھ جاری
 کہ مقابلہ کہ وقتہ چھہ اہل حق غالب تہ اہل باطل مغلوب سپدن تہہ لبونہ یار رسول اللہ اتھ خدایہ
 سندس قانونس تہ دستورس منز ہر گز تغیر و تبدل کئہ وقتہ امیک بدل سپدن چھہ مبنی کئہ جنس پیٹھ
 آسان **وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ** سہ
 پروردگار گوسئ تم کافرن ہندا اتھ چھہ رٹ توہمہ تکلیف و اتاوانہ نعرہ یعنی توہمہ قتل کرنہ نعرہ بیہ تم تہند

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ
 مَعَكُمْ فَإِنْ تَبَلَّغَ حَيْلُهُمْ وَلَوْ لَارْجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ
 لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِبِيكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ
 لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ

اتھ ہتھ رٹ تمین تکلیف واتناوندہ لہیہ یعنی تم تہمدہ اتھ مارہ گوہنہ لہیہ عین مکہ شریفس نزدیک یعنی
 حد پینس منز توہہ تمین پیٹھ غلبہ دتھ تم آس تمہ وقتہ تہمدس قابواس منز آمت ہر گاہ امہ وقتہ جنگ
 سپدہ ہائہ روزہ ہاوارئیس کالس جاری۔ یمہ جموونہ سپد نس منز آسہ تمہ سپدہ ہن ضائع وکان اللہ ہنا
 تَعْلَمُونَ بَصِيرًا اللہ تعالیٰ اوس تہمزہ کامہ وچھان تمو اندرہ تھہ پانھی آئے کی شیتھ زنی توہہ تکلیف واتناوندہ
 خاطرہ۔ توہہ کرووکہ تم گرفتار توپتہ آئی دوکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برونٹھ کین۔ تمو دژ بھ
 معانی۔ اللہ تعالیٰ اوس تمہ وقتہ تہمزہ سارے کلمہ وچھان۔ تمین کائین ہندین اثراتن اوس زانان، تمی دژنوہ
 نہ توہہ کام کرنہ تمہ سیت جنگ دوتھ ہا۔ **هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ**
مَعَكُمْ فَإِنْ تَبَلَّغَ حَيْلُهُمْ تم منک لوکھ گئے تھے تمو خدا ایس نسبت کفرتہ انکار کور۔ یہ رٹ ہوہ تہہ ہتھ
 عمرہ کرہ نہ لہیہ۔ مسجد حرامس اندر خانہ کعبس طواف کرنہ لہیہ یہ رجھ ہتھ تہمدی قربانی ہندی جانور،
 تم مقام حد پینس اندر آئی بند کرنہ۔ تمین دیتھ نہ واتنہ قربان گرہن جانن اندر یعنی مٹی اس منز ایس
 مسجد حرامہ کیو تو ابھواندرہ ہتھ تم چیز آس منگان کہ مسلمانن لیہ ہا اجازت دنہ جنگ کرنہ نک تا یحیہ
 تم کافر سپدہ ہن مغلوب۔ لیکن بعضے حکمو سپزہ مانع امہ لہیہ **وَلَوْ لَارْجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ**
تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِبِيكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ ہر گاہ واریاہ با ایمان مردتہ واریاہ با ایمان
 زنانہ آسہ ہن نہ مکہ شریفس منز تمین ہنز نہ توہہ خبرے آس خطرہ اوس کہ تم کر ہوکھ ہتھ جھکے کہ وقتہ
 لتہ مونجہ پس ولتہ ہا توہہ بے خبری منز سٹھاہ ضرر توہہ یہ ہا ضرور جنگ کرہ تک اجازت دنہ مگر سہ
 اجازت آوندہ دنہ کیا زہ **لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ** ہتھ اللہ تعالیٰ داخل کرہ ہاپنہ نس رحمتس منز

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۲۵ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۲۶ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبِّيًّا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا

نہیں بیڑہ ہاتھ اس اسلاس مشرف سید نہ سیت لَو تَزَيَّلُوا الْعَدَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ہر گاہ تم با ایمان مردہ با ایمان زنانہ ایم مکہ شریف منز آس تمہ شہرہ منزہ اورہ یورگن گا متی آسہ ہن سبیلہ کرہ ہو آس تین لوکن سموگر کور مکہ کیولو کو اندرہ مسلمان ہندیواتھوسیت نڈر عذاب اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ یہ واقعہ گووتی ساتہ سمہ ساتہ کافر و تھو دینہ نین دلن اندر سخت تھب تہ جاہلانہ جوش۔ سمہ سببہ اشتعال انگیز تھہ ہبہ کہ کر نہ سہ تہ اوس باعث کہ مسلمان کرہ ہن مشتبعل سید تھہ جنگ شروع۔ یہ گووتی وقتہ بلکہ صلح حدیبیگ مسودہ لیکنہ یوان اوس بسم اللہ تہ رسول اللہ لیکنس پیٹھہ کرتمو کافر و مسلمان سیت ضد تہ ہٹ دھرمی قَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ کس کور اللہ تعالیٰ ان پنے طرفہ صبر و تحمل تہ سکون پنے کس پیغمبرس یہہ با ایمان پیٹھہ سمہ سیت تموضبط کور تین کلماتن ہندس لیکنس پیٹھہ کور کہ نہ اصرار تا لیکن صلح سپد مکمل کافر بچے مارہ گرہنہ نشہ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اللہ تعالیٰ ان تھاو تم مضبوط تہ محکم تقویٰ کس کس پیٹھہ گوو کلمہ طیس پیٹھہ یعنی توحید و رسالت پڑھ پیٹھہ یوسہ متقاضی تھہ خدا و پیغمبرہ سیدس کس اطاعت کرہ کس واقعی آس تم تھہ تقویٰ کس کس دنیا س اندر مستحق یہہ آس امہ کس ٹو اس لائق آخر کس اندر وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ تھہ پر تھہ چیزہ پورزانہ ون لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبِّيًّا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ


لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا
 قَرِيبًا ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

وَمُقَدَّرِينَ لَا تَخَافُونَ اللہ تعالیٰ ان ہووینہ نس پیغمبرس پوز خواب لیس تمو سفر حدیبیہ بروٹھ وچھمت
 اوس لیس واقس سیت مطابق اوس زہ ضرور آژوٹھہ ساری مسجد حرامس منز بعضے آسن مس کاسٹھ تہ
 بعضے آسن مس کر پتھ خوف و خطرہ ورائے، امن و امانہ سان۔ امہ اندرہ پتھ مراد عمرہ تھہ منز پتھ
 آسان حلق و قصر یعنی مس کاسن تہ مس کر من تہ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا پس زان تم یرھہ مصلحت
 صلحس اندر پوسہ مصلحت نہ تھہ زانہ ہو۔ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا پس کر اللہ تعالیٰ ان مکنس
 منز فاتحانہ اژنہ بروٹھ اتھ پیٹھہ بیاکھ فتحا توہہ عطا یعنی فتح خیبر دویمہ دریہ دراوخابک تعبیر اللہ

تعالیٰ ان کورتن فتح مکہ عطا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا سہ پروردگار گوسے یم سوز پن پیغمبر بڈہ ہدایتک سامان ہتھہ یعنی قرآن مجیدہ
 پوز دین یعنی اسلام ہتھہ تھہ دیکس غالب کرہ سارنہ دین پیٹھ باعتبار حجت و دلیل ہمیشہ مگر باعتبار
 شوکت و سلطنت اہل اسلام بشرطیکہ تمن منز آسہ تج صلاحیت سو صلاحیت آسہ صحابہ صائن اندر لہنہ
 یوان۔ بس پتھہ اللہ تعالیٰ امیک گواہ سہ پتھہ تہمدہ رسالتک تصدیق کران۔ اللہ تعالیٰ سنز گواہی دن گیہ
 کہ تمی کرہ دلیلہ قائم تہمدس رسالتس پیٹھہ بس سید دلا نیلو سیت ثابت کہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حضرت
 محمد ﷺ پتھہ خدیجہ سید پیغمبر امہ سیت سید تسلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس دل مبارکس کہ ہر گاہ صلح
 حدیبیس منز کافر تہمدس نام مبارکس سیت لفظ رسول اللہ جھنہ ووان لیکنہ تھہ مہ حض گڑھو آژردہ
 آس پتھہ قرآن مجیدس منز تہمدس نام مبارکس سیت یہ لفظ لیکھان بس قیاس تان باقی روزہ وَالَّذِينَ
 مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَوَاهِبُهُمُ وَالْمَوَدَّةُ سیم لوکھ انس پیغمبرس سیت پتھہ یعنی صحابہ صاب
 ساری تم پتھہ کافرن ہمدہ حقہ سخت تیز زور آور۔ پانہ و ان پتھہ یعنی مسلمان سیت سیٹھاہ رحم دل تہ

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
 وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
 الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى
 عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۶۹﴾

مہربان۔ وچہہ بکھڑے اے مخاطب تم رکوع کران تہ سجدہ دو ان یعنی نماز پر ان یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
 وَرِضْوَانًا ژھانڈان چہہ تم پروردگارہ سُنْد فضل یعنی ثواب یہ یعنی قرب خدا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ
 أَثَرِ السُّجُودِ علامت تہند چہہ تہندین تھن پیٹھ سجدہ کہ اثرک یعنی تہندی تھی چہہ نورانی ذَلِكَ مَثَلُهُمْ
 فِي التَّوْرَةِ سم صفت تہندی چہہ توراس اندر وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ
 فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ یہ چہہ انجیلس اندر تہند یوہے صفت۔ تہنڑیٹال چہہ
 زراعتیٹال ٹس کڈان چہہ گوڈہ ہن لوٹ شاخ تھ چہہ طاقت دو ان یوتان سہ ویٹھان تہ پوٹھان چہہ ،
 ایستادہ چہہ روزان پنہ نس دُئس تہ گوڈس پیٹھ۔ پنہ نشوونما سیت چہہ حیران کران زمیندارن۔ یوحال
 چہہ صحابہ صائبن ہند۔ ابتداءس اندر آس تم کمی وارہ وارہ دژکھ اللہ تعالیٰ ان ترقی لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
 بٹھ بٹھ تھہ دیاوہ تہندہ سیت کافرن۔ تم دزن حسدہ کہ نارہ سیت وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وعدہ تھو اللہ تعالیٰ ان تم لوکن سمو ایمان اون یہہ کرکھ
 رژہ عملہ صحابہ صابو اندرہ بڈہ مغفر ٹک یہہ بچہ مزورہ ہند



سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتَدُوا بِأَيْدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝^۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝^۲ إِنَّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتَدُوا بِأَيْدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے باایمانو پیشاباںی مہ کمر و خدایہ سندس بیہ
تہندس پیغمبرہ سندس کھمس کتہہ تنہ منزینتہ کامہ منزینتہ یوتان نہ تہند اجازت آسہ توتان گدھہ نہ پانے
گفتگو کرن پانہ وان۔ امہ آیہ کریمک شان نزول پٹھہ یہ کہہ کہ دوہہ آس قبیلہ بنی تمک کینہہ لو کہ امت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدقس اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان
در میان سدا تھہ مجلسہ منز گفتگو تھہ تھہ اندر کہہ تم لو کن ہند حاکم کہہ کرون مقرر (ابو بکر صدیق ؓ،
تم آس دپان قفعا بن معبدس نسبت، عمر بن الخطاب آس دپان اقرع بن حائس نسبت، گفتگو اس اندر
سزہ تہنزہ آوازہ بلند تھہ پیٹھہ سدی تم آیہ کریمہ نازل وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بیہ کھو ترو
خدائس۔ بے شک اللہ تعالیٰ پٹھہ تہنزہ سارے تھہ بوزہ ون، سارے کامہ زانہ ون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اے باایمانو بلند مہ آسو کران آواز بہنن نبی کریمہ سزہ آوازہ پیٹھہ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ بیہ مہ آسو تم سیت بدھ تھہ کران تھہ پاتھہ ہتہ بدھ
تھہ چھوہ کران اکھ اگس سیت۔ یامہ آسو تم آلودوان نام مبارکہ سیت یا کینتہ سیت۔ تھہ پاتھہ اگس پتس ہتہ
آلودوان چھوہ بلکہ آسو آلودوان تم تہندہ نبوتہ سیت یا عہدہ رسالتہ سیت۔ ونان آسویار رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم تھہ سیت ضابطہ گدھن تھنزہ عملہ توہہ روزہ نہ خبرے

الَّذِينَ يَعْضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 اٰمَنَ اللّٰهُ قُلُوْبُهُمۡ لِلتَّقْوٰی لَهُمۡ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝۳ اِنَّ
 الَّذِيْنَ يِنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجْرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝۴
 وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
 رَّحِيْمٌ ۝۵ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمۡ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَبْتَسُوْا اَنْ
 تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ ۝۶ وَاَعْلَمُوْا

اِنَّ الَّذِيْنَ يَعْضُونَ اَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰمَنَ اللّٰهُ قُلُوْبُهُمْ لِلتَّقْوٰی لَهُمۡ
 مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ بے شک ہم لوکھ پنہ آواز چھ پست کران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم برودتھ کنہ
 تہمدی دل کمر اللہ تعالیٰ ان خالص تقویٰ و پرہیزگاری خاطرہ۔ تہمدی خاطرہ چھہ مغفرت تہ
 بدمزوری آخرتس اندر اِنَّ الَّذِيْنَ يِنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجْرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ہم لوکھ توہہ یا
 رسول اللہ آلودان چھہ حجرات شریفو نمبر کن تمواندرہ واریاہ لوکھ چھہ بے عقل وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا
 حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ہر گاہ تم ذرا صبر تہ انتظار کرہ کن یوتان تہہ پائے تمن نشہ نیرہ ہو تہ
 اوس تہمدہ خاطرہ یث جان۔ ہر گاہ تم لوکھ و تہ توہہ کرن تہہہ مغفرت کرنہ کیازہ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
 رَّحِيْمٌ اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون تہمدہ حقہ تمن پنہہ غلطی بند احساس
 سپد تہہ نہامت پادہ سپدہ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمۡ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَبْتَسُوْا اے ایمانو ہر گاہ کانہہ
 شریر شخصاہ توہہ نش کانہہ خبر اہ و اتادان آسہ کانہہ خلاف تہہہ آس زہ تہہ گوڈہ تحقیقات کران تہہ سوچھا
 پز خبر کنہ اپز اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ چھہ تہہ کنہ تو مس یا جماعتس پیٹھ
 بے خبری منز کانہہ تکلیفہ و اتہ تا و و سمہ سببہ تہہ سپد و پنہہ غلط کارروائی پیٹھہ پتولا کہ نادم تہہ پشیمان۔ سمہ
 آہہ کر۔ سمک قصہ نزول چھہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوزی ولید بن عقبہ بنی مصطلق نشہ زکوٰۃ
 وصول کرنہ خاطرہ۔ ولیدس تہہ تہہ قبیلس منز اوس زمانہ جاہلیتس منز عداوت۔ ولیدس سپد توت گوڈہ

أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ
 لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ
 الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ۗ وَفَضَّلَا
 مِنَّا اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۙ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ

نس اندر اندیشه - سمویلہ ولیدہ سیدہ ہنگ بوز، تم در ای تس استقبال تمس گو و گمان کہ یم مدارای تمس
 قتل کرنے خاطرہ - سہ آو اہل مدینہ منورہ - توت و آنجھ وون پنہ خیالہ موجب کہ تم حض ہجھہ مخالف
 اسلام سدی مت - حضر تو سوز خالد بن ولید تحقیقاتہ خاطرہ - تمو کور تحقیقات واره پاٹھ توپتہ کور کہ
 عرض تم حض ہجھہ مکمل طور اسلامس پیٹھ ثابت تہ محکم - بعضے روایتن اندر ہجھہ کہ تم اہل قبیلہ آئے
 پانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ - ہجھہ پاٹھی سپد نازل یہ آیہ کریمہ **وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ**
 بیہ زانو کہ توہہ منز ہجھہ موجود پیٹھ خبر خدا - ہجھہ مہ آسو ایز معاملہ ہجھہ تمن نشہ یوان - اللہ تعالیٰ ہجھہ تمن
 اصل حالاتن پیٹھ مطلع کران - بیہ ہجھہ یہ تہندہ خاطرہ پروردگارہ سزبذ نعمت - امہ نمک شکر ہجھہ ای
 زہ ہجھہ مہ کرو تمن خلاف ہجھہ معاملس اندر آدہ آس تن سہ دنیاوی معاملے ہجھہ مہ تھا و بیہ خیال کہ تم کرن
 دنیوی معاملس اندر پائے نہ رہیہ سیتی موافقت کیا زہ **لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ** واریاہ ہجھہ
 ہجھہ تمہہ قسمجہ آسان کہ ہر گاہ تمن منز تم تہندمانن، توہہ سیت موافقت گران تمہہ سیت وائتہ توہہ سخت
ضَرَّرَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ لِيُكِنَّ
 اللہ تعالیٰ ان بجائے وہ ہجھہ مصیبتہ نشہ - ہجھہ پاٹھے کہ ایمان کا ملگ محبت کور نوہ عطا سہ حاصل کرن
 کورن تہندین وکن اندر مرغوب تہ پسندیدہ کفر تہ فسق یعنی گناہ کبیرہ بیہ مطلق گو نہن ہنز کرن توہہ
 نفرت سمہ سببہ ہجھہ پر ہجھہ وقتہ ہجھہ تلاش آسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزہ رضامندی حاصل
 کرہ نک **أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ** سببہ با ایمان سم تکمیل ایمان دلدادہ ہجھہ، ہجھہ راہ راستس پیٹھ
فَضَّلَا مِنَّا اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ پروردگارہ سیدہ فضلہ سیت تہ مہربانیہ سیت **وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ** اللہ تعالیٰ ہجھہ

الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنِ ابْغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنِ فَاءَتْ
 فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ ۙ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ
 يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا

سورے زانہ دن سے سیٹھاہ حمہ دول وَاِنَّ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنِ ابْغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہ ہر گاہ با ایمان ہنزہ زہ ہما ژپانہ وَاِنَّ لِرَأْيِ كُرْنِ تہہ كمر و تمن منر صلح، نئس چیز باعث ہٹھ لڑاہ ہندسہ كر دور۔ نئس ہر گاہ تودو یو اندرہ اكھ ہما تھہ ہئس ہما تئس پیٹھ زیادتی کرہ ہتھ كر وئس زیادتی کرہ وئس ہما تئس سیت مقابلہ یوتان تم رجوع کرن خدلیہ سدس لحمس نئس فَإِنِ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ پس ہر گاہ سو ہما تھہ سمو زیادتی کرے یہ رجوع کرن خدلیہ سدس لحمس نئس، ادہ كر و تمن منر اصلاح عدل و النصفانہ سیت یہہ آسو پر ہتھ معاملس اندر عدل و النصفانك خیال تھاوان بے شك اللہ تعالیٰ اس چھہ عدل گرہ و نے بندہ ناٹھ۔ اس نئس توہہ اصلاحك حکم كور امیک و جہہ ہٹھ کہہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ با ایمان چھہ دئس منر اشتراك آسنہ سببہ پانہ وانے بائے بائے۔ ہئن اندر ہٹھ یہ اشتراك فی الدین نسب معنویاہ اكھ۔ پس كر و ہتھہ اصلاح پنہ ہئن بائن منر۔ یہہ كھوژ و اللہ تعالیٰ اس كانسہ ہنز طرف و آری کرہ نئس یا انتقامی جذبئس كام ہئنس اندر، ہٹھ توہہ پیٹھ رحم یہہ كر نہہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ اے با ایمان توہہ منرہ مہ آئن كانسہ مرد مر دن پیٹھ آسان تہ ٹھٹھ كر ان عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ شاید ما آسن ٹھٹھ كرہ و نئن ہندہ خوتہ تہہ تہہ نئس ٹھٹھ چھہ یوان كر نہ بہتر تہہ

مِنْهُمْ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۱﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 إِثْمٌ ۚ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ
 لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾

افضل خدائیس نشہ۔ بیہ مہ آسن زانہ ٹھٹھہ کران بین زنان کیا زہ شاید ٹھٹھہ کرہ و نین زنان مہدہ خوتہ ما
 آسن تے زنانہ بہتر تہ افضل خدائیس نشہ تمن ٹھٹھہ چھہ یوان کرنہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ بیہ مہ آسبو
 اے مردو تہ اے زنان اکھ آس طعنے دو ان تہ عاب ژاران وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بیہ مہ آسبو اکھ آس
 ناوتہ ریزہ کڈان بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ایمانہ پتہ گو بہک ناؤ لکن چھہ سیٹھاہ پچھہ۔ یعنی
 ئیس پس شخصس ریزہ کڈہ سہ چھہ پانہ گو چھہ کار سپدان۔ تہ چھہہ با ایمانہ سبہ خاطرہ جان یا چھہہ مراد امہ
 منزہ کہ یلہ کانسہ ایمان او نمت آسہ گو بہو نشہ توبہ کور مت آسہ تس گزہ سن نہ پامہ دنہ برو ظنن کھن تہ
 کاین ہنزہ۔ یا آسہ کانہہ شخصاہ، نس آسہ پیدائشی کانہہ عاباہ تس تہ گزہ سن نہ تمک طعنے دنے تھہ منز
 کیاہ چھہ تم سہ قصور۔ سہ چھہ ٹیٹھہ چھہ کران تھور۔ تھہ چیزس تمس طعنے دین چھہ بے عقلی وَمَنْ لَّمْ
 يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تم لوکھ نہ تمو چیز و نشہ توبہ کرن تم چھہ ظلم کرہ و نیو آندرہ یعنی حقوق
 العباد تلف تہ ضائع کرہ و نیو آندرہ ئیس سزا ظالمین بیہ دنہ سے سزایبہ تمن تہ دنہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ اے با ایمانو پچھہ روز و گمانو نشہ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ کیا زہ بعضہ گمانہ چھہ گوانہ
 آسان وَلَا تَجَسَّسُوا ژر ژان مہ آسبو کانسہ یعنی کانسہ اک سندین حالاتن در پے مہ آسبو روزان وَلَا
 يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا نہ آسن توبہ آندرہ اڈی اڈین ہنز غیبت گران نہ عاب گزران أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن
 يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کیاہ توبہ آندرہ چھا کانہہ ئیس پنہ نس مردہ بائی سند ما ز کھیٹھہ بیہہ فَكَرِهْتُمُوهُ
 ان چھہ توبہہ یقیناً نفرت اٹھہ غائبہہ کرن کتھہ پاٹھہ چھہ توبہہ پسند۔ یہ تہ گو اکسہ قسمہ موکرتہ مردہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۳﴾
قَالَتِ الْأَعْرَابُ امْنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا
يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ


مازکھیوں۔ اچّی تہ گڑھہ توہمہ نفرت آسن مُشاہتک وجہ چھہ یوہے کہ چھہ پاٹھ بائی سُنڈ مازکھیوں تَس بائی
سِنڈہ تکلِیف باعِث چھہ بنان تہّہ پاٹھ چھہ تسن۔ آبروریزی تہ تہنڈہ خاطرہ تکلِیفک باعِث بنان۔ اگرچہ
غایبانہ تہنزہ نامرغوب تھہ پھر نہ سیت چھہ تَس تکلِیف واتان مگر در ذات خود چھہ یہ امر سخت تکلِیف
وہ۔ امی سببہ فرموو کہ مشبہ بہ آسَس اندر لفظِ مِيتَا وَأَقْوَالِ اللَّهِ کھوڑو اللہ تعالیٰ اَس، کانسہ ہنز غایتھ
کرنی تراو، تہمہ نشہ کرو توبہ۔ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھا توبہ قبول کرہ ون تہ
سیٹھاہ رحم کرہ ون يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اے لوکو تہہ
ساری کر وہ آسہ پادہ اگس مردس تہ اگس زنانہ نشہ یعنی آدم علیہ السلام تہ حوا علیہا السلام نشہ۔ اتھ
منز چھو تہہ ساری برابر توپہ تہّہ تھہ منز فرق چھہ توہمہ اندر سوہ گیہ یہے کہ آسہ کمر توہمہ اندر مختلف قوم
تہ مختلف قبیلہ تہ خاندان۔ تہ چھہ محض سمہ تھہ خاطرہ چھہ تہہ اگھ اگس پرزہ ناوتھہ ہیکو۔ اگھ اگس پیٹھ
نخر کرنہ تہ تھیکہ خاطرہ نہ۔ پریتھہ اگس چھہ بوڈ نخر شونت تہ پرہیزگار آسن اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
اَتَّقَاهُ بے شک توہمہ اندرہ چھہ زیادہ عزتہ وول خدا اگس نشہ سے اگس زیادہ شونت تہ پرہیزگار آسہ
اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ اَس چھہ پریتھہ اک سنزہ پرہیزگاری ہنز پور خیر۔ تَس چھہ
پور علم اگس کیتھ چھہ قَالَتِ الْأَعْرَابُ امْنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ
فِي قُلُوبِكُمْ یم بعض دہی لکھ بنی اسد وغیرہ چھہ ونان توہمہ نشہ حاضر سپد تھہ کہ آسہ اون ایمان مگر یہ
چھہ تم وٹھے ونان، دگس چھکھہ اچّ پڑھاہ کینہہ تہ، تہی فرماو یو کہ اے لوکو توہمہ اونوہ نہ ونہ ایمان کیا زہ
تہیک آثار چھہ توہمہ منز بیہ چھہ ایمان موقوف تصدیق قلبس پیٹھ۔ لیکن تہہ وونکہ وون سپدے اَس
مطہع۔ سمہ معنیہ کہ وون تراو آسہ مخالفت کرن۔ ونہ کتہ سپد ایمان داخل تہنڈین دکن اندر۔ لہذا مہ کرو

مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۱۵﴾ قُلْ
 اتَّعَلَّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا
 قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ

جہہ ایمانک دعویٰ وَاَنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلَيْتُكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہر گاہ دوسرے جہہ
 فرماں برداری کمر و خدلیہ سز سے تہمتیں پیغمبرہ سز سارے کتھ ماننے سیت، یعنی دلہ سیت کر پوڑھ سہ کرہ نہ
 جہزن عملن ہنزہ مزدورہ اندر کتھہ قسمہ کمی کیا زہ بے شک اللہ تعالیٰ ہتھہ سیٹھہ مغفرت کرہ ون، سیٹھہ
 رحم کرہ ون۔ ون بوزو جہہ کہ بالیمان کامل کم گئے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ
 يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ بالیمان گئے تھے
 سمو پڑھ کر کٹس خدائس یہ تہمتیں پیغمبرس۔ تو پتہ کوزک نہ ساری عمر ہتھہ قسمہ شک سے تردید ہتھہ
 خدلیہ سزہ وتہ اندر مال وجانہ سیت محنت یعنی دینہ خاطرہ ہتھہ منز جہاد وغارہ کاملہ تہ آہ تھے کیاہ گئے
 پزی زیار آمانا ون نس اندر قُلْ اتَّعَلَّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تھی فرماؤ یو کہ یار رسول اللہ اے لو کو جہہ چھوہ خدائس پنہ نہ دین قبول کرہ کج خیر
 ونان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہتھہ تہ سورے زانان یہ آسان تہ زمین منز چتھہ۔ یہ چتھہ اللہ تعالیٰ تمہ علاوہ
 پر تھہ چیزہ پور زانان پروردگار س یہ توہہ متعلق معلوم چتھہ تہ چتھہ یہی زہ جہہ چھوہ حقیقتاً بے ایمان
 محض جہہ چھوہ زیو وسیت ایمان جتلا وان يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ
 اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمُ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ توہہ پیٹھہ چتھہ سم لو کہ احسان تھا وان پنہ
 اسلام قبول کر نہ سیت۔ ونان چتھہ کہ اس سپد مسلمان لڑائی تہ قضیہ کر نہ ورائی، یہ لو کہ سپد مسلمان

هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِكُمْ آخِلُونَ ﴿۱۸﴾

سیٹھاہ پریشانی کرتھہ۔ یہ گیہ بہنز سیٹھاہ گستاخی۔ جہہ فرماو یو کھ یار سول اللہ اے لو کو میہ پیٹھہ مہ تھا ووپنہ
مسلمان سپدنہ سیت منت تہ احسان قطع نظر کترتھہ تہنزہ گستاخی نٹھہ، تہندہ اسلام آنہ سیت کیاہ نفع تہ
فائدہ ووت میہ تہ تہندہ اسلام نہ آنہ سیت کیاہ ضرر اوس میہ۔ ہر گاہ تہہ پز یار آسو تیلہ چٹھوہ امیک نفع
آخر تَس منز توہہ پائَس۔ دنیوی نفع کہ تہہ کیا بچے وہ قتل و قیدہ نٹھہ، یہ تہ چٹھہ توہہ پائَس۔ میہ پیٹھہ
احسان تھاون گوو محض جہل بلکہ چٹھہ اللہ تعالیٰ سز توہہ پیٹھہ بد منت تہ بوڈ احسان کہہ تھی ہا وہ توہہ
ایمائَس گن و تھہ، ہر گاہ تہہ پوز و نان چھوہہ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِكُمْ
تَعْمَلُونَ بیشک اللہ تعالیٰ چٹھہ زانان آسمائِن تہ زمین ہنزہ پوشیدہ تھہ۔ بیہ چٹھہ سہ و چھان وارہ تہ
سورے یہ تہہ کر ان چھوہ۔ تھی موجب دی وہ سہ توہہ جزاء۔ تَس برو نٹھہ کتہہ اپزہ مپزہ تھہ کرنہ اندرہ کیاہ
فائدہ چٹھہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 ق ت وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝۱ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ
 فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۝۲ ءَاذًا مِّنَّا وَكِنَّا تَرَابًا
 ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۝۳ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا
 كِتٰبٌ حَفِیْظٌ ۝۴ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَمَنْ فِيْ اٰمْرِ قَرِیْبٍ ۝۵

ق یہ حرف پچھ حروفِ مقطعات تو آندرہ۔ امیک علم پچھ خدا پس وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ تمہ قرآن مجید چ درے پچھ مجد و شرف پچھ بین کتابن پیٹھ کہ اسہ سوزوہ تہہ قیامتہ عذابہ سیت لوکن کھوژوانونہ خاطرہ مگر تمولو کو مون نہ تہند بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ بلکہ سپد تمن تعجب پچھ تہہ پیٹھ کہ تہہ پاٹھ آو تموے منزہ اکھ شخصہ اُس بشر پچھ، نیم کرہ ون پیغمبر، تم تمی قیامتہ دہ بہ سیت کھوژہ ناوی فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ اٹھ پیٹھ لگی ونہہ کافر کہ یہ پچھ اکھ عجیب قصاہ گوڈہ نی پچھ بشرہ سُنْد پیغمبر بنت سُن عجیب تو پتہ تم سُنْد یہ وُن کہ مرنہ پتہ چو تہہ بہ زندہ کرنہ ءَاذًا مِّنَّا وَكِنَّا تَرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ کیا ہلہ اُس مَر و تو پتہ سَد و اسی میوہ سیت میوہ کیاہ تو پتہ میوہ اُس بہ دوبارہ قیامتک دوہ زندہ کرنہ۔ یہ دوبارہ بہ زندہ سپدن پچھ عقلہ نشہ تہ امکانہ نشہ سیٹھادور۔ اُمہ دعوائے محالہ سیت پچھ بہ بن پیغمبری ہند دعوائے کمزور سپدان۔ اللہ تعالیٰ پچھ امکانہ کہ ثبوتہ خاطرہ فرماں وان کہ امکانہ نشہ کیا زہ پچھ بعید۔ ہر گاہ محل ہنزہ نا قابل حیات آسنہ موکھ پچھ تہندہ خیالہ تہ پچھ یہ بالکل باطل کیا زہ محل اندر پچھ حیات بالفعل موجود۔ ہر گاہ باعتبارِ فاعل پچھ یہ نا ممکن کہ اللہ تعالیٰ اُس کیاہ پچھ نہ اجزاء مبین ہند علم یا کیا پچھس نہ تصرف پیٹھ قدرت، سانہ علمک شان تہ حال پچھ پچھ کہ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتٰبٌ حَفِیْظٌ اسہ پچھ معلوم کہ کم کم اجزا پچھ زمین موزون نشہ کم کران تہ کھیوان،

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا
 مِنْ فُرُوجٍ ۖ وَالْأَرْضُ مَدَدُنْهَا وَالْقِينَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا
 فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۚ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝
 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرُكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝

روح چھ موجود آتھے یلہ اس یڑھو بیہ پادہ گرن، تم ساری چیز کرو کہ اس بیہ جمع، یہ تھہ چھنہ کہ اسہ کیاہ
 چھہ از تمن اجزان ہنز خبر بلکہ سون علم چھہ تمن اجزاءن متعلق قدیم۔ چنانچہ اسہ چھہ تمن اجزاءن ہند
 ساری حالات درج کری مت اس کتابہ اندر یچھہ ناو چھہ لوح محفوظ سو کتاب چھہ اسہ نغمہ از تان برابر
 محفوظ، چھہ منز موز دن ہندین اجزاءن ہنز جای، مقدار تہ ساری صفت موجود چھہ۔ مگر ایم لو کہ کرن
 توتہ اتھ اندر تعجب بلا وجہ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ لَّهِجٍ یہ تھہ چھنہ یوسہ تم دنان چھہ
 بلکہ چھہ حقیقت کہہ تمو کور انکار ہزس یلہ تمن نشہ پوزووت غور تہ فکر کرنہ ور اے۔ پس چھہ تم ولنہ
 آمتی اس پیچیدہ معاملس آندر۔ کئہ وقتہ چھہ تعجب کران تہ کئہ وقتہ چھہ انکار کران سانہ قدر تک شان
 چھہ بالکل ظاہر أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ کیاہ وچھان چھان تم
 لو کہ ایم قیاس تہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدنس انکار چھہ کران آسانس گن بس تمن بیٹھی کن چھہ، تھہ پاٹھی
 بنو اسہ تہ تھود تہ بلند، تھہ پاٹھی دیت اسہ تھہ زینت ستارو سیت۔ بیہ چھنہ تھہ غایت درجہ مضبوط
 آسنہ مو کہ کئہ جایہ کانہہ کھ چھہ تہ پھراٹھہہ وَالْأَرْضُ مَدَدُنْهَا وَالْقِينَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ
 كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ بیہ چھہ زمینس منز سان یہ قدرت ظاہر کہ سہ زمین و ہر و اسہ۔ بیہ تراو اسہ تھہ
 پیٹھ کوہ بارہ خاطرہ لنگر ہی بیہ کھاری اسہ تمہہ زمینہ آندرہ پر تھہ کسکمی خوشما چیز یہ سوڑے کور اسہ
 تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ عبرت تہ بینائی دانائی ہند اکھ ذریعہ اسہ گن رجوع کرہ و بس پر تھہ
 بندہ سندہ خاطرہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرُكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ الْحَصِيدِ بیہ چھہ سان قدرت
 ظاہر سمہ سیت کہہ تر و اسہ آسانجہ طرفہ برکتہ دول رود تو پتہ کھار اسہ تمی سیت باغ بیہ تم پھل تہ

وَالنَّخْلَ بَسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۙ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ
 بَلَدًا مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۙ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ
 الرَّسِّ وَثَمُودُ ۙ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۙ وَأَصْحَابُ
 الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۙ
 أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۙ

غلات سم لوندہ چھہ یوان وَالنَّخْلَ بَسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ بیہ کھار تمہ ستیہ آسہ زیتھہ زیتھہ خضر کل
 سمن ہندی گزن پوٹھس پیٹھہ آکس سیت دھتھہ چھہ آسان رِزْقًا لِلْعِبَادِ پتہ نین بندن رزق دنہ
 خاطرہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدًا مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ بیہ کور آسہ تھی رودہ سیت زندہ مومت زمین۔ پتھہ پاٹھہ
 کیاہ نیرن قیامتک دوہ زمینہ منزہ ساری لوکھہ یلہ سمن بڑین چیزن پیٹھہ سان قدرت ثابت سپرہ مورده
 زندہ کرہ نس پیٹھہ گڑھنا آسہ قدرت آسن۔ پس یلہ مقدور ممکن بیہ فاعل عالم صاحب قدرت آسہ اتھہ
 صورتس منز کیاہ پتھہ تجب و تکذیب کرہ ٹک موقعہ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ
 وَثَمُودُ پتھہ پاٹھہ مکہ کیوکافر و قیامتس انکار کور پتھہ پاٹھہ پتھہ انکار کور مت بین بروٹھہ نوح علیہ السلامہ
 سند قومن بیہ کیر والیبیہ قوم ثمودن وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَإِخْوَانُ لُوطٍ بیہ کور انکار قوم عادن، بیہ فرعونہ
 سند قومن بیہ قوم لوطن وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ بیہ کلین تل روزہ و نیو لوکو۔ بیہ تیج سند
 قومن۔ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ سمو ساروے کور پنے نس پنے نس پیغمبرس توحید و رسالتس، بیہ قیامتس
 انکار فَحَقَّ وَعِيدِ نس سپدہ تہندہ حقہ عذابک وعدہ برابر تہ محقق۔ پتھہ پاٹھہ سپدن یم منکر تہ عذابس
 گرفتار۔ دُنْيَا س اندرتہ، آخرتس اندرتہ یا صرف آخرتس اندر یقینا أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ
 فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ کیاہ سنا آس تھتھہ مخلوقات گوڈنچہ لہ پادہ کرنہ سیت کہ دون کیاہ پتھہ کوکھ نہ
 قیامتک دوہ بیہ دُبارہ پادہ کرتھ سم اتھہ انکار کران چھہ تگن نفعہ پتھہ کا نہہ دلیلہاہ بلکہ چھہ سم لوکھ دُبارہ
 پادہ کرنہ کس شکس اندر بتلا سپدی مت نس نہ دلائلن مقابلہ قابل التفات چتھہ۔ پیٹھہ آویان کرنہ کہ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
 إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ^(۱۶) إِذْ تَتْلَى الْمُتَّقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
 الشِّمَالِ قَعِيدٌ^(۱۷) مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ^(۱۸) وَ
 جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ^(۱۹) وَنَفَخَ

مرنے پتہ بہ زنده سپدنگ امکان چھہ ثابت بروٹھ چھہ بیان یوان کرنہ تمیک وقوع چوچھہ تمچھہ وقوع
 غایت یعنی مجازات چھہ موقوف چھہ پیٹھکھ جزاء دودہ ونس گنھہ اعمان ہند علم تہ عاملس پیٹھ قدرت
 آسن۔ لہذا چھہ گوڈہ تی بیان یوان کرنہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ تھتھق آسہ کور
 پادہیہ انسان یوسہ بذلیل چھہ سانس قدرتس پیٹھ بہ چھہ آسہ معلوم تم سدس دس منز کم کم خیالات
 چھہ یوان تم سزہ زیوہ پیٹھ یاتانو سیت یمہ کتھ کامہ لبہ یوان چھہ تمہ تہ چھہ آسی بدرجہ اولی زانان۔ بہ
 چھہ آسہ تھندین احوال ہند تھہ علم کہ آس چھہ پانس تہ تمن احوال ہند توت علم پس چھہ آسی انسانس
 باعتبار علم قریب بلکہ اقرب وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بلکہ چھہ آسی زیادہ قریب اس انسانس
 گردنہ ہنزہ شہ رگہ خوتہ یمہ رگہ ہندہ ڈٹنہ سیت انسان ختم چھہ سپدان إِذْ تَتْلَى الْمُتَّقِينَ عَنِ الْيَمِينِ
 وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ تمن لوکن کرو بیان یلہ زہ رٹن والی ملکھ چھہ آس انسانہ سزہ عملہ ضبط کران تہ
 زانان یمہ عملہ تہ کامہ آس نشہ چھہ صادر سپدان تہ لبہ یوان تہ ملکھ چھہ آس اھ دچھہ طرفہ تہ یا کھ کھوفرہ
 طرفہ بہتھ آسان مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ یہ انسان چھہ آسہ منزہ کانہہ کتھاہ کڈان
 کانہہ لفظاہ ونان مگر تان چھہ تس نشہ سان راجھہ تہ نگرانی کرن وول سہ لفظ لیکنہ خاطرہ تیار آسان۔ سہ
 ہر گاہ نیکی ہنز کام آسہ کران تیلہ چھہ سو کام دچھہ طرفک ملکھ لیکان۔ اگر بدی ہنز کام آسہ کران
 تیلہ چھہ سو کام کھوفرہ طرفک ملکھ لیکان وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ بہ آسہ موچ تھتی
 نزدیک حقیقتا یعنی پریتھ شخصس چھہ موت قریب ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ تمہ ساتہ کیاہ بہ ونہ
 آس انسانس یوسہ کیاہ گووہ موت تمہ نشہ ڈہ ٹلان اوسھہ وَنَفَخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ بہ

فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ^(۲۰) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ
 وَشَهِيدٌ^(۲۱) لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ
 فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ^(۲۲) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ^(۲۳)
 الْيَقِيَانِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كِفَّارٍ عَنِّي^(۲۴) مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٌ^(۲۵)
 الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الْقَبِيحُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ^(۲۶)
 قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ^(۲۷) قَالَ

یہ دوسمہ بھرہ پھو کہ دنہ پو غس منز سمہ سیت ساری بیہ زندہ گزہن یو ہے دوہ کیاہ گو دو وعیدک سمہ
 سیت لو کہ آس کھوڑہ ناو نہ یوان **وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ** بیہ بیہ تمہ دوہمہ پر تھ
 اکھاہ میدان محشرس منز سیت آسیس اکھ ملکھہ پکناونہ خاطرہ، بیا کہ ملکھہ أمہ سزمن کامین ہند گواہ تہ
 شابد۔ حدیث شریفس منز چھ کہ یم زہ ملکھہ آسن تے سم دنیاءس منز آمہ سزہ رثہ تہ پیچھ عملہ لیکھان
 آسن تم کافر آسن تمین بیہ ونہ **لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ**
 تھیں اے انسانہ ژہ او سکھہ اکھہ دوہمہ نشہ غفلتس منز پیومت۔ از کیا تکل آسہ ژہ نشہ ٹھور تہ پردہ۔ وون
 چھہ چان نظر از تیز۔ اے کاش دنیاءس منز تہ ہے یہ غفلت تراو مژ آسہ ہی، از مایہہ ہایہ روز بد پیش
وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ بیہ دیس سہ ملکھہ ئس أم سزہ عملہ لیکھتھ تھوان اوس یکیا چھہ آئی
 سند نامہ اعمال میہ نش کمل پانھی تیار **الْيَقِيَانِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كِفَّارٍ عَنِّي** * **مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ** اللہ
 تعالیٰ فرماوہ تمین دون ملکن تراویون پر تھہ سہ شخصاہ ئس کفر کرہ وون تہ ہز یک دشمن آسہ، رژو کامیونشہ
 پتہ رژو وون آسہ، حدہ ڈلہ وون آسہ، دنیس منز ہبہ تہ شک پاوہ کرہ وون آسہ نار جہنمس اندر **الَّذِي**
جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الْقَبِيحُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ سم خدا ئس سیت بیا کہ معبوداہ تجویز کور مت آسہ
 بیچھ شخص تراویون سخت عذابس منز۔ چوبچہ تمین گمرا کرہ وونین اندر آسہ شیطان تہ **قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا**
مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ سہ شیطان ئس ایس انسانس سیت سیت روزان اوس دیہ اے سانہ

لَا تَخْتَصِمُوا لَدَائِي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝^(۲۸) يَا بَدَلُ الْقَوْلِ
 لَدَائِي وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝^(۲۹) يَوْمَ نَقُولُ لِبَعْثَمَ هَلْ أَمْتَلَاتِ
 وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۝^(۳۰) وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ لِّلْمُتَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ ۝^(۳۱)
 هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝^(۳۲) مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ

پروردگارہ میہ بنوونہ سرکش یہ شخص جبر ابلکہ اوس یہ پائے پختہ اختیارہ زتجھ گمراہی منز بوڈمت اگرچہ میہ
 تہ کمرس آتھ گمراہی اندر مددہ ہن۔ لہذا گڑھہ نہ اکی سزہہ گمراہی ہند اثر میہ پیٹھ بیون کَال
 لَا تَخْتَصِمُوا لَدَائِي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ اللہ تعالیٰ فرماوکیہ میہ بروٹھ کتہ مہ کرو لڑایہ ہنزہ تھہ۔
 سمہ تھ چھ بے سود، میہ ہٹھ بروٹھ توہہ سمہ عذابگ بیم کتابن تہ پیغمبرن ہندہ واسطہ کورمت کہ بس
 کفر کرہ پائے یا کانسہ ہندہ گمراہ کرنہ سیت جبر آیا بلا جبر، سارنہ دمہ بہ سزانا زجہنمہ سیت **يَا بَدَلُ الْقَوْلِ**
لَدَائِي وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ میہ نشہ پیہ نہ تبدیلی کرنہ تھہ کھمس بس جاری کرنہ آمت ہٹھ توہہ
 سارنہ چھ جہنمس اندر دزن۔ پیہ چھس نہ بہ پیہ تجویز کرہ بس اندر پنہ نین بدنن پیٹھ ظلم کرہ وون بلکہ
 کرہ تموپائے تھہ ناشایان کامہ سمہ ہند سز از تم تلان جھہ **يَوْمَ نَقُولُ لِبَعْثَمَ هَلْ أَمْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ**
مِن مَّزِيدٍ سہ دوہ پاووتی تھیس سمہ لوکن سمہ دوہہ پرٹھو اسی جہنمس یلہ ساری مجرم تھہ منز واتا وونہ
 آسن آمت، برنہ آکھ؟ سہ دپہ پیہ چھاکینہہ؟ حدیث شریفس منز چٹھ آمت کہ اللہ تعالیٰ تھاوہ
 جہنمس پیٹھ پن قدم۔ تمہ پتہ دپہ جہنم، بس بس وون سُدس ہد، وون آس برنہ **وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ**
لِّلْمُتَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ پیہ ہٹھ جنتک بیان کہ جنت پیہ متقین تہ پرہیزگارن کھ کل آنہ دور آسہ نہ دپنہ
 پیٹھ **هَذَا مَا تُوْعَدُونَ** یوہے کیا گووٹہ جنت سمیک توہہ وعدہ یوان اوس تھاونہ کہ یہ جنت آسہ
لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ پریتھ تھس شخصہ سندہ خاطرہ بس خدائس گن دلہ سیت رجوع کرہ وون آسہ یا تم
 آپزہ نشہ پزس گن، نافرمانی نشہ فرمانبرداری گن، شرکہ نشہ توحیدس گن بدعتو نشہ سنتس گن رجوع
 کورمت آسہ۔ پیہ سارنہ حقونن راجھ کرہ وون سندہ خاطرہ، اعمال و طاعتن پیٹھ پابندی تہ ڈاڈ کرہ وون

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۚ (۳۳) ادْخُلُوا بَيْتَكُمْ مِنْ ذَلِكَ يَوْمِ الْخُلُودِ ۗ
 لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۗ (۳۴) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
 مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ۗ (۳۵)
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
 شَهِيدٌ ۗ (۳۶) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
 أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۗ (۳۸) فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ


سیدہ خاطرہ من حَسْبِيَ الْوَعْدُ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ اُس کھوڑہ حضرت رحمانس وچھنہ ورائے،
 بیہ یس تِس نشہ ہتھ آوز جوع کرہ ون دلاہ تمن بیہ ونہ ادْخُلُوا بَيْتَكُمْ اٹو دپتہ اتھ جنس منز
 بسلامت ذَلِكَ يَوْمِ الْخُلُودِ یوہے چٹھہ ہیشگی ہند حکم جاری کرہ نگ دودہ از سہ دویہ تمن ہندہ
 خاطرہ سمہ جلیہ ہند تجویز آو کر نہ تمن چٹھہ تنھہ جلیہ ہمیشہ روزن۔ بالیمان ہمیشہ جنس اندر، کافرن
 ہمیشہ جہنم اندر لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ جنتین ہندہ خاطرہ چٹھہ تمن جنتن اندر تہ
 سورے یہ تم یڑھن، کج کج خواہش کرن۔ آسہ نشہ چٹھہ تمہہ خوتہ سیٹھاہ زیادہ لغوہ تمو لغوہ خوتہ تمن
 ہنز تم خواہش کرن وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ
 بیہ گال آسہ تمن مکہ کین کافرن برونٹھہ واریاہ جماژ مکرن ہنزہ تم ہندہ خوتہ تو تِس اندر زبردست
 آس۔ پس ییلہ ہندہ انتقامگ وقت ووت تم ژائے وار یمن شہرن اندر کتہ جلیہ بنہ ناچھن جلیاہ مگر تم
 ہیک نہ خدایہ سندہ عذابہ نشہ پنہ نین پان کتہ جلیہ بچاوتھہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ
 أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ بے شک یمن عبرتناک واقعاتن منز چٹھہ بوڈو عظ تمن لوکن ہندہ
 خاطرہ تمن فخر کرہ ون دل آسہ یاسم نصیحت دو عظک کلام بوژن وارہ کن دار تھہ، دل حاضر تھاوتھہ
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ بے شک بیہ کر آسہ پادہ
 آسمان تہ زمین بیہ یہ تمن منز چٹھہ شین دوہن ہندس مدتس منز تو پتہ سپز نہ یہ پادہ کر نہ سیت تھکن تہ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ^(۳۹) وَمِنَ اللَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ^(۴۰) وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ
قَرِيبٍ^(۴۱) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ^(۴۲)
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاللَّيْنَا الْمَصِيرُ^(۴۳) يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ

ماندگی پادہ وون کیاہ عجایب چھہ آسہ نشہ دُبارہ پیدہ کرن تُوپتہ تہ ہر گاہ تم لوکھ انکارے کرن فَاَصِدُّ
عَلَى مَا يَقُولُونَ جہہ کڑو ژید دشمن ہنزن کھن پیٹھہ یار رسول اللہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ بیہ کروٹھہ خدلیہ سُنڈیاد، تمسز پایکی تم سُنڈ حمد تہ تعریف بیان کرنہ سیت
آفتاب کھسنہ بروٹھہ بیہ آفتاب لوسنہ بروٹھہ امہ اندرہ چھہ مُراد صُح نمازیہ پیشین تہ دگر نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ بیہ کروٹھہ یادرا اژ اندرہ ہنہ اگس وَأَدْبَارَ السُّجُودِ بیہ آسہ جہند یاد کران فرض نمازوپتہ یعنی
سنت تہ نفل ادا کرنہ سیت وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ بیہ بوزاے مخاطب گن دار تھہ یہ
تھہ کہ سمہ دوہہ سارنہ مورذن آلودیہ آلودہ وون کھ تلہ جایہ پیٹھہ یعنی اسرافیل علیہ السلام پوغس
يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ سمہ دوہہ بوزن ساری سو کرکھ وارہ پاٹھی ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ سَے
دوہ کیاہ آسہ لوکن قبر و منزہ نیر نہرہ نگ دوہ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاللَّيْنَا الْمَصِيرُ آس ہجھہ بیہ نہ کاہنہ
سارنہ زندہ کران بیہ سارنہ ماران۔ بیہ چھہ آسی نشہ سارنہ پتولاکھہ وائِن يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ
بِوَاعَا سمہ دوہہ زمین مژرنہ بیہ سخن پیٹھہ تم نیرن تمہ منزہ دل دل ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْكُمْ يُسِيرُ یہ
تمن ہند سو نیر لون تہ جمع کرن چھہ آسہ نشہ سہل تہ آسان غرض قیامتگ واقع سُنڈن آو بیان کرنہ
تجرا۔ امہ پتہ تہ ہر گاہ تم لوکھ مانن نہ جہہ مہ بروکاہنہ غم تہ فکر کیاہہ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ آس
جہہ زنانان تمہ سارے تھہ سمہ سمہ دشمن تھند و نان جہہ آس زانو پائے سخن سیت وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿۲۴﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا
 أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿۲۵﴾

پہلے جہہ چھو نہ خدایہ سندہ طرفہ تمن گن زور تہ جبر کرہ ون آمت سوزنہ کہ تم بنا ویو کہ جہہ
 زورہ مسلمان۔ ٹہنر کام چھہ وعظ ہر ان تہ نصیحت کرن۔ فَذَكَرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ہس
 پیر و جہہ وعظ قران مجیدہ سیت تمن لو کن تم کھوژن عذابہ کس وعیدس۔



فَتَتَكُمُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۳﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
وَعُيُونٍ ﴿۱۵﴾ اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ
مُحْسِنِينَ ﴿۱۶﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿۱۷﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۱۸﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿۱۹﴾ وَفِي
الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۲۱﴾ وَفِي
السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۲۲﴾ قُورَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ

سمہ دوہے تم نارس پیٹھ بوزنہ بن جہنمک داروغہ دیکھ ڈو قُوا فِتْنَتَكُمْ زہو ہتھ مزہ پتہ سزاعک ہذا
الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ یہ مجھ سے عذاب جس توہہ جلد ڈھانڈان آسہہ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
وَعُيُونٍ بے شک خدایس کھوڑہون آس باغن تہ ناگہ رادان منز اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ حاصل
کرہون آسن تمن مہر بانین تہ تھہ ثوابس سمہ تمن یمن پروردگارن عطا کرہ مژہ آسن إِنَّهُمْ كَانُوا
قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ بیشک تم آس سمہ بروٹھ دنیا س منز نیکو کار كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
تم آس فرائض وواجبات علاوہ نوافل تہ ڈاڈکر تھہ پران سمہ خاطرہ رات گیت تہ سیٹھاہ کم بندر کران
آس وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بیہ آس تم باوجود آل تحرکہ وقتہ خدایس مغفرت منگان، پنہ نس
عبادتس پیٹھ اوسکھنہ غرور تہ نازسپدان وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ بیہ اوس جہندس ماس
اندر حصہ مکہ وینین تہ مکہ وینین محتاجن ہندہ خاطرہ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بیہ مجھہ زمیں
منز جہ جہ دلیلہ قیامت قائم کرہ عکس قدرت آسکس پیٹھ، یقین کرہ نس پیٹھ کوشش کرہ وینین ہندہ
خاطرہ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ بیہ مجھہ خود تہندین ذاتن تہ نفس منز تہ قدر تکی بڈی نشانہ۔
تہندین ظاہری وباطنی مختلف احوالن منز تہ مجھہ دلیلہ امکان قیامتس پیٹھ کیاہ توتہ مجھنا توہہ بوزنہ یوان
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ بیہ مجھہ آسانہ نے اندر جہند رزق بیہ تم چیز سمن ہندہ تہ قیامتس متعلق
وعدہ تھاونہ یوان مجھہ تمن سارنہ چیزن ہند معین وقت مجھہ درج لوح محفوظس اندر نس آسانس پیٹھ

مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ﴿۲۳﴾ هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ
 الْمَكْرُمِينَ ﴿۲۴﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿۲۵﴾
 فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿۲۶﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا
 تَأْكُلُونَ ﴿۲۷﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْضُ وَبَشُرُوهُ بِعِلْمٍ
 عَلَيْهِ ﴿۲۸﴾ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ

بُحْث۔ زمینس پیٹھ آونہ تمیک یقینی علم نازل کرنہ کنہ خاص مصلحتہ سببہ فَوَدَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَحَقٌّ
 مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ نِس بُحْث آسمان تہ زمین ہندس پروردگارہ سُنْد قسم کہ یہ جزاء ک دوہ بُحْث
 حق تہ پوز۔ پتھ پائھی تہنزہ آتھ گرنہ پتھ یقینی، اللہ تعالیٰ اَن دیت قیامتہ کس واقعہ سہنس تشبیہہ تھ
 کرنس سیت یعنی پتھہ پائھہ انسان اکھ تھہ کران پتھو توپتہ چھوڑھو یہ کران توپتہ چھو بیا کہ تھہ ہوان
 کمرن پتھہ پائھہ کرہ اللہ تعالیٰ مرتھہ بیہ لوکن زندہ هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِينَ
 اے محمد کیاہ توہیہ نعرہ چھاو تھمت ابراہیم علیہ السلامہ سندین مضر ز پڑھین ہند قصہ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ
 فَقَالُوا سَلَامًا یلہ تم ژائے تھن نعرہ توپتہ کر کہ تھن سلام قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ابراہیم علیہ السلامن
 تہ فرمود کہ سلامہ ہند جواب سلام۔ بیہ لگب ونہ ابراہیم علیہ السلام تم کم ساووہر موہو چھہ معلوم
 سہان فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ توپتہ ژائے تم جلد باژن نعرہ تورہ آے پتھہ وڑھی سُنْد
 مازنئس گیوس منزاوس تلنہ آمت فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ توپتہ تھو کہ تھن برو تھہ کنہ تمویلہ
 نہ توکن توجہ کوردو پتھہ ہتہ کونہ چھوہ کھیوان۔ توپتہ تہ یلہ نہ تمو کھیو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تھہ سیت
 گابری تہ خوف زدہ سہدے تم تھن نعرہ اندری کن دوپ تمو کہ خبر چھاسم ما آن دشمن ادہ کونہ چھہ تھم
 کھیوان مگر تمو پڑھیو ژایون تھند گابرن تہ خوف زدہ سہان قَالُوا لَا تَحْضُ تمو دو پکھ تہی مہ حض
 کھوژو۔ اَس نہ حض پھند انسان اَس پھہ ملکھ۔ وَبَشُرُوهُ بِعِلْمٍ عَلَيْهِ سیت و ن بھہ بشارت اَس عالم
 فرزندہ سز نئس پیغیر آہہ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيْرٌ توپتہ آہہ

عَقِيمٌ ﴿۳۹﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۴۰﴾
 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۴۱﴾ قَالُوا إِنَّا
 أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۴۲﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّن طِينٍ ﴿۴۳﴾ مُّسَوَّمَةً
 عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿۴۴﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۵﴾
 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۴۶﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً

آتھ حاس منز بروئٹھ کن ہنز آشین بی بی سارہ علیہا السلام یوسہ تہ تہ تھ یہ تھ بوزان آس، آیہ شور
 تلان۔ توپتہ لائن ڈیکس پنہ نس ژنڈا، بیہ لچی ڈہنہ اکھ پھس بہ بدہ بیہ پھس ہانٹھ سہ تھ سناپا ٹھی زیوہ
 میہ پٹو تھ حاس منز میہ اولاد زیون پٹھ عجیب کتھاء قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ تمودوپ ہس تجب
 مہ کرژہ آس چھاکینہ ہن وان یہ فرموئتھ پانٹھ چان پروردگارن إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ بے شک
 سہ پٹھ سیٹھاء حمتہ وول سیٹھاء علمہ وول سہ پٹھ کمال قدرتہ وول نس نشہ پھنہ کہنہ تھ عجائب۔ ابراہیم
 علیہ السلامس سُد معلوم بُویت کہ فراستہ سیت کہ تم من ملکن پٹھ امہ بشارتہ علاوہ بیہ تہ کیاہ تان مقصد۔
 تھ کن نظر کر تھ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ پرژہ ابراہیم علیہ السلامن تم ملاکن،
 اے سوزنہ آتیو ملکو ہٹہ گمہ ضروری کامہ خاطرہ چھوہ بیہ یور آمت قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ
 مُّجْرِمِينَ تمودوپ پٹھ آس حض پٹھ سوزنہ آمت نافرمان قومس آس کن یعنی قوم لوٹس کن
 لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّن طِينٍ تھ تراو آس تم پٹھ کھنکرن ہندکٹہ پھنل تم نارس منز پنہ آمت
 پھہ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ تم کنہ پھنلن خاص نشانہ تھونہ آمت اوس تھنڈس پروردگارس
 نشہ نافرمانی اندر حدہ ڈلہ وین ہندہ خاطرہ نشانہ اوسکھ امی خاطرہ کہ سمہ گڑھن لکنہ تمنہ ہم عقلہ تہ دینہ
 کہ فطرتہ کہ حدہ نشہ ڈلت پھہ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یلہ تم بسٹن پٹھ عذابک
 وقت ووت ہس کریو واسہ ارادہ آس کڈو کہ تمہ شہرہ منزہ تم لو کہ تم با ایمان آسن تم تھاوو کہ آس علیحدہ
 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ پس لوب نہ آسہ تھ شہرس اندر کہ گرہ ور آے کانہہ گراہ

لِّلَّذِیْنَ یَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ ﴿۳۷﴾ وَفِیْ مُوسٰی اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰی
 فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ﴿۳۸﴾ فَتَوَلٰی بِرُکْنِهٖ وَقَالَ سِحْرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿۳۹﴾
 فَآخَذْنٰهُ وَجُودًا فَبَدَا نَهْمٌ فِی الْیَمِّ وَهُوَ مُلِیْمٌ ﴿۴۰﴾ وَفِیْ عَادٍ
 اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الرِّیْحَ الْعَقِیْمَ ﴿۴۱﴾ مَا تَدْرُمْنَ شَیْءٌ اَنْتَ
 عَلَیْهِ الْاِجْعَلْتُهُ كَالرَّمِیْمِ ﴿۴۲﴾ وَفِیْ ثَمُوْدَ اِذْ قَبِلْ اَمْرًا تَسْتَعُوْا
 حَتّٰی حِیْبٌ ﴿۴۳﴾ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّیْقَةُ

مسلمانو آندره، سہ گره اوس لوط علیہ السلامہ سُنِد تم تھاؤ آسہ عذابہ نشہ محفوظ۔ باقی کفر آسہ ساری ہلاک
 وَتَرْكُنَا فِيْهَا آيَةً لِّلَّذِیْنَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ بیہ ترو آسہ تمن سنگ بارال کر تھ۔ تھہ شہرس
 منز ہمیشہ خاطرہ لشانہ آھ، تمن لوکن ہمدہ خاطرہ سم کھو ژان آسن سانس کڈرس عذابس تو پتہ آسن
 سمہ واقعہ نشہ عبرت رٹان وَفِیْ مُوسٰی اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰی فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ بیہ ہجھہ عبرت موسیٰ
 علیہ السلامہ سندس قصص اندر تہ یلہ آسہ سوز تم فر عوس کن نہ دلیل یعنی مجزہ بیتھ فتَوَلٰی بِرُکْنِهٖ وَقَالَ
 سِحْرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ کس پھیر ہجھہ تم بیہ تم سند یوار کان سلطنتو، سہ لوگ موسیٰ علیہ السلامس دہنہ بیہ ہجھہ
 جادو گریا دیوانہ فَآخَذْنٰهُ وَجُودًا فَبَدَا نَهْمٌ فِی الْیَمِّ وَهُوَ مُلِیْمٌ پس روٹ آسہ سمہ بیہ تہند فوج تو پتہ
 دیت و آرتھہ دریاوس اندر بیتھ منز سہ غرق گوہ و لشکر بیتھ۔ سہ اوس سیٹھاہ قابل ملامتھ کفر
 و شرک تہ نافرمانی ہمدہ سببہ وَفِیْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الرِّیْحَ الْعَقِیْمَ بیہ ہجھہ قوم عادہ کس ہلاک کرہ
 کس اندر تہ عبرت کئی مقام یلہ پھیر آسہ تمن پیٹھ پھش تہ وجہہ او، کس خالی اوس خیرہ نشہ یعنی تھہ منز اوس
 تہندہ خاطرہ شرے شر مَا تَدْرُمْنَ شَیْءٌ اَنْتَ عَلَیْهِ الْاِجْعَلْتُهُ كَالرَّمِیْمِ سہ واو اوس نہ تراوان عنہ
 چیزس سمہ پیٹھ سہ یکہ ہا مگر تھہ اوس چورہ چورہ کران، ناس تہ ڈاس کران وَفِیْ ثَمُوْدَ اِذْ قَبِلْ اَمْرًا
 تَسْتَعُوْا حَتّٰی حِیْبٌ بیہ ہجھہ قوم شمودہ کس گلنس اندر تہ عبرت تک مقام یلہ ونہ آیو تمن یعنی صالح
 علیہ السامس فرما یو تمن کس تو تمح تہ فائدہ زندگی ہند کم کہنہہ کالاہ یعنی کفر و شرک نشہ نے باز ایو تیلہ

وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۳۳﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿۳۴﴾
 وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۳۵﴾ وَ
 السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَدَيَّ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿۳۶﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا
 فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿۳۷﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿۳۸﴾ فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۳۹﴾


بُھ توہم ہلاک سپدن فَعَتَوَاعَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَعَدَّ لَهُمُ الصُّوعَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ توپتہ تہ کہ تمہو سرکشی تہ
 نافرمانی پنہ نس پروردگارہ سدس کھمس نھس رٹ تم اکہ خوفناک کریجہ وچھان وچھان۔ یعنی عذابک
 آثاریلہ ظاہر سپد تم آس تم آثار وچھان فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ نھس ہیوک نہ تمہو
 تھو دو تھتھ کلہ وکرمن کھر تھ مودساری۔ نہ ہیوک تمہو اسہ نشہ تمیک بدلہ ہتھ۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بیہ کر اسہ تمکن برو تھ ہلاک تہ برباد نوح علیہ السلامہ سند قوم بے
 شک تم آس سیٹھاہ نافرمان لوکھ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَدَيَّ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بیہ کورپادہ اسہ آسمان پنہ
 قدر تہ سیت۔ بے شک سان قدرت تھہ سیٹھاہ وسیع وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ بیہ دھرو اسہ
 زمین فرشک پائھ۔ پس کیاہ رت دو تھر اوہون چھہ آس۔ یعنی اتھ زُ مینس منز کم نفع تہ فایندہ تھادوی
 آس وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ بیہ کور اسہ پر ہتھ چیزاہ پادہ جورہ جورہ، زرقم۔ امہ اندرہ چھہ
 مراد پر ہتھ چیزس مقابل تھو و اسہ بیاکھ چیز، مثلاً آسمان تہ زمین، جوہر تہ عرض، گرمی تہ سردی،
 مودر تہ ٹیوٹھ، لوکت تہ بوڈ، خوشنما تہ بد نما، سفید تہ سیاہ، گاش تہ گمہ وغارہ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ہتھ توہم
 سمہو مصنوعا تو سیت خدا سندن کن آسن فکرہ ترہ کہ موجودات ہتھہ زہہ تہ ہفت خالق موجودات چھہ کئے
 طاقت تہ فرد فَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اے پیغبر برحق تھی فرماؤ لوکن یہیلمہ سم
 موجودات و مصنوعات حضرت خالق سدس کن آسس پیٹھ دلالت کران چھہ پس پڑہ توہم کہ ہتھ
 دور و تھس خدا یہ سدس توحیدس گن۔ بے شک بہ ہتھہوہ جہندی طرفہ توہم فکرہ تارہ خاطرہ نھن پائھ

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْ نَّذِيرٍ مُّبِينٌ ﴿۵۱﴾ كَذَلِكَ
 مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿۵۲﴾
 اتَّوَصَّوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۵۳﴾ قَتَلْنَا عَنْهُمْ فَأَنْتَ بِسُلُومٍ ﴿۵۴﴾
 وَذَكَرْنَا لِلذِّكْرِى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
 إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

بیم گروہوں۔ وضاحت سان چھسوہ ونان کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْ نَّذِيرٍ مُّبِينٌ یہ منہ
 ٹھہراوین اللہ تعالیٰ اس سیت کا نہہ بیا کہ معبودا۔ بے شک بہ چھسوہ توہہ تہندہ طرفہ بیم کرہ ونن
 پاٹھ اتھ منزسہ زیادہ وضاحت کہ ففروالی الھس منز چھ توحید کھم، چھ چھ لازم نبی عن
 الشکر۔ سہ گوو وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اتھ سیت آویہ تاکیدہ خاطرہ ونن بہ چھسوہ نن
 پاٹھ خدایہ سدہ طرفہ بیم کرہ ون اللہ تعالیٰ چھ فرماوان اے پیغمبر برحق جہہ چھوہ بیشک نذیر مبین۔
 لیکن تم تہند مخالف چھہ تھہ جاہل کہ تم چھہ توہہ سآحرتہ مجنون ونان۔ جہہ کمر و اتھ پیٹھ صبر، یہ
 نوکتھاہ چھہ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ تھہ پاٹھ تم کافر
 تم بروٹھہ کڈرے تم نشتہ آونہ کا نہہ پیغمبر اہ مگر دو پھس یہ چھہ جاوہ گریامت تہ دیوانہ اتَّوَصَّوْا بِهِ
 کیاستا تم آسہ اکھ اگس اوج وصیت کران تہ یہ تھہ بروٹھہ و نموہ و چھہ تھہ تھہ چھہ تم کافر تہ و نان بَلْ
 هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ بلکہ آس تم ساری سرکش تہ نافرمان۔ یعنی یہ تھہ ونہ ٹک سبب چھہ سرکشی
 تہ طغیان قَتَلْنَا عَنْهُمْ فَأَنْتَ بِسُلُومٍ جس پھر و تم نشتہ پن توجہ۔ تم گن منہ کرو کا نہہ التفات توہہ
 پیٹھ چھہ کا نہہ الزام تہہ کرو پھن کام توہہ و اتنوودہ پیغام حق وَذَكَرْنَا لِلذِّكْرِى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ جہہ
 روز و اطمینانہ سان پھنی کام کران۔ جہہ روز و لوکن نصیحت کران تم فخرہ تاران۔ بے شک و عظ و
 نصیحت کر نس چھہ سیٹھاہ فائدہ با ایمان ہندہ چھہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یہ کر میہ پارہ
 جن تہ انسان خاص امی خاطرہ کہ چھہ تم میانی عبادت کرن مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

يُطْعَمُونَ ﴿۵۸﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿۵۹﴾ فَإِنَّ
 لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۶۰﴾
 قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۶۱﴾

يُطْعَمُونَ بہ چھسنہ تمہن نشہ رزق ژھانڈان۔ نہ چھس بہ یشھان میہ کھیاون ناکنہہ إِنَّ اللَّهَ
 هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ بے شک اللہ تعالیٰ چھ سارنے رزق عطاگرہ وون قوتہ وول تہ مضبوط
 فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ کہس تمہن لوکن ہندہ عذابہ خاطرہ تہ
 چھہ و آر پتہن مقرر خدا کہس نشہ سموپان پانس کفر و شرکہ سیت ظلم کور۔ ہتھ پاٹھہ برو نظہن کافرہن
 ہندہ خاطرہ و آر چھہ مقرر کہس مہ کرن تم بانبر یعنی عذاب طلب کرنس اندر مہ کرن جلدی۔ سو پتہن
 و آری وائہ تمہن ضرور قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ پس چھہ بڈ خرابی تہ
 افسوس تمہن لوکن ہندہ خاطرہ سمو کفر تہ شرک کور تمہہ دوہہ۔ سمہ ڈہک تمہن وعدہ تھاوندہ یوان چھہ۔



سُورَةُ الظُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَالظُّورِ ۱) وَكُتِبَ مَسْطُورٍ ۲) فِي رَقِيٍّ مَشْهُورٍ ۳) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۴)
 وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۵) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۶) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۷)
 مَّالَهُ مِنْ دَافِعٍ ۸) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۹) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۱۰)
 قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۱) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۱۲) يَوْمَ
 يَدْعُونَ إِلَى نَارِهِمْ دَعْوًا ۱۳) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۱۴)

وَالظُّورِ کوہ طور چ درے وکُتِبَ مَسْطُورٍ یہ لیکھنے آمزہ کتابہ ہنزدرے فی رَقِيٍّ مَشْهُورٍ یوسہ
 مژرنہ آتس کاغذس پیٹھ لیکھنے آمزہ ہجھہ۔ تمہہ آندرہ ہجھہ مرادنامہ اعمال وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ بیت
 المعمورچی درے۔ سہ گوو ملائکن ہندہ عبادتک گرہ۔ ئس تسمس آسمانس پیٹھ ہجھہ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ
 یہ تھدہ بچ درے۔ یعنی آسمان وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ یہ دریائے محظوظ درے ئس آہہ بیت برتھ ہجھہ
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ بے شک چانس پروردگارہ سُد عذاب ہجھہ کافرن تہ مکران پیٹھ ضرور واقعہ
 سپدہ وُن مَّالَهُ مِنْ دَافِعٍ کانہہ چیزاہ ہجھہ، کانہہ ہند طاقت ہجھہ تھہ عذابس ہجھہ رٹن۔ یوسہ
 عذاب سپدہ واقعہ تمہہ دوہہ یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا سمہہ دوہہ آسمانس نھہ تہ تھرہ دوہجھہ، سخت نھہ، سمہہ
 بیت تھہ پھر اٹھہ تہ شکاف گووھن وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا یہ سمہہ دوہہ وڈن کوہ عجیب طریقہ پنہہ جلیہ نشہ
 وُن قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ئس بوین وال تہ افسوس تمہہ دوہہ انکار گرہ ونین، یم توحیدس
 رسائس تہ قیاس انکار کران آس الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ یم تکذیبہ کس شغلس منزبے ہودگی
 سان بوڈی مت آس يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِهِمْ دَعْوًا سمہہ دوہہ تم لوکھ زورہ پکانانہ نین جھنمسن گن یتھ

أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝۱۵۱ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا
 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۶۱ إِنَّ
 الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝۱۷۱ فَكَيْهَيْنِ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّاهُمْ
 رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝۱۸۱ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۹۱
 مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ۝۲۰۱ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝۲۱۱ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا

دوان تہ دکہ دوان ونہ بیچھ ہذہ النار الی کنتم وھا لکذبتون یوسے کیاہ گووسہ جنم بیٹھ نہہ لہز زانان
 آسوہ۔ یمن آیاتن منزاج خبر آس آسان تمن آیاتن آسوا انکار کران دپان آسوسم آیات جھہ سحر افسحرو
 ہذا امر انتم لا تبصرون یہ جنم تہ ماٹھہ تہندہ خیالہ سحر تہ جود۔ وارہ وہ جھتھ وروکنہ توبہہ چھہہ در نینٹھی
 یوان کینہہ تہ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اثراتھ جھنمسن اندر، ادہ جٹہ صبر کر تویامتہ
 کر توتہندہ خاطرہ جھہہ دوشوے چیز برابر اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ چھنہ مگر تمنے کایمن
 ہند بدلہ یمہ توبہہ کران آسوہ دنیاءس اندر اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ بے شک پر ہیزگار آسن
 جتن نعمون تہ سامان عیش منز فَكَيْهَيْنِ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ خوش تہ خرم آسن تمونعموتہ مہربانیوسیت
 سمہ یمن عطا کرہ مژہ آسن پروردگارن وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ بیہ آسن تم رہتھمت پن
 پروردگارن جھنمکھ عذابہ نشہ ونہ بیچھ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کھبوتہ چبویہ چھوہ بدلہ تمن
 کایمن ہند یمہ توبہہ کران آسوہ دنیاءس اندر مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ تم جنتی
 آسن تکیہ دی دی تنگن پیٹھ سم لکھ لکھ تھاونہ آسن آمت۔ بیہ کروکھ نیتھر حورن سیت تمن اچھہ دیکھ
 دیکھ آسن یہ گووام با ایمان ہند حال۔ امہ پتہ جھہ خاص با ایمان ہند ذکر یمن ہند اولاد تہ آسن با ایمان
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ بیہ
 سمو لو کایمان اون تو پتہ پنک تہند اولاد تہ تمنے پتہ پتہ ایمان انہ نس اندر اگرچہ عملہ کر کیہ نہ تہنزہ ہشہ

أَلْتَنَّهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿۲۱﴾
 وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِغَاكِهِةٍ وَكَحْمٍ مَّأَيَشْتَهُونَ ﴿۲۲﴾ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا
 كَأْسًا لَّا لَعْوُفٍ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴿۲۳﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ
 كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿۲۴﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۵﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿۲۶﴾ فَمِنَ
 اللَّهِ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّوْمِ ﴿۲۷﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ

آس ملہ ناوہ کہ تہند اولاد تمنے سیت تہندہ اکرام و تعظیمہ خاطرہ۔ بیہ مجھ تہند دل قرار رٹن۔ بیہ گردنہ
 آس جہزن عملن اندر کنج کی۔ مگر شرط مجھ اولاد گزہن با ایمان آس نہ ہر گاہ تہ آسن تیلہ مجھ کافر
 اولاد ہند با ایمان مالین نشہ واتن نامکن کیازہ کُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ پریتھہ اکھ شخصہہ چھہ پنہ
 نین گھرہ چن کاین سیت نارس اندر بند کرنہ آمت سہ روزہ مجوس تہ ماخوذ تھن اندر کیازہ کفر نشہ
 نجات بنہ نچہ چھنہ کانہہ صورتھہہ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِغَاكِهِةٍ وَكَحْمٍ مَّأَيَشْتَهُونَ بیہ ہرہ روواسہ تمن جنتین
 میوہ تہ مازسمہ قسمہہ مازج تم خاش تہ رغبت گرنن پریتھہ دوہہہ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَعْوُفٍ فِيهَا وَلَا
 تَأْتِيهِمْ بیہ آسن تم خوش طبعی پاٹھ تھپ تھپ تہ اکھ آگس نشہ چ کوشش کران شرابہ کس تھہ
 پیالس تھہ منزہہ بکواس آسہ نہ کانہہ بے ہودہ کتھہہ آسہ عقل و متانتس خلاف وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ
 غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ بیہ آسن تمن جنتین نشہہ میوہ و عارہ چیز بروٹھ گن انہ خاطرہ پھیران
 تہ اورہ یور کران۔ خوبصورت، لوکت یم تہند خدمتہ خاطرہ محضو آسن تے آسن خوبصورتی تہ
 حُسن و جمالکس اندر نہ نہ کران ہانجھنہ منز محفوظ تھونہ آمت موختہ ہی۔ تمن جنتین آسہ روحانی مسرت
 تہ چنانچہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ متوجہ سہدن تموا اندرہ اڈی اڈین گن کتھہ ہاتھہ
 کرنہ خاطرہ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اثناء گفتگو س اندر دہن تم آس آس نادنیاء اس منز
 پنہ نس عیالس منز خلیہ سہدس عذابس کھوڑان فَمِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّوْمِ پس تھابڈ

نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿۳۸﴾ فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿۳۹﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ
رَبِّ الْمُنُونِ ﴿۴۰﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ ﴿۴۱﴾
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۴۲﴾ أَمْ يَقُولُونَ
تَقْوَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۳﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا

مبت آسہ پیٹھ خدا من اس رہن جہنم عذابہ نیشہ لاکا کتا من قبل نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ بے شک اس آس اُز کہ بروٹھ دنیا س منزسی دعا منگان۔ بے شک سہ چھہ سیٹھاہ احسان کرہ ون، سیٹھاہ مہربان۔ توہہ نشیلہ آسہ امہ قسمک مضامین سوز یمن منز جنتہ کین لوکن تہ جہنمہ کین لوکن ہند حال بیان او کرنہ فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ پس تہ مضمون بیان کرنہ سیت تارو فخرہ یار رسول اللہ لوکن کیا زہ توہہ چھوہ نہ ہر گز خدایہ سزہ مہربانی و فضلہ سیت کاہن تہ دیوانہ ستھہ پاٹھہ تم مشرک و نان چھہ۔ توہہ چھوہ بے شک پیغمبر برحق۔ پیغمبرہ سز کام چھہ مداومت کرن و عظ و تہلیس پیٹھ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّ الْمُنُونِ کیاہ تم چھا توہہ شاعر زانٹھہ و نان اس پیار و یمن زمانہ کین حادثاتن ستھہ پاٹھ بے شاعر مزر مزر ختم گئے تہ مودتتھہ پاٹھہ گڑھن سم تہ سمہ عالمہ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ توہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ جان گو پیار و توہہ کہہ تہ تھس توہی سیت پیارہ و نیو اندرہ و چھو کہند کیتھہ انجام سپدہ توہہ و چھو میون انجام کیتھہ آسہ۔ میہ چھہ امید میون انجام آسہ کامیابی تہ تہند انجام آسہ ناکامی اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ کیاہ تم چھا عقلہ تہزہ سمیک تم دعوی چھہ یہہ کتھہ پچھہ ناوان کہہ تم چھہ سرکش تہ شریر قوم کہہ رانڈہ چھہ یتمت اَمْ يَقُولُونَ تَقْوَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ کیاہ تم چھا و نان کہہ یہ قرآن مجید چھہ آنخضر تو پانے بنودت تہ چھہ ہر گز بلکہ چھہ تم عنادہ سببہ اتھہ قرآن مجید س پڑھ کران۔ ہر گاہ بالفرض تی آسہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ تیلہ ان تن تم تہ اتھہ قرآن مجید س ہیو کا نہہ کلامہ تم تہ عربی

صِدِّقِينَ ﴿۳۳﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿۳۴﴾ أَمْ خَلَقُوا
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿۳۵﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ
 أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ ﴿۳۶﴾ أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ تَسْمَعُونَ فِيهِ فَلَیَاتِ
 مُسْتَمِعُهُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِیْنٌ ﴿۳۷﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿۳۸﴾ أَمْ
 تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿۳۹﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ

کلام کرہ نس پیٹھ قادر چھہ، فصیح و بلیغ چھہ چھہ تم اتھ دعوی اس اندر پزیر **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ** **أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ** کیاہ تم چھا پادہ کرنہ آمت کئہ چیزہ ور آئے۔ یعنی پائے چھا پادہ سپد مت کانسہ خالقس ور آئے کنہ تھے چھہ پائے پانس پادہ کرہ وونی تہ خالق **أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ** کیاہ تموے کرہ آسمان تہ زمین پادہ۔ بلکہ چھہ تم بوجہ جمالت توحید ک یقینی کران تمین چھہ پڑھے **أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ** کیاہ تمین لوکن نشہ چھا تھندس پروردگارہ سندین رحمن تہ نعمتون ہند خزانہ سمو نعمتو تہ زحمو آندرہ نبوت تہ پٹھ کہ تہنزہ خاٹھہ مطابق کس سو نبوت عطا کرن یشھن کس کرن عطا کئہ تم چھہ تمہہ حکمک زٹھ تہ میٹھ بنے مت کس خوش کر کیکہ کس دیا و ان نبوت **أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ تَسْمَعُونَ فِيهِ فَلَیَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِیْنٌ** کیاہ تمین نشہ چھا کا نہہ ہیراہ تھہ پیٹھ


کٹھتھ تم بوزان چھہ آسانچہ خبرہ۔ ہر گاہ تہ پٹھ تیلہ کرن پیش تم خبرہ بوزہ و ان کا نہہ نن دلیللاہ سمہہ سیت ثابت سپدہ کہ تم کیاہ چھہ واقعی بوزمت وحی الہی **أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ** توحیدس انکار کرہ و ان چھہ ملائکن دپان خدایہ سزہ کورہ۔ اے کافر و کیاہ خدا کس کیا کورہ تجویز کرنہ سمہہ توہہ پانس نامرغوب تہ ناپسند چھہ تہ توہہ گوہ پنہ خاطرہ پنچو **أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ** کیاہ توہہ چھوہ یارسول اللہ مکان تمین دسین حق و اتا و نہ خاطرہ مزورہ معاوضہ۔ تمہہ نقصانک بور کیاہ چھہ ہیکان تم برداشت کتر تھ **أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ** کیاہ تمین نشہ چھا علم غیب پوشیدہ کتھ و اثر مثرہ تمہہ کیاہ چھہ تمو لیکھت تھا و تھ محفوظ تھا و مثرہ و و ان چھہ تمین کج ضرور تھے۔ تمہہ غیبہ جن کتھن پیٹھ اطلاع

فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۳۱﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ
 الْمَكِيدُونَ ﴿۳۲﴾ أَمْ لَهُمُ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾
 وَإِنْ تَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿۳۴﴾
 فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿۳۵﴾ يَوْمَ
 لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۶﴾ وَإِنَّ
 لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَادُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾

آسنہ موکہ کیاہ چھہ تم قیاس انکار کران۔ اَمْ یُریدُونَ کیدًا فالذین کفروا هُم المکیدون بہ تم
 چھہ صاحب رسالتس نسبت کانہہ آزار تہ تکلیف وانہ تاؤن یشھان۔ نِس سَمو لو کو کفر تہ انکار کور تے
 سِدَن تہ تھہ آزارس تہ تکلیف منزیانہ گرفتار۔ چنانچہ تم سہ تھہ منز نام جنگ بدرس منز گے واریاہ
 ڈا بھر کافرن ہند مارہ اَمْ لَهُمُ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ کیاہ تمن چھا معبود برحقس ور اے ہیہ کانہہ معبودہ سُبْحَانَ
 اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ چھہ منزہ تہ پاک تموساروے چیز ونشہ یم چیز تم لو کہ تَس شریک
 ٹھہر او ان چھہ مخالف لو کہ یعنی مشرک آس رسالتس متعلق ونان کہ آس مانون یہ صاحب ثبلی پیغمبریلہ
 تم آسانکہ طرفہ آسانچ ا کہ چھلاہ تراوہ ناؤن وَإِنْ تَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ
 ہر گاہ تم وچھن تہ آسانچ ا کہ چھلاہ وس پیوان توتہ اُن نہ تم ایمان۔ دہن یہ چھہ پیو ٹھس پیٹھ تھونہ
 اُمّت ا کہ او برہ ژرواٹا۔ وون بیلبہ تم لو کہ اُمہ قسمک طاعنی تہ باغی چھہ تمن لو کن لغتہ ایمانک توقع
 تھاون چھہ بے کار فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ہس تراؤ یو کہ حض یار سول اللہ تم
 لو کہ پنہ نِس حالس پیٹھ یوتان تم سمہ کھن پنہ نِس تھہ دوہس سمہ دوہہ تمن جس تہ ہوش وڈن یعنی
 قیامتک دوہ یَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یمہ دوہہ نہ تمن کانہہ فائدہ دیہ پن
 مکر تہ فریب نِس تم اسلامہ کس مخالفس منز دنیا س اندر کران آس نہ بیچھ کنہ طرفہ کانہہ مددہ مکر نہ
 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَادُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بیہ چھہ پڑی پاٹھ یمن ظالم ہندہ خاطرہ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۗ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝۷۹

اگہ عذابہ قیامتہ عذابہ بروٹھے دنیا سے منز مگر تموا اندرہ وجہنہ اکثرن سہ معلوم۔ یلہ توبہ معلوم سپد کہ
تہندہ خاطرہ چٹھہ اگہ وقاہ معین کرنہ آمت **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ**
رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ توبہ کرو حض پنہ نس پروردگارہ سندس خمس انتظار کرہ نس پیٹھ صبر توبہ مہ
کرواندیشہ اتیس کالس یمن پیٹھ عذاب نازل سپدہ۔ اتیس کالس ماوا تہ نون تم توبہ کانہہ تکلیفہ تمہ نشہ
روزو توبہ بے فکر کیا زہ توبہ چھوہ آسہ نظرہ تل سانس حفاظتس تہ رآچہ اندر۔ ہر گاہ توبہ تہندہ فکر ک
غم دلس پیٹھ یوان آسہ تمیک علان چھہ کہ مجالسو نشہ وو تھنہ وزہ یانیدر نشہ بیدار سپد نہ نشہ آسو توبہ پنہ
نس پروردگارہ سند یاد کران تسبیح و تحمیدہ سیت **وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ** بیہ آسورا تہ کس
کنہ حصص منزتہ تہند تسبیح پران مثلاً حفتنہ کہ وقتہ۔ بیہ تارگن ہندہ لوسنہ پتہ تہ یعنی صبح نماز آسو پران۔
غرض ہن دل آسو خدایہ سیدس یادس سیت مشغول تھوان۔ ادہ آسہ نہ غمن تہ فکرن ہند غلبہ روزان۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَالتَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ① مَاضِلٌ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَىٰ ② وَيَأْتِي طُقُوعًا
 الْهَوَىٰ ③ إِنَّ هُوَ الْأَوْحَىٰ يُؤْوِي ④ عِلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ⑤ ذُو

وَالتَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ قسم چھ میہ ستارک یلہ سہ لوسان چھ۔ بیٹھ پاٹھ ستارہ چھ پنہ نس ساری سے مسافس اندر، طلوعہ پیٹھ غروبس تان اورہ یورڈنہ ورآے سیوڈے پکان بیٹھ پاٹھ چھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پنہ نس ساری عمر شریفش ابتداء پیٹھ انتہاءس تان گراہی وضلا لہ نعمہ محفوظ۔ چنانچہ یوہے چھ جواب قسم یعنی اتھ کتھ پیٹھ چھ قسم ہاونہ آمت مَاضِلٌ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَىٰ یہ تہند پر بیٹھ وقتہ سیت نہ بروٹھ کتھ روزن وول پیغمبر، یہندین سارنہ احوالن نہ افعالن ہنز توہہ خبر چھ، نہ ڈل تم راہ راستہ نشہ نہ کرکھ ہج و تھ اختیار۔ ضلال گو سیز و تھ زانتھ ہج و تہ پکن۔ غوایت گو سوسیز و تھ ترآو تھ بیہ و تہ پکن وَيَأْتِي طُقُوعًا عَنِ الْهَوَىٰ نہ چھہ تم پنہ نفسانی خواہشہ موجب کلام فرماوان بیٹھ پاٹھ توہہ ونان چھوہہ إِنَّ هُوَ الْأَوْحَىٰ يُؤْوِي تہند ارشاد چھہ خالص وحی آسان نس تمن گن سوزنہ یوان چھہ خدایہ سیدہ طرفہ خواہ سہ الفاظن ہندوحی چھہ بیٹھ قرآن ونان چھہ، خواہ صرف معانین ہندوحی چھہ بیٹھ سنت ونان چھہ اصل مقصد چھہ نفی کرن تھ خیال نس کافر ونان اس کہ نعوذ باللہ تم کیاہ چھہ خدایس گن نسبت کرن غلط کتھن، نہ ہرگز چھنہ امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ وحیک واسطہ بیان کران کہ عِلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ کہ تمن چھہ امہ وچچ تعلیم کران سہ ملک یعنی جبریل امین نس سنیہاہ طاقتہ وول چھہ سہ طاقت چھن نہ حاصل کورمت بلکہ ذُو مَوْجَاتٍ چھہ تس سہ طاقت ذاتی نہ پیدا ایشی۔ بیٹھ پاٹھ آکس روا تیس اندر پانہ جبریل امین پنہ طاقتگ بیان کورمت چھہ کہ میہ چھہ قوم لو طہرہ ہستی رکتہ تلہ کھار تھ آسمانس تان یواتا وہ مرثہ۔ آسمانس قریب واتا و تھ چھہ تلگ پیٹھ کورمت۔ یوات چھہ سہ طاقتہ وول۔ آس سے طاقتہ واکل سیدہ ذریعہ چھہ یہ مُقَدِّس کلام توہہ تان واتا ونہ آمت نعوذ باللہ کانہہ شیطانہ سیدہ

مِرَّةً ۶ فَاسْتَوَى ۶ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ۷ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۸
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۹ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۱۰ مَا

ذریعہ چھنہ و اتانوہ اُمت تا کہ نھندہ کا ہن آسک آسہا احتمال۔ بلکہ چھ ملایکن ہندس سردارہ سندرہ
ذریعہ و اتانوہ اُمت۔ سمہ کتھ ہند چھنہ احتمال کہ و اتوومت کیاہ چھ ملکن مگر خبر چھاوتہ ما آسہ ٹس پیٹھ
تصرف کورمت کانہہ شیطان کیا زہ ٹس ملکن کور اللہ تعالیٰ صفت شدید القوی سیت۔ امہ اندرہ چھ
مطلب کہ شیطانہ سند مجالے چھنہ کہ سہ کیاہ کتھ کہ قسمک تصرف کتر تھ اہس قوتہ و اہس ملکن پیٹھ
و حکم سلولہ ختم سپنہ پتہ چھ پانہ اللہ تعالیٰ ان امہ قرآن مجیدہ کہ حفاظتک، امکہ بعینہ ادا کرنگ ذمہ
ہوتمت تہ وعدہ کورمت اِن عَلَيْنَا جَمْعَةٌ وَقُرْآنُهُ وونی چھہ بیا کہ شبہ کہ اہس وحیہ کس واسط ملکن
سیت چھا تمو ہندس اصلی صورتس منزلت کورمت۔ تھ متعلق چھ ای زہ واقعی تہ چھ لہنہ اُمت۔
متعدد دفعہ چھ تمو جبریل امین و چھمت بیس صورتس منزلت کورمت پس سپد سو سیو دایستادہ اکہ بھرہ
چھ لہنہ اُمت کہ اصلی صورتس منزلتہ آوسہ تمن برونھ کُن وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى در حالیکہ سہ اوس
آسانہ کین بلند کینارن پیٹھ آسانہ کین افقن نزدیک چھنہ چیز صاف بوزنہ یوان۔ وسطہ آسانس کُن
نظردن چھہ باعث تکلیف سپدان افقن اعلیٰ اس پیٹھ و چھن چھہ آسان تہی موکھ رود جبریل امین افقن
اعلیٰ اس سیدہ سیوود۔ یہ گووتی دوہہ سمہ دوہہ تمو خواہش کر جبریل امینس نشہ کہ اے جبریل میہ ہاوڑہ
ہن اصلی صورت چنانچہ امام ترمذی سندہ روایتہ موجب آو وعدہ کرنہ کہ کوہ خراء س نکھ تل، موضع
جبارس منزلیہ یہ بعلم۔ پس اون تشریف نبی کریمو صلی اللہ علیہ وسلم تھ جاہ تہ پیٹھ و چھکھ جبریل

امین مشرقی افقن پیٹھ شہ ہتھ پڑ مژرا و تھ تہی آس و امت مغربی افقن تان یہ و چھتھ سپدی نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش توپتہ پے زمینس پیٹھ۔ توپتہ آو جبریل امین تمن نکھ تل انسانی صورتس
اندر تسکین دنہ خاطرہ کج ذکر چھہ امہ پتہ۔ الحاصل جبریل امین آو گوڈہ افقن اعلیٰ اس پیٹھ اصلی صورتس
منزلیہ تم بے ہوش سپدے توپتہ آوسہ تمن نزدیک انسانی صورتس منزلتی گوو ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى تو
پتہ آو جبریل امین تمن نکھ تل فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى کس آس تمن دون منزلون کمانن یاثر جائے
بلکہ تمہ خوتہ تہ کئی عربک عادت اوس کہ یلہ زہ شخص پانہ و ان کمال اتحاد و اتفاقہ خاطرہ

كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝۱۱۱ أَفَمُرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ۝۱۲۱ وَقَدَرْنَا ۝۱۳۱ نَزْلَةَ الْآخِرَى ۝۱۴۱ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۝۱۵۱ عِنْدَ حَاجَتِهِ الْمَأْوَى ۝۱۶۱

سمکھان آس تم آس پن کمان سیت تھلان تھن کمان ہند۔ تنقی کور آس اکھ اکی سدرس تنقی کرس سیت بلہ ناوان۔ یہ اوس علامت اتفاق و اتحاد صورتیک۔ اتھ سیت ہر گاہ اتحاد روحانی و قلبی تہ آسہاتلہ اوس یوان وندہ اوادنی۔ تیس تہ اولفظ اوادنی ہرہ روانہ سیت بیان کرنہ کہ جبریل امینس تہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در میان ہتھ روحانی مناسبت تہ یوسہ مدار اعظم ہتھ تہندہ پورہ معرقت تہ زانی ہنز۔ الغرض جبریل امینہ سدرہ نزدیک بینہ سیت سدرت من افاقہ و تسکین حاصل۔ تو پتہ افاقہ سپد تھ۔ **فَادْوِيَ إِلَى عَيْدِهِ الْمَأْوَى** کس سوز اللہ تعالیٰ ان ايسے جبریل امینہ سدرہ ذریعہ پنہ نس بندس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ سہ وحی کس تموسوز۔ سمہ و حیک تعین و تخصیص کرنہ ہتھہ آمت۔ ممکن ہتھہ ايسے جبریل امینہ سدرس تعارف متعلق آسہ کانہہ وحی یا ہیمہ کانہہ و حیاہ۔ امہ وقتہ تہ وحی نازل سپدن کس خاص جبریل امینہ سدرہ تعارفک وقت اوس ہتھہ غالباً سمہ امرہ خاطرہ کہ سہ سپدہ تعارفکس معاملس اندر زیادہ مدد معین۔ کیا زہ امہ ساتک وحی ہتھہ جبریل امینہ سدرہ اصلی صورتس منزینہ موکھ قطعی و یقینی یلہ امہ و تھک وحی تہ صورت بشر تیک وحی برابر ہیمہ۔ اکی شانک تہ حقیقتک لبنتہ یقین سپدہ تمہ سیت کامل تہ پوختہ **مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى** غلطی کرنہ نبی کریمہ سندی دل مبارکن تھہ منزیہ تمو چشمان مبارکو سیت و چھ یعنی جبریل امین و چھہ تمو اچھو سیت اندری دوپ دل مبارکن کہ واقعی میانہ چشمہ یہ و چھان چھہ حقیقت تمہ ہتھہ و چھان بیشک جبریل امینہ سی **أَفَمُرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى** اے کافر و کیاہ توہہ چھوہ ايسے پیغمبر برحق سیت قضیہ لاگان تھہ چیزس اندر کس تمو پانہ و چھہ پنہ نیو چشمان مبارکو۔ یہ جبریل امین ہتھہ تمو اکی پھرہ و ہتھہ **وَلَقَدَرْنَا أَنْ نَزْلَةَ الْآخِرَى** تمو چھہ و ہتھہ جبریل امین دوسمہ پھرہ تہ اصلی صورتس منزون رودنہ کانہہ اشکال تہ اعتراض **عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى** بریہ کلس نزدیک۔ حدیث شریفس منز ہتھہ آمت کہ سہ ہتھہ اکھ بریہ کلاہ سمس آسمانس پیٹھ۔ عالم بالا پیٹھ ہم احکام تہ اوراق وغیرہ سوزنہ یوان ہتھہ تم چھہ گوڈہ و اتان اتھ بریہ کلس کھتل تہ پیٹھ ہتھہ ملائک و اتاوان تم احکام وغیرہ زمینس پیٹھ ہتھہ پاٹھ پورہ بدن ہنزہ عملہ کھارنہ یوان تمہ تہ چھہ و اتاوانہ یوان اتھ سدرہ المنتہی اس

إِدْيَعَشِي السِّدْرَةَ مَا يَعْشَى ①٩ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى ②٠

کھتل۔ تو پتہ چھہ و اتاوانہ یوان تمہ عملہ متہ پیٹھہ بعالم بالا۔ اتھ سدرة التہمی اس تل چھہ جبریل
 اینہ سُد مقام۔ رولیا تو سیت چھہ معلوم سپدان کہ امہ سدرة التہمی ءک مول چھہ شہہ مس آسمانس اندر
 شاخ تہ لچہ چھس سمس (۷) آسمانس پیٹھہ پتھہ پاٹھی جتہ کین میون متعلق یہ تھہ چھہ کہ تمن چھہ دنیا کین
 میون سیت صرف لفظی اشتراک حقیقت چھہ سیٹھاہ مختلف۔ تنگ میوہ من نہ قیاس کرنہ دنیا کین میون
 پیٹھہ۔ دنیا کین میون چھہ مناسقہ کا نہہ تمن میون سیت۔ پتھہ پاٹھہ چھہ سدرة التہمی اچ کیفیت سوی
 یوسہ دنیا کلین بریہ کین ہنز چھہ بلکہ چھہ تمن منز فرق یوس زمینس تہ ستہ مس آسمانس منز چھہ
عِنْدَمَا جَاءَتِ الْمَأْدَى اتھ سدرة التہمی اس نکھ تلے چھہ با ایمان تہ نیک بدن ہندہ روز نچ جائے یعنی
 سہ جنت۔ پتھہ منز با ایمان نیوکار اخروی زندگی بسر کرن۔ امہ اندر ہ سپد معلوم کہ با ایمان ہند مقام چھہ
 جبریل اینہ سندس مقاس نکھ تلے۔ الغرض کہ دو سمہ پھرہ و چھہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 جبریل امین سدرة التہمی اس نکھ تل۔ امہ پتہ چھہ یوان بیان سہ وقت سمہ وقتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم جبریل امین اصل صورتس منز و چھہ۔ **إِدْيَعَشِي السِّدْرَةَ مَا يَعْشَى** یلہ سدرة التہمی دول تمو چیز و
 سموول۔ یعنی اللہ تعالیٰ سند انوار تہ تجلیات اس تھہ پیٹھہ ولنہ آمت۔ ملائکین ہنز کثرت تہ ہجوم اوس
 تیوت کہ ہر پنہ و تھرس پیٹھہ اوس اکھ اکھ ملکھہ روز تھہ۔ اگس روایتس منز چھہ آمت کہ ملائکو اوس اللہ
 تعالیٰ اس اجازت ہیو تمت کہ اس تہ و چھہ ہون محبوب خدا اس تہ کرہ ہو جنز زیارت۔ اللہ تعالیٰ اَن
 دیت تمن اجازت تمی موکھ آئے سدرة التہمی اس پیٹھہ سونہ سندین پنہ پونہرن ہنزہ شکلہ اندر۔ ابن
 کثیرن چھہ حضرت مجاہدس نعہ یم عبداللہ ابن عباسہ سندی خاص شاگرد آس سمہ آیہ کریمہ کس
 تفسیرس منز یم الفاظ نقل کر مت کان أغصان السدرة لؤلؤا و زبر جَدًا یعنی سدرة التہمی اوس
 تیوت خو بصورت تہ خوش رنگ، سہ و چھہ سیت اوس دل و پھران۔ تمہ وقتہ اوس امہ کلک رونق تہ
 حُسن و جمال تمہ قسمک کہ کانسہ مخلوقہ سُد طاقتھہ چھہ سہ کیاہ کرہ بیان الفاظن اندر۔ شاید حضرت
 صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وسلمہ سند دیدار خدا چھہ کی آیہ کریمہ کس اشارس اندر درج آمت
 کرنہ سدرة التہمی بیہ تمیک بے انتہاء رونق بیہ بے شمار ملائکین ہند اجتماع بیہ جبریل امین سزا اصلی
 صورت و شکل و چھتھہ **مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى** دول نہ تہند نظر مبارک یعنی پتھہ ڈول نہ تہ و چھہ نعہ

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝۱۸ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝۱۹
 وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَىٰ ۝۲۰ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝۲۱
 تِلْكَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّي أَعْمِدْ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ۝۲۲ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ

سمیہ وچھک حکم سپد کہ۔ نہ زینٹو تہند نظر مبارک تم چیز و پھنس کن سمن چیز ان وچھک حکم او سکھ
 نہ۔ یعنی مستقل مزاجی سان۔ تہند مزید استقلال بیان کرنے خاطرہ فرمود اللہ تعالیٰ ان لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ
 آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ بے شک وچھ تھو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ نس پروردگارہ سہدہ
 قدر تک بڈ بڈ عجائبات معراج شریفہ کین حدیث شریفن منز چھہ آمت کہ تم عجائبات گئے
 حضرات انبیاء ان ہند ملاقات ارواحن ہند ملاقات۔ جنک معائنہ جہنمک ملاحظہ وغیرہ وغیرہ ہم
 عجائبات خدایہ سے چھ معلوم کیاہ کیاہ ہو تکھ۔ مگر تم ساری چیز و پھنس اندر اوس شان مازاغ البصر و
 ما طعی قائم۔ اے کافرو، مگر کو حضرت رسول کریمہ سہد پیغمبر حق آسن، صاحب وحی آسن سہد متعدد
 عقلی دلیلو سیت ثابت۔ تمی وجیہ موجب چھہ تم توحیدک حکم فرماوان مگر توہہ چھوہ توہہ پوتلین ہنز
 پرستش کران۔ اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ * وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَىٰ کیاہ توہہ چھوہ بین پوتلین لات
 عزی تہ ملوہ سہد س حاکس منز تہ زانہہ غور کور مت تاکہ توہہ سپدہ ہا معلوم ہم چھا قابل پرستش نہ نہ
 لات، عزی تہ منات، ہم آس مگر کن ہندین پوتلین ہندی ناؤ۔ لات اوس شہر طایف کین لوکن ہند بوڈ
 پوتل۔ منات اوس قبیلہ، اوس و خزرج بیہ حزا عین ہند بوڈ پوتل۔ تیم تہ ترسمہہ درجک پوتل اوس مکہ
 شریف نشہ دور مدینہ شریف متصل اکھ پوتلاہ۔ عزی آس آس قریش تہ بیہ بٹی کنانہ ہمودوشوے خوتہ
 بوڈ پوتل زانانہ کس نزدیک موضع نخلس منز اوس۔ یا قوت حموی چھہ ونان مجعہ البلد انس منز کہ
 کافر آس سمن پوتلین خدایہ سنزہ کورہ ونان۔ بیہ آس بعض کافر ملائکین تہ خدایہ سنز کورہ زانٹھ معبود
 زانان اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان کہ اَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ کیاہ تہندہ خاطرہ گپہ پچوی خدایہ سہدہ
 خاطرہ گپہ کورہ۔ یعنی ہمہ کورہ توہہ پنہہ خاطرہ ناپسند کران چھوہ تمہ گیا لکنہ خدایس۔ سہ چھہ کورہ تہ
 کبر آسنہ نشہ سہرات پاک تِلْكَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ یہ چھہ بے ربط تہ لغو تقسیمہ رت چیز گوہ توہہ پانس
 پچھہ تہ خراب چیز گوہ نعوذ باللہ خدایس۔ یہ چھہ بنا بر عرف ونہ آمت ورنہ خدا تعالیٰ چھہ اولاد آسنہ نشہ

وَابَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ
 إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ
 الْهُدٰى ﴿۲۳﴾ أَمْ لِلإِنسَانِ مَا تَنسَى ﴿۲۴﴾ فَلِللَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولٰى ﴿۲۵﴾
 وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ

مبرا تہ پاک نہ چھہ تس پنچوی تہ نہ کوری اِن ہِیَ الْاَسْمَاءُ سَبَّيْتُمُوہَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ
 بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ سمہ معبودات چھہ مگر ناوے یات تم توہہ تہ تہند یو مالیو تہ بڈ بڈ پانے ٹھہر آوی
 مت چھوہ۔ اللہ تعالیٰ اِن چھہ تم ہندہ معبود آج کا نہہہ دلایاہ نازل کر مژا ن یَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا
 تَهْوٰی الْاَنْفُسُ بلکہ چھہ تم ہندس معبود آس منصرف بے بنیاد خیال نہ نفسہ چن خاہش ہنز
 پیروی کران۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّہُمْ الْهُدٰى حالانکہ تم نلشہ چھہ دو تمت تہندس پروردگارہ سندہ
 طرفہ تس پیغمبر برحقہ سندہ واسطہ ئس پوز فرماوہ ون تہ خدایہ سندس وچیس پیروی کرہ ون چھہ بوڈ
 ہدایت یعنی پنہ نس دعویٰ اس پیٹھہ چھہ تم ن کا نہہہ دلایاہ۔ تھہ بدل ئس دعویٰ پیغمبر خدا کران چھہ تم
 چھہ بوزان مگر توتہ چھہ مانان تہ تسلیم کران یمہ امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ تم لکھ چھنا سائین
 معبودان باطن ہنز عبادت تہ پرستش کران یمہ خیالہ کہ تم کیاہ کرن تم ن شفاعت تہ سفارش
 اَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَنسٰی کیاہ انسان نبیاتی تمیک سہ تمنا کرہ تہ بہ نہ ہرگز کیاہہ ﴿۲۴﴾ فَلِللَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولٰى
 پر تھہ تمنا چھہ خدایہ سندس اختیارس منز آخر تک تمنا تہ دنیاء ک تمنا۔ پس سیدہ حقہ سہ یشہ تس
 کرہ تہند تمنا پورہ۔ یہ کتھہ چھہ آمز بیان کرنہ کہ اللہ تعالیٰ کرہ نہ تہند یہ باطل تمنازا نہہہ تہ پورہ تم
 معبودان باطل نہ ہیکن دنیاءس اندر تم ن شفاعت کر تھہ حاجت کڈنس منز نہ ہیکھ لکھ آخر تس اندر
 شفاعتہ کر تھہ نجات وئس اندر۔ تم پوتل تہ بے جان چیز کیاہ ہیکن شفاعتہ کر تھہ تم ن منز چھہ تج
 اہلیت تہ قابلتھہ۔ تھہ دربارس منزیم لوکھ اہل تہ قابل تہ چھہ تم تہ ہیکن نہ بے اجازت کینہہ کرہ ٹک
 جرات کر تھہ چنانچہ ﴿۲۵﴾ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا واریاہ ملائکہ چھہ موجود آسما ن

بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿۳۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ﴿۳۹﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ
 عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
 شَيْئًا ﴿۴۰﴾ فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا ﴿۴۱﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
 ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَىٰ ﴿۴۲﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي

اندر۔ تہم شان تھو آسکھ باوجود ایہ نہ تہمز شفاعت بکارنہ چیزہ خاطرہ الا من بعد ان یاذن اللہ
 لمن یشاء ویرضی مگر خدایہ سدہ اجازتہ پتہ کس نہ شفاعت کرنہ خاطرہ راضی آسہ ان الذین
 لا یؤمنون بالآخرۃ لیسئون الملائکۃ تسمیۃ الانثی بے شک یمن لوکن آخرتجہ قیاق پڑھ جھنہ بلکہ
 تھہ انکار کرنہ سببہ جھہ تم سزاتہ بازہ نہ نشہ بے فکر سپد تھہ سیٹھاہ گستاخانہ تھہ کران چنانچہ دیان چھہ
 ملاکن کہ تمہ جھہ زنانہ خدایہ سزہ کورہ (نعوذ باللہ) یہ جھہ تہمز محض جہالت ملاکن کیاہ سنا تعلق جھہ
 مرد یازانہ آسس سیت۔ خدائس اولاد آسس سیت کیاہ تعلق جھہ وما لھم بہ من علم حالانکہ
 تمن نشہ جھہ آتھ پیٹھ کانہہ دلیلاہ ان یتبعون الا الظن تم جھہ پیروی کران مگر بے اصل
 خیالاتن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا بے شک بے اصل خیالات جھنہ پزس مقابلہ کانہہ
 فاندہ بخشان یلہ بہند عناد ثابت سپد معادس نشہ۔ قبول حق امید جھہ بیکار فأعرض عن من تولى
 عن ذکرننا پس پھر وتوہہ بن توجہ تس شخص نشہ ہم جھہ پھیر سانہ وعظ و نصیحتہ نشہ ولم یرد الا الحیوة
 الدنیا یس نہ کانہہ خیالاہ جھہ دنیاچہ زندگی ورآئے میرہ وجہہ تس آخرتجہ پڑھے جھہ آخرتجہ سزا
 وعذابہ نشہ جھہ تم بے فکر ذلک مبلغہم من العلم تہمدہ علمک تہ فہمک نہایت جھہ یوہے دنیاہے
 یوت بیہ نہ کینہہ۔ یلہ بیہندہ فہم ودانشہ ہند حال یہ جھہ ہذا مہ بروتوہہ تہمز کانہہ فکراہ۔ تہمد معاملہ
 پھر آو توہہ خدائس ان ربک ہوا علم بہن ضل عن سبیلہ ہوا علم بہن اہتدی بے شک تہمد

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ۗ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ
وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ
أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا

پروردگارے چھہ یژانہ ون کہ ہمہ چھہ تہمزہ وہ تہ نشہ ڈولمت۔ سئی چھہ یژانہ ون تس تم و تھ لب راہ
راستس ن۔ امی سیت سہ ثابت تہمد کمال علم و لله ما فی السموات وما فی الارض بہ چھہ خدلیہ
سند سے اختیارس منزہ سوزی یہ آسمان اندر تہ زمین اندر چھہ۔ امہ سیت سہ ثابت تہمسز کمال
قدرت۔ وون یلہ سئی چھہ صاحب کمال علم تہ صاحب کمال قدرت تہ تم سندین احکان تعیل و عدم
تعیل کہ اعتبارہ سہ مکلفین اندر تہ قسم اڈی گے ضال تہ گمراہ اڈی گے مہمتہ ہدایت یاب لِيَجْزِيَ
الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ چھہ سہ بیچھہ کامہ کرہ و نین عوض تہ بدلہ
دیہ تمیک یہ تمو کور۔ بیہ تھہ سہ بدلہ تہ عوض دیہ تم تہ مور تھہ کامہ کرہ رتھہ مزورہ تہ جزاسیت۔ لہذا
چھہ تہمد یہ شان مگان کہ تس کرہ سہ سورے مگن تہ پھر اون الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشِ
إِلَّا اللَّمَمَ تم لوکھ گئے تے تم بڑیو گہو یعنی گناہ کبیر و نشہ بہ بے حیائی ہنز و تھو نشہ چھہ پتھہ روزان
مگرے تہمدے کن لوکت لوکت گناہ آمت آسن إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک تہمدس
پروردگارہ سند مغفرت چھہ سیٹھاہ وسیع سہ کرہ تم گنہن مغفرت هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
سہ زلہ پور توہہ تہ تہمدین حالاتن تہ پیٹھ پیٹھ پیٹھ تہ یعنی تہمد جد بزرگو آدم علیہ السلام میڑہ پاڈہ
کورن۔ تہمدس ضمن اندر چھوہ تہ میڑہ نشی پاڈہ سہمت وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ بہ چھہ
سئی تہہ خوب زانان یلہ تہہ ماجن ہنز یڈن منزچہ آسہ۔ تم دوشونی حالن اندر چھوہ نہ توہہ پنہ پانچ
کینہہ خبر۔ اسہ چھہ تہمدین تم دونہ ون وقتن ہند حال پور، معلوم ونی کینس تہ تہمد پن حال نہ زان
سون تہمد حال پور زان۔ یہ عجیب تھہ چھہ بلکہ چھہ یہ حقیقت فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ یلہ تھہ بے چھہ

أَنْفُسِكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۚ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ۚ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوَّيَرَى ۚ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِبِئَانِي صُحُفِ مُوسَى ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۚ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۚ

پس مہ آسو پہنچن پان مُقدس تہ قابلِ تعریف زانتہ پانے پہنچن تعریف کران **هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى** پروردگارے زلنہ پورہ پاٹھ تمن تم متقی تہ پر ہیزگار چھہ تَس ہٹھ خبر کہہ شخص ہٹھ متقی تہ کہہ ہٹھ اودہ آسٹن تمن دوشونی نشہ افعال تقویٰ ظاہر سپدان **أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى** توہہ بوزوہ اوتان نیک لوکن ہند صفت۔ وون بوزو تمن بدل بین لوکن ہند حال۔ کیاہ توہہ وچھونہ یارسول اللہ سہ شخص سم دین حقہ نشہ روگردانی کر تہ ہٹھ پھیر **وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى** بیہ سم وعدہ کمر تھ کم کینہہ مال دیت بیہ لوڈن اتھ پیٹھ۔ امام مجاہد وغیرہ چھہ فرماوان کہ سم آیات چھہ نازل سپدی متی ولید بن مغیرس متعلق۔ تمس پیٹھ سپزوو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدہ وعظ و نصیحتک اثر۔ سہ سپزو و ماکل ایمان انہ نس گن۔ اک کافرن وون تَس بیہ مہ کر تہ۔ چان ساری گناہ تلہ بہ پانس پیٹھ چانہ حقہ تَس سزا تجویز سپد تھ دمہ بہ پن پان۔ بشر طیکہ ڈہ دکھ مہ یوت مال۔ تم کورس اقرار۔ تَس رقم مقرر آو کر نہ تمہ منزہ دیت تَس اکھ قط۔ بیہ کورنس باقی رقم دنہ نشہ انکار **أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوَّيَرَى** کیا تَس شخص نشہ چھا علم غیب تھہ کیاہ چھہ سہ وچھان سمجھہ ذریعہ تَس معلوم سپد کہ فلاں شخص سپدہ میانہ بدل عذابس گرفتار۔ **أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِبِئَانِي صُحُفِ مُوسَى ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى** کیاہ تمس چھنا خبر کر نہ آسٹن تمہ مضمون نج تَس موسیٰ علیہ السلامہ سندین صھن منز ہٹھ بیہ تَس مضمون ابراہیم علیہ السلامہ سندین صھن اندر ہٹھ سمو پن قول و قرار پورہ کورمت ہٹھ یعنی سمو خداہ سندساری احکام پورہ پاٹھ بجائمت چھہ سہ مضمون گوو یوہے کہ **أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى** کانہہ شخص تلہ نہ کانہہ شخصہ سندین گو نہن ہند بور سمہہ طریقہ کہ گوناہ کرہ وون کیاہ سپدہ گو نہو نشہ بری۔ بیہ ہٹھ تمن صحیفن منزیہ مضمون کہ **وَأَنْ لَيْسَ**

وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَىٰ ﴿٢٢﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٢٣﴾ وَأَنَّ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٢٤﴾ وَأَنَّ هُوَ آمَاتَ وَ أَحْيَا ﴿٢٥﴾ وَأَنَّ هُوَ خَلَقَ الرَّجُلَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٢٦﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٢٧﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٨﴾ وَأَنَّ هُوَ آغْنَىٰ


لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ بے شک انسان سپدہ حاصل تی یہ تم پانہ کموومت تہ زیوئمت آسہ وَاَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ بیہ یہ مضمون کہ بے شک اُس انسانہ سُد جدو جدتہ سعی و تلاش تعمیل احکام ندر بیہ ملاحظہ کرنہ۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَىٰ تو پتہ بیہ تَس تمیک پور بدلہ دنہ۔ باوجود آل چھانہ شخص سعی و کوشش کرنہ نشہ غافل وَاَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ بیہ چھہ یہ مضمون تمن صحیفن اندر کہ سارنی لوکن پتولا کہ واتن تہند سی پروردگار س نشہ لہذا آتہہ پاٹھ چھہ یہ شخص بے خوف تہ سوکھہ وَاَنَّ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ بیہ چھہ یہ مضمون کہ تہند پروردگارے چھہ آسہ ناوان تہ وڈہ ناوان وَاَنَّ هُوَ آمَاتَ وَ أَحْيَا بیہ چھہ سے ماران تہ زندہ کران وَاَنَّ هُوَ خَلَقَ الرَّجُلَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ بیہ چھہ یہ مضمون کہ سے چھہ دوشونی فسمن نرومادس پادہ کران مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ اِس مئی ہندس قطر س یکہ سہ قطرہ چھہہہ رُحس یعنی چہ دانہ اندر واتاوندہ یوان۔ اِس پروردگار اِس مئی ہندس قطر س نرومادہ پادہ بیہ کمر تہ تَس تَس کیاہ مِثْل چھہ دوبارہ پادہ کرن وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَىٰ بیہ یہ مضمون کہ دوبارہ پادہ کرن تہ چھہ تہندہ وعدہ موجب تَس مئہ یعنی یہ چھہ تَمہ طریقہ ضروری تہ تہہ پاٹھ کانہہ کانہہ کا ماہ مئہ آسہ وَاَنَّ هُوَ آغْنَىٰ وَ آغْنَىٰ بیہ یہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ ای چھہ مالدار تہ غنی کران سے چھہ مال و دولت محفوظ تھوان یعنی مال و دولت تہ خزانہ تہ جاندا موقوف چھہ سے ووان۔ بعضے مفسرو فرمو و آغنی بمعنی أفقر یعنی سئی چھہ مال عطا کران، سی محتاج و فقیر بناوان۔ ہر گاہ گوڈ نیک معنی مراد بیہ بوزنہ تلہ گوو تھیگ مقابل اہلک لیس بروٹھ پہن بیان بیہ کرنہ تھیلہ گوو مطلب اِس پروردگار مال و دولت عطا کر تہ چھہ نافرمانی ہندہ سببہ ہلاک و برباد کران وَاَنَّ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ بیہ چھہ یہ

وَاقْتَنِ ﴿۳۸﴾ وَأَنْتَ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ﴿۳۹﴾ وَأَنْتَ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿۴۰﴾
 وَتَمُودَ أَمَّا أَبْيَعُ ﴿۴۱﴾ وَقَوْمُ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ
 وَأَطْغَىٰ ﴿۴۲﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿۴۳﴾ فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ ﴿۴۴﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
 رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿۴۵﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ﴿۴۶﴾ أَرَأَيْتَ

مضمون کہ سنے پروردگار چھ ستارہ شعریٰ اک مالک۔ یہ ستارہ چھ اک بوڈستارہ ہتھ عربک بعضے لوکھ
 آس پرستش کران یہ زانتھ کہ عالمہ کین اکثر احوال اندر چھ امیک تاثیر۔ یتہ نس آو بیان کرنہ کہ امہ
 ستارہ شعریٰ اک مالک یتہ چھ اللہ تعالیٰ ای۔ دنیاہک ساری تغیرات چھ اللہ تعالیٰ سدس دست
 قدرتس اندر۔ یہ ستارہ شعریٰ یتہ چھ اگس ادنیٰ مزورہ سندی پاٹھ تمسد حکم بجانان۔ تس منزہنہ
 مستقل طور بذات خود کانہہ تاثیرتہ اختیار۔ وَأَنْتَ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ بیہ چھ یہ مضمون کہ تمسی
 پروردگارن کمر ہلاک بروٹھم قوم عاد یعنی ہود علیہ السلامہ سند قوم تہندہ کفر و نافرمانی ہندہ سببہ وَتَمُودَ
 فَمَا أَبْيَعُ بیہ کورتی ہلاک قوم تمود صالح علیہ السلامہ سند قوم۔ پس تھوون نہ تمو منزہ کینہہ تہ باقی
 وَقَوْمُ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ تہن بروٹھ کوڑن ہلاک نوح علیہ السلامہ سند قوم إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ
 وَأَطْغَىٰ بے شک تم آس سارنے خوتہ زیادہ عالم تہ شریرتہ سرکش وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ بیہ کرین
 ہلاک تلک پیٹھ کرنہ امژہ بستی ہند لوکھ یعنی قوم لوط علیہ السلام۔ تم دتن ہیرہ پیٹھ بون دار تھ
 فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ تو پتہ دل تم تمسی چیزن یم دل یعنی پیٹھ آو تہن کتہ رود کرنہ۔ تھ تل آی تم گالہ
 امہ پتہ چھ یمن سارنے مضمون ہیوند نتیجہ بیان کران کہ اے انسان یلہ ژہ امہ باخبر کرکھ تمو
 مضمونوسیت تم ذریعہ ہدایت آنکھ وجہ بجای خود خدلیہ سزاکھ اک نعمتہ چھ لہذا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ
 تَتَمَارَىٰ پنہ نس پروردگارہ سند یو نعمتو آندہ تھ تھ نقس کرکھ ژہ شک تہ انکار۔ تم گنیہ تم مضامین
 تم صحف ابراہیم علیہ السلام تہ صحف موسیٰ علیہ السلام منز آس هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ یہ پیغمبر
 برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھ نافرمانان اک عظیم الشان بیم کرہ و ناہ بروٹھمیو بیم کرہ

الْأَرْزَاقُ ۵۸ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۵۹ أَفَمِنْ هَذَا
الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۶۰ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۶۱ وَأَنْتُمْ
سَيِّدُونَ ۶۲ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا ۶۳ الْحَيَّةَ

وینو آندره۔ یہ پیغمبر مآنیوں جلد کیا زہ آرن فَتِ الْأَرْزَاقُ نزدیک یوہون قیامت ہیون نکلہ من۔ تم چہہ
پیغمبر آخر الزمان۔ تمو فرموو بعثت انا والساعة هكذا بونہ قیامت آس سوزنہ آمرشہہ پاشی چہہ چہہ اشارہ
ہوؤ کہ دو یوانگشت مبارکویت۔ اکھ شہادتچہ اوچہہ سیت بیہ منز مہ اوچہہ سیت لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
كَاشِفَةٌ بیلہ سو قیامت پنہ نس مقررہ وفس پیٹھ بیہ تہہ چہنہ کانہہ اکھہ خدایس وراکی چہہ کڈہون
پس چہنہ کانہہ پیٹھ بھروسہ کر تہہ بے فکری ہنز گنجائشِ آفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ کیاہ بیہ خوف
ناک تہہ بوڑ تہہ تہ چہوہ تہہ تہہ خدایہ سندس کلام پاکس نسبت تعجب کران وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
کیاہ بیہ چہوہ تہہ استہزاء تہہ ٹھٹھہ پاشہہ یہ قرآن مجید بوڑ تہہ آسان۔ عذابک خوف کھتہ کونہ چہوہ تہہ
ودان تہہ روان وَأَنْتُمْ سَيِّدُونَ بیہ چہوہ تہہ اطاعت و فرمانبرداری کرنہ نشہ تکبر کران۔ امہ
تکبر تہہ غفلتہ نشہ بیو باز تمس پیغمبر برحقہ سدہ تعلیمہ موجب فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا تکبر تہہ غرور
تراو و پٹنی کلہ تراووز مینس پیٹھ معبود برحقہ سدہ خاطرہ تہنزیے کمر و کانہہ اگس تس شریک تھاونہ
ورائے عبادت روایاتن اندر تہہ آمت سمہ ساتہ یہ سورہ نجم پور حضرت رسول کریم، تمودیت یہ
آینہ کریمہ ہر تہہ سجدہ۔ بیہ یم لوکھہ اتہ منز مسلمانو اندرہ بیہ کافر و آندرہ آس، تمو ساروے تہہ دیت بے
اختیار پاشہہ سجدہ۔ صرف اوس اکھ بد بخت کافر، تمی تیج اکھ میرہہ موٹھاہ، سوی لاجن ڈیکس۔ دپنہ
لوگ میہ چہہ ایڑے ہن کافی۔



سُورَةُ الْقَمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۱ وَإِنْ سَأَلْتَهُ عِجْرَةً لَيُعْجِزْهُنَّ اللَّهُ فَأَبَىٰ إِفْكَهُنَّ أَن يُصْعِقَهُنَّ ۲ وَكَذَّبُوا ابْتِغَاءَ أَهْوَاءِهِمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ مُّسْتَقِرَّةٌ ۳

ہجرت بروئٹھ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکہ دوہہ بازار مناس منز تشریف تھاوتھ۔ کافر ہندتہ اوس اکھ بوڈ جمعہ ہتہ موجود۔ تھ اندر کری کافر و تمن نہہ معجزہ طلب۔ تمو فر موو کہ ای لو کو آسانس کن دیو نظر۔ اتی وچھ تمو ساروے کہ زونہ گئے زہ اڈ۔ اکھ حصہ پیو مغربس کن بیا کہ حصہ پیو مشرقس کن۔ یکن دون حصن سپدی کوہ حائیل۔ یلہ ساروے لو کو وچھ یہ معجزہ۔ تو پتہ میلی تم دو شوے حصہ یہ پانہ وان۔ کافر لگ دینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوت زونہ پیٹھ جود کروں۔ تھ معجزس چھہ ونان شق القمر۔ امام طحاوی محدث یہ علامہ ابن کثیر وغیرہ چھہ فرماوان تھہ واقص منز تو اتر یعنی یہ چھہ حدیث متواتر۔ یہ واقعہ چھہ تاریخ فرشتس منز موجود۔ ہندوستانس منز چھہ مہاراجہ مالبارہ سندہ اسلام آنہ تک یوہے وجہ سپد مت۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ قیامت آیہ نزدیک۔ زونہ گئے زہ اڈ۔ شق قمر چھہ نبی کریمؐ سند یو معجزہ و آندرہ اکھ بوڈ معجزہ امہ کس واقع سپد نس اندر چھہ نہہ شکھاہ۔ تھ چھہ صحابہ صابو آندرہ روایت کمر مرث حضرت علی مرتضیٰ ان عبد اللہ بن مسعود انس بن مالکن، عبد اللہ بن عباس۔ حذیفہ بن الیمان، جبیر بن مطعم، عبد اللہ بن عمر، بیہ واریہو صحابہ صابو آندرہ روایت کمر مرث۔ اتھ واقص متعلق چھہ حدیث شریف بخاری شریفس مسلم شریفس بین حدیث شریفہ چین کتابن اندر۔ بخاری شریفس اندر چھہ بروایت عبد اللہ ابن مسعود سمہ کتھہ ہنز صراحت کہ صحابہ صاب آس امہ واقعہ وزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت حاضر لفظ حدیث چھہ تھہ پاٹھ کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آس آس پیغمبر خدا یس سیت بازار مُسْتَقِرَّةٌ اس اندر تمہہ ساتھ یلہ یہ واقعہ سپد۔ امام بیہقی سندس روا یس اندر چھہ کہ ژور وطر نویم لو کہ مکہ شریف

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۖ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا
تُغْنِي النَّذْرَ ۗ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ مُّكْتَرٍ ۙ
خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۙ

وات تمودوپ کہ آسہ تہ وچھہ وتہ زونہ زہ حصہ سپدان پنہ نیو اچھو۔ لوکن اوس لازم پتھہ مجزہ وچھہ متاثر سپدن لیکن تہنز حالت چھہ یہ کہ **وَأَنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّؤْتَمَرٌ** اگر تم کافر کا نہہ مجزہ وچھان چھہ سہ وچھہ تہ وچھہ تم پتھہ پھر ان بیہ چھہ دپان بیہ چھہ جوداہ ٹس نبوتک دعویٰ کرہ و نیو پتہ و تھ پیش کورمت چھہ۔ پتھہ پاتھہ بروٹھمن مدعیان نبوتن ہندس جادس تہ سحرس کینہہ دراونہ، جلدے گوو ختم پتھہ پاتھہ نیرہ نہ پتھہ تہ کینہہ کال بیہ تہ گڑھہ جلدے ختم **وَلَا يُؤَاؤُا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ وَلَهُمْ آيَاتٌ لِّمَنْ يَعْقِلُ** وگڈبواوا ابغوا آہوا ہم وکل امر مستقر بیہ تمو کافر ولہز پٹھہ اصرار کمر تھہ پزس انکار کور بیہ کرکھ پنہ نین نفسانی خاشن ہنز بیروی۔ تی موکھ زونکھ پوزاپز۔ معجزن وونچھہ بحر تہ جود یکن ہند اثر جلدے ختم گڑھہ ون چھہ۔ پر پتھہ کتھاہ چھہ پنہ نین اصلی حالاتن پیٹھہ قرار کرہ و نی یعنی کینہہ کالاہ گڑھہ تھہ نیر پانے پزیک پوز آسن اپزیک **أَنْزَلْنَا سُنَّاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ** پانے مجھہ لوکن زائن فانی تہ گلہ ون کیاہ چھہ، باقی تہ پوشہ ون کیاہ چھہ **وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ** تھین واژہ مژہ چھہ تمن نشہ بروٹھمن امتن ہنزہ تمہہ خبرہ تمن منز کافی عبرت آس **حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِي النَّذْرَ** یعنی تمن خبرن منز آسہ پورہ حکمتہ چہ تہ دانائی ہنزہ کتھہ مگر تموتل نہ کا نہہ فایدہ تمو کتھو سیت پس چھہنہ کا نہہ فایدہ دووان تمن نیم کرہ و نین ہند نیم کرن۔ پیلہ تہنزہ حالتہ بیہ چھہ۔ **فَتَوَلَّ عَنْهُمْ** ٹس تراو تہہ تھند خیال۔ ہنن توجہ پھر و تہہ تمن نشہ۔ یعنی پتھہ قرآن مجیدس منز چھہ حکمتہ تہ عقلہ ہنزہ تھہ۔ کا نہہ شخصاہہ اگر اتھ ٹن نیک نیتی سان توجہ کرہ تہندس دلس پیٹھہ بیہ ضرور اثر۔ مگر تم لوکھ چھہ تھنی سنگ دل تہ بد بخت، یمن چھہنہ کا نہہ اثر سپدان۔ ہند تراو تہہ تہ تہند خیال سمہ وقتہ تمن امکہ عقوبت و عذابک وقت ولتہ سمیک تمن نیم کرنہ یوان چھہ تمہہ ساتہ وچھن تمن امیک مزہ پانے **يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ مُّكْتَرٍ** سمہ دوہہ اکھ آلودوہ ون ملکھ اکھ آلودیہ آگس تیمناک ناگوار چیزس آگس ٹن **خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ** تہنزہ اچھہ آسن خوفہ تہ ہبتہ سیت بون ٹن۔ **يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ** قبر و منزہ نیرن تمن پتھہ پاتھہ زن تمن چھکرنہ آمت ہالو آسن۔ **مُهْطِعِينَ إِلَىٰ**

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۙ كَذَّبَتْ
 قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ فَكَذَّبُوۤا عِبْدَنَا وَقَالُوۤا لِمٰجُنُوۡنٌ وَّازْدَجِرَ ۙ ۙ
 فَدَعَا رَبَّهُ اٰتٰنِي مَغْلُوۡبٌ فَاَنْتَصِرَ ۙ ۙ فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ
 مُّنْهَبٍ ۙ ۙ وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوۡنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰى اٰمْرِ قَدْرِ ۙ ۙ
 وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ الْاَوَاجِ ۙ وَدُسِّرَ ۙ ۙ لَاجْرِىۡ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءٌ لِّمَنۡ كَانَ

الدَّاعِ قبر و آندره نیر تھ بین تم دوران آلوده و نس کن یعنی حساچہ جاہیہ جمع سپدنہ خاطرہ آلودہ و ون
 آلودوان آسہ۔ متر چہ بے شمار تخیہ و وجہت يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ کافر آسن و نان یہ دوہ چھہ
 سیٹھے سخت كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ یمن لوکن برونٹھ چھہ کورمت انکار پنہ نس پیغمبرس نوح علیہ
 السلامہ سندے قومس فَكَذَّبُوۤا عِبْدَنَا وَقَالُوۤا لِمٰجُنُوۡنٌ وَّازْدَجِرَ پس کور تموانکار سانس بندہ خاص نوح
 علیہ السلامس بیہ و نکھ تمن نسبت کہ یہ چھہ موت تہ دیوانہ۔ بیہ آسہ تمن دھمکی تہ دنہ۔ تم آس تمن
 و نان کہ ای نوح ہر گاہ تہہ امہ تہلیغہ نشہ پتھ روزونہ آس کروہہ تہی سنگسار۔ فَدَعَا رَبَّهُ اٰتٰنِي مَغْلُوۡبٌ
 فَانْتَصِرَ ادہ مونگ نوح علیہ السلامس پنہ نس پروردگارس دُعا کہ میانہ پروردگارہ بو آس عاجز یمن
 لوکن فہمائش کران تہ وعظ و نصیحت کران۔ تمن چھنہ کینہہ تہ بنان۔ وون ہیہ تہے یمن نشہ پنہ
 دیگ تہ پنہ نس پیغمبرہ سدا انتقام زمینس پیٹھ مہ تران تمواندرہ اکھ تہ زندہ۔ بو پوشہ نہ تمن تہے پوشہ
 ہچھ۔ نس کمر آسہ تہندس مگنکس اجابت فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَبٍ نس مثر راوی آسہ آسمان
 ہندی دروازہ یپاری کئی رودہ شرانہ و ترہہ وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوۡنًا بیہ کمر آسہ جاری زینک ساری
 چشمہ، ناگہ راد۔ فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰى اٰمْرِ قَدْرِ نس رلیو (آسمانک تہ زینک) آب سو کام پورہ کرنہ
 خاطرہ یوسہ نوح علیہ السلامہ سند قوم ہلاک تہ تباہ کرنہ خاطرہ مقرر تہ مقدر کرنہ آس آمر۔ چنانچہ تم
 ساری کافر سپد ہلاک وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ الْاَوَاجِ وَدُسِّرَ نوح علیہ السلامس امہ طوفانہ نشہ نجات دنہ
 خاطر کھور آسہ سہ تھ ناوہ منز یوسہ پچو تہ میخوسیت تیار کرنہ آس آمر لَاجْرِىۡ بِاَعْيُنِنَا یوسہ ناویکان

كُفْرًا ۱۶) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۱۷) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي
 وَنَذِيرٍ ۱۸) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۱۹) كَذَّبَتْ
 عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ ۲۰) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا
 فِي يَوْمٍ نَحِيسٍ مُسْتَمِرٍّ ۲۱) تَتَزَوَّرُ النَّاسُ عَنْهُمْ آعْجَازٌ نَحْلٍ
 مُنْتَعِرٍ ۲۲) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ ۲۳) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

آس سائین اچھن تل آہ پیٹھ امن واطمینان سان۔ تم ساری ہتھ سمونوح علیہ السلامس ہذہ کمر مثر
 آس جزاؤن کان کُفْرًا یہ سورے کور آہ تس شخصہ سُنْد بدلہ ہینہ خاطرہ کس بے قدری تہ انکار کرنہ
 آو۔ امہ اندرہ ہجھ مراد نوح علیہ السلام۔ کیا زہ خدایہ سیدس پیغمبرس انکار کرن گوو خدائس انکار کرن
 وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ بیشک آہ تھو سو نا نوح علیہ السلامس پتہ وار یس کالس باقی پنہ
 قدر تک اکھ نشانہ ہتھ لوکھ نصیحت تہ عبرت رشن۔ پس چھاسنا کانہہ امہ واقعہ سیت عبرت تہ نصیحت
 رٹہ وناہ۔ ہم فکر کرن کہ خدائس نافرمانی سیت کوسہ تباہی تہ بربادی چھ گروھان یا گوو معنی کہ یہ واقعہ
 تھو واسہ قصن تہ تذکرن اندر جاری۔ ہتھ لوکھ یہ بوز تھ عبرت رشن عبرت رٹھ زان تم فَكَيْفَ
 كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ پس کیتھ اوس میون عذاب ہیہ کیتھ پوزدر او میون بیم کرن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ بے شک ہیہ کور آہ یہ قرآن مجید ہتھ منزلی قسمب قصہ چھ سہل تہ آسان
 نصیحت رفتہ خاطرہ پس چھاکانہہ تیار نصیحت حاصل کرنہ خاطرہ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ
 قوم عادن تہ کور پنہ نس پیغمبر ہود علیہ السلامس انکار پس یوزو تہہ تہند قصہ تہندہ خاطرہ کیتھ اوس
 میون عذاب تہ میون بیم کرن۔ سہ قصہ ہجھ ہتھ پاٹھ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحِيسٍ
 مُسْتَمِرٍّ کہ آہ سوز تمن پیٹھ اکھ تیز واواہ اکھ پُوشہ ونہ کس پھیشل دوہس اندر یعنی سہ زمانہ اوس تہندہ
 حقہ پھیشل۔ چنانچہ سو نحو سٹھ وژھہ نہ تمن نشہ یوتان نہ تم ساری ہلاک تہ برباد سپد تَتَزَوَّرُ النَّاسُ
 كَانَهُمْ آعْجَازٌ نَحْلٍ مُنْتَعِرٍ تمو آس ہنکے پان شترہ وین کو ٹین ستی ہانکو ستی بند کمر مت۔ تم

الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُفِرَ بِهِ مِنْ مِّدْيَةَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۲۲
 فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذْ لَفِي ضَلِيلٍ وَسُعْرٍ ۲۳
 أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ۲۵ سَيَعْلَمُونَ
 عَذَابَ الْكَذَّابِ الْأَشْرِ ۲۶ إِنَّا مُرْسِلُونَ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ

کوٹ آسکھ بند کمر متی۔ باوجود آل اوسکھ سہ داوزینہ منزہ کڈان تو پتہ کوئیو سان ہیور کھاران۔
 ہیور کھارتھ ز میس پیٹھ ٹھاسہ وان۔ کلہ ہیرہ آسکھ زہنان باقی بدن ٹھند اوس ز میس پیٹھ یوان
 زن سہ مولہ کڈنہ آمت خضر کل ہیو آسان اوس اتھ اندر چھہ بیاکھ تشبیہہ تھندس دراز قد آس
 اندر۔ باوجود تو مند تہ قد بلند آسکھ تراوتم واؤن پھر مولہ کڈنہ آمت خضر کلی ہو۔ فَكَيْفَ كَانَ
 عَذَابِي وَنُذُرٍ پس چھکھ وچھان ژہ کہ کیتھہ لوس میون عذاب، میون بیم کرن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
 لِلَّذِي كُفِرَ بِهِ مِنْ مِّدْيَةَ بے شک کوراسہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنہ خاطرہ سہل تہ آسان۔ پس
 چھاکانہ نصیحت رٹہ وناہ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ قوم ثمود تہ کوریم کرہ و نین پیغمبرن انکار یعنی
 صالح علیہ السلام۔ اُس پیغمبرس انکار کرن گو سار نے پیغمبر انکار کرن فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثَّا وَاحِدًا
 نَتَّبِعُهُ تم لگ دہنہ کیاہ اُس کر وہ تھہ سے اُس شخصہ سنز پیروی تہ متابعت ئس اسی منزہ اکھ انسانہ
 مجنون زن چھہ۔ سیت چھس نہ کانہہ تہ۔ نہ چھس نو کر چاکر۔ نہ چھس پیر و کار اُس ہر گاہ آئی سنز
 پیروی کرو إِنَّا إِذْ لَفِي ضَلِيلٍ وَسُعْرٍ یقیناً چھہ اُس تیلہ جہ غلطی اندر بلکہ مژرس تہ جنونس اندر واقع
 سپدہ ونی۔ خیالی قصاہ چھہ أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ بلکہ چھہ یہ دعوائے کرنس اندر
 بوڈا پز یور۔ یہ چھہ بوڈ بن یرٹھان۔ سردار قوم بن یرٹھان اللہ تعالیٰ ان فرمود صالح علیہ السلام سین

دیو تھہ دور نہ۔ غم مہ بڑو کینہہ سَيَعْلَمُونَ عَذَابَ الْكَذَّابِ الْأَشْرِ سین سپدہ چھہ معلوم کہ بوڈ
 ایز یور شیخی باز کہہ اوس۔ ہم لوکھ ئس معجزہ طلب کران چھہ کہ پلہ منزہ گڑھہ اوئین نیرنی۔ إِنَّا
 مُرْسِلُونَ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ اُس چھن تھزی فرما کتھہ تہ درخواستہ موجب کہہ منزہ ووئین کڈان تمن

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۚ ﴿۲۷﴾ وَبَدَّوهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ
 كُلُّ شَرِبَ مُخْتَصَرٌ ﴿۲۸﴾ فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿۲۹﴾
 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿۳۰﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً
 وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
 فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿۳۲﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ ﴿۳۳﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا

آزماوہ خاطرہ۔ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ اُس روز و نوبہ تہمدین حرکات و سکناتن ژر ژان بے بہو تہ صبرہ
 سان بیلہ یہ دو ٹن پادہ سپدہ وَبَدَّوهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ بے و نو پنے نس قومس کہ کیرک آب او
 تقسیم کرنے تہ باگر نہ تمن منز تہ اُس و و ننبہ منز آب چنلس یعنی تہمدین چاروا این منز آیہ وار مقرر
 کرنے۔ اکہ دوہہ آسہ آب چیوان یہ و و ننبہ دوہہ آس چیوان تہمدے چاروا ایلے كُلُّ شَرِبَ مُخْتَصَرٌ
 پر تہ دوہہ آسہ پنہ وارہ پیٹھ پر تہ اکھا حاضر سپدان۔ چنانچہ و و ننبہ سپز پادہ پلہ منزہ۔ صالح علیہ
 السلامن فرمود تمن تہ پٹھ پاٹھ ہتھ پاٹھی ارشاد خداوندی اوس۔ مگر تم آئی امہ نوبت تہ وار مقرر کرنے
 سیت سخت عاجز تہ تنگ تمو کوریہ و و ننبہ مارنہ خاطرہ پن اکھ شخصہ مقرر فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ
 تو پتہ دُیت ناد تمو تس شخصس اُس تمو امہ کامہ خاطرہ مقرر کرنے اُمت اوس یعنی قیدارس۔ تمی نچ
 شمشیرہ ژنڈ سوی لاین اُس و و ننبہ تمی سیت ژنلس صبرہ نار فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي اُس و و ننبہ کہ
 میون عذاب تہ کھو ژہ ناؤن کیتھ اوس تہمدہ تھہ سہ گووا کی کہہ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا
 كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ اُسہ لایہ ناؤ تمن جبریل امینہ سزگنی کر کیکہ سمہ سیت تم ہنر تھ پنے کڈ مورین
 ہمدہ دیوار کی پاٹھ اُس خشک گڑھتھ ہتھ ٹہ ٹہ پتھر بیوان جبریل امینہ سزہ تمہہ کریجہ ستی پھٹ تمن جگر
 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ بے شک اُسہ کور قرآن مجید سہل تہ آسان نصیحت رنہ
 خاطرہ۔ پس چھا کانہہ نصیحت رنہ و ناہ کَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ لوط علیہ السلامہ سند قومس تہ کوریم
 کرہ و نین پیغمبرن انکار إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اُسہ کور تمن پتہ تگہ رُود اَلْآلِ لُوطٍ بِئِنَّهُمْ بِسَعِيرٍ

عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرٍ ۖ رَّعَاهُ مِنَّا مِنَّا
 كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۖ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا
 بِالنُّذُرِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنِ ضَيْفِهِ فطمسنا أعينهم فذوقوا
 عَذَابِي وَنُذُرِي ۖ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ۖ فَذُوقُوا
 عَذَابِي وَنُذُرِي ۖ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
 مُدْكِرٍ ۖ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۖ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا

مگر نہ لوط علیہ السلامہ سندس عیالس۔ تمن دیت اُسہ نجات سحرہ کہ وقتہ پاس آخرس تمہ شہرہ منزہ
 نیر کڈنہ سیت رَعَاهُ مِنَّا مِنَّا محض پنہ فضل تہ مہربانی سیت کَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ تہ پانٹھ
 جہہ آس بدلہ دوران با ایمان تہ شکر گزار بدن۔ تم جھکھ اسی پنہ قہرہ نشہ بچوان وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ
 بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ * وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنِ ضَيْفِهِ بیشک عذاب یہ بروٹھ کھوڑہ ناوے تم لوط علیہ
 السلامن سانہ گرفتاری نشہ مگر توتہ لگ تم تورہ بحث کرنہ سیت تہ تیم کرنس انکار کرنہ۔ یلہ لوط علیہ
 السلامس نشہ سانی ملکہ خوب صورت لوکین ہنزہ شگلہ مہمان ہٹھ آئے۔ توپتہ بوز تمولو کو تو تم آے
 دوران دوران تمن نشہ۔ بے شک کمر تمولو لوط علیہ السلامس آرفقاری تہندین تمن پڑھین ہندہ خاطرہ
 کہ کڈنہ پانٹھ نمہ ہو کہ تم تمن نشہ بچھ کامہ خاطرہ۔ گوڈہ کیے لوط علیہ السلام سخت پریشان۔ مگر تم مہمان
 آس ملکہ۔ اُسہ کور تمن حکم توپتہ ذول جبریل امین بن اٹھ تہنزن اچھن پیٹھ۔ تمن پیوانیو۔ فطمسنا
 اَعْيُنَهُمْ پس نیو اُسہ تہنزن اچھن ہند گاش فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي وَنہ آو تمن وونی ژہو گوڈہ تہہ میانہ
 عذابک تہ میانہ کھوڑہ ناوٹک مزہ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ توپتہ پوکھہ وائٹھ صبحس سلی
 پوڑون عذاب توپتہ آکھ بیہ ونہ کہ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ژہو مزہ ہلاک کرہ ونہ عذابک وَلَقَدْ
 يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ بے شک اُسہ کور قرآن مجید نصیحت رنہ خاطرہ سہل تہ
 آسان پس چھا کانہہ نصیحت رنہ وناہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ بے شک بیہ آئی فرعونس تہ تہندین

فَاخَذَ نَهْمٌ اَخَذَ عَزِيْزٌ مُّقْتَدِرٌ ﴿۳۱﴾ الْفَارُكُمُ خَيْرٌ مِّنْ اَوْلِيْكُمْ
 اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿۳۲﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّتَّصِرٌ ﴿۳۳﴾
 سِيْهُمُ الْجَمْعُ وَيُوْلُوْنَ الدُّبُرَ ﴿۳۵﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ
 اَدْهٰى وَاَمْرٌ ﴿۳۶﴾ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي ضَلٰلٍ وَّسْعٍ ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ

لوکن گن کھوڑہ ناوکی تہ بيم کرہ کی واریاہ چیز یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بیہ معجزات وغیرہ
 سوزنہ گدبوا یا بیتنا کلھما مگر تمہو تہ زان اپڑسان ساری آیات تہ نشانہ یم تمن نشن واتحت آس
 فَاخَذَ نَهْمٌ اَخَذَ عَزِيْزٌ مُّقْتَدِرٌ پس رٹ تہ گرفتار کر آسہ تم تھہ پاٹھہ تھہ پاٹھہ آس زبردست قدر تہ
 والس بڑہ ہا۔ تھہ گرفتار کرہ آس تہ رٹ آس کانہہ تہ بیجہ نہ بلکہ تراوتھہ تہ چھوڑتھہ الْفَارُكُمُ خَيْرٌ مِّنْ
 اَوْلِيْكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ توہہ بوزوہ بروٹھین مٹھن تہ کافرن ہند قصہ تمن کیاہ گد ریو
 کفر و نافرمانی ہندہ سبہ۔ کیاہ توہہ اندر تم کافر چھہ تم چھابرو ٹھین تمن کافرن ہندہ خوتہ جانے تا اینکه
 یمن کیاہ بیہ پاس کرنہ۔ تم کیاہ گزن نافرمانی تہ ٹھر آس کروکہ نہ کنی کتہ تھندہ خاطرہ چھہ آسانی کتابن
 اندر کتہ قسمہ معافی تہ آزادی ہند پروانہ آمت لیکنہ کہ ٹھہ کمر ویہ خوش گروہ تہ توہہ چھنہ کانہہ
 بازخواست اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّتَّصِرٌ کنہ تھند گفٹ چھہ کہ آسہ ٹھہ بیجہ نہ مقابلے کانہہ کمر تھہ۔
 آس چھہ بڈجماعتھہ اکھ پریتھہ کانسہ نشہ بدلہ بیوہ ون آسہ کین تلہ نیرن تم سِيْهُمُ الْجَمْعُ وَيُوْلُوْنَ
 الدُّبُرَ عنقریب کھیہ بیہ جماعت سخت شکست۔ بیہ ژلن تم میدان چھہ نشہ تھر بھر تھہ۔ چنانچہ آسہ
 پیشین گوئی ہند ظہور سڈ جنگ بدرس تہ جنگ احزابس اندر بیہ گوو نیاس اندر۔ یخی یوت چھنہ بیہند
 سزا بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بلکہ سڈن تم بڈس عذابس گرفتار قیامتک دوہ۔ اصلی عذابک وعدہ چھہ
 تمن سیت سئی دوہ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمْرٌ قیامت مہ زانن ژہ معمولی چیزہہ بلکہ چھہ قیامت سیٹھہ
 سخت تہ سیٹھہ ٹیٹھہ تہ تلخ سوی قیامت چھہ ضرور واقع سپدہ ون اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي ضَلٰلٍ وَّسْعٍ بے
 شک یم مجرم یم آسہ قیامتہ کس وقوعس انکار کران چھہ تم چھہ سخت گمراہی تہ جنونس اندر پے مت بیہ
 گمراہی تہ جنون سپدہ تمن ظاہر تمہ دوہہ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَعْرِ يَسِّرٍ دوہہ تم

فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿۴۸﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
 بِقَدَرٍ ﴿۴۹﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلِمَةٍ بِلَاصِرٍ ﴿۵۰﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
 أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿۵۱﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿۵۲﴾ وَ
 كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿۵۳﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿۵۴﴾
 فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مِلْيَكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۵۵﴾

کھڑے ہیں پکواندہ ہتھ کن سے دار تھیں دنہ نار جہنمیں اندر تو پتہ پیچھ وندہ ذوقوا مس سقر ژہوئہ اے
 کافرو نارچہ ژبجہ ہند مزہ۔ ہر گاہ تم کہہ چھ کہ ادہ کونہ چھہ سو قیامت یوان تمیک جواب چھہ کہ اِنَّا
 كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اِسہ چھہ پر چھہ چیز اہ پادہ کورمت کہ خاص اندازہ موجب چھہ منزوار بہن
 چیزن ہند خصوصاً وقتک سے زمانک اعتبار تھونہ آمت چھہ۔ اِس اِسہ پنہ اِس علمس منز مقرر سے معین
 کورمت چھہ۔ لہذا یوتان نہ سہ وقت وائتہ توتان تھہ پاٹھ سپدہ تمیک وقوع۔ یکہ تمیک وقت وائتہ وَمَا
 أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلِمَةٍ بِلَاصِرٍ سون حکم اِسہ تمہہ کس وقوعس متعلق اِس حماہ۔ اِس جاری سپدہ اِس
 آچھہ بیئہ اندر۔ اِسہ چھہ نہ کانبہ چیز پادہ کرہ اِس اندر یا تباہ و بُر باد کرہ اِس اندر زیادہ کال لگان وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
 أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ بے شک اِسہ گال تو ہی ہی واریاہ کافر سے نافرمان لوکھ۔ اِس چھا تو بہہ اندرہ
 کانبہ نصیحت رتہ و ناہ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اِس چیز تم کران اِس سے سورے اوس خدایس
 معلوم باوجود آل آوتہ سورے لیکھنہ تہندین نامہ اعمالن اندر یہ تھہ چھہ نہ کینہہ آسہا لیکھنہ آمت۔
 کینہہ اِسہ ہالیکھنہ رودمت نہ بلکہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ پر چھہ لوکٹ تھہ سے بد تھہ چھہ تھہ اندر
 وارہ لیکھنہ آثر یہ گوو کافرن سے جُر من ہند حال۔ اِسہ پتہ چھہ با ایمان سے متقین ہند حال۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ
 فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ بے شک تم کُفرہ نشہ نافرمانی نشہ چھہ ون چھہ تم آسن جنتہ کین باغن اندر سے جو من پیٹھ
 فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مِلْيَكٍ مُّقْتَدِرٍ حقیقی عزت چہ جائہ بڈس باد شمس چھہ اِس کل کا تاسا پٹھہ اقتدار
 چھو تم پنہ پڑہ کہہ برکتہ خدا و پیغمبر خدایہ سندہ پڑہ وعدہ موجب آسن اکھ اِس عمدہ سے پسندیدہ مقاس



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 الرَّحْمٰنُ ۝۱ عَمَّ الْقُرْآنُ ۝۲ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝۴
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝۵ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝۶ وَالسَّمَاءُ
 رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝۷ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝۸ وَاَقِيمُوا
 الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝۹ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا

الرَّحْمٰنُ * عَمَّ الْقُرْآنُ رَحمتہ والس خدایہ سزہ چھ بے شمار نعموہ۔ آجہ روحانی۔ آجہ جسمانی آجہ
 ذیوی آجہ اخروی۔ روحانی نعمتو آندرہ گنیہ اکہ نعمت کہ تمہی پیچھہ ناو قرآن مجید یعنی تمی کورنازل قرآن
 مجید تمہ تہند بندہ نس پیچھہ ایمان اتھہ، تمیک علم حاصل کمر تمہ تمہ موجب عمل کمر تمہ تمیک نفع تہ
 فایدہ تکلن۔ تم سز بیاکہ نعمت گنیہ جسمانی یوسہ موقوف علیہ چھہ روحانی نفع سو گنیہ یہ نعمت کہ خَلَقَ
 الْاِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ تمہی کورپادہ انسان تو پتہ پیچھہ نوون سہ تھہ کرنہ یعنی دلک حال تہ خیال ظاہر
 کرن کتھو سیت تہ اتھو سیت یعنی تقریو تحریرہ سیت۔ تمی سیت چھہ سہ قرآن مجید پانہ پران تہ تین پرہ
 ناوان بیاکہ نعمت گنیہ آفاتی سو گنیہ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ آفتاب تہ زون چھہ پکان اکہ منظم حسابہ
 موجب سمہ سیت دوہ تہ راتھ وجودس منز یوان چھہ۔ یکن سیت بدن ہنزہ ہندگی تہ عبادتس سیٹھاہ
 تعلق چھہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ تاک تہ تھرہ تہ گلی یعنی گوڈہ روستی کل تہ گوڈہ والی کل چھہ مشغول پنہ نس
 مولی سدرس سجدس سیت وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا تمہی حضرت رحمان کور تھود تہ ہند آسمان۔ وَوَضَعَ
 الْمِيزَانَ تمہی کمر قائم دنیا س اندر تر کر اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ چھہ تہ تہ تونس اندر کی وزیادتی
 کمر۔ امہ نعمتک شکر گووا یزہ وَاَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ بیہ تھاو قائم انصافہ
 موجب پر تھہ چیزک وزن بیہ منہ آسو کران کی تونس تہ قسمہ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاِنْسَانِ بیہ تھاو تمی

لِلْاِنَامِ ۱۰ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۱۱ وَالْحَبُّ
 ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۱۲ فَبِآيِ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۱۳
 خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۱۴ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ
 مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ ۱۵ فَبِآيِ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۱۶ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ
 رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۱۷ فَبِآيِ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۱۸ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

زمین مخلوقن ہندہ فایدہ خاطرہ وہر اوتھہ **فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ** تھہ زمینس منزجھہ کم
 کم میوہ بیہ خضر کل سمن ہند میوہ چھہ آسان گوثرین تہ غلائن منزولتھہ **وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ**
وَالرَّيْحَانُ بیہ چھہ اتھہ زمینس منز پر تھہ قسمک غلہ تھہ غلٹ سیت چارولین ہندہ کھینہ خاطرہ گاسہ تہ
 چھہ آسان۔ بیہ پر تھہ قسمک خوشبودار پُوش سمو سیت دماغ چھہ سپدان مٹھہ **فَبِآيِ الْاَءِ رَبِّكُمَا**
تُكَذِّبُنِ پس تھہ تھہ نفٹس پروردگارہ سدرس کمر و تھہ انکار ای جنوہ انسانو۔ اگس حدیث شریفس
 گن نظر کر تھہ فرمودو عالمو کہ یکہ کانہہ شخصایہ آیہ کریمہ یوزہ تمسند گڑھہ جواب دمن لا بشی من
 نعمک ربنا نکذب فلك الحمد اے سانہ پروردگارہ چانیو نعمتو آندرہ مٹھہ نفٹس ہیجہ نہ اس انکار کمر تھہ
 ٹھس ساری حمد شوبہ نے تہے **خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ** بیاکھ نعمت کنیہ کہ تمی گڑ پادہ اگس
 انسانہ سداصل اول یعنی آدم علیہ السلام تھہ میوہ یوسہ ہو چھہ کترہ ہند یا تھہ ٹرن ٹرن کرت وزان آس
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ بیہ کرتی پیدہ جن ہیونداصل اول نارہ چہ رہہ تھہ نہ شامل آسان
 چھو۔ یمن دشوین مخلوقن کمر وجود چ نعمت عطا تمی پروردگارن **فَبِآيِ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ** اے جنوہ
 انسانو خدایہ سز و نعمتو آندر تھہ تھہ نفٹس کریو تہہ انکار **رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ** بیہ چھو سوی
 معبود برحق دون مشرقن تہ دون مغربن ہوندا ملک حقیقی آفتاب چھو وندس تہ رتہ کالس مختلف جایو
 نشہ طلوع سپدان تہ کھسان بیہ مختلف جایو کن لوسان تہ غروب سپدان تمی اعتبارہ آوونہ مشرقین تہ
 مغربین، آفتابچہ مختلف جایو کھٹن لوسن امہ سیت چھہ موسم بدلان تھہ آندر چھہ بے شمار فائدہ تہ مصلحوہ،

يَلْتَقِينَ^(۱۹) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِي^(۲۰) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ^(۲۱)
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ^(۲۲) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ^(۲۳)
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ^(۲۴) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبِينَ^(۲۵) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ^(۲۶) وَيَسْئَلُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ

زمینہ کین لوکن ہندہ خیطرہ امہ سارکوی مالک ۱۰ اختیارہ وول ہتھوسوی پروردگار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبِينَ پس پنے نس پروردگار سند یو نعمتو اندر کتھہ کتھہ نفس کریو تُوہ انکار ای جنوہ انسانو۔ مَوْجِ
الْبَحْرِ يَنْتَقِينَ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِي تھی پروردگارن پکناؤ زہ دریاواکھ میو تھہ تہ بیاکھ ژوش۔ یکے
زہ دریاوچھہ اکھ اکس سیت طاہرہ پاٹھہ میلٹ پکان۔ مگر تھقیفس منز چھو یمن در میان اکھ ٹھورہ اُس نہ
یمن اکھ اکس پیٹھہ غلبہ دوان ہتھو کرنہ، میو تھہ سپدہ ہاژوش ژوش سپدہ ہامیو تھہ۔ یہ چھہ نعمت تہ بہ
قدرنگ اکھ بوڈ نشانہ تہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس پروردگارہ سنزیو نعمتو آندرہ کتھہ نفس ہتھو
توہ انکار کرت ای جنوہ انسانو یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ یومودوشوی دریاوؤ منزہ چھو نیران اکھ حنہ
بیہ لدرہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس پروردگارہ سنزہ نعمتو آندرہ کتھہ نفس ہو توہ انکار کرت ای
جنوہ انسانو وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ تمسزے چھہ تمہ ناوہ تہ جہازیمہ تھزہ تہ ہجہ چھہ
سمندرس منز کوہن سومبہ یمن پیٹھہ سوار سپدت توہ اکھ ملکہہ نیشہ بین ملکن و اتان چھو ضروریات تہ
مال تجارت و اتانوان چھوہ۔ یَخْرُجُ مِنْهُمَا آندرہ گو اشارہ تمن نعمون کن یہہ سمندرہ تہ دریاو و تھہ
نیران چھہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ آندرہ چھو اشارہ تمن نعمون کن یہہ آبہ پٹھہ کن سطح نیشہ حاصل
سپدان چھہ آبہ پٹھہ کن تہ نعمو۔ آبہ تل تہ نعمو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس پروردگارہ سنزہ نعمتو
اندر کتھہ نفس ہو توہ انکار کرت ای جنوہ انسانو اتان یمن نعمون ہیوند ذکر کرنہ اولازم چھو تمن
نعمون گروہہ توحید و طاعتہ سیت شکر دین کفر و معصیت سیت گزہ ہنہ ناشکری و ناسپاسی کرن۔ کیا زہ تھہ
عالمس چھو فناسپدن یہہ پتہ ہتھو بیاکھ عالم اوہون۔ تھہ عالمس منز ایمان و کفرس پٹھہ جزا و سزا یہہ دنہ۔
یہوی مضمون چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ * وَيَسْئَلُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یم جن

وَالْأَكْرَامِ ۚ ﴿۲۷﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۸﴾ يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۚ ﴿۲۹﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۰﴾
سَنَفَرُغُ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَيْنِ ﴿۳۱﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۲﴾ يَمْعَشَرُ
الْحِجْنَ وَالْإِنْسَ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَتَفَادُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ

یہ انسان اتھ رُوئی زمیں پٹھہ چھ موجود تم ساری چھ گلہ وین تہ فانی سپدہ ون۔ باقی روزہ ون چھو فقط
تہندس پروردگارہ سُنْد ذات پاک نُس عظمتہ وول تہ احسانہ وول چھہ، یم چھ زہ صفت اللہ تعالیٰ سند، اکھ
چھو ذاتی بیاکھ چھو اضافی۔ اکثر اہل عظمت چھو پنے نس عظمس سیت آسان بین گن چھنہ کانہ توجہ
کران مگر معبود برحق چھو باوجود کمال عظمت، صاحب اکرام تہ پنے نین بدن پیٹھہ چھہ تہمز رحمت و
فضل جاری۔ چونکہ امہ مضمونچ خبر دن چھہ موجب ہدایت، لہذا چھہ پنے نعمتو آندره اکھ اخروی نعمتہ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس پروردگارہ سند یو نعمتو آندره تھہ نفس کریو تہ انکار ای جنوتہ انسانو۔
امہ پتہ چھو اکھ خاص طریقہ تہندس عظمت واکرامس متعلق مضمون بیان یوان کرنہ یَسْئَلُهُ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سو چھو بیھوی باعظمت کہ تہس نشہ چھہ منگان بیون بیون ہن ہن حاجت تم ساری
یم آسان اندر چھہ بیہ یم زمین اندر چھہ ساری چھہ محتاج تس گن سو چھہ سارنی ہونہ محتاج الیہ بہوی چیز
چھو دلالت کران تہندس کمال عظمتس پیٹھہ۔ صاحب اکرام آسن تمسند چھو ننان یمہ سیت کہ کُلِّ
يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ پرت وقتہ چھو سو کامہ اندرئی۔ یعنی عالمن اندر یہ کیڑہ ہا واقع سپدان تہ چھو سپدان
تہندی تصرف سیت تمنے تصرفاتن اندر آئے۔ تم تصرفات تہ یم دلالت چھہ کران تہندس اکرام و
احسانس پیٹھہ مثلاً پیدہ کرن عافیت و صحت عطا کرن رزق عطا کرن اولاد عطا کرن۔ ہدایت تہ علم۔
توفیق عمل۔ پس باوجود عظمت یو تھہ اکرام و احسان کرن یہ تہ گیہ تمس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس
پروردگارہ سنزوو نعمتو آندره تھہ تھہ نفس کریو تہ انکار ای جنوتہ انسانو۔ سَنَفَرُغُ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَيْنِ
اس د موپور توجہ تہ حساب ہنس گن ای جنوتہ انسانو۔ یہ برو نشی تہ ای جنوتہ پتہ چھو سان نعمت تہ
مہربانی تہ تھہ تہ تیاری ہونہ خیال پیدہ گڑھہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس پروردگارہ سنزوو نعمتو

وَالْأَرْضِ فَاَنْفُذُوا وَالْاَنْفُذُونَ الْاِسْلَاطِينَ ﴿۳۳﴾ فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۳۴﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ لَّا يَسْفِكُهَا فَلا تَنْتَصِرِينَ ﴿۳۵﴾ فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۳۶﴾ فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۳۷﴾ فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۳۸﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ ﴿۳۹﴾ فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا

آندره تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو يُعَسَّرُ لِمَنْ وَاَلَا لِمَنْ اِنْ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَنْفُذَ وَاَمِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْفُذُوا وَالْاَنْفُذُونَ الْاِسْلَاطِينَ ای جنن تہ انسانن ہنز و جمائو ہر گہ توه طاقت تہ قدرت چھوہ توه کیا بھجو آسمان و زمینی کو بناور نشہ نبر نیرت تکلایر تو اس تہ و چھوہ۔ ہر گز بھجو نہ توه نیرت مگر کونہ طاقتہ سیت۔ سو طاقت چھوی نہ توه نہ بھجو دیعاس اندر نیرت نہ ثرت کونہ طرفس کن بیہ حالت آسہ توه ہنز قیامتک دوہ تہ تہ بھجو نہ کن ثرت۔ یہ تھ باون تہ چھوہ سان نعت **فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ** پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ توه چھوہ حساب و نس اندر تہ عاجزی عذاب و عقابس اندر تہ عاجزی **يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ لَّا يَسْفِكُهَا فَلا تَنْتَصِرِينَ** ای جنوتہ انسانو آندره مجر مو توه پیٹھ یں قیامتک دوہ تراونہ نارک شعلہ بیہ دہ تھ نہ توه نشہ کاہنہ تہ دفع بھم کرت یہ و نون تہ چھوڑ لیجہ ہدایت آسنہ کہ اعتبارہ نعت۔ **فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ** پنہ نس خدایہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ **فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ** ادہ یلہ قیامت ایہ تھ منز آسمان بھٹن پس سپدہ آسماگ رنگ و وزل دالہ ہیو۔ ایچ خبردن تہ چھہ اکھ نعمتہ **فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ** پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ **فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ** پس ایہ نہ تمہ دوہ گوڑنی پر ژھنہ تہ سوال کرنہ اطلاع حاصل کرنہ خیطرہ کاہنہ انسانس تہ کاہنہ جنس۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ اس چھہ خبری سارنی ہنز۔ ایچ خبردن تہ چھہ اکھ نعمتہ **فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ** پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ

تُكذِّبِينَ ﴿۴۰﴾ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ
 الْأَقْدَامِ ﴿۴۱﴾ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ ﴿۴۲﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ
 بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۳﴾ يُطَوَّفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ إِنْ فَيَأْتِي الْأَرْضَ
 بِكَمَا تُكذِّبِينَ ﴿۴۴﴾ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ﴿۴۵﴾ فَيَأْتِي الْأَرْضَ
 بِكَمَا تُكذِّبِينَ ﴿۴۶﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿۴۷﴾ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ ﴿۴۸﴾ فِيمَا
 عَيْنٌ تَجْرِيْنَ ﴿۴۹﴾ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۰﴾ فِيمَا مِنْ كُلِّ

تھ نفیس کر یو توه انکارای جنوۃ انسانو يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ پرزہ
 ناونہ ین مجرم لوک پنہ نیو علاما تو سیت تہوند بو تھ آسہ کرنن تو پتہ ین رنہ تم کاڑہ کلہ کہ متہ سیت
 بیہ کھوروسیت تو پتہ ین دارت دنہ جہنم اندراج خبردن تہ چھ اکھ نعمتہ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ پنہ
 نس پروردگارہ سند یو نعمتو آندرہ کمہ کمہ نمک کر یو توه انکارای جنوۃ انسانو جہنم منتراونہ پتہ ایکھ دنہ
 نہ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہوی کیا گو سو جنم تھ مجرم (یعنی توه) انکار کران آس
 يُطَوَّفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ پھیران تہ اورہ یور آس کران تھ جہنم تہ تچہ رسرہ وانس اندر یوسہ
 سیٹھاہ گرم آسہ گرمی ہندس آخری در جس منتر گرم آسہ۔ اکھ ساتہ جمموک عذاب بیہ ساتہ جمیمک
 عذاب انج بروٹھ خبردن تہ چھ اکھ نعمتہ۔ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگار سنزو نعمتو اندر
 تھ تھ نفیس کر یو توه انکارای جنوۃ انسانو وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ وون نس شخص کھوڑہ پنہ نس
 پروردگار س بروٹھ کنہ استادہ سپد نس پرت ساتہ کھوڑت رود پتہ گہو تہ نافرمانیو نغمہ تہندہ خیطرہ چھ زہ
 عالی شان جنت یہ گو خاص بدن ہندہ خیطرہ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو
 اندر تھ تھ نفیس کر یو توه انکارای جنوۃ انسانو ذَوَاتَا أَفْنَانٍ تمنہ جنن اندر آسنن سہٹا لچہ دار کول
 تہ لچہ آسن برت میوسیت فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو اندر تھ تھ نفیس
 کر یو توه انکارای جنوۃ انسانو۔ فِيمَا عَيْنٌ تَجْرِيْنَ تمنہ دون باغن اندر آسن زہ ناگہ رادیکن ہوند

فَاكِهَةٌ زَوْجٍ ﴿۵۲﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۳﴾ مُتَكِينٍ عَلَىٰ فُرُشٍ
 بَطَائِنُهُمَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿۵۴﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا
 تُكذِّبِينَ ﴿۵۵﴾ فِيهِنَّ قَصْرٌ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنَّهُ قَبْلَهُمْ وَلَا
 جَانٌّ ﴿۵۶﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۷﴾ كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۵۸﴾
 فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۹﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا

آب دور تان جاری آسہ۔ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ۔ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتواندر کتھہ کتھہ کر یو توه انکارای جنوتہ انساؤ۔ فِيهِنَّ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٍ۔ تمنے دون باغن اندر آسن پرت میوس زیز قسم کنہ سائہ اکہ قسمک میوه سیت مزہ حاصل کران کونہ سائہ بیہ میوک لطف حاصل کران۔ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ۔ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتواندر کتھہ کتھہ نفس کر یو توه انکارای جنوتہ انساؤ مُتَكِينٍ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهُمَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ۔ تکیہ دت آسن تم جنتی تمس فرش و تھر نین پٹھ یمن ہونداستر آسہ تافتہ یعنی زایول پوٹ ابرج وھنہ کتھے سوکیاہ آسہ۔ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ یمن دو شوین جتن ہوندمیوه آسہ تمس جنتین سیٹھانزدیک پرت حلس اندر آسن تمیوک لطف تلان وودنہ۔۔ شوگلت تہ تکلیف و مشقتہ ورا ی آسہ تمس جالن کتھ و اتان۔ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ۔ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتواندرہ کتھہ کتھہ نفس کر یو توه بیہ انکارای جنوتہ انساؤ۔ فِيهِنَّ قَصْرٌ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنَّهُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ۔ تمس باغن ہنزہ لرن تہ بگلن منز آسن نظر بون کن تھوہ ونہ زنانہ یعنی بیمہ زنانہ نہ پنس خانہ دارس ورا ی کانہ شخصس کن اچھی تلان چھہ۔ نہ آسہ تمس نزدیک آمت پنے نین خانہ دارن بروٹھ نہ کانہہ انسان نہ کانہہ جن۔ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ۔ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتواندرہ کتھہ کتھہ نفس کر یو توه انکارای جنوتہ انساؤ۔ كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔ رنگ آسہ تمس زنانن ہوندتو تھہ صاف تہ شفاف زن تمہ آسن یاقوت تہ لدرہ ہمشہ سرخاسرخ۔ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ۔ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتواندرہ کتھہ کتھہ نفس کر یو توه انکارای جنوتہ انساؤ۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ کیا رث عبادت و اطاعت بدلہ چھانہ رثہ مزورہ تہ ثوابہ ورا ی یو جنتیو کردنیاس اندر رث عبادت تمیوک بدلہ اکھ عطا

الْإِحْسَانُ ۙ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا
 جَنَّاتٍ ۙ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٢﴾ مُدَاهِمَاتٍ ۙ
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٣﴾ فِيهِمَا عَيْنٌ نَّضَّاحَتٌ ۙ
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٤﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۙ
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٥﴾ فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ ۙ فَبِأَيِّ آلَاءِ
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٦﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ ۙ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

کرنے آخرتس اندر روت ثواب ینہ کانہ ہنزہ اچھو و جھمت آسہ کانہ ہند ککن یوزمت آسہ کانہ
 ہندس دلس رای گھو آسہ یہ چھو محض خدا یہ سند فضل و کرم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس
 پروردگارہ سنزو نعمتو آندره کتھ کتھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ
 باغورای جھہ بہ زہ باغ تموخوتہ دستھ عام با ایمان ہندہ خیطرہ پرت با ایمانس زیز باغ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبِينَ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره کتھ کتھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو مُدَاهِمَاتٍ تم
 دوشوے باغ آسن شوخ سبز کر ہنیرہ سان سخت سبز آسنہ موکھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس
 پروردگارہ سنزو نعمتو آندره کتھ کتھ نفس کریو انکارای جنوتہ انسانو۔ فِيهِمَا عَيْنٌ نَّضَّاحَتٌ تمسن دون
 باغن منز چھہ زہ ناگ یمن ہوند آب چھو زورہ سان ہیورکن شولہ ماران۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ
 ادہ کتھ کتھ نفس پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره کریو توه انکارای جنوتہ انسانو فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ
 وَرُمَّانٌ تمسن دون باغن اندر آسن میوہ۔ خضر۔ بیہ دین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ادہ کتھ کتھ نفس
 پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ تمسن باغن
 ہنزن لرین اندر چھہ رتھہ زنانہ خوب صورت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ادہ کتھ کتھ نفس کریو توه انکار
 پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره کریو توه انسانو۔ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ تھے زنانہ آسن اچھہ دستھ
 کرت نورانی بوتھ کرت خیمن اندری روزن واجنہ اورہ یور پھیرونہ آسن نہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تَكْذِبِينَ ﴿۴۳﴾ لَمْ يَطْمِئُنْ اِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿۴۴﴾ فَبِأَيِّ الْاِثْمِ رَبِّكُمَا
تَكْذِبِينَ ﴿۴۵﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَانٍ ﴿۴۶﴾ فَبِأَيِّ
الْاِثْمِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۴۷﴾ تَبَارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ﴿۴۸﴾

تَكْذِبِينَ اودھ تھ تھ نفس کریو تو یہ انکار پنہ نس پروردگارہ سنز و نعمتو آندره ای جنوتہ انسانو۔ لَمْ يَطْمِئُنْ
اِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ہم بستری آسنہ کر مرث تمن سیت یمو جنتیو بروٹھ نہ کانسہ انسان نہ کانسہ جن
فَبِأَيِّ الْاِثْمِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ اودھ تھ تھ نفس کریو توہ انکار پنہ نس پروردگارہ سنز و نعمتو آندره ای جنوتہ
انسانو۔ مُتَكِبِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَانٍ تے آسن تکیہ دتھ سبز مخملی قالینن پٹھ بہت بیہ نہ
نہ کرہ و نین رتین فرش پٹھ بہت۔ فَبِأَيِّ الْاِثْمِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ اودھ تھ تھ نفس پنہ نس پروردگارہ سنز و
نعمتو آندره کریو توہ انکار ای جنوتہ انسانو۔ تَبَارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ بابرکت چھونا مپاک
تھوندس پروردگارہ سندیار سول اللہ نس پروردگار عظمہ وول تہ احسانہ وول چھو۔ یمہ سارے دنیوی
نعمو چھ تسزے یہ یلہ نام پانچ برکت گیہ امے آندره گزھ زانن کہ ناوہ وول کیو تھ آسہ تہندہ ذات
پانچ برکت کڑ کڑہ آسن کیڑہ آسن ظاہر اچھوسپدان معلوم کہ باایمان جن تہ انسان دوشوین چھو
واتن جنتس۔ دوشوین سپدان حاصل چلچلے نعمو دوشوین عطا کرنہ چتہ حورہ۔ لَمْ يَطْمِئُنْ اِنْسُ قَبْلَهُمْ
وَلَا جَانٌ آندره چھو مراد کہ یمہ حورہ انسان جنتین عطا کرنہ تمن حورن نزدیک آسنہ آمت تمن
انسان جنتین بروٹھ کانسہ انسان کیاہہ تمہ حورہ آسن انسانے ہندہ خیطرہ مخصوص آمرہ کرنہ۔ تھے پاٹھ
جن جنتین یمہ حورہ عطا کرنہ ین تمن حورن آسنہ نزدیک آمت تمن جن جنتین بروٹھ کانسہ جتہ کیاہہ
تمہ حورہ آسن جن جنتین ہندی خیطرہ مخصوص آمرہ کرنہ۔ گوڈنک زہ جنت یمن ہنز ذکر گوڈہ آہ
کرنہ تمن ہندہ افضل بہتر آس کن آوتر جس اندر اشارہ کرنہ۔ وین چھ تجہ دلیلہ بیان یوان کرنہ۔
تفسیر در منشورس منز چھو حدیث شریف کہ فر موو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتان
من ذهب للمقربین وجنتان من ورق لأصحاب الیمین یعنی تم زہ جنت چھ سونہ سندی۔ مقر بن
ہندہ خیطرہ۔ بیہ زہ جنت چھ روپہ سند تمن ہوند سوری سامانہ چھو روپہ سندی تم چھ اصحاب یمین
ہندہ خیطرہ۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱ لَيْسَ لَوْقَعِهَا كَاذِبَةٌ ۝۲ خَافِضَةٌ ۝
 رَافِعَةٌ ۝۳ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝۴ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝
 فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۝۶ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝۷ فَأَصْحَابُ الْيَمِينَةِ ۝
 مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَةِ ۝۸ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝۹ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝
 وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ ۝۱۰ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝۱۱ فِي جَنَّتٍ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ يله قیامت واقع سپده لَيْسَ لَوْقَعِهَا كَاذِبَةٌ نندتمہ ساتہ کہ امس واقعہ سپدنس اندراوسنہ کانہہ شکھاہ تہ خلافا، بلکہ اوس امیوک واقع سپدن بالکل صحیح تہ پڑ، یہ آسنہ ٹھٹھہ باشاہ، خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ سہ قیامت چھ بعضے لوکن پست کرہون، بیہ بعضے لوکن بلند کرہون، یعنی تمی دوہہ سپدہ کافرن ہندہ ذلت و پستی ہیوند تہ باایمان ہندہ رفعت و بلندی ہیوند ظہور إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا یلہ بونیول ایہ زمینس سیٹھہ سخت بونیولاہ، یعنی دسر اونہ بیہ سوزورہ، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا بیہ آیہ کوہن ریزہ ریزہ کرنہ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا پس سپدن کوہ چھکرنہ آثر گردہی، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً توہہ سپد کو سارنی لوکن اولینن تہ آخرین تہ ترہ جماژ، اکھ جماعت گیہ دوزخی، بیاکھ گیہ عام جلتین ہنز، بیاکھ گیہ خاص جماعت مقربین ہنز، یم جنتہ کین اعلیٰ درجن منز آسن، امہ کوی تفصیل چھہ اللہ تعالیٰ فرمادان، فَأَصْحَابُ الْيَمِينَةِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَةِ پس چھویو آندرہ اکھ قسم دچھنہ طرفک لوک، کیاہ رت چھہ تم دچھنہ طرفک لوک، تم گئے تمنے یمن نامہ اعمال ایہ دیندہ چھس اتھس کتھہ، دویم قسم گو لوکن ہیوند وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ کھوفرہ طرفک لوک، تم کھوفرہ طرفک لوک کیتیاہ بیچھہ چھہ، مراد چھہ تمو آندرہ تم لوک یمن نامہ اعمال ایہ دنہ کھوفرس اتھس کیتھہ، یعنی کافر، وَالسَّبِقُونَ

التَّعِيمِ ۱۲ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۱۳ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۱۴
 عَلَى سُرْرٍ مَوْضُوعَةٍ ۱۵ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۱۶
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۱۷ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ هَاوِيَاتٍ
 مِنْ مَعِينٍ ۱۸ لَا يُصَدَّ عُنُقَهُمْ وَالْأَيْدِيُوعُونَ ۱۹ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا
 يَتَخَيَّرُونَ ۲۰ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۲۱ وَحُورٌ عِينٌ ۲۲ كَأَمْثَالِ

الطُّبَعُونَ تریوم قسم گو بر و نھ گدھ و نین هیوند، تمے گئے برو نھ گدھ و ن اعلیٰ درجک لوک، اولیک
 الْمَعْرُوفُونَ تم گئے خدائیس سیت خاص قرب تہ نزدیکی تھو و ن لوک، فی جئت التَّعِيمِ یم مقرب
 لوک آسن نعمت کین باغن اندر، عیش و آرامس منز ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ یمن
 مقرب لوکن ہنز بڈ جماعت آسہ برو نھمیو لوکو اندرہ کیازہ تہوند تعداد چھو زیادہ کم جماعت آسہ پتہ اوہ
 دنیو اندرہ، برو نھمیو اندرہ چھو مراد آدم علیہ السلامس پیٹھ عیسیٰ علیہ السلامس تان، پتہ اوہ و نیو اندرہ
 چھہ مراد پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سندہ پیٹھ، قیامتس تام، عَلَى سُرْرٍ مَوْضُوعَةٍ تم مقرب
 لوک آسن بہت تمن تخن پیٹھ یم سونہ سنز و تارو سیت و ونہ آسن آمت، بیہ آسکھ لعل و جواہر جرنہ
 آمت، مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ تمخی تخن پیٹھ آسن تکیہ دت بہت، اکھ اکس ن بوتھ کرت،
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ یوان گدھان آسن تمن نغمہ خوب صورت لوکٹ لوکٹ خدمت گار،
 یم اکسی حالس تہ عمرہ پیٹھ روزن ہمیشہ پاکو اب و اباریق تمے آسن تمن نغمہ انان ٹھکار آب خور، بیہ
 قریہ نارہ، وَكَأَنَّهُمْ مِنْ مَعِينٍ بیہ پیالہ یم شراب طہورہ سیت بربر آسن، بس شراب قدرتی طور
 ناگو تہ چشمو سیت اندرہ نیرت جاری آسہ، لَا يُصَدَّ عُنُقَهُمْ وَالْأَيْدِيُوعُونَ یمہ شراب طہورہ سیت نہ
 کرہ تمن کلہ دودز انہ، نہ ایکھ عقلہ منز قنورز انہ، وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ بیہ ین تم خوب صورت
 لوکٹ تمن برو نھسکن تم میوہ ہیئت یم تم پسند کرن، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ بیہ انکھ ہیئت و ڈوہ و نین
 جانورن ہیوند بوزمت ماز یمن ہیوند تم میل تہ خواہش کرن، وَحُورٌ عِينٌ بیہ آسن تمن جنتین ہندہ

اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ ﴿٢٧﴾ جِزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا
لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٩﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ
الَّذِينَ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٣٠﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٣١﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٣٢﴾
وَمَا مَسْكُوبٍ ﴿٣٣﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٤﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٥﴾

خیطرہ تمن جتن اندر تمے زانہ یہ پر نہ آسن، اہنزہ اچھہ ویچھہ آسن، گامثال اللؤلؤ المکنون تمے
آسن محفوظ تھادہ آمت نخہ ہشہ صاف وشفاف، نہ نہ کران، جزاء لئما کانوا یعملون یہ اکیہ بدلہ
عطا کرنہ تمن رثن کاین ہیوند یہ تمہ دنیا س منز کران آسن، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاتیہما
سوجنک شراب طہور چت یا تمہ ورا می نہ بوزن نہ تمن جتن اندر کانہہ بے ہودہ کتھاہ، یا ناگوار کلاماہ،
یہہ سیت تہوند عیش متعفن سپدہ ہا، الا قیلا سلما سلما مگر آسہ پر تھہ طرفہ یوان تمن سلامی ہنز
آواز، حق تعالی کرہ تمن سلام، سلام، قولان رب رحیم، ملایک آسن کران تمن سلام، والملائکہ
یدخلون علیہم من کل باب، سلام علیکم طبعم پانہ وان نہ آسن اکھ اس سلام کران تختہم فیہا سلام،
غرض کہ روحانی و جسمانی پر تھہ قسمک اعلیٰ درجک لذت آسہ تمن حاصل یہ گوسا یقین ہیوند حال،
امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ اصحاب الیسین ہیوند حال وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا مَسْكُوبٍ یہہ ہم دہ جھنہ
طرفک لوک چھہ، کیاہ رت چھہ تم دہ جھنہ طرفک لوک، فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ تم آسن بریہ کلین ہندین
باغن اندر یمن نہ کنڈ آسن وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ یہہ کیلہ کولین ہندین باغن اندر، یمن کیلہ لگت آسن
پیوٹھوس پیٹھہ، وَظِلِّ مَمْدُودٍ یہہ آسن زیتھہ، زیتھس سالیس تل، تیوت زیوٹھہ سایہ کہ ہر گاہ تیز رفتار
گراکس ہس ورہس گنی دور تلہ، توتہ ورنہ سوسایہ، نہ آسہ تھہ سالیس اندر گرمی نہ آسہ سردی، نہ
آسہ تاریکی نہ نہ انہ گٹھ، نہایت خوشگوارہ معتدل آسہ وَمَا مَسْكُوبٍ یہہ آسہ تمن باغن اندر آب
جاری، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ یہہ آسن تمن باغن اندر بکثرت میوہ، لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ یہہ نہ ختمی
گوہان آسن زانہہ دنیا کین میون ہند پاٹھہ، کہ موسم ختم سپنہ سیت کیا آسہ ہن میوہ نہ ختم سپدان،

وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ^{۳۳} إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً^{۳۵} فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا^{۳۶}
عُرْبًا^{۳۷} أَتْرَابًا^{۳۸} لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ^{۳۹} ثَلَاثَةٌ^{۴۰} مِّنَ الْأُولَىٰ^{۴۱} وَثَلَاثَةٌ^{۴۲}
مِّنَ الْآخِرِينَ^{۴۳} وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ^{۴۴} هُمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ^{۴۵} فِي سُمُومٍ^{۴۶}
وَّحَمِيمٍ^{۴۷} وَظِلٌّ^{۴۸} مِّنْ يَّحْمُومٍ^{۴۹} لِأَبَارِدٍ^{۵۰} وَلَا كَرِيمٍ^{۵۱} إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَلِكَ مُتْرَفِينَ^{۵۲} وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ^{۵۳} وَكَانُوا

بہ آسن نہ تم میوہ ٹھاک کر نہ آمت، وُفْرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ بہ آسن تھند تھند و تھرن، تمنی و تھرنین پیٹھ
آسن خوب صورت انہر شہ زنانہ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً اسہ اسہ تمن زنانن ہنز پیدا نئش کر مثر خاص
طریق، فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا تمہ آسن اسہ کر مثرہ سارے انہر شے، حور تہ، دنیا چہ زنانہ تہ، بیمہ دنیا س
اندر آسہ ہن سہز مثرہ جہ، آندہ تہ کانہ، تمنی آیہ جنتیس اندر نوزندگی تہ نولو کہ چار عطا کر نہ، تمن آسہ نہ
سوانہر شر پنے نین خاندازن ہندہ ہم بستری کر نہ سیت تہ ژلان نہ زایل سپدان، عُرْبًا أَتْرَابًا تمہ آسن
دلربانہ تعبلاوہ ونہ، یعنی خاندان پنہ نین نازوتہ عشو سیت پانس گن مایل کرہ ونہ، بہ آسن اکی وانسہ،
غرض تہوند حسن و جمال، نازانداز، حرکات و سکنات، ساری چیز آسن دلکش لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ہم
ساری چیز آسن دہجھہ طرفہ کین لوکن ہندہ خیطرہ، ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ * وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اصحاب
سمینن ہنز ہڈ جماعت آسہ برو ٹھمیو لو کو اندرہ، بہ آسہ ہڈ جماعت اہنز پتہ اوہ و نیو اندرہ وَأَصْحَابُ
الشِّمَالِ هُمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ بہ ہم کھوفرہ طرفہ لوک چھہ، تم کھوفرہ طرفہ لوک کیتیاہ بیچھہ چھہ، فی
سُمُومٍ وَحَمِيمٍ تم لوک آسن نارس تہ رسر منز، وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ بہ سخت سیاہ دھہ کس سائیس تل،
یتھ منز نہ درینشی کینہ یوان آسہ، لِأَبَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ نہ آسہ سودوہ شہول، نہ آسہ سوکنہ قسمہ خوش منظر تہ
راحت ولتہ ناوہ ون، یہ یو تھہ عذاب کیازہ سنا آسہ تمن، إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ بے شک تم آسنا بیمہ
برونٹھ یعنی دنیا س اندر عیش و آرامس منز، بیمہ سبہ فکری کھسان او سکنہ کینہہ، تھہ خوشحالی اندر
آس غرق گیمت، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ تمی آسن تم ڈاڈ کرت اکس ہڈس گنہس پیٹھ یعنی

يَقُولُونَ هَٰئِنذٍ مِّنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۗ إِنَّا الْمَبْعُوثُونَ ﴿۳۸﴾ أَوَابًا وَّنَا
 الْأَوَّلُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿۳۹﴾ لَمَجْمُوعُونَ ۗ هَٰ إِلَىٰ
 مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۴۰﴾ ثُمَّ إِنكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ ﴿۴۱﴾
 لِأَكْلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿۴۲﴾ فَمَا لُئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۴۳﴾
 فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿۴۴﴾ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿۴۵﴾
 هَٰذَا نَزَّلْنَاهُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿۴۶﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ﴿۴۷﴾
 أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿۴۸﴾ ۗ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهَا أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿۴۹﴾

شرکس تہ کفرس پیٹھ وکلاؤا یقولون بیہ آس تم وان، ایدنا مننا وکنا ترابا و عظاما انا المبعوثون کیا
 اس یلہ مرو تو پتہ دودرو، اس روز نہ کینہہ تہ مرثہ تہ اذ جو رای، تہ گزہت ییوہ اس دوبارہ بیہ زندہ کرنہ،
 اوابا ونا الاولون کیا بیہ ینہ سان برو تھیم مال بوڈب تہ زندہ کرنہ۔ اہنز حالت سانہ خوتہ تہ بدتر
 آسہ گمہ، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ توہ فرما یو کہ یا رسول اللہ
 بے شک تہنز کیا چھ کتھی، اولین تہ آخرین، ساری ین جمع کرنہ تہ سونبراونہ اکہ دوہہ اکس معین کرنہ
 آس و قس پیٹھ، یعنی قیامتک دوہ، ہمیک وقت اللہ تعالیٰ سندس علس اندر مقرر چھہ ثُمَّ إِنكُمْ أَيْهَا
 الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ تو پتہ چھو تہ ای و تہ ذلیتو، ای پزس اپززانہ و نیو لِأَكْلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ آسہ
 تہ ضرور کھیون، زقومہ کہ کلہ منزہ فَمَا لُئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ تی زقومہ سیت آس توہ پنہ نہ ید برہ و سن
 تہ پُر کرہ و سن، فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ تہ پیٹھ آسہ تہ چن چن رسر فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ
 سوی رسو چھو تہ، تریشہ ہمین ووشن ہند پاٹھ، هَٰذَا نَزَّلْنَاهُ يَوْمَ الدِّينِ بیہ آسہ گوڈنچ ضیافت تہنز
 قیامتک دوہ، نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ آسہ کرہ تہ ساری پیدہ، گوڈنچ لہ، تہ تہ تہ تہ چھوہ تسلیم
 کران، دویمہ لہ پیدہ کر نس کونہ چھوہ تہ تسلیم تہ تصدیق کران، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ * أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهَا

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ
 يُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ
 النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ إِنَّكُمْ
 تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزُّرْعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا
 فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ توہ و نتوئس منی یعنی نطفہ توہ و اتہ تاوان چھوہ زنانہ ہندین شکمن تہ بچہ دانین اندر، کیا تو ہی چھوہ تہہ نطفس انسان بناوان، بکنہ اس چھہ انسان بناوان وال، یہ تھہ چھہ ظاہر کہ بناوان وال تہ پیدہ کرن وال چھہ اسی، منی اندر تراونہ پتہ پھنہ تہہ چہ کنہ کامہ پیٹھ تہونہ کانہہ تصرف، یہ پھنہ اسہ ورا ی کانہہ ہنز کوم، نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ اسی چھوہ مقرر کر مت تو ہندہ خیطرہ مرن، یعنی سانی کوم پیدہ کرون، تو پتہ اکس خاص و قس تام زندہ تہاون، تو پتہ اکس معین و مقررہ و قس پیٹھ ماژن، یہ پھہ سارے کامہ سائے، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اسہ پھنہ ہرگز عاجز علیٰ أَنْ يُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ سمہ تھہ نشہ کہ اس کیا بد لاووه توہ، تو ہی ہیون بین لوکن سیت، بیہ واتہ تاوہ توہ تھہ عالس منز، یتیدک نہ توہہ پتہ ہی آسہ، یا بناووه توہ تمی قسمک مخلوق بین ہنز نہ توہ خبری آسہ، یعنی توہ سپدہ مٹ صورت، و اندرن تہ سُورن ہنز شکل، اسہ بیکہ نہ تمہ نشہ کانہہ تہ پتھہ رُتھہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ بے شک توہ چھہ سانہ گوڈہ پیدہ کرکج خبرئی، ادہ کونہ چھوہ توہ یاد پیوان تہ فکرہ تران کہ قیامتگ دوہ تہ آیوہ توہ اتھہ پاٹھہ بیہ دوبارہ پیدہ کرنہ، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا اَمْ نَحْنُ الزُّرْعُونَ توہ و نتوای لوکوئس توہہ غلاتن ہیونہ بول زمینس منز ووان چھوہ، کیا توہ چھوہ تھہ بیالس زمینہ منزہ کل کھاران، بکنہ زراعت تہ کل کھارہ و سن چھہ اس، سوزراعت کھیت تہ چھوہ سوسائسی اختیار س اندر، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ہر گاہ اس یڑھو سو زراعت کرون اس ہاشہ گو مت، ئس پنہ پنہ سو روی وس پیہ، پنہ وراے آسہ کنہ، پس سپد یو توہ حیران

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ
 الْمُنْزَنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا
 تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنْتُمْ
 أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً
 وَمَتَاعًا لِلْمُقِيمِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ فَلَا
 أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

تہ پریشان دینہ لگیو توہ، اِنَّا الْمَعْرُومُونَ بے شک چھہ اس نقصان زدہ تاون زدہ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
 نقصان چھہ نہ کتھی، بلکہ چھہ اس بالکل محروم، اسہ رودنہ کنھی، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ توہ
 و نٹوای لوکو تھہ آس متعلق یس توہ چوان چھوہ، ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُنْزَنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ
 کیا توہی چھوہ سو آب ابر منزہ تراوان، کینہہ سو آب تراوان وال چھہ آس، سو باران تراوت تہ چھوہ سو
 آسان سانس اختیار س اندر، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ہر گاہ اس یشو سو کرون اس
 نمکین تہ ٹیوٹھ، بالکل بد مزہ، تہ بیگون کرت، و سَنَ چھوہ یہ سان ہڈ مہربانی کہ اس چھوہ نہ سو آب
 ٹیٹھراوان، اوہ کو نہ چھوہ توہ شکر گذاری کران بیاک بوڈ فرض چھو شکر تراوان تہ توحید پان، أَفَرَأَيْتُمُ
 النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ای لوکو توہ و نٹوئس نار توہ روشن کران چھوہ، ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ
 الْمُنْشِئُونَ کیا توہ کردھ تم کل پیدہ یمو منزہ تم سبز آتھہ سونا چھو نیہ ان ٹس تہزن لجن اکھ اس
 سیت کھرن دنہ کہ وقتہ ظاہر سپدان چھو، کنہ آس چھہ تمن کلین ہند پیدہ کرہ و سَن، تمو منزہ سو شعلہ تہ
 رہ کرہ و سَن، نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَ مَتَاعًا لِلْمُقِيمِينَ اسہ کر یہ دنیاک نار آخر تک نار دوزخ تہ تیس
 پاونک اکھ چیزہ پیدہ، بیہ اکھ فایدک چیزہ مسافرن ہندہ خیطرہ، سو نفع تلن تہ چھو موقوف خدایہ
 سندس قدر تہ پیٹھ، لہذا سمنز یہ قدرت چھہ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس کر پو توہ تس پنہ نس
 بڈس پروردگارہ سندہ نام پانگ تسبیح تہ تمجید، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ بو چھس قسم ہاوان تارہ کن

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۴۴﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿۴۵﴾ لَا يَسُئَةٌ إِلَّا لِلْمُظْهِرِينَ ﴿۴۶﴾
 تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾ أَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿۴۸﴾
 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۴۹﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿۵۰﴾
 وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿۵۱﴾ وَمَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا


ہنزن لو سنہ چن جاين، ہيوند وَاِنَّهُ لَقَسْمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ پڑھا تھو یہ چھو قسمہ سبھاہ بوڈ ہر گاہ توہ
 خبر آسہا کیا زہ خدا سمیک قسم ہاوہ سو چھا معمولی کتھاہ، قسم چھو سبھاہ کتھاہ پیٹھ کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ
 مَّكْنُونٍ بے شک یہ قرآن مجید نِس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ نازل سپدان چھو، تمہ کہ منزل
 من اللہ آسنہ موکھ چھو سو سبھاہ کرم و معظم قرآن مجید نِس اکس محفوظ کتابہ اندر بروٹھ پیٹھے درج
 چھو، یعنی لوح محفوظ اندر، لَا يَسُئَةٌ إِلَّا لِلْمُظْهِرِينَ اتھ چھنہ لاگان تھہ لوح محفوظ، مگر پاک و
 پاکیزہ ملک، شیطان چھنہ ممکن، آتھ، لکھ یکن یا تھہ لاگن، امہ کین معنی پیٹھ مطلع سپدنج چھنہ تھھی،
 بعضے مفسرین چھہ لاسمہ، راجع کران قرآن مجید سگن، یعنی اتھ قرآن مجید س چھنہ اتھ لاگان مگر
 پاک لوک یعنی آھند دل صاف چھہ اھند اخلاق پاکیزہ چھہ، یمن و تھہ چھہ یوان امہ کین علوم و صنایعین
 سگن، یا چھو یہ نفی یعنی نہی گو مطلب اتھ قرآن مجید س مہ آسن اتھ لاگان مگر پاک لوک یعنی بے
 طہارت آسن نہ اتھ لاگان یا تھپ کران، چنانچہ حدیث شریفن اندر چھو تھہ متعلق بیان فرمومت
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھو نازل کرنہ آمت رب العالمین
 سندہ طرفہ أَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ کیا اتھ کلام پاکس سیت چھو تھہ سو معمولی کتھاہ زانت
 خلاف کران، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ امہ مد اہنہ علاوہ چھو تھہ بنوموت اتھ قرآن مجید س
 انکار کرون نہ سو پڑزان پنون غذا، تمی چھو توحید س نہ قیامتہ کس دوہس انکار کران، ہر گاہ یہ انکار
 کرون تو ہندہ پڑ چھو، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ اودہ کونہ چھو تھہ وقتہ کنہ ہیکان کرت یمہ وقتہ
 تو ہندس کانہہ رشتہ دارس، عزیزس مرنہ و زہ زوہرس پیٹھ واتان چھو، مو تہ چہ سختی گرفتار سپدان
 چھو، وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ توہ چھو ہسر تہ چو نظر و تس و چھان، تمسز بے بسی تہ درماندہ گی ہيوند

تُبْصِرُونَ ﴿۸۵﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿۸۶﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۸۷﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۸۸﴾ فَرَوْحٌ وَ
 رَيْحَانٌ ۚ وَجِبَتْ نَعِيمٌ ﴿۸۹﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۰﴾
 فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۱﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ

تماشہ و چھان، وَعَنْ أَقْرَبٍ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ اس تہ چھ تہس مرن والس شخصس توبہندہ
 خوتہ زیادہ نزدیک آسان توبہ چھو و چھان تہوند ظاہری حالی یوت، اسہ چھو معلوم تہوند باطنی حال تہ،
 مگر توبہ چھو نہ سون تہس نزدیک تہ قریب آسن و چھان فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر فی الواقع توبہ
 قیامتک دوبہ دوبارہ بیہ زندہ آیونہ کرنہ توبہ حساب آیہ نہ ہیئہ، توبہ کانسہ ہندس اختیارس منز چھوہ نہ
 تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تلہ کونہ چھوہ اس مرن والس شخصسہ سندروح واپس اتان، یا کیا زہ چھوہ
 تہندس روحس نیرنہ دیوان، چھوئے توبہ اتہہ خط و خیالس یعنی قیامتہ کس انکارس اندر پزیر، معلوم
 سپد کہ قیامتک وقوع چھو حق تہ پز، لہذا ایلہ سہ قیامت قائم سپدہ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس نس
 شخصس آسہ تمہہ دوبہ مقرب بندو آندرہ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجِبَتْ نَعِيمٌ تلہ چھو تہندی خیطرہ کمل
 آرام، بیہ فراغتک غذا، یا جنتک بوی خوش، بیہ نعمون ہند باغ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَن
 نس آسہ دچھنہ طرفہ کیول کو آندرہ، تہس آیہ وندہ، فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ چانہ خیطرہ چھو امن
 واماں پر تہہ آفتہ نعرہ، کیا زہ ژہ جھٹ اصحاب سمیو آندرہ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَن
 نس شخصس آسہ پزس انکار کرہ و نیو آندرہ، و تہ ڈلیبو آندرہ، فَذُلٌّ مِنَ هَيْبِهِمْ ۖ وَتَصْلِيَةٌ مِنْ جَنَّتِهِمْ پس آیہ
 تہس گوڈنی پیش کرنہ سچ رسر، تو پتہ گوس واٹن تہ داخل سپدن دزہ و نس نارس اندر، ہمیشہ روزنہ

الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ
هَذَا الْهُوحَىٰ الْيَقِينُ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

خیطرہ اِنَّا هَذَا الْهُوحَىٰ الْيَقِينُ بے شک یہی چھ پزرتہ یقینی تھ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لہذا
ہندس اختیار و تصرف منزیہ سارے کتھ چھ، تس عظیم الشان پنہ نس پروردگارہ سندہ نام پاکہ سیت
کریو توه تہوندیاد، پران آسیو سبحان ربی العظیم یلہ یہ آیہ کریمہ نازل سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلمس پیٹھ فرمووک اجعلوہا فی رکوعکم یہ تھاویو توه پٹن وظیفہ نمازہ ہندس رکوعس اندر، یعنی
رکوعس اندر آسیو پران یسوی تسبیح سبحان ربی العظیم یلہ یہ نازل سپد سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
تمہ ساتہ فرمونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوہا فی سجودکم یہ تھاویون توه پنہ نس سجدس
اندر، یعنی سجدس اندر آسیو پران سبحان ربی الاعلیٰ۔



سُورَةُ الْحَدِيدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝^۱ لَهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝^۲
 هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝^۳
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
 عَلَى الْعَرْشِ يُعَلِّمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الله تعالیٰ سزایاکی چھہ بیان کران ساری مخلوق یم آسمان منزتہ
 زمین منزچہ اذ بزبان قال، اذ بزبان حال، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سو چھو سیٹھاہ زبردست سٹھاہ حکمتہ دول
 لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تہوندوی راجتہ حکومت چھو آسمان تہ زمین اندر، يُحْيِي وَيُمِيتُ
 سوی چھو زندگی عطا کران سوی چھو ماران، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیہ چھو سوی پر تھہ چیزس پیٹھہ
 قدرتہ دول هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ سوی چھو سارنی مخلوقن بروٹھ، سوی چھو سارنی
 مخلوقن پیٹھ، سوی چھو دلین ہندہ اعتبارہ ظاہر تہ نون سوی چھو بیہ اعتبارہ کہ تھندہ ذاتک ٹھنتہ ادراک
 کیا بیٹھ نہ کا نہہ تہ کرت باطن تہ پوشیدہ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سوی چھو پرت چیزاہ پورہ زانہ ون،
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ سوی چھو تیو تھہ قدرتہ دول کہ تم کرو آسمان تہ زمین
 پیدہ، شن دوہن ہندس مدتس اندر، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ توپتہ سپد مستوی عرش پیٹھہ تھہ پاٹھہ
 اٹھہ پاٹھہ ہندس شانس شوبہ، يُعَلِّمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا سوی چھو زمانان تہ سوری بیہ وسان
 واتان تہ آثران ہھوز مینس اندر، بیہ تہ سوزوی بیہ تہ تمہ منزہ کھسان تہ نیران چھو، وَمَا يَنْزِلُ مِنْ

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۴ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ۝۵ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَهُوَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝۶ اٰمَنُوۤا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۤ وَاَنْفِقُوۡا مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيۡنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوۡا

السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا بیه تہ سوروی یہ دسان چھو آسمان کہ طرفہ بیه تہ سوروی یہ کہ کھسان چھہ
توکن، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ چنانچہ سو چھو علم واطلاع کہ اعتبارہ توه سیت سیت ادہ بیت توه آسیوتہ
تت وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بیه چھو سو معبود برحق توهنزه سارے کامہ وچھان، توبہہ ہیکونہ کنہ جایہ
تس نشہ ژورہ تہ کھت روزت لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تهنزی سلطنت تہ
حکومت چھہ آسمان تہ زمین منز پیٹہ تہ آویان کرنہ لہ ملک السموات والارض، تہہ نس چھو مراد
احیاء واماتت، یعنی زندہ کرنگ تہ مارک مسئلہ چھنہ تس وراي کانہ ہندس اختیارس اندر تتس
فرموو کہ بیه لہ ملک السموات والارض یوتھ ثابت تہ محقق سپدہ کہ مرنہ پتہ بیه پیدہ کرن تہ چھو
تھند سئی اختیارس اندر، لہذا چھنہ اتھ آیہ کر تھس اندر تکرار کینہ تہ، يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ سوی چھو راتھ ہندین حصن دوہہ کین حصن منز ملناوان، یہ سیت دوہ چھو بزان، سوی
چھو دوہہ کین حصن راتھ سیت ملناوان یہ سیت رات چھہ بزان، اتھ قدر تس سیت چھو تھوند علم تمہ
قسمہ کامل، کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سہ چھہ زانان لوکن ہندین دلن ہنزہ تھہ تہ رایہ تان تہ، وکن
یلہ ہنزہ وحدانیت مکمل طور ثابت سپز، اٰمَنُوۤا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ ای لوکو ایمان انیوتہ پڑھ کریو کنس
خدایس، سوزانیون منزہ تہ پاک مٹھ چیزس اندر شریک آسنہ نشہ، بیه کریو پڑھ تھندس پیغمبرس، کیاہہ
تھندس رسالتس پڑھ کرنہ وراي چھنہ توحید نجات دیوہ ون تس شخصس، کس پیغمبرہ سنز خبر واثمر
آسہ، بلکہ چھو لازم اقرار الوھیتس سیت اقرار رسالت تہ کرون، امہ پتہ فرموو کہ اصلی کھمس سیت

لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ① وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ
 لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ②
 هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدٍ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ
 الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ③

فرعی حکما سے، سوگو و آنفقوا مینا جعلکم مستخلفین فیہ بیہ کریو خرچ تمہ مالہ اندرہ، میک توه اللہ تعالیٰ ان خلیفہ سے قائم مقام کر نوہ، تہندی خیطرہ کیا زہ تہنزہ وہ تہ اندر مال خرچ کرن و چھو علامت کہ توه چھوہ پورہ پڑھ خدایہ سز تہ تہندس پیغمبرہ سز، بیہ سپدہ مال خرچ کرنہ سیت اشاعت اسلام لیس مقصود اعظم چھو، یعنی پانہ تہ انبو ایمان خدا لیس تہ تہندس پیغمبرس، بیہ کریو کوشش بین لوکن ہندہ ایمان آنہ نبی، مما جعلکم مستخلفین فیہ فرمانہ سیت کر کہ اشارہ متھ تھ گن کہ بیہ مال اوس توه بروٹھ بیہ کانہ نش، توه بناو توه تہند خلیفہ، و کن ایس کالس توه نش چھو بیہ مال، تلمیذ تبتیس کالس امہ سیت فاندہ، رٹن کالین اندر خرچ کرنہ سیت، توه پتہ واتہ بیہ مال بیہ کانہ نش، سو سپدہ خلیفہ امہ مالگ، بیہ مال پو شہ ون چھنہ، بیہ ات تھاون، جمع کرت تھاذن، ضروری مصرفن اندر خرچ نہ کرن چھ محض حماقت، اتھ گن نظر کرت فالذین امنوا منکم و آنفقوا لہم اجر کبیر یمولو کو توه اندرہ ایمان ان خدا و پیغمبر خدا لیس بیہ کر کہ مال خرچ تہنز و تن اندر، تہندہ خیطرہ چھو بوڈ ثواب یمولو کو ایمان ان نہ تمن چھ اس پر تھان وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بیہ کیاہ وجہ چھو کہ توه چھوہ نہ پڑھ کر ان معبود برحقس بیہ تہندس رسول برحقس، حالانکہ تمک قوی اسباب تہ دواعی چھوہ ساری موجود وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ بیہ بوڈ پیغمبر چھو توه ناددیوان کہ کریو پڑھ پنہ نس پروردگارس دویم داعی گوہ بیہ کہ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پانہ چھو توهند پروردگارن توه نشہ ایمان انہ نس پیٹھ ميثاق اکت کہ دوہہ عہد رحمت، یموک اجمالی اثر توهندس فطرتس منز موجود تہ چھو تیج یاد دہانی پیغمبران کر امونہ توه کر مڑ چھ وقتا وقتا، اگر توه ایمان ان چھویم چیز چھ توهندہ حقہ کافی هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدٍ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ط لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ
أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰

سو مجبور بر حق چھو تھوی رحمتہ وول کہ سو چھو پنہ نس بندہ خاص محمد صلی اللہ علی وسلم پیٹھ صاف
صاف تہ نن آیات نازل کران، لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یو تھ سو بندہ خاص توه لوکن
کفر ہ چوتہ جہلمہ چوتار کیونہ کڈ تھ ایمان و عرفانہ کس نور س کن واد تادہ، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو توه نسبت سٹھاہ مہربان تہ سٹھاہ رحم کرہ ون، یم توه کن شفقتہ وول یو تھ
پیغمبر بر حق سوز، تھ اندر اوس سوال ایمان نہ انہ نس پیٹھ، امہ پتہ چھو سوال یوان کرنہ مال خرچ نہ
کر نس پیٹھ، یعنی مال کونہ چھوہ خرچ کران، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بے کیاہ وجہ چھو کہ توه
چھوہ نہ مال خرچ کران خدایہ سزہ و تہ اندر، دلہ چہ خوشی سیت وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ امہ
تو ہندہ مالچ کیاہ چھہ کتھی، سوروی آسمان تہ زمین سپدہ پتولا کہ خدایہ سندوی، یلہ ساری عارضی مالک
مرن تہ ختم سپدن، سوروی واد تہ مالک تحقیق نس، دنیا اس اندر چھو یہ مال توه اکہ تہ اکہ دوہہ تراوہ
نوی، لہذا کونہ دیو تہمدہ رضا خیرہ، یمہ سیت توه ثوابہ تہ اجراہ حاصل سپدہ، خرچ کر نس اندر تہ
چھو واریاہ فرق تہ تفاوت، لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ برابر چھنہ تم لوک یومال
خرچ کر اللہ تعالیٰ سزہ و تہ اندر، یا جہاد کر اللہ تعالیٰ سزہ، و تہ اندر فتح مکہ برو تھ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ
الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا یم لوک چھہ درجہ کن سٹھاہ تھد، تمس لوکن ہندہ خوتہ یمو خرچ تہ جہاد
کر، فتح مکہ پتہ کیاہ فتح مکہ برو تھ آس زوتہ مال خرچ کر نس خدایہ سزہ و تہ اندر زیادہ قدر، کیاہہ مسلمان
آس کم دشمن آس واریاہ، مال غنیمت اوس نہ یوان نمہ طرفہ، لہذا آس جہاد کر نس تہ مال خرچ کر نس
زیادہ قدر، فتح مکہ پتہ سپز یمین چیزن اندر واریاہ فرق، فتح مکہ پتہ آی لوک پرت طرفہ برضا و رغبت
دین اسلامس اندر داخل سپدنہ خیرہ، فوجو فوجو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ تھ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ ان

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝۱۱ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ بَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۲ يَوْمَ يَقُولُ

ثواب عطا کر نگ وعدہ سارنی سیت کرمت وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ اس چھ تہ ہنزن سارنی عملن ہنز پور خبر، کس کت اخلاص چھو لس اندر، سودیہ نمی موجب سارنی مزور، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ میں لوکن فتح مکہ بروٹھ مال خرچ کر نگ موقعہ آوے تمن تہ چھو اللہ تعالیٰ دینہ چن کا میں اندر مال خرچ کر نگ ترغیب دیوان فرماوان چھو کہ چھا کا نہ شخصہا ئس اللہ تعالیٰ اس قرض دیہ اتھ طریقے، یعنی خلوصہ سان تس ہورہ اللہ تعالیٰ دو گناوت، بیہ چھ ہندہ خیرہ مزدور یاہ با عزت، یوصہ حسب مدعاو مطلب آسہ، امہ قرضک مطلب چھو کہ جہادہ کہ وقتہ پائے جہادس نیرن تمہ کین ضروریاتن منز خرچ کرن، تو پتہ پائے مال غنیمت حاصل کرن، یہ گو دنیا س اندر، آخر تس اندر گو تھد مرتبہ حاصل کرن، يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ سووہ تہ چھو قابل ذکر یمہ دوہہ توہ وچھو با ایمان مردن تہ با ایمان زنانن ہیوند نور تمن بروٹھ بروٹھ بیہ تمن وچھن کن دوران، یمہ ساتہ محشرہ کہ میدانہ نعہ ہل صراطس کن لوک گو ہن، تمہ ساتہ آسہ سخت تاریکی تہ ان گھ، تمہ وقتہ آسہ ایمانچہ تہ نیک عملہ ہنز روشنی پر تھ اکس سیت، یوت ایمانس تہ عملہ اندر قوت آسیس تیو آسیس تھہ گاشس اندر زیادتی ایمانک نور آسیس بروٹھ بروٹھ، عملن ہیوند نور آسیس دہجھہ طرفہ، بعضے روا تین اندر چھو آمت کھو فرہ طرفہ تہ آسہ نور، تمن با ایمان مردن تہ با ایمان زنانن آپہ ونہ بِنُورِكُمْ الْيَوْمَ بشارت بوین توہ از کہ دوہہ، جَنَّتُ بَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تمن با عن ہنزیمو منزجہ سجہ کولہ پکان چھ، میں منز توہ ہمیشہ روزن چھو، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یے گیہ ہڈ کا میابی، کیا زہ جنت چھو اللہ تعالیٰ سزہ خوشنودی تہ رضاعک مقام، لیس ثوت ووت، سو سپند پنہ نین سارنی مطلبن اندر

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَفْسًا مِّنْ
 نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ
 بِسُورَةٍ بَابٌ بَاطِنَةٌ فِيهَا الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَةٌ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ^{۱۳}
 يُنَادُونَ لَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ
 تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ

کامیاب، یہ گو سوی دودہ یَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَفْسًا مِّنْ نُورِكُمْ
 یمہ دودہ منافق مردیتہ منافق زنانه و من مسلمان پل صراطس پیٹھ، ای مسلمانو اسہ پیار تو ہناستہ کرہ ہو
 تو ہند گاش حاصل تو پتہ یکہ ہو تو ہندی گاشہ سیت، قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا و ننه ایکہ توه
 پھیر یو پانس پتھ کن، تھی کریو تلاش گاشک، تفسیر در منشورس منز چھو کہ امہ پتھ کن پھیر نہ اندرہ چھو
 مراد سو جای تینس سخت انہ گتہ گتہ پل صراطس کھنہ کہ وقتہ نور تقسیم سپد یو، یعنی تھہ نور تقسیم سپد
 نہ چہ جایہ گتہ ہیو، تھی ژھانڈ یو گاش، چنانچہ تم گتہ من توت، متہ تہ یلہ نہ کہہ گاشہ حاصل سپد کیکہ، تو پتہ
 ہن بیہ یں مسلمان کن فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورَةٍ بَابٌ پس ایہ کھارنہ تہ قائم کرنہ مسلمان تہ تمن
 منز کہ دیوارہ نہ قلیاہ، تھہ آسہ دروازہ تھہ دروازس آسن زہ حال، بَاطِنَةٌ فِيهَا الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَةٌ مِنْ
 قِبَلِهِ الْعَذَابُ سمیوک اندر یوم طرف نیس با ایمان کن آسہ سو آسہ رحمت تہ نور، تمیوک نبر یوم
 طرف، نیس تمن منافق کن آسہ، سو آسہ عذاب تہ انہ گتہ، يُنَادُونَ لَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ تم منافق دن
 آلو تہ آواز مسلمان، ای مسلمانو، اس آسناد نیاعس اندر توه سیت اعمال و اطاعت کران، از تہ گتہ اس
 پانس سیت رثن، قَالُوا بَلَىٰ مسلمان دیکھہ واقعی آسو توه دنیاعس منز اسہ سیت آسان، مگر کیاہ شرف
 تھہ سیت آسس، توه آسہ ظاہرہ پاٹھی، اسہ سیت، توه ہندہ باطج حالت آس کہ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ
 أَنْفُسَكُمْ توه اوسوہ ترددس منز پھسو و مت ہن پان گرا ہی اندر، سہ گرا ہی گتہ ہیہ کہ توه ہند یں دن
 اندر اوس عدوت پیغمبر برحقہ سُدہ بیہ با ایمان ہیوند، وَ تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ توه آسہ

غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۱۴﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۵﴾
الَّذِينَ يَأْتُونَ اللَّهَ مِنَ الْمُنْوَآنَ تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ

پیاران تہ تمنا کران تمن گھوہہ کانہہ تکلیفہا تہ مصیبتہا واثن، بیہ اوس توه اسلامہ کس حق آسئس منز
شک تہ تردد، بیہ آسوه توبے ہودہ آرزو اودو کس منز تھاومت، توه اوس خیال کہ اسلام گھوہہ جلدی
ختم، حتی جاء امر اللہ اتھ پیٹھ رودوہ توه عمرہ، یوتان خدایہ سندہ حکم ووت توه ہندہ خیطرہ یعنی
مرنگ حکم، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ بیہ دیوت توه دھوکہ باز شیطان خدایہ سندہ حقہ دھوکہ، یوکفریاتو
سببہ رودیونہ توه اتھ قابل کہ پتہ تہ کیاروز ہیو توه اسہ سیت، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا پس ایہ نہ رنہ از کہ دوہ نہ توه رنہ تہ نہ کافرن رنہ گنہ قسمہ بدلہ تہ عوض، گوڈہ چھنہ توه
نش عوض پیش کرنہ خیطرہ کنہی چیز، دویم ہر گاہ آسہا تہ توه نشہ کانہہ چیز، سو ایہ ہانہ قبول کرنہ، کیا زہ بیہ
عالم چھو دار الجزاء، بیہ چھنہ دار العمل، تمہہ کتھہ گذرے بیہ دنیاس اندر، مَأْوَاكُمُ النَّارُ توه سارنی
منافقن تہ کافرن ہندہ روزنچ جای چھہ نار جہنم ہی مَوْلَاكُمْ یہوی نار جہنم چھوپتہ توه ہندرفیق تہ سیت
سیت روزہ ون، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کثیرہ بیچھہ جای چھہ بیہ نار جہنم بیمہ سیت سپد ثابت کہ زیوہ ہندس
اقرار اس چھنہ کانہہ اعتبار، یوتان نہ دلہ سیت تصدیق آسہ امہ پتہ چھہ فرماوان کہ یتھہ ایمانس سیت
ضروری اعمالن ہنز کی آسہ سو تہ چھو کمزور تہ نامکمل لہذا چھو اللہ تعالیٰ فرماوان بطریق عتاب مسلمان
حکم کہ تھہ کی کریو پوریہ اَلَّذِينَ يَأْتُونَ اللَّهَ مِنَ الْمُنْوَآنَ تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا با ایمان اندرہ یم
لوک طاعات ضروری یعنی فرائض اندر کوتاہی، پہلو تہی تہ سستی کران چھہ تمن ووتناؤنہ وقت بیمہ کتھہ
ھیوند کہ ہند دل کیا سپدہ ہن نرم خدا ژتیس پینہ سیت وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ بیہ ئیس دین حق خدایہ
سندہ طرفہ نازل سپد تمک ساری احکام بجاننہ سیت یعنی دلہ سیت کر ہن پور عزم طاعات و عبادات

عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۱۶﴾ اِعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهُ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾
 إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُ
 لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ

ضرور یہ پابندی سان ادا کر نگ، بیه روزہ ہن نافرمانیو تہ معصیو نشہ پتہ ، وَاٰیٰتُنَا كَاٰیٰتِیْنَ
 اَوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ بیه سپدہ ہن نہ توبس تہ استغفار س منز تاخیر
 کرنے سیت تمن لوکن ہی یمن تمن بروٹھ آسانی کتاب عطا کرنے آیہ ، یعنی بہود و نصاریٰ ، یم تمن
 کتابن خلاف نفسہ چن خواہش تہ گنہن منز رود ، تویہ تہ گذریووتھہ حالس اندر تمن واریاہ وقت کنہ قسمہ
 تمن احساس پیدہ سپد نہ توبہ و استغفار کر نگ ، تمیوک نتیجہ در او کہ تہند دل سپد سٹھاہ سخت تہ در ،
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ تمہ قساوتک نتیجہ در او کہ تمواندرہ چھہ از تہ واریاہ لوک فاسق۔ الغرض مسلمان
 پزہ جلدپایس بیون تہ توبہ کردن تم مہ کرن خیال کہ اس چھہ گنہ گار ، توبہ سیت کیاہ اصلاح جیسہ سپد تہ
 اسہ بلکہ اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یہ تھہ زانیوارہ کہ اللہ تعالیٰ سندشان چھویہ قسمک کہ
 سو چھو خشک گتس ز مینس بیه زندہ کران ، سر سبز تہ شاداب کران ، اُتھے پاٹھہ کرہ سو گنہ گار ہندن پنے نہ
 رحمتہ سیت مردہ گمت دل بیه زندہ ، کیازہ ، قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بہ تحقیق اسہ کرہ بیان اچھہ
 مثالہ یوتھہ توبہ فکرہ ترہ امہ پتہ چھہ فرماوان بیه مال خرچ کر نگ فضیلت خدا یہ سزن وتن اندر ، إِنَّ
 الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ بے شک سیٹھاہ صدقہ دیوہ ون مرد بیه سٹھاہ صدقہ دیوہ ونہ زنانہ ،
 وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا بیه یم قرض دیوہ ون چھہ اللہ تعالیٰ اس بکمال خلوص رت قرضاہ یَضَعُ
 لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ بیه یہ تمن دو گناوت عطا کرنے ، بیه ہتھہ تہندہ خیطرہ باعزت مزور ، یعنی یم لوک
 اللہ تعالیٰ سزہ و تہ اندر مال خرچ کرن آنیت خالص ، محض تہندی رضا مندی تہ خوشنودی خیطرہ
 پروردگارس و رای آسن نہ بیه کانسہ نشہ تمیوک عوض تہ بدلہ یا شکر یہ ژھانڈھان ، تم زن اللہ تعالیٰ

الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝۱۹ اَعْلَمُوا اَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَنْجَبَ الْكُفَّارِنَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُمْصِرًا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَاِنِ الْاٰخِرَةُ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ

اس فرض چھ دیوان، تم تہاوں اطمینان کہ تہوندو پو تمت مال ضایع گدھنہ بلکہ کرہ تمس اللہ تعالیٰ عطا تمہ خوتہ واریاہ گن، امہ پتہ چھوبیہ ایمانک فضیلت بیان یوان کرنہ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ بیہ یم لوک اللہ تعالیٰ اس بیہ تہندیں پیغمبرن پورہ پاتھہ پڑھ چھہ کران تہندی احکام چھہ عملاً بجائانان، بے شک تھے لوک چھہ پڑپاٹھہ بالیمان، بیہ چھہ تھے لوکن ہوند حال پنہ نس پروردگار س نعرہ باوہ و سن تہ گواہی دیوہ و سن، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ تہندی خاطرہ ہجھہ جنس اندر تہنزہ خاص مزور تہ ثواب، بیہ چھو تہندی خیطرہ پُل صراطس پیٹھہ خاص نور تہ گاش، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ سمولو کو کھر تہ انکارگر، بیہ زایک آپزسان آیات، تھے لوک چھہ جہنی، اَعْلَمُوا اَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ای لوکو توہ زانیویہ تھہ وارہ کہ آخرتس مقابلہ ہجھنہ دنیا ج زندگی ہرگز توتھہ چیزہ، ہتھہ سیت مشغول رُوزن مقصود آسن گوژھہ، کیاہہ تھج حقیقت چھہ کہ لوکہہ چارس منز چھو گند نس سیت وقت ضائع گدھان، جوانی منز ہجھہ زینت و آرائش تہ بین ہم عمرن پیٹھہ تھکنس گن فخر آسان، بو جرس منز ہجھہ مال و دولت تہ شُر گمر گز راونس تہ سہر اونس گن فکر آسان، یم ساری چیز چھہ فانی گدھہ و ن مقاصد، بیہ محض خواہاہ تہ خیالہہ تھج مثال چھہ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَنْجَبَ الْكُفَّارِنَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُمْصِرًا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا تہہ رُودج ٹیس پیوان چھو، تہہ سیت زراعتک کھسن ہجھو ز میندارن سیٹھاہ پسند یوان تہ خوش کران، تو پتہ چھو زراعت خشک سپدان ٹس ہجھو ٹس سووچھان ژہ، لیدرہ رنگہ، تو پتہ چھو تھیوک گاسہ ہو کھان،

مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ الْعُرُورُ ﴿۱۰﴾
 سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ
 الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
 يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۱﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ

تھ چھو چورہ گڑھان، اُتھے پائھ چھو دنیاک بہار کیوں دوہن آسان تو پتہ چھو تھ زوال تہ اضحلال
 سپدان، یہ گودنیاء وَفِي الْأَرْضِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ آخر تس اندر چھو کافر ہندہ
 خیرہ عذاب شدید اہل ایمان ہندہ خیرہ مغفرت تہ رضامندی یم دو شوے چھ باقی، پس چھ
 آخرت تہ باقی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ الْعُرُورُ دنیوی زندگانی چھ مگر دھو کھک اھ سامانہ، وکن
 یلہ متاع دنیا چھو فانی آخرتچ دولت چھ باقی یوسہ ایمانکہ برکتہ حاصل ہیچہ سپدت، لہذا پزہ توه کہ
 سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دور تلیو توه، یعنی جلدی کریو پنے
 نس پروردگارہ سند مغفرت حاصل کرنہ خیرہ، بیہ دور یوسو جنت حاصل کرنہ خیرہ، سمیوک پناہ چھو
 تیوت، یوت آسمان وزمین اھ اکس سیت ملناوت ہنہ یہ گو ہنہی زتھھر تموک زانہ پانہ اللہ تعالیٰ،
 أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ یسوی جنت چھو تیار کرنہ آمت تمن لوکن ہندہ خیرہ یمن پور
 پڑھہ چھ خدایہ سزبیہ تہندین پیغمبران ہنز، ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ یہ مغفرت تہ رضای
 خدا چھو خدایہ سند فضل سو چھو یہ فضل عطا کران کس لیس تہ گڑھان چھو، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ
 تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا کانہہ
 مصیبتاہ چھہ دنیاء س تہ ملکس اندر، یا تو ہندین زون اندر واقع سپدان، یعنی خارجی تہ داخلی مصیبت،
 مگر سو مصیبت چھو لیجھت اکس کتابہ اندر یعنی لوح محفوظس اندر تم تو ہند زوپیدہ کرنہ بروئھ، إِنَّ ذَٰلِكَ
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ یہ کتھ، یعنی پیدہ کرنہ بروئھ لیجھت تہاون چھو اللہ تعالیٰ اس نضرہ سہل تہ آسان کیاہ

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۲۲﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۲۳﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۴﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ

تس چھو سُرودی علم غیب حاصل یہ تھہرین اسہ توه یمہ موکھ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ یوتھنہ توه زیادہ رنج تہ غم کھیوتھہ چیزس، اُس توه نِشہ ازدست گو، صحت ہیو، مال واولاد ہی، تا اینکه سورنج و غم کھیون سپدہ توه مانع آخرتجن کائین اندر مشغول روزنہ نِشہ، بیہ خدایہ سندر ضاثرھانڈنہ نِشہ، ہر گاہ رنج طبعی سپدہ تھہ ہجھنہ کانہہ حرج، بیہ یوتھنہ توه تمہ چیزہ سیت، کس تمی عطا کردہ شیخیو خوش گڑھیو تہ مغرور سپدیو، بلکہ گڑھہ زانن کہ یہ گڑ عطا اللہ تعالیٰ ان محض پنہ فضلہ سیت، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اللہ تعالیٰ ہجھنہ پسند کران کانہہ شیخیو ولس نہ تھیجھ ولس شخصس، الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ یم تمہ قسمک لوک ہجھہ کہ مال دنیاء کہ محبتہ سببہ ہجھہ پانہ تہ بخل کران پروردگارہ سنزن و تن اندر خرچ کرنہ نِشہ بیہ ہجھہ بین لوکن تہ بخل کرنج تعلیم کران، یہوی محبت دنیاء چھو تمس باعث سپدان پڑہ وینہ نِشہ اعراض کرنک وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ بیس اکھاہ دین حقہ نِشہ اعراض کرہ، کرتن، اللہ تعالیٰ اس ہجھنہ تمیوک کانہہ ضرر، کیاہہ سو چھو بے نیاز، پنہ نس ذاتس تہ صفاتن اندر کامل، بیہ سزوار حمد و ثنا، سو ہجھنہ محتاج لوکن ہندس بدنی عبادتس یا مالی عبادتس گن، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ بے شک اسہ سوز ہمنن پیغمبر لوکن ہندہ اصلاحہ خیطرہ، ن تہ واضح احکام ہیئت وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ بیہ دژاسہ تمس سیت ہمنن کتاب، بیہ کراسہ نازل تر کر یعنی عدل انصافک احکام و اسباب، تمس ہیوند تعلق چھو حقوق العبادن سیت لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ یوتھہ لوک خدایہ سندین حقن تہ ہندن ہندین حقن اندر اعتدالس پیٹھہ قایم روزن، وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ بیہ وول اسہ شتر تھہ منز چھو کافی قوت تہ طاقت وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ بیہ

بَأْسٍ شَدِيدٍ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۳۶﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فَوَجَعْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

چھ تھے اندر لوکن ہندہ خیطرہ واریاہ فائدہ تہ نفع، الحاصل یم لوک آسانی کتابو سیت سیزہ ووتہ پیٹھین نہ، بیہ یم نہ میزان عدل دنیاس منز قائم تہاوں تہندہ خیطرہ چھ ضرورت تمن گوشالی کرنہ خیطرہ بیہ ظالمن تہ ہول پکہ وینن راہ راستس پیٹھانہ خیطرہ، خداور سولہ سندین احکامن ہیوندو قار قائم تہاوندہ خیطرہ شمشیر کوم ہنچ سہ تہ چھ تمہ ساتھ اکھہ دینی کوماہ، جہاداہ سہ کوم کیہ ہینہ آتھہ شسترس، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ تعالیٰ زانہ کہ کس اکھاہ چھو اللہ تعالیٰ اس تہ تہندین پیغمبرن یعنی تہندس دینس وہجندہ ورا ی مدد کران تہندہ دینہ کہ تھزرہ تہ بلندی خیطرہ جہاد کران، اگرچہ سو ہجندہ محتاج لوکن ہندس مددس کن، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ کیازہ سو چھوپانہ سٹھاہ طاقتہ وول تہ غلبہ وول مگر سو چھویرٹھان لوک گٹھہ اشاعت دین کرنہ سیت ثواب حاصل کرن۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ بے شک بیہ سوزاسہ امی اشاعت دینن حق کرنہ خیطرہ نوح علیہ السلام بیہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بناوت وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ بیہ تھوواسہ جاری تمن دون ہندین اولادن اندر پیغمبری تہ کتاب یعنی تہند یو اولادو اندرہ کتراسہ بعضے پیغمبر بعضے مرسل تمن کتر کتاب تہ عطا، فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ تمولو کو اندرہ آس بعضے یمن ہدایت نبیو، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ واریاہ آس تھواندرہ نافرمان ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا تمہ پتہ سوزاسہ تمن پتہ ہنن پیغمبر اکھ اکس پتہ، یم مستقل صاحب شریعت آس نہ بلکہ آس تابع بیس صاحب شریعت پیغمبرس، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ توپتہ سوزاسہ تمن پتہ اکھ صاحب شریعت پیغمبر عیسیٰ فرزند بی بی مریمہ سوند علیہا السلام، تمن کتر عطا سہ کتاب تھہ انجیل ناوچھو، تہندس آتس سپزہ زہ جماش، اکھ جماعت تمن پیروی

اتَّبِعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا
فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۲۷﴾

تہ متابعت کرہ و نین ہنز بیا کہ جماعت یومئس انکار کمر، و جملہ قلوب الذین اتبعوه رافۃ و رحمۃ
یمولو کو تہوند اتباع تہ پیروی کمر یعنی گوڈنچ جماعت، اسہ تراوتہندین دلن اندر شفقت تہ مہربانی تم چھہ
خدا یہ سندین مخلوقن نسبت محبت و شفقتک بر تاؤ کران، اتھہ پاٹھ اللہ تعالیٰ ان صحابہ صمیمین ہندہ حقہ
فر موور حماء یتیم چونکہ امت عیسویس پیٹھ اوسنہ جہاد فرض تمہ موکہ فر مووہہ تہوند صفت اشداء علی
الکفار کنہ تہ، سو آو صحابہ صمیمی ہیوند صفت بیان کرنہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کہ سانہ طرفہ اوس امت
عیسویس پیٹھ صرف اتباع احکام کر کوی یوت لحم و رہبانیتہ ابنتد عوہا ما کتبنا علیہم لیکن تمو
اندرہ بعضے شخصونو اوپانے رہبانیت، یعنی گوشہ نشینی، لوکن سیت نہ ملہ ژار تہاون، ترک نکاح کرن
ترک لذات کرن، یہ ایجاد کرنک وجہ سہز تمن یہ تھہ کہ عیسیٰ علیہ السلامہ سندہ دفعہ پتہ تراو بعضے لوکو
احکامو موجب عمل کرن، تمن اندر آس بعضے لوک اہل حق تہ، تم رو بدستور اظہار حق کران، یہ
تھہ سپنر ناگوار ہوا ہر سنن، تمو مگر تمہ وقتہ کس حکومس در خواست کہ یم لوک گوہن مجبور کرنہ ین
اسہ سیت موافقت کرنس پیٹھ، تم یلہ اتھہ پیٹھ مجبور کرنہ آمی تموتہ دیوتہ در خواست کہ اسہ دیو
اجازت کہ اس تہاوندہ یمن لوکن سیت کا نہہ تعلق، نہ آسواس تمن احکامن پیٹھ عمل نہ کرنس پیٹھ
کا نہہ اعتراض کران، اس روزو لوکن نغمہ الگ، اس کرو گوشہ نشینی تہ سیرو سیاحتس اندر پختہ عمرہ
صرف، چنانچہ تمن آو تمکوی اجازت دنہ، غرض تمو مگر پانے ایجادا کہ چیزا، اسہ مگر نہ تمن پیٹھ یہ
تھہ واجب کہنہ تہ الا ابتغاء رضوان اللہ مگر تمو کر یوویہ اختیار اللہ تعالیٰ سندر ضاحا صل کرنہ خیترہ،
کہ امی سیت روزہ سون دین محفوظ، مگر یموراہ ہوندر آس تم لوک زیادہ، فمارعوا حق رعیاتہا تمو
مگر نہ اتھہ رہبانیتس پورہ راچھہ، یمہ غرضہ خیترہ تمویہ اختیار کرے یہ سوگیو خدا یہ سندر ضاثر ہانڈن،
تمو ک مگر نہ تمو پورہ اہتمام کہنہ تہ، تمن راہن سہزہ زہ جماژ، اڈگئے تم یمور رعایت تہ راچھہ کر، اڈگئے تم
یمونہ کا نہہ رعایت مگر، تمو منزہ یمو پیغمبر آخر الزمانہ سند وقت کب تہندہ حقہ اوس حق رعایتک شرط،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ
 كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ
 عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
 يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ان تہ پڑھ کر سن و دن یومہ تمہ پڑھ کر، تم گئے رعایت کرہ دن، یومہ تمہ پڑھ کر تم گئے نہ رعایت تہ راجعہ کرہ دن تہ رہا نتیجہ، تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِمْ فَسُقُونَ پس کراسہ عطا تمواندرہ، تمہ یومہ ایمان ان تہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہند حصہ مزدور تہ اجر سیمیک اسمہ تمہ وعدہ کرمت اوس مگر تم آس کئی، زیادہ آس تمواندرہ فاسق تہ نافرمان، یومہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ان تہ پڑھ کر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ای تمولو کو یومہ ایمان ان عیسیٰ علیہ السلام پیٹھ خدایس کھوڑیو، تہ کر یو یہ تس کھوڑنس سزاوار چھو، یعنی وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ایمان انیو تہندس پیغمبرس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یؤتیکم کفلین من رحمته اللہ تعالیٰ کرہ توہ پنہ نہ رحمۃ سیت زہ حصہ ثوابک عطا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشونَ بِهِ بیہ کرہ توہ تہ نور عطا، بس توہ سیت سیت روزہ۔ یہ پیٹھ پل صراطس تان، وَيَغْفِرْ لَكُمْ بیہ کرہ اللہ تعالیٰ توہ سارنی گنہمن بخشالیش، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو مغفرت کرہ دن رحم کرہ دن، لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بیہ زہ مہربانیہ کرہ اللہ تعالیٰ بیہ موکھ عطا، یو تہ تم اہل کتاب یومہ پڑھ کر حضرت پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہہ وارہ زانن کہ تمہ چھنہ خدایہ سندہ فضل منزہ کئیہ چیزس پیٹھ کانہہ اختیارہ، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ بیہ سپدہ تمہ یہ تہہ معلوم کہ سوروی فضل چھ خدایہ سی اتہ، سو چھو سو فضل عطا کران بس یشھان چھوتہ تس، چنانچہ تم پوڑھ سو فضل مسلمان عطا کران، بس سترن تمہی عطا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ①
 الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ

یعنی آیات کریمین هیوندشان نزول چھو کہ آھہ شخصہا صحابہ صیو اندرہ، نِس ناواوس اوس بن صامت، تمودپ زمانہ پنہ نہ زکھہ اندر کہ ژہ چھک ماجہ ہینز تھر ہش مہ پیٹھہ حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندہ مبعوث سپد ہنہ بروٹھہ، زمانہ جاہلیتس اندر اوس یہ لفظ ونہ سیت زنانہ ہمیشہ خیطرہ حرام سپدان بلکہ اوس یہ لفظ طلاقہ خونہ زیادہ سخت تصور یوان کرنہ تحقیق حکم کرنہ خیطرہ آیہ یہ دید صاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدتس اندر، تمو فر مووس مہ چھو یوان لبتہ کہہ ژہ سپز کہ پنہ نس خاندارس پیٹھہ حرام، یہ بوزت تل تمہ شور سٹھاج کرنہ واویلا دپنہ لج میون تہ میانین کچن ہیوند

گذارہ کتھہ سپدہ، میان خاندان ہیوتنہ طلاق لفظ زیوہ پٹھی یہ کتھہ پاٹھہ بیو و طلاق، اللهم انی اشکو الیک، خدلیا بو چھس ژئی نش پنون مشکل پیش کران اتھہ مشکلس کرم ژئی حل، آئی سپدیم آیات کریمہ نازل، قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ بے شک اللہ تعالیٰ ان

بوزہ تس زنانہ ہنزہ کتھہ، یوصہ توه سیت یار سول گفتگو کران آس خاندارہ سندس معاملس اندر، دپان آس تم ہیوتنہ طلاق لفظی زیوہ پیٹھہ، بوتھہ پاٹھہ سپزس تس پیٹھہ حرام، پنہ نہ امہ رنج و غم شکایت آس کران خدالیس نہشہ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اللہ تعالیٰ اوس بوزان توہند گفتگو إِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ

بَصِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو سوری بوزہ ون سوری وچھ ون، سوی چھو فریادس وابتہ ون، امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان ظہارک حکم الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ای مسلمانو توه اندرہ سم

إِلَّا إِلَىٰ وَكَلَنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ
 إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿۱﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ
 يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ
 تُوعِظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ

ظہار کران آسن یعنی پنہ نین زنان آسن ونان انت علی کظہر امی یعنی ژہ چھک مہ پیٹھ حرام ماجہ
 ہونڈ پشت نہ تھر ہش، تمہ منکوحہ زنانہ چھنہ فی الحقیقت تہنرہ ماجہ، **إِنَّ لَهُمْ إِلَّا إِلَىٰ وَكَلَنَهُمْ** تہنرہ
 ماجہ چھنہ مگر تمہ زنانہ یمن تم زامت چھہ **وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا** بے شک تم لوک
 یم زنان چھہ ونان موج یا ما جن سیت چھک تشبیہ دیوان، تم چھہ بے ہودہ نہ اپز تھہ ونان لہذا چھہ تم
 گنہک مرنکب سپدان ہر گاہ اتھہ گنہس تدارک کرنہ آہ، اتھہ سپدہ معافی نہ، **وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ**
 کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ عفو کرہ ون سٹھاہ مغفرت کرہ ون **وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ**
لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا بیہ یم لوک پنہ نین زنان ظہار کرن تو پتہ یڑھن تم
 سوی کوم کرن ہتھہ متعلق تمو نیو واس کرہ نہ یعنی تعلقات زوجیت تلہ چھومہ مردس اکھ غلام یا کنیرہ آزاد
 کرن، اورہ یور دون باژن ہنز اکھ اکس تھپ کرنہ بروٹھہ، یعنی ہم بستری کرنہ بروٹھہ، **ذَٰلِكُمْ**
تُوعِظُونَ بِهِ بیہ کفارہ کہ حئمہ سیت چھہ توہ نصیحت یوان کرنہ، یعنی امیوک فاندہ چھو کہ یوتھہ توہ
 آئندہ اژھ بے ہودہ نہ لغو تھہ کریونہ، **وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** اللہ تعالیٰ اس چھہ تو ہنزن سارنی
 کاین ہنز پور خبر، سو چھو زنان کہ تعمیل احکام کوہ چھو کران کوہ چھنہ کرن، اتھہ کفارہ دلس اندر چھہ زہ
 حکمہ، اکھ گنہن ہنز بخشایش، بیہ آئندہ خیطرہ جذبہ احتیاط پیداہ کرن **فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ**
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ون یسنہ ہنہ غلام یا کنیر، آزاد کرنہ خیطرہ تس چھومہ اچ
 کفارہ دنہ خیطرہ دون رتین پتوس ہتھہ روزہ دار روزن، اکھ اکس تھپ کرنہ یعنی ہم بستری کرنہ

سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَٰلِكَ لِمَنْ أُولَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۱ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 كَبْتُوا كَمَا كَبَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ
 لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۱۰۲ يَوْمَ يَبْعَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ
 بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۰۳

برونہ، مَن لَمْ يَسْطِرْ فَاطْعَمَ سِتِّينَ مَسْكِينًا پس نئس شخص سے پتوس پتھ روزہ دار ہیکہ روزت، تہندہ
 خیطرہ چھ کفارت ظہار شیشین مسکین کھین دیون، ذَٰلِكَ لِمَنْ أُولَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ حکم آویان کرنہ
 یوتھ۔ توہ عملن متعلق مصلحو حاصل کرنہ کہ علاوہ، خدائیس تہ تہندس پیغمبرس پور پڑھ کریو، وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ ایم احکام چھ خدایہ سند حد مقرر کرنہ آمت، تہند قانون تہ ضابطہ لیکنہ آمت، یوحو حدو
 لغہ گودھنہ نیر نیرون حدہ ڈلہ ون گئے کافر، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ کافرن ہندہ خیطرہ چھو، سم نہ
 احکام الہین ہیوند تصدیق و تعمیل کرن، سخت دودتله ون عذاب، یہ سزا جھنہ بیتھ خمس خلاف کرنہ
 خیطرہ خاص، بلکہ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبْتُوا كَمَا كَبَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ
 بَيِّنَاتٍ ایم لوک خدائیس تہ تہندس پیغمبر سز مخالف ت گنہ کمس منز کران چھ، تم یں خوارو
 ذلیل کرنہ دنیاس اندر تہ تمں لوکن ہند پاتھ یم تمں بروٹھ آس، گوہنا تم عذابو سیت خوارو ذلیل
 یں کرنہ بے شک اسہ سوز تمں کن صاف تہ واضح آیات، تمں آیاتن پڑھ نہ کرین بلکہ انکار کرون
 چھولا محالہ موجب سزا نئس دنیاس اندر تمں دنہ آو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ تمہ علاوہ چھو
 کافرن تہ منکرن ہندہ خیطرہ آخرتس اندر خوار تہ ذلیل کرہ ون عذاب، سو عذاب کرسپدہ تمں يَوْمَ
 يَبْعَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا یہ دوہہ تمں سارنئ اللہ تعالیٰ دوبارہ بیہ زندہ کرہ تو پتہ ونہ
 تمں تمہ کامہ یہہ تمو کر مژہ آس دنیاس اندر أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ تمہ سارے کامہ آس اللہ
 تعالیٰ ان کہہ کہہ لیکن تہ محفوظ تہا ونہ و مژہ، تمں آس نہ پائس تمہ کامہ یادئی، مشت آسکھ گمہرہ،

الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَسْوَءُ مَا يَكُونُ مِنْ
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هَؤُلَاءِ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ الْأُخْرَىٰ لَهُمْ
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ الْاِهْمُومِمْ آيِنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَدْبِتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۴۰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ
 النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
 اللَّهُ تعالیٰ چھوپانہ پرت منہ چیزس بیٹھ پور مطلع تہ باخبر، اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ يَعْلَمُ
 مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ کیا توہ چھپنا یہ کتھ زہر نظر کہ اللہ تعالیٰ اس چھوتہ سوروی معلوم، یہ
 آسان اندر چھو، بیہ تہ سوروی یہ زمین منز چھو، بوڈیا لوکت چیز، بڈہ بڈہ کتھ یالوتہ لوتہ کتھ، بلکہ کن کتھ
 تان تہ، چنانچہ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هَؤُلَاءِ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ الْأُخْرَىٰ لَهُمْ چھنہ آسان ترین
 شخص ہنزہ کن کتھ منہ جاہہ یمن سیت نہ اللہ تعالیٰ چھ ژور یوم آسان اتھہ پاٹ چھنہ آسان پانژن
 شخص ہنزہ کن کتھ یمن سیت نہ شیوم چھو آسان اللہ تعالیٰ، وَلَا أَذْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ الْاِهْمُومِمْ
 مَعَهُمْ آيِنَ مَا كَانُوا نہ امہ عدہ خوتہ کم، زہ یا ژور، نہ امہ خوتہ زیادہ، شہ یا کتھ، مگر پرتھ حاس اندر
 چھو اللہ تعالیٰ تمن سیت آسان ادھہ یتھ جاہہ آسن تہ تھہ ثُمَّ يَدْبِتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ توپتہ ونہ
 سو تمن سارنی قیامتک دوہ، تمہ سارے کامہ، یمہ تم کران آس دنیاس اندر، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو پرتھ کتھ تہ پرتھ چیزاہ پور زانان، اَلَّذِينَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ
 النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ کیا توہ چھوہ نامن لوکن کنن وچھان یمن منع آیود کرنہ کن کتھ کرنہ
 نغہ، مگر توتہ چھہ تم سوی کوم کران، یمہ نغہ تمن منع آیود کرنہ، وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ زیادہ انوس ناک کتھ چھہ یہ کہ تم چھہ کن کتھ کران گنن متعلق سرکش متعلق بیہ
 پیغبر برحقہ سنزہ نافرمانی متعلق وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ یمہ ہود چھہ تھہ کہ یلہ تم

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبُكُمْ جَهَنَّمَ
يَصْلَوْنَهَا فِئْسَ الْمَصِيرُ^۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ
فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا
بِالْبُرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ^۹ إِنَّمَا التَّجْوَى
مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ^{۱۰} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

توہ نش یوان چھہ یار رسول اللہ توہ چھہ تم سلام کران تمی لفظہ سیت یمہ لفظہ سیت نہ اللہ تعالیٰ ان توہ سلام
کمر اللہ تعالیٰ ان کمر توہ تہ، بین پیغمبرن تہ سلام، بلفظ سلام، چنانچہ فرمویں السلام علیک ایہا النبی
بیہ فرمویں سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطلح، تم چھہ ونان السام علیک، سام گو موت،
وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ توپتہ چھہ تم پاند وان پانس سیت ونان کہ اگر یم پیغمبر چھہ
تلہ کونہ چھہ واسہ اللہ تعالیٰ لایہ لفظ ونہ نس پیٹھ رتان تہ مزاد یوان، کیا زہ اتھ اندر چھہ سراسر بے ادبی،
حَسِبُكُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا تہندہ سزا خیرہ، چھہ کافی جہنم، تھہ منز چھہ تمن ضرور داخل سدن
فِئْسَ الْمَصِيرُ صہ بھہ سٹھہ ہتھہ جای تہندہ واتنہ خیرہ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا
بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ای با ایمانویلہ توہ تہ ضرور تہ وزہ کن تھہ آسیو کران تلہ مہ
آسو کران منافقن ہند پٹھہ، گنہس متعلق یاسر کش متعلق یابی کریمہ سزہ نافرمانی متعلق، وَتَنَاجَوْا
بِالْبُرِّ وَالتَّقْوَى بلکہ آسیو توہ کنہ تھہ کران لوکن نفع واتہ ناونس متعلق بیہ پرہیز گاری متعلق،
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ کھوڑ یو خدا لیس، لیس برو تھہ کنہ توہ ساری سبراونہ آیو حسابہ خیرہ،
إِنَّمَا التَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا منافقن ہنزہ کن تھہ مگر شیطانہ سندہ ڈالنے سببہ،
یو تھہ با ایمان غمس تہ تکلیف منس تراون، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ حالانکہ شیطان ہیچہ نہ
با ایمان کنہ قسمہ ضرور واتہ ناونت خدا یہ سندہ حمہ ورا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ با ایمان پزہ

امَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَانْفِسُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا وَايْرِفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۱
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَجَاسَعْتُمْ الرُّسُلَ فَقَدِمْوا بَيْنَ يَدَيْ

پر تھ کامہ اندر اللہ تعالیٰ سنی پٹھ توکل تہ اعتماد کرن، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَانْفِسُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ** ای با ایمانوں یلہ توه ورنہ آیہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان توه یا اولی الامر آندرہ یا واجب الاطاعت لو کو اندرہ دنہ توه کانزہاہ، کہ جایہ اندر کر یوسعت، نگھ نگھ بہو، یوتھ بین لوکن تہ آیہ موقعہ کلام خدا، تہ وعظ و نصیحت بوزنک، تمہ ساتہ آسیو توه جایہ اندر کشادہ گی کران، بین ینہ والین آسیو جای دیوان، اللہ تعالیٰ کرہ توهنز تنگی تہ کشادہ، سومثر اوہ توه کن رحمتک دروازہ، **وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا** ہر گاہ نڈہ ضرورتہ کہ وقتہ توه ورنہ آیہ کہ تھودو تھیو، بیس ینہ والس ترا یو جای، فور اگر تھ تھودو تھن تہ بیس جای ترا وکن، پانہ بیس جایہ بہون، یہ حکم چھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ آیہ، ایس نڈہ مجلسہ ہیوند صدر مجلس آسہ، اتھ پیٹھ چھو دلالت کران لفظ قیل، یعنی یلہ توه ورنہ یوان آسہ، سوونہ ون اده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آستن، یا کانہہ واجب الاطاعت شخص آستن البتہ اہل مجلسو اندرہ، یا کانہہ پتہ اوہ ونس چھنہ جائز کہ کانہہ شخص تلہ ہا مجلسہ منزہ تھود، ہنزہ جایہ بہہ پلانہ، یا بہناوہ ہاسیہ کانہہ، **يَرْفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ** اللہ تعالیٰ کرہ اتھ حکم تقمیل و اطاعت کرنہ سیت تمن لوکن ہند (یمو تمونہ اندرہ ایمان ان) آخر تس اندر درجہ بلند بیہ تمن لوکن با ایمان اندرہ، یمن علم دین عطا کرنہ او، زیادہ تھند درجہ عطا کیازہ آہنز اطاعت تہ تقمیل حکم چھ زیادہ پر خلوص، عملہ اندر نبوت زیادہ خلوص آسہ نبوت چھو ثواب زیادہ عطا یوان کرنہ، **وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** اللہ تعالیٰ اس چھہ توهنزن سارنی عملن ہنز پور خبر تس چھہ خبر کہنز عمل چھہ خالی از ایمان، کہنز عمل چھہ ایماندار ی سان، کہنزہہ عملہ منز چھو کوتاہ اخلاص **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَجَاسَعْتُمْ الرُّسُلَ فَقَدِمْوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَةٌ** ای

نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تُجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷﴾ ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
 صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
 آتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَا

بالیمانو یلہ توہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیتی برہہ تھہ کرنہ آسن، تہند گوبہ تہہ پنہ نہ سرہ تھہ تمن
 سیت کرنہ بروٹھ فقیرن مسکین کنبہ ہادیون بطور صدقہ تمیوک مقدار چھنہ مقرر کرنہ آمت، مگر
 آسن گوبہ سو معتد بہی ذلک خیر لکم و اطہر یہ چھو تو ہندہ ثواب تہ اجر حاصل کرنہ خیطرہ بہی توہ
 گنبولہ پاك کرنہ خیطرہ رت ذریعہ، فَإِنْ لَمْ تُجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ و سن ہر گاہ توہ صدقہ جورہ
 نہ تلہ چھو توہ معاف، بس بے شک اللہ تعالیٰ لا چھو سٹھاہ مغفرت کرہ دن سٹھاہ رحم کرہ دن، ءَأَشْفَقْتُمْ
 أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ کیاہ توہہ اندرہ بعضے متوسط لوک کھوڑوہ نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم سیت برہہ تھہ کرنہ بروٹھ صدقہ دلن، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ خیر یلہ نہ
 توہ پور وسعت نہ آسنہ موکھ صدقہ ہیوکوہ دتھ اللہ تعالیٰ ان کر تو ہندس حالتس پیٹھہ رحم کرت توہ
 صدقہ دیون معاف مگر بین ضروری عبادتن اندر کریو توہ پابندی فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ پس تہادیو قائم نماز پابندی سان بہی آسیو دیوان زکوٰۃ پابندی سان، بہی آسیو
 فرماں برداری کران خدایہ سنزیہ جہندس پینمبرہ سنز، وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ اس چھہ پور
 خبر تہہ سارچی یہ توہ کران چھوہ، تس چھہ توہنزا ظاہری حالت تہ معلوم باطنی حالت تہ معلوم، أَلَمْ
 تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کیا توہ چھنا و چھان یار رسول اللہ چھو نا تمن لو کن کن یبو
 یارزتہ دوستی چھہ لاجھو تھنھی لو کن سیت یمن پیٹھہ اللہ تعالیٰ سند غضب چھو، تم گئے یہود تمنی سیت
 آس دوستی لاجھو منافقو، مَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْكُمْ یم منافق چھنہ کانسہ ہند، نہ تو ہند نہ چھہ جہند،

مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۶﴾ لَنْ نَغْنِي عَنْهُمْ
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ
كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ

وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تمن چھ پنہ نہ کھو چرج تہ خبث باطن خبرئی، مگر باوجود آن چھ
اپس پیٹھ قسم ہاوان سواپز گو یہوی کہ مسلمانن چھ قسم ہاوتھ دپان اس چھ تو ہی سیت اعدا اللہ لکم
عذابا شدیدا اللہ تعالیٰ ان چھو تہمدہ خیطرہ تیار تہومت سخت عذاب، اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
کیازہ بے شک تم آس سٹھاہ پیچھ تچھ کامہ کران چنانچہ کفر و نفاقہ خوتہ کوسہ ہش کوم چھ زیادہ پیچھ،
تموی پیچھ کامیواندرہ گیہ اکھ۔ پیچھ کوم کہ اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُهِينٌ تمیو کثیر ہین تمئے اپز قسم، پنہ نہ بجاوہ خیطرہ سپر، یمہ موکھ کہ مسلمان زانن آسہ مسلمانن سانس
مال و جانس لاگن نہ اتھ، پیارکن آس لوکن خدایہ سزہ و تہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ پتھ رٹان، امہ
موکھ چھ تہمدہ خیطرہ خوار و ذلیل کرہ ون عذاب، لَنْ نَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
یلہ یہ عذاب تمن کرنہ آیہ، تمہ ساتہ آیہ نہ تمن بکار خدایس نشہ، نہ مال تہوند، نہ گبر تہند تم کیا
موکلاوہ صخہ امہ عذابہ نشہ، اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بلکہ چھ تمئے جنمی، تمئی چھواتھ
جہنمس اندر روزت دزن ہمیشہ، يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا یہ عذاب آسہ تمن تمی دوہہ یمہ دوہہ اللہ
تعالیٰ تمن بیہ باقی تمام مخلوقاتن دوبارہ بیہ زندہ کرہ، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
عَلَىٰ شَيْءٍ پس ہاون تس بروٹھ کنہ تہ اپز قسم، اتھ پاٹھ توہ بروٹھ کنہ چھ قسم ہاوان، یمن آسہ خیال
کہ تم ماچھ کنہ رتس حالس پیٹھ، یمو اپز یو قسمو سیت مالبن تم نجات، اَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ وارہ

الْكَذِبُونَ ۱۸) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ط
 أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط الْأَلَاءِ حِزْبِ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخٰسِرُونَ ۱۹)
 إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۲۰)
 كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ط إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۲۱) لَا تَجِدُ قَوْمًا
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط

بوزیو کہ بیشک تمہے چھ بیڈاپزیر، کیا زہ تمو کر نہ خدا یس بروئٹھ کنہ تہ اپزونہ نشہ کانہہ وایہ، تمن ہنزہ تمہ کامہ یمن ہیوند پیٹھ ذکر کر نہ آو کر نک وجھہ چھو ائی کہ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ شیطان چھو تمن پیٹھ پور تسلط تہ غلبہ لب مت، تو پتہ پھکھ تھی خدایہ سنڈیاد مشروومت یعنی تھندین احکا من تمیل کرن، أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ واقعی یم چھ شیطانہ سنز جماعت، الْأَلَاءِ حِزْبِ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخٰسِرُونَ وارہ بوزیو شیطان سنزی جماعت چھ بر باد تہ خراب گوہہ وئن۔ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ بے شک یم لوک مخالفت چھ کر ان خدایہ سنز بیہ تھندس پیغمبرہ سنز، تم چھ سخت ذلیل لوک خدا یس نشہ، تھند ذلتہ کس عذابس گرفتار سپدن کیاہ عجایب چھو، اللہ تعالیٰ ان اتھ پاٹھ تھندہ خیطرہ ذلت تجویز کر مرثہ یتھہ مرث چھ، تھتھے پاٹھ چھ تھی یوژ ہمت تہ تجویز کر مت فرماں بردار بدن ہندہ خیطرہ عزت، كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي یہ تھہ چھہ اللہ تعالیٰ ان حکم از یس اندر لیکھت تھاو مرث کہ یو تہ میان پیغمبر روزو غالب حقیقتس اندر چھو یہوی بوڈ عزت تہ تنس چھو مقصود اللہ تعالیٰ اس بیان کرن پیغمبرن ہیوند غلبہ، ہمن ذکر فرموون پیغمبرن ہیوند شان تہ شرف نر اونہ خیطرہ، وئن یلہ پیغمبر باعزت چھہ، تمن متابعت تہ بیروی کرہ وئین تہ گئے باعزتھی، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو قدر تہ وول تہ غلبہ وول آتھی سولیس یٹھ تس تہ دیہ غلبہ دشمن پیٹھ، لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ توه ہمز لبون نہ کانہہ جماعتہ یمن فی الواقع پور پڑھ آسہ خدایہ سنز تہ قیامتہ دوچ، تم کیا لاگن دوستی تمن

وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
 كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
 عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۷﴾

لوکن سیت یم خدایہ سند تہ سندس پیغمبرہ سند مخالف تہ دشمن آسن۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
 أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ اودہ آستن تم مخالف مال جہند، یا پچو جہند یا بای جہند، یا قبیلہ جہند، کیا زہ
 أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ جہندین دلن اندر چھو کھو نعمت اللہ تعالیٰ ان
 ایمان، بیہ چھن جہندین دلن پنہ فیضہ سیت قوت دیو تمت تمہ فیضہ اندرہ چھو مراد نور، تیہہ نورس
 ہدایت مقتضی چھو، سمیوک نشانہ چھو ظاہرس اندر عمل صالح باطنس اندر سکون قلب، چونکہ یہ چھو
 سبب معنی زندگانی ہندہ زیادتی ہیوند امہ موکھ تہووکھ اتھ ناوروح، یہ دولت و نعمت گیہ تمہن دنیاعس
 اندر، آخرتس اندر گو تہند خیطرہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بیہ واتا وہ تمہن
 لوکن تمہن جنتن اندر یمو یون کن ہرہ تہ کولہ آسن پکان تمہینی جنتن منز روزن تم ہمیشہ ابد الآباد،
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ تعالیٰ چھو تمہن نشہ راضی تم چھ تش نشہ راضی، أُولَئِكَ حِزْبُ
 اللَّهِ بیہ گیہ اللہ تعالیٰ سنز جماعت أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وارہ بوزیو کہ اللہ تعالیٰ سنزی
 جماعت چھ کامیاب سپدہ و سن۔



هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
 لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ تَانَعْتُمْ حُصُونَهُمْ
 مِنْ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي
 قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ

کرنہ آمت یمن دو شون جلاوطنین چھوونندہ آمت حشر اول تہ حشر ثانی ہیندہ پاٹھ آواتھ مضمونس
 شروع کرنہ تسبیح سیت سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خدایہ سنزپاکی چھ
 بیان کران تم ساری لوک یم آسمان تہ زمین منز مخلوقات چھ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ تہندہ علوشانک قدرت کاملک تہ کمال حمتک اثر چھویہ کہ سوگو سوی
 یم کفار اہل کتاب یعنی بنی النضیر کڈپنہ نیوگرو اندرہ نیر، گوڈنچہ لہ اکہ وٹہ سنبرت یعنی یہ مصیبت آو
 تمن بنت گوڈنچی لہ یہ چھو تمن تمنی کالین ہیوند سزایہ تمہ تم کران آس مخالفت تہ دشمنی پیغمبر
 آخر الزماں سنز صلی اللہ علیہ وسلم، بیتھ منز چھواکھ لطیف اشارہ اکس پیشگوئی کن، سہ گیہ یعنی کہ تہندہ
 خیطرہ چھو آیندہ تہ اتھوی انقلاب اوہ ون چنانچہ حضرت عمرن رضی اللہ عنہ کڈپنہ نس خلافت اندر
 ساری یہود جزیرہ عربہ اندرہ، مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ای مسلمانو توه اوسنہ گمان یمن یہودن ہیوند
 سامانہ تہ شوکت وچھت کہ تم کیانیرن سیدہ سیدہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ تَانَعْتُمْ حُصُونَهُمْ مِنْ اللَّهِ تمن یہودن تہ
 اوس پنہ نہ جایہ گمان کہ تہندہ قلائی بچاون تمن خدایہ سندہ انتقامہ لہ یعنی تمن تہ اوس پنہ نین قلائی
 ہنزہ مضبوطی تہ محکم پیٹھ بڑہ ناز، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا پس پیواتھ تمن خدایہ سند
 عذاب تڑھئی جایہ کن سمیو کہ نہ تمن وہم وگمان تہ اوس تمہ اندرہ چھو مراد کہ مسلمان ہندہ اتھ آی
 تم کڈنہ تہ جلاوطن کرنہ یمن مسلمان ہنزہ بے سروسامانی کن نظر کرت تہ یہودن ہندس باسلاح
 وسامان آس کن نظر کرت اوسنہ کانہ ہندس وہم وگمانس منز یوان کہ تم کیاسپدن یمن پیٹھ غالب،
 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بیہ ترو اللہ تعالیٰ ان یہودن ہندین دلن اندر مسلمانن ہیوند رعب تہ
 رعبہ سبہ کر تموپانے نیر تک ارادہ چنانچہ تہنز حالت سہز تو قسمتہ کہ یَخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي

فَاخْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۝ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ
 الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْهَا قَائِمَةً عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ پنہن گرہ آس لوران پائے پنہ نیو اتھو بیہ مسلمان ہند یو اتھو سیت فَاخْتَبِرُوا يَا أُولِيَ
 الْأَبْصَارِ پس ریو عبرت توہ یہ حال وچھت ای عقلیہ والیو وچھو شرک کفر ظلم تہ بد عہدی کرنگ
 انجام کیو تھ چھو آسان تم خدایہ سز تہ تہندس پیغمبرہ سز مخالفت چھہ کران تمں چھو اللہ تعالیٰ بعض
 اوقات دنیا س منزیہ کروٹھ سزادیوان ، وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا
 ہر گاہ نئے اللہ تعالیٰ ان تہندہ حقہ جلاو طنی ہیوند حکم لیو کھت آسہانتہ دیہا تمں تہ دنیا سئی اندر سز
 قتل کرنہ سیت اتھ پاٹھ تمں پتہ بنی قرظن سیت معاملہ کرنہ آو، ہر گاہ تم دنیا س اندر عذاب قتلہ
 نشہ بچای تہ مگر وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ تہندہ خپہرہ چھو آخرتس اندر نارک عذاب تیار،
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ سز دنیا س اندر جلاو طنی ہیوند آخرتس اندر عذاب نارک
 چھو تمں امی موکھہ کہ تمو کیا کفر مخالفت خدایہ سز بیہ تہندس پیغمبرہ سز، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ پس شخص خدایہ سز مخالفت کران چھو سوی گیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سز
 مخالفت کمرن پس اللہ تعالیٰ چھو سخت سز دیوہ ون یہ مخالفت تہ جرم یہودن ہیوند اوس دوہیہ قسمہ اکھ
 نقض عہد سیت سمیوک سز آکھ دینہ جلاو طنی سیت بیا کھ جرم اوس ایمان نہ اُن تمیوک سز چھک
 نار جہنمک عذاب امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان یہودن ہندہ اکھ طعک جواب ئس تمبو کل ژٹنک تہ
 زانک دژو کہ کیا یہ گونا فساد تہ تباہی تولین بیہ کریو بعض مسلمانو کل ژٹنہ نشہ ہر اسے یہ خیال کرت
 کہ یم کل سپدن تہ واتن مسلمائی نشہ لہذا کیا زہ واتہ ناووپان پانس نقصان، بعضیہ کز خیال کہ امہ سیت
 ولتہ یہودن تکلیف تہ رنج لہذا اگر ہن یم کل ضرور ژٹن، اللہ تعالیٰ ان کردو شوئن جماعتن ہنزہ کامہ

أُصُولَهَا فَيَاذِنُ اللَّهُ وَيُخْرِجِي الْفَسِيقِينَ ⑤ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى
رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنٍ
اللَّهُ يَسْلُطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥
مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلِ لِأَكْثَرِ لَآ

تائید چنانچہ فرمودن **مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ نَكَبٍ فَأَتَابَتْهُ عَلَى أُصُولِهَا فَيَاذِنُ اللَّهُ** ای مسلمانوں نے
خضہ کو لایا توہ ڈھتھ تروون یازولون یا تہوون پنہ نین مولن پیٹھ استادے یعنی ڈھتھ تروون نہ کہنہ
دوشوے چیز کردہ توہ اللہ تعالیٰ سنزی حکمتہ نہ رضا مندی موافق یو تھہ مسلمانن اللہ تعالیٰ عزت نہ
آبرودیہ، **وَالْيُخْرِجِي الْفَسِيقِينَ** بیہ یو تھہ ذلیل نہ خوار کرہ کافرن **وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ** بیہ ئیس تمسن یہودن ہیوند مالہ اللہ تعالیٰ ان مال غنیمت بناو تھہ واتہ نوو
پنہ ئس پیغمبرس نشہ تھہ منز پیہ نہ نہ۔ کانہہ مشتقاہ تولسن نہ پئے توہ تمہ خیطرہ گرتہ وونٹھ دورہ ناوسن
یعنے نہ پیوہہ توہ سفر کزن کیاہہ مدینہ شریفہ پیٹھہ آس سہ جای زی میل دورنہ پیو توہ جنگ کزن لہذا جھنہ
تھہ اندر توہ ہند کانہہ حق **وَاللَّيْنِ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ** لیکن اللہ تعالیٰ سند طریقہ چھہ کہ سوچھو
پنہ نین پیغمبرن خاص غلبہ دیوان پنہ نیو دشمنو اندرہ یکن پیٹھہ یشہان چھو یعنی محض رعبہ سیت غلبہ
دیوان تھہ منز نہ کانہہ مشتقاہ واتان چھہ چنانچہ تمو پیغمبرو اندرہ وون غلبہ حضرت محمد مصطلے اس
واتہ نوون تمسن نشہ یمن یہودن ہیوند مال لہذا جھنہ تھہ مالس اندر توہ کانہہ حق بلکہ چھواتھہ پیٹھہ مالکانہ
تصرف کر تک تمنی پورہ اختیار، **وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اللہ تعالیٰ اس چھہ پر تھہ چیزس پیٹھہ پور
قدرت اتھہ پاٹھہ بنی نصیرن ہندہ مالک حکم بیان آو کر نہ اتھئے پاٹھہ چھو حکم کہ **مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ
مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلِ** ئیس مال اللہ تعالیٰ ان
بطریق مال غنیمت واتہ نوو پنہ ئس پیغمبرس نشہ اتھئے پاٹھہ یعنی محنت و جنگ کرنہ ورا ای کافرن ہنزو

يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

یو بستو منزہ مثلاً فدک بیہ سرتھ منز بیہ چھنہ توہ کا نہہ استحقاق مالک بنہ نلک بلکہ چھ سو حق رسول کریمہ سند اللہ تعالیٰ ان چھو تمن تھ پیٹھ مالکانہ تصرف کر نک حق دیو تمت یس خوش کر کیکھ تس ہیکن عطا کرت بیہ چھو تھ اندر تھندین اہل قرابتن رشتہ دارن ہیوند حق بیہ یتیم مسکین تہ مسافرن ہیوند حق یعنی یم ساری چھ امہ مالک مصارف ہر گاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب زانن بیہ حکم آویسہ موکھ کرنہ کے مَنِّي لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ یو تھنہ سومال غنیمت وانہ تو ہندین مالدارن ہندس قبض منز فقیر تہ مسکین سپدن محروم اتھ پاٹھ جاہلیہ کس زمانس منز سپدان اوس کہ مال غنیمت وغیرہ محاصل جنگ آس کھیوان اقتدارہ وال لوکھی فقیر تہ مسکین لوک آس محروم سپدان امی موکھ تہو واللہ تعالیٰ ان امہ مالک خرچ کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنزہ رایہ پیٹھ تمہ علاوہ کمر اللہ تعالیٰ ان تمک مصارف بیان گویا فرموون کہ باوجود اینکہ توہ چھ تھ اندر مالکانہ حیثیت مگر توہ گڑھہ محتاجن تہ مصالحہ عامن ہندین مواقعن ہیوند خاص خیال تہاوتھ تمن پیٹھ صرف کرن ای مسلمانو یلہ توہ معلوم سپد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزہ رایہ پیٹھ تہاونس منز چھ حکمت لہذا وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یہ کنیوہاہ دونو تہ عطا کرنوہ توہ رسول کریم تہ ریٹو بیہ یمہ چیزہ کہ رشتہ رشتہ تم توہ پتھ رٹن تمہ رشتہ آسیوروزان پتھ یہوی حکم زانیو افعال واحکامن منز تہ لفظ ”ما“ عام آسہ موکھ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بیہ کھوڑیو اللہ تعالیٰ اس اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ چھو مخالفت کرنس پیٹھ سخت عذاب کرہون تہ سزاء دیوون لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ اگرچہ مال غنیمتس منز چھو مطلق مسکین ہوند حق آتھی مگر فقیر تہ حاجت مند

أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۹﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾

مہاجرین ہیوند حق تہ چھو خصوصاً تہہ منزیم مہاجرینہ نیوگرتہ مالو اندرہ جبرأتہ ظلماکڈنہ تہ جد اکر نہ آئے کیا زہ تم کفر کافرو تیتوت نگ تہ پریشان کہ تم سپد گھرہ بار تراونس پیٹھہ مجبور یبتعون فضلا من الله ورضوانا یہ ہجرت کرنہ سیت چھہ تم ڈھانڈان محض خدایہ سُد فضل تہ تہمز رضامندی سُنہ دنیوی غرضہ خیطرہ کرکھنہ ہجرت وَیَصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ بیہ چھہ تم خد اور سولہ سبوس دینس مدد کران أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ تہئے لوک چھہ پڑاٹھہ بالیمان، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ بیہ چھواتھہ مال غنیمتس اندر حق تمس لوکن ہیوند یومو قرار کردار الحجر تس تہ دار الایمانس اندرئی یعنی مدینہ مورش اندر مہاجرین ہندہ ات واتنہ بروٹھہ یعنی تم آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنزہ ہجرت کرنہ بروٹھی مدینہ شریفس منز مسلمان سپد مت تموا آسہ تہ مسجدہ بناٹھ یہ اوس تہوند کمال باوجود موانع و مخالفت، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ یم مدینہ شریفک لوک چھہ محبت تہاوان تمس لوکن ہیوند یم یمن گن ہجرت کرت یوان چھہ۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا مال غنیمتہ منزہ یہ کتہرہ باہ ونہ یوان چھہ مہاجرین تہہ سیت ہتھنہ تم پنہ نس دلس اندر سُنہ قسمک طلب تہ رغبت محسوس کران بلکہ چھہ زیادہ محبت تمس بیجر اوان بلکہ چھہ تمس کھیوان چاوان وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تہہ اندر چھہ تمنئی مقدم زانان تہ ترجیح دیوان پنہ نین پانن پیٹھہ ادہ آستھہ پانس و پستنی یعنی پانہ چھہ روزان بسا اوقات فاتی تمنئی چھہ کھیوان وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ واقعی یم لوک پنہ نہ نفس و طبعیتہ کہ مغلہ نشہ محفوظین تہاوانہ یعنی یمن اللہ تعالیٰ توفیق دیہ یعنی تہند دل تہاوا لالچہ حرصہ تہ مغلہ نشہ محفوظ تمنئی لوک چھہ کامیاب تہ با مراد سپدہ و کن

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۱۰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا
يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ
أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ
قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۱ لَئِنْ أُخْرِجُوا

کیازہ لالچی تہ بخیل انسان کتھہ پاتھ کرہ بایس پیٹھ ایثار سو کر گوٹھ خوش باکی سبندھ خوش حالی سیت
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ بیہ چھو تممن لوکن ہیوند تہ اتھ مال غنیمتس اندر حق یم اسلامس اندر،
یا ہجرتس اندر دنیاس اندر یمن مہاجرن تہ انصارن پتہ آی یا پتہ ین، يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ یم یا نس سیت ملہ و تھ یمن مہاجرن تہ انصارن دعای خیر چھ
کران دپان چھ ای سانہ پروردگارہ سائین گھن کر بخشایش تہ مغفرت، بیہ سائین باین یمواسہ بروٹھ
أَنْ إِيْمَانٍ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا بیہ مہ تہاوسائین دلن اندر مٹہ قسمہ کینہ تہ بغض
کانسہ با ایمانہ سند رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ای سانہ پروردگارہ بے شک ژہ چھ کھ شھاہ مہربان شھاہ رحم
کرہ ون۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا کیا توہ وچھو تا یمن منافقن عبداللہ بن ابی وغیرہ ہیوند حال
يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تم چھ ونان پنہ نین ہم مذہب باین یم اہل
کتباوندہ کافر چھ، یعنی بنی النضیرن لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ قسم خدا اس چھ پر تھ حاس
اندر توہی سیت ہر گاہ توہ پنہ نہ وطنہ منزجر اُلو کڈنہ اس تہ نیرو پنہ نہ وطنہ منزہ توہی سیت، وَلَا نُطِيعُ
فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ بیہ مانونہ اس توہ متعلق کانسہ ہنز کھ زانہہ تہ ہرگز بیہ ہر گاہ
توہ سیت لڑائی تہ جنگ کرہ کانہہ اس نیرو و ضرور توہندہ مددہ خیطرہ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ

لَا يُخْرَجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَإِيْنَصِرُوْنَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوْهُمْ
 لَيُوَلِّينَ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصِرُوْنَ ﴿۱۲﴾ لَا نُنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً
 فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ اَللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۳﴾
 لَا يُقَاتِلُوْكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قَرْيٍ مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ
 جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيْعًا وَقُلُوْبُهُمْ

تعالی چھو گواہی دیوان کہ یم منافق چھ اپزیر، محض چھ یہودن مسلمانن خلاف نلنہ خیلرہ یمہ تھہ
 ونان یہ زیوسیت ونان چھ تھہ کرن نہ تم زانہہ نہ عمل، لَئِنْ اَنْجُوْا لَآ يُخْرَجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ
 قُوتِلُوا لَآ يُنصِرُوْنَهُمْ قسم خدا ہر گاہ یم یہود پنہ نیوشہر واندرہ کڈنہ ین، یم منافق نیرن نہ تمن سیت
 ہرگز بیہ ہر گاہ تمن سیت جنگ آو کرنہ یم عنہ قسمک تمن مد کرنہ نہ، وَلَئِنْ نَصَرُوْهُمْ لَيُوَلِّينَ
 الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصِرُوْنَ ہر گاہ بفرض محال تمن عنہ قسمک مدد نہ کران لڑایہ منز پدن شریک
 عین وقت وزہ ژلن تم میدانہ منزہ تمن کن تھر پھرت یمن منافقن ہندہ موقس پیٹھہ ژلنہ پتہ ہیجہ نہ
 کانہہ نہ تمن مدد کرت چنانچہ آتھہ پاٹھ سپد واقع یمہ ساتھہ بنی النعیرن صحابہ صیوی محاصرہ تھندس
 قلایس تھہ منز لڑایہ ہیوند احتمال اوس منافقواندرہ آونہ اکھ نہ تمن بروٹھہ کن توپتہ یمہ ساتہ کڈنہ
 آی تم کانہہ نہ دراونہ تمن سیت، صدق اللہ مولانا العظیم یہ خداین فرموتہ سوروی دراوپز نہ حق
 لَا نُنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ اَللّٰهِ بے شک توه لوکن ہیوند خوف و حراس چھو تمن
 منافقن ہندین دلن اندر خدایہ بندہ خوفہ خوتہ نہ زیادے۔ ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ امیوک
 وجہ چھو کہ تمن چھنہ کفرہ سببہ خدایہ سنز عظمت فکری تران یم ساری یہود بنی النعیر وغیرہ بیہ منافق
 نہ ہیکنہ الگ الگ سیت مقابلہ کرت تھہ تمن سیتھی، لَا يُقَاتِلُوْكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قَرْيٍ
 مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ یم لوک ہیکن نہ توه سیت جنگ نہ مقابلہ کرت اکہ ونہ ساری میلت نہ
 نہ وانہ میدانس اندر مگر ہیکن جنگ کرت تھہ شہرس منز اندر اندر تھہ پر تھہ طرفہ قلائی آسہ کھارنہ

شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۴﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا وِبَالٍ أَمْرِهِمْ ؕ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْكُفْرَ فَلَمَّا كَفَرَ
 قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾

آمت نہ ہمکن جنگ کرت کنہ دیوارن تہ دوسن ژھایہ ، بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تمسن چھہ پانہ وان سخت لڑائی تہ اختلاف مسلمانن مقابلہ چھہ نیم کنہی ، نَحْسِبُهُمْ جَبِيحًا ؕ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ای بوزونہ ژہ چھو بھہ نیم زمانن متفق تہ کنہی یہ چھو ظاہرہ پاٹھئی حقیقتس اندر چھہ تہند دل بیون تہ الگ الگ چھلہ چھانگرہ گرفتار ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ یہ چھوای وچہ کہ تمسن چھہ دشی عقل یوسہ یمن منتفقہ تہو ہایمن بنی الغیر تہ منافقن ہنز چھہ اکھ اکھ مثالا بنی الغیر ہنز مثال چھہ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا وِبَالٍ أَمْرِهِمْ ؕ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تمسن لوکن ہنز ہش مثال یم یمن بروٹھ کنہی کنہ کالا آس بیودنیاءس اندر تہ پنہ نین بد اعمالن ہیوند مزہ وچھہ بیہ آخرتس اندر تہ تہندہ خیطرہ چھو کڈر عذاب سپدہ ون۔ تم گئے یہود بنی قیقاع تہوند قصہ چھو اٹھ پاٹھ کہ تموکمر بد عہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ۲ ہجریس اندر جنگ بدرہ پتہ تمو پھڑ دو عہد تمہ پتہ درای جنگ کرنہ تھہ جنگس اندر سپد مغلوب و مقہور پتہ یلہ قلا یہ منزہ درای نیر توپتہ آوسارنی گڈ پھرنہ توپتہ آوتہندہ خیطرہ عبد اللہ بن ابی منافقن تم کڑ سخت زارہ پارہ دین یم نیرن پائے یہ شہرہ منزہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموکمر یہ تھہ منظور توپتہ درای تم یہود مدینہ شریفہ منزہ تہ وات ملک شامس منز اس جایہ تھہ از رعایت ونان چھہ یمن بیہودن ہیوند سوروی مال و جایاد آومال غنیمتک پاٹھ صحابہ صہین اندر تقسیم کرنہ منافقن ہند حال تہ سپد یہی كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْكُفْرَ شیطانہ سز مثال یلہ سوگوڈہ چھو ونان انسانس کافر سپد ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ پس یلہ انسان اسند ونہ موجب کفرچ کانہہ کوماہ کرت کافر سپدان چھو اس چھو ناوہ والان ناوہ والتھ چھس ناوہ نمس و کہ دیوان توپتہ چھو یہ

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
 جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ
 نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
 بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ
 أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۹﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ

انسان تمہ کس کنہ بیچہ شیخس گرفتار سپدان یہ انسان چھو تمہ ساتہ شیطانس مدد منگان تمہ ساتہ چھس
 سونان مہ چھنہ ژہ سیت کانہ واسطے بو چھس ژہ نشہ الگ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ بو چھس
 کھو ژان خدا بس نِس رب العالمین چھو، فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا پس چھو یمن
 دو شوئن ہیوند انجام اُی زہ ہم دو شوئے چھ وائے وئن نار چھنمس اندر ہمیشہ ہمیشہ چھ روزن یمن دو شوئن
 تہہ اندر، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ یہوی چھو ظالمس ہیوند سزاء شیطان اتھ پاٹھ انسانس چھو ڈالان
 تہ گمراہ کران وقتہ وزہ چھس توپتہ دور ہیوان تہ ژالان اتھہ پاٹھ کر ممو منافقو گوڈنی دیکھ بنو نصیرن کہ
 یوتھنہ توہ شہرہ منزہ نیر یو توپتہ رود عین موقعس پٹھ کھٹت تمئن دیو توکھ دھوکہ توپتہ گئے دو شوے
 گرفتار بلا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ای بایمانو توہ بوزوہ کہ
 نافرمانن ہیوند انجام کیاہ سپد لہذا کھو ژ یو توہ خدا بس توہ اندرہ پر تھہ اکھاہ وچھن پگاہ قیامتہ خیطرہ کیاہ
 سامانہ چھو تم سوزمت یعنی رژن عملن اندر کر یو کوشش ہسے توہندہ خیطرہ سامان آخرت بنہ بیہ۔ اتھہ
 پاٹھ طاعات تہ اعمال صالحہ حاصل کرنس اندر تقویٰ پر ہییز گاری ہیوند حکم چھو اتھہ پاٹھ چھو گنہو تہ
 بیچہ کامیونشہ پتھ روزنس اندر تہ توہ حکم کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کھو ژ یو
 خدا بس بے شک اللہ تعالیٰ اس پتھہ پور خبر توہندن کامین ہنز، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
 فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ توہ مہ بیو تمئن لوکن ہی یومشراو اللہ تعالیٰ سدا احکام بے پرواسپد تمونشہ چنانچہ
 احکام تراو تھہ کر یکھ تمہ کامہ بیونشہ ممانعت آسکھ امیوک نتیجہ دراو کہ اللہ تعالیٰ ان مشراو تمئن پنن

النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾
 لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
 مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

پان یعنی تمو کرہ نہ تمہ کامہ یوسیت تم پنہ نین پانن موکلاوہ ہن آخر تکہ عذابہ نشہ اولیک ہم
 الْفٰسِقُوْنَ سمئے لوک کیا گئے نافرمان یمن چھونا فرمانی ہونند سزا کھیون، پیٹھ آوڈ کر کرنہ دوہہ قسمہ
 کین لوکن ہونند حال اکھ قسم گو متقین تہ پرہیزگارن ہونند، بیاکھ قسم نافرمانن تہ حکم نہ مانہ وینن ہونند
 یوناندرہ چھواکھ قسم جنتی، بیاکھ قسم جہنمی، لَا یَسْتَوِیْ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ برابر چھندہ
 نارس اندروانہ وئن تہ جنتس اندروانہ وئن، اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰیِزُوْنَ بلکہ چھ جنتس اندر
 وانہ ونی کامیاب تہ رستہ گارنارہ وال چھ ناکام توہنز گڈھ کو شش کرن جنتی بندہ نچ جہنمی بندہ نچ گڈھندہ
 ہرگز کو شش کرن یہ مفید تہ رث نصیحو چھ توہ اتان قرآن مجیدہ کہ ذریعہ سو قرآن گو کہ لَوْ اَنْزَلْنَا
 هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیۡتَہٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشٰیۡةِ اللّٰہِ ہر گاہ اس نازل کرہ ہون
 یہ قرآن مجید گڈھ کو ہس پیٹھ تو پتہ تموہ ہو اس تھہ گو ہس منز شعور و فہمک مادہ تہ بیہ آسہانہ تھہ اندر
 شہوت و خواہشاتن ہونند مادہای انسانہ یقیناً و چھ ہن ژہ سو کوہ تھہ گڈھ ہاژس بیہ گڈھ ہس چھلہ یعنی
 قرآن مجید چھو در ذات خود تہ موثر تہ قوی فاعل مگر انسانس چھ بوجہ غلبہ شہوت سہ قابلیت تباہ
 گمبوہ یہ سببہ تمس چھندہ قرآن مجیدک کاہنہ اثر سپدان لہذا پڑہ انسانس خدا و پیغمبرہ سنز نافرمانی تراوت
 پنون قوہ شہوانی مغلوب کرت فرمانبرداری خدا و رسول کرت طاعات و عبادتوسیت پنون پان پاک
 کرن، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس چھ یہ مثالہ تہ یم
 مضمون بیان کران لوکن ہندہ نفعہ خیطرہ یو تھہ تم غور و فکر کرن اتان آیہ بیان کرنہ قرآن مجید چ
 عظمت وئن چھہ بیان یوان کرنہ اللہ تعالیٰ سنز عظمت تہند یو اسماء حسنی و سیت، هُوَ اللّٰهُ الَّذِي

الْإِلَهُهُ الْعَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۲۲﴾
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۴﴾

الْإِلَهُهُ الْعَلَمُ سوپروردگار گو سوی یس و رای نہ کانہہ اکھاہ چھو معبود آسنس قابل علم الغیب
 وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ سوی چھو زمانن وول پوشیدہ چیز تہ نن چیز سوی چھہ سٹھاہ
 مہربان سوی چھو سٹھاہ رحمتہ وول هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سوی پروردگار چھو یس و رای نہ
 کانہہ اکھاہ چھو معبود نہ نس قابل۔ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
 الْمُتَكَبِّرُ سو چھو پادشاہ ساروی عیبو نشہ پاک گذشتہ زمانس اندر ساروی عیبو نقصانوشہ پاک و سالم
 آسنده زمانس اندر پنہ نین بدن چھو ساروی خوفناک چیز و نشہ امن و امان دیوہ ون پنہ نین بدن چھو
 ساروی خطرناک چیز و نشہ راجھہ کرہ ون زبردست تہ غالب چھو خرابی تہ نقصان پورہ کرہ ون چھو سٹھاہ
 عظمتہ وول چھہ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ تہونندشان چھو کہ سو چھو مغزہ تہ پاک تمو ساروی کتھونشہ
 یمہ کتھہ لوک تس ن لاگان چھہ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سوی چھہ
 معبود بر حق سوروی پیدہ کرہ ون سوروی حکمت پیدہ کرہ ون پرت چیز س صورت و شکل عطا کرہ ون
 تس چھہ رت رت ناو يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ساری چیز یم
 آسانن تہ زمین منز چھہ یم چھہ تہنہ پاک ی بیان کران سوی وھو زبردست تہ غالب کمال حکمتہ وول یس
 اتھس با عظمت خدا یہ سندن احکامن ہونند تعیل چھو سٹھاہ ضروری۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ

یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرنے خیرہ جہاد کرنگ ارادہ کر صحابہ صیواندرہ اک صاحبین لیو کہ خط مکہ کین لوکن کہ حضرت رسول کریم چھ عنقریب توہ پیٹھ حملہ کرنگ ارادہ کران۔ اس صاحبس اوس ناوحاطب بن ابی بلتعہ جنگ بدرہ کیو صحابہ صیواندرہ اک صاحب یم آس اصلی سمکن باشندہ مگر یمو آس مکہ معظمس منز سکونت اختیار کر مژ چنانچہ مول بوی اولاد اہل و عیال اوسکھ مکہ شریفہ سی منز سوی خط اوسن دیو تمت اس زانہ اتھہ سہ آس سوخط ہتھ گزہان مکہ شریف نبی کریم سپدو جیہ کہ ذریعہ یہ معلوم تم فرمود حضرت علی مرتضیٰ اس بیہ کنیوں صحابہ صیوان کہ توہ نیر یو فلاں جایہ سمکھیوہ توہ سہ زانہ تمس نشہ کریو سوخط وصول چنانچہ تم دورے تیس زانہ پتہ تیس نشہ کر کہ سوخط وصول گوڈہ تہاد یو تمہ زانہ پوشیدے مگر پتہ کر کہ تیس تلاشی تمہ اوس تہوومت سوخط کلس پیٹھ مستس ولتھ بہر حال ان سوتمو کر کہ پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدق اندر تموانہ نوو نادد تھ حضرت حاطب فرمود ہس توہ کیا زہ سوزوہ یہ خط مکہ کین لوکن تہو کر عرض واقعی ہز سوزمہ یہ خط مگر خدانہ کردہ مہ نہ حض سوزنہ یہ خط اسلامہ کہ مخالفتہ خیرہ بلکہ مہ حض اوس یقین کہ اللہ تعالیٰ دیہ اسلامس بہر حال غلبہ توہ کرہ ضرور فتح عطا مہ خطہ سیت واتہ مہ اکھ نفعاہ تہ فائدہ کہ مکہ ہک لوک روزن مہ نشہ ممنون و مشکور تمہ موکھ واتہ ناون نہ میانس عیالس کانہہ تکلیفانہ ضرراہ کیا زہ مہ چھنہ متہ کانہہ سیت کانہہ قرابتاہ تہ رشتہ داریاہ بلکہ چھس بوتہ اکھ اجنبی تہ پردیسی شخصاہ اتھہ حالس اندر کھوت حضرت عمرس سخت غصہ تمو مگر عرض مہ دیو حض اجازت بوٹلہ تمس حاطبس گردن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودس کہ یہ شخص چھو جنگ بدرہ کیو صحابہ صیواندرہ اللہ تعالیٰ ہن چھہ جنگ بدرہ کین لوکن سارنی گنہن بخشایش کر مژامی وقتہ سپدیمہ سورہ شریفک یم آیات کریمہ نازل،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ اٰی بِالْاِیْمَانُو تُوہ مہ رٹو کہ منگ کافر یم میان تہ توہند

إِيهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِأَجَاءِكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ
وَأَيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِهَادًا فِى سَبِيلِى وَ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ ۗ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا
أَعْلَمْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱

دشمن چھ پن دوست اگرچہ توہندین دین منزئے آسہ تمیوک خیال تُلَقُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ مگر
ظاہر چھو کران دوستی ہیوند برتاو تمن سیت تہہ مہ کریو وَقَدْ كَفَرُوا بِأَجَاءِكُمْ مِنَ الْحَقِّ حالانکہ نئس
ہز دین توہ نیشہ دوت تہہ کر تمو صرت انکاریہ گیہ خدا ئس نسبت دشمنی، يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَأَيَّاكُمْ أَنْ
تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ بیہ گئے یم لوک تمہ یمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہ تو ساری مسلمان پنہ نہ
شہرہ اندرہ کڈ ہورہ نگارنگ ایذا تہ تکلیف واتہ ناوت محض یمہ تہہ سببہ کہ توہ کیا زہ کر وہ کئس معبود
بر حقس پڑھ ئس توہ سارنی ہند رُب چھویہ گیہ توہ نسبت دشمنی غرض اُتھین ذلیل لوکن سیت گوہیا
دوستی تہاؤن إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِهَادًا فِى سَبِيلِى وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِى ہر گاہ توہ گرومنزہ درامت چھوہ میانہ
وتہ اندر جہاد کرنہ خیطرہ بیہ میان رضامندی ژھانڈنہ خیطرہ تلہ شوپیا توہ کافرن ہنز رضامندی
ژھانڈین توہ کر وہ دشمنی سارنی سیت میانہ رضامندی خیطرہ ہون تلمئی دشمن سیت دوستی ہیوند سلسلہ
قایم کرن تہنز رضامندی ژھانڈنہ خیطرہ یمون دون تھن چھوہ واٹھنی پاند وان تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ
توہ چھوہ زورہ زورہ کئٹھ کئٹھ تمن سوزان دوستی ہنزہ شچھہ تہ پیغام گوڈہ چھہ تمن سیت دوستی تہاؤن پیچھہ
توپتہ پو شیدہ تہ کھٹھ پیغام سوزن یمہ چھو زیادے پیچھہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ حالانکہ مہ چھو
تمن سارنی چیزن ہیوند پورہ علم یم چیز توہ کئٹھ چھوہ کران بیہ یم چیز توہ ن پاتھ چھوہ کران اتھ کن
نظر کرت تہ پڑہ ہانہ توہ تمن سیت دوستی ہیوند سلسلہ قایم کرن، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ ئس اکھاہ توہ منزہ اُتھہ حرکت کرہ پس تھقن سوڈول سیزہ وتہ نیشہ ڈلہ ونین ہیوند انجام تہ
عاقبت چھو توہ معلومئ تم مہ زانیو کہ توہ دوست بلکہ چھہ تم توہند تھنی دشمن کہ إِنْ يَفْعَلْهُ

يَتَّقُوكُمْ بِكُنُوزِ الْكَرِّ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَدَهُمْ
 بِالسُّوءِ وَوَدُّوا أَنْ يَكْفُرُوا ۗ لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ ۗ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
 أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالَ الْقَوْمُ لَهُمْ إِنَّا
 بَرَاءٌ وَأَمْنٌكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا

يَكُونُوا الْكَرِّ أَعْدَاءٌ هر گاه تم ن لوکن توه پیٹھ موقعہ لہے فوراً تر او ان تم ہینن دشمنی توه سیت وَيَبْسُطُوا
 إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَدَهُمْ بِالسُّوءِ بیہ موراون توه ضرر و اتانہ خیطرہ ہینن اتھ تہ چندہ زیوہ یہ گود نیوی
 ضرر تہوندو بی ضرر تہوندو وَوَدُّوا أَنْ يَكْفُرُوا تمں چھو تمنا کہ توه تہ گوہیو کا فر سپدن اُتھی لوکھ
 چھادوستی قابل اگر توه اظہار دوستی کرنہ اندرہ پنہ اہل و عیالک خیال چھو تھ متعلق بوزیووارہ کہ لَنْ
 نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ توهند رشتہ دار آشنا اولاد تہ گبردن نہ توه کا نہہ نفع تہ فایدہ
 قیامتک دوہ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ اللہ تعالیٰ ای کرہ توه منز فیصلہ تمہ دوہہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ
 تعالیٰ چھو توه ہنزہ سارے کامہ پورہ و چھان پس کرہ سو پرت کامہہ ہیوند فیصلہ وارہ پاٹھ ہر گاہ توه ہنزہ عملہ
 آسن عذابس تہ سزاس قابل تمہ عذابہ نیشہ بیگونہ موکلاو تھ آشنا تہ گھبر ہذا تمں ہیوند رعایت کرن
 خدایہ سندس خمس نافرمانی کرنہ سیت یہ چھو سٹھاہ بیچھہ تہ قابل مذمت قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي
 إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ای مسلمانو توه ہندہ خیطرہ اوس اکھ رُت نمونہ پیروی کرنہ خیطرہ ابراہیم
 علیہ السلام بیہ تم با ایمان یم تمں سیت ایمان و طاعتس اندر شریک کار آس یعنی اتھ بارس اندر گوٹھ
 کارن سیت سوی بر تاد کرون یس ابراہیم علیہ السلام تہ تہند یو تابعو کر۔ إِذْ قَالَ الْقَوْمُ لَهُمْ إِنَّا
 بَرَاءٌ وَأَمْنٌكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یلہ تموساروی مختلف وقتن اندر پنہ نس قومس دوپ اس چھ
 بیزار توه نیشہ بیہ یمن ہنزہ توه پرستش کران چھوہ معبود بر حقس ورا ی کَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ابْدَاحَتِي تُوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحَدَاةً اِلَّا
 قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لَآبِيْهِ لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ
 مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاللّٰيكَ اٰنَبْنَا وَاللّٰيكَ الْمَصِيْرُ ﴿۴﴾
 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ابْدَاحَتِي تُوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحَدَاةً
 اسے چھ توہندے توہندیں باطل معبود ہند منکر
 اسے منزہ توہ منزہ عدوات سے بغض زیادہ ظاہریہ عدوات روزہ اسے توہ منزہ ہمیشہ یوتان نہ توہ کنسی
 خدا ایس ایمان انیو نہ پڑھ کریو غرض ابراہیم علیہ السلام سے تہند یوتا جو کفر کافرن نشہ بالکل قطع
 تعلق صاف پاٹھ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لَآبِيْهِ لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لیکن
 ابراہیم علیہ السلام سز سزہ یوسہ تمو فرما پونہ نس ماس یمہ منزہ ننان چھو کہ تمن اوس تس سیت کنہ
 قسمہ تعلق باقی دو پس کہ یومجہ مغفرت چانہ خیطرہ خدا ایس امہ استغفارہ علاوہ چھنہ مہ اختیار خدا ایس
 نشہ کنہ چیز س پیٹھ یہ چھنہ مہ آتھ کہ بو کیاہ کرہ ناوہ یہ دعا ضرور قبول اتہ بیکنہ نہ ہتھ کہ چانہ ایمان انہ
 ورا ی کیا پچراوت بوڑہ عذابہ نشہ یوتوی یوتی اوس ابراہیم علیہ السلام و نمت یمہ اندرہ بعضے لوکن
 مطلق استغفارہ فکرہ تر حالانکہ بتیس چھ استغفارک بدلہ سوگو طلب ہدایت سمیک پر تھ اکس
 اجازت چھونی الواقع چھنہ سو قطع تعلق کرنس خلاف تہ کنہ وریہ پتہ کمر ابراہیم علیہ السلام دعا۔
 رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاللّٰيكَ اٰنَبْنَا وَاللّٰيكَ الْمَصِيْرُ ای سانہ پروردگارہ کافرن اظہار عدوات کرنس اندر
 چھ اس تے پیٹھ توکل کران تھی کن چھ اسی پر تھ معاملس اندر رجوع کران سون اعتقاد چھو کہ
 تے کن چھو سارنی پتولا کہ واٹن اتھ اعتقادس کن نظر کرت یوسہ اسہ کافرن نشہ بیزاری ظاہر کمر سو
 کمر دلہ کہ تھ محض خلوصہ سان کنہ دنیوی غرضہ ورا ی بیہ ہاونہ تہ تھینہ ورا ی رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
 لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ای سانہ پروردگارہ اسہ متہ کرتہ کافرن ہندہ ظلم و تشددک تختہ مشق اسہ کمر ظاہر تھندہ
 باطل دینہ تہ باطل معبودان نشہ بیزاری و سن یوتھنہ تم مچ کسر کڈن اسہ پیٹھ ظلم و تعدی کرنہ سیت
 وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ای سانہ پروردگارہ بیہ کمر اسہ گنہن مغفرت بے شک تہ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهَا آسَؤُهُ حَسَنَةً لِّمَن كَانَ
 يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝
 عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادَبْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً
 وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ

چھک زبردست حکمتہ دول ثلے چھے پرت قسمہ قدرت یم زہ دعاء چھہ پئین دعاء ان ہند غرض و
 غایت اکھ غایت باعتبار دنیا یا اکھ غایت چھو باعتبار آخرت چنانچہ لا تجعلنا اس چھو تعلق دو شوئن سیت
 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهَا آسَؤُهُ حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ بے شک تمن لوکن اندر چھو
 یعنی ابراہیم علیہ السلام تہ تہندین تابعی اندر تو ہندہ خیطرہ (یعنی تنھیں لوکن ہندہ خیطرہ) رُت نمونہ یم
 لوک اعتقاد چھہ تہاوان خدا ائس بروٹھ گن واتوک بیہ قیامتک دوہ قایم سپدنگ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ
 هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ائس شخص یمہ حکمہ نغمہ روگردانی کرہ تس واتہ پائس امیوک ضرر کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو
 بے نیاز تس ہچھنہ پروا نہ چیزک تس منز ساری کمالات جمع آسنہ موکھ چھو سوسر لوار حمد و ثناء سیتھی تس
 چھنہ ضرورت مخلوقن ہندہ عبادتچہ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ مسلمان ہندہ تسلی خیطرہ بطور بشارت اکھ
 پیشین گوئی فرماوان عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادَبْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً یہ کتھہ چھنہ کنہ عجایب
 کہ اللہ تعالیٰ کرہ توہ منزہ بیہ تمن لوکن منز یمین سیت توہ مذہبی دشمنی چھہ دوستی تہ بچک سلسلہ قائم
 تہندہ مسلمان سپد نہ سیت کیا زہ تمن یلہ اللہ تعالیٰ مشرف بشرف اسلام سپدنگ توفیق دیہ دشمنی روزہ
 نہ گنہ وَاللَّهُ قَدِيرٌ یہ چھنہ خدا ائس نغمہ گنہ دور کیا زہ تس چھہ پرتھہ چیزس پیٹھہ بد قدرت چنانچہ فتح
 منک دوہ سپد واریاہ لوک پنے نہ خوشی سیت مسلمان وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ازتان ہر گاہ کانسہ شخص اتھ
 اندر خطا گو مت چھو تہ وئن چھو سوتہمہ خطا نشہ توبہ کران اللہ تعالیٰ چھو تسدہ حقہ سیٹھاہ مغفرت کرہ
 ون سیٹھاہ رحم کرہ ون لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن

تُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑧ إِنَّمَا يَهْتَكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى
إخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑨
يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ
إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهْنَّ لَهُنَّ حِلُّنَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُعْلَمُونَ لَهُنَّ وَاتَّوهُم مَّا

تَبَرَّوهُمْ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ اللهُ تعالیٰ چھنہ توه منع کران تمن لوکن سیت احسان تہ انصاف کر تک
یمونہ دینہ کس معاملس اندر توه سیت لڑائی کر بیہ یمونہ توه گرد منزه نیر کڈوہ تمن سیت احسانک تہ
انصافک بر تاوکرن چھو جایز **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** بے شک اللهُ تعالیٰ چھو انصافک بر تاو
کرہ و نین محبت تہاوان تہ پسند کران **إِنَّمَا يَهْتَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ**
وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ البتہ اللهُ تعالیٰ چھو صرف منع کران تمن کافرن سیت دوستی لاگنہ نشہ یمو توه
سیت دینہ سببہ جنگ کر مت آسہ بیہ یمو توه پنہ نیو گرد منزه نیر کڈوہ بیہ یمو توه ہندس گرد منزه کڈنس
مدد کر مت آسہ **أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ** وکن یم لوک تمن کافرن سیت
دوستی لاگن تم چھ سخت گار تہ ظالم، **يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ**
ای با ایمانو یلہ توه نشہ با ایمان زنانہ دارالحر بہ پیٹھ ہجرت کرت و اتان آسن توه آسیو تمن واقعی مسلمان
آسک امتحان کران، **اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ** جہندہ حقیقی با ایمان آسک پور علم چھو خدا ایسی یوت، **فَإِنْ**
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ پس ہر گاہ توه امتحان کرت معلوم سپد تہوند با ایمان آسن پس
مہ سوز یو کہ تمہہ واپس کافرن کن کیا زہ۔ **لَأَهْنَّ حِلُّنَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُعْلَمُونَ لَهُنَّ** نہ چھ تمہہ زنانہ حلال
تمن کافرن ہندہ خیطرہ نہ چھ تم مرد حلال تمن کافرن زنانن ہندہ خیطرہ، **وَاتَّوهُم مَّا أَنْفَقُوا** اتھ
صور تس اندر نئس مہر وغیرہ تمو کافرو تمن زنانن پیٹھ خرچ کر مت آسہ ہو کر یو توه تمن اد ا۔

أَنْفَقُوا وَالْإِنجَامَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا تَيْتَمَوْنَنَّ أَجُورَهُنَّ ط
 وَلَا تَسْئَلُوا بَعْضَ الْكَافِرِينَ سَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَا
 أَنْفَقُوا ط ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑩
 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَاتُوا
 الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ط وَاللَّهُ الَّذِي
 أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ


وَالْإِنجَامَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا تَيْتَمَوْنَنَّ أَجُورَهُنَّ ط توه چھنہ کا نہہ گناہ تمن زنان سیت نکاح کرنس
 اندر یلہ توه حسب قاعدہ تمن مہر دیو وَلَا تَسْئَلُوا بَعْضَ الْكَافِرِينَ ای مسلمانو توه مہ تہا دیو کافر زنان
 سیت تعلقات باقی کیا زہ تہن زانہ تو ہن زہ دارالحر بس اندر روزہ کفرہ کسی حالتس پیٹھ تہن ہندہ مسلمان
 سپنہ سیت دارالاسلام سن ہجرت کرنہ سیت ژھیون سو نکاح تو ہندون زودنہ باقی تو ہند کا نہہ
 تعلق تمن زنان سیت وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَا أَنْفَقُوا اتھ صورتس اندر نس رقم توه تمن زنان
 ہندس مہرس اندر خرچ کرمت آسہ سو مکیو توه تمن کافر نسہ اتھے پاٹھ یہ تمو خرچ کرمت آسہ
 سو مکن تم توه نسہ۔ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ کینڑاہ بیان آو کرنہ یہ چھو خدا یہ
 سندہ حکم اتھ کریو تعمیل سو معبود برحق چھو اتھی مناسب فیصلہ توه منر کران اللہ تعالیٰ چھو سٹھاہ زانہ
 ون سٹھاہ حکمتہ وول تمی علم و حکمتہ موجب چھو احکام مقرر فرماوان وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى
 الْكُفَّارِ بیہ ہر گاہ توه ازدست گڑھن تو ہن زوانو اندرہ کا نہہ زانہ سوی واتہ کافر نسہ تمہ پتہ سپدہ نہہ
 سہ توه دستیا ب نہ سپدہ توه تموند مہر وغیرہ وصولیابی نس توه تس پیٹھ خرچ کرمت آسہ فَعاقِبْتُمْ تو
 پتہ ایہ توه تمن کافر نسیت جنگ کرنگ موقع تو پتہ کریو توه تمن نشہ مال غنیمت وصول فَاآتُوا
 الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا پس دیو توه تمن مسلمان اہن زہ زانہ ازدست گیہ تمہ مال
 غنیمتہ پیٹھ تیوت رقم یوت تمن خرچ گو مت آسہ تمن زنانس پیٹھ وَاللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا
يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعُهُنَّ
وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

بیہ کھوڑیو تہس خدایس نیس توہ پڑھ کر مڑ چھو جہندین کھن اندر مہ تراویو عنہ قسمہ خلل امہ پتہ چھو اللہ
تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرت فرماوان **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ مِنَ النِّسَاءِ أَوْلَادٌ فَبَايَعْنَهُنَّ** ای
پیغمبریلہ مسلمان زنانہ توہ نشہ یمہ غرضہ خیطرہ حاضر سپدن کہ تمہ کیاہ کرن توہ سیت بیعت یمن کھن
پیٹھ **عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ** کہ شریک ٹھہراون
نہ تمہ معبود برحقس کا نہہ چیزاہ بیہ کرن نہ ژور بیہ کرن نہ فسق و فجور یعنی زنانہ بد کاری بیہ مارن نہ
پنہ نین اولادون۔ **وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ** بیہ ٹھہراون نہ اپڑ اولادیس
بنو مت آہہ تمہو پنہ نین انھن تہ کھورن منز باگ یعنی بچہ آسکھ حاصل کر مت فسق و فجور کرت بے
سندی سوی لاگن خاوندس گن یا بیس زنانہ ہیوند اولادان فند فریب کرت سوی لاگن پانس گن حدیث
شریفس منز چھو کہ یس بے سند بچہ لاگہ پانس گن یا بیس پنہ نس مالس و رای لاگہ پنون پان بیس شخصس
گن تس پیٹھ چھو جنت حرام **وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ** بیہ کرن نہ توہنز نا فرمانی تہ مخالفت شرعہ کس گنہ
کھمس اندر اتھ آسے ساری احکام شریعت یس ہر گاہ تمہ زنانہ یمن شرطن قبول کرن یمن ہیوند
اعتقاد شرط ایمان چھو یمن پیٹھ پابندی سان عمل کرن شرط کمال ایمان چھو **فَبَايَعُهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ**
لَهُنَّ اللَّهُ تلہ کرہ ناویوکھ تمہ زنانہ بیعت بیہ مہجو تہندہ خیطرہ اللہ تعالیٰ اس مغفرت **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ**
رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو سٹھاہ مغفرت کرہ و ن سٹھاہ رحم کرہ و ن یعنی یلہ تمہ زنانہ یم احکام زانن
پنڑ تہ واجب العمل تلہ زانیوکھ تمہ زنانہ مسلمان بیوی گو بیعتک آہہ کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ
یلہ کا نہہ زنانہ بیعت کرنہ خیطرہ حاضر سپدن اس تس اس اتھ مضمونس پیٹھ اقرار کرہ ناوان بیعت کرنہ

امَنُوا لَاتَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُوْا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ ۝۱۳

وزہ اوسنہ کانہہ زنانہ ہیوند اتھ لگان تہندس دست مہار کس سیت یمہ بروئٹھ آیات کر یکن منز فرماو اللہ تعالیٰ ان ممانعت مطلق کافرن سیت دوستی ہیوند تعلق تہاونہ نغمہ امہ پتہ چھو فرماوان ممانعت یہودن سیت دوستی ہیوند تعلق تہاونہ نغمہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُوْا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ** اے باایمانو تمئن لوکن سیت تہہ تہاویودوستی ہیوند تعلق یکن پیٹھ اللہ تعالیٰ ان غضب فر موویعے یہود یکن ہنز کثرت مدینہ منورس منز آس تم چھہ آخرتہ کہ ثواب ذخیرہ نغمہ نامید تہ مایوس اتھ پاٹھ کافر تم قبرن اندر دفن چھہ کرنہ آمت چھہ آخرتہ کہ خیر و ثوابہ نغمہ مایوس تہ نامید کیازہ قبرن اندر واتھ چھو کافرن عالم آخرتک معاینہ سپدان یقین ہجھک سپدان کہ سانہ خیطرہ نجاتچ کا نہہ صور تھاہ جھنہ اتھہ پاٹھ اوس یہودن پور یقین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھہ بے شک پیغمبر آخر الزماں مگر دیدودانستہ آس انکار کران لہذا چھہ یہودن تہ کافرن ہنز حالت نجات نہ لینس اندر کسئی۔



وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمٍ لِمَ تَأْتُوا بِنَبِيٍّ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا

کارت ناگ تراوند آمنت دیوار ہی صفو منزہ چھنہ اورہ یور ڈلان تہ پتھ نیران توہے چھوہ ونان کہ اسے معلوم سپدہ ہاساروہ عملواندرہ کوسہ عمل چھہ زیادہ ٹاٹھ اللہ تعالیٰ اس امہ چھہ ییہ عمل جہاد کرن خدایہ سنزہ وتہ اندرادہ کیازہ اوس توہ پیٹھ شاق گذران یلہ جہادک حکم نازل سپدان اوس بیہ کیازہ ژبے وہ جنگ احدس منز اتھ چیز کر تھ ورن یہ ونن کہ اسے معلوم سپدہ ہا احب الاعمال کوسہ چھہ اس تہ کرہ ہوسہ عمل یہ چھو ژھوروی دعویٰ ای یوت اتھ پیٹھ چھوہ نہ توہ عمل کر مژ کافر چھہ مستحق قتل و قتال تہ جنگ وجدال امی موکھ کہ تم چھہ پروردگارہ سندین آیاتن اپڑ زانان پیغمبرن ہنز مخالفت کران تمن ایذاء تہ تکلیف وانہ تاوان اتھ مناسب چھو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بیہ عیسیٰ علیہ السلام سند قصہ بیان فرماوان **وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمٍ لِمَ تَأْتُوا بِنَبِيٍّ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ** سو وقت تہ چھو قابل ذکر یلہ موسیٰ علیہ السلامن فرمود پنے نس قومس ای میانہ قومہ مہ کیازہ چھوہ توہ ایذاء دیوان حالانکہ توہ چھو معلوم کہ بوچھس خدایہ سندہ طرفہ توہ کن سوزنہ آمنت پیغمبر **فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** پس یلہ تم فہمائش کرت تہ ہجر سئی پیٹھ رود ایذاء و مخالفت رود بدستور کران اللہ تعالیٰ ان تہ ڈال تہندہ دل ہمیشہ خیطرہ پوز قبول کرنہ نشہ ہنہ زیادہ اتھ پاٹھ نافرمانی پیٹھ مداومت تہ ڈاڈ کرنہ سیت چھہ دلچ سیاہی زیادہ سپدان اللہ تعالیٰ سند دستور چھو کہ سوچھنہ اتھین نافرمانن سیزو تھ ہوان اتھہ پاٹھ چھہ ازک کافر حضرت رسول کریمؐ سز پر تھہ رنگہ مخالفت کران ایذاء وانہ تاوان تمن تہ چھوروز بروز گمراہی تہ حدس اندر ترقی سپدان پس آو عالمہ نشہ فساد تہ تباہی گالہ خیطرہ مصطحا تمن جہاد و قتالک حکم کرنہ **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ** اتھہ پاٹھ چھو سو وقت تہ قابل ذکر یلہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلامن فرمووا

بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
 هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ
 يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ يُرِيدُونَ
 لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

بنی اسرائیل بو جھس خدایہ سند پیغمبر توہ کن سوزنہ آمت تصدیق کرہ ون جھس بو تھہ کتابہ یوسہ مہ
 برو نھہ نازل آمر چھہ کرنہ یعنی تورات وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ بیہ جھس بو خوش
 خبری تہ بشارت دیوہ ون اکس عظیم الشان پیغمبر سنزئیس مہ پتہ تشریف لہ نام مبارک تہوند آسہ احمد
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ پس یلہ عیسیٰ علیہ السلام تمن رشہ یم مضامین بیان کرت پینہ نہ
 نبوتہ کہ اثباتہ خیطرہ نہہ دلیلہ ہیت آی تم لوک لگ ونہ نہ تمن دلیلان تہ معجزان نسبت کہ بیہ چھونون تہ
 صاف جو دیعے تھندس نبوتس لگ تکذیب تہ انکار کرنہ اٹھہ پاٹھہ عیسیٰ علیہ السلامس پتہ یلہ پیغمبر
 آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمو تشریف ان تمہ ساتہ لگ موجودہ عربک کافر تمن
 انکار و تکذیب کرنہ بیہ لگ تمن ایذاء تہ تکلیف وادہ نادنہ بیہ گو ظلم عظیم امہ ظلمک مہلک اثر وادہ نگ
 خطرہ اوس بین لوکن تہ سو خطرہ دور کرنہ خیطرہ آو مصلحتا جہادک حکم کرنہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى
 اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ بیہ کوہ اکھاہ چھویش ظالم تس شخصہ سندہ خوتہ ئیس اللہ تعالیٰ اس
 پیٹھہ اپز نور اوہ حالانکہ تس چھوناد عوت یوان کرنہ دین اسلامس کن نبوتس تکذیب تہ انکار
 کرنوی گو اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ اپز نور اون تھہ اللہ تعالیٰ ثابت چھو کران تھہ کرن نفی ہیتہ نفی
 چھو کران تہ کرن ثابت یسوی گو خدا یس پیٹھہ اپز نور اون زیادہ افسوسناک تھہ چھہ کہ تس چھونادہ تہ یوان
 دنہ اسلامس کن توتہ جھنہ سو تھہ کن توجہ کران بیہ گو زیادہ ظالم لاگن وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ
 تعالیٰ جھنہ ظالم قومس کامیابی تہ نجاست کن و تھہ ہاون امی خیطرہ جھندہ خیطرہ سزای قتالی تجویز کران
 اللہ تعالیٰ دیہ پزس غلبہ باطل سپدہ مغلوب یُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یم کافر چھہ یش بان خدایہ
 سند نور تھہہ کرن پینہ نیو چانیوسیت پھو کہ دت یعنی تم چھہ تھہہ تھہہ کرنہ بیہ ان یوسیت دین جھس

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۙ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّبُكُمْ مِّنْ عَذَابِ إِلَهِكُمْ ۙ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ ﴿١٠﴾ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۙ ﴿١١﴾

فروغ سے ترقی سپدہ بانہ وَاللّٰهُ مِمَّنْ نُّورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكُفْرُونَ حالانکہ اللہ تعالیٰ چھوپنے نس اتھ نورس بہر حال پورہ کران سے کمال سے وائے ناون یژھان اگرچہ کافرن ای تن سے ناخوشی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ چنانچہ سو معبود برحق گو سوی یم امی اتمام نورہ خیطرہ سوزہ پن پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایتک سامان یعنی قرآن مجید ہیست بیہ پوز دین یعنی دین اسلام ہیست دنیاءس کن یو تھ اتھ دینس باقی تمام دینن پیٹھ غلبہ دیہ ای گوا تمام نور کرن ادہ ای تن مشرکن ناخوشی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّبُكُمْ مِّنْ عَذَابِ إِلَهِكُمْ ای با ایمانو کیا بوماہوہ توہ تیو تھ کاروبارہ تژھ سوداگریاہ تیو تھ تجار تھاہ ئس توہ نجات دیہ سے بچاودہ اکہ دردناک عذابہ نشہ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ سوگوہی کہ توہ انیو ایمان بیہ کریو پڑھ کنس خدایس بیہ ہندس پیغمبرس بیہ کریو جہاد خداہ سنزوہ اندر مال پئن خرچ کرنہ سیت سے جان پئن فدا کرنہ سیت ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ چھو توہندہ خیطرہ سٹھاہ رت ہر گاہ توہ زاہمیو یلہ توہ بیہ کریو يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ تعالیٰ کرہ مغفرت توہندس گنہن بیہ وائے ناوہ توہ جنتہ کین تمسن باغن اندر یوبون کن کولہ سے نہرہ جاری آسن بیہ بساودہ توہ تمسن رتین گرن اندر یم گرہ سے مکان ہمیشہ پو شہ و نمین باغن اندر بنا کرنہ آسن آمت یے گیہ ہڈ کا میابی سے رستہ گاری۔ وَأَخْرَجْنَا نَصْرَ مِنَ اللَّهِ وَقَوْمَهُ قَرِيبًا

وَأُخْرَىٰ مُجِبُّونَهَا نَصْرَ مَنِ اللَّهُ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ
اللَّهِ فَأَمَّنْتَ طَلْحِيفَةَ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَلْحِيفَةَ
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿۱۴﴾

وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بیه چھ امہ آخروی کامیابی علاوہ توہندہ خیرہ بیاکھ دنیوی کامیابی یوصہ جلدی پنہ نہ
مؤکھ توہ پسندتہ محبوب چھ سہ گیہ پروردگارہ سندہ طرفہ یاری تہ مددگاری بیہ نزدیک فتحیابی ای پیغمبر
برحق توہ فرما یو یمن سارنی چیزن ہنز بشارت تہ خوش خبری با ایمان امہ خوشخبری ہیوند ظہور سپدان
اولی کین مسلمان سیت تیج سارنی خبر چھ از کہ وقتہ تی مسلمان وژہہ وآنجہ صحیح معین اندر ایمان تہ
جہاد فی سبیل اللہ اس اندر قائم روزن تہندہ خیرہ تہ چھ فتح و نصرت پر تھہ وقتہ سیت سیت امہ پتہ چھو
اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سندین حوارین ہیوند قصہ بیان کرت با ایمان دینس مدد کر نگ ترغیب
دیوان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ** ای با ایمانو توہ سپدیو پروردگارہ سند دینک مددگار تمہ طریقہ
ئس توہندہ خیرہ مقرر کرنہ آمت چھو سو گو جہاد اتھ پاٹھ حوارین پنہ نہ طریقہ موجب دینک
مددگار سپدیہ عیسیٰ علیہ السلام بکثرت دشمن و تلٹھہ اکی **كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ
أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ** تمہ پتہ اتھہ پاٹھ عیسیٰ علیہ السلام فرموو حوارین
کہ میون مددگار کوہہ خدایہ سندہ رضا خیرہ توہ اندرہ حواریو پ اس چھ خدایہ سندہ دینک مددگار
چنانچہ تمو حواریو کر پنہ ئس دینس مدد تمہ کہ اشاع کر کہ پور کوشش تمہ تہزہہ کوششہ پتہ **فَأَمَّنْتَ
طَلْحِيفَةَ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَلْحِيفَةَ** پس ان ایمان بنی اسرائیلو اندرہ بعضے لوکو بعضے لوک رود
کفر سی پیٹھ تو پتہ سڈ تمہ منز مذہبی اختلافہ سببہ عداوت تہ خانہ جنگی **فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ
عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ** پس کراسہ مدد تمواندرہ با ایمان تہندین دشمن پیٹھ پس سپد تمے غالب
تھے پاٹھ کر یو توہ تہ دین محمدی خیرہ کوشش تہ جہاد ای با ایمان مسلمانو۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ
 الْحَكِيمِ ۱ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
 وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلِيلٍ
 مُّبِينٍ ۲ وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۳ ذَلِكَ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللہ تعالیٰ سزپاکی چھ بیان کران تم
 ساری چیزیم آسمان اندر چھہ بہ تم ساری چیزیم زمین منز چھہ سوی چھو بو پادشاہ منزہ تہ پاک ساروی
 عبودتہ سوی چھو سٹھاہ زبردست سٹھاہ حمتہ وول، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
 وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سوگو سوی پروردگار یم عربہ کین ان پر لوکن کن سوز پیغمبر جہندی
 قومہ منزہ یعنی عربی نُس پیغمبر پران تہ بوزہ ناوان چھو تمن اللہ تعالیٰ سند آیات بہ چھک باطل عقاید و
 نشہ پیچھ اخلا قونہہ پاک کران بہ ہچھک چھہ ناوان خدایہ سز کتاب بہ عقلہ ہنزہ تھہ ہتھہ منز ساری
 علوم دینیہ شامل سپد وَلَنْ كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ تم لوک آس جہندہ مبعوث سپد نہ برو تھہ نہ
 گمراہی اندر یعنی شرکس تہ گمراہ اندر مبتلا، وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بہ سوزن
 یمن از کین لوکن علاوہ یمن لوکن کن تہ پیغمبر یم نہ ونہ تمن سیت شامل سپد مت چھہ یایمہ موکھ کہ ونہ
 ہچھہ تموا سلام اُمت یایمہ موکھ کہ ونہ ہچھہ تم پیدے سپد مت اتھہ منز آئی جہندی ساری اُمتی یم
 قیاس تان پیدہ سپد ون ہچھہ عربک تہ ہچھک تہ سوی پروردگارہ چھو زبردست حمتہ وول تمی سوز پنہ نہ
 قدرت و حمتہ سیت یوتھہ جلیل القدر پیغمبر۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ تمس پیغمبر برحقہ
 سندہ ذریعہ کفر و شرکچہ گمراہی منزہ کڈن کتاب و حکمت تہ ہدایہ کس نورس کن واتہ ناؤن یہ چھو خدایہ

فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳﴾ مَثَلُ
 الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كَفَرُوا هُمْ كَمَا كُنْتُمْ الْجَاهِلِيَّاتِ حَمَلُوا سَفَارًا
 بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ﴿۴﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ

سند بوڈ فضل سولیس یرشان چھو تس چھویہ فضل عطا کران وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ
 چھو بوڈ فضلہ دول ہر گاہ سوسار نی فضل پنون عطا کرہ تمس دس فضلس منز کی چھنہ مگر سو چھو پنہ نہ
 حکمتہ سیت یس یرشان تس عطا کران یس یرشان تس محروم کران چنانچہ ناخواندہ یعنی ان ہر جماعت
 تمن کران پنون فضل عطا تموان ایمان یهود و اندرہ عالمن تہ پر متین ہنز جماعتہا تم سپد محروم امہ فضلہ
 نِسْمِ مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كَفَرُوا كَمَا كُنْتُمْ الْجَاهِلِيَّاتِ حَمَلُوا سَفَارًا مثال تمن لوکن ہنز یم تلنا ونہ
 آی تورات یعنی یمن حکم آیو کر نہ تورات موجب عمل کرن تو پتہ تلنہ تمو سو یعنی تمہ موجب
 کر کھنہ عمل چھ تس کھرہ سنز مثال یم کتابن ہیوند یور تلمت آسہ تھر پیٹھ مگر تمن کتابن ہندہ نفعہ نِسْمِ
 آسہ محروم اتھن پاتھ چھو اصل مقصد علمہ اندرہ عمل صرف تحصیل کرن تہ حفظ کرن محنت کرن کتھ
 آیہ بکاریلہ نہ عمل آسہ کھرہ سنز مثال آیہ بیان کرنہ امی موکھ کہ کھر س برابر چھنہ جانور و اندرہ کانہہ
 تہ بے وقوف امہ سیت سپزیہ ہن رٹ بے عمل عالمن ہنز بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
 سٹھاہ بچھ مثال چھ تمن لوکن ہنز یمو اپوزانت انکار کر خدایہ سندین آیاتن، آتھہ پاتھ یهود کدر وَاللَّهُ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ چھنہ اُتھن ظالمن ہدایتک توفیق دیوان یهودن اندر آسہ تھن
 ظالم کہ کتاب آس پران دلن اوسکھنہ کنہ تہ اثر سپدان کیازہ تم آس زانت کرت نبی آخر الزمانس
 نسبت حسد تہ عناد کران تمن ہر گاہ توراتچ پڑھ آسہاتلہ کرہ ہن تمہ موجب عمل سو عمل کرن گیو
 کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم انہ ہن ایمان پس تھوند ایمان نہ ان چھو مستلزم توراتہ موجب عمل
 نہ کرنس اگر امہ باوجود تم ونن کہ اس چھ پروردگارہ سند مقبول بندہ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ

مِنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَوُّا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۶﴾
 وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۷﴾
 قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ
 إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸﴾ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ
 ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹﴾ قَاذَا

زَعَّمْتُمْ أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَوُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ توه فرماو یو کہ یار رسول اللہ
 ای یہو دود ہر گاہ تو ہند دعویٰ چھو کہ تویی کیا چھو اللہ تعالیٰ سند دوست ساروی لو کو اندرہ تلہ کر یو توه امہ
 دعویٰ کہ تصدیقہ خیرہ موتیک تمنا ہر گاہ توبہ اتھ دعویٰ اس اندر پزیر چھو، وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَبَدًا بِمَا
 قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ اس چھ توه اتھ سیت، ایتہ وان کہ تم کرن نہ زانہہ تہ موتیک تمنا تمن چھ نٹھ
 تمن کا میں ہندہ سزاء کھنچیمہ کامہ تمورونٹھ کن سوزہ مڑہ چھ کفر وانکار و عناد وغیرہ۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِالظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ اس چھو پور علم یمن ظالمین ہندہ حالک یمہ سائہ مقدمک تاریخ و اسٹھ قیامتک
 دودہ فرد جرم بوزہ ناو تھہ ایکھ سزاء دنہ تمہ سزاء کہ وعدہ کہ تائیدہ خیرہ، قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي
 تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فرماو یو کہ توه یہ تھہ نہ کہ یمہ موتہ نشہ
 توه ژلان چھوہ سوموت سمکھ توه ضرور کہ تہہ اکہ دوہہ توپتہ اُیو توه واتہ ناوہ تس پروردگار سٹھہ لیس
 سوروی پوشیدہ تہ تن زانہ دن چھو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ توپتہ باوڈہ سوتہ سوروی یہ توه کران
 آسوہ دنیا س اندر تھی موجب دیوہ سو توه سزاء۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ
 الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ای با ایمانویلہ بانگ آسہ دنہ یوان نمازہ خیرہ جمعہ کہ دوہہ جمعہ
 نمازہ خیرہ تان آسیو فوراً لارن ہیوان توه خدایہ سندس یادس گن یعنی نماز پرنس تہ خطبہ یوزنس گن بیہ
 آسیو خریدو فروخت کرن یک دم تراوان بیہ تمہ سارے کامہ تراوان یمہ پتھہ رٹہ ونہ آسن ادای جمعہ

تُضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
 لِنَفْسِهِمْ فَلْيَرَوْنَ إِلَىٰهَا وَانزُكُوا قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ
 اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱﴾

نہشہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون سارے کامے تراوت جمعہ نماز ہندوی سز کرن چھو تو ہندہ خیطرہ زیادہ بہتر ہر گاہ توہ خبر آسہا کیا زہ امیوک نفع تہ فائدہ چھو پوشہ ون خرید و فروخت وغیرہ کا میں ہیوند نفع چھو فانی تہ نہ پوشہ ون وَإِذَا تَضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پس یلہ نماز جمعہ موکلان آسہ یعنی توہ آسیو تمہ نفعہ فارغ سپدان پس نیریو تہ پھیر یوئس یو کن گوہن آسہ سو گوہن توکن بیہ ژھانڈ یو تہ تلاش کریو خدایہ سندر زق مگر غفلتس منز مہ روز یو بلکہ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اتھہ حالس منز تہ کریو خدایہ سند یاد بکثرت یو تھہ تمہہ برکتہ توہ رزق ژھانڈ نس اندر کامیاب سپدیور نہ چھو بعضے لوکن ہیوند حال کہہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا لِنَفْسِهِمْ وَانزُكُوا قَائِمًا تم یلہ و چھان چھہ کا نہہ تجارت یا سو چیزئس بیس طرفن کن ڈالان چھو تان چھہ تھہ طرفس کن دوران توہ چھہ تراون و تھہ فی خطبہ پر نہ کس حالس اندریہ چھو اتھہ پاٹھ واقع سپد مت کہ اکہ جمعہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پر ان تھی وقتہ آونبرہ پیٹھہ اکھ تجارتی قافلہ غلہ ہیئت تھہ قافلہ سیٹ او س اعلان کرنہ خیطرہ نقارہ و اینہ یوان تمن دہن آس اتھہ شہرس اندر اناج کمی یم لوک نماز جمعہ شامل سپد نہ خیطرہ آمت آس تم آس خطبہ بوزان تمہ وقتہ او س نماز جمعہ منز تہ عید ہند پاٹھ خطبہ پتے یوان پر نہ لو کو آس نماز پر مژون آس تم خطبہ بوزان اتی پک نہر کن یہ قافلہ ڈنڈم و ایان لو کو کور خیال کہ نماز چھہ ادا کر مژہر گاہ خطبہ بوزننے اس و تھو تھہ آسنہ کا نہہ حرج اتی و تھہ لوک تہ درای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن سیت رود صرف باہے صاحب یمن منز چہار یار صفا تہ بیہ کینہہ صاحب آس تھی ساتہ سپدیہ آیہ کریمہ نازل قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ توہ فرما یو کہ یار رسول اللہ لیس چیز اللہ تعالیٰ اس نفعہ باعث ثواب تہ قرب چھو سو چھو امہ تماشہ خوتہ تہ امہ تجارتہ خوتہ بدر جہا بہتر افضل بیہ چھو اللہ تعالیٰ ساروی اندرہ بہتر روزی تہ رزق عطا کرہ ون۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا شَاهِدُونَ لَكَ بِمَا عَمِلْتُمْ سِرًّا وَكَفًّا وَكَانُوا يَعْلَمُونَ
 إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝۱ اتَّخَذُوا
 آيَاتِهِمْ حِجَّةً وَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ هُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۲

اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا شَاهِدُونَ لَكَ بِمَا عَمِلْتُمْ سِرًّا وَكَفًّا وَكَانُوا يَعْلَمُونَ
 یہ توہ نشہ منافق یوان چھ دپان چھ اس حص چھ دلہ
 سیت گواہی دیوان کہ توہ چھو بے شک پیغمبر خدا یمن آیات کر یمن ہیوند شان نزول چھو کہ اس
 جگس اندر سپز انصارن تہ مہاجر ن منز ہر ہ ہش تھ اندر لگ منافقن ہیوند زیوٹھ عبد اللہ بن ابی
 اشتعاس منزونہ نہ انصارن کہ توہ چھو کہ یم پردلیسی لوک ژوچہ کھیا وکھیا و خراب کر مت تہ بھن
 کھالت و ن یلہ مدینہ شریفس منز و اتو توہ کریو یمن مہاجر ن خرچ دیون بند یم نیرن پانے ننگ سپت
 یمہ شہرہ منزہ تہ پنہ نین ملکن ن گوھن بیہ لگ وننہ کہ اس چھ عزتہ وال یم ذلت لد لوک کڈو کہ اس
 پنہ نہ شہرہ منزیہ تھ امس منافقہ سنز بوز صحابہ صیواندر حضرت زید بن ار قمن تم آی تہ کر کہ عرض
 حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس غد قس اندر تموان نادوت ابن ابی تہ بیہ تمسد ہم خیال
 منافق تو پتہ ہر ژھبک توہ آسوہ یمہ قسچی تھہ کر ان تم لگ قسم ہا واد صرتح انکار کرنہ زید بن ار قمن گذر
 یو و سٹھاہ مشکل اھوند انکار کرن تھہ موقعس پیٹھ سپد یم آیات کر یمہ نازل وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ
 اللہ تعالیٰ اس چھہ یہ تھہ معلومی کہ توہ چھوہ تسد پیغمبر وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ باوجود آن
 چھو اللہ تعالیٰ گواہی دیوان کہ یم منافق چھہ یہ ونہ نس اندر بالکل اپز زیر کہ اس چھہ دلہ سیت گواہی
 دیوان کیا زہ تہنز سو گواہی چھہ محض زیوہ سیت دلہ کہ اعتقادہ نہ کینہہ تہ۔ اتَّخَذُوا آيَاتِهِمْ حِجَّةً وَصَدُّوا
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یمولو کو چھو قسم ہاون کر مت اھ سپراہ پنون مال و جان بجانہ خطیرہ کیا زہ اظہار
 کفرہ سیت بنہ تہنز حالت تہ بین کافرن ہنز ہش یمن سیت تہ ایہ ہاجہاد کرت قتل و غارت کرنہ تو پتہ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝۳
 وَاِذَا رَاٰتِهِمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ۗوَ اِنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا لَقَوْلَهُمْ كَاَنَّهُمْ
 خُشْبٌ مُّسْنَدَةٌ يَّحْسِبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۗهُمُ الْعَدُوْۗءُ فَاحْذَرُوْهُمْ
 قَاتِلْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ اِلٰى يُوْفِكُوْنَ ۝۴ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلٌ

پھو اہنزہ اتھ لازمی خرابی سیت بیا کہ متعدی خرابی تہ کہ تم چھہ بین لوکن تہ خدایہ سزہ و تہ کن بینہ نشہ
 پتھ رمان اَنَّهُمْ سَامًا کَا نُو اَیْعَلُوْنَ بے شک اہنزہ کامہ چھہ سٹھہ خراب ، ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ
 کَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ تم نسبت یہ کھم چھو بیٹھ کن نظر کرت کہ تمولو کو ان
 ظاہرہ پاٹھ گوڈہ ایمان تو پتہ یلہ پنہ نین شیطان نشہ گئے سترہ کرکھہ بیہ گھر چہ کامہ اتھ کن نظر کرت
 آو حکم کرنہ اَنَّهُمْ سَامًا کَا نُو اَیْعَلُوْنَ یعنی اہندس نفاس کن نظر کرت امی نفاقہ کہ سبہ آیہ
 تہندین دلن پیٹھ مہر کرنہ پس بھنہ تمں ہنز کتھ فکرہ تران وَاِذَا رَاٰتِهِمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ بیہ چھہ تم
 ظاہرہ پاٹھ پچھہ تہ مدرہ کتھ کران چنانچہ یلہ تہ ڈھچھہ ہک تم ظاہری شان و شوکت تہ قد و قامت و چھت
 بیے بوزنہ تم تہ جان تہ دل پسند وَاِنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا لَقَوْلَهُمْ بیہ یلہ تم تھہ بین کرنہ سٹھہ فصاحتہ تہ شیرینی
 سبہ روزک تہ گن دارت تھوند کلام بوزنہ مگر یہ سوروی چھو نبر نبوی اندرنہ حقیقتاہ کنہ تہ تمی چھو تھوند
 حال ، کَا نُوْهُمْ خُشْبٌ مُّسْنَدَةٌ زن تم مؤنڈ چھہ بہ سیت ڈھکراوت آمت تھاونہ تہہ و توش اندر
 جان موٹ موٹ مگر اندرہ بے جان چونکہ ایمان و اخلاصہ نشہ چھہ تم بالکل خالی امہ سبہ چھک پر تھہ
 وقتہ اندیشہ تہ خطرہ روزان کہ مسلمان ماسدہ سون حال معلوم کانہہ شخصہ سندہ اطلاع دنہ سیت یا اسہ
 متعلق وحی نازل سپنہ سیت تم نیرن امہ سیت تہ کافرن ہند پاٹھ جماد کرنہ امی خیالہ موکھ چھکھہ پرت
 وقتہ ٹھہ تہ تھر آسان تمی سبہ چھہ یَحْسِبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ پر تھہ مشورہ تہ کریکہ وزہ ادہ آستن
 سویہ سبہ مگر تم چھہ خیال کران آیہ ماسی کانہہ بلا یاہ و کرت هُمُ الْعَدُوْۗءُ فَاحْذَرُوْهُمْ حقیقتس اندر چھہ
 تے تو ہند دشمن لہذا بچو تمں نشہ ہشیرار روز و پور تہنز کنہ کتھ پیٹھ مہ آسیوا اعتماد کران قَاتِلْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ اِلٰى
 يُوْفِكُوْنَ اللہ تعالیٰ گارن تمں کو تہنا چھہ دین حق تر و اتھہ دور ژلان تہندہ پیچر و شرارتچ کیفیت چھہ

اللَّهُ لَوَارِئُ وُجُوهِكُمْ وَرَأَيْتُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۝ وَإِلَهُ خَزَائِنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝ يَقُولُونَ لَبِئْسَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَبِئْسَ الْآخِرُ مَنِ الْأَذَلُّ ۝ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّسُولُ ۝


یہ کہ واذا قبل لهم تعالى استغفر لكم رسول الله لو وارئ ووجوهكم يله وند چھو یوان تمن کہ پھیو ایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ تم مگن مغفرت خدا بس تو ہندہ خیطرہ تم چھ یہ بوزت ہنن کلہ پھران انکار کرنہ کس اندازس منز، ورايتهم يصدون وهم مستكبرون توہ وچھو کہ تم کہ تم چھ نصیحت کرہ ولس نشہ بو تھ پھران تکبر کرت تہندہ کفرج حالت یلہ امہ قسچ چھ سواہ علیہم استغفرت لهم امر لم تستغفر لهم لہذا چھ تہند حقہ دوشوئے تھ برابر خواہ توہ تہندہ خیطرہ مغفرت مگنوا متہ مگنوا، لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ تعالٰ کرنہ ہر گز تمن مغفرت اِن اللہ لا یھدی القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالیٰ چھند آتھن نا فرمان لوکن ہدایتک توفیق دیوان هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا یم گئے ناتے یم ونان چھ کہ توہ مہ کر یو یمن مہاجر ن پیٹھ کنہ خرچ تا اینکه تنگ دست پدت ژلن یم پانے یمہ شہر منزہ یہ ون یہوند چھو محض جہالت کیا زہ یکن چھند خبر کہ وِلَّاهُ خَزَائِنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ خدایہ سندی چھ آسان تہ زمین ہند ساری خزانہ لیکن منافقن چھند فکرہ تران يَقُولُونَ لَبِئْسَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَبِئْسَ الْآخِرُ مَنِ الْأَذَلُّ یم منافق چھ ونان اتہ کہ اس یلہ مدینس منز واپس واتو توت واتھ کڈہ ضرور عزتہ دول شخص ذلیل شخص یعنی اس کڈو کہ یم پردیسی لوک پنہ نہ شہرہ منزہ نیر یمن و موندہ اس بسنہ پنہ نس شہر س منز ہنن پان کر کہ عزتہ وال مسلمان مہاجر کر کہ ذلتہ وال اتہ نو کہ محض جہالتہ سببہ ، وِلَّاهُ الْعَزِيزُ الرَّسُولُ ۝

وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّكِنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ^۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ^۹ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ آجِلٍ

وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّكِنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ بلکه چھو عزت خاص اللہ تعالیٰ اس بالذات بیہ تہندس پیغمبرس بواسطہ تعلق باخدا بیہ چھو عزت مسلمانن بواسطہ تعلق باخدا اور سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مگر منافق چھنہ زمانا بیہ کتھہ بلکہ چھو تمن نشہ عزتگ دار و مدار فانی تہ ناپایدار چیزن پیٹھ حضرت زید بن ار قمن یلہ اس عبد اللہ بن ابی سزہ بیمہ کتھہ بوز تم آی در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموانہ نوو سواد تھہ تو پتہ پڑھہ ہس تم کر قسم ہاوت صرح انکار لو کو ہست زید بن ار قمن دن طعنہ بیہ لکھہ کرنہ ٹسہ تم سپد شرمندہ تہ تادم اتی یلہ سپدیم آیات کریمہ نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود زید بن ار قمن کہ خوش روز چون پوز پزودو اللہ تعالیٰ ان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** ای باایمانو توه مہ کرن آور تہ غافل مال تہ اولاد تو ہند یعنی دنیا خدایہ سندہ یادہ نشہ تہ طاعتہ نشہ یعنی دینہ نشہ مراد چھو کہ دنیا س اندر مہ بڈیوتیوت کہ دینہ چن کاہن اندر سپد پوہ خلل واقع، **وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ** ٹیس اکھاہ تہ کرہ تم لوک سپدن ناکام تہ تاوان زد کیاہہ دنیا ک نفع تہ فائدہ چھو سورہ ون تہ خم گوہ ون آخر تک ضرر چھو ہمیشہ روزہ ون طاعات و عبادتو اندر ہتھہ اکھ عبادت مال خرچ کرن خدایہ سزہن وتن اندر **وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** لہذا کر یو خرچ تمہ مالہ اندر ٹس اسی توه عطا کرمت چھو خدایہ سزہن وتن اندر توه اندرہ کانہہ مرنگ وقت واتتہ بروٹھہ **فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ آجِلٍ قَرِيبٍ** تمہ ساتہ لکھہ دینہ حسرت و تمننا پٹھہ ای میانہ پروردگارہ مہ کونہ دژا ہتھہ ژہ مہلت تہ فرصت بیہ کنہ کالہ تان **فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ مِنَ الصّٰلِحِينَ** تااینکہ یو تہ کرہ ہاصد قات و خیرات بیہ ہنہ ہاوتہ نیکو کارواندرہ مگر

قَرِيبٍ لَّا فَاصِدًا قَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۰ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۱

تمسندیہ حسرت و تمنا کرن دیہ نہ تس کا نہہ فاندہ کیازہ و لکن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اللہ
تعالیٰ چھنہ کانسہ اکس مہلت دیوان یلہ عمر ختم سپدنس پیٹھہ تسمندہ مرنگ وقت واتان چھو واللہ
خبر پبما تعملون اللہ تعالیٰ اس چھہ پور خبر تمہ ساریجی یہ توہ کران چھوہ۔



سُورَةُ التَّجَابُثِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ② وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ
وَالِيَهُ الْمَصِيرُ ④ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدایہ سنزپاکی چھ بیان کران تم ساری چیزیم آسمانن اندر چھ
بیہ یم چیز زمین اندر چھ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تهنزی چھ سلطنت بیہ شون
تس ساری تعریف بیہ چھوسوی پر تھ چیزس پیٹھ قدرتہ وول تمس یلہ اتھ کمالک صفت چھ لہذا
چھ تهنز اطاعت واجب بیہ چھ تهنز نافرمانی تہ معصیت بیچھ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ
مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ سوگو سوی ذات پاک یم توه ساری پیدہ کریوتھ کن نظر کرت پڑہ ہاتوبہ سارنی تس پڑہ
کر کن تہ ایمان ان، تمہ باوجود چھ توه اندرہ بعض کافر بیہ چھ بعض باایمان، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
اللہ تعالیٰ چھو توهنرہ سارے کامہ ایمانچہ کامہ تہ کفرہ چہ کامہ تہ وچھان پر تھ کامہ مناسب دیوہ سو توه
جزا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تمی کر آسمان تہ زمین پیدہ ہدبیر تہ حکمت وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
صُورَكُمْ وَالِيَهُ الْمَصِيرُ بیہ کرتھی توهند نقشہ تہ صورت ای انسانوپس کرون سیٹھاہرت توهند نقش
تہ توهنرہ صورت تس کن چھو پتولا کہ سارنی واتن يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ سو چھوزانان تمن سارنی چیزن یم آسمانن اندر تہ زمین اندر چھ، بیہ چھوسو تم ساری چیز

مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۵﴾
 اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَنَادُوا بِآلِ أَمْهِمْ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلُكُمْ نَدِينَا فَكْفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعْصَمَ
 اللَّهُ وَاللَّهُ عِنِّي حَمِيدٌ ﴿۷﴾ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ
 يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا

زنان ایم توه پوشیده تہ کھشت کران چھوہ بیہ یم چیز توه نن پاٹھ کران چھوہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 اللہ تعالیٰ چھوہ دن ہنزہ تھ تان پور زنان یم ساری چیز چھہ منگان کہ توه کر یو تهنز اطاعت تہ فرماں
 برداری اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ امہ علاوہ چھناوا اثر مثر توبہ تمن لوکن ہنز خبر یمو توه
 بروٹھ گھر وانکار کر فَنَادُوا بِآلِ أَمْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس ژوہ تمو پنہ نین کا ین ہنزہ سختی ہیوند
 مزہ دنیاں اندر بیہ چھوتمہ علاوہ تهندی خیطرہ آخرتس اندر دود تہ دگ تلہ ون عذاب ذَلِكَ بِأَنَّهُ
 كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلُكُمْ نَدِينَا فَكْفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعْصَمَ اللَّهُ یہ دنیاک وبال
 تہ آخرتک عذاب چھو تمن امی موکھ کہ تمن نش آس یوان تهنہ پیغمبر واضح تہ نندہ دلیلہ ہیئت تم آس
 تمن پیغمبرن نسبت ونان کہ کیا یم آسی ہی انسان ہاونہ آیہ و تھ تمن کیاہ فوقیت چھہ اسہ پیٹھ بہر حال تمو
 کر گھر تہ اعراض اللہ تعالیٰ تہ سپد تمن نشہ بے نیاز تم برنہ تهنو نہ کا نہہ پروان بلکہ کرون تمن پن قہر
 وَاللَّهُ عِنِّي حَمِيدٌ اللہ تعالیٰ چھو سارنی نشہ بے نیاز تعریف کرنہ آمتس چھنہ کا نہہ ہنز ضرورت نہ
 ہر یس لوکن ہنز طاعت و فرماں برداری سیت بحدہ نہ چھنیں لوکن ہنزہ نا فرمانی سیت کنہ یم
 فرمانبرداری کرن تمن چھو پانس تمبوک فاندہ یم نا فرمانی کرن تمن چھو پانس تمبوک ضرر زَعَمَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا انکار رسالتک پاٹھ چھہ یم کافر منر نہ پتہ بیہ زندہ سپنس تہ انکار کران
 دعویٰ چھہ کران کہ تم ین نہ بیہ دوبارہ قیامتک دودہ زندے کرنہ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا

عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ فَاْمُنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
 وَالتُّورِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا وَاَللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝
 يَوْمَ يَجْمَعُوْكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۝ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ
 وَيَعْمَلْ صٰلِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ
 مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۝ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝
 وَالدِّيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

بِمَا عَمِلْتُمْ تُوْهُ فَمَا يُوْكُه يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَهْجُوْهُ تَسْمِئِنَه نَسْ پُرُوْر دِگَارَه سُنْدَكِه وَاَقْبَى اِيُوْتُوْهُ مَرْنَه پَتَه بِيَه
 پِيَه كَرْنَه تُوْپَتَه اَيَه تُوْه تَه سُوْرُو يَاوَنَه يَه تُوْه كَرْمَتَ اَسُوْه دِنْيَآس اَنْدَر تُوْپَتَه اَيَه تُوْه تَمِيُوْك سَزَآءِ دِنَه
 وَذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرٌ بِيَه يَه پِيَه كَرْنَه تَه جَزَاو سَزَآءِ دِيُوْن چُوْه اللّٰهُ تَعَالَى اِس نَعِيْمَه كَمَالِ قَدْرَتِ اَسْنَه
 مُوْكُه بَاكُل سَهْلَه تَه اَسَآنِ پَس يَلِه اَتَ چِيْز چُه مَنگَآن اِيْمَآنِ سَ فَاْمُنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالتُّورِ الَّذِيْ
 اَنْزَلْنَا پَس اِيُنُوْتُوْهُ اِيْمَانَ تَه كَرِيُوْپَرَه مَعْبُوْد بَر حَقْس بِيَه تَهْمُنْدَس پِيْنْغِيْر بَر حَقْس بِيَه تَه تُوْرَس نِيْس اِسَه
 نَازِل كَرِيْعِيْنَه قَرَأَن مَجِيْدَس وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ اللّٰهُ تَعَالَى اِس چُه تُوْه نَزْن سَارِنِي كَآمِيْن هَنْز
 پُوْر نَبْر يَوْمَ يَجْمَعُوْكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ بِيَه پَاوِيُو سُوْدُوْه تَرِيْتِس يِمَه دُوْهَه تُوْه سَارِنِي جَمْع كَرَه سُو
 جَمْع پَدْنَه كَس دُوْهَس مَنز سُوْگُو سُو ي دُوْهَه تَه مَنز ظَا هِر سِپَدَه كَم كِيَاَه زِيُوْن تَه كَم كِيَاَه هُوْر بَا اِيْمَانَ زَمِيْن اَتَه
 دُوْهَس مَنز كَافِر مَنَاقِق تَه مَشْرَك بَارَن اَمَه دُوْهَه چِنَاچِه وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صٰلِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
 لِيْس اَكْهَاه اِيْمَانَ اَنَه كُنْس خَدَآئِيْس بِيَه كَرَه رْثَه عَمَلَه اللّٰهُ تَعَالَى كَرَه تَس نَعِيْمَه دُوْر تَسَدِ گَنَاه وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ
 تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا بِيَه وَاَتَه نَاوَه تَس جَنَّتَه كِيْن تَمْنِ بَاغِن اَنْدَرِيْمُو مَنز جُوِيَه تَه
 كُوْلَه پَكَآن اَسْنِ يَمِيْن جَنْتِن مَنز بِيْشَه بِيْشَه تَم رُوْزَن ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ يِيَه گِيَه بَدُ كَآمِيَالِي تَه رَسْتَه گَارِي
 وَالدِّيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمِنْ الصّٰئِرِ يَمِيُو لُو كُو كَفَر كَرْمَتِ اَسَه بِيَه
 اَسْكَه سَانَ آيَاتِ زَانَمَتِ اِيْز تَم لُو ك گِيَه دُوْزَخْ لُو ك تَم رُوْزَن تَه مَنز بِيْشَه سَه چُه سِيْطَهَاه بِيْچُه جَايَاه

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل المؤمنون ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۝

تہندہ اسے خیر ہے! تھ پائے کفر چھو مانع سپدان آختر تچ رستہ گاری حاصل سپدنہ نشہ آتھ پائے چھو مصیبتیں اندر بوڈن مال و دولتہ چہ فکرہ اندر روزن یا زنانن تہ اولادن سیت مشغول سپدت خدایہ سندھ یادہ نشہ عافل سپدن تہندین احکامن ہنز تعمیل کرنس اندر کوتاہی تہ سستی کرنن تہ مانع سپدان آختر تچہ فلاح در ستگاری نشہ لہذا گڑھ مصیبتیں متعلق یہ خیال کرن کہ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کانہہ مصیبتاہ چھنہ واتان کانہہ اکس خدایہ سندھ حکمہ وراہی یہ تھہ فخرہ تارت گڑھہ مصیبتیں پیٹھ صبر کرن راضی روزن خدایہ سندس یڑھنس وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ بیہ ئیس اللہ تعالیٰ اس چھو پور پڑھہ کران تسدس دلس چھو اللہ تعالیٰ و تھہ ہوان صبرس تہ رضائس کن وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو پرتھہ چیزاہ وارہ زنانن کہ کم کر صبر و رضا اختیار کم کرنہ اختیار پرتھہ اکس چھو حسب حکمت جزاء و سزا دیوان۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ خلاصہ چھو ای زہ پرتھہ کامہ اندر (مصیبت تہ چھو تمو کامیو اندرہ اکھ کام) کر یو فرماں برداری خدایہ سزبہہ کر یو فرمانبرداری پیغمبرہ سز صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ہر گاہ توه اطاعتہ نشہ بو تھہ پھر یو کانہہ پروا چھنہ تموک تلہ تہادیو توه یادہ تھہ کہ سانس پیغمبرس چھو مٹہ صاف صاف پیغام سون وائتہ ناؤن ئیس تموداتہ نورو تہ طریقہ تمس چھنہ کانہہ نقصان تہ ضرر اتھ منز بلکہ چھو بوڈ نقصان تہ ضرر اتھ منز توه پانس۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ توهند گڑھہ وارہ زانن کہ اللہ تعالیٰ اس وراہی چھنہ کانہہ اکھاہ معبود آسئس لایق پس زانیون سوی بن معبود وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل المؤمنون بالیمانن ہوند گڑھہ مصیبتیں اندر اللہ تعالیٰ سئی پیٹھ توکل

وَأَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِنَّمَا
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ فَاتَّقُوا

کرن۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَعَدُوِّكُمْ فَأَحْذَرُوا مِنْهُمْ اے ایمانوالو! تمہارا پٹھ توہ
حکم کرنے آو کہ مصیبتیں اندر گڑھ صبر کروں یو تھنے بے صبری کرن مانع سپدہ توہ فلاح آخرتہ نشہ اتھے پٹھ
چھوہ توہ حکم یوان کرنے کہ نعم اندر مہ آسیو بوڈت گڑھان کیا زہ نعمتی اندر بوڈت گڑھت خدا میں نشہ
عافل سپدون آتہ چھو مانع سپدن آخر تک فلاح حاصل کرنے نشہ لہذا گڑھ توہ ہند خیال تہاون کہ توہ ہنزہ
بعضے زنانہ بیہ بعضے اولاد چھ توہ ہند دشمن پس روزہ یو توہ تمن نشہ ہو شیر تہندین تنہن حکمن تہ فرمائش
پیٹھ مہ کریو عمل بسا اوقات چھو انسان زنانہ تہ اولاد ہندس محبتیں اندر گرفتار گڑھت خدا میں تہ
خدا یہ سندین حکمن مشراوان تہندین تعلقات ہندہ سببہ وار ہین گنہن ہیوند مر تکب سپدان یمہ سببہ سو
وارہ یمو چیز و نشہ محروم چھو سپدان زنانہ تہ اولاد ہنزہ فرمائشہ تہ ناز برداریہ چھنہ مردس سو گھئی
دیوان اتھ فکرہ اندر روزہ سببہ چھنہ تس آخرت ژتیمی سپوان یہ تھہ چھہ ظاہر کہ یو تھہ عیال تہ امہ
قسمک شربا ژیم آیتہ نقصان عظیمک سبب بن یم چھنہ حقیقتیں اندر دوست ونہ نس سزاوار بلکہ چھہ تم
بدترین دشمن ہنزہ دشمنی ہیوند چھنہ کنہ وقتہ احساس تہ سپدان تمی موکھ فر مو اللہ تعالیٰ ان کے امہ
قسمہ کین دشمن نشہ روز یو ہو شیرا سو طریق مہ کریو اختیار سمیوک نتیجہ یہ نیرہ کہ توہ کریو تہوند نیاو
آخرت سنبھالہ خیطرہ ہین دین و آخرت بُرباد مگر امیوک مطلب چھنہ کہ دنیا س اندر چہ سارے
زنانہ تہ ساری اولاد امی قسمک آسان بلکہ چھو واریاہ زنانہ تہ اولاد یم پنہ نین خاوندن تہ مالین چھہ دینہ
چن کاین اندر معین و مددگار بنان **وَأَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** و سن ہر گاہ تمو
توہ سیت دشمنی کمر دینی یا دنیوی کانہہ نقصانہ و اتہ نوو تمیوک نتیجہ گڑھنہ یہ نیرن کہ توہ سپد یو تمن
انتقام ہمیں در پے تمن پیٹھ ہو توہ کانہہ سختیاہ شروع کرن یمہ سیت دنیاک نظام در ہم بر ہم سپدہ بلکہ
ایشہن توہ پہلہ تیوہن گڑھ توہ ہنزہ عقلہ کوم ہیئت تہندین قصورن تہ خطائن در گزر کرن ٹہنزہ کوتاہیہ
معاف کرنے یو تھہ سلوک تمن سیت ورتاوند سببہ کرہ اللہ تعالیٰ توہندن گنہن مغفرت توہ ہندس حالس
پیٹھ رحم کیا زہ سو چھو سٹھاہ مغفرت کرہون **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ** توہند مال تہ توہند اولاد چھہ

اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ط
 وَمَنْ يُؤَقِّ شَيْءًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّ
 تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللَّهُ
 شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ ع

توہندہ آزمائشہ خیرہ اکھ چیزاہ یوتھ اس وچھو کہ کوہ چھو مال واولادن ہنز فکرہ منز بوڈتھ خدایہ سند
 حکم مشراوان کوہ چھویاد تہوان نُس شخص مال داولاد آتھ احکام خداوندی چھویاد تہوان وَاللَّهُ عِنْدَکَ
 أَجْرٌ عَظِيمٌ تہندہ خیرہ چھو اللہ تعالیٰ اس نغیرہ اجر عظیم یعنی بڈمزور فَأَنْفِقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا
 وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ بیہ سارے تھ بوزت کھوژ یواللہ تعالیٰ اس یوت بیکو تہ توت بیہ بوز یو
 تھند حکم وارہ پاٹھ توپتہ مانیو تم حکم بیہ کریو مال خرچ تمں جائن اندر بین منز خرچ کر نیک حکم اووہ
 کرنہ ای چھو توہندہ حقہ بہتر وَمَنْ يُؤَقِّ شَيْءًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یس اکھاہ نفسانی حرصہ
 نشہ محفوظ تہاونہ آوتھی قسمک لوک چھہ آخرتس اندر رستہ گاری تہ فلاح حاصل کرہ و سَنَ إِنَّ تَقْرَضُوا
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ہر گاہ توہ اللہ تعالیٰ اس قرض دیورتہ طریقہ یعنی خلوصہ
 سان سوروزتھ اندر توہندہ خیرہ زیادتی کران بیہ کرہ توہ گنہن مغفرت وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللہ
 تعالیٰ چھو سٹھاہ قدردان کہ رتھہ عملہ چھو قبول کران سوچھو تحمل تہ تڑید کرہ ون نافرمانین تہ بیچھہ عملن
 پیٹھ چھنہ سیتی رٹان تہ گرفتار کران عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سوچھو پوشیدہ تہ نندہ عملہ
 زانہ ون زبردست چھو سیٹھاہ حکمتہ وول چھو



سُورَةُ الطَّلَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ای پیغمبر بزرگ توه فرما دیو لو کن کہ
یلہ توه تمّن زنانن طلاق دیوان آسیو یمن سیت توه خلوت صحیحہ کر مت آسوه پس دیو تمّن طلاق حیصہ
کہ زمانہ بروئٹھہ طهرس اندر بیہ تھا دیو طلاق دنہ پتہ یاد عدت یعنی مردنہ زنانہ تہاون عدت تک حساب
یاد و احصو فر موکہ بصیغہ جمع مذکرامی موکہ کہ زنانن چھ سپدان اکثر غفلت لہذا اگر چہ مردن ہوند نہ
ایموکہ خیال تہاون وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بیہ کھوڑیو اللہ تعالیٰ اس کس توه ہند پروردگار چھو تہندین حکمن مہ
آسیو خلاف ورزی کران اکہ و مہ آسیو ترہ طلاق دیوان حیصہ کس حالس اندر مہ آسیو طلاق دیوان۔
یمہ چیز و نشیہ چھ حدیث شریض منز ممانعت فرماو مژ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ بیہ مہ آسیو کہ تمہ زنانہ تموگر و اندرہ نیر کڈان یمن منز تمہ لسان آسن
کیازہ طلاق دنہ آمرہ زنانہ بسنہ خیطرہ جای دن چھو واجب تھے پاٹھ منکوہہ زنانہ ہندہ خیطرہ چھو
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ نہ گڑھ تمّن زنانن ہوندا پانہ نیرن تموگر و اندرہ کیازہ تمّن بسنہ
خیطرہ جای دن یہ ہنھنہ حق العبدی یوت بلکہ چھویہ حق الشرع نہ سوہیہ نہ ساقط سپدت تمسندہ رضامندی
سیت مگرامہ قسچہ زنانہ کنہ نہ بے حیاء مر محب سپدن مثلاً بدکاری کرن یا ژور کرن تھے صورتس
اندرین تمہ کڈنہ بطور سزاء بعض علماءن نشیہ چھو کہ ہر گاہ زبان درازی بیہ پر تھ وقتہ ہر تہ قضیہ لاگہ
تلہ تہ چھو جایزہ زنانہ گرہ منزہ نیر گڈن وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یم ساری چیز چھ خدا یہ سندی مقرر

حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
 أَمْرًا ۚ وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
 يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ

کرمت احکام، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لیس اکھاہ خدایہ سند یواحکا مونثہ تجاوز کرہ تم
 کر بے شک پنہ نس پانس پیٹھ ظلم یعنی سوسپد گنھگار امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ ترغیب دیوان کہ طلاق منزہ
 چھو طلاق رجعی بہتر لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۚ تھہ چھہ نہ خبرای طلاق دیوہ ونہ شاید اللہ
 تعالیٰ ما کرہ امہ طلاق دنہ پتہ کا نہہ نو کتھاہ چانس دس منز پیدہ یعنی تھہ ما سپدہ کہ طلاق دنہ پتہ نادم تہ
 پیشیان لیس ہر گاہ تھہ طلاق رجعی دیو تممت آستھہ تھہ اندر ہیہہ اتھہ علاج بنت بیہ رجوع کر نہ سیت ۚ وَإِذَا
 بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ لیس یلہ تمہ زانہ بمن طلاق رجعی دنہ آمت
 آسہ ہنن عدت و برنس نزدیک واتن تمہ ساتہ چھو توہ دون گھن ہیوند اختیار یاریو کہ تمہ باقاعدہ
 رجعت کرت پنہ نس نکاحس اندر یا تراویو کہ قاعدہ موجب یلہ یعنی عدت و برنس تان مہ کریو تمس گن
 رجعت تریم صورت مہ کریو کہ توہ آسیونہ سہ بساؤنس غرض خواہ مخواہ تکلیف دنہ خیطرہ تمسز عدت
 زبٹھر اونہ خیطر کریو تمس سیت رجعت ناحق کانہہ ایذا دیوان تہ چھنہ مناسب تھہ چھو خدا بیزار
 وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۖ یہ کینرھا توہ کریو پانس نثہ رنہ اندرہ یا یلہ تراونہ اندر تھہ
 تہاویو کہ پنہ نیواندرہ زہ معتبر شخص شاہد تہ گواہیو تھنہ آیندہ کتھہ پیٹھہ اختلاف پیدہ سپدہ ای گواہو ہر گاہ
 گواہی دنج ضرورت پیہ توہ ذرہ پز پز گواہی خدایہ سندہ خیطرہ کانہہ ہیوند طرف کر نہ ورا ی ذَلِكُمْ
 يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ یہ مضمونہ سیت چھہ نصیحت کر نہ یوان تس شخصس لیس
 پور پڑھہ آسہ گنس خدایہ سنز بیہ آس یقین ہتمہ دوہک یعنی قامتک کیا زہ ایمان واری چھو اسہ نصیحتک
 فائدہ ہیکان تلت اگر چہ نصیحت چھہ سارنئی ہندہ خیطرہ بروٹھہ لیس حکم تقویٰ اس متعلق بیان کر نہ آؤ۔

يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا^۲ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
 اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْعُمْرَةِ الْقَدِيمَةِ قَدُ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا^۳
 وَاللَّيْئِي يَبْسُ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
 ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا^۴ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ

وَنَ چھ تھ متعلق احکام میں درمیان فضائل بیان یوں کرنے کو ڈنیو کہ فضیلت گو و مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلُ
 لَهُ مَخْرَجًا اِس شخص اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا اللہ تعالیٰ چھو تھندہ خیرہ مضر تو نشہ نجات لئخ صورت پیدہ
 کران وَیَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا یَحْتَسِبُ بیہ چھو تقویٰ کہ برکتہ تس رزق وائتہ ناوان تڑھی جایہ سمیو کہ نہ
 تس برانت تہ گمانے چھو آسان بیہ چھو امہ تقویٰ اک اکھ شاخ توکل تمیو کہ خاصیت چھو وَمَنْ
 یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِس اکھاہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ توکل کرہ سو چھو تس اصلاح مہمات ہندہ
 خیرہ کافی سو چھو پنہ کافی آسک اثر خاص ظاہر کران اصلاح مہمات کرنے سیت إِنَّ اللَّهَ بِالْعُمْرَةِ الْقَدِيمَةِ بے
 شک اللہ تعالیٰ چھو پنن کوم اتھ پاٹھ خوش کر اِس تھہ پاٹھ پورہ کران تھہ پاٹ چھو اصلاح مہمات
 کرنک وقت تہ موقوف تھندس ارادس پیٹھ کیا زہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ تعالیٰ ان چھو پر تھہ
 چیز خیرہ اکھ اندازہ پنہ نس علمس اندر مقرر کرمت تہی موجب تھو سو چیز حکمتس مطابق واقع کران امہ
 پتہ چھو اللہ تعالیٰ بیہ طلاقہ کین احکام میں متعلق تفصیلی بیان فرماوان وَاللَّيْئِي يَبْسُ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ
 نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْئِي لَمْ يَحِضْنَ تو ہنزن طلاق دنہ آمرن زنانں یمہ زیادہ وانسہ
 آسنہ موکھ خون حیض انہ نشہ نامید آسن سبز مڑہ ہر گاہ تو بہہ تھندس عدتس منزئبہ آسہ (چنانچہ ئبہ
 چھو او سمت یمہ سببہ پر تھنہ آو) تھنز عدت چھو ترہ ریتھ تھہ پاٹھ یکن زنانں نہ نابالغ آسنہ موکھ ونہ
 خون حیض میں شروع سپد مت آسہ تھنز عدت تہ چھہ ترہ ریتھ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ بہ یمہ زنانہ حملہ واجنہ آسن تھنز عدت گیہ یوتان تمہ پر سن حملہ نشہ فارغ سپدن وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ

أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ⑤
 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَى ⑥ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ

يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ⑦

نفس شخص خدا پس کھوڑہ تس کرہ اللہ تعالیٰ پر تھ کامہ منز آسانی دنیاچہ کامہ
 تہ آخرتچہ کامہ تہ ذلک امر اللہ انزلہ الیکم یہ کثیرہ ہاہ بیان کرنہ آویہ چھو اللہ تعالیٰ سہ حکم لیس تم توه
 کن سوز ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا لیس اکھاہ یمن معاملاتن اندر تہ بین احکامن اندر
 تہ خدا پس کھوڑہ اللہ تعالیٰ کرہ دور تس نشہ تسد گناہ بجو بختیو نشہ ر چھس بیہ کر لیس عطا بد مزور یعنی
 بد بد فاندہ تہ نفع وادہ ناس اسکنوہن من حیث سکنتم من ووجدکم بیہ چھہ طلاق دنہ آمر زمانن ہند توه
 پیٹھ بیہ تہ کنہ حقوق سوگو تم گڑھ بسنہ تہ روزنہ خیطرہ جای دن پنے نہ طاقتہ تہ وسعتہ موجب بیہ تہ توہہ
 پانہ بسان آسیوہت گڑھ تمہن تہ جای دن یعنی عد تس اندر چھہ طلاق دنہ آمڑہ زنانہ جای دن واجب البتہ
 ہر گاہ طلاق باین آسہ دنہ آمت تلہ کسی کو ٹھس اندر تمہن دون ہیوند روزن چھنہ جائز بلکہ گڑھ منزہ کنہ
 ٹھور آسن ضرور ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن بیہ مہ وادہ ناویو تمہن تکلیف بسنہ کس معاملس اندر تمہ
 تنگ کرنہ خیطرہ وان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن بیہ ہر گاہ تمہ طلاق دنہ آمڑہ زنانہ
 حملہ واجنہ آسن تلہ کر یو تہندہ کھینہ چنہ خیطرہ تمہن پیٹھہ خرچ برداشت یو تان تمہہ پر سن حملہ نشہ فارغ
 سپدن فان ارضعن لکم فآتوہن اجورہن ہر گاہ تمہ زنانہ یمن توه طلاق دیو توه عد تہ پتہ توه ہندین ٹھرین
 (یم ٹھر تمہن برو نٹھی توه ہند آسن یا آسیکھ عدت خم گموز شرزینہ سیتی دودھ دن توه ہندہ خیطرہ اجر تس
 پیٹھہ توه دیو تمہن سہ اجرت یوسہ توه پانہ وان مقرر کر یو وانیروا بئیکم بمعروف بیہ کر یو اتھ اجر تس
 متعلق پانہ وان مشورہ مناسب طریقہ وان تعاسرتکم فسرر ضوا لہ اخری ہر گاہ توه اکھ اکس پیٹھہ تنگی تہ

قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ حُسْرَيْكُمْ^۱ وَكَأَيُّنَ مِّنْ قُرْبَىٰ عَدَّتْ عَنْ أَمْرِ
 رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَدِّبْنَهَا عَذَابًا ثَكْرًا^۲
 فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا^۳ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
 عَذَابًا شَدِيدًا^۴ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ

سختی کریو تله چاوه تس پچس دوده بیه کانه زنامه لِيَنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وسعت وال کرن امس
 خرس پیٹھ خرج پنه نہ وسعتہ موجب وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وین تسنگی امر آسه
 کرنه رزق اندر یعنی آمدنی امیس کم سو کرن امس خرس پیٹھ خرج تی منزہ یہ تمس دیو تمت آسه اللہ
 تعالیٰ ان یعنی امیر شخص کرن خرج پنه نہ حیثیتہ موجب فقیر کره خرج پنه نہ حیثیتہ موجب لَا يَكْفِلُ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا اللہ تعالیٰ چھنہ کانسہ شخص تکلیف دیوان مگر تمی موجب یہ تمس عطا کرن تنگ دست
 شخصہ سند گونہہ خیال کرن کہ ہر گاہ بوا مس زنامه پیٹھ خرج کره تله ماروز سمہ پانس کنی سَيَجْعَلُ اللَّهُ
 بَعْدَ حُسْرَيْكُمْ اللہ تعالیٰ کره عنقریب سختی نہ تنگی پنه وسعت نہ آسانی۔ وَكَأَيُّنَ مِّنْ قُرْبَىٰ عَدَّتْ عَنْ أَمْرِ
 رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَدِّبْنَهَا عَذَابًا ثَكْرًا واریہن بستین نہ شہرن ہند یولو کو کرنا فرمانی پنه
 نس پرورد گارہ سندس خمس بیه خدایہ سندین پیغمبرن ہند ہن حکمن پس ہیوت اسہ تہنزن عملن ہیوند
 سخت حساب یعنی تہنزن و کفر چو کامیواندرہ کرنہ اسہ کانه کماہ تمن معاف بلکہ کرسارنی کامن پیٹھ سزا
 تجویز بلکہ کراسہ تمن سو عذاب نس نہ تمو و چھتیو اوس فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا
 پس ژوہ تمو پنه نین پیچھ عملن ہندہ وبالک مزہ بیه اوس تہنزنہ کامہ ہیوند انجام تاوان نہ نقصان یہ گوکھ
 دنیاں منزر أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا امہ علاوہ چھو اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیطرہ تیار تہومت آخر تس
 اندر سخت عذاب و سن یلہ نافرمانی ہیوند عذاب بوزو فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا کھوژ یو
 اللہ تعالیٰ اس توہ ای عقلہ والیو یومو ایمان ائمت چھوہ کیا زہ ایمان نہ چھو اتھ مکان خدایس کھوژن گو کہ
 تہنزن کریو فرمان برداری اطاعت و فرمان برداری ہنز طریق ہاونہ خیطرہ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا

أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ
 لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ
 يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝ ۱۱ ۚ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
 سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ ۱۲ ۚ

سوز اللہ تعالیٰ ان توه کین اکھ نصیحت نامہ سون نصیحت نامہ ہیبت سوزن اکھ جلیل القدر پیغمبرہ یَتْلُوا
 عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ نُس پر ان نہ بوزہ ناوان چھ توه اللہ تعالیٰ سند آیات ویر ہناوت لِيُخْرِجَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یوتھ سو پیغمبر برحق تمن لوکن یمو ایمان ان نہ رثہ
 عمل کر کھ گفرہ نہ جہلہ چوتاریکیو منزہ کڈہ ایمان نہ علمہ و عملہ کس نورس کن۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ
 صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا یس اکھاہ پڑھ کرہ خدایس بیہ کرہ رثہ عملہ
 اللہ تعالیٰ واتہ ناوتس جلتہ کین تمن باغن منز یمو بون کن کمہ کمہ جوی نہ کولہ آس پکان تمہی جشن منز
 روزن تم ہمیشہ ابد الآباد، قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا بے شک اللہ تعالیٰ ان دیوت تس رت رزقاہ ہمیشہ
 پوشہ ون اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اللہ تعالیٰ گو سو معبود برحق یم ستھ آسمان
 پیدہ کتر بیہ کرن تہندی پاٹھ ستھ زمین چنانچہ صحیح ترمذی منز چھو حدیث شریف کہ اکس زمینس تل
 چھو بیاکھ زمین تھ تل چھو تر یوم زمین اتھ پاٹھ چھ اکھ اس تل ستھ زمین یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ اللہ
 تعالیٰ سند احکام تکلیفیہ نہ تکویبیہ چھ یمن ستن آسمان نہ ستن زمین منز نازل سپدان لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا یوتھ توه معلوم سپدہ کہ اللہ تعالیٰ چھو پر تھ چیزس
 پیٹھ قدر نہ دول بیہ جھو اللہ تعالیٰ پر تھ چیزس احاطہ کرت پنے نہ علمہ سیت اتھ کن نظر کرت چھو
 واجب اللہ تعالیٰ اس اطاعت نہ فرماں برداری کرن



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ
 أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ صحیح بخاری شریف سے بین حدیث شریفہ چن کتابن اندر چھو
 بروایت أم المؤمنین عائشہ صدیقہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہوند عادت شریفہ اوس
 کہ تم آس پرت دوہہ دگر نمازہ پتہ ازواج طاہراتن ہندین حجرات شریفین اندر تشریف اتان و دہہ و وئی
 آس مختصر توقف کرت تمہن تفقہ حالات فرماوان اکہ دوہہ تہو کہ حضرت زینبہ سندس حجرہ شریفین
 منز معمولہ خوتہ زیادہ کالس تشریف کیا زہ تمو کہ ہکھ پیش مانچھ سوی کرو کہ تناول تمہ کس تناول
 کرنس لگ کنہ کالہ معمولہ خوتہ زیادہ حضرت عائشہ چھ فرماوان کہ مہ گوامیوک مٹک مہ کر حضرت
 حصہ اس سیت مشورہ کہ اسہ اندرہ لیس نشہ نبی کریم امہ پتہ تشریف اتن تمسہ گدھ عرض کرن کہ
 توہ چھوہ ہز مغافر نوش فرمومت (مغافیر چھ ونان اکہ کلہ کس تھہ ماس کس ژیرہ کر انکھ صیو چھو
 آسان یا صمغ بیوریا تو تہ مانچھ ہیو۔ تھہ چھو آسان مٹک ناپسندیدہ یعنی پھک چنانچہ ییے عمل کر باقی
 ازواج طاہراتو تو پتہ فرموو تمومہ چومانچھ استعمال کرمٹ بو کیا زہ کرہ ہامغافیر استعمال تمہ کر ہک عرض
 شاید مانچھ تلمر ما آسہ بیٹھو مغافیرس پیٹھ تھنس ما تھنس تہ آسہ ترمت تمیوک پھک یہ بوزت ہو و قسم
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانچھ استعمال کرنس پیٹھ اتھہ موقص پیٹھ سپد نازل یم آیات کریمہ
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ای بدہ بینمبرہ توہ کیا ہز چھو قسم ہوت پانس پیٹھ سو چیز حرام
 کران لیس چیز اللہ تعالیٰ ان تو ہندہ خیطرہ حلال کرمٹ چھوہ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ تمی چھوہ
 کران پنہ نین باژنی ہنز رضامندی تہ خوشنودی حاصل کرنہ خیطرہ اگرچہ کنہ مباح چیز ک ترک کرن
 چھوہ مباح تو پتہ تھہ ترک مباحس تاکید کرن قسمہ سیت تہ چھو مباح مگر خلاف اولی چھو ضرور

أَيْبَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَإِذَا سَرَ
 النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ
 اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ

خصوصاً یلہ تمیوک موجب تہ باعث آسہ معمولی تہ غیر ضروری اکھ چیزاہ ہو گو گرہ کین باذن ہنز خوشنودی تہ رضامندی حاصل کرین وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو بخشہار سو چھو گنہس تان تہ بخشایش تہ معاف کران توه نشہ سپدنہ کانہہ گناہ تہ صادر یہ بچھنہ توه بیٹھہ کانہہ عتاب بلکہ بچھو اتھ کن توه اکھ قسمہ توجہ یوان دنہ شفقت ورافتہ موجب توه چھو وندنہ یوان کہ توه کیا زہ ہز پرووہ سو چیز نس مباح اوس توهندہ خیطرہ یہ تکلیف کیا زہ ہو توه تھہ سیت ہووہ توه اتھ بیٹھہ قسم لہذا دیو کچ کفارت توپتہ کریو بیہ مانچھہ استعمال قَدْ قَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلَّةَ أَيْبَانِكُمْ اللہ تعالیٰ ان بچھہ مقرر کر مرث توهندہ قسم مشراونچ یعنی قسم پھروانہ پتہ تیج کفارت دنچ طریق سو گودہن مسکین طعام دیون یا غلام یا کینز آزاد کرن یا ترین دوہن روزہ دارروزن وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ اللہ تعالیٰ چھو توهندہ دوست وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سوی چھو سوروی زانہ ون سوی چھو شاہ حمتہ وول تمی علم و حمتہ سیت چھو توهنزہ مصلحہ تہ ضرورتک چیز زانت توهنزہ واریاہ دشواریہ آسان کر نچہ طریقہ بیان کران چنانچہ تیج کفارت ونک حکم کرنہ سیت کر تم قسچہ پابندی ہوند تکلیف دور۔ وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اے ازواج طاہرا توه سو وقت چھو یاد کر نس قابلہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو پنہ نس اکس باثس سیت سرہ کتھاہ اکھ فرماوے یہ سہ کتھہ آس ییے بو کھیمہ نہ از کہ بیٹھہ مانچھہ مگر یوتھنہ ژہ کانسہ نشہ یہ کتھہ باو کہ فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ تمہ پتہ یلہ تمہ دید صیبہ یوسوسر بین ازواج طاہرا تن نشہ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ ان نتر ووسو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مومس سنز فاش کرہ وندہ دید صیبہ کہ ژہ چھمت یہ میان سرہ کتھہ بین نشہ واتہ ناومر مگر اڈتھہ کر کہ بیان آجہ کتھہ نشہ کر وہ کہ اعراض تمیوک کر وہنہ کنہہ بیان یہ گو غایت درجک کر م تھوند کہ پنہ نس کھمس خلاف کر نس بیٹھہ یلہ شکایت کر کہ پنہ نین بازن ہنز سوروی کر کھنہ بیان بلکہ کر کہ تمہ منزہ مویہ ہنا

قَالَتْ مَنْ أَيْبَاكَ هَذَا قَالَ بَنَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۖ إِنَّ تَتُوبًا
إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَإِنْ تَظْهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

بیان یوتھنے تمن زیادہ شرمندگی پیدہ سپدہ فَلَمَّا بَنَانِي هَذَا قَالَ مَنْ أَيْبَاكَ هَذَا اودہ یلہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم تس سہ کتھ فرماوسہ گیہ حیران تمہ کروکہ عرض توه کم ہزد پوہ مہ کیا بو تو ہند سر بیہ کانسہ
نشہ تمن گیہ رای حضرت عائشہ نبی مآسہ یمن وونمت قَالَ بَنَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ تمو فر مووس مہ کر
خبر اللہ تعالیٰ ان اُس بوڈزان وول چھوئیس سارچی پور خبر چھہ یہ آوونہ ازواج طاہراتن یوتھ تمہ آیندہ
امہ قسچہ ژویہ کرنہ نشہ پتھ روزن بیہ کرن توبہ سمیوک تمن یمہ پتہ آیات کر یمن اندر حکم چھو یوان
کرنہ إِنَّ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ اے نبی کریمہ سنزدوشوئی الہیو (مراد چھہ امہ اندرہ
حضرت عائشہ بیہ حضرت حھہ اگر توه خدا یس بروٹھ کنہ توبہ کریوتہ چھو تو ہندہ خیطرہ بہتر کیا زہ تھہ
لائق چھوہ توه کرمت تہ گواہی زہ کہ توه ہند دل چھہ پتھ کتھ گن مایل سپد مت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلمن ہیوند توجہ پھرہ ہواس بین ازواج طاہراتونشہ پانس گن تی خیطرہ چھوہ توه پانہ وان ژویہ کران
اگرچہ پتھ گن نظر کرت کہ اموک سبب چھوہ توه محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ اعتبارہ اوسنہ
یہ ناکارہ چیز مگر چونکہ امہ سیت چھ سپدان بین ہنز حق تلفی بیہ چھو تہ ہندہ دل شکنی ہیوند باعث سپدان
اتھ کن نظر کرت چھو ناکارے یمہ موکھ توهہ پزہ توبہ کرنہ۔ وَإِنْ تَظْهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وُن ہر گاہ توه دوشوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن مقابلہ پٹن کارروائی
جاری تہاویو بیہ کرس اندر توه آندہ نہ کنہ تہ کیا زہ تہوند دوست چھوپانہ اللہ تعالیٰ بیہ جبریل امین بیہ نیکو کار
مسلمان وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ تمہ علاوہ چھہ ساری ملایک تہند مددگار توهنزدوشوئیو سیت واتنہ
تمن کانہہ ضرر تہ نقصان بلکہ چھوہ توه پانس امیوک نقصان کیا زہ کس صاحبس اتھ مددگار آس (گوڈہ
چھو بس تمن اکوی بوڈ مددگار) تہندس مزاج مبارکس تہ طبعیت نازینس خلاف کانہہ حرکت کرن
تھہ کوسہ کوندے کھسہ توهہ تمیوک انجام چھونن پاٹھہ سیٹھاہ بچھہ توه ہندہ خیطرہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ اتھ آہ

ظَهْرٍ^{۱۹} عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا
 مِّنْكَ مُسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَبَتَّ عِبَادَاتٍ سَبَّحَتْ
 تَبَّتْ وَأَبْكَرًا^{۲۰} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
 نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

کر سمس منزئیس و ننه آوسار نئی رفیق سو چھو پر تھہ اکس سیت الگ الگ معنیہ کن اللہ تعالیٰ سنزر فاقت گیہ حقیقی جبریل امینہ سنزر فاقت گیہ یمہ معنیہ کہ سواوس واسطہ فیوض الہی و اتہ نانس اندر ملائکن ہنزرفاقت گیہ انزال سکینہ با ایمان ہنزرفاقت گیہ تابعداری تہ فرماں برداری بعضے سلف مفسرینو فرمودو صالح المومنینہ اندرہ چھہ مراد شیخین جلیلین یعنی حضرت ابو بکر صدیق تہ حضرت فاروق اعظم واللہ اعلم چونکہ بعض روایتن اندر چھو امیوک سبب نزول تہ واقعات تہ آمت تمن روایتن اندر چھو آمت کہ حضرت عائشہ تہ حضرت حفصہ و رای تہ چھہ بیہ ازواج طاہرات اتھہ تحریکس سیت شامل آسموہ حضرت سووہ حضرت صفیہ طی موکہ کرکہ بیان بصینہ جمع کہ ای ساروی ازواج طاہراتو تہ روزنویہ خیال کہ مردس چھہ زنان ہنز ضرورت لازمی آسان تہ اتھہ کن نظر کرت ین سان مطالبات تسلیم کر نہ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ مُسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَبَّتَّ عِبَادَاتٍ سَبَّحَتْ تَبَّتْ وَأَبْكَرًا لہذا تہاد یو تہہ آی پیغمبر بر حق سنز و ازواج طاہراتو تہ تھہ یاد کہ ہر گاہ بیہ پیغمبر تہ سار نئی زنان طلاق دیہ اللہ تعالیٰ کرہ تہہ بدل تمن تہ ہندہ خو تہ رتہ زنانہ عطا یمہ زنانہ مسلمان آسن با ایمان آسن فرماں بردار آسن تہہ کہہ و نہ آسن عبادت کہہ و نہ آسن روزہ دار آسن بعضے وورزہ آسن بعضے آنہر شہ آسن بعض مصلحتن کن نظر کرت چھو زنانہ وورز آسن تہ مرغوب کیا زہ سہ چھہ سلیقہ واجین تہ تجربہ کار آسان ای آوصفن اندر بیان کر نہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ای با ایمانویہ حضرت رسول کریمہ سنزن ازواج طاہراتن تہ کانہہ چارہ ہجھہ عبادت تہ عمل کر نہ و رای تمن تہ آوبذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر نہ تہہ تھو حکم

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۶﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

یوان کرنے کہ توبہ نہ آسید پنے نس عیالس تبلیغ کران عیالس تبلیغ کرن ہٹھو واجب پر تھ مسلمانس چھو لازم پانہ تہ عمل کرن پنون عیال تہ عمل کرہ ناون دنیجہ وتہ پیٹھ ان وارہ وارہ فخرہ تارنہ سیت ماردنہ سیت وعید شدید بوزہ ناوتھ کھوڑہ ناونہ سیت پیار کرنہ سیت غرض پر تھ طریقہ گڑھن تم سمجھاؤن لہذا بچاویو کھ پنن پان تہ پنون عیال تہ نار جہنمہ نغیر ہتھ نارس ہرہ ہنہ آیہ لوکن تہ کنیو سیت یمہ کنہ ژمن ہند پاٹھ دزان چھ پان بچاون گو پانہ فرماں برداری کرن عیال بچاون گو تم گڑھن خدایہ سند احکام پٹھناؤن بیہ تم احکامن پیٹھ عمل کرہ ناؤن عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ہتھ نارس پیٹھ مقررہ تعین چھہ کرنہ آمت ژ کھیل مضبوط قدا طاقور ملایک تم نہ ٹنہ قسمہ رحم کرہ وٹن چھہ یا یمن سیت نہ کانہہ مقابلہ ہیجہ کرت یم نہ اکس ذرس برابر خدایہ سنزنا فرمانی کران چھہ کنہ کھمس اندر نس حکم تمکن کرنہ یوان چھو نس حکم اللہ تعالیٰ کران پھک تھ چھہ تم فوراً بجا اتان نہ چھہ تعمیل حکم کرنس اندر سستی تہ تار کران تے ملایک واتہ ناون کافرن نار جہنمس اندر تھی وقتہ آیہ تمکن ونہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ اے کافر وازمہ کریو تھہ عنہ قسمک عذر پیش کیاہہ تھ چھو نہ فائدہ کنہ تہ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کیاہہ تھ چھو تمکوی سزا یوان دنہ یہ توبہ کران آسود نیاس اندر امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ امہ نار جہنمہ نغیر ہٹھ کیاہہ صورت چھہ تی ونیو توبہ پنے نس اہل وعیالس۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا اے با ایمانو توبہ کریو خدایس بروٹھ کنہ پوز توبہ یعنی دلس منز ہیو پوز تہ کامل ندامت تمکن گنہن پیٹھ یم از تام کر مت چھو آسندہ کریو پختہ عزم گناہ تراونس پیٹھ امہ توبہ کہ برکتہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ امید چھہ یعنی وعدہ چھو توہند پروردگار کرہ توہندین گنہن غنوبیہ واتہ ناوہ توبہ جنتہ کین

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
 نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا
 نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ
 الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وِبِسُ
 الْمَصِيرِ ② ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٍ نُورٍ وَ
 امْرَأَتٍ لُوطٍ ③ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ


تمن باغن اندر میوبون کن کوله ته جو به پکان آسن **يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ** یہ گوئی
 دوہہ اللہ تعالیٰ عزت دیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیہ تمن لوکن میوایمان ان تمن سیت یہ
 ساتہ میدان محشر پتہ پل صراط پیٹھ تم باایمان ترن ہین **نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ**
 باایمان آسہ نور ہین دوران تمن بروٹھ کن تہ بیہ تمن دچھن کن تہ **يَقُولُونَ** دعاء آسن کران **رَبَّنَا**
آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ای سانہ پروردگارہ سانہ خیطرہ پوشہ ناون یہ نورسون
 یوتھنہ یہ و تہ منزئی ژھتیہ گڑھ بیہ کر آسہ مغفرت بیشک ژہ ھھکھ پر تھ چیزس پیٹھ قدر تہ وول **يَا أَيُّهَا**
النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وِبِسُ الْمَصِيرِ اے نبی کریم جہاد کریو
 کافرن سیت سلاح و سامانہ سیت بیہ کریو منافقن سیت جہاد زیوہ سیت دلیلو سیت بیہ کریو تمن پیٹھ سختی
 دنیاس اندر کیاہہ تم چھ تھ مستحق تہ سزاوار آخرتس اندر چھ تہنز جای نار جہنم سہ چھ سیٹھاہ سخت
 پیٹھ جای جہنمہ روزنہ خیطرہ **ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٍ نُورٍ وَ امْرَأَتٍ لُوطٍ** اللہ تعالیٰ ان
 فرماواکھ مثال کافرن ہندہ عبرتہ خیطرہ نوح علیہ السلامہ سزہ گھر واجنہ ہنز بیہ لوط علیہ السلامہ سزہ
 گرواجنہ ہنز۔ **كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ** تمہ دوشوئے زنانہ آسہ سانو بند و اندرہ
 خاص دون نیکو کار بندن ہندس نکاحس تل **فَخَانَتْهُمَا** تمو دوشوی زنانو کر تمن دوشوئک صاحبن ہیوندہ

فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ
 مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝۱۰ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ
 فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ
 فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۱ وَمَرْيَمَ
 ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا

حق ضایع کیا زہن کر کہنے فرماں برداری سے تابعداری تمہ دو شوئے زانہ آسہ منافق بظاہر آسہ
 تمن سیت لیکن دلہ سیت آسہ کافر سیت فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پس آئے نہ تم دو شوئے
 نیک بندہ عنہ بکار اللہ تعالیٰ اس بروئہ کہ تمس دون زنان وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ چنانچہ تمن
 دو شوئے زنان آو حکم کرنے کفرہ سببہ اٹھو تو ہیہ دو شوئے عام کافر سیت نارِ جہنم اندر دون بیٹھن
 سیت رشتہ آسنن دو کہنے کا نہہ فایدہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ بیہ فرماو
 اللہ تعالیٰ ان بیا کہ مثال با ایمان ہندہ تسلی خیطرہ فرعونہ سندین باژن ہنز حضرت آسیہ بنت مزاحم
 سنز إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یلہ
 تمود عاکر عام حالاتن اندر یا یلہ تموا کس خاص حالس اندر د عاکر یہ ساتہ فرعونس معلوم سپد جہندہ
 با ایمان آسگ تم دیوت حکم یہ کڈیون نس تاپس تو پتہ ہما سیوس اتھن کھورن چہار میخ سنس بیٹھ
 تہاویوس گر گچ بونیم کن تھہ حالس اندر مونگ تمویہ دعاء پروردگار میانہ خیطرہ کہ بنا جتھس اندر
 پتہ نس قر بس اندر اکہ گراہ بیہ دہ مہ نجات فرعونہ سندہ شرہ نشہ بیہ ہنزہ و کفرہ چوکا میو نشہ بیہ دہ مہ
 نجات سارنی ظالمن یعنی کافر ن ہندہ شرہ نشہ یلہ تمویہ دعامونگ تمن آو جتھس اندر سو پتہ گرہ ہاونہ
 یہ سیت نہ تمن سو تکلیف بوزنے آو وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ

وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنِينَ ۱۷

دُوْجِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنِينَ ۱۷۔ بیہ چھ اللہ تعالیٰ ان مسلمان ہندہ تہلی
 خیطرہ حضرت مریم یو صہ صا جزاد چھ حضرت عمرانہ سنز مثال بیان فرماو مژ سیمہ بن ناموس تہ
 عصمت حلال و حرام دو شوئے چیز و نشیہ محفوظ تہو و پس واتہ نو آسہ تمن منز پن روح یعنی عیسیٰ علیہ
 السلام بیہ کر تمو تصدیق پنہ نس پروردگارہ سندین پیغامن یم تمن نشیہ ملائکن ہندہ ذریعہ واتہ تاونہ
 آئے بیہ کر تمو تصدیق پروردگارہ سنزن کتابن یعنی تورات و انجیلس بیہ آس سہ واقعی اطاعت و فرماں
 برداری کرہ و نیواندرہ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدِيهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ① الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
 عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ② الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا
 مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ

تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدِيهِ الْمَلِكُ سوپروردگار چھو سیٹھاہ عالی شان تہ برکتہ وول تسمندس قبضس منز چھہ
 ساری پادشاہی تہ حکومت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیہ چھو سوپر تھہ چیزس پیٹھہ قدر تہ وول
 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ایم پروردگارن مرن تہ زندہ روزن پیدہ کر
 یو تھہ سو تہ آزمائش کرہ کہ تہ اندرہ کوی چھو رت عمل کرنس اندر۔ تس چھو دخل رتہ عملہ اندر اتھہ
 پاٹھہ کہ موتک خیال تہاوتھہ چھو انسان دنیاں فانی زانان مر نہ پتہ بیہ زندہ سپد نہ کہ اعتقادہ سیت چھو
 آخر تس باقی زانان بیہ چھو آخر تک ثواب حاصل کرنہ خیطرہ بیہ تہ کہ عذابہ نشیہ چھہ خیطرہ مستعد
 روزان اتھہ پاٹھہ چھو حیات تہ عمل کرنس اندر دخل یمہ اعتبارہ کہ حیات نئے آسہ عمل تھہ اندر کرہ
 شخص لہذا اچھو حیات عملہ ہندہ خیطرہ نمبر لہ طرف چونکہ موت چھہ عدم محض چیزہ بلکہ چھو وجودی
 لہذا آواتھہ پیٹھہ مخلوق آسنگ حکم کرنہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ بیہ چھو سوپروردگار زبردست تہ غالب
 پیچھہ عملن پیٹھہ سزاء دیوہ وون تہ سوی چھو گنہن مغفرت کرہ وون تہ درگذر کرہ وون تہ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ایم پروردگارن ستھہ آسمان پیدہ کر اکھ اکس پیٹھہ چنانچہ حدیث شریفس منز چھو آمت اکہ
 اکھ آسمان چھو بیس آسمانس پیٹھہ گن تہ پیٹھہ گن چھو تریم آسمان اتھہ پاٹھہ چھہ ست ستوئے آسمان اکہ
 آسمانہ پیٹھہ چھہ بیس آسمانس تان پانژن تین ورہنی ہنز مسافت مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ ای

تَرَى مِنْ نُطُورٍ ③ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ
 الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ④ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
 بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ
 عَذَابَ السَّعِيرِ ⑤ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمٌ ⑥
 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑦ إِذَا الْقُوفُوفُ فِيهَا سَمِعُوا أَلْحَادًا بِحَيْثُ وَهِيَ
 تَفُورٌ ⑧ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ

آسمانس کن وچه ونه شه بکنه حضرت رحمانه سزه اتهه کار یگری ته صنعتس اندرئنه قسمک خلل نقصان
 ته فرقا ه نيس چیز یو ته شوبه با سو کرن تهوی پیده فازجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ نُطُورٍ بلا تامل آسته
 شه وار یبه پهره اتهه کن نظر دژ مشروئن دته شه تامله سان بیه آه نظراه اتهه کن شه چھویه بوزنه یوان
 اتهه منز کاننه خلاه یا پھرا تاه پھرا یار ماہ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ توپه دته پھیر پھیر نظراه کاننه
 رخناه ته عیابه تلاش کر نه خیطره مگر کنه ته اندنه يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ آخر کار آیه
 نظر شه کن پوت پھیرت وک زده گھت ته لوسیتھ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَا
 رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ بیه چه سانه قدر تج بدلیل که آسه دیوت زینت ته لملوا کھ تله کس آسمانس
 ژانگیو یعنی ستارو سیت بیه کراسه تم ستاره کنه شیطان یم ملائکن هنزن کھن کن ونه کھسان آس، دفع ته
 دور کر نه خیطره وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ بیه چه امه علاه آخر تس اندر تنهنده کفره سبیه تنهنده
 خیطره تیار شو مت جهنمک عذاب، وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بیه یم
 لوک پنه نس پرورد گاره سندس کن آسنس انکار کران چه تنهنده خیطره ته چهو دوزخک عذاب سه چه
 سیٹھاه بچھ جای إِذَا الْقُوفُوفُ فِيهَا سَمِعُوا أَلْحَادًا بِحَيْثُ وَهِيَ تَفُورٌ یله تم لوک تته منز ترا ونه ین تم بوزن
 تج آه سخت خوفناک کر یکھاه در حالیمه سو آسه گرزان ته گرت گرت کران۔ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ سو
 آسه تته پاٹھ جوش ماران که معلوم آسه سپدان که ون ته ون ما پھله ژکھ سیت یوسه تس آسه مثر کن ته

خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿۸﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا
 وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿۹﴾
 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿۱۰﴾
 فَأَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ؕ فَسُحِقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿۱۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۱۲﴾ وَأَسْرُوا
 قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۳﴾ أَلَا يَعْلَمُ

کافرن ہنز کَلِمًا أَلْفِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۖ يَلِيهِ يَلِيهِ تَتَّهُ جَهَنَّمِ مَنْزِلًا وَنَه آسہ
 یوان کافرن ہنز اکھ جماعتہا تمں آسن پر ژھان تمک داروغہ کیا توہ نس واژو ناگانہ نیم کرہ ون پیغمبرہ
 یم توہ نیم آسہ ہجو کرمت یمہ نار جہنمک یہ سوال آسن تم تمں کران بطور زجر و توبخ قَالُوا بَلَىٰ
 قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ تم کافر دیکھ واقعی آید و آسہ نشہ پیغمبر فَلَکَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِنَّا أَنْتُمْ
 إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ مگر شامتہ نہ کارہ زان آسہ تم اپزیر آسہ دپ تمں پیغمبرن کہ اللہ تعالیٰ ان چھنہ
 نازی کرمت از قسم کتاب یا احکام کنہ توہ چھوہ جہ غلطی اندر ہمت وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا
 فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ بیہ ون تم کافر جہنمہ کین داروغن ہر گاہ آسہ پیغمبرن ہیوندون بو زمٹ آسہا فکرہ
 تورمٹ آسہا اس کتہ آسہ ہوتلہ شامل دوزخہ کین لوکن اندر فَأَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحِقًا لِّأَصْحَابِ
 السَّعِيرِ پس کرن تم پنہ جریمگ اقرار پس یوین لعنت جہنمکین لوکن إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
 بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ پز پاٹھ یم لوک پنہ نس پروردگار س وچھنہ ورا ی کھوژت ایمان
 واطاعت اختیار کرن تہندہ خیطرہ چھو بوڈ مغفرت تہ بد مزور مقرر کرنہ آمر وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا
 بِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ای لوکو توہ لو تہ پاٹھ تھ کر تو یا بدہ بڈ کر تو نس چھ سارنی چیزن ہنز خبر
 کیا زہ سوہ چھو دلن ہنزہ تھ تان پور زانان أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کیا سو پروردگار یم
 یہ انسان پیدا کر گوژھنا زانن تمسد سوروی حال سو ی چھو ساری پوشیدہ چیز زانون سو ی چھو پور بانجر

مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۳﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ
 الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
 النُّشُورُ ﴿۱۵﴾ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ
 الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿۱۶﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ
 يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿۱۷﴾ وَلَقَدْ
 كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۱۸﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ سو چھو
 تنھوی منع یم تو ہندہ خیطرہ گریہ زمین رام تہ مسخر سو چھو تو ہند ساری تصرفات قبول کران پس پھیر
 یو توہ بچن وتن اندر تو پتہ کھیو خدایہ سند سوزق بس تم اتھ ز مینس اندر پیدہ کزلتہ طریقہ حاصل کرت
 مگر یمہ تھہ ہوند تہا یو وارہ خیال کہ تس کن چھوہ پتولا کہ واتن دوبارہ زندہ سپت لہذا کریو تہزن نغمن
 ہنز شکر گذاری ایمان و اطاعتہ سیت۔ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا
 هِيَ تَمُورُ اے لو کو کیا توہ چھوہ تس ذات پاکس نشہ صوکس اندر بے خوف سپد مت یسند حکم تہ
 تصرف چھو آسمان اندر سو کیا والہ توہ قارونہ سند پاٹھ ز مینس تل پس ایہ تھہ ز مینس یو نیول بیہ
 دو تھیس نٹھ تو پتہ سپد یس تلگ پیٹھ یعنی ای لو کو توہ پھیر یو تہ بچو اتھ ز مینس پیٹھ کھیو خدایہ سند رزق
 مگر مغرور گتھ مہ سپد یو غافل تہندہ یادہ نشہ اَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
 کہنہ توہ لوک چھوہ بے خوف تہ صوکس اندر تس ذات پاکس نشہ یسند حکم تہ تصرف چھو آسمان اندر
 یمہ تھہ نشہ کہ سو کیا سوزہ تو بچن سخت تیز و اوچتہ منزکنہ پھل تہ آسن قوم عادک پاٹھ یمہ سیت توہ تہ
 ہلاک گتھ ہیو۔ تو ہندہ کفرہ موجب گوٹھ توہ تی بن دن ہر گاہ ہنہ مصلحتہ سببہ تھہ منز تا خیر سپدان چھو
 سردست توہ پیٹھ عذاب ہنھنہ نازل سپدان فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ مگر عنقریب تلگہ توہہ زانن کہ
 میون بیم کرن تہ کھوٹہ ناون عذابہ نشہ کیو تھہ اوس۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ

إِلَى الظِّلِّ فَوَقَّعَهُمْ صَفْصِفَتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ
 إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۱۹) اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ
 يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفْرَ وَنَ الْإِنْفِي غُرُورٌ ۲۰)
 اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْمِيكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا
 فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۲۱) اَمَّنْ يَمِشِي مَكْبَأً عَلَى وَجْهِهِ
 أَهْدَى اَمَّنْ يَمِشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۲۲)

نیکو بے شک یمو لولو کومین برو نٹھ دین حقس اپز گنزر ت انکار کرو ٹھو میوں عذاب تھ پاٹھ سپد تمن
 پیٹھ واقع آسمانچ تہ زینچ ذکر کر نہ پتہ چھہ بیان کران زمین و آسمانس در میان ئیس فضا چھو تھہ منز تہ چھہ
 میانہ گن آسچہ دلیلہ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظِّلِّ فَوَقَّعَهُمْ صَفْصِفَتٍ وَيَقْبِضُنَّ کیا تمولو کو دژنا نظر پانس پیٹھ گن
 وڈہ وین جانورن گن یم پٹن پر مژراتھ وڈان چھہ سیہ چھہ پروٹھ تہ وڈان دو شون حالتن اندر چھہ تم
 باوجود نقل تہ گو بیر آسچہ پتھر پیوان مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ کانہہ تہ چھہ تمن ہواءس اندر معلق
 تہاوان رحمتہ والس خدایس وراى إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ بے شک پر تھہ چیزس کنن چھہ تس نظر
 اتھ پاٹھ خوش کر لیس تھہ پاٹھ چھو تھہ منز تصرف کران وکن یلہ تہ بوزہ کہ خدایہ سند تصرفات چھہ پر تھہ
 چیزس پیٹھ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفْرَ وَنَ الْإِنْفِي غُرُورٌ
 وکن و نتو تہ کہ حضرت رحمانس وراى کوہ چھو تہ ئیس تہ لشکر بنت بلا یوتہ آفتو نشہ نجات دئس اندر مدد
 بہہ کرت کافر یم پنہ نین معبودان باطلن نسبت یہ خیال تہاوتھہ چھہ تم چھہ بالکل دھوکس منز اَمَّنْ
 هَذَا الَّذِي يَرْمِيكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ اتہ و نتو تہ لوک کہ سو کوہ شخص چھو ئیس تہ رزق بیہہ دت
 ہر گاہ اللہ تعالیٰ بند کرہ تہ نشہ پنون رزق مگر یم لوکن چھہ یمو کھوسیت تہ کانہہ اثر سپدان بَلْ
 لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ بلکہ تم رو دژاڈ کرت سر کش تہ ژئس پیٹھ اَمَّنْ يَمِشِي مَكْبَأً عَلَى وَجْهِهِ
 أَهْدَى اَمَّنْ يَمِشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تہ تھہ بوزت سوچیوارہ کیاسو شخص ئیس و تہ ہندہ

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
الْأَفِيدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۲۳﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي
الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۴﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۵﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ


ناسہ تراس آسنہ موکہ کونت لگان آسن تہ سو آسہ بو تھکن پوان پوان پکان سو چھا منزل مقصودس
پیٹھ زیادہ وادون کنہ سو شخص چھولیس سیزہ تہ ہمواروتہ پیٹھ پکان آسہ یہوی حال چھو با ایمانس تہ کافرہ
سند با ایمان چھو پکان صراط مستقیمس پیٹھ افراط و تفریط ورا ی کافر چھو گمر اہی ہندیو کھوژو پیٹھ پکان تہ
اندر جایہ جایہ خطرے تھس سو کیاہ بیجہ واتھ منزل مقصودس اوتان آسہ توحیدہ چہ دلیلہ یمہ نبر نبر
چھہ امہ پتہ چھہ تمہ دلیلہ بیان یوان کرنہ یمہ انانس پانس اندر چھہ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ توه فرما یو کہ یار سول اللہ سو پروردگار گو سوی
قدر تہ وول تہ نعمہ عطا کرہ وون یم توه پیدہ کرہہ بیہ یم بوزنہ خطرہ کن وچھنہ خیطرہ اچھہ زاننہ خیطرہ دل
عطا کر توه یمن نعمن پیٹھ پڑہ ہا توه سٹھاہ شکر دمن مگر توه چھوہ سٹھاہ کم شکر دین یمن نعمن ہیوند شکر گیو
کہ یم طاقت تہ قوت گڑھ استعمال کرن تمہی جاین اندر یمن منزل اللہ تعالیٰ سند رضا آسہ تہ کرہہ نہ توه
قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ توه فرما یو کہ اتہ کہ سوی چھو سو پروردگار یم
توه پیدہ کرت روی زمینس اندر تھس اوو تو پتہ ا یو توه بیہ تس نشہ جمع کرنہ تہ سزاونہ یس نشہ آوہ تس
نشہ چھو توه بیہ وائن توه اوس لازم تس نشہ گوژھنہ اکس دمس تہ غافل روزن پر تھہ وقتہ گڑھ توه فکر
آسن کہ اس کیاہ گڑھو پنہ نس مالکس نشہ اس کمہ لا تھہ واتو تس نشہ اتھ چھنہ کافر ن پڑھی وَيَقُولُونَ
مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم چھہ دپان یہ قیامتک وعدہ کرایہ لبنہ ہر گاہ پزیر چھوہ توه قُلْ
إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ توه فرما یو کہ جواب کہ امہ قیامتہ تعینک علم چھو خدا یسی

كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿۲۷﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
 إِنِ أَهْلَكِنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ
 مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۲۸﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ الْمَتَّابُ وَعَلَيْهِ
 تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۹﴾ قُلْ

یو تھ ہو جس محض ن پاٹھ تو ہندہ خطرناک مستقبلک بیم کرہ دن فَاَلَمْ تَرَ اَوْ هُوَ لَفَنَّ سَيِّئًا وُجُوهُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ پس یلہ سو ہولناک مستقبل یعنی سو عذاب
 سمیوک تمن وعدہ تہاوند چھو یوان وچھن تم کھتل واتان تھ کن نظر پیوہ ونوی بخرن تمن کافرن ہند
 بو تھ شکہ دلکھ ونہ ایکہ یہوی کیا گو سو عذاب یس توہ جلد ژھاٹان آسیو قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكِنِي اللّٰهُ
 وَمَنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ توہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ ای کافر توہ ونویہ
 ہر گاہ اللہ تعالیٰ توہنزہ خواہشہ موجب مہ بیہ ہم با ایمان مہ سیت چھ تمن ہلاک کرہ یا ہر گاہ سو سانہ
 ویمز موجب تہ پنہ نہ وعدہ موجب اسہ پیٹھ رحم کرہ دو شوئن حالن ہیوند کیاہ اثر چھو توہ پیٹھ توہ ہیو خبر
 پنہ نی حاج کچھ توہ کیاہ بنوہ یعنی کافرن چھو بہر حال عذابس گرفتار سپدن تمن کوہ بیسکھ موکلات دودتہ دگ
 تلہ ونہ عذابہ نشہ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ الْمَتَّابُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا توہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ ایہ کہ سو معبود
 برحق چھو سیٹھاہ رحمتہ دول اسہ چھ پڑھ کر مژتہ ایمان اُمتت تس ایمانہ کہ برکتہ دیہ سُو اسہ نجات بیہ
 چھ اس تس پیٹھ اعتماد تہ توکل کران تمہ کہ برکتہ سپد وامن مقصدن اندر کامیاب اسہ رچھ سو
 آخر تک عذابہ نشہ تہ دنیا کیو حادثا تو نشہ تہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یلہ توہ عذابس گرفتار
 گڑھیو تہ اس روز تمہ عذابہ نشہ محفوظ تھی ساستہ سپدہ توہ معلوم کوہ چھونہ گراہی اندر اس آسوہ یس توہ
 خیال چھو کہ توہ آسیوہ سون عقیدہ چھو قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحْتُمْ مَادُّوْكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يُّؤْتِيْكُمْ مِمَّا مَعْبُورِيْنَ
 توہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتہ کہ ای لو کو ہر گاہ توہند آب یس چشمو تہ کیر یو منزہ
 نیران چھو ہر گاہ یہ شریپت گڑھ ز مینس منز کیر تہ ناگ توہند گڑھن خشک ادہ کوہ بیسکھ انتی توہ آب جاری

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿۳۰﴾

حدیث شریف من چھو آمت کہ ئس شخص سورہ ملک پرہ توہ پتہ پرہ یہ آیہ کریمہ (قُلْ أَرَأَيْتُمْ) الخ سوہرن اللہ یا تینا بہ و ہورب اللعین مگر یہ چھوہرہ ونسی پر ن بوزہ ونین نہ کنہ کیا زہ لفظ حدیث و چھو من قرأ یہ لفظ جھنہ من سمع اتھ گن نظر کرت چھو اما مسی پر ن مقتدین نہ کنہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۱ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ
 بِمَجْنُونٍ ۲ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۳ وَإِنَّكَ
 لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۴ فَسَبِّحْهُ وَوبِّصِِرْهُ ۵ بِإِسْمِ الْمَفْتُونِ ۶
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

ن پروردگاری چھو معلوم امہ اندرہ کیاہ چھو مراد وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ قسم چھو قلمک یہ
 سیت مخلوقاتن ہند تقدیر لوح محفوظس بیٹھ لکھنہ آمت چھہ بیہ چھو قسم تمن ملائکن ہند لکھنک یم
 لوکن ہنزہ عملہ لکھان چھہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ توه نمر چھو نہ پنہ نس پروردگارہ سندہ
 فضلہ سیت مت نہ دیوانہ چھہ پاٹھ تہوہدہ نبوتک منکرونان چھہ غرض چھو کہ تہوہ چھوہ نبی برحق شک و
 شبہ وراى وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ بے شک تہوہدہ خیطرہ چھو لوکن تبلیغ احکام کرنہ خیطرہ
 لوکن ہنزن بچھہ کتھن پٹھ صبر کرنہ خیطرہ سو بوڈ ثواب یسہ زاہ و برہون چھو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
 بیہ چھوہ تہوہ بے شک رتین خلقن ہدس اعلیٰ بیانس پٹھ پیدہ کرنہ آمت تو ہنز پرت کامہ چھہ اعتدالس
 پٹھ مجنونس تہ چھو آسان کامین اندر توازن نہ اعتدال دشمن تہوہد یم امہ قسم کچھ کتھ و نان چھہ تمبوک مہ
 بردیو تہوہ کانہ غم فَسَبِّحْهُ وَوبِّصِِرْهُ * بِإِسْمِ الْمَفْتُونِ عنقریب وچھو تہوہ یارسل اللہ بیہ وچھن تم تہ کہ
 تہوہ اندر گس چھو مجنون نہ دیوانہ جنوچ حقیقت چھہ عقل زائل گوہن عقلہ ہوند غایت چھو نفع و نقصان
 فکرہ ترن نقصان گو سوی نس ابدی آسہ یس پنہ قیامتک دوہ تمن تہوہد دشمن کہ عاقل تہ کاٹل
 آس با ایمان یمو یہ نفع ابدی حاصل کر مجنون نہ دیوانہ آس کافرینے یس دشمن یم امہ نفع ابدی نشہ
 محروم سہت ضرور نقصان ابدیس مبتلا سہد۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ۴ فَلَا تَطْعِمُ الْمُكْذِبِينَ ۵ وَذُو الْوَتْدِ هُنُ
 فَيْدُ هُنُونَ ۶ وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۱۰ هَمَّا زَمْشَاءُ ۱
 بِنَمِيمٍ ۱۱ مَتَاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ آئِيهِمْ ۱۲ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۱۳
 أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۱۴ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ
 أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۱۵ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ۱۶ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا

بِالْمُهْتَدِينَ بے شک تہوند پروردگار چھوٹس شخصس وارہ زانان نُس تہنزہ ووتہ نشہ ڈول سوی چھوہ وارہ
 زانان سبزہ ووتہ پٹھ پکھ وکن لہذا دیہ سوی پرت کانسہ جزائتہ سزاوین یلہ تہ سپد معلوم کہ تہ چھو پزس
 پٹھ تہوند دشمن چھ اپزس پٹھ۔ فَلَا تَطْعِمُ الْمُكْذِبِينَ پس مہز مانیو تہ یمن مُکْرَن ہنزہ کتھ پٹھ پٹھ نہ
 ازتان مونو کھ وَذُو الْوَتْدِ هُنُ فَيْدُ هُنُونَ تم چھ یڑھان تہ گڑھو ہونعو ذباللہ پنہ نُس فرض مضمیس
 یعنی تبلیغس بت پرستی ہندس تردیدس منز جہندہ رعایہ خیطرہ ہناہ نرمی کرن تلہ کر ہن تم تہ تہ ہندس
 مخالفس اندر نرمی وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ تہ مہز مانیو تہنزہ کتھ خصوصاً اتھس شخصہ سنزہ کتھ نُس
 زیادہ قسم ہاوان آسہ نُس پنہ نیو پچھ حرکتو موکھ خدا یس تہ لوکن نشہ بے وقعت تہ ذلیل آسہ۔
 هَمَّا زَمْشَاءُ بِنَمِيمٍ یس زر کہ تہ طعنہ دیوان آسہ یس وناون کران پھیران آسہ مَتَاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
 آئِيهِمْ یس رڑو کا میون نشہ لوکن پٹھ رٹہ ون آسہ نُس حدہ نشہ ڈلہ ون آسہ نُس بدکار تہ گناہ گار آسہ
 عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ یس بد مزاج تہ ژکھویل آسہ نُس امہ ساری علاوہ ولد الزناتہ حرامزادہ تہ آسہ
 غرض کہ تہ مہز مانیو تہنزہ کتھ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ یسہ موکھ کہ سو کیا آسہ مالہ دول تہ سُر
 گھبر وول یعنی دنیاں اندر آسہ صاحب وجاہت! اتھس شخصہ سنزہ کتھ مانہ نہ نشہ چھ اس تہ ممانعت
 کران یسہ موکھ کہ اتھس شخصہ سند عادت چھو کہ۔ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
 یلہ تمس بروٹھ کنہ سین آیات پر نہ یوان چھ سو چھو وناں یسہ چھ بے سند کتھ یسہ نقل چھ آمزہ کرنہ
 بروٹھن نشہ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ اس کروداغ عنقریب تہنزہ نشتہ پٹھ یعنی قیامتک دوہ کرو اس

بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿۱۷﴾ وَلَا
 يَسْتَتِنُونَ ﴿۱۸﴾ قَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿۱۹﴾
 فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿۲۰﴾ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿۲۱﴾ أَنْ ائْتُوا عَلَيَّ
 حَرْشِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۲﴾ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿۲۳﴾

تہمدہ کفرہ سببہ تہندس بو تھس تہ نستہ پٹھ سو علامت یمہ سیت تمئن ساری لوک پرزہ تاوان آس تہ
 سیت سپن تم وارہ ذلیل تہ رسوا اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ بے شک اسہ چھہ یمن مکہ کین
 لوکن آزمائش کر مژسامان عیش دنہ سیت تہ پٹھ تم مغرور چھہ اس وچھہ یمن نہ ایمان خدا یہ سندس کن
 آسئس کنہ یم کرن ناشکری کفر و شر کہ سیت تہ پٹھ اسہ آزمائش کر تمئن برو تھہ بانغہ والین (یہ اوس
 اکھ بانغہ حبش منزیاتمنس منز امہ بانغ آس خبری مکہ کین لوکن تمئن بانغہ والین ہیوند قصہ چھو تھہ پٹھ
 کرہ تمئن بانغہ والین ہیوند مول اوس پنہ نہ وقت امہ بانغہ کہ میوک اکھ بوڈ حصہ غریبن تہ مسکین اندر
 تقسیم کران یلہ سو یمہ عالمہ گوامند یونچو یو دوپ یہ سون مول اوس احمق تہ بے عقل کہ یوش حصہ
 امہ بانغہ کہ آمدنی ہیوند اوس مسکین دو ان۔ ہر گاہ یہ سوری میوہ اس گرے انوشٹاہ فاندہ واتہ اسہ چنانچہ
 اتھ پٹھ سپد یم متفق۔ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَتِنُونَ یلہ تموپانہ وان قسم ہوو کہ جس
 سلہ گروہ اس ضرور امہ بانگ میوہ ژمنہ خیطرہ بیتہ اعتماد و وثوقہ سان ویچھہ یہ تھہ کہ ان شاء اللہ پر ن تہ
 گو کہ مشت یلہ امہ کج بدیتی سپز یہندین دن اندر قَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ پس
 پھو رراتہ منزی اتھ بانغس تہوندس پروردگارہ سندہ طرفہ اکھ کنوی واوہ پھشاہ تھہ نار اوس یمہ
 سیت یہ سوروی بانغ دزت گوونہ آس تم شو گھتی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ پس سپد سوبانغ زن تھہ
 ساری دروت اوس واینہ آمت فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ پس ہیوت تموصس ندرہ تھہ اکھ اکس آلودیون
 أَنْ ائْتُوا عَلَيَّ حَرْشِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ و تھو با یو واتو سلہ گرہ زمینس پٹھ ہٹھوے غرض میوہ
 ژٹنک فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ پس دراے تمپانہ وان آس لوتہ لوتہ تھہ کران یوتھہ کانہ بوزہ اَنْ

اَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿۲۳﴾ وَغَدَاً وَعَلَىٰ حَرْدٍ
 قَدِيرِينَ ﴿۲۵﴾ فَلَمَّارًا وَهَاقًا لَوْ اِنَّا لَضَالُّونَ ﴿۲۶﴾ بَلْ نَحْنُ
 مَحْرُومُونَ ﴿۲۷﴾ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ ﴿۲۸﴾
 قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى
 بَعْضٍ يَتَلَآءَمُوْنَ ﴿۳۰﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿۳۱﴾

لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ یو تھ نہ توہ نشہ ازاتھ باغس اندر کانہہ مسکین تہ محتاج اثر تھ ہمہ
 وَغَدَاً وَعَلَىٰ حَرْدٍ قَدِيرِينَ پس درای تم پنے نہ خیال کانہہ نہ دلس پٹھ قدر تہ وال زانت خیال او سکھ
 از دمنہ اس کانہہ سوروی انواس پنے نوی گرہ فَلَمَّارًا وَهَاقًا لَوْ اِنَّا لَضَالُّونَ پس یلہ توت واتھ تھ
 پٹھ نظر پیکھ باغہ کس اتھ حالس پتھ دپنہ لگ اس چھ لگمت خبر کوت اسہ چھہ و تھ راومر کیا زیہ پتھ نہ
 باغ واغ اسہ نظری یوان تو پتہ یلہ اورہ یور نظر اہ و ڈکھ معلوم سپدک یقیناً چھہ یہ سوی جای۔ تمہ ساتہ
 لگ دنہ نہ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ چھو اس تمہ نعمتہ نشہ محروم سپد مت قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ
 لَكُمْ تمواندرہ ئس ہناہ جان پہن انسان اوس سو لگوکھ دپنہ مہ و نیوہ ناتوہ کہ ایشہ نیت مہ کریو۔
 مسکین فقیرن دنہ سیت چھہ برکت بنان امی موکھ فرمواندہ تعالیٰ ان تس جان انسان لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ تو پتہ
 دوپ تکھ و سن یہ اتھ سانہ بدیتی ہندہ شامتہ بنون اوس تہ بیوس مگروین کونہ چھوہ کران توتہ
 خدا ئس کن توبہ تسندیاد کرنہ سیت تسبیح پر نہ سیت دیوہ اتھ گناہس اسہ معاف کرہ امہ خوتہ زیادہ کانہہ
 تکلیفہ اسہ واجنہ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ چنانچہ ساروی ہیوت پر ن توبہ کران کران سون
 پروردگار چھو منزہ تہ پاک اس چھہ بے شک پان پانس ظلم کرہ و ن اسہ کر قصور فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى
 بَعْضٍ يَتَلَآءَمُوْنَ پس پھیر اڈا ئن گن اکھ اس ہتو کھ الزام دیون (تھہ پاٹھ عادت چھو لو کن
 ہوند کہ کوم خراب گڑھت چھہ اکھ اس ٹھولہ دو ان پانس پٹھ چھونہ کانہہ بور ہوان قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا
 كُنَّا طٰغِيْنَ تو پتہ لگ ساری متفق سپد تہ ونہ نہ کہ افسوس واقعی آس اس ساری حدہ ڈلہ وین یہ چھو

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿۳۲﴾
 كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا
 يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۳۴﴾
 أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿۳۵﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۶﴾
 أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿۳۸﴾

نہ اسے اندرہ اسمدوی یوت خطا بلکہ چھ اس ساری اتھ اندر خطا کار چھواداسی سیت نیرہ نہ کنہ تہ اس
 ساری کرواکہ وہ توبہ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ شاید توبہ کہ برکتہ ما کرہ
 سون پروردگار اسہ امہ باغ بدل امہ خوتہ رُت بانمہ عطا دنیا س اندریا آخرتس اندر امہ اندر چھو سپدان
 معلوم کہ یم لوک آس با ایمان بخلہ سببہ سپدک بدینتی یموک سزایہ نقصان تلک مگر توبہ کہ برکتہ
 کر کہ اللہ تعالیٰ ان دنیا سی اندر امیوک عوض عطا چنانچہ تفسیر روح المعانی اندر چھو عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 سند قول نقل آمت کرنہ کہ تمن آوامہ و تہ روت باغ عطا کرنہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان كَذَلِكَ
 الْعَذَابُ تہ پانٹھ چھ آسان سون عذاب امی مکہ کیو کافر و توبہ تہ کیا چھو اتھتی عذابک مستحق تہ سزاوار
 بلکہ امہ خوتہ سخت عذابک سزاوار کیا زہ یہ عذاب سمیوک ذکر کرنہ آویہ آو تمن کرنہ محض اکس
 مصحیتس پٹھ توبہ چھوہ کفر تہ شرک کران توبہ شوبہ امہ خوتہ زیادے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ
 كَانُوا يَعْلَمُونَ آخر تک عذاب چھو یمہ دنیا کہ عذابہ خوتہ سٹھاہ بوڈ کیاہ روت اوس ہر گاہ یم کافر

اتھ تھ وارہ زانہن۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ بے شک پر ہیز گارن ہندہ خیرہ چھ
 تہندس پروردگار س نشہ آسانس ہند جنت یعنی جنٹس واسٹک سبب تہ ذریعہ چھو تقویٰ تہ پر ہیز گاری
 کافر تہ مُشْرک چھ امہ نشہ عاری تہ خالی لہذا تھ پانٹھ ہک تم جنٹس واتھ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ
 كَالْمُجْرِمِينَ کیا اس کرو کہ فرماں بردار تہ تا فرمان برابر مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ای کافر و توبہ کیا گوہ توبہ
 کہہ بوتھ چھوہ یہ فیصلہ پانس پٹھ دو ان۔ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ کیا توبہ نشہ چھاکانہ آسمانی کتابہ

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِاللَّغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿۳۶﴾ سَأَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿۳۷﴾ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فِي مَا تَدْعُونَ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۳۹﴾

تھ منز توہ پر ان چھوہ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخْتَرُونَ بے شک تھ کتابہ منز چھ لکھت تہوندہ خیطرہ سو چیزئس توہ پسند چھوینے تھ کتابہ منز کیا چھو لکھت کہ آخرتس اندر کیا آیہ توہ عطا کرنرہ رثمزور اَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِاللَّغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کنہ اسہ پٹھ چھ ذمہ کھمت کنہ قسم یم اسہ تہوندہ خیطرہ ہاومت چھ یم قسم قیامتس تان برابر باقی روزہ ون چھ سمعہ پھوٹنی زانہ یم قسم تھ کتھ پٹھ ہاونہ آمت چھ کہ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ بے شک تہوندہ خیطرہ چھ تم چیز یم چیز توہتہ حقہ فیصلہ کریوینے ثواب تہ جنت سَأَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ توہ پر تھتویار رسول اللہ تمن کہ توہ اندرہ کوہ چھو امیوک ذمہ دار اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ کیا تہند ٹھراومت خدایہ سند شریک چھاتمن امہ کتھ ہند ذمہ دار کہ تمن کیا بنہ آخرتس اندر ثواب تہ جنت فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ پس کرن تم پیش تمن شریکن ہر گہ تم پوزونان چھ غرض یلہ نہ یہ کونہ آسانی کتابہ اندر تہ چھونہ چھوسانہ طریقہ یمن اتھ پٹھ کانہ وعدہ یس بمنزلہ قسم آسہا نہ چھوامہ کتھ ہیوند ذمہ دار یمو اندرہ کانہ بنان نہ تہند یو شرکیو اندرہ پس امہ بے بنیاد کتھ ہوند دعوی کرن یہ ونون کہ وَ لَئِنْ رُجِعْتَ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسْفَى یعنی ہر گہ بو خدایس نشہ واتانہ یمہ تس نشہ بنہ مہ رثمزور کثیراہ شرمناک کتھ چھ امہ پتہ چھ اللہ تعالیٰ بیان کران کہ تمن کافرن کثیراہ رسوائی آسہ قیامتک دوہ يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سو دوہ تہ چھوڑتس پاونس قابل یمہ دوہ گریزہ ہیوند تجلی منز اونہ آیہ تویپتہ آیہ سارنی لوکن سجدس گن نادونہ یم کافر دنیا س اندر خدایس گن نماں آس نہ یعنی نماز پران آس نہ تم کن نہ تمہ وقتہ سجدے دت حدیث شریفس اندر چھو کہ اللہ تعالیٰ نر اوہ قیامت دوہ پنہن گرز گرز نر اونہ اندر چھو مراد کانہ خاص صفتاہ تھ کونہ مناسبتہ لوکھ گرز آونہ نہ تھ حدیث شریفس منز چھو کہ یہ تجلی و چھت

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ
إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿۳۳﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا
الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ وَأُمْلِي
لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۳۵﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ
مُثْقَلُونَ ﴿۳۶﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿۳۷﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ


دن ساری مسلمان مرد و مسلمان زنانہ سجدہ یم شخص دنیا س اندر بین ہاونہ خطرہ سجدہ دوان اس تم بہکن
نہ سجدے دتھ تمن گدھ کمر شترج پٹ ہیو تم ہیکن نہ بون کن نمٹہ یہ آسہ امہ تجلیک اثر کہ مخلص
با ایمان سپدن مضطر سجدہ دنس پٹھ ریاکارہ منافق کرہ بکن سجدہ دنگ ارادہ مگر قدرت لبس تہ تم سجدہ
کرنس پٹھ کافرن ہنزہ چھنہ کھی خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ تہزہ اچھ پین شرمندگی سبہ بون
کن تمن پٹھ آسہ ذلت تہ رسوائی ولہ آثر امیوک وجہ آسہ ای کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ
وَهُمْ سَلِيمُونَ یمن اوس دنیاء س اندر سجدس کن ناد یوان دنہ یعنی ونہ نہ اوسکھ یوان کہ ایمان انتو
معبود برحقہ سنز عبادت کر تو تم اری تہ ور آسٹھ آسہ خدا یمنز عبادت تہ بندگی کر ان یمن آسن قیامتک
دوہ مختلف حالات کونہ وقتہ آسکھ غیرت غالب سپدت اچھ ہیور کن درہ لگان، تہ کونہ وقتہ آسکھ غلبہ
ندامت و خجالت وزہ بون کن پوان فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ
لَا يَعْلَمُونَ توہ تراویو مہ یار رسول اللہ سبہ تمن لوکن یم یٹھ کلامس یعنی قرآن مجید س اپز گنزر ان چھ
موجودہ حالسی پٹھ توہ مہ بانبر یو یمن کونہ چھو جلد عذاب کرنہ یوان اس چھک تم و اتاوان پاوہ پاوہ بتدرج
جہنمس کن تمہ طریقہ کہ ثینہ نے تہ تم کہ تھہ بلایہ کن چھہ و اتان وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
سر دست چھوس بو تمن مہلت دوان بے شک میون تدبیر چھو سیٹھا مضبوط تہ محکم أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا
فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کوتاہہ تجب چھو یمن ہندس انکار نبوتس پٹھ کیا توہ چھوہ تمن نشہ تبلیغ و
دعوت کرنس پٹھ کنہ مزور تہ عوض مگان پس کیا چھہ تم تمکسی بارس تل لگمت تہودہ چھہ ہکان دتھت

رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۳۸﴾
 لَوْلَا أَنْ تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۳۹﴾
 فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۰﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ

أمر عندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُوبُونَ کہ تم نشت چھو غیب علم سو محفوظ تھا ونہ خیطرہ چھ تم سو لکھان یعنی
 یمن چھا خدایہ سند احکام بیہ کونہ ذریعہ واتان تا ایسہ یمن کیا چھنہ ضرورت تو ہندہ متابعت و پیروی
 ہنزیہ کتھ چھ ظاہر کہ یمودو یو کتھو اندرہ چھنہ تم نشت کانہ کتھ ونے یم توندس نبوتس انکار کران
 چھ کتھ بناءس پٹھ یلہ توہہ معلوم سپد یارسول اللہ کہ یم چھنہ کفرہ سبہ بہ مستحق عذاب وین بیسہ تم نشت
 مہلتھ یوان چھ دنہ سہ چھ امی موکھ یوتھ ناوتھنز برنہ آیہ مقرر و قس سپدن تم ضرور گرفتار عذاب فاصیڈ
 لِحُكُورَبِّكَ پس کریو توہ پنہ نس پروردگارس سندس اتھ تجویزس پٹھ صبر وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ
 الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ دل تنگ سپدنس اندر مہ سپد یوتھ گاڑہ ہنزیہ ہنڈ اندر اثرہ ونس بیغبرس
 یونس علیہ السلام ہی تم سپد دشمن پٹھ عذاب نازل نہ سپدنہ موکھ دل تنگ سو وقت تہ پاد یو ژتس یلہ
 یونس علیہ السلام پنہ نس پروردگارس مونگ دعائتھ حالس منز کہ تم آس وارہ یمن غم اندر بو نڈ مت
 سو گولا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین لَوْلَا أَنْ تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ
 وَهُوَ مَذْمُومٌ ہر گہ نے احسان خدانوی تم نشت گیری کرہ ہانتہ یمن تراونہ ستھ حالس اندر ستھ
 حالس اندر گاڑہ ہندہ شحمہ اندرہ کڈت میدانس اندر تراونہ آئیے پیچھ طریقس اندر مگر اللہ تعالیٰ ان
 کر کہ تو بہ قبول سوی گیہ د شگیری کرن تو بہ قبول کرت ان لکھ نہ رو بہ اجتہادی غلطی ہونڈ نہ آس
 نہایت بد حالی فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بلکہ کر تم یمن پروردگارن برگزیدہ تم نشت
 زیادہ مرتبہ عطا تم کرن صالحو اندرہ۔ امہ اندر چھ غرض پنہ نہ اجتہادہ موجب عمل کرن کوتاہ مضر
 سپد ثابت تہندہ حقہ اتھ پٹھ مہز کریو توہ جلدی کافرن عذاب نازل سپدنس اندر بلکہ کریو توہ صبر تہ
 توکل تمیوک پھل تہ نتیجہ نیرہ سٹھاہ روت وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِأَبْصَارِهِمْ لِنَسِئِ عَوَالِدِ الْكَافِرِ
 وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ یم کافر یلہ یہ قرآن مجید تہونڈہ زبان مبارکہ بوزان چھ سخت عداوتہ کہ سبہ

كَفَرُوا وَالَّذِينَ نَكَحُوا أَبْصَارَهُمْ كَمَا سَبَّحُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ
لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۵۲﴾

بہ چھ توہ کن تھہ پاٹھ و چھان زن اچھوسیت کھیت ژھہن تہنزہ اچھ لگنہ سیت ماڈلن تہ نیرت گڑھن
تہوند پائے مبارک توہ ایو پتھر لاینہ چھ شدت عداوتہ موکھے تم توہ و تان نعوذ باللہ موت تہ دیوانہ
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ قرآن مجید ئیس توہ تمہن پران چھوہ یہ چھوساری جہانہ خیطرہ ہنڈ
نصیحت تہ وعظ



سُورَةُ الْحَاقَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 الْحَاقَّةُ ۱ مَا الْحَاقَّةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۳
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۴ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا
 بِالطَّاغِيَةِ ۵ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۶
 سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِينَةَ أَيَّامٍ لِحُسُومًا
 فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازٌ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۷

الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ سو قیامتک وقت کیاہ چھو قیامتک وقت وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ توہ کیاہ چھ
 خبر سو قیامتک وقت کوتاہ مشکل نہ ہولناک چھو کَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ قوم ثمودن نہ قوم
 عادن زون اپز سو ثمودن دوہ ئیس دوہ آسمانس نہ زمینس زونہ نہ آفتابس گھن نہ بالن ڈیٹھ تراوہ بیہ کمن
 کمن سخت چیزن ریزہ ریزہ نہ سور کرہ تھہ دوہس انکار کرنہ موکھ چھیہ خبر کیاہ گذر یوہ یمن دو شون
 قومن فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ پس آو قوم ثمود گالانہ جبریل آینہ سزہ کونی کریکہ سیت
 تہزہ اہ جایہ الراونہ آییہ دت ولس پیہ۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ قوم عاد لیس اوس سو
 آو گالانہ سخت نہ تیز واوہ سیت لیس بے قابو سپد مت اوس سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِينَةَ أَيَّامٍ
 حُسُومًا ئیس واو مسلط کرنہ آو تمن پیٹھ برابر ستن راتن نہ آٹھن دوہن پے در پے فَتَرَى الْقَوْمَ
 فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازٌ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ای مخاطب ہر گہ ڈہ تمہ وقتہ تھہ جایہ موجود آسکھ ڈہ و چھمن
 سو قوم زمینس پیٹھ و لیس پیومت زن تم کھو کھرن خضر کولین ہند بونیم حصہ آس قد بلند موکھ آکھ خضر

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۸ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ
وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ۹ فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ
فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ۱۰ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ
فِي الْجَارِيَةِ ۱۱ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَنَعِيهَا أَذُنًا ۱۲ وَأَعْيَاكُمْ ۱۳
فَإِذَا نَفَخْنَا فِي السُّورِ نَفْحَةً وَوَاحِدَةً ۱۴ وَحَمَلْنَا الْأَرْضَ

کولین سیت تشبیہ و نہ فہل تری لہم من باقیۃ پس چھویہ ژہ اے مخاطب تمہو اندرہ کانہ درینٹھ
یوان۔ یعنی تمہو اندرہ رود نہ اکھ تہ باقی تم ای مولہ مونجہ صفحہ ہستی نشہ نیست و نا بود کرنہ تہو ندی بول تان
آو گالہ و جاء فرعون و من قبلہ و المؤتفک بالخطیئۃ اتھے پاٹھ آو فرعون بیہ یم لوک تس
برونٹھ آس قوم نوح بیہ قوم لوط یمن ہنزن جابن تہ بستین تلوک پٹھ آو کرنہ بڈبڈ قصور تہ جرم ہست یعنی
کفر تہ شرک تمہ خیطرہ سوز آسہ تمن کن ہین پیغیر۔ فعصوا رسول ربہم فآخذہم آخذۃ
رابیۃ مگر تمہو کر تس پتہ نس خدایہ سندس پیغمبرہ سزنا فرمانی کفر و شرک نشہ روز نہ ہتھ بیہ کرکھ قیاس
تہ انکار پس رٹ تم اللہ تعالیٰ ان سٹھہ سختی سان۔ تمہو اندرہ قوم عاد و ثمود تہو ند قصہ کو بیان کرنہ و من چھو
یوان بیان کرنہ قوم نوحس متعلق انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریۃ یلہ نوح علیہ السلامہ سندہ وقتہ
آبس یو پ کھوت عالم سہدت غرق تہند یو کو ہو پٹھ کن گو آب ژ تجرہ کر تمہ ساتھ کھاروہ اسہ توہ ناوہ اندر
یعنی تمہ وقتک تہو ند آباء و اجداد یم با ایمان آس کیازہ تمن نجات بنون سپد باعث توہندہ وجودک
تمن نے نجات بنہ ہاتہو ند وجودی آسہانہ کونہ باقی نا فرمان تہ کافر پھاٹو اسہ ساری لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ
تذکرۃ و نعیہا اذن و اعیۃ تاکہ اس ہتھ کروں یہ معاملہ توہندہ خیطرہ اکھ یادگار راہ تہ عبرتک سہ بہ
بیہ یو تھ ژ تس تہاوہ و نن یہ واقعہ پور ژ تس تہا دن یعنی یو تھ لوک یہ تھ ژ تس تہا د تھ تمونافرمانیو نشہ
پٹھ روزن یموسیت یڑھن بلاین گرفتار چھ سپدان یہ گو او تان قیامتہ کین منکرن ہونہ حال امہ پتہ چھو
بیان یوان کرنہ قیامتک ہولناک حالات فَاذَا نَفَخْنَا فِي السُّورِ نَفْحَةً وَوَاحِدَةً تمہ پتہ یلہ پو غس منزایہ

وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَّةً ۝۱۳۱ وَوَقَعَتِ الْوَادِعَةُ ۝۱۳۲
 وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝۱۳۳ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَجْزَائِهَا
 وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۝۱۳۴ يَوْمَئِذٍ
 تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝۱۳۵ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
 كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَذَا مَا قَرَأْتُ ۝۱۳۶ وَإِنِّي
 ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسَابِيَةٌ ۝۱۳۷ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝۱۳۸

مکوی بھوک دنہ (یعنی گوڈنیوک بھوک) وَوَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَّةً وَوَادِعَةُ بیہ بین
 زمین سے کوہ تمہ وقتہ تھوڈٹلنہ پنہ نہ جاہی نشہ ڈالنے پس آہیہ دو شون ریزہ ریزہ کرنہ قیومینہ وَقَعَتِ الْوَادِعَةُ
 تھی دوہہ کیا سپدہ واقع سو چیز نیس سپدہ دن آسہ یعنی قیامت وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ بیہ
 پھٹہ تمہ دوہہ آسمان سو آسہ تمہ دوہہ ہپومت لیوزتہ کمزور سپدمت تھی سپدنس کھنہ تہ پھرائہ وَالْمَلِكُ
 عَلَىٰ أَجْزَائِهَا تمہ وقتہ روزن ملائک آسمانہ کین کنارن پٹھ آسمان پھٹہ منز باگ کنارہ روزنس موجودیم
 واقعات سپدن گوڈنک بھوکہ سیت امہ پتہ یمن واقعات ہنز ذکر چھہ تم سپدن دویمہ بھوکہ سیت
 وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ بیہ ٹلن توہندس پروردگارہ سندن عرش پانس پٹھ تمہ دوہہ
 آٹھ ملک قیامتک دوہہ ٹلن تھہ عرش آٹھ ملک تھے واتاون عرش مجیدس محشرکس میدانس اندر۔ توپتہ
 سپدہ حساب شروع۔ تمیوک بیان چھوامہ پتہ یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
 تمہ دوہہ ایو تہہ ساری پیش کرنہ خدا نیس بروٹھ کن توہنز کانہہ کتھاہ روزنہ اللہ تعالیٰ اس نشہ کھٹت توپتہ
 ین نامہ اعمال وڈان وڈان دنہ لوکن ہندن اتھن اندر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ۝۱۳۶
 تمس نامہ اعمال پنون دنہ ایہ دتھنس اتھنس کیتھہ سونوپہ خوش گوشہت پانس آندہ پگ لوکن۔ هَذَا مَا قَرَأْتُ
 اقْرَأْتُ وَكَتَبْتُهُ ہالو کو لیو پر یومیون نامہ اعمال إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسَابِيَةٌ مہ اوس گوڈہ پٹھے
 اعتقاد تہ پڑھ کہ مہ چھو ضرور پیش آنہ وول پنون حساب۔ یعنی بو اوس اعتقاد تہ پڑھ تھوان قیامت تہ

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿۲۳﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا
هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿۲۴﴾ وَأَمَّا مَنْ
أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۗ فَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهُ ۗ
وَلَمْ آدِرْ مَا حِسَابِيَهُ ۗ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۗ مَا
أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ۗ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ۗ خُدُوهُ
فَعُلُوهُ ۗ ثُمَّ الْحَجِيمَ صَلْوُهُ ۗ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا

حسابک تمہ کی برکت کرمہ اللہ تعالیٰ ان بڑ مہربانی فہو فی عیشۃ زافیۃ بس وائتہ سورتس عیش
اندر فی جنتہ عالیۃ یعنی تھدس جنس اندر قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ہمیک میوہ تیت نکھ آسن کہ پرت
حالس اندرین تم استعمال کرنہ۔ متھ پاٹھ تمن خوش کرہ تھہ پاٹھ ونہ نہ آیتھہ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا
بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ کھیوتہ چیومزہ کرت یہ چھوہ تمن عملن ہوند بدلہ یمہ توبہ بڑہ ثوابہ چہ
امید سیت کران آسیو بروٹھمن دوہن اندر یعنی یم دوہ توبہ دنیا س اندر گذاروہہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ
بِشِمَالِهِ وین نئس نامہ اعمال پنون ٹھو ہرس انھس منز دہ آیہ فَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهُ سوونہ
نہایت حسرت و افسوسہ کن کہ کیاہرت گڑھہ ہا میانہ حقہ کہ ہر گاہہ نامہ اعمالی دنہ آہیانہ و لَمْ
آدِرْ مَا حِسَابِيَهُ مہ سپدانہ معلومے میون حساب کیاہ آسہ یَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ کیاہرت گڑھہ
ہا اگر گوڈ نکوی مرن ختم کرہ ہا معاملس تمہ مر نہ پتہ آسہانہ بیہ پیدہ سپدن نہ بہن نامہ اعمالے تقسیم کرنہ
نہ آیہ ہا حسابے ہنہ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ افسوس کانہ نفع دیوت نہ مہ مالن بہنن هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ
میون حشمت تہ عزت تہ گور ہا ذاتھس شخصہ سندہ خیطرہ سپدہ حکم ملائکن خُدُوهُ فَعُلُوهُ * ثُمَّ
الْحَجِيمَ صَلْوُهُ ریون یہ شخص توپتہ تراویوس نال غل توپتہ و اتناویون نار جہنم اندر ثُمَّ فِي
سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ توپتہ و ریون تھہ ہانکھہ تھہ پیا لیش چھ ستت گز۔ امہ

سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۗ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۗ
 فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَبِيمٌ ۗ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ
 غَسِيلِينَ ۗ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۗ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا
 تُبْصِرُونَ ۗ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۗ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ


عذابک وجہ کیا چھو، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ شخص گونا سوی تمس نہ پڑھ آس عظمتہ
 والہس بڈس خدا یہ سنز وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ بیہ اوس نہ یہ غریب نہ مسکین لوکن
 کھیاونک ترغیب دو ان نہ اوس پانہ فقیرن مسکین کھیاوان چاوان غرض امس شخصس آس نہ دلس اندرنہ
 خالقہ سنز عظمت نہ آس مخلوقن ہنز شفقت نہ اوس یہ حقوق اللہ ادا کران۔ یہ حقوق العباد بجانان
 یہ چھو تمن دوشون حقن ہوندا تارک نہ منکر تمی سبہ بہ چھو یہ مستحق عذاب فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا
 حَبِيمٌ ۗ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ ۗ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ لہذا چھونہ از تہندہ خیطرہ نہ کانہ
 دوستانہ نہ ہم خوارہ۔ نہ چھو تہندہ خیطرہ کھنوک کانہ چیزاہ نصیب غسیلینہ ورا ی یعنی جہنمین ہندن ز خمن
 ہیوند بیل تہ پاک۔ یس نہ بڈین گنہ گارن ورا ی کانہ نہ کھیہ امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ تمہ قرآن مجید ج
 حقانیت تہ منز یمن مجر من ہندہ امہ سزاء ج ذکر چھ۔ یس اتھ قرآن مجیدس انکار کرہ سو تہ سپدہ امی
 قسمہ کس عذابس گرفتار۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۗ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۗ یس شخصس بوقسم ہاوان تمن
 چیزن ہوندم تہ وچھان چھوک یا تہ قسمس چھ اکھ مناستہاہ اصل مقصدس سیت کیاہہ قرآن
 مجید یس اتان اوس سواوس نہ کانہہ درینٹھ یوان۔ یمن نشہ واتان اوس تمن آس ساری وچھان یعنی نہ
 چھو سارنی مخلوقن ہیوند قسم کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ بے شک یہ قرآن مجید چھو خدا یہ سند
 کلام یس معزز ملکہ سندہ ذریعہ واتانہ چھو یوان لہذا یس صاحبس نشہ سو واتان چھو تم چھہ بے شک
 پیغمبر برحق وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ یہ چھونہ کانہہ شاعرہ سند کلام تہہ پاٹھی تہ اندرہ بعضے کافر چھہ

کَرِيمٌ ۳۱ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ۳۱
 وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ ۳۲ تَنْزِيلٌ مِّنْ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ۳۳ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۳۴
 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۳۵ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۳۶ فَمَا
 مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۳۷ وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۳۸

وناں اس جلیل القدر پیغمبر نعوذ باللہ شاعر قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ مگر توہ منزچہ کے پڑھ کر ان
 یعنی پڑھی چھونہ کران کانہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ بیہ چھونہ کانہ سند کلام ہتھ پاٹھ بعض کافر
 آس تمن کاہن وناں قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ مگر کم چھوہ توہ نصحت رٹان حقیقت چھ پیہ کہ نہ چھویہ
 قرآن مجید شاعرہ سند شعر نہ چھ کاہن سز کہانت بلکہ چھویہ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کلامہ
 نازل کرنہ آمت حضرت رب العالمین سندہ طرفہ۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ توپتہ ہرگہ
 بالفرض یہ پیغمبر اسے گن لاگماکنہ آپزہ تھ یعنی کس کلام اسہ فرمومت آسہانہ تھہ دپہ ہاسون کلام یعنی اپز
 دعوی نبوت کرہ ہیاخدا یہ سندس کلامس سیت ملناو ہاپون کلام تلہ کتہ چھڑہ ہون سوایس۔ لَأَخَذْنَا
 مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ بلکہ کرہ ہواس تہندس دھس اتھس تھپ توپتہ ژٹہوأس
 تہندہ دلچ رگ یعنی تم تھاوہ ہوک نہ اس زندے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پس آسہانہ توہ
 اندرہ کانہ اکھا تمن امہ سزانشہ پتھ رٹہ ون تہ بچاوہ ون۔ چونکہ یوتھ معاملہ چھونہ آمتوی درپیش لہذا
 چھوای سیت ثابت کہ یم چھورسول برحق یہ قرآن مجید چھو بے شک کلام حضرت حق جل جلالہ
 وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ بے شک یہ قرآن مجید چھو متقین تہ ہیزگارن ہندہ خیطہ ہڈ نصیحت بوڈ
 وعظ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ بیہ تھہ اسہ خبری کہ توہ اندرہ چھہ بعضہ اتھہ قرآن مجیدس اپز
 گزران امہ کس کلام خدا آسس انکار کران تمن دمواس پانے سزا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اتھہ کن
 نظر کرت چھویہ قرآن مجید کافرن ہندہ حقہ موجب حسرت کیاہہ تمن سپدہ انکار کرن عذابک سبب

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿۳۹﴾ وَاِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۰﴾
 وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿۵۱﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿۵۲﴾

وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ بيه چھو بے شک يه قرآن مجيد حق تہ پوز يقينی اکھ تھ
 فسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ
 پس بسند يه کلام پاک چھو تس عظيم الشان پروردگارہ سندہ نام پاکہ سیت آسیو توہ پاکی یاد کران۔ يله يه
 آيہ کریمہ نازل سپد فرمود حضرت رسول کریمین اجعلوہا فی رکوعکم يه تسبیح آسیو پران پنہ
 نین رکوعن اندر۔



سُورَةُ الْمَعَارِجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۱ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ
 لَهُ دَافِعٌ ۲ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۳ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَ
 الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۴

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ اک ساکن پروژہ عناد انکارہ کن تہہ عذابس
 متعلق نُس کافر ن پٹھ ضرور واقع سپدہ ون چھو۔ سو شخص سوال کرہ ون اوس کافر و اندرہ نصر بن الحارث
 سوی لگ دپنہ گستاخانہ اللہم ان کان ہذا ہوا الحق من عندک الخ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ یتھہ عذابس نہ کانہ
 اکھاہ پتھ ہیجہ رتھہ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ سوی عذاب چھو واقع سپدہ ون تس پروردگار سند طرف
 نُس آسمان ہوند مالک چھویم آسمان اکھ اس پٹھ چھہ درجہ بدرجہ ہیر پاون ہند پاتھہ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ
 وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ یمو ہیر و کن ملائکہ تہ بالیمان ہند روح چھہ تس نشہ کھسان تس نشہ کھسہ نہ اندرہ چھو
 مراد تم چھہ عالم بالاس اندر تھہ مقاس واتان نُس تہندہ عرو جک نہایت مقرر کرنہ آمت چونکہ امہ
 تہند کھسہ نچ و تھہ چھہ آسمان امی او تمن وننہ معارج۔ معارج چھو جمع معراج معراج چھہ ونان ہیرہ۔
 سوی عذاب سمیوک کافر پر ژھان چھہ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ سو عذاب سپد واقع
 تھہ دوہس اندر سمیوک مقدار تہ مدت آسہ دنیاک پنزہ ساس ورہ۔ سو دودہ گو قیامتگ دودہ بیس آیہ
 کر تمس اندر چھو اللہ تعالیٰ فرماوان كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ یعنی قیامتہ کہ دوہوک
 مقدار آسہ اکھ ساس وری تموور یواندرہ یم توہ گز ران تہ شمار کران چھوہ۔ یہ تفاوت آسہ کافر ن ہندیو
 احوالو موجب کانہ سپدہ محسوس سو دودہ زیوٹھہ اکس ساسس ورہس برابر کانہ آیہ بوزنہ سو دودہ سختی تہ
 بے چینی موکھ پنزہ ساس وری مگر بالیمان سپدہ سو دودہ محسوس اکس فرض نمازہ برابر تی فر مووحدیث

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۵ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۶ وَنَرَاهُ
 قَرِيبًا ۷ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالرَّهْلِ ۸ وَتَكُونُ الْجِبَالُ
 كَالْعِهْنِ ۹ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۱۰ يُبْصَرُونَ يَوْمَهُ
 الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ۱۱ وَ
 صَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۱۲ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّسُ لَهُ ۱۳ وَمَنْ فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تُمْلِكُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ ۱۴ كَلًّا إِنَّهَا لَطَفَى ۱۵ نَزَاعَةً

شریف اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وون بلکہ کافران عذاب ضرور واقع سپدہ فاصبر
 صَبْرًا جَمِيلًا پس کریو توہ یارسول اللہ کافران ہندس مخالفتمس پٹھ پور صبر تتھوی صبر تتھ سیت نہ کونہ
 کج شکایت آسہ یعنی ہندس کفرس تہ مخالفت کرنس پٹھ گڑھنہ تہوند دل تنگ سبت شکایت کرن
 بلکہ گڑھ تہوندیہ تھ زانت پور صبر و تحمل کرن کہ تمن آیہ ضرور اتھ کفر و مخالفتمس پٹھ سزادہ قیامتک
 دودہ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا تم چھ تھ دوس و چھان تمیوک اعتقاد تہ پڑھ نہ آسنہ
 موکھ دور تہ بعید اس چھن و چھان سہ قیامت نزدیک کیاہ اسہ چھو معلوم سہ سپدہ ضرور واقع۔ یَوْمَ
 تَكُونُ السَّمَاءُ كَالرَّهْلِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ سو عذاب سپدہ واقع تمن کافران پٹھ تمہ دودہ
 یہ دودہ آسانک رنگ آسہ ہلم ہو کر ہون بیہ آسن کونہ دونہ نہ آمت رجعت پھم ہی وَلَا يَسْأَلُ
 حَمِيمٌ حَمِيمًا تمہ دودہ آسنہ کانہ دوست کانہ دوستس پڑھان تہ يُبْصَرُونَ وَهُمْ اکل اکس آسن
 بوزنہ یوان مگر کانہ آسنہ کانہ ہنز ہمدردی پرت اکس آسنہ پنہ نی پنہ نی پریشانی یَوْمَ الْمُجْرِمِ
 لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ تمہ دودہ کرہ مجرم یعنی کافر تمنناہر گاہ تمہ دودہ کہ عذابہ نشہ پنہ
 خیطرہ مہ پیہ ہاندیہ تہ بدلہ دیون بِبَنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّسُ لَهُ * وَمَنْ
 فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تُمْلِكُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ پنن پنچو تہ گبر بیہ پنن آشین بیہ پنن بوی بیہ پنن سوروی قبیلہ
 کرون پس دنیا س اندر مصیبتہ کہ وقتہ تس پناہ دوران اوس بیہ تم ساری لوک یم دنیا س اندر چھ سوی

لِلشَّوَى^(۱۶) تَدْعُوْا مِنْ اَدْبُرٍ وَّتَوَلَّى^(۱۷) وَجَمَعَ فَاَوْعَى^(۱۸) اِنَّ
 الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا^(۱۹) اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا^(۲۰) وَاِذَا مَسَّهُ
 الْخَيْرُ مَنُوْعًا^(۲۱) اِلَّا الْمُصْلِيْنَ^(۲۲) الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ
 دَائِمُوْنَ^(۲۳) وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ^(۲۴) لِّلسَّائِلِ
 وَالْمَحْرُوْمِ^(۲۵) وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ^(۲۶)

فدیہ بدلہ دیونے مہ نجات دیہ یعنی تمہ دودھ آسہ تمہ قسح نفسا نفسی کہ پرت اکھاہ آسہ پنہ نی فیر
 کران۔ دنیا س اندر یہ ہندہ خیطرہ زودوان اوس تمہ دودھ کرہ تمنا کہ ہرکہ یکے میانہ بدل لکھ ہین بوگرہ ہس
 موکہ لون۔ اللہ تعالیٰ فرماوان کلا تہ منہ نہ ہرگز یعنی کانہہ ہک نہ لگت کانہہ ہندہ بدلہ اِنَّمَا لَطَىٰ *
 نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى بے شک سو جہنم چھو شولہ ماران پتہ تراوان لیس تمنن بو تھیوک مسلہ تان
 والہ تَدْعُوْا مِنْ اَدْبُرٍ وَّتَوَلَّى سوی جہنم دیہ پانے نادلس شخصس یم دنیا س اندر پزس گن تھر پھر
 مرث آسہ۔ خدایہ سزہ فرماں برداری نشہ بوتھ پھرمت آسہ وَجَمَعَ فَاَوْعَى بیہ آسین لوکن ہند حق
 کھے مال جمع کرمت سوی آسین صندوقن تہ ششترہ وین المارین اندر راجھہ کرتہ تھاومت اِنَّ
 الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا بے شک انسان چھو پیدہ کرنہ آمت بے صبر تہ کم ہمت اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
 جَزُوْعًا یلہ تس سختیاہ تہ مصیبتہ واتان چھو تمہ ساتہ چھو ژہٹہ تہ جزع و فزع کران وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
 مَنُوْعًا توپتہ یلہ تس کانہہ خیراہ واتان چھو تمہ ساتہ چھو خیر چوکا میونشہ پتہ روزان اِلَّا الْمُصْلِيْنَ *
 الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ مگر چھہ میوعذا بونشہ مستثنی تم با ایمان لوکھ، یم پنہ نین نماز ن پیٹھ
 برابر توجہ تہ وَاِذَا كَرِهُوا شَيْئًا سچھہ بیہ ہندہ نمازہ اندر بیہ کونہ چیزس کن توجہ کران وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ
 حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ بیہ تم با ایمان یہندس مال وودولتس اندر مقرر حق چھو مگھ
 وین ہندہ خیطرہ تہ نہ مگھ وین ہندہ خیطرہ تہ یعنی زکوٰۃ علاوہ تہ چھہ تم پنون مال خرچ کران رثن رثن
 وتن اندر وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ بیہ یم لوک قیامتہ کس دوہس تصدیق تہ پڑھ چھہ کران

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۲۷﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿۲۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْمَارِهِمْ حَفِظُونَ ﴿۲۹﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿۳۰﴾ فَمَنْ ابْتغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿۳۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿۳۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿۳۳﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ


وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ یہ ہم پنہ نس پروردگارہ سندس عذابس کھوژوئن پھہ
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ بے شک تہندس پروردگارہ سندس عذاب چھو خطرہ ناک چیزاہ یمہ نشہ
 نہ بے خوف روزن شوہہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْمَارِهِمْ حَفِظُونَ یہ یم لوک پنہ نین سترہ چن جاین
 حرامہ نشہ راجھہ کران چھہ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ مگر
 پھہنہ راجھہ کران سترہ چن جاین پنہ نین منکوہہ زنانن نشہ یہہ تمن زنانن نشہ یمن تم مسلک یمین
 مالک آسن یعنی شرعی کیزن نشہ کیاہہ تمن چھونہ تمہہ خیطرہ کانہ بازخواست فَمَنْ ابْتغى وَرَاءَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ دین ایس شخصاہہ بن شہوت پورہ کرنہ خیطرہ ہیمودو یو حلال صور توورای یہہ کانہہ
 حرام صور تاہہ ژھانڈہ نہ اختیار کرہ پنہ تقسیم خواہش پورہ کرنہ خیطرہ پس کیا گئے تھے لوک حد شرعی
 نشہ ڈلہ وئن وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ یہ یم لوک پنہ نین امائن یم تمن سپرد
 کرنہ آسن آمت یہہ پنہ نین عہدن راجھہ کرہ ون نہ خیال تھاوہ وئن آسن وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ
 قَائِمُونَ یہہ یم پنہ نین گواہین پٹھہ ثابت نہ مضبوط روزہ دین آسن تمن منز آسن نہ کمی یا زیادہ تی
 کران یا کانہہ ہوندر عایت کر تھہ کانہ کتھاہ کٹھان وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یہہ
 یم پنہ نین فرض نمازن پٹھہ پابندی کران چھہ أُولَٰئِكَ فِي جَذْبٍ مُّكْرَمُونَ سبھے لوکن کیا ایہہ جنتن
 اندر تعظیم و تکریم کرنہ تم چیز یم سعادت و شکایت و شقاوتنگ موجب چھہ تم یلہ بوضاحت بیان

يُحَافِظُونَ ﴿۳۳﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ ﴿۳۴﴾ فَمَالِ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِكَ مُهْطِعِينَ ﴿۳۵﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ
 عِزِينَ ﴿۳۶﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ
 نَعِيمٍ ﴿۳۷﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ فَلَا أُقْسِمُ
 بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿۳۹﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ

کرنہ آئے فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ مُهْطِعِينَ پس کیاہ سناگو کافرن کہ تم چھ توہ بروٹھ کن
 استہزاتہ ٹھٹھ پاٹ دورہ دورہ اورہ یور کران عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ دُجھن تہ کھو فرچھ
 انکار و تکذیب کرنہ خیطرہ ڈھپرہ کران أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ کیا تھ
 استہز او انکار کرنس پٹھ چھا تمن شاکھ کہ اسہ اندرہ پرت اکھاہ کیا ایہ واتا و نہ نعمن ہندس جنس اندر
 کَلَّا تہ ہنہ نہ ہرگز کونہ صورتس اندر کیا زہ تموچھ کرہ مرزہ تمہ کامہ یمہ سزاوار ناچھ۔ تہ آتھ تھ
 پاٹھ واتن تم جنس۔ جنس واتن تمے لوک یمو تمہ کامہ کر مرزہ آسن یمہ سزاوار جنت چھ وین گو تھوند
 انکار معاد یعنی مرنہ پتہ بیہ دوبارہ پیدہ سپد نس انکار کرن۔ تہ چھ تم کران بے وقونی سبہ تم چھنہ زنانان
 تم تھ چیزس آی پیدہ کرنہ گوڈہ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ بے شک اسہ کر تم پیدہ تھ چیزس تیج
 تمن خبری چھ سو گو آب نطفہ مگر تامل تہ غور چھنہ کران کہ تھ آب نطفس انسان آو پیدہ کرنہ تھ
 آسنہ حیات تہ زندگی کٹھ پچھو تھ یلہ اللہ تعالیٰ ان انسان پیدہ کور وون یہوسہ ہیترہ یادودر سمسرہ اڈجہ
 یمن کینہ کالاہ حیاتک تہ زندگی ہیوند تعلق رودمت چو تھ کیا زہ ہنہ اللہ تعالیٰ بیہ دوبارہ زندہ کرت۔
 یہ تھوندنا ممکن تہ محال زانن گیہ تہنزے بے وقونی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
 إِنَّا لَقَادِرُونَ تو پتہ پھس بو قسم ہاوان مشرقن تہ مغربن ہندس پروردگارہ سُنْد یعنی بو پھس پتہ ذات
 پاکگ قسم ہاوان کہ اسہ چھ ضرور قدرت عَلٰی أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ تھ تھ پٹھ کہ تہنزہ جاییہ تہ
 تمن بدل انوکھ اس دنیا س اندر تم لوک یم تہندہ خوتہ بہتر آسن یعنی پیدہ کروکھ وَمَا نَحْنُ

خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۴۱﴾ فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ
 وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۴۲﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ
 مِنَ الْجَبَابِثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿۴۳﴾ خَاشِعَةً
 أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةً ۗ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۴۴﴾

بِمَسْبُوقِينَ اس جھنہ تمہ نشہ عاجز اسہ نشہ چھونو مخلوق پیدہ کرن آسان۔ توہ دوبارہ پیدہ کرن کیاہ
 مشکل چھوسانہ خیطرہ۔ وین ہر گاہ ہم لوگ امہ انکار و عنادہ نشہ بازین نہ فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ
 حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ تلہ تر وایو کھ توہ تم اتھ پنہ نس شغلس بے ہودہ تھ کرنس نہ
 گندنس سیت یوتال سمکھن تم تھ دھوس سمیوک تمن وعدہ کرنہ یوان چھولینے قیامتس دوہس یوم
 يُخْرِجُونَ مِنَ الْجَبَابِثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ یمہ دودھ نیرن تم قبر و اندرہ دوران
 دوران زن تم آسن کونہ نشانس کن بروٹھ و اتس اندرمان مان کران خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةً
 لوکن گن آسن اچھ تہزہ شرمندگی سببہ بون ولنہ آسکھ آمر ذلت نہ خواری ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي
 كَانُوا يُوعَدُونَ یہوی کیا گو سودھ سمیوک تمن وعدہ اوس یوان تھاوینہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۲
 أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۳ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ
 ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۴ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ
 إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۵ قَالَ رَبِّ إِنِّي

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بے شک اسے سوز نوح علیہ السلام پیغمبر بناوت پہنچے تو مس سُنْ أَنْ
 أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسے فرمودتس کہ نیم کریو پہنچے نس قومس کفر کہ
 وبالہ نشہ تمن نشہ کڈر عذاب واتنہ برو نطی، دنیا س اندر گو سو عذاب طوفان آخرتس اندر
 عذاب نیر ان قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ چنانچہ تمودوپ پہنچے نس قومس ای قوم بو چھس تہوندہ
 خیطرہ نئن پاٹھ نیم کرہ ون أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا بو چھوس تہونان کہ عبادت کریو
 تہو خدایہ سنزی یا تریہ کھوڑیو تس شریک مہ ٹھہراویوس کونہ قسمہ بیہ مہ کرو تہنز نا فرمانی بیہ مانیو میون
 يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تمہ کہ برکتہ کرہ سو تہو گنہن مغفرت بیہ
 دیہ سو تہو مہلت مقرر کرنہ آتس و قس تان آرامہ سان زندگی بسر کرنچ وقت مقررہ اندرہ چھو مراد
 موتک وقت یعنی اجل إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بے شک اللہ
 تعالیٰ سند موتیہ خیطرہ مقرر کر مت وقت سو پتھہ آہ نہ کڈنہ کیاہ رت گڑہ ہاہر گہ تہو بیہ تھ زانہ چھگن۔
 یلہ وار بیس مند تس تان یمن لوکن کا نہہ اثرہ گو نہ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ
 يَزِدْهُمْ دَعْوَىٰ إِلَّا فِرَارًا نوح علیہ السلامن کردعای میانہ پروردگارہ مہ ڈژوناد پنس قومس دین

دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۱۱۰ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا
 فِرَارًا ۱۱۱ وَآتَىٰ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصَابِعَهُمْ
 فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا
 اسْتِكْبَارًا ۱۱۲ ثُمَّ آتَىٰ دَعْوَتَهُمْ جَهَارًا ۱۱۳ ثُمَّ آتَىٰ أَعْلَنُ
 لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۱۱۴ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
 إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۱۱۵ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۱۱۶

حس کن راتس تہ دوہس مگر تمس ہر یودنہ میانہ دعوت کرنہ سیت گینہ تہ ژانہ ورا یوت بوتس بروئھ آئج
 کوشش اوسس کران تیوت آس تم پتہ ژلان وَآتَىٰ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصَابِعَهُمْ فِي
 آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا مہ یلہ یلہ تمس دین حس کن
 ناددیوت یوتھ ژہ تمس ایمانہ کہ برکتہ مغفرت کرکھ گنہن تموہیہ پتہ اوگج کن منرتھاونہ یوتھ نہ پڑہ
 کتھ ہنز آواز تہ تھمدین کنن وانہ بیہ دلکھ پلن پلوکلہ پیٹھ یوتھنہ پڑتھ ونہ وین پیٹھ تمس نظر تہ پیہ۔ بیہ
 کرتمو کفر وانکار س پیٹھ ڈاڈ، بیہ کرتمو میانہ فرمان برداری نشہ سینٹھہ تکبر۔ باوجود آن رودس بوتس
 مختلف طریقو نصیحت کران ثُمَّ آتَىٰ دَعْوَتَهُمْ جَهَارًا توپتہ تہ دیوت مہ تمس دین حس کن ناد آواز
 بلند یعنی عام مجلس اندر ہر کھ وعظ لیس وعظ بدہ بدہ آواز بلند چھو یوان پرنہ ثُمَّ آتَىٰ أَعْلَنُ لَهُمْ
 وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا توپتہ بوزانومہ تم خصوصی مجلس اندر نن پانٹھ بیہ تورمہ تمس فکرہ پوشیدہ
 پانٹھ تہ انفرادی صورتس اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اتھ فکرہ تانس اندرون مہ
 تمس ونہ چھو موقع توہ مگجو بخشایش پتہ نس پروردگار س ایمانہ انہ نہ سیت بے شک سو چھو سینٹھہ
 مغفرت تہ بخشایش کرہ ون يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ایمانہ کہ برکتہ کرہ سواخروی نعم ہندہ
 علاوہ توہ دنیاوی نعم تہ عطا سوگو آسمانکہ طرفہ تراوہ سوبارش تہ رود۔ یہ سیت تھوند زراعت سر سبز و
 شاداب سپدہ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ قَبِيْنٍ بیہ دیہ سورتی توہ ماس تہ اولادن اندر وَيَجْعَلُ

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ
 وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝۱۱ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝۱۲
 وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝۱۳ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ
 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا ۝۱۴ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
 وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝۱۵ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝۱۶ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝۱۷

لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا بے کرہ سوتہوندہ خیرہ باغ تیار بے پھروہ سوتہوند یوز مینو منز کولہ
 تہ جو بے امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان نوح علیہ السلامہ سند باقی کلام یعنی بو اوس تمن و نان مَا لَكُمْ
 لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اے قوم توه کیاہ گوہ توه چھوہ نہ اللہ تعالیٰ سندس عظمس اقرار کر ان تہندہ
 عزت و عظمگت اعتقاد تہواوان۔ ہر گبے توه تہندہ عظمگت اعتقاد آسہ ہاتلہ ٹھہراو ہوس نہ شریک حالانکہ
 ہم چیز اعتقاد عظمس منگان چھہ تم آس موجود وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا چنانچہ تم کروہ توهہ پیدہ اکہ
 حالہ پتہ بیس حالس اندر۔ اکہ۔ حال اوسوہ نطفہ بیاکھ حال علقہ بیاکھ حال مضعہ وغیرہ وغیرہ یہ گیدہ دلیل
 نفسی یعنی دلیل یوسہ تہندس ذاتس اندر چھہ۔ امہ پتہ چھہ فرماوان آفاقی دلیل یعنی سودلیل ئسہ
 خارجس اندر موجود چھہ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا ای لوکو توه چھوہ
 ناو چھان تھہ پاٹھہ کر اللہ تعالیٰ ان ستھ آسمان پیدہ اکہ اکس پیٹھہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ
 الشَّمْسُ سِرَاجًا بے تھہ پاٹھہ کر اللہ تعالیٰ ان زون بین آسمان اندر اکہ نورانی چیزہ۔ بے کرن
 آفتاب اکہ روشن ژونگاہ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا بے کھاروہ توه اللہ تعالیٰ ان زمینہ
 منزہ اکہ خاص طریقہ۔ پتھہ پاٹ کہ آدم علیہ السلام کرن پیدہ مژہ نشہ توتہ باقی انسان تم کرن پیدہ
 نطفہ نشہ۔ نطفہ چھوہ بان غذا س غذا چھوہ نان عناصرن۔ تمن چھوہ غالب زمینک اجزاء ثُمَّ يُعِيدُكُمْ
 فِيهَا توتہ چھوہ و اتاوان توه مر نہ پتہ اتھہ زمینس اندر وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا توتہ کڈہ توه اکی

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۱۹ لِنَسَلُكُمُوهَا سُبُلًا
فِجَا جَا ۲۰ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاَتَّبَعُوا مَن لَّمْ
يَزِدْهُ مَالَهُ وَّوَلَدَهُ الْاِخْسَارًا ۲۱ وَمَكْرُوهًا مِّمَّا كَبَّرًا ۲۲ وَ
قَالُوْا الْاِتِّدِرْنَ الْهَتَمُ وَلَا تَدِرْنَ وَاُولَا سُوَاعًا وَّ
لَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَّنَسْرًا ۲۳ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّلَا

زمینہ منزہ قیامتک دوہ اکہ خاص طریقہ۔ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا * لِنَسَلُكُمُوهَا سُبُلًا
فِجَا جَا بیہ کر اللہ تعالیٰ ان یہ زمین تہوندہ خیطرہ اکہ فرشہ تہ و تھریو تا یو تھ تہو پچو تہہ چو کشادہ تو
منزہ۔ یہ سوروی کلام چھوئیس نوح علیہ السلامن اللہ تعالیٰ ہس بطور فریاد حکا یا پیش کر یعنی یہ یہ تھ
ون ون تار پومہ فکر پنے نس قومس مگر تمن تور نہ کنہ تہ فکرہ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاَتَّبَعُوا
مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَّوَلَدَهُ الْاِخْسَارًا ون نوح علیہ السلامن ای میانہ پر در دگارہ یمولو کو مون نہ
میون کینہ تہ تمو کر پیروی تمن شخص ہنز یمن مال و اولاد کا نہہ چیز زیادہ کرنہ نقصانہ تہ تاوانہ ورا ی
یعنی یمولو کر ریشن تہ زٹھین ہنز پیروی یمن مال تہ اولاد آسن سبب سپد زیادہ طغیان و سرکشی ہونہ۔
وَمَكْرُوهًا مِّمَّا كَبَّرًا تمو تہند یوز ٹھبو کر کم کم بیڈ تدبیر پوز ختم کرنہ خیطرہ وَقَالُوْا الْاِتِّدِرْنَ الْهَتَمُ
وَلَا تَدِرْنَ وَاُولَا سُوَاعًا وَّوَلَدَهُ الْاِخْسَارًا وَّنَسْرًا تمو دوپ پنے نین تابعا یو تھ نہ تہو ہنن
معبود ترا یو لکھ خصوصاً تہ ترا یون و دبیہ سواع بیہ یغوث بیہ یعوق بیہ نسریم آس مشہور پتل
بعض روایاتن اندر چھو کہ گوڈ نکس زمانس اندر آس کینہ بزرگ تم بلہ بیہ عالمہ گے تہندہ انتقالہ پتہ آو
شیطان تم کر پیش تمن لو کن نشہ تمن بزرگن ہند تصویر دوپ کھ تم تھو یو تہو پانس نشہ بطور یادگار تہ
پتہ کپنہ کالا گھت ہیہ لو کو تمن سٹکلن تہ تصورین ہنز پرستش کرن تھتے پٹھ سہز شروع بت پرستی العیاز
باللہ۔ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا بیور ریشن تہ زٹھبو ڈال واریالوک چونکہ ژہ فرمو تھ کہ یمو چانہ قومہ
اندر ایمان اون تمو علاوہ انہ نہ وین کانہ تہ ایمان۔ لہذا جھسی منگان کہ وَلَا تَدِرْنَ الْاِتِّدِرْنَ الْاِتِّدِرْنَ
یمن ظالمن ہر راوژہ بیہ ہن گمراہی چنانچہ مَعَ اَخِيَّتِهِمْ اَعْرَفُوْا فَادْرَجُوْا نَارًا پنے نیوی گناہن ہندہ

تَزِدِ الظَّالِمِينَ الْإِضْلَاقَ ﴿۳۴﴾ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِقُوا فَأُدْخِلُوا
 نَارًا ۗ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿۳۵﴾ وَ
 قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴿۳۶﴾
 إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فٰجِرًا
 كَفَّارًا ﴿۳۷﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ
 مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ
 إِلَّا تَبَارًا ۙ ﴿۳۸﴾

سبہ بہ آئی تم چھانہ ونہ تمہ پتہ آئی داخل کرنے نارس اندر پس لوب نہ تمو خدا پس وراى كانہ مدد کرہ ونہہ دیکھا بیه دوپ نوح علیہ السلام بیتہ کہ اى میانہ پروردگارہ یمو کافرو اندرہ مہ تھاون اتھہ زمینس پٹھ کانہ مہ موجود۔ بلکہ کرو کہ ساری ہلاک تہ برباد فاجرا کفارًا کیاہہ ہر گہ ژہ تم ہلاک گھنہ نشہ چھڑہ ہک یم لوک کرن چانین بندن گمراہ بیه زیوراون نہ یم پنجن اولادہ ذریت مگر فاجر تہ کافر رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ میانہ پروردگارہ مغفرت کرتہ مہ بیه مینس ماس ماجہ بیه تمن یم ایمانہ کس حالس اندر مینس گھرس اندر ثامت چہ یعنی مینس اہل وعیالس کنعانس تہ تہنہہ آشنہ وراى بیه ساری بایمان مردن تہ بایمان زنانن یم قیاس تان پیدہ سپدن ہر او ظالمین بیه ہن تباہی تہ بربادی تموان نہ ایمان (اے میانہ پروردگارہ کر مہ بندہ گنہ گارس تہ خطا کارس تہ پتہ نہ رحمت وفضلہ سیت سارنی بڈن گنہن تہ لوکٹن گنہن مغفرت دنیاو آخرتہ کہ عذابہ وراى واتاومہ پنہ نس رحمتہ کس تہ رضاع کس گھرس اندر ژہ نش چھنہ کانہ ہڈ کتھامہ گنہ گارس ساری گنہ

خشین انک غافر غفور غفار)

سُورَةُ الْجِنِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
 يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابِهِمْ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝
 وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدْرًا مَّا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝
 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝
 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ توه فرمايو بيار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ کین لوکن کہ
 مہ گن آوحی سوزنہ کہ جنواندراک جماعتن بوز میون قرآن مجید پر صبح نماز اندر فقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا
 قُرْآنًا عَجَبًا تو پتہ یلہ تم جن پنہ نس قومس کن واپس گئیہ تمں دوپک اسہ بوزاکھ عجائب قرآنہ یَهْدِي
 إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابِهِمْ نِس قرآن سیزو تھ ہاوان چھو پس کر اسہ تھہ پڑھ اسہ تور فبرہ کہ معبود
 برحق چھو کنی شریک آسنہ نشہ منزہ تہ پاک وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وین ٹھہراون نہ آس پنہ نس
 پروردگار س کانہہ اکھاہ شریک تو پتہ کر تمبو جنو پانہ وان تمں ٹھہن ہونند تذکرہ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدْرًا مَّا
 اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا بیہ ون تموسانس پروردگارہ سندشان چھو سٹھاہ تھود تم بناونہ کانہہ زنانہ
 پنن آشین نہ بناون کانہہ کور پنن یا نچو پنون وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا بیہ آس
 ونان تم جن اسہ منزیم احمق تہ نادان چھہ تم چھہ ونان خدا یہ سندس زانس نسبت تمہ تھہ ییہ تھہندہ شانہ
 نشہ دور چھہ مثلاً کلمات شریکہ وغیرہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اسہ اوس
 گووہ خیال کہ انسان تہ جن ون نہ زانہہ تہ خدا لیس نسبت ایزہ تھہ۔ یعنی چونکہ اکثر جن تہ انسان آس

رَجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فزَادُوهُمْ
 رَهَقًا ۖ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنُ يَّبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۗ
 وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا فِيهَا مِثْلَ حَرِّ سَائِدِيدًا
 وَشُهَبًا ۗ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن
 يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۗ وَأَنَّا لَأَنْدَرِي

شرك بخدا انان آسه گو خيال اتيو شخصوتھ پاٹھ اسه ايزس پيٹھ اتفاق كُرمَت تھه كُن نظر كرت كراسه ته
 تهنزي طريق اختيار وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فزَادُوهُمْ رَهَقًا
 واريه لوک آس انسانواندره يم پناه نوان آس جنواندره كنيون لوكن هند سیت تموی هرود تمن جن
 نخوت ته تكبر يمه سیت تموكفر وعناد زياد هيوت كرن وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنُ يَّبْعَثَ
 اللَّهُ أَحَدًا بيه اوس تموانسانو خيال كُرمَت تھه پاٹھ توه ته خيال اوسوه كُرمَت كه اللہ تعالیٰ كره نه هرگز
 كانه شخصس دوباره بيه زنده مگر يه خيال ته سپد غلط ثابت بلكه سپد معلوم كه مرنه پته زنده سپدن چھو حق
 ته پوزياگو معنی كه تمواوس خيال كُرمَت تھوند پاٹھ كه آسنده سوزنه اللہ تعالیٰ كانه بينغمبرس يم بينغمبر
 ازتان آي تم آي مگردين سپد قرآن مجيده سیت معلوم كه پروردگارن چھو سوزمت كه عظيم الشان
 بينغمبره بس لوكن چھو فرماوان كه توه ساری آيو مرنه پته بيه زنده كرت قبرواندره تولنه توپته آيوه ذره
 ذرك حساب بينه وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا فِيهَا مِثْلَ حَرِّ سَائِدِيدًا وَشُهَبًا بيه كُراسه
 ژھانڈ ساری آسمانس آسه لب سوپرت طرفه برت پهره داريعي محافظ ته راجھ كره ونيو ملكو سیت بيه
 وچھه اسه هر طرفه ناريران يعني يم جن آسمانی خبرن كُن دنه كھسان آس تمن چھه تم پهره دارملك نارھ
 رهو سیت دور ته دفع كران وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اس آس بروٹھ آسمانچھه خبره
 بوزنه خيطره بعضه جاين پٹھ روزان ته ٹھهران - فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا
 مگروين بس تمبه خبره بوزنه كھسان چھو سوچھو سیت پنه خيطره كه نارھ باتيار لبان - يمه خبره بوزنه بند سپده

أَشْرُارِیْدَیْمَنْ فِی الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ
 رَشْدًا ۝۱۰ وَأَنَا مِمَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ طُكْنَا
 طَرَائِقَ قِدَادًا ۝۱۱ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِی الْأَرْضِ
 وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ۝۱۲ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمْتَابِهِ ط
 فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَغَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا ۝۱۳ وَأَنَا مِمَّا
 الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ ط فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشْدًا ۝۱۴

نہ سپد باعث یمن جن ہندہ اوت مکہ شریف منزاواتنگ محکھ بوزن کہ کیاہ تان واقعہ چھو دنیا س
 اندر سپد مت یہ سبب اس چھ یوان خبر بوزن نشہ دور کرنے امہ کی تحقیقات خیطرہ آسہ جنو مختلف جمائزہ
 دنیا س اندر پرت طرفہ سوزنہ خیطرہ مقرر کر مرث جماعت یوس مکہ شریف منزاواتر تمن سپد معلوم
 کہ بعثت حضرت پیغمبر آخر الزمان ﷺ بیہ نزول قرآنی چھو سبب تہندہ دور سپدنگ آسمان ہند یو کنار و نشہ
 وَأَنَا لَآنْدَرِي أَشْرُارِیْدَیْمَنْ فِی الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشْدًا بیہ آس وان تم جن
 آسہ چھنہ خبر کہ تمس یوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندہ سوزنہ سیت چھازینہ کین لوکن کانہ تکلیفہ
 واتانوک ارادہ خدا یس کنہ تہند پروردگارن چھو یڑھمت تہندہ خیطرہ سیزہ و تہ پٹھ آنن تہ رثو تھ ہاون
 وَأَنَا مِمَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ طُكْنَا طَرَائِقَ قِدَادًا بیہ آس وان تم جن کہ اسہ منزہ آس
 گوڈہ پیٹھ نیکو کار تہ بعضے تہ و رای بیہ طریقہ لوک اس آس مختلف و تن پٹھ پکان وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ
 نُعْجِزَ اللَّهَ فِی الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا بیہ ون تمو جنو کہ اسہ اوس خیال س منز کہ اس ہون نہ
 اللہ تعالیٰ زمینہ کس کونہ حصس منز روزت ہارہ ناوت تہ عاجز کرت نہ ہون سوعا جز کرت کونہ صور تس
 منز زمینہ و رای کونہ جایہ مثلاً آسمانس کن ثلثہ سیت وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمْتَابِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ
 بِرَبِّهِ فَلَا يَغَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا اسہ یلہ بوزد اچ تھ اسہ کرتھ ہڑھ یس و ون سانی پاتھ پنہ نس خدا یس
 ہڑھ کرہ سو کھوژنہ کونہ قسچہ کمی نہ کونہ قسچہ زیادتی یعنی تمس چھنہ کانہ خطرہ تہنزور ژر عملواندہرہ کیاروزہ
 ہا کانہ عملہ درج سپدہ و رای یا کانہہ گناہ ہا یالیہ ہا زیادہ لیکن وَأَنَا مِمَّا الْقَاسِطُونَ بیہ

وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا^{۱۵} وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا
عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذَقًا^{۱۶} لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا^{۱۷}
وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَاتْدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا^{۱۸} وَإِنَّهُ

ون تمو جنوا سے منزہ چھو بعضے مسلمان سپہ مت۔ بیہ چھ اسہ منزہ بعضے جن بدستور و تہ نشہ ڈلت
نا فرمان **مَنْ سَلَكَ نَادِيكَ فَخَرَّوْا شِدًّا** وون یو اسلام اُن تمو ژھانڈ سیزہ رنج و تھہ ییہ پیٹھ پچھ تمن
ثواب حاصل سپہہ **وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا** وون یو سیزہ و تہ نشہ ژلت نا فرمانی کر تم سپہ
جہنمک زیون تہ کاٹھ۔ یوت تان گو ختم حن ہونڈ کلام۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان توہہ فرماو یوکھ
حض یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بیہ آومہ کن وحی سوزنہ کہہ **وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ
لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذَقًا** ہر گہ یم شہر ہنک لوک سیزہ و تہ پٹھ قائم روزن تلہ چا و ہوک تہ سیراب
کر ہو کہ اس تم گو تلہ آبہ آب وافرہ سیت **لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ** یوتھ اس تمن امتحان تہ آزمائش کر
ہوکہ تم چھا شکر گزار تہ فرماں بردار کنہ نا فرمان تہ نا شکر گزار مگر چونکہ تمو کر ایمان انہ بدل اعراض
تہ انکار تمہ سببہ گئے تم بتلا فطس تہ در اگس۔ کفر و انکار کہہ سز اچھونہ خاص مکہ کین لو کن سیتی بلکہ
وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا یس اکھاہ پنہ نس پروردگارہ سندہ یادہ نشہ یعنی
ایمان اطاعتہ نشہ بوتھ پھرہ تس و اتا وہ اللہ تعالیٰ سخت عذابس اندر **وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ** بیہ آومہ کن
وحی سوزنہ کہہ یمہ مسجدہ چھہ تمہ سارے چھ خدایہ سزے معبود برحقہ سزنی عبادتہ خیطرہ خاص آمرہ
کرنہ **فَلَاتْدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا** پس مہ کریو تس سیت بیہ کانسہ ہنز عبادت یمن مسجدن اندر۔ نہ
گدھ مسجدن اندر تس و رای بیہ کانسہ مخلوقس آلودیون حاجتو خیطرہ بعضے مفسر و فرموو مساجدہ اندرہ
چھو مراد اعضای سجدہ یعنی سجد کہ تان۔ یعنی کلمہ بیتھ منز ڈکہ تہ نست چھ۔ بیہ اتھ زہ۔ کوٹھ زہ بیہ
کھور زہ۔ یسے گے ستھ تان یوسیت سجدہ یوان چھو و نہ۔ یم ستھ تان چھہ خدایہ سندی یوسیتو تانوسیت

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۱۹
 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۲۰ قُلْ إِنِّي لَا
 أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۲۱ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ
 اللَّهِ أَحَدٌ ۲۲ وَلَنْ أجدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۲۳ إِلَّا بَلَعْنَا

گروهه عبادت کرن خدا پس و رای بیه کانه هنز **وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا** بیه او مه گن وحی سوزنه که یله خدایه سند بنده خاص یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خدایه سنزه بندگی کرنه خیطره یا قرآن مجید پر نه خیطره تهود و تھان چھو تمہ سائے ہژ و جنو تمن انداند ہجوم کرت جمع سپدن۔ یا آس لوک تمہ سائے جماژ و سمن ہیوان با ایمان آس سماں شوق و ذوقہ سان قرآن مجید بوزنه خیطره۔ کافر آس عناد و عداوتہ سبہ بہ ہجوم کرت یوان مجلسہ منز خلل تراونہ خیطره **قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا** توبہ فرماو یویار رسول اللہ یہ تھہ کہ بو چھس صرف پنہ نس پروردگارہ سنز عبادت کران بو چھس نہ تس کانه اکھاہ شریک ٹھہراوان یہ تھہ گیہ توحیدس متعلق **قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا** ایئہ فرماو یو کہ رسالتس متعلق کہ بو چھس فقط خدایہ سند احکام تہ پیغامات و اتادہ ون بو چھس نہ مالک تہ اختیارہ و ول نہ تہوندہ ضرر کہ نہ تہوندہ نفع خیر کہ نہ تہوندہ ہدایتک تم چھہ تودہ ونان ہرگہ تودہ واقعی پیغمبر چھوہ تلہ ہاویاسہ فلاں فلاں مجڑہ، توبہ فرماو یو کہ کہ مہ تمن چیزن ہوندا اختیار پانس اتھ چھونہ یہ سوروی چھو خدایہ سندس اختیارس اندر۔ بیه آس کافر و نان کہ آس مانو تو ہنزر رسالت ہرگہ تودہ مضمون توحیدس بیه قرآن مجیدس منز کونہ قسمہ کنہ تغیر و تبدیل کریو **قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أجدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا** تمیوک جواب فرماو یو کہ تودہ ہرگہ خدا نخواستہ بویشہ کوم کرہ تلہ ہیچہ نہ مہ کانه اکھاہ خدایہ سندہ غضبہ تہ عذابہ نش نجات تہ پناہ و تھہ نہ ہیچہ بوتس و رای بیه کانه نشہ لب ت کانه چھین جایہ۔ مین کوم چھنہ کنہ تہ **إِلَّا بَلَعْنَا مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ** مگر و اتاون خدایہ سندہ طرفہ تہند احکام بیه تہند پیغامات لوکن یعنی پیغمبرہ سنز

مَنْ اللَّهُ وَرِسْلَتِهِ وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَانَ
 لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا
 يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقْلُبُ عَدَدًا ۖ
 قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ
 لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۖ ۲٥ ۙ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ
 أَحَدًا ۖ ۲٦ ۙ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ

کوم چھ احکام الہی لوکن نشہ و اتاوان تغیر و تبدیلہ و رای وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَانَ لَهُ نَارَ
 جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا یم لوک نافرمانی کرن خدایہ سز بیہ تہندس پنیمبرہ سز بیخہ تہند احکام
 مان نہ پس چھو یقیناً تہندہ سز اخیطرہ نار جہنم ہتھ منز تم ہمیشہ ہمیشہ روزن یمن کافرن چھونہ از یقین
 یوان امیوک مگر یمن ایہ نہ یقین حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا
 وَأَقْلُبُ عَدَدًا یوتان سو عذاب و چھن چنانچہ بلہ تم سو عذاب و چھن تمیوک تمن وعدہ تھوانہ یوان
 چھو۔ تمہ ساتہ زان تم کمند مددگار چھ کمزور بیہ کمسنز جماعت چھ کم تعدادہ کن۔ وین یم توه قیامتگ
 وقت پرژھان بطور انکار۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا
 توه فرما یو تمن مہ ہھنہ خبر یمہ عذابک توه وعدہ تھوانہ یوان چھو سو چھانزدیک ینہ وول کنہ مین
 پروردگارن چھو تمہ خیطرہ کانہہ زیوٹھ مدتہ مقرر کرمت تمیوک خاص تہ متعین وقت یہ گو علم غیب
 یہ زانہ سوی یوت کیاہہ سوی چھو عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا سوروی سرتہ پوشید
 چیز زانہ ون۔ سو چھونہ پنہ امہ نسچہ پوشیدہ تھ کانہہ نشہ باوان إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ
 مگر چھو باوان تہ مطلع کران پنہ نس کانہہ برگزیدہ پنمبرس۔ سو تہ چھو ہتھ پاٹھ خاص اکس طریقس
 اندر تس مطلع کران کہ قَاتِلُهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا تس پنمبرس
 پتہ بروٹھ بلکہ پرت طرفہ سووچی نازل کرنہ کہ وقتہ محافظ ملاکن ہوند بروقت پھرہ سوزان یم نہ

يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿۲۷﴾
 لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَكَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
 وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿۲۸﴾

شیطانس تھہ کلھ چھہ دو ان پھنہ چنانچہ تمن شیطان چھونہ ممکنہ سدان تھہ وحی یس کن انوک یا گونہ
 قسمہ وسوسہ تراونگ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھہ روایت کران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلمس اس ژور ملک مستقل امہ حفاظتہ خیطرہ یہ انتظام چھوامہ موکھ کرنہ یوان لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا
 رَسُوْلَتِكَ رَبِّهِمْ یوتھہ اللہ تعالیٰ اس ظاہری طور معلوم سپدہ کہ یم ملائک وحی بیت سوزنہ امت آس
 تمود اتناو پنہ نس پروردگارہ سند پیغامات پیغمبر برھس نشہ و تہ منز سپزنہ کانہہ ہنزد اخلت وَأَحَاطَ
 بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اللہ تعالیٰ چھو یمن پھرہ دار ملائکن ہند احوال ان احاطہ کرت
 امہ خیطرہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تہ پھرہ دار مقرر کر مت یمہ امہ کام خیطرہ موزون و مناسب چھہ بیہ یم امہ
 کامہ ہند پورا اہل چھہ۔ بیہ چھہ اللہ تعالیٰ اس پرت چیز چی گرند معلوم لہذا چھہ وحیک ساری اجزا کہ اکہ
 تس معلوم۔ سوچھو تمن سارنی اجزاء ان پور حفاظت تہ راجھہ کران۔ ملائکن تہ پیغمبرن ہنزن ذہنس اندر
 لفظ یسئلک ونہ نہ سیت چھہ شیطان ہنزہ استراق سمع تہ التباسہ نشہ حفاظت لفظ واحاطہ بیان کرنہ سیت
 چھہ حفاظت یمہ اعتبارہ کہ ذرائع و وسائل یم چھہ تمن چھہ خدا سنز حفاظت واحصیٰ بیان کرنہ سیت چھہ
 حفاظت از نیان و ذہول الیہ سند حقہ لہذا چھہ گوڈہ پیٹھہ اند تان سارنی حفاظن ہیوندر رعایت تھاونہ
 آمت۔ حاصل چھہ تینس کہ قیامتہ تعینک علم آسن یہ چھہ نہ کیو علو مو اندر۔ لہذا امیوک علم نہ
 آسن چھونہ نبوتس پٹھہ کانہہ ناکارہ اثر تراوان۔ یا تمیوک علم نہ سبب آسسن چھونہ لازم کہ سہ سپدہ واقع
 پنہ نس و قس تہ موقعس پٹھہ البتہ علوم نبوت یم چھہ تم چھہ مستقل تہ مقصود بالذات علوم۔ تہ علوم
 لو کن نشہ و اتناونہ خیطرہ آو پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم سوزنہ تہ علوم کریو تہ حاصل تموے سیت
 سپدیو تہہہ مستفید تمو علو مو و رای باقی علوم حاصل کرنک خیال تراویو تھہ منز چھونہ تہہ کانہہ فائدہ۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ① قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ② نِصْفَةَ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ③ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ④ إِنَّا

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ای پلون منزولتھ روزہ ونہ صاحبہ۔ امہ عنوانہ خطاب کرنگ وجہ چھوای زہ ابتداء نبوتس اندر آس قریش دارالندوس اندر سمت مشورہ کران کہ تمس پیغمبرہ سندس حالس مطابق گزھہ کانہ ڈیچھ لقبہ تجویز کرن تمی سیت آسوایس تہوند ذکر کران۔ اک زین دوپ کاہن بے زین دوپ مجنون بے زن دوپ ساحر مگر اتفاق سپد کہ نہ کونہ پٹھ یے پٹھ واژدر خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک سپد کہ آزرہ کپر ژادراہ ہڈ ہڑ کہ سر مبارک پیٹھ۔ ہتھ پاٹھ اکثر غم گین شخص چھوکلہ پیٹھ پلوہت روزان۔ اللہ تعالیٰ ان کرامی عنوانہ سیت بکمال اُس ملا طفت تمن خطاب فر مونکہ

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ہتھ پاٹ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ورائی اکہ پھرہ گھرہ اندرہ آزرہ سپت مسجد نبویکس صحنس اندر رود شھت مندرہ پیہ تمن مژتہ روئی مبارک گو سست نسی بدن مبارکس آیہ گرد متھنہ۔ توپتہ وات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن ژھانڈان ژھانڈان اتوی مسجد شریفکس صحنس اندر۔ توپتہ وچھک تمن بدن مبارکس مژتہ گرد لار سمہ توپتہ ہڑیک سہ گردو تھراون دست مبارک سیت آسکھ ہٹس ہٹس دوان تہ فرماوان آسکھ قم آبا تراب قم آبا تراب بکمال اُس و محبت۔ غرض اللہ تعالیٰ ان فرموو تمن تہومہ بریود شمن ہنزن کتھن ہوند کانہ غم تہ روزیو ہمیشہ زیادہ متوجہ پنہ نس پروردگارہ سندس عبادتس کن ہتھ پاٹ کہ قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا تہ آسوروزان رات کہ وقت ایستادہ کمس کالس نِصْفَةَ مثلاً رات ہندس نصفس۔ باقی نصفس آسیو آرام کران اَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا یا کر یونصفہ خوتہ تہ کم کالس عبادت نصفہ خوتہ زیادہ حصص کر یو آرام۔ یعنی رات ہندس تر تمس حصص آسیو عبادت کران۔ دون حصص آسیو آرام کران۔ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ یا کر یونصفہ خوتہ زیادہ وقتس عبادت یعنی تر یو حصو اندرہ دون حصص اکس حصص آسیو

سَلِّقْ عَلَيَّ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ
 أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا
 طَوِيلًا ۝ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

آرام کران۔ یہ قیام لیل چھو توہ پٹھ فرض مگر وقت قیامس چھ ترہ صورت۔ یا نصفانصف۔ یا ترسمس
 حصص قیام دون حصص آرام یادون حصص قیام اکس حصص آرام۔ وَدَّتِلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اتھ
 قیام لیلس منز آسیو قرآن مجید پران وارہ وارہ صاف صاف یوتھ اکھ اکھ حرف بیون بیون ترہ فجرہ
 بوزن والین۔ امہ طریقہ پر نہ سیت چھو فہم و تدبرس اندر مدد حاصل سپدان۔ بیہ چھو امیوک اثر دلس
 پٹھ زیادہ بیوان۔ بیہ چھو ذوق و شوق ہران یہوی حکم چھو نمازہ و رای قرآن مجید ک بار تراونک
 استعداد توہ قوی تہ مضبوط سپدہ کیازہ اِنَّا سَلِّقْ عَلَيَّ قَوْلًا ثَقِيلًا اسہ چھو تراون
 توہ پٹھ یعنی نازل عُرْن اکھ گوب تہ وزن دار کلامہ یعنی قرآن مجید، یمہ کہ ثقلک تہ گوبرک
 یہ حال اوس کہ امہ کہ نازل سپد نہ کہ وقتہ آس نبی کرسمس صلی اللہ علیہ وسلم عجیب
 کیفیتاہ پیدہ سپدان۔ بدن مبارک اوس گوبان۔ شہ تہ شائش آس تیز سپدان سردی ہندس موسمس اندر
 اوس بدن مبارکس عرق یوان۔ عرقلک قطرات آس جبینہ مبارکہ پٹھ خنہ پھلین ہند پاٹھ پتھر پوان۔
 اکھ پھرہ اوس تہوند زانوی مبارک حضرت زید بن ثابتہ سزہ رانہ پٹھ تھتھ حالس اندر ہتون وحی نازل
 سپدان زید بن ثابتس سپد محسوس کہ رانہ ماسپدس ژس مگر شہ تہ بیگو کہ نہ کڈت۔ ہر گہ تمہ وقتہ نمہ
 سوارہ پٹھ سوار آسہن تس سواری آسہ زنگہ پھشان۔ فقط آس ناقہ عضباء مخصوص تہمز سوار تس اوس
 برو نطھی الہام سپدان سو آس امہ وقتہ پتھر بہان۔ بیا کہ وجہ چھو اس چھو توہ قیام لیلک یعنی رات کہ وقتہ
 نمازہ پر نلگ حکم کران کیازہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَاَقْوَمُ قِيلًا بیشک رات کہ
 وقت نندرہ پتہ و تھون عبادت کرنہ خیطرہ بیہ چھو زیادہ موثر نفس پامال کرنہ خیطرہ بیہ چھو بیہ زیادہ سیود
 تہ راست کرہ ون کلامس تہ تھ۔ امہ ساتہ یہ کنیوہ ہا پر نہ یوان چھو قرآن مجید یاد عاباذاکار، تم چھہ پر نہ
 یوان پریشانی و رای بکمال توجہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا بیشک توہ چھہ دوہس اندر
 واریاہ کامہ، دینچہ تہ دنیا چہ تہ، لہذا کر یو خدا یہ سز کوم رات کہ وقتہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ⑨
 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ⑩ وَ
 ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمِهْلَهُمْ قَلِيلًا ⑪ إِنَّ
 لَدَيْنَا نَكَالًا وَجِيمًا ⑫ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑬ يَوْمَ
 تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ⑭ إِنَّا أَرْسَلْنَا
 إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑮

تَبَيَّنًا تم علاوہ تہ کریو توه یاد نام پاک پنہ نس پروردگارہ سُد پر ت وقتہ بیہ تہیؤدک تعلق سارنی
 نشہ مشغول تہ متوجہ روزیو تمس سیت یعنی ذکر و تبتل چھو پرت و فکک فرض قطع تعلقانہ اندرہ چھو مراد
 علاقہ خداوندی گدھہ غالب روزن باقی سارنی تعلقان پٹھہ کیا زہ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا سو چھو مالک مشرک تہ مغربک تس و رای چھونہ کانہ تہ عبادتس لائق۔ پس بشر ادیو
 پنہن کوم تس یوت وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا بیہ کریو صبر یمن لو کن
 ہنزن کھن پٹھہ بیہ روزیو تمس نشہ الگ تہ دور رتہ طریقہ تمس سیت مہ تھاد یو کانہہ تعلق۔ رت
 طریقہ اختیار کرن گو تہنز شکایت مہ کریو، تمس انتقام ہنچ فکر مہ بریو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي
 النَّعْمَةِ وَمِهْلَهُمْ قَلِيلًا بیہ تراویو مہ تہ بیہ تمس انکار کرہ و نین نازو نعمن اندر روزن والین موجود
 حالتس منز۔ تمس دیو بیہ کپنہہ دوہ مہلت توه کریو بیہ کنہ کالاہ صبر۔ تہندہ سزاعک تہ عذابک وقت چھو
 دین قریب إِنَّ لَدَيْنَا نَكَالًا وَجِيمًا * وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا کیا زہ بے شک اسہ نشہ چھہ تم
 گرفتار کرنہ خیطرہ ہانکھ۔ بیہ تم زانہ خیطرہ نارِ جہنم بیہ تہندہ کھنہ خیطرہ ہٹنہ نہ وسہ ون خوراک، نس
 کھوان کھوان ہٹس بند آسکھ گدھہان۔ بیہ تمہ و رای دگ تہ دو دتکھ ون عذاب یموی چیز و سیت آیہ تمس
 سزادنہ یہوی سز ایک تمہ دوہ دنہ یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا بیہ دوہ الہ
 الہ و تھ ز مینس تہ کوئن بیہ سپدن کوہ ریزہ ریزہ گدھہت پکھ ون سیکھ ہش ای انکار و تکذیب کرہ و نیو۔

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئْسَ
 فَكِيفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ
 شِيبًا ۚ السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ ۖ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۚ إِنَّ
 هَذِهِ تَذْكَرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ
 إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي إِلِيلٍ وَ
 نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ


إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۚ يَرْبَاثُهُ أَسْرَهُ سَوْز تَوْه كُن تَتَّهَى
 پیغمبر اُس توه پیچھے قیامتک دوه گواہی دیہ کہ یمو لو کو کیاہ برتاو کور میانہ تہلینہ پتہ انتھہ پاٹ اسہ
 فرعونس کن اکھ پیغمبرہ سوز مت اوس فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئْسَ
 کرنا فرمانی فرعونس تس پیغمبرہ سز پلس روٹ تہ گرفتار کور اسہ سو فرعون سیٹھاہ سختی سان ہرگہ توه تہ یہ
 پیغمبر برحق سوز نہ پتہ نافرمانی کر یوتلہ پیہ توه تہ اکہ دوه سو مصیبت تُلن، چنانچہ سو مصیبت چھو
 عنقریب ینہ وول فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ہرگہ توه تھر
 کر یو پس تھہ پاٹھہ بچو تہ موکیو توه تہ دوہہ کہ مصیبتہ نشہ تیج سختی تہ شدت تہو زیادہ آسہ کہ لو کئین
 معصوم بچن تان بوڈراوہ سو۔ السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ ۚ دوهہ آسانس کھنچہ گودھن گان وَعْدُهُ
 مَفْعُولًا تمسند وعدہ سپدہ ضرور پورہ، إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ بے شک یہ سوری مضمون
 چھو اکھ بوڈوعظ تہ بتد نصیحت فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا لہذا تمس خوش کرہ سوہیہ پنہ نس
 پروردگارس کن دتھہ یعنی سو کرہ خدا بس نشہ واتنہ خیطرہ دتیج و تھہ اختیار إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ
 أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي إِلِيلٍ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ بے شک تھوندس
 پروردگارس چھو معلوم کہ توهہ بیہ توهہ سیت اکھ جماعتھاہ تمولو کو اندرہ یم توهہ سیت چھہ رات کہ وقت
 نماز پر نہ خیطرہ دتھان قریب راژ ہندن دون حصن کونہ شبہ بیہ نصف راتس کونہ شبہ راژ ہندس تر تمس

يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ
 سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا

حصص کونہ شبہ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ تعالیٰ ہی چھو پورہ اندازہ ہکان کرت دُہک تہ
 راتک علِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ تہس چھو معلوم کہ توه ہبیونہ امہ وٹنگ اندازہ ضبط
 کرت لہذا کور تم تہوندس حالس پٹھ عنایت سو سخت مشقت گوڈنک حکم قیام لیلک
 کرن تہوندہ خیطرہ منسوخ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وون یوت توه آسانی سان قرآن
 مجید ہیکمہ ہرت تیوت آسیو پران۔ امہ قرآن مجید پر نہ اندرہ چھو مراد تہجد پر نہ تہہ منز قرآن مجید
 پر نہ یوان چھو۔ یہ چھو استجابی امر مطلب چھو کہ تہجد ج فرضیت گیہ منسوخ وون ہر گہ توه یشو تہجد
 پر نہ تلہ آسیو پران بیہ چھو تہجدہ کہ منسوخ سپد نگ بیاکھ وجہ کہ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ
 وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ اس معلوم کہ توه
 اندر آسن بعضے لوک بیمار تم ہیکن نہ تہہ حالس اندر رات کہ وقتہ و تہہ تہ تہجد پرت۔ بیہ آسن بعضے
 لوک خدایہ سند فیض یعنی معاش تہ رزق ژھانڈنہ خیطرہ ملکن اندر سفر کران تہندہ خیطرہ تہ چھویہ
 مشکل۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ چھو بعضے لوک خدایہ سزہ و تہ اندر جہاد کران،
 تہندہ حقہ تہ چھو تہجد ج پابندی کرن مشکل فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ پس پر یو قرآن مجید یوت توه
 آسان سپدہ، اگرچہ تہجد ک حکم وجوب سپد منسوخ مگر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فرض
 نمازہ کریو پابندی سان ادا، بیہ آسیوز کواہ دو ان۔ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا بیہ آسیو اللہ

لَا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿۲۰﴾

تعالیٰ اس خوش کرنے خیرہ قرض دو ان رت پائے یعنی کمال اخلاص **وَأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ** بے یوسہ نیک تہ رت عملہ پنے نہ خیرہ توه بروٹھ کن سوز یوسولیبون توه موجود خدایس نشہ **هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا** سورت عمل آسہ سٹھاہ بہتر بے سٹھاہڈ ثوابہ کن۔ دنیوی معاملن اندر مال خرچ کرنے سیت نُس عوض تہ نفع توه حاصل سپدان چھوتمہ خوتہ بہتر تہ بوڈ نفع تہ فائدہ سپدہ توبہ حاصل خیرہ چین کابین اندر خدایہ سندر ضا حاصل کرنے خاطرہ مال خرچ کرنس۔ **وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** اللہ تعالیٰ اس آسیو منگان گنہن مغفرت۔ کیا زہ سوچھو بے شک گنہن مغفرت کرہ ون رحم کرہ ون۔



سُورَةُ الْمَدَّثِرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ① قُمْ فَأَنْذِرْ ② وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ③ وَثِيَابَكَ
 فَطَهِّرْ ④ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑤ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ⑥ وَ
 لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑦ فَإِذَا أَنْقَرْنَا فِي النَّاقُورِ ⑧ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ

حدیث شریفن منز چھو آمت کہ ساری بروٹھ سپڈ نازل قرآن مجیدہ اندرہ سورہ اقرآک ابتدائی آیات۔ توپتہ سپڈ بعض حتمن کن نظر کرت کینہہ کالاو جیکس نازل سپڈنس اندر تاخیرتہ مانٹھ تمہ پتہ آس اکہ دوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہرہ نیرپکان اتی تکیک آسمانکہ طرفہ آواز توپتہ ورتکھہ ہیورکن نظر وہتھک جبریل امین اکس تخس پٹھ بہت۔ سوخت اوس آسمان وز مینس منز معلق تمن سپڈ دل مبارکس ہیبت پیدہ تم آی واپس گھرہ توپتہ ہتک ہیرہ بونہ وزن تمہ ساتہ آویہ جبریل امین ہم آیات کریمہ بہت **يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ** ای کلہ پٹھ وزن ہیوہونہ صاحبہ **قُمْ فَأَنْذِرْ** پنہ نہ جایہ نشہ و تھیو تھودتہ سپڈ یو مستعد پس کھوڑہ ناویو کہ ساری لوک تی چھو تھوندس منصب نبوتس لازم۔ امہ وقتہ آس اکہ زی صاحب مسلمان سپڈ مت تمہ موکھ آیہ نہ بشارتچ ذکر کرنہ **وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ** بیہ زاینون پنون پروردگار بوڈ جہزی عظمت کر یو بیان تبلیغس اندر چھو گوڈ نکوی چیز اشاعت توحید بیہ گوشہ مبلغہ سڈ پانہ عامل آسن، تس پنون پانس اندر رت صفت پیدہ کرن رتہ عملہ رت اعتقاد رت اخلاق۔ اکھ چیز گو تمو اندرہ **وَرَبِّكَ فَطَهِّرْ** پنن پلو تھاو یو پاک۔ امہ وقتہ آس نہ ونہ نماز فرضی سپز مڈ لہذا کر کھنہ سچ ذکر کینہہ تہ۔ امہ اندر سپڈ معلوم جامہ پاک آسن چھو لازم نمازہ وراہی تہ **وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ** پرت قسبہ پلیدی تہ ناپاکی نشہ روز یو دور **وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ** کانہہ مہ دیو کانہہ چیز تمیوک عوض زیادہ حاصل کرنہ خیطرہ نہ علم تہ نہ مال۔ **وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ** بیہ کر یو صبر پنہ نس پروردگارہ سندہ رضا خیطرہ ہر گہ تبلیغ ادا کرنس منز کانہ تکلیف تہ واتوہ۔ ہم نہ تھوندہ ہم کرنہ پتہ تہ ایمان ان تھندہ خیطرہ چھویہ

يَوْمَ عَسِيرٍ ۹ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۱۰ ذَرْنِيْ وَمَنْ
 خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۱۱ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۱۲ وَبَنِيْنَ
 شُهُوْدًا ۱۳ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا ۱۴ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ
 اَزِيْدَ ۱۵ كَلَّا اِنَّهٗ كَانَ لِاِيْتِنَا عِنِيْدًا ۱۶ سَاْرِهْقَهٗ

وعید کہ قَادًا نَفَرًا فِي النَّافُوْرِ پس یلہ پُھو کہ آپ دنہ پو غس منز فَاذٰلِكَ يَوْمَ يَوْمٍ عَسِيْرٍ * عَلَى الْكٰفِرِيْنَ سُودوہ آسہ سٹھاہ مشکل دوہاہ کافرن پٹھ غَيْرُ يَسِيْرٍ تھہ دوہس منز آسنہ کونہ کج آسانیاہ تھندہ حقہ۔ امہ پتہ چھ ذکر بعضے خاص کافرن ہنز ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا یار سول اللہ توہہ مہ بریو کا نہہ فکرہ تراویومہ تہ تس شخصس یس مہ پیدہ کر کُوی، بو بوزہ تس سیت پانے سو شخصس گو لید بن مغیرہ، یہ اوس مالس کُوی نچو۔ زینہ وزہ یعنی پیدہ سپد نہ وزہ اوس ننوی تہ چھنوی کانہ چیزاہ اوس نہ سیت نہ مال تہ نہ اولاد وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا توپتہ کر س مئے بکشرت مال عطا وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا بیہ کر س مئے گبر تہ اولاد عطا یم تس پرت وقتہ حاضر برو تھہ کنہ آس آسان، تعمیل حکم کرنہ خیطرہ تیار وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا بیہ و تھرووی تھندہ خیطرہ عزت و جاہک فرش تہ و تھرن تا اینکه ساری لو کہ آس تس رئیس تہ زُیٹھ مانان مگر باوجود آن کرنہ تم یمن نعمن ہوند شکر ادا ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ توپتہ چھو تس پنہ نہ جایہ خیال کہ بُو کیا کرہ تس اتھ اندر تہ بیہ نعمو عطا كَلَّا تہ نہ نہ ہرگز اِنَّهٗ كَانَ لِاِيْتِنَا عِنِيْدًا کیا زہ یہ اوس سائین آیا تن ہیوند مخالف تہ دُشمن امندہ خاطرہ چھ زیادتی دنیا و آخر تس منز بند چنانچہ تم آیات کریمہ نازل سپد نہ پتہ رود نہ امس مال و دولت کونہ نہ جاہ و عزت نہ اولاد خوار و ذلیل سپد سَاْرِهْقَهٗ صَعُوْدًا آئندہ آخر تس اندر کھارن بو سُ جہنمس منز تھہ کو ہس ہتھ ناو چھو صعود۔ حدیث شریف چھو صحیح ترمذ یس اندر کہ فر موو حضرت نبی کریمو صلی اللہ علیہ وسلم کہ صعود چھو جہنمس اندر آکھہ کوہاہ ستن ورین وائہ جہنمی تچہ تالہ پٹھ توپتہ آہ تمہ پٹھ بیہ یُون دارت دنہ۔ اُتھہ پاٹھ روزہ سو ہمیشہ اتھہ کوہس کھسان توپتہ تمہ کوہہ پٹھ و س

صَعُودًا ۱۴) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۱۸) فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۱۹) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۲۰) ثُمَّ نَظَرَ ۲۱) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۲۲) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۲۳) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْشَرُ ۲۴) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۲۵) سَأُصَلِّيهِ

پوان۔ یہ سزا ایہ تس دنہ امی اعتقادہ موکھ سمیوک ذکر کرنہ آوہ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ پڑپاٹھ تم شخصسن کر فکر بیہ کرن اندازہ کہ قرآن مجیدس نسبت کوہ پیچھ لفظ کرہ تجویز تو پتہ کرن واریاہ فکر تہ تامل کرت اکھ لغوتہ بے ہودہ کتھاہ پیش قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ پس گڑھن سواڈہ ژوٹ تہ کھوڈہ بوز، کتھاہ پاٹ کرن یہ اندازہ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ تو پتہ گڑھن سو بیہ اڈہ ژوٹ دوبارہ پتہ کڑھ کتھاہ کرتم یہ تعجب مکرر کرن چھو اسمنز سخت مذمت کرنہ خیطرہ۔ یعنی یہ کڑھ بے ربط کتھاہ کرتم سمیوک نہ کونہ صور تس منز احتمالے ہیچہ سہت کیا زہ سحرچ چھہ پرت اکس خبر کہ تمیوک اثر چھونہ زیادہ کالس پوشان سحرک طاقت چھونہ سو کیا ہیچہ غائبن پیچھہ تہ اثر کرت۔ گاتس زمانس تہ آئندہ آوہ ونس زمانس پٹھ اثر کرت۔ یعنی نعوذ باللہ ہر گہ یہ قرآن مجید جود آسہ ہا۔ سو کتھاہ پاٹ ہیچہ پرت زمانہ کین لو کن جود کرت کہ تم ہیچہ ہن تمہ جاڈہ کہ اثر سیت تمیوک مقابلہ کرت جاوگر یعنی اپہ زیور کتھاہ پاٹ بلکہ علی الاعلان دعویٰ کرنگ جرات کرت کہ مثل تہ تھہ کلامس ہیو، بھینونہ توہ جن تہ انسان ہرگز کانہ کلامس پیش کرت ثُمَّ نَظَرَ تو پتہ لگ مجلسہ ہندین لو کن گن بو تھہ بو تھہ وچھنہ سہ کتھاہ یوسہ مہ تجویز کر صہ وناکنہ ونہہ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ تو پتہ لدن بو تھس بوم وَبَسَرَ تو پتہ لگ بو تھہ ژکراونہ ڈکس درہ کھارنہ یو تھہ لو کھ دپن تمس چھہ سخت نکہت قرائچ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ تو پتہ پھیور پتھہ گن بیہ نہ راون غرور تہ تکبر۔ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْشَرُ تو پتہ ونس یہ قرآن مجید چھونہ مگر بین نشہ نقل کرمت جوداہ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ یہ چھونہ کنہ تہ بشرہ سندہ کلامہ وراہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سُنْد کلام چھونہ اللہ تعالیٰ چھو فرماون امس دیو توہ وورنہ۔ سَأُصَلِّيهِ سَقَر جلدی و اتاون

سَقَرٌ ۲۶ وَمَا آذُرَاكَ مَا سَقَرُ ۲۷ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۲۸ لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۲۹ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۳۰
وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۳۱ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ
إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۳۲ لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

بوسو جهنمہ کس نارس اندر وَمَا آذُرَاكَ مَا سَقَرُ ژہ کوہ چیز زانروی کہ سقر نار جهنم کیا
حقیقت چھ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ سونار تراوہ نہ باقی بدنگ کانہ حصاہ زالنہ وراي۔ نہ چھڈہ کانہ
نافرمانس عذاب کرنہ وراي لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَرِ پھسرہ والرون چھو بٹھ کس دالس یمہ سیت شکل
وصورتھ تہ تہ بر باد گوہ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ تھہ جہنم پٹھ چھ مقرر کرنہ امت گوہ ملک ہڈ
ہڈ سردار یم کافر نر نگارنگ عذاب کرن۔ ملائک ہيوند قوت تہ طاقت چھو سیٹھاہ زیادہ جنن تہ انسان
ہندہ خوتہ چنانچہ سارنی جہنم عذاب کرنہ خیطرہ اوس اکوی ملک کافی۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کر مقرر گوہ دوہ
ملک امہ اندرہ چھو معلوم سپدان کہ کافر نر عذاب کرنگ اہتمام چھو سٹھاہ زیادہ۔ کونہ وہن
ہوند عدد خاص کرنگ بر چھو معلوم اللہ تعالیٰ اسی۔ یمن کنوہن ملگن ہندس سردارس چھو تاو مالک
یلہ یمہ آبیہ کر یمک مضمون بوزکا فروتم لگ ٹھٹھہ تہ استہزاء کرنہ۔ چنانچہ اکھ کافراہ اکھ اوس
ابوالاشدین سو اوس سٹھاہ طاقت ور شخصہہ سو لگ وندہ کہ ای قریشو تہ وہ مہ کھوڑیو۔ یمو اندرہ زہ ملک
ہٹاؤ کہ توہہ باقی سداہن سیت کر بہ عنی مقابلہ اللہ تعالیٰ ان کر اتھ تردید وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ
إِلَّا مَلَائِكَةً اسہ کرنہ جہنمک داروغہ انسان یمن کانہ قوی انسانہ ہٹاؤ تھہ یمجھا بلکہ کراسہ جہنمک
داروغہ صرف ملائک یمو اندرہ اکھ ملک تیوت قوت چھو تھواون یوت سارنی جنن تہ انسان اولین تہ
آخرین قوت چھو چنانچہ حدیث شریفس منز چھو لہم مثل قوتہ التقلین وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا بیہ کرنہ اسہ تہوند تعداد یوت اس بیان آو کرنہ مگر کافر نر آزمائش کرنہ خیطرہ
یوتھ تہزہ مگر این ہيوند سبب نہ بیہ یوتھ اتھ پٹھ امیک نتاج مرتب سپدان لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا امْتِثَالًا كَذَلِكَ يُضِلُّ
اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ
رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۚ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۗ^{٣١}
وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِرَ ۗ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۗ إِنَّهَا لِحُدَىٰ

الْكِتَابِ یو تھ تم اہل کتاب یہ بوزت یقین کرن کیاہہ تمن آسہ پنہ نیو کتابو موجب اتھ تعدادس متعلق اطلاع خبر برو نھئی وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا یمہ سیت با ایمان ہوند ایمان زیادہ سپہہ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ یمہ روزہ نہ کانہ شک تہ تردد اہل کتابن تہ با ایمان۔ تمن لکھ نہ مٹر کن ہندہ استہزاء تمخرہ سیت کونہ قسمہ دھو کھ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا امْتِثَالًا یمہ یمن ہندن دلن اندر شکم مرض چھو یعنی مناقق تہ ضیعت الایمان لو کھ یمہ کافر ن پاٹھ انکار کرہ ون تم ونن کہ یمہ عجیب مضمون یعنی جہنمہ کین داروغن ہنز گردونہ اندرہ کیاہہ سنا چھو مقصود اللہ تعالیٰ اس یتھہ پاٹھ اللہ تعالیٰ ان یتھہ معاملس اندر با ایمان خاص ہدایت کر یمہ کرن اتھ معاملس اندر کافر خاص طور گمراہ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ یتھہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ گمراہ کر ان لیس یرشان چھو تس یمہ چھو ہدایت کر ان لیس یرشان چھو تس۔ جہنمہ کین داروغن ہنز گردن کتوہ ونس اندر چھہ کمہ کمہ حکمہ، نتہ چھا کل بل یتوی فوج نہ ہر گز نہ بلکہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ای پننبر چانس پروردگارہ سند فوج چھو تیوت یمن ہوند شمار نہ کانہ تہ زانہ تس معبود بر حقس ورا ی وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ یمہ جہنمک حال بیان کرن چھو بیڈ نصیحت صرف انسان ہندہ خیطرہ كَلَّا وَالْقَمَرِ یتھہ قتم چھو زونہ ہوند وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِرَ یمہ چھو قتم راز ہوند یلہ نہ گوہ بن چھہ حیوان وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ یمہ چھو قتم صمک یلہ

الْكِبْرِ ۳۵ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۳۶ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ
 أَوْ يَتَأَخَّرَ ۳۷ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۳۸ إِلَّا الْأَصْحَابَ
 الْيَمِينِ ۳۹ فِي جَنَّتٍ يُتَسَاءَلُونَ ۴۰ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۴۱ مَا
 سَلَّكُمْ فِي سَقَرٍ ۴۲ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلِينَ ۴۳ وَلَمْ

سو پھولان چھو دارہ گاش یوان چھو سخی قسم چھس بو ہوان یتھ تھ پیٹھ کہ اِنھَا اَلْحَدَى الْکَبْرِ بے
 شک جہنم چھو بڈیو ہولناک چیز واندرہ اکھ چیز نَذِيرًا لِلْبَشَرِ پس نیم کرہ ون تہ کھوژناوہون چھو
 سارنی انسان لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ تمن سارنی ہندہ خیطرہ ہم توہہ اندر
 نیکن تہ خیرہ چن کا میں برو تھ گڑھون یڑھن۔ بیہ تمن یم نیکیو تہ خیرہ چو کا میونشہ پتھ روزن یڑھن
 امہ ہمگ تہ کھوژناو ٹگ انجام تہ عافیت پدہ ظاہر قیامتک دوہ۔ تمی آی اتھ پیٹھ تمنے چیزن ہند قسم ہاونہ
 بمن چیزن قیاس سیت اکھ مناسبتاہ چھ چنانچہ زون چھ ابتداءس اندر بڑان بڑان تمہ پتہ چھ پور تہ برابر
 سپدت کم ہوان گڑھون یوتان ختم چھ سپدن ییہ چھ ہمہ عالمہ کہ وجود تہ تہ فنا گڑھون حقیقت تھہ پاٹھ چھ
 دوہ کس اینس تہ راتہ کس گڑھ نس تہ مناسبت بہ دنیاہ کس ختم گڑھ ہنس تہ قیامتکس اینس سیت۔
 راژ ہیوند ختم گڑھون گو ہمہ عالمگ ختم گڑھون صبح پھلن تہ دوہگ ین گو تمہ عالمگ ظاہر سپدن۔ امہ
 پتہ چھ بیان کران جہنمن ہند بعضے حالات کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ پرت شخصاہ آیہ پنہ نین
 کفرہ چن کا میں ہندہ موکھ جہنمکس قیدس اندر بند کرنہ تہ قید تھاوہہ إِلَّا الْأَصْحَابَ الْيَمِينِ مگرین نہ
 تھ جہنمسن منز قید تھاوہہ تم لوک بمن نامہ اعمال ایہ دندہ چھس اتھس کیتھہ فِي جَنَّتٍ تم آسن جنس
 اندر تہ عیش و آرامس اندر تو پتہ آسن يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ تم جلتی آسن کافرن نشہ
 تہوند حال تمنے نشہ پڑھان مَا سَلَّكُمْ فِي سَقَرٍ تم با ایمان آسن تمن کافرن پڑھان توہ کم
 چیزن واتاوہ جہنمسن یعنی کمو پیچھ عملو موکھ اوہ جہنمسن اندر واتاوہہ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلِينَ تم
 دیکھ اس آسنہ دنیاہس اندر نماز پرہ و نیواندرہ یعنی معبود برحقس عبادت کرہ و نیواندرہ وَلَمْ نَكُ

نَكَ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿۳۷﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿۳۵﴾ وَ
 كُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿۳۶﴾ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿۳۷﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ
 شَفَاعَةُ الشَّفِيعِينَ ﴿۳۸﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿۳۹﴾
 كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿۴۰﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿۴۱﴾ بَلْ يُرِيدُ
 كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمُ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشَرَةً ﴿۴۲﴾ كَلَّا بَلْ لَا

نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ بیه آسنه اَسِ غریبن تہ مسکین ہوندیہ ہوند حق آسہ پٹھ واجب اوس طعام کھیواوان
 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ بیه آس تمن لوکن سیت شامل سپدان یم دین حق یعنی اسلام باطل
 کرخ کوشش کران آس وَكُنَّا نَكْذِبُ بِیَوْمِ الدِّینِ بیه آس اہمز زانت انکار کران قیامتہ کس
 دوہس حَتَّىٰ آتَيْنَا الْیَقِينَ یوتان اتھ حالس اندراسہ مرنگ وقت ووت یعنی یمو حال تو نشہ آے نہ
 آس باز تا اینکه اتھ نافرمانی ہندس حالس پٹھ مُودِ اَسِ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِيعِينَ پس دیہ نہ کانہ
 نفع تہ فاندہ تمن شفاعت کرہ ونین ہنز شفاعت یعنی تمن کرہ نہ شفاعت تہ سفارشی کانہہ تمن یلہ
 امہ کفر و اعراضہ موکھ یہ حالت ہنہ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ پس کیاہ گو تمن کہ تم چھہ امہ
 قرآنہ کہ نصیحت نشہ یوتھ پھران تہ روگردانی کران تہ ژلان کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿۴۰﴾ فَرَّتْ مِنْ
 قَسْوَرَةٍ زن تم چھہ جنگلی تہ وحشی کھر یم سہ و پھت چھہ کھر کھ کھوان تہ ژلان۔ امہ تہندہ ژلنگ وجہ
 چھو کہ تم چھہنہ پنہ خیالہ قرآن مجیدس کافی دلیل زانان بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمُ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا
 مُنشَرَةً ﴿۴۲﴾ بلکہ چھو تمواندرہ پرت اکھاہ پڑھان کہ تس نعیہ گڑھہ واتن آسانی خطاہ وارہ مژہ روات۔ ہتھ
 خطس اندر بو صاحت لکھت آسہا خدایہ سندہ طرفہ خصوصی طور تہندہ ناوہ کہ توه کری حضرت محمد ﷺ سنز
 متابعت اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کَلَّا تہ ہنہ نہ ہرگز کیا زہ اچ چھہ ضرورتھ نہ چھہ یمن تیج لیاقت تہ
 قابلیت یہ درخواست کرنگ وجہ چھو نہ یمن کیا چھو دلن اندر پڑھ کرنگ پختہ ارادہ بَلْ لَا
 یَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿۴۲﴾ بلکہ چھو یہ درخواست کرنگ وجہ کہ یمن چھہنہ آخر تیج پڑھی یمن چھو نہ

يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝۵۴ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ۝۵۳ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝۵۵ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝۵۶

آخر تک عذابِ خوفِ بے تمی چھو نہ یمن پوزھا ٹنگ خیالے کا نہہ **کَلَّا** یلہ وین تہندہ
درخواست کرنک باطل آسن ثابت سپد۔ لہذا بہ نہ تہ ہرگز بنت تیج تم خواہش کران چھہ **إِنَّهُ**
تَذَكَّرٌ بلکہ چھویہوی قرآن مجید وعظ نصیحتہ خطیرہ کافی بیہ گوئے خصوصی وعظ چھہ نہ نہ ضرورت
فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ اتھ گن نظر کرت بس امہ قرآن مجیدہ سیت نصیحت رٹن یثہ۔ سورٹن
نصیحت یس نہ یثہ سومہ رٹن گوہن گرفتار جہنمہ کس عذابس۔ اسہ چھہ تہنہز۔ کانہ ضرورت کہ تس نشہ
کیا سوڑا اس خصوصی صحیفہ **وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ** بیہ کہہ کرن تم نصیحت قبول یوتان نہ
اللہ تعالیٰ تہوند نصیحت قبول کرن یثہ تمسندس نہ یثہ ہنس اندر چھہ بچہ بچہ حکمہ باوجود آن چھو ضرور
قرآن مجید بوڈو وعظ تہ بہ نصیحت لہذا گڑھہ امہ سیت نصیحت رٹن تہ خدایہ سزاطاعت وفرماں برداری
کرن کیا زہ **هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ** سوی چھو سوزات پاک یسندس عذابس کھوژن شوہہ
بیہ چھو سوی لایق بندن ہندن گنہن بخشایش کرنس یعنی انسانے ڈٹھ کیتھ گناہ کرہ توپتہ یلہ سو تقویٰ
چہ وتہ پختہ تس کھوژہ توپتہ کرہ توبہ گنہن مگس بخشایش سوپورردگار کر یس سارنی گنہن مغفرت توبہ
کرس قبول۔ چنانچہ اکس حدیث شریفس منز چھو آمت یس بروایت انس بن مالک چھو کہ حضرت
آنحضرت تو ہر کہ دودہ بیہ آیہ کریمہ فرموو کہ قال ربکم عزوجل أنا أهل أن أتقى فلا يشرک
بى شیء۔ فاذا اتقانی العبد فانا أهل أن أغفر له یعنی بوچھس ہتھ لایق کہ بندہ کھوژن مہ توپتہ ٹھہراونم
نہ کا نہہ اکھاہ کونہ چیزس تہ کونہ کامہ منز شریک توپتہ یلہ بندہ مہ کھوژ شر کہ نشہ سپد پاک تہ ساتہ
چھو میون شان ای زہ بو کرہ ٹھہرین گنہن مغفرت۔ (اللہ تعالیٰ تھاون اسہ پتہ نہ فضلہ ورحمتہ سیت
ہیشہ ایمان و توحیدس پٹھ قائم بیہ کرن سائین سارنی گنہن بخشایش۔ آمین یا رب العالمین)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۱ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۲

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بوچھس قسم ہاوان قیامتہ دوھک وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ بیہ چھس
 بُوقسم ہاوان تمہ نفسک لیس پان پانس ملامت کرہ محققو چھو لکھمت کہ انسانس چھو نفس اکوی مگر تمہ کیو
 تر یو حالو منز چھہ تھہ ترہ ناو۔ اگر انسانہ سند نفس آسہ مائل عالم علویس کن تو پتہ آسہ اللہ تعالیٰ سنز عبادت
 تہ فرماں برداری کران۔ بیہ آسہ تس شریج پیروی کر نس سکون و قرار محسوس سپدان تھہ نفس چھہ
 ونان نفس مطمئنہ اگر تھوند نفس عالم سفلیس کن مائل آسہ دنیا کیل لذت تہ نفعیہ خواہش اندر آسہ
 بوڑمت تو پتہ آسہ بیچھہ کائین تہ بدین کن رغبت کران شریعتہ چہ پیروی نشہ آسہ ژلان تہ گریز کران
 تھہ چھہ دنان نفس امامہ ہر گہ کونہ وقتہ عالمہ سفلیس کن آسہ نمان شہوتن تہ خواہش منز آسہ مبتلا سپدان
 تہ کونہ وقتہ آسہ عالم علویس کن مائل سپدت یکن چیزن بیچھہ تہ خراب زانت دور ژلان، بیہ آسہ یمو
 کامیو سبہ بہ شرمندہ تہ نخل گڑھت نادم تہ پشیمان سپدت پنہ نس پانس ملامت تہ کرڈہ پریت کران تھہ
 چھہ دپان نفس لوامہ یہوی مضمون ایہ بیہ طریقہ تہ بیان کرنہ کہ انسانہ سوند دل چھو گوڈ گوڈہ نفسہ چن
 خواہش گندہ نس تہ بے ہودہ کائین منز بوڈ تھہ غرق گڑھان نیکن کن چھس نہ رغبتی آسان سوگو نفس
 امامہ تو پتہ چھوس ہوش یون روت تہ بیچھہ چھوس فکرہ تران پالیس چھو ہیوان پیون بیچھہ کامیو نشہ چھو باز
 ہیوان یون محسوس چھو ہیوان کرن کہ مہ کوریہ نہ کرن گڑھہ پنہ نس پانس چھو ملامت ہیوان کرن۔ سو
 گو نفس لوامہ تو پتہ یلہ پنہ نس پانس درست کران تہ سنبھالان چھو۔ دلہ سیت چھو نیکن کن رغبت
 کران۔ بے ہودہ تہ ناجائز کامیو نشہ چھو خود بخود دور روزن ہوان بیچھہ کائین کرہ نچ چھہ کتھے تمن ہند
 تصور کرنہ سیت تہ چھو تکلیف تہ انقباض محسوس کران۔ تھہ چھہ دنان نفس مطمئنہ، یتس چھو اللہ تعالیٰ
 نفس لوامک قسم ہاوان کیا زہ اگر کانہ فطرت سلیمہ آسان چھو سو چھو خود بخود دنیا س اندری بیچھہ
 کائین پیٹھہ نادم تہ پشیمان سپدت پنہ نس پانس اصلاح کران یتس چھو جواب قسم محذوف کیا زہ امہ پتہ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۝۳ بَلَىٰ قَدَرِينٌ
 عَلٰۤی اَنْ تُسَوِّىَ بِنَانِهٖ ۝۴ بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ
 اِمَامَهٗ ۝۵ يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝۶ فَاِذَا بَرِقَ
 الْبَصْرُ ۝۷ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝۸ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝۹
 يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَقَرَّةِ ۝۱۰ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝۱۱ اِلٰى

ہم آیات چھ تھے پیٹھ دلالت کران سو جواب قسم چھو کہ توه ساری اوبیہ دوبارہ مر نہ پتہ زندہ کرنہ قبرو
 اندرہ کڈت محشرہ کس میدانس اندر سونبراونہ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ کیا انسان
 چھا خیال کران کہ اَس کیا ہونہ ہر گز تہنزه اڈچہ سونبروات تہ جمع کرت انسانہ اندرہ چھو مراد کافر بلی
 قَدَرِيْنَ عَلٰۤی اَنْ تُسَوِّىَ بِنَانِهٖ اَس کرو کہ ضرور اڈچہ جمع، تہ چھونہ اسہ نشہ کینہہ دشوار تہ مشکل
 کیا زہ جہ اڈچہ جمع کرنہ کیا چھ کتھے اسہ چھہ قدرت تمسزہ لو کچہ اڈچہ یعنی او کچہ ٹینڈ تان سونبرنس جمع
 کرنس تہ پندہ پندہ جایہ برابر کرنس پٹھ قدرت لیس حصہ بدنک سانہ نظرہ اندرہ مشکل چھو واٹن تہ برابر کرن
 تھہ پیٹھ یلہ تس قدرت چھہ تمہ گیہ نچہ نچہ اڈچہ بد نچہ وُن کیاہ عجائب چھو تس نشہ ہڈ ہڈ تان جمع کرن
 لیکن بعض لو کہ چھنہ خدایہ سندس قدر تس منز غور کران تھی چھہ قیامتس انکار کران بَلْ يُرِيْدُ
 الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اِمَامَهٗ بلکہ چھو انسان قیامتس انکار کرت یڑھان کہ آئندہ پینہ نہ زندگی اندر
 خوف تہ خطرہ ورا ی فسق و فجورس اندر رودیون يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تھی چھو بطریق انکار
 پر ژھان کر کمہ دوہ تہ تھہ سنس منز آسہ سو قیامت یینہ چھو سو ٹھٹھ پاٹ تہ ٹسنہ پاٹ سوال کرن پس
 بوزنا دیون فَاِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ پس یلہ اچھ خیرہ
 گدھن بیہ یلہ زونہ گرهون لکھ زونہ کیاہ کتھے چہ بلکہ یلہ آفتابہ زون یں جمع کرنہ تہ کنی حالت سپدہ
 آفتابس تہ زونہ یعنی دوشون لکھ گرهون دوشوے سپدن گٹ تہ بے نور۔ ہم ہم حالات یلہ تمہ دوہ رونما
 سپدن يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَقَرَّةِ یہ مکر قیامت انسان گدھہ حیران بد حواس گدھت لکھ

رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝۱۲ يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ
بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ ۝۱۳ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝۱۴
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝۱۵ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ

وَن كوت گوه ژلن جایہ تہ چھین جایہ چھنا کونہ اللہ تعالیٰ چھو فرماون۔ کَلَّا ہرگز نہ لاوڈر
ژلن جانی چھنہ کونہ ممکنی چھونہ کانہ کیا بھہ ژلت اِلٰی رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ تمہ دوہہ آسہ
سارنی پنہ نس پروردگارہ سزدرگاہ اندر تہ عدالتس اندر حاضر سپدن تہنہہ پیشی اندر ایستادہ روزن
تہمدسی فیلس پیازن توپتہ چھوس تہہ جایہ واتن یمہ جایہ ہوند سو فیصلہ کریس جتس یا نارس منز
يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ تمہ دوہہ ایہ امس انسانس کرمت تہ کر اومت پیوم تہ
بروٹھیوم سو روی یاد پاونہ بلکہ ہجھہ تس باونچ ضرورتہ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بلکہ چھو
یہ انسان پنہ نس پانس پیٹھ پانہ دلیل تس چھہ پنہ نین کر توتن ہنز پانس خبری وَّلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ
اگرچہ بروٹھ کن تراوتن سو ڈٹھ کتھ عذر تہ ہیانہ تم چلن نہ تمہ دوہہ کینہہ ونہ ناووکہ تمسد تان تہ
سو روی یہ تم کرمت آسہ، لہذا عذر تہ ہیانہ یا انکار کرہ نچ روزنہ گنجایشی۔ یمہ آہ کریمہ يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ
منزہ درای زہ مضمون۔ اھ مضمون گو کہ اللہ تعالیٰ چھو سو روی زانہ ون۔ سارنی چیزن احاطہ کرہ ون
تس نشہ چھونہ کھٹمت کینہہ تہ دوئم مضمون گو کہ اللہ تعالیٰ سند طریقہ چھو کہ یلہ سو یٹھان چھہ باقتضاء
حکمت چھو سو تم علم تہ تم واقعات مخلوقن ہنزہ ذہنہ اندر حاضر کران، یم تہمدس ذہنس نشہ غائب
تہ پوشیدہ آسن چنانچہ تی سپدہ لوکن ہوند حال قیامتک دوہ، ستیوم تہ پیوم پیہ تمن پانے خود بخود یاد۔
یلہ یہ سانہ قدرنچ حقیقت تہ کیفیت چھہ تہہ کیا حض چھو یار سول اللہ پنہ نس پانس تکلیف ووان وحی
نازل سپدنہ کہ وقتہ چھو جبریل امینس سیت سیت پران۔ بوزان تہ چھوہ پران تہ چھوہ محض یمہ اندیشہ
مؤک کہ وحیک کانہ حصہ ماروزہ غیر محفوظ تہ ذہن مبارکہ منزہ نیرہ نیر۔ تہہ کیا زہ چھوہ اندیشہ کران۔
یلہ اسہ تہہ پیغبر بناوہ تہہ نشہ چھو اسہ تبلیغ کام ہن۔ سانی کام چھہ تم ساری مضامین تہہ ہنزہ ذہنہ
مبارکس اندر جمع کرن تہ محفوظ تھاون۔ تہہ کیا زہ چھوہ تمیوک غم بران تہ محنت و مشقت برداش کران
لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بہ مہ آسیو تہہ زبان مبارکس حرکت کران وحی موکلنہ بروٹھ

بِهِ ۱۶) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۱۷) فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ
 قُرْآنَهُ ۱۸) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۱۹) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ
 الْعَاجِلَةَ ۲۰) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۲۱) وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۲۲) لَا
 إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ ۲۳) وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ بِأَسْرَةٍ ۲۴) تَنْظُرُ

یہ خیال کہ جلدی سان کرہا یوحیک الفاظ یاد کیا زہ **إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ** بے شک اسی چھو
 مطہ یہ قرآن مجید تو ندس دل مبارکس منز جمع کرن بیہ چھو اسی مطہ تہوندہ زبان مبارک کہ یہ پرہ ناوان
فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ پس یلہ اُس یہ قرآن مجید پران آسو یعنی سون فرستادہ ملک جبریل امین
 یلہ یہ پران آسہ تہوند ذہن تہ فکر گروہ تمہ ساتھ امہ کس بوز نس کن متوجہ تہ تابع روزن، سیت سیت
 پرنس سیت گروہنہ مشغول روزن **ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ** تمہ پتہ یلہ توہ لوکن برو نٹھ کنہ بیان آسہ
 کرن، تمہ ساتھ تہوندہ زبان مبارک کہ یہ بیان کرہ ناوان چھو سانی مطہ یہ مضمون ضمنی طور بیان کرت چھو
 بیہ قیامتہ کین مکن کن خطاب یوان کرنہ۔ ای منکر انسانہ ہتین تہ برو نٹھمن عملن پٹھ مطلع کرنہ یوان
 سپدہ ضرور قیامتک دوہ۔ توہ لوکن چھو خیال کہ قیامت سپدی نہ قائم **كَلَّا** یہ تہوند خیال چھو نہ
 ہرگز صحیح توہ چھنہ اتھ پٹھ کنہ دلیل حقیقتس اندر چھتھ کتھ بیے کہ **بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ** بلکہ چھو توہ
 دنیاک محبت تھواون تمکسی محبتس منز چھوہ توہہ بڈت گمت **وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ** آخرتہ نشہ
 غافل سپدت چھون سو بس پشت تراوان تہوندہ قیامتس انکار کرنگ بنا چھو دنیاک محبت۔ لہذا زانیو تہوہ
 وارہ کہ قیامت سپدہ قائم ضرور۔ پرت اکھاہ ایہ پنہ نمین عملن پٹھ مطلع کرنہ تو پتہ ایہ پرت اکس تمن
 عملن ہنز مزدور دنہ رژن عملن رژ مزدور بیچھ عملن بیچھ مزدور سمیوک تفصیل تھہ پاٹ چھو **وَجُودٌ**
يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ واریاہ بوتھ آسن تمہ دوہہ بارونق تروتازہ **إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ** تم آسن پنہ نس
 پروردگار س کن وچھان لذت دیدارہ سیت آسن سرشار، ہشاش تہ بشاش یعنی اسہ وین تہ پٹھلہ وین
وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ بِأَسْرَةٍ واریاہ بوتھ آسن تمہ دوہہ بے رونق تہ ذکر اوت تہ یوم لد تھ **تَنْظُرُ** اُن

أَنْ يُفَعَّلَ بِهَا فَاقْرَأَهُ ۖ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۙ
 وَقِيلَ لَهَا مَنِ السَّاقُ ۗ وَظَنَّ أَنَّهَا السَّاقُ ۗ وَالصَّفَاتُ
 السَّاقُ بِالسَّاقِ ۗ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۗ
 فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۗ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۗ
 ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ۗ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۗ

يُفَعَّلَ بِهَا فَاقْرَأَهُ تمَن لو کن آسن زانتھی کہ تمَن سیت سپدہ سوی معاملہ نُس تہند کمر پھڑا وہ ون
 آسہ یعنی تمَن آیہ کرنہ عذاب شدید۔ امہ پتہ چھود نیاء کس مجتہس پٹھ زجر یوان کرنہ کہ ای انسانہ
 ژہ اوسکھ دنیاء س محبوب زانان تہ آخرتس ناپسندتہ نامرغوب زانان کَلَّا سوکھ چھنہ کیا زہ امہ
 دنیاء نشہ چھہ ژہ آیہ کہ نتہ کہ دؤھ مفارقت تہ جدائی کرن تو پتہ چھوی ژہ بہر حال آخرتس گن وائُن
 إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ یلہ زوواتان چھو ہر س پٹھ یعنی انسان چھو مر نہ لگان وَقِيلَ مَنْ السَّاقُ
 تمہ ساتہ چھو نہایت حسرتہ کن و نہ نہ یوان یعنی بیمار دار چھہ تمہ ساتہ ونان کا نہہ پرن وولاہ چھونائُس
 تمس چھو کھاہ دیہ ہایا کا نہہ علاج کرہ دناہ حکیماہ چھونا وَظَنَّ أَنَّهَا السَّاقُ سومرہ ون چھوپانہ یقین
 کران کہ یہ چھود نیاء نشہ عزیزن تہ رشتہ دارن نشہ جداسپد نلک وقت وَالصَّفَاتُ السَّاقُ بِالسَّاقِ
 موچہ سختی سیت ہتھس اکھ گرز بیس گرزہ ولنہ یوان۔ یہ چھو علامت سكرات الموتک إِلَى رَبِّكَ
 يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ یلہ یژہ حالت پیش یوان ہتھہ، دپنہ چھو یوان امس مرہ ونس، کہ ژہ چھہ از
 پنہ نس پروردگار س گن چکن تو پتہ خدائس نشہ واتنہ پتہ اگر سوخض کافر آسہ تمسند حال آسہ سینٹاہ خراب
 کیا زہ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى کیا زہ تم آسہ کرمت تصدیق تہ پڑھ کنس خدائس تہ پیغمبر برحقس بیہ
 آسین نہ پر مشر نماز وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى لیکن تم کربجای تصدیق انکار و تکذیب بیہ بجای نماز
 ونیاز کرن سخت اعراض ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى اعراض کرت تہ بو تھ پھرت تن گرہ گن
 چکن یژہ ماران زن تم لاس لہمت لاس بند کومہ کر مشر آس اَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ * ثُمَّ اَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۗ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ
يُتْرَكَ سُدًى ۗ ۳۶ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مِّمِّي يُمْنِي ۗ ۳۷
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۗ ۳۸ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ ۳۹ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ
يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۗ ۴۰

ای بد بخت چانه بد بختی تباہی تہ خرابی ہوند وقت ووت، اکئی خرابی نہ بلکہ اکہ خرابی پتہ بیاکھ خرابی اکہ تباہی پتہ بیاکھ تباہی **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى** کیا یہ انسان چھا گمان کران کہ سو کیا ایہ تراونہ لیے تس کیا ایہ نہ آزمائش کرنہ امر ونہی کیوا حکا موسیت۔ تو پتہ کیا ایس نہ پر تھ نہ حساب ہینہ۔ بلکہ چھو سو یقینا مکلف۔ یہ ایہ تس یقینا حساب و کتاب کرنہ جزاء و سزا دنہ یہ انسان اوس مر نہ پتہ زندہ سپد نس محال زانان پتہ آیتہ آس امسز کمال حماقت **أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مِّمِّي يُمْنِي** کیا امس چھنا پنون ابتداء معلوم کیا یہ اوسنا گوڈہ محض اکہ منی قطراہ یس پشپاوندہ آوزانہ ہندس شمس تہ بچہ دانہ اندر **ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً** تو پتہ بیوتھ منی قطرس خونہ و تھاکھ **فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ** تو پتہ کرتھ اللہ تعالیٰ ان پیدہ اکھ انسان تس کرن اعضاء بدن برابر **فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ** امسی انسانس کر اللہ تعالیٰ ان زہ قسم زتہ مادہ۔ مرد تہ زنانہ **أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ** کیا یہ قادر مطلق یم پتہ نہ قدر تہ سیت ابتداء یہ سوروی کینہہ کور اگس بیجان قطرس کرن عاقل تہ دانانسان پیدہ سو بھہ نامرنہ پتہ بیہ دوبارہ تس پیدہ کرت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت من قرأ سورة القيمة وقرأ فيها **أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ** فليقل بله إنه على كل شئ قدير یعنی یس سورہ قیامت پرہ تو پتہ پرہ تمیوک پیوم آہ کریمہ الیس ذلك الخ سو پر ن بلی الخ اودہ سو پر تن نمازہ منز یا نمازہ ورا یس یہ سورہ شریفہ پرہ و ن آسہ تس چھو حکم امہ پتہ بلی پر ن۔ بوزہ و نس چھونہ پر نگ حکم۔ اتھے پاٹھ چھہ اما مسی یوت پر ن مقتدرین چھنہ پر ن کیا زہ لفظ حدیث چھو من قرأ اتھ منز چھونہ من سمع یعنی یس بوزہ یہ آہ کریمہ تھوند گوڈہ نہ پر ن واره گوڈہ تامل کرن۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ①
 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ
 سَبِيحًا بَصِيرًا ② إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا
 كَفُورًا ③ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ④

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا بے شک اس انسان پہ گزریو زمانہ منز
 اکھ وقماہ بیتھ و قس منز اوس نہ سوکانہ چیزہ زیوہ پیٹھ ہیون لایق یعنی قابل ذکر۔ انسان اوس نہ بلکہ اوس
 نطفہ تمہ بروٹھ اوس غذا تمہ بروٹھ اوس چیز جماد اتواندر إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ اسی
 مگر پیدہ یہ انسان ملناونہ آتس آب نفطس یعنی مردہ سندس آبس تہ زنانہ ہندس آبس سیت ملناوت
 کیاہہ زنانہ ہنز منی چھ اندر اندری تہندس شمس یعنی بچہ دانہ اندر جمع سپدان توپتہ چھ تم دوشوے
 آب پانہ وان رلان تہ ملناونہ یوان تھہ چھ انسان بنان بیتہ ہمہ معنی آستھ کہ سوادہ چھو
 مختلف چیز و سیت مُرکب آسان سپد مُت غرض اچھسے نفطس کر پیدہ اسہ یہ انسان
 نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيحًا بَصِيرًا یہ طریقہ کہ اس کر سو مگت یعنی پنہ نین حکم امر تہ نہی
 واتا و تس نشہ دپوس یہ کرتہ یہ نہ۔ امی سیت کرو آس تس آزمائش تہ امتحان تمی موکھ کر اسہ
 سو بوزہ ون تہ وچھ ون بیہ کور اسہ تس عقل و فکر عطا غرض کہ سو بیت تہ تم صفت کر اسہ تس عطا یو
 سیت تمس اندر مکلف بہ نچ قابلیت سپز پیدہ۔ تمہ پتہ یلہ تس مکلف بہ نگ وقت ووت إِنَّا هَدَيْنَاهُ
 السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اسہ کر یو مطلع رزن کامن پٹھ تہ بچھ کامین پیٹھ توپتہ ہاوس اسہ
 سیز و تھہ یعنی پنہ نیوا حکا موسیت کور اسہ تس گن خطاب۔ تمہ سیت سپد سویا شکر گزار با ایمان۔ یاسپد

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۗ
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ نَهَا تَفْجِيرًا ۖ يُوفُونَ
بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۗ وَيُطْعَمُونَ
الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا ۗ وَأَسِيرًا ۗ

ناشکر گزار کافر یعنی یہ وہ تہس دوپ پکن ہر گہ تمی وہ تہ پوک تلہ گو با ایمان۔ ہر گہ تمہ وہ تہ پوک نہ تلہ گو کافر۔ وین چھو بیان یوان کرنہ یمن دوشون ہیوند جزا سزا إِنْ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا اسہ چھو تیار تھاومت کافرن ہندہ خیترہ ہانکہ تہ طوق بیہ دزہون نار إِنْ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا بے شک ہم نیوکار آسن تم جن جٹک شراب طہور پیلاو سیت تہہ شراب طہورس ملانوانہ آسہ آمت جنتہ کہ کافورہ منزہ مویہ ہنہ جنس منز چھواکھ چشمہ یعنی اکھ ناگہ بس اللہ تعالیٰ ان چھو مخصوص کرمت مقرب بدن ہندہ خیترہ سو آسہ خوشبو تہ فرحت افزانہ سفید تمی مناسبہ آس و منہ کافور عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ نَهَا تَفْجِيرًا اکھ چشمہ بیہ منزہ چن اللہ تعالیٰ سند خاص بندہ۔ تہہ آسن تم خاص بندہ پھر ان یوگن تمن خوش آسہ کران سو آسہ بون گن پکان ہیور گن پکان چتچہ جو یہ آسن جنتین تابع تہندہ اشارہ سیت توکن پکان یوکن تہنز خواہش آسہ۔ درمثورس اندر چھ اکھ روایت کہ جنتین آسن اتھن منز سونہ سزہ لورہ تموی سیت آسن جوین گن اشارہ کران تمہ جو یہ آسن تہندہ اشارہ سیت تہہ طرفس پکان تہہ طرفس گن تہنز خواہش آسہ گوشان یوفون بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا تم عباد اللہ خدایہ سند بندہ گے تمے ہم پورہ چھ کران تم واجبات یعنی نذر و نیاز ہم تمویانس پٹھ مہ ہمت آسان یلہ تم پانے مہ ہمت چیز پورہ کران چھ وین ہم چیز اللہ تعالیٰ پانے چھ تمن پیٹھ واجب تہ مہ کران تمن چیزن ہنز چھنہ کتھے کہ تم تھ پاٹھ آسن پورہ کران۔ واجبات ربانی چھ کمال اخلاص پورہ کران کیازہ تم چھ کھوژان تہہ دوس یہ دوچ سختی عام آسہ پرت اکس وانہ وین الاماء اللہ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا ۗ وَأَسِيرًا ۗ تم

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝^{۱۵}
 قَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝^{۱۶} وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا
 كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝^{۱۷} عَيْنًا فِيهَا سُسْبِيلًا ۝^{۱۸} وَيُطَوَّفُ
 عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
 مَّنثورًا ۝^{۱۹} وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝^{۲۰}

جنتہ کین کلین ہوند خوشگوار سایہ آسہ تمّن نکھ تل وذلکت قُطُوفُهَا تَذَلُّلًا نمرانہ آسہ آمت
 تمّن کلین ہوند میوہ تیوت کہ تکلیف و مشقت و رای آسن تم سومیوہ استعمال کرت پرت حاس اندر
 ودنہ بہت بہت شوجعتہ۔ سو آسہ تمّن تابع تھانہ آمت ہتھ پاٹھ خوش آسکھ کران تھہ پاٹھ آسن
 کھوان و یطاف علیہم بانبیاء من فضة و اکواب کانت قواریرا * قواریرا من فضة۔ بیہ ین تمّن نشہ
 کھنہ چنک چیز پیش کرنہ روپہ سندین بانن تہ روپہ سندین ژ کدارا بخورن منزیم روپھ ہی آسن سفید
 شیشہ ہی آسن شفاف تہ صاف۔ روپھ سند آستھ آسن شیشہ ہی شیشو آستھ آسن روپھ ہی قَدَّرُوهَا
 تَقْدِيرًا۔ یمن آبخورن منز پھرن وال اکہ خاص انداز موجب پھران آسن تہ ہتھ گُن جنتین خواہش
 گزہان آسہ و یُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ بیہ ین جنتی تمّن جنتن اندر تمہ شرابہ علاو
 ہتھ کافور ملانوانہ آسہ آمت بیہ تہ بیاکھ قسم شرابگ چاونہ، ہتھ منز شوٹھہ ہیوندا نقہ تہ مزہ لبنہ یوان
 آسہ۔ عَيْنًا فِيهَا سُسْبِيلًا امہ قسمہ شرابک تہ آسہ اکھ چشمہ ہتھ تہ ونہ نہ آسہ یوان سلسبیل
 و یطوف علیہم ولدان مخلصون۔ بیہ آسن تمّن بروٹھکن چیز بیت یوان گزہان تم خوب صورت
 لوکت بچہ یم تمہ قسمہ حسین و جمیل آسن کہ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا۔ بلہ ژہ ای
 مخاطب تم و جھبک اورہ یور کران ژہ کہ گمانہ یم ماچھ ہتھ کرنہ آمت نمختہ پھل تھہ آسن تم نندہ بان
 و إِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ای مخاطب جنتک حال کیاہ آیہ ونہ، سو سپدی ژہ تمیلہ
 معلوم بلہ ژہ پانہ و چھک۔ و چھک ژہ کمہ کمہ عظیم الشان نعمہ بیہ شہاہ ہڈ سلطنت یوسہ ادنی جنتیس عطا آیہ

عَلَيْهِمْ شِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ
 مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رُبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿۳۱﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ
 لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿۳۲﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
 الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿۳۳﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيَةً
 أَوْ كُفُورًا ﴿۳۴﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۳۵﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ


کرنہ سوگیہ کہن دنیاءن برابر عَلَيْهِمْ شِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ پٹھیوم پوشاک تہوند آسہ
 زایول سبزپوٹ تہ سوت وونموت وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ بیہین لاگنہ جنتین روپہ سند کریمین
 کرن ہیوند حسن و خوبی بیانے ہم نہ کانہہ کرت وَسَقَمَهُمْ رُبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا بیہ چاودہ تمن پنون
 پروردگارہ پاک و پاکیزہ شراب بس نہ دنیاء ک شراب پاٹھ عقل زائل کرہون آسہ یاد بودار آسہ بلکہ
 آسہ سومعطر تہ مشک دار، حدیث شریف منز چھو آمت لیس دنیاء کہ شراب اکھ قطرہ چہ سوسپدہ
 محروم آخرتس اندر جنتہ کہ شراب طہورہ نشہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ونہ
 ایک بے شک ای جنتیویہ چہ تو ہندہ خیطہ تو ہنز عملن ہنز مزر، تو ہنز کوشش تہ جدوجہد چھو
 قابل قبول تہ قابل تعریف یہ بوزت گزہن جنتی زیادہ خوش۔ ای پیغمبر توه بوزوہ کہ تو ہندین موافقن
 کوسہ رث مزر آسہ عطا کرنہ تہوند مخالفن کوسہ سزایہ دنہ لہذا مہ کریو توه ہنزہ مخالفن کانہ پروا۔ توه روزیو
 مشغول پنہ نین کامین سیت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا بے شک اسہ کرنازل توه یہ
 قرآن مجید وارہ وارہ ہندہ ہندہ تھ توه تہ واتاویو لوکن وارہ وارہ تہ ہندہ ہندہ سیت تمن آسانی سپدہ
 وارہ وارہ زانن تم پنون نیک و بد۔ بیہ بیگھ زانن کمورتو و عملو سیت چھو حاصل یوان کرنہ رضای خدا ہرگہ
 تھہ پاٹھ فکرہ تارنہ سیت تہ تم مانن نہ پنہ نی انکارس پٹھ روزن قائم فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا
 تَطِعْ مِنْهُمْ آيَةً أَوْ كُفُورًا توه روزیو پنہ نس پروردگارہ سندس حکمس پٹھ مضبوط تہ محکم بیہ پیاریو
 تہندس آخری فیصلس۔ توه روزیو بدستور تبلیغ و دعوت کران احکام الہی لوکن واتاوان اتھ اندر مہ مانیو

فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿۳۶﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ
 الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿۳۷﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
 وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا اشْتَبَاهَا لَنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَدَّلًا ﴿۳۸﴾
 إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۳۹﴾ وَمَا
 تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۴۰﴾

توہ کا نسہ فاسقہ سزیا کا فرہ سز کا نہہ کتھاہ۔ کافر و اندرہ عتبہ تہ ولید و غیرہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ
 و سلم دنیوی لالچ دتھہ تبلیغ و دعوت نشہ پتھہ رٹان اللہ تعالیٰ ان فرمود کہ کہ یمو منزہ یوتھہ نہ توہ کا نسہ
 ہنز کتھہ مانبو۔ یہ تبلیغ و دعوت گیہ سو عبادت سمیوک فیض بین و اتان چھوامہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ تمہ
 عبادتک حکم فرماون سمیوک فائدہ خاص پنہ نس ذاتس چھو وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ بُرُکَةً وَاَصْبِلًا بیہ
 آسیو پنہ نس پروردگارہ سُنْد نام پاک یاد کران خمس تہ شامس وِمِنْ اَیْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَیْلًا
 طَوِیْلًا بیہ آسیو راز ہندس سُنہ حصص منزتس سجدہ دوان امہ اندرہ چھو مراد شام نماز تہ خشن
 نماز۔ بیہ آسیو تہنر پاکیا بیان کران شبہ کس زٹھس حصص منز۔ تمہ اندر چھو مراد نماز تہجد واللہ اعلم
 إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا بیہ شک یم تہند دشمن یم نہ تہنر
 نصیحت تہ ہدایت قبول چھہ کران یم چھہ دنیاء ک محبت تھواون تمی چھک نہ اتھہ و تھہ یوان تھوند حکم
 مانہ نس کن دنیاء ک محبتن چھہ تم ان تہ زر کرمت۔ بیہ چھہ تم تھکن تراوان سودوہ لُس گوب یعنی سٹھا مشکل
 تہ خطرناک چھہ۔ بلکہ چھو یم تھہ دوہس انکاری کران۔ یم چھہ زانان کہ قبرہ ہنزہ مژہ منز روزت کوہ
 کرہ اسہ بیہ پیدہ اللہ تعالیٰ چھک تھہ جواب فرماوان کہ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اسی کر تم گوڈہ
 پیدہ اسی کر تھند بند تہ استخوان مضبوط۔ از تہ چھہ اسہ سو قدرت بدستور موجود۔ وَإِذَا اشْتَبَاهَا لَنَا
 أَمْثَالَهُمْ تَبَدَّلًا اسی ہر گاہ یرھو اسی کھو بہنر موجودہ ہستی ختم کرت تو پتہ کھوک اس سمنے ہی سمو
 بدل پیدہ کرت إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ بیہ شک یہ سوروی یہ بیان آو کر نہ یہ چھہ اکھ نصیحتاہ زور جبر

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۳۱

کرنچ چھنہ ضرورت فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا پس یس خوش کرہ یہ نصیحت بوزت سو کرن اختیار پنہ نس پروردگار س نشہ واتج و تھہ یہ قرآن مجید چھو یقیناً در ذات خود اکہ بند نصیحتاہ لیکن وَمَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ توه ہکینہ کانہ چیز یرھت مگر تی یہ اللہ تعالیٰ یرھہ بعضے لوکن ہندہ حقہ چھ آسان خدا یہ سندس نہ یرھنس اندر جہ جہ حکمہ کیا زہہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھ پانہ سیٹھاہ زان دول سٹھاہ حمہ وول يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ سولیس یرھان چھوتس چھو بیشک سٹھاہ رتھس منزواتناوان۔ یس یرھان چھوتس چھو شرک و کفر س بتلا کران شرک انہ موکھ چھہ تم ظالم بنان وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ظالمن ہندہ خیترہ چھوتس تیار تھاومت دگ تہ دود تلہ ون عذاب۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ① فَالْعَصْفِ عَصْفًا ② وَالنَّشْرِ نَشْرًا ③ فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ④ فَالْمَلَقِيَّتِ ذِكْرًا ⑤ عُدْرًا أَوْ
 نُذْرًا ⑥ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ⑦ فَإِذَا التَّجُومُ طُمِسَتْ ⑧ وَ
 إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ⑨ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ⑩ وَإِذَا الرَّسُلُ
 أُقْتَتَ ⑪ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ⑫ لِيَوْمِ الْفُصْلِ ⑬ وَمَا أَدْرَاكَ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا قسم چھو تممن ہوا عن ہوندم نفع تہ فائدہ و اتانودہ خیطرہ تراونہ چھو یوان
 فَالْعَصْفِ عَصْفًا توپتہ چھو قسم تممن ہوا عن ہوندم تیزی سان پکان چھو یمن اندر خطرک
 احتمال چھو آسان وَالنَّشْرِ نَشْرًا توپتہ چھو قسم تممن ہوا عن ہوندم ابرن تلت چھو تممن
 مثر او ان، یمہ پتہ ادہ رود چھو ہیوان یوان فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا توپتہ چھو قسم تممن ابرن ہوندم ابرس
 چھ چھلہ کران، یوسہ صورت ابرس رود پنہ پتہ چھ سپدان فَالْمَلَقِيَّتِ ذِكْرًا توپتہ چھو قسم تممن
 ابرن ہوندم خدایہ سند یاد دلن منز تراوان چھ۔ یا خدایہ سند خوف پیدہ کران چھ عُدْرًا أَوْ نُذْرًا
 تو بگ خیال یاد خدایہ سند خوف دلس منز پیدہ کران چھ۔ امہ پتہ چھو جواب قسم سوگو لَانَّمَا
 تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ یمہ چیزک تودہ وعدہ کرنہ یوان چھو سو چیز چھو ضرور واقع سپدہ ون یعنی قیامتک دودہ
 فَإِذَا التَّجُومُ طُمِسَتْ پس یلہ ستارہ گٹ تہ بے نور سپدن وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ بیہ یلہ آسمانس
 وول گڑھن وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ بیہ یلہ کوہین وڑہ نانودہ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقْتَتَ بیہ ساری پیغمبر مقرر
 کر تمس و قس پٹھ پنن پنن امتی ہیبت پیش ین کرنہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ تودہ چھاکینہہ معلوم کہ کہہ

مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ
 نُهَلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝ ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ ۝ كَذَلِكَ
 نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ
 نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝
 إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ۝ وَيْلٌ

دوہ خیطرہ اوس پیغمبرن ہوند معاملہ ملتوی آمت تھاونہ لیومر الفصیل سو معاملہ اوس ملتوی
 تھاونہ آمت فیصلہ کہ دوہ خیطرہ و ما اذک ما یومر الفصیل توہ چھا معلوم کہ فیصلک دوہ کیو تھ
 چھو۔ سو چھو سیٹھاہ سخت مشکل تہ خطرناک و یل یومر الفصیل بین سخت تباہی تہ مصیبتک
 دوہ چھو قیامتس اپز زانہ و نین ہندہ خیطرہ منکرین قیامت چھ خیال کران کہ یہ تھ پاتھ بندہ کہ ساری لوکھ
 کیامرن گھنہ انسان روزندہ دنیا س اندر موجود تمیوک جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ اَلَمْ نُهَلِكِ
 الْأَوَّلِينَ * ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ کیا سہ گال ناعذابہ سیت بروظھم لوکھ یم کفر و انکار کران
 آس۔ تو پتہ تھاوکھ اس تمن تابع پتہ اوہ و ن تہ یم تھندی پاتھ کفر و انکار کرن یوسہ ہستی الگ الگ
 و قس اندر بڈین بڈین مضبوط تہ طاقتور انسان ختم بیجہ کرت سو ہستی بیجنا سارنی نافرمان اکی وقتہ رتھ
 تہ گرفتار کرتھ تمن عذابک مزہ ژہناو تھ کَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ تھ پاتھ چھ اس
 نافرمان تہ جُر میں سزا ووان و یل یومر الفصیل بین افسوس تہ تباہی چھ تمہ دوہہ قیامتس اپز
 زانہ و نین ہندہ خیطرہ اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ کیا سہ کردہ ناتوہ پیدہ اکہ بے قدر آبہ قطرہ
 نشہ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ تو پتہ تھاو سو آبہ قطرہ اکس محفوظ جایہ اندر، یعنی
 ماجہ ہندس رُحس اندر اکس مقرر و قس تان یعنی نون رتین تان فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ اسہ
 کریمن سارنی تصرفاتن ہوند اکھ خاص اندازہ بس کیو تھ رت اندازہ کردہ و ن چھ اس تریہ فکرہ ژیہ
 سین قدرت و یل یومر الفصیل بین وون یم لوکھ پزن کھن اپزہ زانٹھ انکار کرن تھندہ خیطرہ

یَوْمِ مِیدِ لِّلْمُکَذِّبِیْنَ ﴿۳۳﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ کِفَاتًا ﴿۳۵﴾
 اَحِیَاءَ وَاَمْوَاتًا ﴿۳۶﴾ وَجَعَلْنَا فِیْهَا رِوَاسِیَ سَبِیْخٍ وَّ
 اَسْقِیْنٰکُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿۳۷﴾ وَاِیْلَ یَوْمِ مِیدِ لِّلْمُکَذِّبِیْنَ ﴿۳۸﴾
 اِنطَلِقُوْا اِلٰی مَا کُنْتُمْ بِہِ تَکْذِبُوْنَ ﴿۳۹﴾ اِنطَلِقُوْا اِلٰی ظِلِّ
 ذِی ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿۴۰﴾ لَا ظَلِیْلٍ وَّلَا یُعْنِی مِنَ اللّٰہِ ﴿۴۱﴾
 اِنہَا تَرْمِیْ بِشَرِّرٍ کَالْقَصْرِ ﴿۴۲﴾ کَانَہُ جِلْدًا صُفْرًا ﴿۴۳﴾ وَاِیْلَ
 یَوْمِ مِیدِ لِّلْمُکَذِّبِیْنَ ﴿۴۴﴾ ہَذَا یَوْمٌ لَا یَنْطِقُوْنَ ﴿۴۵﴾ وَلَا


چھو افسوس تہ تباہی قیامتک دہہ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ کِفَاتًا * اَحِیَاءَ وَاَمْوَاتًا کیا اسہ کرنا یہ زمین
 پانس منز زندن تہ مُردن جمع کرہون کہ زندگی تہ چھ ساری اتھ ز مینس پٹھ بسر کران تہ مر نہ پتہ تہ
 چھ اسی مثرہ منزواتاون امہ منزہ دوبارہ بیدہ کرن کیاہ مشکل چھواسہ نشہ وَجَعَلْنَا فِیْهَا رِوَاسِیَ
 سَبِیْخٍ وَّ اَسْقِیْنٰکُمْ مَّاءً فُرَاتًا بیہ کرناواسہ اتھ ز مینس پٹھ تھمد بال گبراونہ خیطرہ بیہ چاودناسہ
 توبہ میوٹھ آب وَاِیْلَ یَوْمِ مِیدِ لِّلْمُکَذِّبِیْنَ وِیل تہ افسوس بوین تمہ دوہہ منکران اِنطَلِقُوْا اِلٰی
 مَا کُنْتُمْ بِہِ تَکْذِبُوْنَ وندہ ایہ تمس منکران قیامت دوہہ توبہ پچو تھہ عذابس کن تھہ توبہ انکار کران
 آسہ اِنطَلِقُوْا اِلٰی ظِلِّ ذِی ثَلٰثِ شُعَبٍ توبہ پچو ترہ شاخل سانس کن لَا ظَلِیْلٍ وَّلَا یُعْنِی مِنَ
 اللّٰہِ یس نہ ٹھور کرہون آسہ آفا پچہ گرمی نشہ نہ جھنمہ پٹھہ نشہ بیہ آسہ فاندہ دووان پچاوک
 جھنمہ چونا رہیو نشہ اِنہَا تَرْمِیْ بِشَرِّرٍ کَالْقَصْرِ بے شک جھنم آسہ تراوان تمبرہ تھرن لرن سومبہ
 کَانَہُ جِلْدًا صُفْرًا زن تمہ تمبرہ ہون پنہ کہ وقت زردوونٹن سومبہ آسن کھنہ وزہ آسن تمہ تمبرہ
 لرن سومبہ وسنہ وزہ آسن وونٹن سومبہ وَاِیْلَ یَوْمِ مِیدِ لِّلْمُکَذِّبِیْنَ وِیل تہ افسوس بوین تمہ دوہہ
 انکار کرہ وندین ہَذَا یَوْمٌ لَا یَنْطِقُوْنَ بیہ گو سوودہ بیمہ دوہہ نہ تم تھہ بیکن کرت وَلَا یُوْذَنُ لَہُمْ

يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَدُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۸﴾
 هَذَا يَوْمُ الْفُصْلِ جَمْعُنْكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿۳۸﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 كَيْدٌ فَاكِيدُوا ﴿۳۹﴾ وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۰﴾ إِنَّ
 الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿۴۱﴾ وَفَوَاكِهِ مَبَاشَتُهُمْ ﴿۴۲﴾
 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾ إِنَّكَ ذَاكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۴﴾ وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۵﴾ كُلُوا

فَيَعْتَدُونَ بيه نہ رایہ تمن تھ کرہ تک اجازت دنہ یوتھ عذر خواہی کرہن۔ کیا زہ زارہ پارہ تہ توبہ
 قبول سپد تک وقت آسہ گذر سمت وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ ویل یوین تمہ دوہ انکار
 کرہ ونین هَذَا يَوْمُ الْفُصْلِ جَمْعُنْكُمْ وَالْأَوَّلِينَ * فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَاكِيدُوا بيه از یوک دوہ
 چھو فیصلک دوہ تھ توہ انکار کران آسوہ دنیا س اندر اسہ کر وہ توہ ساری اولین آخرین جمع پس ہر گہ
 توہ کانہہ تدبیرہ چھو اسہ نشہ موکلنک سو تدبیر کریو استعمال توہ ساری اولین تہ آخرین رلت ملت
 وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ ویل یوین تمہ دوہ انکار کرہ ونین إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ
 وَعُيُونٍ ہنر پاتھ پر ہیز گار آن تمہ دوہ سایہ بان تل ناگہ رادن پیٹھ وَفَوَاكِهِ مَبَاشَتُهُمْ بيه
 تمن قسما تم میون منز میں گن تمن میل خواہش آسہ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 ونہہ ایک کھیوتہ چھو یڈ بر تھ کیا زہ ٹوہ آسوہ نار تھہ کامہ کران إِنَّكَ ذَاكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے
 شک اس چھ اڑھی مزور دیوان نیو کارن وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ ویل یوین تمہ دوہ
 انکار کرہ ونین كُلُوا وَاشْرَبُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ اے نافرمانو تہ کافرو توہ کھیوتہ تمتع
 تلود دنیا س اندر کم کینہ کالاہ توہ چھو مجرم سزاوار عذاب وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ
 ویل یوین تمہ دوہہ انکار کرہ ونین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ادْعُوا آلَكُمْ لَعَنُوا بیلہ ونہ نہ یوان چھو تمن

وَسَمِعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
 لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۷﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ادْعُوا آلِيَكُمْ عَمَّوْنَ ﴿۳۸﴾ وَيْلٌ
 يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۹﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۰﴾

خدا ایس کن نمو یعنی نماز پر یوت تم چھنہ نماز و یل یومئذ للمکذبین افسوس تہ ویل یومین تمہ دوہ
 انکار کروئین فبای حدیث بعدہ یؤمنون پس تھ سنا تھ پیٹھ کرن تم پڑھ تہ یقین قرآن مجید
 پتہ۔ (آمنہ باللہ وحدہ)



سُورَةُ النَّبَاِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 عَمَّ یَتَسَاءَلُوْنَ ۙ ۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ ۙ الَّذِیْ هُمْ
 فِیْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۙ ۲ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ ۙ ۳ ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ ۙ ۴ اَلَمْ
 نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا ۙ ۵ وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ ۶ وَ خَلَقْنٰكُمْ
 اَزْوَاجًا ۙ ۷ وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ ۸ وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا ۙ ۹

نقل چھو آمت کرنہ زہ یلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نین پاٹھ لوکن دعوت حق کرن ہوت قرآن مجید کلام خدا بوزناوک لوکھ۔ بیہ کروکھ قیامتجہ دوہک بیم۔ کافر لگ تہندس نبوتس منز قرآن مجیدہ کس نازل سپدنس منز۔ قیامتہ کس واقع سپدنس منز ترددتہ اختلاف کرنہ اکھ اس نشہ یابی کر تہمس صلی اللہ علیہ وسلم نشہ یا با ایمان نشہ لگ پرڑہ پرڑہ کرنہ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو تہجی ذکر فرماوان **عَمَّ یَتَسَاءَلُوْنَ** کمہ چیزک چھ یم کافر پرڑھان **عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ** کیا بچہ خبرہ ہونہ چھاتم پرڑھان **الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُوْنَ** بیٹہ خبرہ منز تمن پانس تہ اختلاف چھو کاہنہ چھونہ کونہ تھہ بیٹھہ ثابت اڈچھ و نان نبی کر تہمس صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ساحر تہ مجنون قرآن مجیدس چھو و نان اڈ سحر اڈ شعر اڈ کہانت۔ قیامتس تہ چھہ اڈ دپان آسہ مگر معبودان باطل کرن شفاعت تہی سیت موکلو اڈہ چھہ بالکل تھہ منکری اڈین چھو شک تہ تردد تہ کس آسن تہ نہ آسنس منز **کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ** ہرگز یمن کھن منز اختلاف فہ گنجائش چھہ عنقریب زانن کہ یمہ تھہ چھہ پڑہ **ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ** بیہ چھسک یو فرماوان یہ اختلاف تہ شک لگہ نہ کرن بروٹھ بہن زانن تم اچ پورہ حقیقت **اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا** کیا اسہ گرن زمین و تھرنہ **وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا** بیہ کرنا آسہ کویہ تہ بال یمہ **وَ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا** بیہ کردہ آسہ تویہ پیدہ جورہ جورہ یعنی مرد تہ زنانہ **وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا** بیہ کراسہ نندر تویہنز تہونہ آرامک سبب

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ وَبَيَّنَّا فَوْقَكُمُ سُبُعًا شَدَادًا ۗ (۱۲) وَ
 جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۗ (۱۳) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
 ثَجَّاجًا ۗ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۗ (۱۴) وَجَدَّتِ الْفَأَقَا ۗ (۱۵) إِنَّ
 يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۗ (۱۶) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
 فَتَأْتُونَ أَقْوَابًا ۗ (۱۷) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۗ (۱۸) وَ
 سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۗ (۱۹) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ
 مِرْصَادًا ۗ (۲۰) لِلطَّغِينِ مَابًا ۗ (۲۱) لِبِئْسَ لِي فِيهَا أَحْقَابًا ۗ (۲۲)


وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ بِیہ کر اسہ رات پوشاکھ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ بیہ کر اسہ دوہ ضروریات
 زندگی حاصل کرک وقت وَبَيَّنَّا فَوْقَكُمُ سُبُعًا شَدَادًا ۗ بیہ کھار اسہ توہ پیٹھ کن ست آسمان در تھ
 محکم وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۗ بیہ کر اسہ آسمان اندر ژونگہ پرزلہ ون زینجھہ گاشہ خیطرہ سوگو
 آفتاب وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۗ بیہ ترو اسہ چیرنہ آیتوا برو منزہ آبہ سیٹھاہ پشپہ ون
 لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۗ یو تھ کدو اس تمہ سیت غلہ بیہ گاسہ وَجَدَّتِ الْفَأَقَا ۗ بیہ گھن باغ یم کلیو سیت
 برت آسن یمن چیزن اندر چھہ دنیاہ س منز توہ سارنی انسان شرکت مگر آخرتس بیہ حال روزانہ بیتہ
 آسن ساری الگ الگ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۗ بے شک فیصلگ دوہ چھو مقرر کرنہ آمت
 يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَقْوَابًا ۗ بیہ دوہ پھوکھ ایہ دنہ پوغس منز تو پتہ ہیو توہ یون فوجو فوجو
 وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۗ بیہ ین مژا ونہ آسمان پس بن تھہ دروازہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ
 فَكَانَتْ سَرَابًا ۗ بیہ ین پکنا ونہ کوہ پس سپدن تم سیکھ ہی إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۗ بے شک جنم چھ
 زاگہ روزت تہ اشکار کران سارنی چھو پکن تمہ پیٹھ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان وَإِنَّ مِنْكُمْ لِلْآلِدِ الْوَالِدَاتِ

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا حِيمًا وَغَسَاقًا ﴿٢٥﴾
 جَزَاءً وَفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٦﴾
 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٧﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٨﴾
 فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣٠﴾
 حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣١﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَأْسَادِهَا قَاطِنًا ﴿٣٣﴾
 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٣٤﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ
 حِسَابًا ﴿٣٥﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ

توہ اندرہ جہنہ کا نہہ اکھاہ یسہ تہہ پٹھ واتہ لِلظَّالِمِينَ مَا بَا سَوَى جہنم چھو سرکش ہندہ واتہ نَجَّ جَاى
 لِيُسْتِثْنَىٰ فِيهَا أَحْقَابًا روزہ ون آس تہہ منزور بہ وادن لعن بے شمار ورین۔ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا
 بَرْدًا وَلَا شَرَابًا * إِلَّا حِيمًا وَغَسَاقًا ژہن نہ تم تہہ جہنم منزکونہ قسمک شہار نہ کونہ قسمک چنہ چیزہ
 مگر چھین رہرہ وون بیہ دد متین تانن ہیوندرس۔ جَزَاءً وَفَاقًا مزورہ ایک دنہ عملہ موافق اِنَّمَا
 كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا پزپاٹھ آسہ تم امید تھاوان حسانج۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا بیہ آس
 انکار کران نہ اپزگنزران سانین آیاتن سخت سٹھاہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا بیہ چھو پرت چیزہ
 تہنہہ و عملہ اندرہ لکھت تھاومت گنزر اوت فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا وین ژہو مزہ پنہ نین
 کاین ہیوندریس ہر اووونہ اس مگر عذاب اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا پزپاٹھ پر ہیہز گارن کڈھ چھ ہڈرستہ
 گاری نہ کامیابی حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا باغ میو وسیت برت بیہ ڈچھ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا بیہ پھٹ پھٹ کرہ ونہ
 نوجوان زنانہ میہ اکی ونیسہ آس وَكَأْسَادِهَا قَاطِنًا بیہ پیالہ شراب طہورہ سیت بربر۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا
 لَغْوًا وَلَا كِذَابًا بوزن نہ تمں جٹن منز بے ہودہ تھہ بیہ نہ اپز جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا بیہ آیہ

لَا يَسْلُكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ
صَفًّا ۗ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿۳۸﴾
ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۗ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ۗ إِنَّا
أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۗ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۗ ﴿۳۹﴾

تمن مزدور دنہ تموندس پروردگارہ سندہ طرفہ یار رسول اللہ بخشہ پور حسابہ موجب رَبِّ السَّمَوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا آسمان تہ زمین بیہ یہ تمن منز چھو تمہ سار کسی پروردگارہ سندہ طرفہ۔
الرَّحْمٰنِ یس رحمتہ دول چھو۔ لَا يَسْلُكُونَ مِنْهُ خِطَابًا اختیار آسکھنہ تس نشہ تھہ کرہ نک یَوْمَ
يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۗ یمہ دوہ ساری جان دار روحہ وال بیہ ساری ملائکہ وودنہ رُوزن صف
دت لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ یم ساری ہمکن تھہ کرت مگر کرہ تھہ سوی یس حضرت رحمان
اجازت دیہ وَقَالَ صَوَابًا ۗ بیہ ونہ کلامہ درست ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۗ یہ قیامتک دوہ چھو پوز فَمَنْ شَاءَ
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ۗ ہس ہس اکھاہ یژھ سو کرہ پنہ نس پروردگار س نشہ ولتج جای ایمانہ سیت رژھ
عملہ سیت۔ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۗ پزپاٹ اسہ کر نیم توہ کہ نزدیک اودنہ عذابک یَوْمَ يَنْظُرُ
الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۗ یمہ دوہہ وچھہ پرتھہ اکھاہ تہ سو روی یہ برو تھسکن سوز مت آسہ تھندیو اتھو یعنی
یہ عملہ تم کرہ مژ آسَن وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۗ بیہ دپہ تمہ دوہہ کافر کونہ اوس
بومرئی۔



سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَالزُّرْعَةِ غَرَقًا ① وَالنَّشْطِ نَشْطًا ② وَالسَّبْحِ سَبْحًا ③
 فَالسَّبْقِ سَبْقًا ④ فَالْمَدْبْرَةِ أَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ
 الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ⑦ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ⑧
 أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑨ يَقُولُونَ ءَأِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ⑩
 ءَأِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ⑪ قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑫


وَالزُّرْعَةُ غَرَقًا قسم چھو تمن ملائک ہوندیم کافرن ہوں نذر و کڈان چھ تختی سان وَالنَّشْطِ نَشْطًا بیہ چھو قسم تمن ملائک ہوندیم با ایمان ہند روح کڈان چھ نرمی سان گنڈیلہ تراوان چھ وَالسَّبْحِ سَبْحًا بیہ تمن ملائک ہوندیم آسمان وز مینس منز پھیران چھ ژھانہ وایان فَالسَّبْقِ سَبْقًا بیہ تمن ملائک ہوندیم حکم مان نس منز بروئٹھ گڑھان چھ فَالْمَدْبْرَةِ أَمْرًا بیہ تمن ملائک ہوندیم دنیاک انتظام کران چھ سانہ حمہ۔ جواب قسم چھو حذف کرنہ آمت سوگو لبخشن توه ساری ایومرنہ پتہ ضرور بیہ زندہ کرنہ یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تھی دوہہ میہ دوہہ الراوہ تہ ذھنہ وہ سارنی چیزان الراوہ دن سوگو پوٹک گوڈنیوک پھوک تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ پتہ آئیہ تھہ پتہ آوہ دن بیاک پھوک دون پھوک منز آسہ مدت ژتجوری قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ وارہین ہند دل آسن تمہ دوہ ننان أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ اچھ تہزہ آسن بون گن نمت يَقُولُونَ ءَأِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ یم لوک قیاس منکر چھ تم چھ دنان کیا اس بیہ پوت پھیرت نندہ بروئٹھس حالس گن یعنی مر ت گڑھو بیہ زندہ ءَأِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً کیا اس سپدہ بیہ زندہ یلہ سانہ اڈجہ آسن دودر سمہہ ژھوژہ گمہہ قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ


الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنِ يَخْشَىٰ ۖ ۲۱ ۚ أَنْتُمْ
 أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۖ ۲۲ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ۖ وَ
 أَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۖ ۲۳ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ
 دَحَاهَا ۖ ۲۴ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۖ ۲۵ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۖ ۲۶
 مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۖ ۲۷ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۖ ۲۸
 يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۖ ۲۹ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ
 لِمَنْ يَرَىٰ ۖ ۳۰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ ۳۱ وَالشَّرَّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ۳۲

خیرہ ئس کھوڑہ خدا یس۔ ءَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ای قیامتہ کیو منکرو تموند قیامتک دوه دوباره
 بیہ زندہ کرن چھا مشکل بنہ آسمانک پیده کرن بنہا بیہ یوت بوڈ آسمان کور اللہ تعالیٰ ان پیده دَقَعَ
 سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا بلند کرن تھڑ رتموک تو پتہ ٹرن سو برابر وَاَعْطَشَ لَيْلَهَا بیہ کرن گت رات کج
 وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا نر اون گاش تموک دوبله۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا بیہ نر اون زمین تمہ پتہ
 أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا کڈن تمہ زمینہ منز آب تموک بیہ نیور تموک وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا بیہ
 کرن کوہ محکم لنگر ہی۔ یہ سو روی کرن پیده مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تہوندہ نفعہ خطرہ بیہ تہمدین
 چاروا این ہندہ فاندہ خیرہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ پس یلہ بیہ قیامت عمر ی یَوْمَ يَتَذَكَّرُ
 الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ یمہ دوه انسانس ژیتیس پیہ تہ سو روی بیہ تم کرمٹ آسہ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ
 يَرَىٰ بیہ بیہ نیر کڈنہ دوزخ پرت و پھون سیدہ خیرہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ * وَالشَّرَّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا پس یم
 اک پڑہ نشہ سر کشی کر بیہ قیامتس انکار کرت دنیا عج زندگی اختیار کر مڑ آسہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ
 الْمَأْوَىٰ بے شک یہ جہنم چھو تہزی جای وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ لیکن ئس اکھاہ کھوڑہ دنیا عس

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ﴿۳۹﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ
 نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ﴿۴۰﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ﴿۴۱﴾
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ ﴿۴۲﴾ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۖ ﴿۴۳﴾
 إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۖ ﴿۴۴﴾ إِنَّهَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يُخَشِّهَا ۖ ﴿۴۵﴾ كَانَتْ لَهُمْ
 يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۖ ﴿۴۶﴾

اندرک قیامتک دوه چھم پنہ نس خدا لیس بروٹھ کنہ استادہ سپدن وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ سبہ رثن
 نفس پنون پتھ پتھ میلونشہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پس جنت چھو تهنزی جای یَسْأَلُونَكَ عَنِ
 السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا پر ژھان چھ مک کافر توه قیامتک کہ کر آسہ تمبوک برپاسدن فِيمَا أَنْتَ مِنْ
 ذِكْرِهَا توه کیاہ چھو تمبوک تذکرہ کرن یہ چھنہ توهنزی کوم إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا تھوندس
 پروردگاری تام چھو تممہ علمک نہایت یعنی سوئی زانہ قیامت کر آسہ إِنَّهَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يُخَشِّهَا توه
 چھونہ مگر بیم کرہون تس لیس تھہ کھوژہ كَانَتْ لَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا تس لوکن
 بیہ بلزنہ تمہ دوهہ یلہ تھہ قیامتس وچھن تم۔ زن تم رودمت آس دنیا س منز پشنہ پیٹھ شامس تام یا
 صبح پیٹھ دوپہرس تام سوہولناک دوهہ وچھنہ سیت مشکھ سوروی۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ
 يَزْكَى ۳ أَوِ يَدَّكَ تُرْتَفَعُهُ الذِّكْرَى ۴ أَمَّا مَنِ اسْتَعْنَى ۵
 فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۶ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزْكَى ۷ وَأَمَّا مَنِ
 جَاءَكَ يَسْعَى ۸ وَهُوَ يَخْشَى ۹ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۱۰ كَلَّا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آس کہ دوح مسجد حرامس منز کافرن ہندن زٹھن خصوصی تبلیغ کران
 اتی آواکھ نایناکھ لیس ناواوس عبداللہ ابن ام مکتوم تھی ہیوت اکس آیہ کر تمس متعلق نبی کر تمس
 پر ژھن عرض کرن یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ باوحض تمہ علمہ منز کیہنہ یہ توه خداين چھناووه یہ
 آس نہ امس خبر کہ یم چھہ و نکنس مشغول بین سیت تبلیغ کرنس اندر یہ گونا پسند حضرت رسول
 کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آثار کدورت سپد روی مبارکس پٹھ ظاہر اتی سپد یم آیت کر یمہ
 نازل عَبَسَ وَتَوَلَّى روى مبارک ژو کر اون بیہ پھرون بیس طرفس کن أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى اٹھی
 تھہ خیطرہ کہ آو تمس نشہ اکھ یہ معذور اعمی وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى توه کوه چیز زانراوه کہ توبہزہ
 تعلیمہ سیت دیوہ سو درست تہ پاکیزہ سپدہ ہا أَوِ يَدَّكَ تُرْتَفَعُهُ الذِّكْرَى تہ رٹہ ہا نصیحت تہوند کلام
 شریف بوزت پس دیہا تس نفع تہوندہ زبان مبارک نصیحت بوزن أَمَّا مَنِ اسْتَعْنَى لیکن لیس شخص
 دین حقہ نشہ بے پروا چھو لاگان فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى توه چھو تس کن متوجہ سپدان تسنر فکر تھاوان
 وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزْكَى توبہ پیٹھ چھونہ کانہہ باز خواست ہر گہ تم پاک سپدن نہ وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ
 يَسْعَى* وَهُوَ يَخْشَى لیکن لیس توه کن دوران دوران چھو بکمال شوق و محبت یوان کھوژان کھوژان
 عبداللہ ابن ام مکتومہ سند پاٹھ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى پس چھوہ توه تس کن بے اعتنائی کران کَلَّا اِثْمَا

إِنهَاتُدْكَرَةٌ ۝ ۱۱ ۝ فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۝ ۱۲ ۝ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝ ۱۳ ۝
 مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝ ۱۴ ۝ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ ۱۵ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝ ۱۶ ۝
 قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۝ ۱۷ ۝ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝ ۱۸ ۝
 مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝ ۱۹ ۝ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝ ۲۰ ۝
 ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝ ۲۱ ۝ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝ ۲۲ ۝ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا
 أَمَرَهُ ۝ ۲۳ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝ ۲۴ ۝ أَتَاكَ صَبَبُ الْمَاءِ

تَذَكُّرَةٌ * فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ بہ تحقیق بے شک ایم قرآن مجیدک آیات کریمہ چھ و عطا تہ نصیحت تس
 یس خوش کرہ سورہ نصیحت تمبوک فاندہ واتس پانس مغرور و متکبرن ہندہ نماانہ سیت امہ کس عزتس
 منز کم کہینہ گدہ نہ کیاہہ یہ قرآن مجید جھو فی صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ *
 كِرَامٍ بَرَرَةٍ تمنے ورتن اندر لکھت یمن سٹھا عزت کرنہ آمت چھو۔ یم بلند مرتبہ چھ یم پاک و
 پاکیزہ چھ یس لکھت آمت چھو عزتہ والین ملاکن ہند یوا تھو یم نیکو کار چھ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ
 تباہ گدھن یہ انسان کوتاہ کھران نعمت کرہ ون چھو سو کمیوک ساغر ور چھو تس سو چھو نہ وچھان مِنْ أَيِّ
 شَيْءٍ خَلَقَهُ کہہ حقیر چیزہ نشہ کور اللہ تعالیٰ ان پیدہ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ نطفہ سیتھ پیدہ
 کرن سو تو پتہ کرنس تانن ہیوند اندازہ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ تو پتہ کور نس ماجہ ہندہ شکمہ منزہ
 نیرنج و تھہ آسان ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ تو پتہ کہینہہ کالہ زندہ تھاتھ مورن سو تو پتہ واتا ون قبرہ منزہ
 ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ تو پتہ یلہ یثہ سو تیلہ کرس دوبارہ زندہ کَلَّا بہ تحقیق لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ایم
 انسان کرنہ پور سو کوم یموک حکم کریوس خالق برحقن فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ پس وچھن
 انسان عبرتہ چہ نظرہ پنہ نس غذاہس تہ ٹھیس کن اس تھہ پاٹھ چھہ امند خوردنی ہند چیز مہیا کران
 أَتَاكَ صَبَبُ الْمَاءِ صَبًا اسی تراؤ پیٹھ مہ طرفہ عجیب طریقہ رود ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا تو پتہ پھاٹو
 اسی زمین عجیب طریقہ بیول کڈہ ناو تہہ منز کلہ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پس کھور اسہ تہہ زمینہ منز غلہ

صَبَابًا ۱۲۵ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۱۲۶ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۱۲۷ وَ
 عِنَبًا وَقَضْبًا ۱۲۸ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۱۲۹ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۱۳۰ وَفَاكِهَةً
 وَأَبًّا ۱۳۱ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۱۳۲ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۱۳۳
 يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۱۳۴ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۱۳۵ وَصَاحِبَتِهِ
 وَبَنِيهِ ۱۳۶ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۱۳۷
 وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۱۳۸ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۱۳۹ وَوَجُوهٌ
 يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۱۴۰ تَرَاهُهَا قَدْرَةٌ ۱۴۱ أُولَئِكَ هُمُ
 الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ ۱۴۲

وَعِنَبًا بیہ دچھہ وَقَضْبًا بیہ ترکارہ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا بیہ زیتون بیہ خضر وَحَدَائِقَ غُلْبًا بیہ کلیو برت
 باغ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا بیہ میوہ بیہ گھاسہ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تھوندہ نفعہ خیطرہ بیہ تھوندن چارواين
 ہندہ نفعہ خیطرہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ اودہ یلہ گڑھ سو کر یک یسہ کنن زر پادہ ون آسہ یعنی پونک دویم
 پھوک تمہ دوہہ سدن عجیب عجیب حالات ظاہر۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ بیہ دوہہ
 شخص ٲرلہ پنہ نس بالیس نشہ پنہ نہ ماجہ تہ ماس نشہ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ پنہ نہ زنانہ نشہ تہ نجوین نشہ
 لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ بیہ یمواندہ آسہ تمہ دوہہہ پر تھہ اکس پنہ نی فکرہ بیہ نس
 بے نیاز کرہ بے سز فکرہ نشہ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ کینہہ بو تھہ آسن تمہ دوہہ پھولہ ون۔ ضَاحِكَةٌ
 مُسْتَبْشِرَةٌ آسہ ون تہ خوش خصال یعنی با ایمان ہند بو تھہ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ بیہ آسن کینہہ
 بو تھہ تمہ دوہہ گرد آلودہ تَرَاهُهَا قَدْرَةٌ تمہ آسہ ولہ آسہ سیاسی اُولَئِكَ هُمُ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ
 تہ گئے کافر تہ بدکارنا فرمان

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
 اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝^۱ وَاِذَا النُّجُوْمُ اُنْكَدَرَتْ ۝^۲ وَاِذَا الْجِبَالُ
 سُيِّرَتْ ۝^۳ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝^۴ وَاِذَا الْوُحُوْشُ
 حُشِرَتْ ۝^۵ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝^۶ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوْجَتْ ۝^۷
 وَاِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّدَتْ ۝^۸ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝^۹ وَاِذَا الصُّحُفُ
 نُشِرَتْ ۝^{۱۰} وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝^{۱۱} وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِرَتْ ۝^{۱۲}
 وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝^{۱۳} عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرْتَ ۝^{۱۴} فَلَا

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ يله آفتاب دهنه بيه گاش روز سنه كينه ته وَاِذَا النُّجُوْمُ اُنْكَدَرَتْ بيه يله تارك
 گت گره هن وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ بيه يله كوه پكانونه ين وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ بيه يله باردار اونشنه
 بيم ده رت حملس گيمت آس پرسس تيار آس تروانه ين- وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ بيه يله جنگلي
 جانور سوئبر نه ين جنگلو منزه ين ساري دست وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بيه يله دريا تاونه ين وَاِذَا النُّفُوْسُ
 زُوْجَتْ بيه يله روح ين ملناونه بدن سیت وَاِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّدَتْ * بيايى ذَنْبٍ قُتِلَتْ بيه يله زندے قبره
 منزه تروانه آشه كور پرژهنه بيه كنه گنه آيه سومار نه وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ بيه يله نامه اعمال ين
 مژراونه يا چهكر اونه ين وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ بيه يله آسمانس بسته والنه بيه وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِرَتْ
 بيه يله جهنم بيه تيز كرنه وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ بيه يله جنت بيه نكه اننه- عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرْتَ
 زانه تمه ساته پرت اكهاه كياه آسه تم حاضر كرمت عملواندره فَلَا اَقِيْمُ بِالْحُنَيْنِ پس هُصُّسْ بُو قتم
 باوان بُو ت پھيرت گرهه دنين تار كن هيوند الجوار الكنيس يم كپه ون پنه نين مطالعن منزه غيب گرهه

أَقْسِمُ بِالْخَنَسِ ۱۵ الْجَوَارِ الْكُنَسِ ۱۶ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ۱۷
 وَالصُّبْرِ إِذَا تَنَفَسَ ۱۸ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۱۹ ذِي
 قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۲۰ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۲۱ وَ
 مَا صَاحِبُكُمْ بِسَجُنُونَ ۲۲ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ۲۳
 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۲۴ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ
 رَّجِيمٍ ۲۵ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۲۶ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۲۷
 لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۲۸ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ
 يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۲۹

ذل چھ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ بے چھس قسم ہاوان راتر ہیوندیلہ سہ پھیرت گردھن ہواں چھ وَالصُّبْرِ
 إِذَا تَنَفَسَ بے چھس قسم ہاوان صبحک یلہ سو پھلان چھویم قسم چھس ہتھ پیٹھ ہاوان کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ
 رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن مجید چھو پرون اکس سوزنہ آتس ملکہ سندس مرتبہ کن بوڈ چھو
 خدایس نشہ ذی قُوَّةٍ توتہ وول چھ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ عرشہ والس خدایس نشہ چھو تھدس
 عھدس پٹھ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ مانہ آمت چھو۔ بے چھوتہ معتبرامانت دار وَمَا صَاحِبُكُمْ بِسَجُنُونَ بے
 چھونہ توبہ سیت ہمیشہ روزن وول حضرت محمد ﷺ موت تہ دیوانہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ بے وچھ
 حضرت محمد ﷺ جبریل امین پنے نہ اصلی شکل منز آسمانکس اندس پیٹھس نُن چھو وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ
 بِضَنِينٍ بے چھونہ یہ پیٹھبر برحق نبی کھن پٹھ بجل کرہون وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ بے
 چھونہ یہ قرآن مجید مردود شیطانہ سنزکت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پس کوئن چھوہ توبہ گزھان إِنَّ هُوَ إِلَّا
 ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھونہ مگر نصیحت سارنی عالمین کرھہ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ
 توبہ اندرہ تمن ہندہ خیطرہ ہم سزہ ووتہ پچن یڑھن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ توبہ
 بھونہ یڑتھ مگرے یڑھ اللہ تعالیٰ بس عالمین ہیوند رُب چھو۔


سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ ۝۱ وَاِذَا الْكُوٰكِبُ اِنْتَثَرَتْ ۝۲ وَاِذَا الْبِحَارُ
 فُجِّرَتْ ۝۳ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝۴ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاٰخِرَتْ ۝۵
 يَاۤیُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیْمِ ۝۶ الَّذِیْ خَلَقَكَ
 فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ۝۷ فِیْ اٰمِیْ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رُبَّكَ ۝۸ كَلَّا لَبَلٌ
 تُكَدِّبُوْنَ بِالَّذِیْنَ ۝۹ وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ ۝۱۰ كِرًا مَّا كَتَبِیْنَ ۝۱۱
 یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝۱۲ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ۝۱۳ وَاِنَّ

اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ یلہ آسمان پھٹے وَاِذَا الْكُوٰكِبُ اِنْتَثَرَتْ بیہ یلہ تارک چھکرنہ یں وَاِذَا الْبِحَارُ
 فُجِّرَتْ بیہ یلہ دریائیں زورہ پکناوندہ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ بیہ یلہ قبرہ پرانہ یں عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
 وَاٰخِرَتْ تمہی ساتھ زانہ پرت اکھاہ بروٹھ کیاہ سوزن پتھ کیاہ تراون یَاۤیُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ
 الْكَرِیْمِ اے انسانہ کم چیزن ہر اوک ژہ پنہ نس کریم پروردگارہ سزنا فرمان کرنس پیٹھ الَّذِیْ
 خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ یم پروردگارن ژہ پیدہ کرنک بیہ سیود کرنک تو پتہ برابرہ معتدل کرنک
 فِیْ اٰمِیْ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رُبَّكَ یتھ شکلہ منزیرھون یتھ شکلہ منزورٹنہ ژہہ ترکیب کَلَّا لَبَلٌ تُكَدِّبُوْنَ
 بِالَّذِیْنَ کونہ چیزن ہر اوکھ نہ بلکہ چھہ حقیقت کہ توبہہ چھوہ اپرگنر ران عملن ہندس جزائس قیامتک
 دوہ روز تو توبہ اتھ خیالس سیت وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ * کِرًا مَّا كَتَبِیْنَ مگر اسہ چھہ توبہہ پیٹھ مقرر کرمت
 راجھہ تمہی چھہ خدائس نشہ معتبر لکھن وال یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ تمہن چھو معلوم سپدانہ سوروی بیہ

الْفُجَّارَ لَعْنِي جَحِيمٍ ۙ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ وَمَا هُمْ
 عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ ثُمَّ مَا
 أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ
 شَيْئًا ۝ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

توہمہ کران چھونیک و بد اِن الْاَبْرَارَ لَعْنِي نَعِيمٍ پڑپاٹھ نیکوکار آسن جنہنس منز نعمون اندر و اِن الْفُجَّارَ
 لَعْنِي جَحِيمٍ پڑپاٹ بدکار تہ تا فرمان آسن جنہنس منز عذابس اندر يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ اِثْن تھ
 جنہنس منز قیامتہ دوہہ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ بیہ چھنہ تم تمہ جہنمہ نشہ الگ تہ کھٹت روزہ ون
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ کوہ چیز تاری ژہ فکرہ ای انسانہ سو جزاء ک دوہ کوتاہ مشکل چھو ثُمَّ مَا
 أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ بیہ چھوسے ونان کوہ چیز زانراوے ژہ جزائک دوہ کوتاہ مشکل تہ سخت چھو۔
 مختصر بوز یومَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا سو گو سوئی دوہ بیمہ دوہنہ کانہہ اکھاہ کانہہ اکس نفع ہیچہ
 و انتاوت پنہ نہ اختیارہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ حکم تہ اختیار آسہ تمہ دوہ کنس خدا یس بیہ نہ کانہہ۔



سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۲ زط
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۳ ط الْأَيْظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
 مَبْعُوثُونَ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۶ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ ۷ وَمَا أَدْرَاكَ
 مَا سَجِّينٌ ۸ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۹ ط وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۱۰ ل
 الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۱۱ ط وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ پرزناوک ہلاکت چھ منہ نس تہ تولہ نس منز کی کرہ و نین ہندہ خظیرہ الَّذِينَ إِذَا
 اِكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ہم یلہ لوکن نشہ پنون حق تولن سورٹن ہور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
 يُخْسِرُونَ تو پتہ یلہ لوکن دین پنون کانہ چیز میت یا تولت سودن ہجھون الْأَيْظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ *
 لِيَوْمٍ عَظِيمٍ کیا گمان چھنا تمں لوکن زہ تمں تائہ اکہ بدہ دوہہ خظیرہ ہتھہ منز تمں سارکوی حساب
 بیہ ہنہ یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ییہ دوہ ساری لوک روزنہ وڈنہ حساب دنہ خظیرہ کا تا کس
 رلس بروئہ نہ کھہ کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ بہ تحقیق بے شک کافرن تہ نافرمان ہوندا نامہ اعمال
 روزہ سجین منز وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ کوہ چیز ازراوی ثیہ سجین کیاہ گو کِتَابٌ مَّرْقُومٌ سوچھود فترہ اکہ
 لکھنہ آمت تھہ منز چھہ دوزخین نا لکھنہ آمت تمں پیٹھ چھہ نشان تھاونہ آمت نمبر دنہ آمت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
 لِّلْمُكَذِّبِينَ افسوس چھو تمہ دوہہ پڑس اپزگنر و نین الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ہم اپزگنر رن

مُعْتَدٍ أَشِيمٍ ۱۷ إِذْ أَتَىٰ عَلَيْهِ الْيَتْنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ ۱۸ كَلَّابِلٌ مُّسْتَرَانٌ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۱۹
 كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ حُجُّوْنَ ۲۰ ثُمَّ إِنَّهُمْ
 لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۲۱ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۲۲
 كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۲۳ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ۲۴
 كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۲۵ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۲۶ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي
 نَعِيمٍ ۲۷ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۲۸ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ


جزء کس دو ہس و ما ینکذب بہ الا کلُّ مُعْتَدٍ اَشِيمٍ ایزگزر نہ تہہ مگر پرت حدہ ڈلون بدکار اِذَا اَتَىٰ
 عَلَیْہِ الْیَتْنَا قَالَ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ یلہ پر نہ ین تس پٹھ آیت سین دپنہ لہہ سویم چھ بروٹھین ہند
 افسانہ کلا یتہ وھنہ ہرگز بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون بلکہ چھوز نگارتہ کھے لجرہ تہمدن
 دن پٹھ تمین پیچھ کائین ہنزیمہ تم کران اس کلا تھتین انھم عن ربہم یومئذ لَمْ حُجُّوْنَ بے
 شک تم لوک ین تمہ دوہہ پنہ نس پروردگار سند دیدارہ نشہ پتہ رنہہ ثُمَّ اِنَّہُمْ لَصَالُوا الْجَحِیْمِ توپتہ
 چھ تم یقینا نار جہنم منراژہ وین ثُمَّ یُقَالُ توپتہ ییہ ونہ تمین ہَذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِہِ تُکَذِّبُونَ یہوی
 کیا گوسو جہنم پتھ توہ ایززانان آسوہ کلا پزپاٹھ اِن کِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّیْنَ بے شک نیکوکارن
 ہیوند نامہ اعمال چھو علیینس اندر وَمَا اَدْرَاکَ مَا عِلِّیُّونَ زہ کوہ چیز زانراوی علیون کیاہ چھو کِتَابِ
 مَرْقُومٌ سو چھو دفترہ لکھنہ آمت تہہ منز چھو با ایمان ہندناو آمت لکھنہ تمنی چھو نشانہ آمت تہاوند
 نمبر آمت ونہ یَشْہَدُہُ الْمُقَرَّبُونَ وھنہ یوان چھ تہہ ملائکہ مقررین اِن الْاَبْرَارَ لَفِی نَعِیْمٍ
 پزپاٹ نیکوکار چھو نعتن اندر عَلَی الْاَرَائِکِ یَنْظُرُونَ تختن پیٹھ آسن وچھان عجائبات تَعْرِفُ

نَصْرَةَ النَّعِيمِ ۲۳ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۲۴ خِتْمُهُ
 مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَافِسِ الْمُتَنَفِسُونَ ۲۵ وَ
 مَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۲۶ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۲۷
 إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۲۸
 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۲۹ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى
 أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۳۰ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ
 هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۳۱ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۳۲

فی وجوہہم نَصْرَةَ النَّعِيمِ پر زناوک ژہ تہند یو ہتھیو پیٹھ نعرہن ہنز تروتازگی یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ * خِتْمُهُ مِسْكٌ چاونہ ین تم سو شراب طہور ہتھ سچ بوتلہ مہر آسہ کرنہ آسہ۔ سو مہر سچ آسہ خالص نافہ کستوری مومہ تہ لاجھہ بدل سوی مہر تلن پانہ تم جنتی اتھس کت رٹونوی گڑھن خوش تہند دماغ نافہ کہ خوش بو سیت معطر ۔ وَفِي ذَلِكَ يَتَّهَى شَرَابِ كُن فَلَيْتَنَافِسِ الْمُتَنَفِسُونَ کترن رغبت رغبت کرن وال وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ بیہ آسہ ملانونہ آمت تھ سیت تسنیمک آب عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ تسنیم چھوناگہ ینہ منز آب چوان آس پروردگارہ سند مقرب بندہ لاق الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ پزپاٹ نافرمان لوک آس با ایمان پیٹھ آسان وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ینہ تم با ایمان تمن کافرن بروٹھ کن پکان آس تم آس اکھ اکس کن اچھناہ کران حقاہ تہ کن۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ تو پتہ ینہ واپس آس تم کافر گڑھان پنہ نس اہل و عیالس کن واپس آس گڑھان ٹریگان یمو کامیو سیت وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بیہ ینہ وچھان آس تم کافر تمن مسلمان دپان آس یم لوک چھ ڈلت گراگمت

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿۳۳﴾ عَلَى
الْأَرَآئِكِ لَا يَنْظُرُونَ ﴿۳۴﴾ هَلْ تُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۵﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ حالانکہ ہم آسنہ سوزنہ آمت تمن ہند خیطرہ راچھ تمن کیا حق اوس
یہ ونہ نک فالیوم الذین امنوا من الکفار یضحکون از قیامتہ کہ دوہہ کیا آسن با ایمان تمن
کافرن پٹھہ علی الارایک ینظرون تختن پٹھہ بہت آسن جنتی کافرن تہ مشرگن ہندہ عذابگ حال
وچھان دپان آسک۔ ہل توب الکفار ما کانوا یفعلون کیا جزا آوہ دنہ کافرن تمن کا میں ہوندمیہ
تم کران آس دنیا اس اندر۔



سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۱؎ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وُحِّتٌ ۲؎ وَاِذَا
 الْاَرْضُ مُدَّتْ ۳؎ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۴؎ وَاذِنْتَ
 لِرَبِّهَا وُحِّتٌ ۵؎ يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ
 كَدًا حَافِلِقِيهِ ۶؎ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ ۷؎
 فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۸؎ وَيُنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ


اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ يله آسمانس چھلے گزھن خدایہ سندہ حممہ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وُحِّتٌ بیہ مانہ آسمان
 پنہ نس پروردگارہ سند حکم تس پزہ حکم مان وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ بیہ یلہ زمین زبشتر اونہ بیہ خدایہ
 سندہ حممہ سیت وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ بیہ تراوہ زمین نبیر تم ساری چیزیم تھہ منزچھہ سوسپدہ خالی
 وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وُحِّتٌ سوتہ مانہ پنہ نس پروردگارہ سند حکم تس پزہ حکم مان يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ
 كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدًا حَافِلِقِيهِ ای انسانہ بے شک ژہ چھک تکلیف تہ محنت تلہ ون پنہ نس
 پروردگار س نشہ واتنہ خپترہ پس چھک ژہ تس سیت ملاقات کرہ ون نیکن اندر محنت کرت تہ تس نشہ
 واتہ ون بدی اندر مشقت تلت تہ تس نشہ واتہ ون تس نشہ پنہ نین عملن ہنز مزور حاصل کرہ ون
 رژن عملن رژ مزور پیچھ عملن پیچھ مزور فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ اوہ نیس اکس نامہ اعمال
 دنہ بیہ دچھنس اتھس کیتھہ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا پس نزدیک چھو کہ حساب بیہ ہنہ تس
 حسابہ سہل تہ آسان وَيُنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا واپس پھیرہ سو پنہ نین باژن گن خوش سبت
 وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ وَّرَآءَ ظَهْرِهِ بیہ نیس اکس دنہ بیہ نامہ اعمال پنون تھر تچکن کھاورس اتھس کیتھہ

مَسْرُورًا ۹) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ ۱۰) فَسُوفَ
 يَدْعُو شُبُورًا ۱۱) وَيُصَلِّي سَعِيرًا ۱۲) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ
 مَسْرُورًا ۱۳) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ۱۴) بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ
 كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۱۵) فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۱۶) وَاللَّيْلِ وَمَا
 وَسَقَ ۱۷) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۱۸) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۱۹) فَمَا
 لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۲۰) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۲۱)
 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۲۲) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۲۳)

سُوفَ يَدْعُو شُبُورًا سودیہ کریکہ تہ آلوگہ نس پنہ نس پیٹھ یعنی پنہ موتہ خیطرہ وَیُصَلِّي سَعِيرًا
 بیہ اثرہ سودوز نس نارس إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا پزپاٹ اوس سودنیاعس اندر پنہ نین باژن منز
 خوش بے غم إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ پزپاٹ تس اوس گمان زہ خدایس گن چھونہ رجوع کرن بَلَىٰ
 البتہ تس چھو ضرور خدایس گن رجوع کرن إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا پزپاٹ تم سُند پروردگار اوس
 تمسزہ ساری کامہ وارہ وچھان فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ پس چھوس یو قسم ہاوان تمہ سرخی ہیوندیہ
 آفتاب لوست آسماگس اندس پیٹھ چھ آسان وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ بیہ چھوس قسم ہاوان راژ ہیوند
 بیہ تمہ سار کوی ہتھ رات چھ سمران وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ بیہ چھوس قسم ہاوان زونہ ہیوندیلہ سومثرنہ
 یوان چھ پورسپدان چھ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ توہہ کھیو ضروراکہ حالہ پتہ بیس حالس فَمَا لَهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ پس کیاہ گوکافر ن تم چھنہ یوت ونت تہ پڑھ کران وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
 بیہ یلہ تمس پیٹھ قرآن مجید چھو پر نہ یوان تج فصاحت و بلاغت بوزت چھنہ تم سجدہ دوآن سر تسلیم خم
 کران بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ بلکہ یمولو کو پڑھ کرنہ تم چھ اتھ قرآن مجیدس اپر گز ران وَاللَّهُ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۳۴ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۳۵ ع

اَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللهُ تعالیٰ چھوڑانا تہ سوروی یہ تم دلن منز تھاوان چھ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
پس خوشخبر و نیو تمن دودودہ و نہ عذاب سارنی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر یمو پڑھ
کر تہ رزہ علمہ کر کہ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ تہمدہ خیطرہ چھ مزور حدہ رستوی منہ و رای۔



سُورَةُ الْبُرُوجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۲ وَشَاهِدِ ۳
 وَمَشْهُودِ ۴ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ ۵ النَّارِ ذَاتِ
 الْوُقُودِ ۶ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۷ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ
 بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۸ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
 الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۹ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
 اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۱۰ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ


وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم آسمانک بس بر جہ وول چھو وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ بے تمہ دو ہوک سمیوک
 وعدہ تھاونہ آمت چھو یعنی قیامتجہ دو ہک وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ بے چھو قسم گواہ سند بے کس بیٹھ گواہ
 روزہ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ مارنہ آے کھے کھن وال النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ سموتن کھن منز
 نار زول سٹھارہ زیون تراوت مسلمان تھہ نار س منز تراوت عذاب کرنہ خیرہہ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ یلہ
 آس تم تمکن نارہ کھڈن ہندس بٹھس پٹھ بہت وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ تم کس
 تکلیف مسلمان دو ان آس تہ آس پانہ وچھان وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
 تمکن مسلمان آسنہ تم انتقام تہ بدل ہو ان مگر یہ گوی کہ تم آس پڑھ کر ان معبود برحقس کس سٹھارہ
 عز تہ وول تہ سٹھارہ تعریف کرنہ آمت چھو الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کس پادشاہت چھہ
 آسمان تہ زمین ہنز وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ تہ علاوہ چھو اللہ تعالیٰ پرت چیز پانہ وچھان إِنَّ الَّذِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ نَمَلَهُنَّ يَتَوَبُّونَ فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَأَلَهُمْ عَذَابٌ
 الْحَرِيقُ ۝۱۰ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝۱۱ إِنَّ
 بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝۱۲ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝۱۳
 وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝۱۴ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝۱۵ فَعَالٌ لَمَّا
 يُرِيدُ ۝۱۶ هَلْ أُنْتَبِهُتُ الْجُنُودُ ۝۱۷ فِرْعَوْنَ وَشَمُودَ ۝۱۸

فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ پڑپاٹ یمولو کو آزمائش کر با ایمان مردن تہ با ایمان زنانن عذابس گرفتار
 کرنے سیت نَمَلَهُنَّ یَتَوَبُّونَ تو پتہ کر دکھنہ توبہ تمہ نشہ فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَأَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقُ پس
 تمنی کیٹھ چھو دو زحک عذاب آخرتس اندر بیہ چھو تمنی کیٹھ دز نک عذاب دنیاء سی اندر سیتھ پاٹ
 اصحاب الاخذ و زال اللہ تعالیٰ ان تھہ نارس اندر نیس مسلمان ہندہ خیطرہ تیار کرمت اوسک اِنَّ الَّذِیْنَ
 اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ نتیقن یمو ایمان اون تہ رزہ عملہ کر کہ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 تمن تھہ چھ تے باغ یمن اندر جو یہ پکان چھہ ذَلِكِ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ جیہ چھہ بند رستگاری اِنَّ بَطْشَ
 رَبِّكَ لَشَدِيدٌ پڑپاٹ رشن چینس پروردگارہ سُنْد چھو سٹھہ سخت اِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ پڑپاٹ
 سوی چھہ سُؤس گودہ پیدہ کران پٹھو سو کرہ مرنہ پتہ بیہ پیدہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ سوی پٹھو سٹھہ گنہ
 عَشُونَ سوی چھو لوٹھہ تھاوہ ون بندس ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ سوی چھہ عرشہ وول سوی چھہ بزرگ
 تہ بوڈا تہ کن تہ صفتو کن تہ فَعَالٌ لَمَّا يُرِيدُ کرہ ون تہ یہ یڑھ هَلْ أُنْتَبِهُتُ الْجُنُودُ ای پیغمبر کیا
 توبہ نش واژہ خبر خدا یہ سندن دشمن ہنزن لشکرن ہنزن تم ساری گل کفرہ تہ نافرمانی ہندہ سبہ بہ
 فِرْعَوْنَ وَشَمُودَ تم گے فرعون تہ قوم شمود ازیک کافر چھہ نہ واقعاتو سیت کانہ عبرت رٹان بِل
 الَّذِیْنَ كَفَرُوا فِي تَكْوِيْنٍ بلکہ ازیک کافر چھہ تمن واقعاتن اپز گنزران مگر گنہن کوت وَاللّٰهُ مِنْ

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝۱۹ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝۲۰
 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝۲۱ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝۲۲

وَرَأَيْتُمْ مُحِيطٌ اللہ تعالیٰ چھ پرت طرفہ تمن گھیر کرت قرآن مجید چھونہ تو تھ چیزہ ستھ تہندہ اپز
 گزرنہ سیت کینہہ کم گڑھہ بلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بلکہ چھو قرآن سٹھاہ تھود مرتبہ کن
 اکس رآچھ کرنہ آمر اکس سفید مختہ ہچ پیٹھ لیکھنہ آمت تو پتہ عرش مجیدس الوند تراوت ملکس اکسنزہ
 کوچھ کت تھاونہ آمت -




سُورَةُ الطَّارِقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝۲
 النُّجُومُ الثَّاقِبُ ۝۳ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝۴
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝۵ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝۶
 يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝۷ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ
 لَقَادِرٌ ۝۸ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝۹ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ کہ شبہ اوس ابو طالب آمت در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو اوس تس کیوت طعام کرمت تیار۔ یہ ساتہ دونوے آس سوطعام کھوان اتی پیو آسمانہ اکھ تارکھ سوسی سپدتیوت نزدیک زمینس کہ سومکان بیتہ منز آنحضرت ﷺ تشریف تھوت آس سو سپد منور ابو طالبس گیہ اچھ خیرہ ڈپنہ لگ یہ گیہاہ سناسپد آنحضرت تو فرماوس یہ چھو تارک ملایک چھہ اتھہ لایان تمس شیطانن پٹھ ہم کن دنہ چھو کھسان آسمانس نکھ۔ بیہ چھو یہ خدایہ سندہ قدرنگ اکھ نشانہ ابو طالبس لاج ڈھپہ۔ اتی سپد جبریل امین نازل یہ سورہ شریفہ ہیبت وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ آسماگ قسم بیہ تمہ چیزک قسم بس رات کہ وقت ننان چھو وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ توه کوه چیز زانراوہ یارسول اللہ کہ سورات کیوت اوہون گوہ چیز چھو النُّجُومُ الثَّاقِبُ سُوگو تارکھ پرزلہ ون جواب قسم چھو لَانْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ہنھنہ کانہ شخصہ مگر تس پٹھ چھو اکھ راجھہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ پس وچھن انسان کمہ نشہ آوسو پیدہ کرنہ تمس نے یاد چھو بوزن خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ سو آوپیدہ کرنہ انزالہ کہ وقتہہ دوٹھ دوہونہ آہ نشہ یعنی منی يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ یس نیران مردن

نَاصِرٍ ۱۰ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۱۱ وَالْأَرْضِ ذَاتِ
 الصَّدْعِ ۱۲ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۱۳ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۱۴ إِنَّهُمْ
 يَكِيدُونَ كَيْدًا ۱۵ وَآكِيدُ كَيْدًا ۱۶ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ
 أَمْهَلُهُمْ رُؤْيَا ۱۷

ہند یو پشتو منزه زنانن ہنزوسینہ تریو منزه اِنَّهُ عَلٰی رَجْعِهِ لَقَادِرٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو تس انسا نس
 مرنہ پتہ بیہ زندہ کرنس پٹھ قدرتہ دول یَوْمَ تَنْبُلُ السَّعْیُرُ بیہ دوہہ نروانہ تہ پ رکھا ونہ ین و لن
 ہند یو شیدہ خیال فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ پس آسنہ تمہ دوہہ اس انسا نس کا نہہ طاقت نہ کا نہہ
 مددگارہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ بیہ چھو قسم رود تراوہ ونہ آسما نک وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ بیہ
 چھو قسم پٹھ ونہ زینک اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ پزپاٹ یہ قرآن مجید چھو کلامہ فیصلہ کرہ ون و مَا
 هُوَ بِالْهَزْلِ چھونہ سو ٹھٹھ کتھاہ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَآكِيدُ كَيْدًا پزپاٹھ کافر چھہ پزس انکار
 کرنس اندر ر نگارنگ مکر تہ حیلہ کران بو تہ چھوس پوز نر اون خیطرہ تدبیر کران۔ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ
 پس مہلت دیو تہ کافر ن اَمْهَلُهُمْ رُؤْيَا سوی مہلت دیو کہ کم کینہہ کالہ و چھو تمن کیاہ بنہ۔



سُورَةُ الْأَعْلَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① الَّذِي خَلَقَ قَسْوَى ② وَالَّذِي قَدَّرَ
 فَهْدَى ③ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ④ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ⑤
 سَنُقِرُّكَ فَلَاتُتْسَى ⑥ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا
 يَخْفَى ⑦ وَنُبَشِّرُكَ لِلْيُسْرَى ⑧ فَذَكِّرْ ⑨ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ⑩ سَيِّدُكَ
 مَنْ يَخْشَى ⑪ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ⑫ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ⑬

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى پاک گزریو ناو پنه نس پروردگار ه سُد نَس سٹھاہ تھد چھویار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الَّذِي خَلَقَ قَسْوَى یم سوروی پیدہ کریس گرن برابر موزون وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدَى بیہ یم پر تھ اسندہ خیطرہ کوم مقرر کر توپتہ ہانس تھ گن وتھ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى بیہ یم کھور زمینہ منز گاسہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى توپتہ گرن سوگاسہ خشک زھوٹھ تہ سیاہ سَنُقِرُّكَ فَلَاتُتْسَى اَس پرہ ناوووہ توہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہ قرآن مجید نَس مشراوونہ توہ کینہہ تہ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مگر تی بیہ اللہ تعالیٰ یرہ اِنَّہ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى بے شک اللہ تعالیٰ چھوزانان تہ بدہ ہرن تہ لو تہ پرن تہ وَنُبَشِّرُكَ لِلْيُسْرَى بیہ کوراس سہل تہ آسان تہوندہ خیطرہ آسان شریعت فَذَكِّرْ ⑨ نَفَعَتِ الذِّكْرَى پس پر یو توہ لوکن وعظ ہر گاہ وعظ پرن لوکن فائدہ تہ نفع دیہ سَيِّدُكَ مَنْ يَخْشَى نصیحت رتہ سوی نَس عذابس کھوٹہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى لوب روز نصیحت بوزنہ نشہ بوڈ بد قسمت الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى نَس وائتہ بدس نارس سوگونار جہنم ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى توپت نہ مرہ تھ اندر زانہ نہ روزہ زندہ

ثُمَّ لَا يَسُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۗ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۗ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۗ أَبْقَىٰ ۗ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۗ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۗ

آرامہ سان قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ تھمت نجات لب تم ٹس پاک پُید و ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بیہ یکا پنہ نس پروردگارہ سُنَد نام پاک ہمت نماز پر بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ای منکر و توه چھوہ نہ آخر تک سامانہ کران بلکہ چھوہ توه تہند کران دنیا عج ناپا ندر زندگی وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۗ أَبْقَىٰ حالانکہ آخرت چھو بہتر تہ پوشہ ون دنیا خوتہ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ پزپاٹ یہوی مضمون چھو برو تھمین کتابن اندر بیان کرنہ آمت حضرت ابراہیمہ سنزن کتابن اندر تہ حضرت موسیٰ سنزن کتابن اندر تہ۔ حضرت ابراہیمس پیٹھ آس دہ صحیفہ نازل سپد مت حضرت موسیٰ اس پیٹھ تہ آس توراتہ برو تھ دہ صحیفہ نازل سپد مت رواہ عبد ابن حمید کمانی روح المعانی۔



سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ① وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ② عَابِلَةٌ
 تَأْتِيهَا نَارٌ آحَامِيَةٌ ③ تَصْلِي نَارًا آحَامِيَةً ④ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنْبِيَةٍ ⑤ لَيْسَ
 لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ ⑥ لَا يُسِينُونَ وَلَا يُعْنُونَ مِنْ جُوعٍ ⑦
 وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ⑧ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑨ فِي جَنَّةٍ
 عَالِيَةٍ ⑩ لَا تَسْمَعُ فِيهَا الْأَغْنِيَةَ ⑪ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑫ فِيهَا
 سُرٌّ مَرْفُوعَةٌ ⑬ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ⑭ وَنَسَارِقٌ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ کیا تو بہ نشہ واژہ خبر یار رسول اللہ قیامت کے لوکن پنہ نیو نختیو سیت احاطہ کرہ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ کینہہ یو تھ آس تمہ دودھ تھار میت عَابِلَةٌ تَأْتِيهَا نَارٌ آحَامِيَةٌ تے اثن نارس یس سخت گرم چھو سُقَى مِنْ عَيْنٍ أَنْبِيَةٍ چاونہ ین نبتہ تمی ناگہ منز یس گرکان آسہ۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ چھونہ تمہن دوزخین کھن مگرز ہر دار کڈ لَا يُسِينُونَ وَلَا يُعْنُونَ مِنْ جُوعٍ نہ دُھراوہ سونہ ژلراوہ یوچھ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ کینہہ بو تھ آس تمہ دودھہ ترو تازہ تہ خوش لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ پنہ نین رژن عملن ہونڈ توآب وچھت آس راضی فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ تھدین جتن اندر لَا تَسْمَعُ فِيهَا الْأَغْنِيَةَ بوزن نہ تم تھہ جنس اندر بیہودہ تھہ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ تھہ جنس منز آسہ ناگہ پکہ ون فِيهَا سُرٌّ مَرْفُوعَةٌ تھہ جنس منز آس تھہ پلنگ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ بیہ آس آنجور ژکہ تھہ تھاونہ آمت برو تھہ کنہہ وَنَسَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ بیہ آس شانہ

مَصْفُوفَةً ۱۵ وَلَا وَرَائِي مَبْنُوتَةٌ ۱۶ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ
 كَيْفَ خُلِقَتْ ۱۷ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۱۸ وَإِلَى الْجِبَالِ
 كَيْفَ نُصِبَتْ ۱۹ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۲۰ فَذَكِّرْ ۲۱
 إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۲۲ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِبَصِيرٍ ۲۳ إِلَّا مَنْ
 تَوَلَّى وَكَفَرَ ۲۴ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۲۵ إِنَّ إِلَيْنَا
 إِيَابَهُمْ ۲۶ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۲۷

گنڈنگ لائے آمت وَرَائِي مَبْنُوتَةٌ بے آسن ریشی قایلین پرت طرفہ و تھرنہ آمت یتنس خوش
 کر کہ یتنس بہن أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ کیا سنا و چھان چھانیم مکک کافروئن کن کتھ پاٹ
 چھو تم پیدہ کرنہ آمت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ بے آسمانس کن کتھ پاٹ چھو سو بلند کرنہ آمت
 وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ بے کوہن کن کتھ چھ تم تھاسنہ آمت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ بے
 زمینس کن کتھ پاٹ چھو سو ہراونہ آمت فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ پس کریو توه نصیحت و عظ توه چھو
 نہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر نصیحت فرماوہون لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِبَصِيرٍ توه چھونہ تمن بیٹھ
 مسلط کرنہ آمت یو تھ زورہ مانراویو کہ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ لیکن کس اکھاہ بو تھ پھرہ تہ کافر سپدہ
 فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ پس عذاب کرہ اللہ تعالیٰ تس بوڈ عذاب آخرتس اندر إِنَّ إِلَيْنَا
 إِيَابَهُمْ پزپاٹ اس کن چھو واپس کن تمن ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تمہ پتہ چھو پزپاٹ اس منہ تمن
 حساب ہیون -

سُورَةُ الْفَجْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَالْفَجْرِ ۱) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۲) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۳) وَالْبَيْلِ إِذَا
 يَسِرُّهٗ ۴) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ ۵) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ
 رَبُّكَ بِعَادٍ ۶) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۷) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا
 فِي الْبِلَادِ ۸) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۹)
 وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۱۰) الَّذِينَ طَعَنُوا فِي الْبِلَادِ ۱۱)

وَالْفَجْرِ صبحِکَ قسم و لایالِ عَشْرٍ بیہ دہن راتن ہیوند قسم وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ جہنگ تہ طاقک قسم
 وَالْبَيْلِ إِذَا یَسِرُّہٗ بیہ راتر ہیوند قسم یلہ سو گذران چہ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ چہواتر قسم
 اندر قسمہ کافی تہ معتبر عقلہ والس کیتہ۔ جواب قسم یعنی یمہ خیطرہ یم قسم ہاونہ آے سو چہو حذف کرنہ
 آمت سو گو لتعذب بن یعنی ای منکر و توه ایوہ ضرور عذاب کرنہ برو نظمین منکرن ہندپاک أَلَمْ تَرَ كَيْفَ
 فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ توه و چہوہ ناکیاہ کور پروردگارن تہوند قوم عا دس إِرْمَ یم عا دارم آس ذَاتِ
 الْعِمَادِ یم تھد قہ وال آس تمواندر زیتش شخصہ سُد قد اوس ژور ہت گز شرعی الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ
 مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ بیہ گو سو قبیلہ یمن ہیو پیدہ آونہ کرنہ قد و قاتس تہ قوتس طاقس منز بین شہرن
 اندر کانہہ قبیلہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ بیہ و چہونا توه تہوند پروردگارن کیاہ کور قوم
 ثمودس یموکوہ تہ پل ژٹتہ وادی القراءس منز مضبوط گرہ بناو وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ بیہ کیاہ گرن
 تس فرعونس نُس یمہ و ول اوس سونہ سنزو میخوسیت اوس گرن نال لاگان الَّذِينَ طَعَنُوا فِي الْبِلَادِ

فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝۱۳۱ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ
عَذَابٍ ۝۱۳۲ اِنَّ رَبَّكَ لِبَالِ الْبِرْصَادِ ۝۱۳۳ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا
اَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَآكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۝۱۳۴ فَيَقُولُ رَبِّي الْاَكْرَمَنُ ۝۱۳۵
وَ اَمَّا اِذَا مَا اَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۝۱۳۶ فَيَقُولُ رَبِّي
اَهَانٌ ۝۱۳۷ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرَمُونَ الْيَتِيْمَ ۝۱۳۸ وَلَا تَحْضُونَ
عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِيْنَ ۝۱۳۹ وَتَاْكُلُوْنَ التَّرَاثَ الْاَكْلَالِيًّا ۝۱۴۰
وَ تَحْبُبُوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝۱۴۱ كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا

یوم ساروی کر سرکشی شهرن اندر فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ پس کرک سٹھاہ تمن شهرن اندر تباہی
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ پس لوی تمن تہوند پروردگارن عذابک قچہ تمی سیت گالین
اِنَّ رَبَّكَ لِبَالِ الْبِرْصَادِ پڑپاٹ تہوند پروردگار چھوڑاگئے چہ جایہ ژرژان سارنی نافرمان ہیوند حال
فَاَمَّا الْاِنْسَانُ پس نافرمان انسان نُس چھو اِذَا مَا اَبْتَلَهُ رَبُّهُ یلہ تس تہند پروردگار تہندہ ایمانچ آزمائش
چھو کران فَآكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ پس چھس عزت دوان بیہ نعت عطا کران فَيَقُولُ رَبِّي الْاَكْرَمَنُ نُس
چھو دپان پروردگارن کرم ہڈ مہربانی وَ اَمَّا اِذَا مَا اَبْتَلَهُ لیکن یلہ سوتس ایمانی آزمائش چھو کران
فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تو پتہ چھس رزقس اندر تنگی کران فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانٌ تمہ ساتہ چھو دپان
پروردگارن کُرنس ذلیل کَلَّا حالانکہ بیہ چھنہ حقیقت بَلْ لَّا تُكْرَمُونَ الْيَتِيْمَ بلکہ خواری تہنز چھہ
امی سببہ کہ عزت چھونہ تہہ کران تیسس وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِيْنَ بیہ چھونہ رغبت دوان
مسکین کھیاونک وَتَاْكُلُوْنَ التَّرَاثَ الْاَكْلَالِيًّا بیہ چھہ میراٹک مال کھوان اورہ یورہ سہر او تھہ نین ہندحق
وَ تَحْبُبُوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا بیہ چھوہ مال دنیا ٹوٹھ تھوان سٹھاہ زیادہ کَلَّا بیہ لگنہ کرن امیوک نتیجہ
چھو سٹھاہ کریوٹھ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا سووہ پایوژتیسس یہ دوہ سم ستریہ کرنہ زمینس پے

دَكَاً ۱۱) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۱۲) وَجَاءَ
 يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۱۳) يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ
 الذِّكْرَى ۱۴) يَقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۱۵) فَيَوْمَئِذٍ
 لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۱۶) وَلَا يُؤْتِيهِمْ شِقَاقَ
 أَحَدٍ ۱۷) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۱۸) ارْجِعِي إِلَىٰ
 رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۱۹) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۲۰)
 وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۲۱)

در پے ہنلبوسیت وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا بیہ تہند پروردگار بیہ ین ساری ملک صف بھفت
 روزن محشر ہ کس میدانس اندر وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ بیہ بیہ اند نہ تمہ دوہ جہنم یَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ
 الْإِنْسَانُ تمی دوہ کیارٹ نہیب انسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى مگر سوکتہ آسہ تمہ دوہہ تمس نصیحت
 ربک موقعہ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي دپنہ لہمہ تمہ دوہ کاشمے بروٹھے آسہم سوز مرث، کانہہ رز عملہ
 بیہ علچہ زندگی خیطرہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ کس کرنہ تمہ دوہہ خدایہ سند ہو عذاب
 کانہہ اکھاہ وَلَا يُؤْتِيهِمْ شِقَاقَ أَحَدٍ بیہ کرنہ بند کانہہ اکھاہ خدایہ سند ہو بند کرن يَا أَيَّتُهَا
 النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ای آرام رٹونہ نفسہ ار جعی الی ربک گڑھ پنےس پروردگار سن
 رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ہتھہ حالس اندر کہ ژہ تس نش راضی سوژہ نشہ راضی فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
 * وَادْخُلِي جَنَّاتٍ پس شامل سپد میانن خاص بدنن ہنزہ جماژ اندر بیہ اٹھہ مینس جنٹس اندر۔


سُورَةُ الْبَلَدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ① وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ② وَالْوَالِدِ وَمَا
 وَكَّدَ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ④ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ
 عَلَيْهِ أَحَدٌ ⑤ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدًا ⑥ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ
 أَحَدٌ ⑦ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ⑧ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ⑨ وَهَدَيْنَاهُ
 النَّجْدَيْنِ ⑩ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ⑪ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ⑫ فَكُ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ قسم چھس بوہاون یمہ شہرک یعنی مکہ معظمہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یتھ
 حالس اندر کہ توه آسواتھ شہرس اندر تشریف تھاوت یا توه آسواتھ شہرس اندر فاتحانہ صورتس منز
 ساروی پابند یورائے خدایہ سندون دشمن تہ تیغ آناں وَالْوَالِدِ وَمَا وَكَّدَ بیہ چھس قسم ہاوان مال سند
 بیہ اولادن ہوند یعنی تمام مخلوقاتن ہوند لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ پڑاٹھ پیدہ کراسہ انسان سختی
 تہ مشقتس اندر أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ کیا گمان چھاتس کہ تمس کیا پوشنہ کبے يَقُولُ أَهْلَكْتُ
 مَا لَا لَبَدًا وان چھ مہ مگر خرچ سونبرمت واریاہ مال پزکس مخالفتس اندر ژورہ ژورہ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ
 أَحَدٌ امس چھا گمان کہ وچسم نہ کانہ۔ خدائے چھو سوری وچھان اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کیا اسہ کرہ نا
 پیدہ امس اچھ زہ یہ یلہ تموا اچھو سیت وچھت بیہ اچھ پیدہ کرون مخلوقن بینائی عطا کرہ ون بہنا بندن
 ہوند حال وچھت وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ بیہ زیوتہ وٹھ زہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ بیہ ہاواسہ تس وٹھ خیرس
 تہ شرس گن یادون تھرن گن یعنی دودو جن دون جاين گن فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کس زھنڈہ نہ تم ٹھ تہ بال
 یعنی ماجہ ہند دینہ چہ کامہ کرنس اندر تجن نہ محنت تہ مشقت وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ژہیہ کوہ چیزانراوی

رَقَبَةً ۱۳) أَوْ اطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْجَبَةٍ ۱۴) يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ۱۵) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۱۶) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ ۱۷) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۱۸) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْإِيتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۱۹) عَلَيْهِمُ نَارُ مُؤَصَّدَةٌ ۲۰)

سوعقبہ کیاہے گو سوگو فَاكُ رَقَبَةً گردنہ آزاد کرن سے موکہ لاون یعنی غلام یا کنیز آزاد کرن یا قرضدارہ سز گردن قرضہ نشہ موکہ لاون أَوْ اطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْجَبَةٍ نہ کھیاون کا نہ شخصہاہ بوجھ ہندہ دودہہ یعنی فطس منز یتیم ذَا مَقْرَبَةٍ کینہ رشتہ دار یتیمس أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ نہ کانہہ مژہ سیت یتیمس یعنی پتھر پے قس محتاجس ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تمہ پتہ آسہ سو گردن آزاد کرہ دن کھین دودہ دن یتیمس نہ مسکین تمواندر یومو ایمان اون کیاہہ یتیمن ہندہ قبولیتگ شرط چھو با ایمان آسُن وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بیہ کرک وصیت اکھ اس صبر کرئج عبادت کرنس نہ گنہوش نہ پیتھ روزہ نس پٹھ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ بیہ کرکھ وصیت مخلوقن پیٹھ رحم کرئج أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تمہ چھہ نصیبہ وال بختہ ہڈ یمن دچھس اتھس کیت نامہ اعمال دنہ بیہ بیہ یمن عرشہ مجیدہ کہ دچھنہ طرفہ روزئج جای دنہ بیہ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْإِيتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ یمولو کو انکار کر سانین آیاتن تم گئے پھشل نحوستہ وال عَلَيْهِمُ نَارُ مُؤَصَّدَةٌ تمہن پٹھ سپدہ نار مسلط ٹھانڈنہ آمت یتھ منز نہ دہ نہ نیرک -




سُورَةُ الشَّمْسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ① وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ② وَالنَّهَارِ إِذَا
 جَدَّهَا ③ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ④ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَدَّنَهَا ⑤
 وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ⑥ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ⑦ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
 وَتَقْوَاهَا ⑧ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ⑨ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ⑩
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ⑪ إِذِ ابْنَعْتَ أَشْقَاهَا ⑫ فَقَالَ لَهُمُ

وَالشَّمْسِ آفتابگ قسم وَضُحَاهَا بیه تمحه تاپک قسم وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا بیه زونه هیوند قسم یله سو پته چهه پکان اتھ آفتابس وَالنَّهَارِ إِذَا جَدَّهَا بیه دو هوک قسم یله سواتھ آفتابس روشن چھو کران وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا بیه رازھ ہوند قسم یله سوہ ولان چھواتھ آفتابس وَالسَّمَاءِ وَمَا بَدَّنَهَا بیه آسمانگ قسم بیه یم سوہناکور وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا بیه زمینگ قسم بیه یم سوہوارگرتہ و ہراو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا بیه انسانہ سندہ نفسگ قسم بیه یم سوہرابر کر یعنی یم سوہیوگر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پس دلس منز تراونس بدی تہ گناہ تھند بیه نیکی تہ پرہیزگاری تھنز یم ساری قسم آی ہاونہ بیه تھہ خیطرہ کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا بہ تحقیق کامیاب رستہ گار سُنْد تہ مطلبس ووت سُو شخص یم پاک گُر پنون نفس یعنی تم سمن نفس نافرمانیو نشہ پاک کرت تقویٰ و فرمان برداری پٹھ آمادہ گُر وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ناکام تہ نامراد سُنْد یم سو نفس پھاٹو بدین اندر جواب قسم چھو سارنی قسمن ہوند ای کہ مکہ ہک کافر و فاجر تہ بدکار چھوہ توه لوک توه چھو ضرور غضبس تہ ہلاکس گُر فتر سپدن دنیاو و آخرتس منز آتھہ پاٹھ قوم ثمود گُر فتر سُنْد یمن ہوند قصہ امہ پتہ بیان چھو یوان کرنہ کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا قوم ثمودن گُر تکذیب

رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِّيَهَا^{۱۳} فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا وَأَقْدَمُوا^{۱۴} عَلَيْهِنَّ رَبَّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَنَسَوْنَهَا^{۱۵} وَلَا يَخَافُ عِقَابَهَا^{۱۶}

پنہ شرارت و سرکشی سببہ پنہ نس پیغمبر صلی علیہ السلام یہ چھو تمہ و تمگ قصہ إِذْ أَنْعَثَ أَشْقَاهَا^{۱۳} یلہ تمہ قوم ثمودہ منزہ ووتھ سخت شقیہا اکھ سوی سپد آمادہ تس وونئہ تکلیف و اتناوتس پیٹھ، سیت رودس بے لوک تہ، امیوک اطلاع یلہ ووت صالح علیہ السلام فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِّيَهَا پس فر مووئتمن اللہ تعالیٰ سند پیغمبرن یعنی صالح علیہ السلام خبر درار روز یوامس خدایہ سنزہ وونئہ ہندہ حقہ، بیہ تمسندہ تریشہ ہندہ حقہ یوتھنہ سووئٹن ماریون یا کریوتس تریش چنس اندر کونہ قسمہ مزاحمت۔ امس وونئہ فر موو اللہ تعالیٰ ان ناقۃ اللہ یعنی خدایہ سنزوئٹن۔ کیا زہ یہ آس اکھ ہڈ دلیلاہ تہ معجزہ صالح علیہ السلامہ سندہ نبوت و پیغمبری ہنز تس تعظیم کرن اوس لازم تہ واجب۔ یمو کرتھ ساری ادلہ بدل فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا پس کرتھ تس پیغمبرس انکار سوو نکھ اُپز یور۔ بیہ تھجھ امس وونئہ نکھ نیر اتھ پاتھ مارکھ سہ فَذَمُّوا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا پس تراوئتمن ہڈ بلای تہند پروردگارن تہندہ تا فرمانی تہ گناہ سببہ سوی بلای و اتناوتک سارنی برابر یعنی ساری گلن آند ہتھ وَلَا يَخَافُ عِقَابَهَا اللہ تعالیٰ چھونہ کھوژان امہ کس تھجس۔ ہتھ پاتھ دنیاء ک پادشاہ اندیشہ چھ کران کونہ وقتہ جُر من سزاد نس اندر کہ خبر چھا امیوک نتیجہ مانیرہ خراب۔ مُلْكُكُمْ اندر ماسپدہ کانہہ شورش یا ملکی معاملاتن اندر مایہ کانھ خلل۔ اللہ تعالیٰ اس چھنہ اثرھن تھن ہیوند کانہ پروا۔



سُورَةُ الْيَلَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَالْيَلِيلِ إِذَا يَعْتَشِي ① وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ② وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
 وَالْأُنثَى ③ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ④ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ⑤
 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ⑥ فَسَنبِئْهُهُ لَلْبَيْسَى ⑦ وَأَمَّا مَنْ
 بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ⑧ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ⑨ فَسَنبِئْهُهُ
 لَلْعُسْرَى ⑩ وَمَا يَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ⑪ إِنَّ عَلَيْنَا


وَالْيَلِيلِ إِذَا يَعْتَشِي قسم چھو راتک یلہ سُوولان چھہ عالس گہ سیت وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى بیہ چھو قسم دو ہک پلہ سو روشن چھو سپدان وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى بیہ چھو قسم تس ذاتہ سند یم نرتہ مادہ پیدہ کر یمن قسمن ہیوند جواب چھو امہ پتہ یعنی یم قسم تھہ پیٹھ آے ہاونہ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى تھہ پیٹھ کہ بے شک تو ہنزہ کوششہ یعنی عملہ چھ مختلف کانسہ ہنز عمل چھہ رثہ۔ تہ جان کانسہ ہنز عمل چھہ پیٹھ تہ خراب آتھہ پاٹھ چھہ امیک شمرا تہ و نتائج تہ مختلف رثہ عملہ چھو رثہ جزا پیٹھ عملہ چھو پیٹھ سزا۔ سچ مثال گیہ کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى پس یم خدایہ سزہ و تہ اندر دیوت مال پنون۔ تو پتہ کھوڑ خبر چھا قبول کر مہ کنہ رد کر یم وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى بیہ زون پوزروت کلمہ یعنی کلمہ توحید، اختیار کرن دین اسلام فَسَنبِئْهُهُ لَلْبَيْسَى پس کرو اس تہندہ راحمہ چیزہ خیطرہ سامان مہیا۔ راحت کہ چیزہ اندرہ چھہ مراد رثہ عمل رثہ عملہ ہندہ واسطہ کرو س عطا جنت وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وین یم واجب حقوق ادا کرنہ نشہ بخل کر بیہ خدایس کھوڑ نہ بدل لوگن بے پروا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى بیہ گزرن اپزرت کلمہ یعنی اسلام کرن نہ قبول فَسَنبِئْهُهُ لَلْعُسْرَى تلہ کرو اس تہندہ سختی تہ تکلیفہ خیطرہ سامان مہیا تکلیفہ کہ چیزہ سیت چھہ مراد پیٹھ عمل پیٹھ عملہ ہندہ واسطہ کرو ن داخل نار جہنم وَمَا يَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى کانہہ

لِلْهُدَىٰ ۚ ﴿۱۲﴾ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿۱۳﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا
تَلَظَّىٰ ﴿۱۴﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ ﴿۱۵﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿۱۶﴾
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ ﴿۱۷﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿۱۸﴾
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿۱۹﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

فائدہ دینے تس مال و دولت پہنن یلہ بوتھ کن پیہ تہ ڈولہ گوہ سونار جہنم اندر اِن عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ
واقعی سانہ ملے اوس تفضل واحسانہ موجب و تھ ہاون سہ و تھ ہاواسہ وارہ پاٹھ پس کر کانہ اختیار ایمان
وطاغ و تھ کر کانہ کر اختیار کفر و نافرمانی ہنز و تھ یہ فسج کانہ شخص و تھ اختیار کرہ تی قسمک پھل تولہ
سو۔ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ کیاہہ سانس اٹھس تہ اختیار س منز چھو آخرت تہ دنیا تہ دنیا کس منز
کر اسہ احکام مقرر یمولو کو تموا حکامو موجب عمل کر تمن بیہ رتہ مزدور نہ آخرتس اندر یمولو تمن
احکامن ہنز مخالفت کر تمن بیہ آخرتس اندر پور سزاندہ یمولو بیان کرنہ او فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
پس کر موہ مہہ بیم تمہ نازک نئس شعلہ ماران تہ رہ تراوان چھو لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ تھہ نارس منز
واتنہ ہیٹگی بند روزنہ خاطر مگر سوی شخص نئس یڑ شقی تہ بد بخت آسہ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ہم اپز گنزر
دین حق تہ پیغمبر بر حق بیہ کرن۔ روگردانی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ قریب چھو کہ بیہ بیہ تمہ نارہ نشہ
لوب تھاونہ تہ پتھ رٹنہ سو شخص نئس سٹھاہ متقی تہ پرہیزگار آسہ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ نئس مال
پنون خرچ کران چھہ محض بیہ غرضہ خیطرہ کہ سوگوژہ گنہوہ نشہ پاک سپدن یعنی محض خدا یہ سز رضا مندی
حاصل کرنہ خیطرہ اگرچہ یمن آیات کر یمن ہند الفاظ چھہ عام مگر سبب نزول چھو یمن آیات
کر یمن ہونند قصہ ابو بکر صدیق ؓ یلہ تموبلال حبشی ؓ وغیرہ صحابہ صیب کافرن نشہ مول ہمت محض
خدا یہ سہہ رضا خیطرہ آزاد کور۔ چنانچہ تفسیر دُر منشورس اندر چھو یو ہے شان نزول ذکر کرنہ امت
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ چھونہ کانہ اسندتس نشہ کانہ تھاہ تہ احسانہ تمہ کوی بدلہ تہ

رَبِّهِ الْأَعْلَى ۲۰) وَكَسَوْفَ يَرْضَى ۲۱) ع

عوض کیا آسہا تہ دنہ یوان اِلَّا لِبِعَاۗءٍ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى مگر پچھو سومال پنون خرچ کران محض پنہ
نس بڈس تہ تھدس پروردگارہ سندر ضاژھانڈہ نہ خیطرہ وَكَسَوْفَ يَرْضَى سو شخص سپدہ بروٹھ ضرور
مقصدس تہ مطلبس واتنہ سیت خوش تہ راضی۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَالصُّحِي ۱ وَالْيَلِ إِذَا سَجَى ۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۳
 وَلَا آخِرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۴ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

وَالصُّحِي * وَالْيَلِ إِذَا سَجَى یہ سورہ شریفک سبب نزول ہجھوہ کہ پھرہ کونہ بیاری یا تکلیفہ سبہ بہ ہیگ نہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کہ وقت نماز تہجد خیطرہ و تہت بیہ سپد اتفاق کہ جبریل امینہ سندس وحی ہست نیس اندر نہ سپز کینشن دوہن درنگی مُشْرک لگ ونہ نہ کہ حضرت محمد ﷺ تروو پینن پروردگارن۔ تمن سیت لوک لگ دشمنی کرنہ بعضے لگ ونہ نہ کہ یہ صاحب تروو پینن شیطانن (نعوذ باللہ) تمنجھن ہندہ تردیدہ خیطرہ سپد نازل یم آیات کریمہ اللہ تعالیٰ چھونا فرماون کہ وَالصُّحِي وَالْيَلِ إِذَا سَجَى کہ قسم چھومہ چاشمہ و تنگ نیس روشن چھو آسان آفتاب کہ کھنہ سیت بیہ چھو قسم راث ہوندیمہ ساتہ نجانہ گنہ چھو پور سپدان مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى تونہ حض تراویونہ پینن پروردگارن، بیہ کرن نہ تونہ سیت کونہ قسمہ دشمنی یار رسول اللہ۔ کیازہ گوڑہ آیہ نہ تونہ نشہ کانہ کتھ تیوہ۔ توپتہ چھو عادتہ اللہ اندرہ حضرات انبیاءن نسبت یوتھ معاملہ سپدن محال۔ لہذا مہ گڑھیو تونہ کافرن نہ مُشْرکن ہندہ وورنہ سیت آزرده۔ تونہ پیٹھ روزہ و چچ نعمت ہمیشہ جاری۔ یہ نزول وحی چھو شرف و کرامت تہوند خیطرہ دنیائس اندر وَلَا آخِرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى البتہ آخرت چھو بہتر تونہندہ خیطرہ دنیائ خوتہ کیازہ آخرتس اندر کہہ اللہ تعالیٰ تونہ عطا زیادہ نعموہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى بیہ کرہ عطا تونہ پون پروردگارتی یہ سیت تونہ راضی گوہیو حدیث شریفس منز چھ فرمومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد ﷺ سپد نہ توتان راضی یوتان تہند یو ایو اندرہ اکھ شخص نہ روزہ جہنمس اندر صلی اللہ علیہ وسلم اَللّٰهُ يَخْتَارُ لَكَ نَبِيًّا قَادِي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ ان لبوہ ناتونہ یتیم۔ توپتہ دژ تونہ جائی بیہ کر تو تونہ پرورش گوڈ بڈ بابہ نہ ذریعہ یعنی عبدالمطلبہ توپتہ پترہ سنہ ذریعہ یعنی ابوطالب سنہ تولد سپد نہ بروٹھے اوس گوومت یہ عالمہ تہوند بابہ سبب ونہ آس تم والدہ صاحبس شکم مبارکہ سی

فَتَرْضَىٰ ۝۱۰ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝۶ وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فَهَدَىٰ ۝۷ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝۸ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝۹
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝۱۰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝۱۱

اندر۔ تو پتہ آس تم شوروی یلہ والدہ ماجدہ میہ عالمہ گیکہ تو پتہ رود عبدالمطلبس نشہ یوتان تم آٹھ
وہرات۔ تمہ پتہ رود تم ابوطالبس نشہ سواتیس کالس زندہ اوس تہ تیتس کالس تم مگر تہنز پرورش تہ
بگہبانی نہایت جانفشانی سیت تو پتہ کر تہندہ مر نہ پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفس کن
ہجرت تہہ بخوش اللہ تعالیٰ ان تہندہ خدمت و حفاظتک شرف قبیلہ اوس و خزرجس یعنی مدینہ شریفہ
کیں انصارن تمو مگر تہہ پاٹھ تہنز خدمت و جانفشانی تہج نظیر دنیا س اندر مقفود چہہ۔ میہ ساری
صورثہ چہہ لفظ فاوی اس تل داخل سپدان وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ بیہ لبوہ توہ اللہ تعالیٰ ان
شریعتہ کہ علمہ نشہ بے خبر تو پتہ ہاونوہ تہہ کن و تہہ۔ بیہ ہونوہ سوروی علم شریعت وَوَجَدَكَ عَائِلًا
فَأَغْنَىٰ بیہ لبوہ توہ اللہ تعالیٰ ان فقیر، پس کرنوہ تو بیہ بے نیاز میہ طریقہ کہ ام المؤمنین خدمتہ کبریٰ
سندہ طرفہ گوہہ توہ مال تجارت ہیبت تہہ اندر سپد تو ہیہ نفع حاصل بیہ گور خدیجہ کبریٰ ان توہ سیت
نکاح۔ تمو گور پنون سوروی مال تو ہندس خدمتس اندر پیش یہ گو غنای ظاہری غنای قلبی تہ غنای باطنی
گور توہ تیوت عطا سمیوک نہ اندازے ہکہ کانہ شخص کرت۔ غرض یم پروردگارن تو ہیہ سیت ابتداء
پیٹھ امہ قسمک معاملہ گور سوہ بگیا توہ پیٹھ ناراض گوہت تہ تو ہیہ تراوت۔ مگر پروردگارہ سندین یمن
الظافن تہ مہربانین ہیوند شکرانہ گو کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وین یس یتیم آسہ تس مہز آسیو خشم تہ
گرنز کران۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وین یوس فقیر محتاج تہ منگون آسہ سومہ آسیون زورہ زبردستی
سیت نہیر کڈت خالی تراوان وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وین میہ نموہ تہوند پروردگارن تو ہیہ عطا کرہ
تمن ہیوند کریو توہ بیان تہندن ارشاداتن تہ کلام شریفس سیت حدیث ناو آمت چھو تھانہ سوچھو غالباً
امی لفظ فحدث اندرہ کڈنہ آمت واللہ اعلم۔




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۱ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۲
 الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۳ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۴ فَإِنَّ مَعَ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کیا اسے کرنا تہوندہ خیطرہ تہوند سینہ مبارک کھول نہ شہادہ علم سیت یعنی علم
 نہ گراسہ توہیہ شہاہ زیادہ عطا۔ بیہ نُس تکلیفہا توہیہ تبلیغ حق کرنس پیٹھ دشمن ہندہ طرفہ ووت
 سو برداشت کرنہ خیطرہ کراسہ توہیہ حلم نہ تحمل عطا۔ یا نحو اشارہ امہ اندرہ تہہ شق صدر شریفس گن
 یس متعدد بار طور کرنہ آو۔ آکھ یلہ تم دودہ ماجہ نش یعنی حضرت حلیمہ سعدیس نش آس۔ بیہ یلہ بالغ
 سپد۔ بیہ یلہ خلعت نبوت ولنہ آکھ یعنی یلہ ژتجہ وہر آس بیہ یلہ بعالم بالا کھارنہ آے در شہب معراج
 وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ بیہ نکل اسہ توہیہ نشہ تہوند سو بور الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ یم بار گبر وومت
 اوس پُشت مبارکس تہوند۔ تہوند بُور اوس معنوی آکھ بُورہ یا اوس سوزول وچک بُور نُس ابتداءس اندر
 شہاہ مُشکل اوس پتہ سپد سہل نہ آسان یا اوس منصب رسالت چن ذمہ دارین ہوند بُوریمہ کہ محسوس
 سپدنہ سیت خاطر عاطر تہوند مہکد رسپدان اوس سوی گور اللہ تعالیٰ ان دور۔ حضرت شاہ عبدالعزیز
 صاحب دہلوی چہہ فرماوان کہ امہ اندرہ چھو مراد کہ تہوند ہمت عالی نہ پیدائشی استعداد یمن کمالاتن
 نہ مقاماتن واثن منگان اوس دلہارگس اوس جسمانی تزکیہ نہ نفسانی تشویشاتن گن نظر کرت تمن
 کمالاتن پٹھ فائز سپدن دشوار بوزنہ یوان۔ مگر اللہ تعالیٰ ان یلہ شرح صدرہ سیت مزید استعداد عطا
 کر کہ اتی سپدک تم ساری کمالات حاصل تمیوک نُس بارہ دل مبارکس پٹھ اوس سو تہہ وَرَفَعْنَا لَكَ
 ذِكْرَكَ بیہ کورنا اسہ بلند نہ تہود تہوندہ خیطرہ تہوند ذکر۔ حدیث قدسیس اندر چھو اچ وضاحت کہ
 اللہ تعالیٰ ان فرمو کہ اذًا ذُکِرْتَ مَعِيَ (تفسیر ابن جریو ابن کثیر و ابن ابی حاتم) یلہ میون
 ذکر کرنہ آسہ یوان تلہ بیہ کرنہ تہوند تذکرہ نہ۔ چنانچہ بانگہ منز تکبیرس منز نمازہ منز تشہدس منز

العُسْرِيُّ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيِّ ۶ فَإِذَا فَرَعَتْ فَأَنْصَبْ ۷ وَالِي رَبِّكَ فَارْغَبْ ۸

خطبے منز۔ چھویوان کرنے تہوند زکرون یلہ اسہ توبیہ روحانی تکلیف دُور گر تہوند گزہ روزن امیدوار
دنیوی تکلیف تہ کروائس توبیہ نشہ تہ تہوندین پیرون با ایمان نشہ دُور۔ تمبوک چھ اس توبیہ سیت
وعدہ کران فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيِّ ۶ پس تھتھن موجودہ سختی سیت چھ آسانی اودہ وین توبیہ پیٹھ سختی تہ
مُکلات بکثرت آسئس کن نظر کرت تھس بُواتھ وعدس تکرار کران بیہ فرماوان إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيِّ ۶
کہ بے شک موجودہ سارنی مُکلاتن سختین سیت چھ آسانی یئہ واجن۔ چنانچہ تمہ سارے سختی سبزہ اکہ
اکہ دور حدیث شریفین تہ تارمہ چن کتابن اندر چھ تھ متعلق روایات موجود وین یلہ اسہ توبیہ امہ
امہ قسچہ نموہ عطا کرہ تہوند گزہ تمن نعمن پیٹھ شکر دمن تھ پاٹھ کہ فَإِذَا فَرَعَتْ فَأَنْصَبْ ۷ توبہ یلہ
احکام خداوندی وائونہ نش (یضہ کوم عبادت چھ تمبوک نفع متعدی چھ) فارغ سپدان آسیو۔ تمہ پتہ
گزہ تہوند تھ عبادتس سیت مشغول سدن تمبوک نفع تہ فائدہ خاص تہندس ذات مبارکس چھو یعنی
عبادت تہ یاد خدا کران کران محنت و مشقت برداشت کرن وَالِي رَبِّكَ فَارْغَبْ ۸ بیہ یہ کینترہاہ
توبہ مکن تہ ژھانڈن آسہ تہ حاصل کرنہ خیطرہ گزہ تہوند پنہ نس پروردگارس کن توجہ تہ رغبت
کرن تس گزہن ہنن ساری حاجت مکن۔



سُورَةُ التِّينِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ① وَطُورِ سِينِينَ ② وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ③
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ④ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
 سَفِيلِينَ ⑤ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑥
 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ⑦ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ⑧

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ قسم چھوانجیرک یا انجیر کلک بیہ چھو قسم زیتون نک یا زیتون کلک یم دو شوے چھ
 بابرکت میوہ تہ کل تہ یا چھو مراد تمہ جاہیہ ہوند تہ تمہ شہرک قسم یتہ انجیر کل تہ زیتون کل بکثرت
 پیدہ سپدان چھو اکھ جای گیہ یتھ گن ابرہیم علیہ السلامن ہجرت کر مرچھ۔ بیاکھ جای گیہ یتہ عیسیٰ
 روح اللہ تولد سپدمت چھ و طُورِ سِينِينَ بیہ چھو کوہ طورک قسم یتھ پیٹھ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ
 سیت ہم کلام سپد وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ بیہ چھو قسم یمہ امکہ شہرک یتھ شہرس منز کعبۃ اللہ واقع چھو
 بیہ یس شہر حضرت سید المرسلین سندہ ولادت باسعادت ٹلک شہر چھو یمہ زور قسم ہاوتھ چھو فرماوان اللہ
 تعالیٰ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بے شک پیدہ کر اسہ انسان رتس اندازس اندر بہترین
 شکل و صورت کر س عطا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ تو پتہ وول اسہ سہ یوئمہ درجہ کیو لو کو اندرہ تہ زیاد
 بون۔ نافرمانی تہ کفر و شرکہ سبہ۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر یمو لو کو ایمان اون بیہ کر کیہ رتھ
 عملہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ تہندہ خاطرہ چھو سو ثواب ئس نہ زانہ تہ خم گڑہ یا وبرہ یلہ اللہ تعالیٰ پیدہ کر نس
 پیٹھ بیہ احوال بدلاونس پیٹھ پور قدر تہ وول چھو۔ اے انسانہ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ادہ کوہ چیز
 چھوی تہ تکذیب تہ انکار کرنا وان جزا گس دوہس أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ تعالیٰ چھنا حاکمن
 ہوند بوڈ حاکم ئس تصرف چھو دنیا کی سارنی امورن پیٹھ تہ آخر تہ کین سارنی امورن پیٹھ تہ۔

سُورَةُ الْعَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②
 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یہ سورہ شریفک یم ابتدائی پانژھ آیہ کریمہ چھ ساری قرآن مجیدہ بروئٹھ نازل سپد مت سمیوک قصہ چھو صحیفن منز ذکر کرنہ آمت کہ نبوت عطا سپد نہ بروئٹھ آس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود خلوت نشینی پسند کران۔ چنانچہ مکہ شریفن منز اوس غار حراء تہہ منز آس تشریف تھوان۔ تہ معبود برحقہ سنز عبادت کران۔ رات کہ وقت تہ آس اتھ غارس اندر روزان اکہ شبہ آس غارہ شریفہ منزہ نبرگن درامت آتی و جھک آسمان وز مینس منز معلق اکہ عتھاتھ پیٹھ و جھک اکہ شخصہا سٹھاہ بوڈیہوی ڈتھ امہ تختہ پیٹھ توپتہ آویمن بروئٹھ گن امی دپوک اقرأ پر یو فرموس مالانابقاری بو جھسنہ پرہون توپتہ رٹن پانس سیت چیر و تھ تراون یلہ۔ بیہ ڈپنک اقرأ پر یو فرموس بیہ یہوی جواب کہ بو جھسنہ پرہون توپتہ رٹن بیہ پانس سیت بیہ دیونک چیر دویمہ لہ خونہ زیادہ تیوت چیر کہ قریب اوس تم سپد ہنس بے ہوش توپتہ تراون یلہ۔ ڈپنک اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ پر یوپنہ نس پروردگارہ سندا و ہمت تم پروردگارن ساری مخلوق پیدا کر خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ یم انسان پیدا کورموش خونس یعنی خونہ دتھ امہ اندرہ چھ مراد انسانس تبنہ کرن کہ ای انسانہ زہ پٹھ چھ خدایہ سنز نعمت سٹھاہ ہڈ کہ بے جان چیزہ نشہ پیدا کرت تھ در جس و اتا و تکھ شکل و صورت تہ عقل و علم کرنے عطا۔ ژہ پزن زیادہ شکر و شادین ذکر و فکرہ اندر مشغول روزن اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ توہیہ آسیویا رسول اللہ قرآن مجید پران تہوند پروردگارہ چھو سیٹھاہ کریم۔ سوہ یژھان چھو تہ چھو عطا کران۔ سوچھو پر نہ و رای پرہ ناوان۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ یم پروردگارن لکھمت ہرمت لوک چھناو بذریعہ قلم عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ یہ انسان چھو نون تہ چیز سمنہ تس معلومے آس مطلب چھو اکہ زہ تعلیم تہ چھناو ان چھ نہ موقوف لکھن تہ پر نی پیٹھ بی بی اسباب و ذرائع تہ چھ یمو سیت علوم

لَمْ يَعْلَمْ ۵ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيْطَعَى ۶ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْنَى ۷ إِنَّ
إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعَى ۸ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۹ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۱۰ ۷

حاصل سہدت ہن۔ دویم کتھ چھ پیے کہ اسباب و ذرائع چھنہ بذات خود کنہ اثر کرت ہکان بلکہ چھو موثر حقیقی اللہ تعالیٰ۔ لہذا ہر گہ تو ہیہ یار رسول اللہ پرہ ون چھوہ نہ۔ تمیوک مہ بر یوکانہ پروا۔ ایس یلہ تو ہیہ حکم کروہہ پر نک تو ہیہ ہکیو اسباب و ذریعو و رای سانہ حکمہ ہرت یہ ایس پرہ ناؤن یثھوہ۔ اس ہکوہہ تو ہیہ پرہ ناوت۔ یتھ پاٹ آسہ خوش کرہ۔ اس ہکوہہ تو ہیہ سوطاقت تہ سہ قدرت عطا کرت یمہ سیت تو ہیہ ہرت ہکیو۔ علوم وحی یاد ہکیو تھات چنانچہ تی سہ۔ تفسیر عزیز لیس اندر چھو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموا گر چہ اوس نہ لکھن ہرن ہتھمت مگر اللہ تعالیٰ ان فر موو کہ قلمہ کہ ذریعہ تہ چھس بوی ہتھنا وان قلمہ و رای تہ ہک بوی ہتھناوت ممکن چھو۔ یتھ کتھ گن تہ آسہ اشارہ کہ یتھ پاٹھ فیض و وہ نس تہ فیض رنہ و نس منز قلم چھو واسطہ تہ ذریعہ سپدان۔ یتھ پاٹھ آسہ باری تعالیٰ اس منز تہ پیغمبرن بر حقس منز جبریل امین محض اکھ واسطہ تہ ذریعہ۔ بیہ اتھ پاٹھ قلمک ذریعہ فیض سپدن چھونہ یتھ کتھ لازم کہ قلم کیا چھو تس فیض رنہ ون سندہ خوتہ افضل تہ بہتر۔ یتھ پاٹھ چھنہ یہ کتھ تہ لازم کہ حقیقت جبریلیہ کیا آسہ ہا افضل حقیقت محمدیہ خوتہ۔ لہذا چھو جبریل امین تہندہ حقہ ممنزلہ قلم کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيْطَعَى ۶ * أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْنَى ۷ بہ تحقیق یہ انسان لیس اسی خونہ دتہ پیدہ کور لیس حقیر و ذلیل چیزاہ اوس۔ لیس جاہل مطلق اوس اسی ہتھناؤ۔ اس روزنہ ہن اصلی حقیقت یادای یہ لگ دنیاہ کہ مال دولتہ سیت مغرور سہدت سر کشی کرنہ۔ خیال چھس مہ چھونہ کانہ ہوند پروا اِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعَى ۸ بے شک چیلسی پروردگار س گن چھو سارنی واپس وائن۔ یتہ تہ آسہ یہ انسان تہنزی قدر تہ کس احاطس منز ولنہ تہ بند کرنہ اُمّت یمہ منزہ ثلث ہکنہ گن تہ۔ یوتھ عاجز تہ بے بس انسان تھ پاٹھ ہکھ اتھس قادر و قاہر خدا لیس نشہ مستغنی تہ بے پروا آستھ۔ وین تمسد پنون پان مستغنی زانن یہ گیہ محض سفاہیت تہ حماقت یعنی بالکل ثور تہ احمق لاگن۔ امہ پتہ چھو اس انسانہ سنزن بعضے بچھ کائین ہوند بطریقہ استفہام ذکر یوان کرنہ اکھ دوہہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرامس منز نماز پران ابو جہل آو تم دوپ تمس آسے تو ہیہ واریاہ پھرہ یہ کرنہ نشہ منع کور تہند کیا ز چھونہ پتھ روزان۔ تمو کرس اتھ


أَرَعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۙ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ۙ أَرَعَيْتَ إِنْ
كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۙ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۙ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهَ ۙ
لَنْسَفَعَا بِالنَّاصِيَةِ ۙ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۙ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۙ

پیٹھ سخت خشم تہ گرز سولگ دپنہ شہر مکس منز چھہ ساروی اندرہ بین جماعت واریاہ بند۔ ہرگہ آئندہ
بوو چھوادہ توہ بیہ نماز ہران بوتھاوہ توہنزہ گردن پیٹھ کھور توپتہ و اتا و وہ سٹھاہ تکلیف۔ چنانچہ اکہ پھرہ
آس تم نماز ہران توپتہ آو سوتکلیف و اتا و نہ کہ قصدہ مگر نزدیک و اتھہ پھیور واپس لو کو پڑھہ ہس ژہ کیا
گوی دوپن یتھوی بو تم ن نزدیک و ائس تھوی و چھہ مہ اکہ خندقہ تھہ منز و چھہ مہ کچھ کرت جانور یم
وہجھت یو کھو ژس فر مونی کر یم ن صلی اللہ علیہ وسلم تم آس ملائک ہرگہ سو بروٹھ یکہ ہاتمس ژ پھن
تم باز اَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ * عَبْدًا اِذَا صَلَّىٰ اِی مخاطب ژ ی کرتہ بیان تشخصہ سند حال ئس سانس اس
خاص بندس منع چھو کران تہ پتھ چھورٹان یلہ سو نماز چھوپران۔ یعنی معبود برحقہ سز عبادت کرہ و نس
عبادتہ نشہ نماز پر نہ نشہ پتھ رٹن۔ یاتس گانگل کرن کوتاہ گناہ تہ کثیرا ہ پچھ کوم چھہ اَرَعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى
الْهُدَىٰ ژہ و نتہ مہ بیہ کوتاہ گناہ چھو خصوصاً یلہ سو بندہ خاص عین ہدایتس تہ راہ راستس پیٹھ آسہ

أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ یا آسہ سو بین لو کن تہ خدا یس کھو ٹر نچ تعلیم دو ان تمن تہ معبود برحقہ سندہ عبادتک
امر کران اَرَعَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ژہ و نتہ مہ ہرگہ سو پھ رٹہ و ن شخص پانہ دین حقس آسہ اپز
گزران۔ بیہ آسہ دین حقہ نشہ بوتھ پھر ان اَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ کیا تس پتھ رٹہ و نس تہ نمازہ نشہ
منع کرہ و نس چھنا خبر کہ اللہ تعالیٰ چھو بے شک تسزہ یمہ پچھ کامہ و چھان سو دیہ ضرور اس یم ن پچھ
کامین ہوند سزا کلاگ اس پزہ ہانہ ہرگز یمہ پچھ کامہ کرنہ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهَ لَنْسَفَعَا بِالنَّاصِيَةِ ہرگہ نے سو
آئند یمو پچھ کامیو نشہ پتھ روزہ۔ ایس پکنا و ون ژھاگہ رٹھہ یعنی کلہ کہ مسہ رٹھہ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
یس مست اپز تہ خطا کار چھو۔ کیا زہ تمسدہ بدگین موین موین چھو گھن ہیوند اژ و تمت فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ *
سَدَّ عُرْوَةَ الرَّيَانِيَّةِ ہرگہ تمس پنہ نین لو کن تہ پنچہ ژاٹن ہندہ مددک خیال چھو دین سو تمن آلو
آستہ و مو آلو جہنمہ کین عذابہ کین ملائک۔ امام طبرائین کر روایت از قتادہ تمو فر مود نبی کر یم ن صلی

سَدُّ عُرُوبِ الرَّبَّانِيَّةِ ⑱ كَلَّا لَا تَطْعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ⑲ السَّجْدَةَ

اللہ علیہ وسلم ہر گہ امہ وقتہ ابو جہل کنہ کرہ ہا ضرور رٹھن تس جہنمک ملک نین پاٹھ کلا تس پڑہ نہ ہر گزیہ کرن لَا تَطْعُهُ مگر توہیہ مہ حض بوزیو اوس خیشہ سُنَد یعنی توہیہ مہ تراویو نماز پر ن امسندہ ونہ نہ موجب وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ بلکہ روزیو توہ بدستور نماز پر ان بیہ خدایہ سُنَد قرب یتہ نزدیکی حاصل کران۔ اللہ تعالیٰ رچھہ توہہ تہندہ شرہ نشہ کیازہ نمازہ سیت سپدہ توہیہ قرب خدا حاصل۔ قرب خدا چھو حفاظتک بوڈر یعہ لہذا مہ کریو توہیہ یمن دُشمن ہنزن تھن گن کانہ التفات۔



سُورَةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۲ لَيْلَةُ
 الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۳ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
 بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۴ سَلَّمَ ۵ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۶

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک اسے کرنازل یہ قرآن مجید تجھ ذکر سورہ علقس اندر چھ شب قدر
 اندر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ توہم یہ کہہ چیز زانراوہ کہ شب قدر کیاہ شب چھو۔ بوی فرماووہ تمیوک
 حال تہ شان لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ شب قدر چھو بہتر ساسہ ریتہ خوتہ، یعنی ساس
 ریتس عبادت کرنس یوت ثواب چھو، تمو خوتہ زیادہ ثواب چھ اتھ شمس اندر عبادت کرنس،
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر آکہ دودھ بیان کہ بنی اسرائیل آس ساس ریتس عبادت کران۔
 کیاہ تمس آسہ زچھ عمرہ۔ یہ بوزت سپد صحابہ صمیم سخت افسوس تہ ڈینہ لگ آسہ تے آیشہ عمر آسہا
 آسہ آسہو ایشہ عبادت کران۔ اتی سپد یہ سورہ شریفہ نازل تھہ اندر اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ اکی مینس
 حبیبہ سند یو اقیو توہم یہ کر مہ عطاشب قدر لیس ساسہ ریتہ خوتہ بہتر چھ تھہ شمس منز لیس عبادت کرہ زن
 تم ساس ریتہ خوتہ زیادہ کالس عبادت کر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا سوہ چھو تھوی شب کہ
 نازل چھ سپد ان تھہ شمس منز ملائک بے روح القدس یعنی جبریل امین زمینس پیٹھہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ
 كُلِّ أَمْرٍ * سَلَّمَ پنہ نس پروردگارہ سندہ حکمہ پرت کج خیر و برکت تہ سلامتی ہمت سوی خیر تہ برکت
 چھنہ آسان تمہ شبہ کونہ معین حصص اندر هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ بلکہ چھو آسان سو خیر و برکت
 سار سئی شمس طلوع فجرس تان۔ چنانچہ حدیث شریفس اندر چھو آمت کہ جبریل امین چھ ملائک ہنز
 اکھ ہنڈ جماعت سیت تلت، دنیا عس اندر ڈو پیر پھیر ان نس شخصس و چھان چھو مشغول نمازہ سیت تہ
 یاد خداس سیت تس چھو دعاء رحمت سوزان، بیس روایتس اندر چھو تس چھ جبریل امین سلام کران
 امیوک معنی تہ گودعاء رحمت تی چھو مراد سلام اندرہ، امر خیرہ اندرہ تہ چھو ای مراد۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ
 حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ① رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ②
 فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ③ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ


لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ①
 مشرکوں اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندہ سوزنہ بینہ بروٹھ کافر آس۔ تم آسنہ پنہ نہ کفرہ نشہ پتھ
 روزہ و سن پوتان نہ تم نشہ و اتہی نی تہ واضح دلیل ② رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ③
 سہ واضح دلیل گیہ پیغمبرہ خدا یہ سندہ طرفہ سوی آسہا پاران تمہن پیٹھ پاک و پاکیزہ سورہ تہ مضامین یمن
 منز بروٹھمن نازل کرنہ آسٹرن آسانی کتابن ہند درست مضامین لکھت تہ درج آسہن کرنہ آمت
 یعنی تمہن کافرن ہیوند گھر اوس توتھ سخت تہ شدید کہ تہوند سوجمل تہ گھر ہیجہ ہینہ دور سپدت بدس
 عظیم الشان پیغمبرہ سندہ سوزنہ و رای۔ تمی موکھ سوز اللہ تعالیٰ ان تمہن پیٹھ اتمام حجت کرنہ خیطرہ سو
 عظیم الشان پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہیئت جلیل القدر اکھ کتابا ہست و سن
 اوس لازم کہ تم زانہن اتھ غنیمت تمہن کرہ ہن تلقی بالقبول تہ تمہن انہن ایمان مگر یو اندرہ یم اہل
 کتاب یعنی یہود و نصاریٰ آس تمہن گہیہ گہ و ن جھنہ بین کافرن ہنز کھے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ③ مختلف تہ الگ الگ سپدہ نہ اہل کتاب مگر تمہن نشہ واضح دلیل و اتنہ پتہ
 یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ بروٹھ آس تم متحد تہ متفق تہمدس حقس اندر بغض و عنادہ سبہ بہ
 کر کہ تمہن انکار تہمدہ تشریف انہ نہ پتہ اڈو یوں ایمان اڈو یو گرانکار۔ یوتھ جلیل القدر پیغمبر تہ ایشہ
 عظیم الشان کتاب و اتھہ گوٹھ تہوند دین حقس یعنی اسلامس پیٹھ مجمع تہ متفق سپدن ہنن بروٹھم
 اختلاف تراوت گڑھ ساری اختلافات تراون تمہ چہ جایہ سپد تمہن تہمدہ تشریف آوری پتہ پانہ وان

بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
 مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
 وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْ
 مُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ

سخت اختلاف و مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ حالانکہ تمہیں لو کہن اوس
 برو نظمین کتابن اندر یہوی حکم کرنہ آمت کہ عبادت کریو اللہ تعالیٰ اس یتھ پاٹھ کہ عبادت زانیو
 خاص تہ سزوار تمس یا ژباقی باطل دنیوی شرکہ کیودنیونشہ یکسو تہ الگ سہدت وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
 الزَّكَاةَ بیہ اوس تمہن حکم کرنہ آمت نماز برپا تھو تک بیہ ما لجز زکوٰۃ ادا کر تک وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ
 یہوی چھو مضبوط تہ محکم ملت یتھ پیٹھ ساری حضرات انبیاء پکان آئے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بے شک یمولو کو اہل کتابو اندرہ انکار کر پیٹھ بر حقس بیہ مشرک
 تمواتن ساری جہنمس اندر خَلِدِينَ فِيهَا یتہ تمہن ہمیشہ روزن چھو اُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ یے لو کہ
 کیا گئے ساری مخلوق اندرہ بدتر إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بے شک یمو
 لو کو ایمان اون خدا پس تہ تہمدس پیٹھ برس بیہ یمن چیزن ایمان انن لازم چھو۔ بیہ کر کیکھ رثہ عملہ تے
 لو کہ کیا گئے ساروی مخلوق اندر بہتر جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مَزُورَةٌ جَزَا
 تہوند چھو تہمدس پرودگارس نشہ تمہن جنت یمو یمن کن کولہ پکان آسن۔ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا تے جنتن
 منز روزن تم ہمیشہ ابد الآباد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ تعالیٰ روزہ تمہن نشہ راضی۔ تم روزن

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٤

اللہ تعالیٰ اس نشہ خوش تہ راضی ذلک لمن خشی ربہ یہ جنت تہ یہ رضامندی ہیوند خلعت ییہ تس عطا کرنہ بس پنہ نس خدایس کھوژان آسہ یعنی یہ تھود مقام ییہ نہ عطا کرنہ مگر تس بس پنہ نس پروردگارہ سزہ بیزاری کھوژان آسہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②
 وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④ بِأَنَّ
 رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا


إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۱۔ ایلہ زمین پہنہ نہ ذاتی سخت حرکتہ سیت الراونہ پیہ۔ یمہ کہ صدمہ سیت
 کانہ عمارتہ کانہ کوباہ کانہ کلہ زمینس پیٹھہ باقی روزہ نہ ساری بیرہ تہ تھڑ رسپدن برابر تہ ہمواریو تھ
 محشرک میدان لوکن ہندہ سمنہ خیطرہ صاف سپدہ۔ یہ سپدہ یلہ پوغس منز دوئم پھو کہ دنہ پیہ
 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۲۔ ایلہ زمین پنن ساری گوب گوب چیز نمبر دیہ دارت۔ مثلاً انسان یاسون تہ
 روپیہ۔ وغیرہ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۳۔ یہ حالت وچھت گزہ صن کافر انسان حیران دپنہ لگن۔ تھ
 زمینس کیاہ سناگدریو یہ بوت بونیول کیاہہ آو آتم اندریم چیز کیاہ سنازہ دتن نبردات یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ
 أَخْبَارَهَا ۴۔ تمہ دودہ ونہ زمین پہنہ نہ سارے رزہ تہ پچھ خبرہ۔ تم سارے واقعات یم بنی آدمن یعنی
 انسان ہندہ اتھ زمینس پٹھہ واقع سپدمت آسن مثلاً زمین دیہ بیان کہ فلاں شخصن پتر مہ پیٹھہ نماز
 فلاں شخصن کمر مہ پیٹھہ ڈور۔ فلاں شخصن کمر مہ پٹھہ زنا۔ فلاں شخصن کمر مہ پیٹھہ خون ناحق وغیرہ وغیرہ
 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۵۔ کیاہہ تس زمینس آسہ تہوند پروردگارن۔ ہوی حکم کرمٹ۔ یعنی از کہ زمانہ کہ
 اصطلاحہ موجب بوز تہ ڈہ تھہ پاٹھ کہ یمہ یمہ کامہ لوک اتھ زمینس پیٹھہ کران چھ رزہ یا پچھ تمن

سارنی کامین ہیوند رکارڈ چھونا برنہ یوان زمینس اندرتے، رکارڈ چھ موجود تہ محفوظ تھوانہ یوان۔
 قیامتک دوہ ین تے رکارڈ مٹرا ونہ۔ زمینس منز پھو اللہ تعالیٰ ان اکھ مادہ تہ اکھ مسالہ پیدہ کرمٹ لئس
 مسالہ مصورین (فوٹو گرافر) شیش مٹھتھہ تصویر تیلان چھو سو مسالہ چھو پورہ پورا تھ زمینس منز

اعمالهم ۶) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

موجود۔ لہذا تمہ زینس پیٹھ بس شخصہا کا نہ کاماہ چھو کر ان خدایہ سدہ حُکمہ سیت پچھ صحیح صورت شکل تہ (فوٹو) زینس اندر خود بخود تھان۔ تمے رکارڈ تہ تمے تصویرین بطور شہادت قیامتک دوه پیش کرنہ۔ چنانچہ حدیث شریف چھو صحیح ترمذی وغیرہ کتب حدیث اندر کہ یم شخصن زینس پیٹھ کا نہ رثیا پچھ عملہ کر مژ آسہ زمین دیہ تہ گواہی خدا بس بروٹھ کنہ۔ یَوْمَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ تہ دوه نیرن واپس مختلف جماثر حساب د تھ مختلف جاين گُن نیکو کار با ایمان گوہن جنس گُن کافر تہ مُشْرکین و اتاودہ نہ جہنم گُن یو تھ ساری پنہ نین عملن ہیوند پھل تکل فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ پس بس شخصہا اکس ذرس برابر دنیا س اندر رث کو مہ کرہ تھ تہ لبہ سو آخرتس اندر۔ بیہ بس شخصہا اکس ذرس برابر بدی کرہ دنیا س اندر تھ تہ لبہ سو آخرتس اندر۔ بشرطیکہ سونکی یا بدی آسہ تھ و قس تان باقی ورنہ ہر گہ نیکی تہندہ گھرہ سیت ختم آسہ گمہ۔ یا آسہ ایمان و توبہ سیت سہ بدی یا شر زائل سپد مت تلہ چھ بدل تھ، تلہ آسنہ سو خیر خیر رود مت۔ سو شر رود مت۔



سُورَةُ الْعَادِيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَالْعَدِيَّتِ صُبْحًا ① وَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ② وَالْمُغِيرَتِ صُبْحًا ③
 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ④ فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ⑤ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
 لَكَنُودٌ ⑥ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ⑦ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ⑧
 أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ⑨ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ⑩
 إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ⑪

وَالْعَدِيَّتِ صُبْحًا قسم چھو تمس گرں ہوں دین دور تلمنہ وزہ پھر ک کھسان چھو وَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا تو پتہ چھو قسم تمس گرں ہوں دیم کنین پیٹھ نعل دار پڈر تراونہ سیت رہہ تراوان چھہ وَالْمُغِيرَتِ صُبْحًا تو پتہ چھو قسم تمس گرں ہوں دیم صکے لگاہ چھہ دشمن پیٹھ واتھہ پوان، توپہ چھہ تمس لوٹ تہ غارت کران فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا بیہ یم گرتہ ساتہ گردو غبار چھہ تکان فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا توپتہ چھہ تمی وقتہ دشمن ہندس جماعتس تہ لشکرہ منز اثران۔ یمن قسمن ہوں دجو اب چھو یعنی یم قسم آئی ہاونہ تھہ کتھہ پیٹھ کہہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ پزپاٹھ یہ کافر انسان چھو پنہ نس خدا یہ سزنا شکری کران وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ بیہ چھو بے شک یہ انسان پانہ تھہ پیٹھ مطلع تہ گواہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بیہ چھو بیشک یہ انسان مالہ کس محبتس اندر سیٹھاہ مضبوط تمی چھہ کتہ تہ درمٹھ یوان مالکس محبتس اندر چھو تو تھہ ہڈمت غرق گوتمت کہ منعم حقیقی سزہ نعمو چھہ بوزنی یوان أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیاسنا امس انسانس چھنا سو وقت ژتسی یمہ وقتہ قبر و منزہ پریشٹھ کڈنہ بیہ تہ سو روی یہ تھہ منز آسہ مردہ وغیرہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ بیہ آیہ نسر اونہ تہ سو روی یہ یمن تہ دل منز آسہ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ پزپاٹ تھوں د پروردگار آسہ تمہ دوه تھندن سارنی حالاتن پیٹھ بانجر تہ پور واقف سو دیہ تمس سو بدلہ یس تمس شوہ۔

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 الْقَارِعَةُ ① مَا الْقَارِعَةُ ② وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ③
 يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ④ وَتَكُونُ الْجِبَالُ
 كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ⑤ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ⑥ فَهُوَ
 فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ⑦ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑧ فَأُمُّهُ
 هَاوِيَةٌ ⑨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ⑩ نَارُ حَامِيَةٍ ⑪

الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ قیامت یوسہ ژیب وین چھ دلن ہیبتہ سیت یوسہ زربا وہ وین چھ کنن خطرناک کرکیو سیت۔ ژہ کیا ونے بوسودوہ کوتاہ مشکل چھو وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ کوه چیز زانراوی ژہ کہ کوتاہ خطرناک چھو سو قیامتک دوہ یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ یمہ دوہ لوک آسن بھھکرنہ آمت پونپر ہی۔ تھہ پانٹھ پونپر چھہ انہ گھہ منزناہ کس گاشش کن سمت یوان توپتہ تھہ نارس منزپان زالان تھہ پانٹھ آسن کافر تہ نافرمان لوک جھنمس منز دزنہ خیطرہ ولس پوان وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ بیہ آسن کوه دونہ نہ آمت پھبپ ہی۔ یوتان نہ تم تہہ زمینس سیت ذبہ بہن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس سمسین نیکن ہوند پوترگوب لکھ یعنی سو آسہ باایمان فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ سوواتہ تسلی بخش آرامس اندر وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وین سمسین نیکن ہوند پوترگوب لکھ یعنی سو آسہ کافر فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تمسدہ روزہ نچ جای آسہ ہاویہ یعنی جھنمک بینوم طبقہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ژہ کوه چیز زانراوی سو ہاویہ کیاہ چھو نَارُ حَامِيَةٍ سو چھو گرم کرنہ آمت نار۔ نار چھو گرمے مگر آسہ بیہ گرم کرنہ آمت۔ بیہ نار، زن نہ آسن تھہ نسبت گرمی۔




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۱ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۲ كَلَّا سَوْفَ
 تَعْلَمُونَ ۳ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۴ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ
 الْيَقِينِ ۵ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۶ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۷

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ دنیوی سامانں پیٹھ فخر کرن گروہ توہیہ غافل آخرتہ نشہ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
 یوتان توہیہ واتوقبرن منز کلا یم دنیوی چیز چھنہ ہرگز قابل فخر، یمو چیز وسیت گھنہ تھن ہرگز بیہ
 چھونہ آخرت ہرگز مشراونس نہ انکارس قابل سَوْفَ تَعْلَمُونَ توه سپدہ جلدی قبرن منزواتہ ونوی
 سوروی معلوم ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ بیہ چھسوونان کہ یم چیز ہرگز تھکنس قابل چھنہ آخرت
 غفلتس نہ انکار کرنس قابل چھونہ توہیہ سپدہ برونٹھ پین جلدی معلوم۔ یدہ قبر و منزہ نیرت میدان
 محشرس منزواتیو کلا تریمہ پھرہ چھسو بیہ توه موجه کران کہ یم دنیوی چیز تھکنس نہ فخر کرنس
 قابل چھنہ آخرت قابل غفلت وانکار چھونہ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ہر گاہ توہیہ لوک یمہ کتھ پور
 زامہیو علم الیقینہ پاٹھ صحیح دلیلو سیت یمن دلین ہنز متابعت کرن لازمی آس تلہ سپدہ ہونہ فخر و مباہاتس
 اندر مشغول سبت آخرتہ نشہ غافل تہ بے پروا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ قسم خدا توہیہ و چھون ضرور
 آخرتس اندر نار جہنم ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ توپتہ چھسو بیہ تاکیدہ خیطرہ فرماوان قسم ہاوت کہ
 توہیہ و چھو ضرور نار جہنم یقینہ چہ نظرہ بلاشک و تردد ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ توپتہ بیہ تمہ
 دوہ توہیہ سارنی پرژھنہ نعمن ہونہ۔ حدیث شریف چھو بروایت طبرانی بیہ ابن حبان رحمہما اللہ۔ از
 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماوک امہ دوہ آئے دوپہرہ کہ وقت سخت گرمی اندر
 حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبولیس اندر۔ توپتہ یوز حضرت عمرن تم تہ آئے ابو بکر صدیقن پروژہ

ثُمَّ لَسْتُمْ لَنَا يَوْمَئِذٍ مِنَ الْعَامِلِينَ ۝

عمر فاروقس۔ بیتھ گرمی اندر کم حض چیزن کڈوہ تہہ گرہ منزہ۔ تمو فر موس بو کڈسنہ کونہ چیزن بوچھ ہند سختی وراى۔ تمو فر موس قسم خدا بو تہ در اس گرہ منز بوچھ ہندہ سختی سبہ بے یم آس پانوان کتھے کران اتی اون تشریف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموتہ پروژہ یمن دون صاحبن توہیہ کتھہ پاٹھ دراوہ گرو منزہ بیتھ تاپہ کرایہ اندر، تمو کرہک عرض ایس حض محض بوچھ ہنز سختی تمو فر مووک قسم چھومہ تس پروردگارہ سند تسم اتھ میون روح چٹھو بو تہ کڈس نہ کونہ چیزن بوچھ وراى۔ توپتہ آئے تر شوے صاحب حضرت ابو ایوب انصاری سند گرہ تمو کر کہ پیش خضر کلک اکھ شانہ، بیتھ منز پرت قسمک خضر آس۔ بیہ اونن آب سرد۔ بیہ اونن بوز تھ ماز۔ ای ساتہ فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ النعمیم الذی تستلون عنہ یعنی یہ کیاہ گیہ سہ نعمت یوک توہہ پرژہنہ لیہ یہ کتھ گذریہ یمن صحابہ صہن سخت دشوار توپتہ فرماوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم إذا أصبتم مثل هذا وضربتم بایديکم یلہ توہہ یژہ نعمتھاہ واتان آسہ توپتہ آسیوسر کھیوان تمہ ساتہ گڑھہ پرون تہوند بسم اللہ یلہ توہ کتھ سیر سپدان آسیو توپتہ گڑھہ تہوند پرن الحمد لله الذی اشبعنا وانعم علینا وافضل حمد یونین تس پروردگار س یمہ اسہ نعمت عطا کر سوی کرن رژ نعمت عطا فان هذا کفاف هذا اکی پرن چھوامہ نعمتک بدلہ۔






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

سورہ والضحیٰ کس تمہیدس اندر یمن ضروری تھن ہونذکر کرنہ آو۔ تمواندرہ چھہ اکھہ تھہ کہ پنن عمر گڑھنہ ضالیج کرن بے ہودہ کامن اندر۔ بلکہ گڑھہ عمر صرف کرن طاعات و نیکن اندر۔ وَالْعَصْرِ عصر چھہ ونان زمانس یعنی قسم چھو زمانک یتھہ منز انسانہ سنز عمر تہ داخل چھہ یتھہ عمرہ اندر سو تحصیل کمالات و سعادات کرت ہکان چھو گویا یہ عمر چھہ تہندہ خیطرہ بے بہا متاعاہ۔ یا چھو قسم عصر کہ و تچہ نمازہ ہوندہ کیا زہ تھہ فر مو اللہ تعالیٰ ان صلوة الوسطی چنانچہ حدیث شریفس منز چھو صلوة و وسطی گیہ دگر نماز بیس حدیث شریفس منز چھو امت یس اکس نماز دیگر فوت سپدہ تہ پر نک موقعہ ایسہ تمس چھو تیوت نقصان و اتان زن تمس اہل و عیال تہ مال و دولتس لوٹ کرنہ آو۔ یہ قسم چھو یتھہ تھہ پٹھہ کہ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ہز پاتھہ یہ انسان چھو عمر پنن ضالیج کرنہ کہ وجہ ہڈس نقصانس اندر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر یو لو کو ایمان اون تہ یقین کور بیہ کر کیہ رتھہ عملہ و تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ و تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بیہ کر کہ اکھ اکس وصیت پزس اعتقادس تہ پزس دینس پٹھہ قائم روزنج بیہ کر کہ اکھ اکس وصیت صبرنج یعنی رتھن اعمالن پیٹھہ پابندی کرننج دین اسلام لوکن و اتاونس اندر محنت تہ مشقن پٹھہ صبر کرننج۔ یعنی انسانس چھہ نقصانہ نشہ چنہ خیطرہ ژون تھن ہنز ضرورت اکھ گڑھہ خداور رسول خداس پیٹھہ ایمان ان۔ بیہ گڑھہ تہندین ارشاداتن تہ ہدایاتن پیٹھہ بیہ تہندین وعدن پیٹھہ اودہ تم دنیاوس متعلق آستن یا آخرتس متعلق آستن یقین کرن۔ دو نم گڑھہنہ امہ یقینک اثر دل و دماغسی تان تھاون بلکہ گڑھہنہ امہ یقینک اثر اعضاوتہ تانوسیت تہ ظاہر کرن بلکہ گڑھہ امسنز عملی زندگی آسن امندہ دلکہ ایمانک آئینہ۔ تریوم امند گڑھہنہ خاص پنہ نہ ذاتہ کسی اصلاح و فلاس پیٹھہ قعات کرن، بلکہ گڑھہ قوم و ملتک اجتماعی مفاد پیش نظر تھاون۔ یلہ زہ مسلمان پانہ وان ملاقات کرن تہوندر گڑھہ پنہ

وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ۗ ۝۴

نہ قول و فعل سیت پزس دینس تہ پرتھہ معاملس متعلق پزرتہ صداقت اختیار کرنک تاکید کرن ژورم گو پرت آکسز گزٹھہ بیس شخصس بیہ نصیحت تہ وصیت کرن کہ پزہ کس معاملس تہ شخصی یا قومی اصلاح چہ و تہ اندر یم تکلیف تہ یمہ سختی تہ دشواری پیش ین۔ یا خلاف طبیعت پیہ بعضے چیزن پیٹھہ تحمل کرن تمن پیٹھہ گزٹھہ صبر و استقامہ سیت کوم بین۔ کونہ صورتس اندر گزٹھہہ نیکن گن پاد پوت پھیرن تہ سست سپدن۔ یم خوش قسمت لوک ژون صفقن ہند جامع آسن۔ پانہ کامل آستھہ بین لوکن کامل بناونچ کوشش کرن تہوندناوروزہ ہمیشہ وجودہ کس دفترس اندر موجود تہند آثار روزن بطور باقیات الصالحات تہندس اجر و ثوابس ہمیشہ ترقی دیوان۔ حقیقتس اندر چھویہ مختصر تہ لوکٹ سورہ شریفہ مگر ساری دین و حکمتک خلاصہ تہ جوہر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آس فرماوان کہ ہر گہ ساری قرآن مجیدہ اندرہ یہوی اکھ سورہ شریفہ پرنہ بیہ ہا۔ تہ عاقل دانائہ سمجھ دار بدن ہندہ ہدایہ خیطرہ اوس یہوی اکھ سورہ شریفہ کافی۔ بزرگان دین سلف صالحین آس پانہ وان ملاقاتہ وزہ اکھ اکس یہ سورہ شریفہ بوزناوان





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۱ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۲
 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۳ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۴ وَمَا
 أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۵ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ۶ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
 الْأَفْدَةِ ۷ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۸ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۹

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ویل ہے انفسوس تس شخصہ سہہ خیطرہ ہئس عیب پھران آسہ ہئس غیبت کران ہے
 طعنہ دوران آسہ ۱ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ہئس غایت درجہ طامع ہے حریص آسہ تھی اسہ مال جمع
 کران سوی آسہ گرہ گرہ گزیر گزیر تھاوان۔ تمسندیہ کرنہ اندر چھو معلوم سپدان کہ یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
 أَخْلَدَهُ سوہ چھو گمانہ کران ہے خیال تھاوان کہ یہ اسندمال پوشناوہ اس یعنی زندہ تھاویس ہمیشہ کَلَّا ہے
 بنہ نہ ہر گز نہ روزہ یہ شخص نہ روزہ اسندیہ مال دولت لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ قسم خدا سو آویہ دارت دنہ
 ژھہ تراوہ وئس ہے کوچہ کوچہ کرہ وئس نارس اندر وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ توہہ کوہ چیز زانراوہ سو کوچہ
 کوچہ کرہ ون نار کیاہ گو۔ بوزیواس کرہہ بیان نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْدَةِ سوہ چھو خدا یہ
 سُنْد سوی نار ہئس تہندہ حمہ زانہ آمت چھو ہئس نار بدن سیت لہہ ونوی دلن پیٹھ اثر کرہ ۱ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ
 مُّوَصَّدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ پزپاٹھ سونار آسہ تمہن پیٹھ ٹھانڈنہ آمت۔ تمیک دروازہ آسن بند کرنہ
 آمت یہ اندر نہ نیر تھے ہنہ نہ زانہ تمے آسن گنڈ پھرت تھاوانہ آمت نارہ کین ز میٹھن تھن سیت





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمُتَرَكِّيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ

حشکس پادشاہ سندھ طرفہ اوس سمنس اندراکھ حاکم تس اوس ابرہہ ناو سواوس عیسائی، تھی اوس سمنس منز بمقام صنعاء اکھ کینہہ یعنی عیسائین ہوند اکھ گر جا اکھ بناومت۔ یتھ بے شمار ہارہ گامرہہ آسن یتھ متصل راحتک اراکھ تہ دلکشی ہند سامانہ آسن مہیا کرمت یو تھ تھی سیت لوکن ہند دل تھ کن راغب سدن تہ مکہ کس کعبس پر ژھنہ کلانہ تہ تمس اوس خیال کہ یتھ پاٹھ لوک چھ خانہ کعبہ کہ زیارتہ خطیرہ گودھان یتھ پاٹھ گوڑہ لوکن ہوند یہہ گر جہ خطیرہ تہ یون۔ چنانچہ برت طرفہ کرہ ناؤن امیوک اعلان عربہ کن لوکن خصوصاً قریشن گو یہ سیٹھاہ ناگوار۔ توپتہ آوکوہ تان فخص تم کور راتھ کیوت اتھ گرجس منز ناپاکی۔ بیس روایتس منز چھو کہ اتھ متصل آو نارزانہ نارووت ہوا کہ ذریعہ اتھ گرجس تان تہ یہہ گر جہ دود سوروی اتھ پیٹھ دود ابرہہ۔ تمس گڈن نار۔ تمس کھوت سخت غصہ، سو آوبڈ لشکر ہمت یتھ لشکرہ سیت ہست تہ آس شامل خانہ کعبہ مہدم کرنے خطیرہ یلہ سو بمقام خمس دوت تہ پیٹھ سوزن عبدالمطلبس بس تہ وقتہ ریش مکہ اوس پیغام کہ بو پھس نہ جنگ کرنے آمت بلکہ پھس بو صرف کعبہ مہدم کرنے خطیرہ پکان۔ ہرگہ کانہہ شخصہ تھ اندر مہ مزاحمت کرہ البتہ تس سیت کرہ بو ضرور جنگ۔ عبدالمطلبس سوزس جواب اتھ گرس تہ چھ کانہہ مالکاہ سو کرہ پائے امہ گرج حفاظت توپتہ سوزن بیہ عبدالمطلبس ملاقات کرنک پیغام زبان تہ سپدای قسمک گفتگو۔ تمس نشہ واپس بیت نی عبدالمطلبس ساری قریش توپتہ کھت تم کو ہن پٹھ پان پنن پچاوانہ خطیرہ امہ لشکرہ ہندہ شرہ نشہ، توپتہ آو ابرہہ فوج بیھ مکس کن یلہ تم وادئ محرس منز بس میدان مزد لفس نزدیک چھو۔ سمندرہ کہ طرفہ آئے سبز تہ زرد جانور کینہہ، کو ترن ہندہ خوتہ لوکٹ، تھے آس پنجن تہ تو تھن منز مسور پھلن تہ چنہ پھلن برابر کنہ پھل تھے ہتھ تراون اتھ لشکرہ پیٹھ۔ خدایہ سزہ قدر تہ سیت اوس یہوی کنہ پھول لگانا یمن گولین ہند پاٹھ۔ بس لگان اوس سوی اوس تھے گلان تہ

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝۵ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝۶
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝۷ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ ۝۸

ہلاک سپدان۔ بعضے لوک ژل تم تہ گئے جیو جیو بیمار یوسیت ہلاک تہ تباہ۔ یہ واقعہ چھو سپد مت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ تولد سپدنہ بروٹھ پترہ دودہ یہ واقعہ سپد مت ماہ محرمہ کس اخیر س اندرامہ پتہ چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کس ابتدا س اندر تولد سپد مت بعضے راوی چھ فرماوان تمی شبہ سپد تولد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفَيْلِ كَيْفَا تُوُه چھنا معلوم کہ تھونڈ پروردگارن کیاہ معاملہ کرہست والین سیت توہیہ زانوہ کیوتھ قدرتہ وول چھو تھونڈ پروردگار اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کیا تھونڈ تدبیر نئس کعبہ شریفک لورہ نس تہ منہدم کرہ نس متعلق اوس سوگرتا اللہ تعالیٰ ان بیکار تہ غلط وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ سوزن تمں پیٹھ جانور فوجو فوجو تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تمے جانور آس تراوان تمں ہست والین پیٹھ کنہ پھل یم دراصل مڑہ پھل آس کنہ پھل ہی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ پس کتر تم اللہ تعالیٰ ان ژاپنہ آمت گاسہ ہی یعنی تباہ و برباد۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝^۱ الْفِهِمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝^۲ فَلْيَعْبُدُوا
 رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝^۳ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝^۴

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ای مخاطب تعجب کر قریش ہندہ ملہ تارک تہ باہمی الفتح الْفِهِمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ خصوصاً چھو تہوند باہمی الفت وند کس تہ رتہ کالہ کس سفر س اندر۔ وندس اندر چھہ تم سفر کران تمس گن، رتہ کالس چھہ سفر کران شامس گن۔ یمن دون جاین چھہ یم قریش تجارت کران یمن دوشوین ملکن ہند لوک آس یمن سیٹھاہ تعظیم و تکریم کران کعبہ شریفک ہمسایہ تہ خادم آسنہ موکھ تمں یلہ یہ سو روی تعظیم و تکریم چھو امی کعبہ شریفہ کہ برکتہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس کرن تم امہ عظیم الشان گرہ کس مالکہ سز عبادت بت پرستی نشہ روزن دور الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ یم مالکن یمن طعام عطا کور بوچھ وزہ، بیہ یم امن و امان دیوتک خوفہ نشہ کس اندر اوس نہ غلہ پیدہ سپدان کینہہ تہ، تمہ موکھ آس اتک لوک قریش و رہس اندر تجارتہ خیطرہ دوویہ پھرہ سفر کران۔ گرمی اندر شامس گن۔ سردی اندر تمس گن۔ تمں ملکن ہند لوک آس یمن اہل حرم بیہ خادم بیت اللہ آسنہ موکھ سٹھاہ تعظیم کران۔ یہندہ جان و مالچ حفاظت کران و تہ تہ اوسنہ کونہ جایہ یہندس مالس کانہ اکھ تعرض کران۔ نفع تہ اوس یمن کافی حاصل سپدان۔ باقی و قس آس یم قریش آرام و عیشہ سان زندگی بسر کران۔ تہ سورس منز چھو امی واقعک ذکر۔






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ① فذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ② وَ لَا يُحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ③ قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ④ الَّذِينَ هُمْ عَنْ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ کیا تو بہہ و چھوونہ سو شخص نُس جزاء کس دوہس اپز زانان چھو۔ ہر گہ توہہ
 تسمد حال بوزن یرھان چھوہ تلہ بوز بو فذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ سو گوی سوی شخص نُس یتیمس دکہ
 دیوان چھو وَلَا يُحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ بیہ چھوونہ مسکینس طعام دنوک ترغیب بیئس تہ کران یعنی نہ
 پانہ مسکینس کھیوان نہ چھو بیئس کھیوانک ترغیب دوان یلہ بندہ سند حق ضائع کرن یوت بیچہ چھو تہ
 خدایہ سند حق ضائع کرن کوتاہ زیادہ بیچہ گڑھ آسن اوانہ کرنہ خیطرہ قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ
 صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ پس امہ اندر سپد ثابت کہ اتھن نماز پرہ و نین ہندہ خیطرہ چھو بوڈا فسوس تہ خرابی
 یم پنہ نہ نمازہ نشہ غافل سپدان چھہ، دنیوی کامین اندر مشغول سپدت ہجھک نہ نماز پران یادی روزان تم
 ہجھنہ زانان بیہ پران کیاہ قصہ چھو۔ امہ نمازہ اندرہ کیاہ مقصود چھو۔ بیہ نماز چھہ پنہ نس مانکس تہ آغس
 بروٹھ کنہ ہن مطالبات پیش کرن۔ بیہ نماز گڑھ نہایت اہتمامہ سان تہ وقتہ چہ پابندی سان پران۔ یم
 یم وقت مولان مقرر کر مت چھہ تمن وقتن پٹھ حاضر سپدت بکمال خشوع و خضوع بیہ نماز اکران چھو
 لازم مگر یم لوک بیچن نماز دنیا کیلن کامین سیت مشغول سپدت زانت کرت وقت ضائع کرن آخر وقتس
 پیٹھ دگہ دارہ و تھا بیٹھی ہند پائٹھ ادا چھہ کران تہندی خیطرہ چھو بوڈو ویل تہ افسوس الَّذِينَ هُمْ بِرَأْوُونَ یم
 لوک نمازہ ہنز کیاہ چھہ کتھے سارے عملہ لوکن ہاونہ خیطرہ کمران چھہ وَيَتَنَعَوْنَ الْمَاعُونَ بیہ ہم
 ملس اندر خدایہ سند حق ادا ہجھنہ کران یعنی زکوٰۃ ہجھنہ دیوان چونکہ اتھ اندر چھوونہ کونہ قسم اظہار تہ
 موکھ چھہ بیہ لوتہ پاٹھی کھیوان۔ بخلاف نماز چونکہ اتھ اندر چھو نمودو نمائش، تہ موکھ چھہ کونہ وقتہ

صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۱۰۷ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۱۰۸ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۱۰۹

پران کونہ وقتہ ترک کران بعضے مفسر و فرمود کہ ماعون گئے معمولی استعمالی چیز، تم نہ چھنہ اکھ اکس عارضی پاٹھ نہ پڑھ پاٹھ دیوان۔ سو گوئو کہ ہیور ز ہش۔ دیگیہ ہیو۔ پتلہ ہیو مکہ ہش۔ یاسون نہ پنہ داو ہش یمن ہندہ اورہ یوردنک دنیا س اندر پڑھ پاٹھ دنک عام رواج چھو۔ دین یمن لوک ہندہ ٹٹلگ نہ خشک حال امہ قسمک آسہ تہندہ حقہ کیا فائدہ چھو ریاکاری ہنزہ نمازہ ہیوند۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝۱ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ ۝۲ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝۳

یہ سورہ شریفک شان نزول پھوک کہ حضرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیوند زیوٹھ ہیو فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ یل یہ عالم گئے مکہ کیو کافرو خصوصاً عاص بن وائلن دوپ حضرت محمدہ سُنْد نسل سُوْدُوْن منقطع۔ تم سپد (نعوذ باللہ) ابتر۔ یعنی بے نام و نشان مطلب اوس تمہ اندرہ کہ وُوْن چھوامہ یہندہ دینگ چرچہ کسی کالس تان۔ اتی سپد نازل یہ سورہ شریفہ تمہے کافرن ہندہ تردیدہ خیطرہ **إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ** تحقیق اسہ کر توه عطایا رسول اللہ خیر کثیر۔ یعنی سیٹھاہ خیر۔ دنیاہ ک خیر تہ یعنی دینگ باقی روزن اسلامک سیٹھاہ ترقی لبن بیہ آخر تک خیر یعنی قُرْبُک تھد مرتبہ تہ تھد درجہ ہر گہ اکھ فرزند تہوند یہ عالمہ گویتھ پیٹھ تہوند دشمن خوش چھ سپد مت مگر توه مہ سپد یو تمہ سیت غم گین تہ ناخوش، کیا زہ اسہ کر توه تمہ خوتہ بہتر فضل تہ نعت عطایتھ نہ نہایتھ چھ کونہ بیہ کر اسہ عطا توه حوض کوثر آخرتس اندر اکھ تلاواہ تھ متعلق حدیث شریف چھو متفق علیہ فرمود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حَوْضِ مَسِيرَةِ شَهْرِ مِیوْن حَوْضِ چھوا کہ رتہ کس مساقس برابر ذواہ سواہ تمہی اند تہ کنارہ چھہ برابر پرت طرفہ ماوہ اَبِیْضُ مِنَ اللَّبْنِ وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْرَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ آبِ تَمِيْكَ چھو دودھ خوتہ زیادہ سفید۔ نافہ خوتہ یرخو شبو۔ تمیک لوٹھ چھہ تیت ایت آسمانک ستارہ مَن يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا لِسِ اَکْهَاءِ تَمِيْكَ آبِ چہ تیس لکھ نہ زانہ تہ تریش **فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ** پس یمن نعمن ہندس شکرس اندر پر یو توبہ نماز محض پنہ نس پروردگارہ سندہ خیطرہ۔ کیا زہ بجن نعمن ہندس شکرس اندر گزھہ بڈ عبادت ادا کرن سو بڈ عبادت گیہ نماز۔ تکمیل شکرہ خیطرہ گزھہ اتھہ بدنی عبادتس یعنی نمازہ سیت مالی عبادت تہ کرن سو گو قربان کرن **إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ** پڑاٹھہ تہوند دشمن چھوا بتر، لٹ ٹوٹ یعنی بے نام و نشان کیا زہ تم چھو معبود برحقس ورا ی بین چیزن ہنز عبادت تہ پرستش کران۔ بیہ چھہ تیس ورا ی بین مخلوقن بڈن ناوَن پٹھ تہند قرب تہ نزدیکی حاصل کرنہ خیطرہ ذن تہ قربان وغیرہ کران۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝۲
 وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝۴ وَلَا
 أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝۶


سبب نزول چھویمہ سورہ شریفک کہ اکہ دوہ آی کہنہ اشخاص کافرن ہند زٹھ زٹھ نبی کریم نشہ تموے کوز عرض چٹھنا صلاح توبہ کریو سانین معبودن ہنز عبادت اس تہ کرو تہندس معبودہ سنز عبادت اس تہ توبہ کرو مشترکہ دین قائم۔ اتھ منزئیس روت تہ جان طریقہ آسہ تمبوک فائدہ وایتہ توبہ تہ آسہ تہ۔ اتھ موقعس پٹھ سپد یہ سورہ شریفہ نازل قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ فرمایو کہ توه یار سول اللہ ای کافرو میون تہ تہوند طریقہ بیکنہ کٹوی سپد تہ بوہٹھنہ عبادت کران تہوندن معبودن ہنز۔ ون کنس تہ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ نہ چھوہ توه عبادت کران مینس معبودہ سنز وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ نہ ہیکنہ یہ آئندہ زانہ بنت کہ بو کیا کرہ عبادت تہندین معبودن ہنز نہ بنت تہ کہ توه کیا کریو عبادت مینس معبودہ سنز۔ یعنی بو ہیکنہ نہ موحد آتھ خدائیس شرک انتھ زانہ۔ نہ ہیکیو توه مشرک آتھ موحد بنت زانہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ توه تہ پنون دین متہ پنون دین۔ توه تہ پنون بدلہ تہ عوض متہ پنون بدلہ تہ عوض۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝^۱ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ
 اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝^۲ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝^۳

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ یلہ خدایہ سند مدد تہ فتح مکہ پنہ نیو آثار و تہ نتا بجز سان توه ووت تہ حاصل سپد۔
 تمیک آثار یم تہ پیٹھ مرتب سپدہ ون چھ تم گے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ بیہ
 یلہ وچھیوک توه خدایہ سندس دینس یعنی اسلامس اندر لوک داخل سپدان فوجو فوجو تہ ساتہ زانیو توه
 کہ دنیا س منزروز تک مقصود سپد حاصل۔ بیہ ئس تہندہ پیغمبر بناونہ اندرہ تکمیل دین مقصود اوس تہ
 سپد مکمل وون چھو سفر آخرت قریب لہذا کریو توه حج تیاری فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ پس آسیون
 توه پون پروردگار منزہ تہ پاک زانان بیہ آسیوتس حمد پان۔ بیہ آسیوتس مغفرت منگان پنہ نہ خیطرہ
 بیہ پنھن اتین ہندہ خیطرہ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝ بے شک سوچھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ ون۔






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ② سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذَا تَ لَهَبٍ ③ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ

یہ سورہ شریفک شان نزول چھو کہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٹھہ یہ آیہ کریمہ نازل سپد وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ تم کھت کوه صفاس پٹھہ توه پتہ دنگ سارنی قبیلن آلو ساری یلہ جمع سپد تمن دنگ اسلامس گن دعوت ابو لهب لیس تہوند پتر اوس مگر بدترین دشمن تہ اوس سو لگ ونہ نہ تبالک لسائر الیوم الہذا جمعنا یعنی بر باد گرھہ ژہ کیا ای خیطرہ سو نبر او تھاہ ژہ آیہ س اتی سپد یہ سورہ شریفہ نازل امہ ووهوک جواب دس پانہ اللہ تعالیٰ ان۔ امس ابو لہبس اس زانہ ام جمیل تس تہ اوس سخت حسد تہ عداوت حضرت رسول کریمہ سند چنانچہ سہ اس کنڈ کل جنگلہ منز ژٹت انان تہ اس تمن وتن وہراوان یمو و تونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکن اوس آسان تمنی کنڈ مورن ہوند بور اس سو کبرس پٹھہ ثلث انان تہ اوس ونہ حمالہ الحطب دو شوین متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ابو لہبس پین پانس دو شوے اتھ و سٹھ پانہ گرھن سو بر باد تہ تباہ۔ چنانچہ یہ بد دعا چہو تس پانس، جنگ بدرہ پتہ ستہ دوہہ دراو تس طاعونی پھپھرہ تو پتہ دراو گرہ منز نبر۔ یوتھنہ بیہ کانہہ گرس منز امیوک اثر تہ اتھ حالس منز مود۔ ترن دوھن تان آسنہ بھٹل کانہہ، تر یہ دوہہ اچھہ حبشی مزور تموی دتس ہمہ ثلثو سیت دکہ دکہ، تو پتہ تراو کھ اکس کھوڈس اندر، پٹھہ تراو بس کنہ سیکھ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ کانہہ فاندہ دیوت نہ تس مالن تہند تہ تم مالن لیس سبزمت اوسن تہ تم مالن لیس کمومت اوسن کونہ قسمک مالن ہیوک نہ سو بچاوت ہلاکتہ نشہ یہ گوامند حال دنیا س اندر آخر تس اندر آسہ امند حال کہ سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذَا تَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ سواتہ عنقریب اکس رہہ تراوہ ولس

الْحَطْبُ ۷۷ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۷۸ ع

نارس اندر اکھ پانہ بیہ تہنز آسن، یوسہ کنڈدار زیون تہ مورہ کبرس پیٹھ تلت انان آس، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ تمسندہ گردن منز چھ خضر دلن ہنز و ٹھمز رز۔ اس امسند زانہ آس قیمتی اکھ ختہ مالہ اکھ ہٹس تل، دپان آس سویبے ختہ مال کرن بو خرچ محمدہ سندس مخالفس اندر جہنم اندر تہ آسہ تس نارور ز ہٹس گنڈت۔






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ لَهُ وَلَمْ

اکہ پھرہ پر ژہ مثر کونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن کہ خدایہ سند نسب کیاہ چھو۔ تسد صفت کم چھہ تھہ پٹھہ سُدیہ سورہ شریفہ نازل **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** توہ فرماویو یارسول اللہ یمن لوکن کہ اللہ تعالیٰ چھو گنوی ذاتہ کن تہ صفتوکن۔ نہ پھس ذاتس منز کانہہ شریک نہ صفقن منز تہندہ ذاتک کمال پٹھو کہ سو پٹھو واجب الوجود۔ تہند صفت چھو کہ سو چھو علیم تہ قدر تہ محیط تہ **اللَّهُ الصَّمَدُ** اللہ تعالیٰ چھو تہو تھہ بے نیاز کہ سو چھونہ کانہہ گن محتاج یم تس و رای چھہ تم چھہ تمس گن محتاج پرت چیزس اندر **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُؤَلَدْ** نہ زاس کانہہ نہ زاونہہ **وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** بیہ جھہ تس ہیو کانہہ اکھاہ توحیدہ کین مکران چھہ واریاہ قسم۔ بعضے گے تم یم خدایہ سندس وجودس مکر چھہ۔ بعضے گئے یم تسدس واجب الوجود آسہ نس مکر چھہ۔ بعضے گے تم یم تہندن کمالہ کین صفقن مکر چھہ۔ بعضے گے یم تس عبادتس اندر شریک ٹھہراوان چھہ اتھ فرمود اللہ تعالیٰ ان **اللَّهُ أَحَدٌ** سیت رد بعضے گے تم یم مشرک فی استعانہ چھو یعنی یم تس و رای چھہ بین نشہ یاری تہ مدد ژھانڈان بیہ تمنی پن حاجت منگان۔ تمن پٹھو رد **اللَّهُ الصَّمَدُ** سیت یعنی حاجت گڑھ تس نشہ ژھانڈان بس نہ پان کانہہ گن محتاج آسہ سو پٹھونہ کانہہ تہ تس ذات پاکس و رای تس و رای یم چھہ تم ساری چھہ تس گن محتاج ساری چھہ تس بروٹھ کنہ پنہن پستی تہ عاجزی نراوان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تہ چھو فرماوان **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ** یعنی ای لوکو توہ ساری چھو محتاج اللہ تعالیٰ اس گن پرت وقتہ تہ پرت حالس اندر۔ اللہ تعالیٰ ای پٹھو بے نیاز حاجت آسہ نشہ منزہ تہ پاک۔ حمد پنہ آمت تعریف کرنہ آمت۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آس دعاء کران اللهم إني ضعيف فقوني وإني مريض فاشفني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني یعنی یا اللہ بو پھس کمزور تہ ناتوان ژہ کرم قوت تہ طاقت عطا بو پھس بیمار ژہ کرم شفا عطا۔ بو پھس ذلیل ژہ کرم عزت عطا۔ بو پھس محتاج ژہ کرم حاجت روا۔

يُولَدُ ۳۰ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۴

بوچھس نادار تہ فقیر ژہ کرم رزق عطا بیا کہ جماعت یم تس کورہ تہ نچولا گان چھ تمن چھور دلہ بیلا
 کانہہ نہ زاس سیت یم لوک بعضے بشرن تہ جن پنن معبود چھ زمانان تمن آورد کرنہ وَلَمْ يُولَدُ تہ نہ زاؤ
 کانہہ سیت کیا زہ تم ساری چھ مولود یعنی زامت۔ بیا کہ گو معبود برحق سو چھونہ کانہہ تہ زامت بعضے
 لوکن ہند اعتقاد چھو کہ تس برابر چھو بیہ تہ کانہہ چنانچہ بوسن ہیوند اعتقاد چھو خدا چھ زہ اکھ گویزدان
 بیا کہ گواہر من اکس اتھ چھو خیر تہ بیس اتھ چھو شرمیم دو شوے چھ اکھ اکسد تہ ہی تہ ہمسر۔ اتھ کور
 اللہ تعالیٰ ان رد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سیت یعنی تس ہیو چھہ کانہہ تہ نہ چھو سو کانہہ ہیو۔ غرض چھو
 کہ نہ زاؤ تس کانہہ نہ زاؤ سو کانہہ۔ نہ چھو کانہہ تس ہیونہ چھو سو کانہہ ہیو۔



سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا
 وَقَبَ ۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۵

یہ سورہ بیہ سورہ الناس یمن دوشوین سورہ شریفین ہیوند شان نزول چھو کہ لبید بن اعصم اوس اکھ ساحراہ مدینہ شریفین منزتس آسہ کورہ تہ سحر کرہ ونہ تمی لبید بن اعصم تہ تہنز و کور یوگر سحر تہ جو د نبی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم یمہ کہ اثرہ سیت تمن سخت تکلیف اوس۔ امہ اندرہ اوس اللہ تعالیٰ اس نراون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ساحر ہجھنہ ہرگہ تم ساحر آسہن ہجھنہ پاٹھ دشمن تمن ونان آس۔ تلہ کرہ ہنہ کانہہ ہوند سحر تمن پٹھ اثر۔ کیا زہ یہ تھہ آس تمن سارنی نش مسلم کہ ساحر س پیٹھ ہجھنہ بیٹس ساحرہ سندن سحر اثر کران۔ تو تہ گردعانی کر یمن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سحرک اثر دور گھنہہ خیطرہ منگو کہ دعاء اللہ تعالیٰ ان گرانزل یم زہ سورہ شریفہ۔ بیہ کر تک اطلاع کہ فلین شخصن پٹھو فلین جایہ تہہ فلین چیزس اندر توہ پٹھ سحر کرمت۔ چنانچہ تموسوز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھہ جایہ تہہ آنکھ کہ کیرہ منزہ کڈت اکھ کنگواہ تھہ آس مؤی آمت بند کرنے سوی یلہ ووت در خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموبیت یمن دون سورہ شریفین ہند آیات کریمہ پر ن اکھ اکھ گڈاوس مژرنہ یوان۔ چنانچہ امہ پتہ سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ تکلیفہ نشہ بالکل آزاد۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ توہ آسیویار رسول اللہ پانہ تہ پنے نہ خیطرہ ہ پران بے تہ آسیوکہ بیچھناوان یہ پر ن پناہ چھوس بومنگان صبح کس لبس یعنی لبس راؤ تہنز ہ گٹھ پر اٹھتہ گاش چھو پھولہ راوان سارنے مخلوقاتن ہندہ شرہ نشہ۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ بیہ چھوس خصوصاً پناہ منگان راؤ ہنزہ تاریکی نشہ یلہ سہ و ہراونہ بیہ راؤ اندر چھو شر ن ہوند احتمال ظاہرے وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ بیہ چھوس خصوصاً پناہ منگان تمن زنانن نشہ یمہ پنے گڈن پٹھ پٹھو کہ دوان چھ یعنی سحر کرہ و نین زنانن نشہ۔ مراد چھہ تمواندرہ لبید بن اعصمہ سزہ کورہ۔ یا عام ساحر زنانہ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بیہ پرت حسد کرہ و نس نشہ یلہ سو حسد کرہ۔

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③
 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
 صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تو آسویا رسول اللہ پانہ تہ پران بیہ آسویو کھ لوکھ تہ بیچھناوان پرن بو چھس پناہ منگان لوکن ہندس خدایس مَلِكِ النَّاسِ لوکن ہندس پادشہس إِلَهِ النَّاسِ لوکن ہندس معبود برحقس مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ وسوسہ تراوہ نُس شیطانہ سندہ شرہ نشہ الْخَنَّاسِ نُس یاد خدا کرن وزہ پتھ چھو ژلان الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ نُس شیطان اکثر لوکن ہندن دلن اندر چھو وسوسہ تراوان مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ادہ سووسوسہ تراون وول جن آستن یا انسان قرآن مجیدک ابتداء چھو حرف باء سیت انتہاء چھو حرف سینہ سیت یعنی بسم اللہ ہک بے والناسک سین اتھ چھو بنان لفظ بس۔ بس چھو عربی لفظ لغتہ چن کتابن اندر امیوک معنی فحسب یعنی بیوی۔ امہ اندرہ چھو اشارہ کہ یہ کہیوہا یمن دون حرفن منز چھو کافی لوکن ہندہ خیطرہ بیاکھ اکھ لطیفہ چھو بیتھ سُوْرَس منزتمہ اندرہ ظاہر چھو سپدان قرآن مجیدک حسن آغاز و انجام سوگوای زہ امہ سورہ شریفک مضامین تہ سورہ فاتحک مضامین چھہ پنہ وان متقارب یعنی اکھ اکس سیت رلان چنانچہ رب الناس مناسب چھو رب العالمین ملک الناس مناسب چھو ملک یوم الدین الہ الناس سیت چھو مناسب ایاک نعبد اغوؤس چھو مناسب ایاک نستعینس سیت الوسواس الخناس چھہ مناسب اهدنا اس سیت صدق اللہ مولنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العلمین

رموز اوقاف قرآن مجید

ہر زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے۔ کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں :

○ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول (ت) جو بصورت (ة) لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وقف تام کی علامت ہے یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے، اب (ة) تو نہیں لکھی جاتی۔ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کہتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو تو رک جائیں ورنہ علامت کے مطابق عمل کریں۔


۵ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کو فیمن کے نزدیک آیت ہے۔ وقف کریں تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔

مر یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلاً کسی کو یہ کہنا ہو کہ ”اٹھو۔ مت بیٹھو“ جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہی ہے۔ تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، اگر ٹھہرنا نہ جائے تو ”اٹھو مت۔ بیٹھو“ ہو جائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نہی اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔

ط وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔

ج وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔

- ز علامت وقف مجوز کی ہے۔ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔
- ص علامت وقف مرخص کی ہے۔ یہاں ملا کر پڑنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ (ص) پر ملا کر پڑھنا (ز) کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔
- صلے الوصل اولیٰ کا اختصار ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
- ق قبیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے۔ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔
- صل قدیو صل کا مخفف ہے۔ یہاں ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ بوقت ضرورت وقف کر سکتے ہیں۔
- قف یہ لفظ وقف ہے۔ جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے، جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔
- سکتہ سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے پائے۔
- وقفہ وقفہ لے سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، وقفہ میں زیادہ۔
- لا لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔
- ك كذلك کا مخفف ہے، اس سے مراد ہے کہ جو رمزاں سے پہلی آیت میں آچکی ہے، اس کا حکم اس پر بھی ہے۔
- نہ یہ تین نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کر کے (مع) لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا معانقہ کر رہے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے دوسرے پر نہیں۔ ہاں وقف کرنے میں رموز کی قوت اور ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔



قرآن مجید کن سورن ہند فہرست

شمار پارہ	صفحہ نمبر	سورک نام	شمار ورقہ
۱	۱	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ	۱
۱ - ۲ - ۳	۲	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۲
۳ - ۴	۱۴۱	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۳
۴ - ۵ - ۶	۲۱۳	سُورَةُ النِّسَاءِ	۴
۶ - ۷	۲۸۸	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۵
۸ - ۷	۳۴۵	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۶
۹ - ۸	۴۰۸	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	۷
۱۰ - ۹	۴۸۰	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	۸
۱۱ - ۱۰	۵۰۵	سُورَةُ التَّوْبَةِ	۹
۱۱	۵۵۶	سُورَةُ يُوسُفَ	۱۰
۱۲ - ۱۱	۵۸۹	سُورَةُ هُودَ	۱۱
۱۳ - ۱۲	۶۲۴	سُورَةُ يُوسُفَ	۱۲
۱۳	۶۶۰	سُورَةُ الرَّعْدِ	۱۳
۱۳	۶۷۷	سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ	۱۴
۱۴ - ۱۳	۶۹۲	سُورَةُ الْحِجْرِ	۱۵
۱۴	۷۰۶	سُورَةُ النَّحْلِ	۱۶
۱۵	۷۴۱	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ	۱۷
۱۶ - ۱۵	۷۷۴	سُورَةُ الْكَافِرَاتِ	۱۸
۱۶	۸۰۹	سُورَةُ مَرْيَمَ	۱۹
۱۶	۸۲۸	سُورَةُ طهَ	۲۰
۱۷	۸۵۴	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ	۲۱
۱۷	۸۷۹	سُورَةُ الْحَاجِّ	۲۲
۱۸	۹۰۴	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ	۲۳

شماره پاره	صفحه	سورک نام	شماره
۱۸	۹۲۵	سُورَةُ التَّوْر	۲۳
۱۸ - ۱۹	۹۵۱	سُورَةُ الْفُرْقَان	۲۵
۱۹	۹۷۰	سُورَةُ الشُّعْرَاء	۲۶
۱۹ - ۲۰	۹۹۵	سُورَةُ النَّمل	۲۷
۲۰	۱۰۲۰	سُورَةُ الْقَصَص	۲۸
۲۰ - ۲۱	۱۰۳۹	سُورَةُ الْعنْكَبوت	۲۹
۲۱	۱۰۷۰	سُورَةُ الرُّوم	۳۰
۲۱	۱۰۸۷	سُورَةُ لُقْمَان	۳۱
۲۱	۱۰۹۸	سُورَةُ السَّجْدَة	۳۲
۲۱ - ۲۲	۱۱۰۶	سُورَةُ الْأَحْزَاب	۳۳
۲۲	۱۱۳۳	سُورَةُ سَبَأ	۳۴
۲۲	۱۱۵۱	سُورَةُ قَاطِر	۳۵
۲۲ - ۲۳	۱۱۶۸	سُورَةُ آيَات	۳۶
۲۳	۱۱۸۳	سُورَةُ الصَّافَات	۳۷
۲۳	۱۲۰۱	سُورَةُ ص	۳۸
۲۳ - ۲۴	۱۲۱۷	سُورَةُ الزُّمَر	۳۹
۲۴	۱۲۴۱	سُورَةُ الْمُؤْمِن	۴۰
۲۴ - ۲۵	۱۲۶۴	سُورَةُ حَم السَّجْدَة	۴۱
۲۵	۱۲۸۰	سُورَةُ الشُّورَى	۴۲
۲۵	۱۲۹۸	سُورَةُ الزُّحُف	۴۳
۲۵	۱۳۱۶	سُورَةُ الدُّخَان	۴۴
۲۵	۱۳۲۴	سُورَةُ الْجَاثِيَة	۴۵
۲۶	۱۳۳۴	سُورَةُ الْأَحْقَاف	۴۶
۲۶	۱۳۴۸	سُورَةُ مُحَمَّد	۴۷

شماره پاره	صفحه	سورک نام	شماره
۲۶	۱۳۶۰	سُورَةُ الْفَتْحِ	۴۸
۲۶	۱۳۷۲	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ	۴۹
۲۶	۱۳۸۰	سُورَةُ ق	۵۰
۲۷ - ۲۷	۱۳۸۹	سُورَةُ الذَّارِيَاتِ	۵۱
۲۷	۱۳۹۷	سُورَةُ الطُّورِ	۵۲
۲۷	۱۴۰۴	سُورَةُ النَّجْمِ	۵۳
۲۷	۱۴۱۶	سُورَةُ الْقَمَرِ	۵۴
۲۷	۱۴۲۵	سُورَةُ الرَّحْمَنِ	۵۵
۲۷	۱۴۳۴	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ	۵۶
۲۷	۱۴۴۴	سُورَةُ الْحَدِيدِ	۵۷
۲۸	۱۴۵۸	سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ	۵۸
۲۸	۱۴۶۸	سُورَةُ الْحَشْرِ	۵۹
۲۸	۱۴۸۰	سُورَةُ الْمُتَحَفِّتَةِ	۶۰
۲۸	۱۴۸۹	سُورَةُ الصَّفِّ	۶۱
۲۸	۱۴۹۴	سُورَةُ الْجُمُعَةِ	۶۲
۲۸	۱۴۹۸	سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ	۶۳
۲۸	۱۵۰۳	سُورَةُ التَّغَابُنِ	۶۴
۲۸	۱۵۰۹	سُورَةُ الطَّلَاقِ	۶۵
۲۸	۱۵۱۵	سُورَةُ التَّحْرِيمِ	۶۶
۲۹	۱۵۲۳	سُورَةُ الْمُلْكِ	۶۷
۲۹	۱۵۳۱	سُورَةُ الْقَلَمِ	۶۸
۲۹	۱۵۴۰	سُورَةُ الْحَاقَّةِ	۶۹
۲۹	۱۵۴۷	سُورَةُ الْمَعَارِجِ	۷۰
۲۹	۱۵۵۳	سُورَةُ نُوحٍ	۷۱

شماره پاره	صفحه	سورک نام	شماره
۲۹	۱۵۵۸	سُورَةُ الْجِنِّ	۷۲
۲۹	۱۵۶۵	سُورَةُ الْمَزَّيِّلِ	۷۳
۲۹	۱۵۷۱	سُورَةُ الْمَدَّيْنِ	۷۴
۲۹	۱۵۷۹	سُورَةُ الْقِيَامَةِ	۷۵
۲۹	۱۵۸۵	سُورَةُ الدَّهْرِ	۷۶
۲۹	۱۵۹۲	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ	۷۷
۳۰	۱۵۹۷	سُورَةُ النَّبَاِ	۷۸
۳۰	۱۶۰۱	سُورَةُ النَّازِعَاتِ	۷۹
۳۰	۱۶۰۵	سُورَةُ عَبَسَ	۸۰
۳۰	۱۶۰۸	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۸۱
۳۰	۱۶۱۰	سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ	۸۲
۳۰	۱۶۱۲	سُورَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ	۸۳
۳۰	۱۶۱۶	سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ	۸۴
۳۰	۱۶۱۹	سُورَةُ الْبُرُوْجِ	۸۵
۳۰	۱۶۲۲	سُورَةُ الطَّارِقِ	۸۶
۳۰	۱۶۲۳	سُورَةُ الْاَعْلٰی	۸۷
۳۰	۱۶۲۶	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ	۸۸
۳۰	۱۶۲۸	سُورَةُ الْفَجْرِ	۸۹
۳۰	۱۶۳۱	سُورَةُ الْبَلَدِ	۹۰
۳۰	۱۶۳۳	سُورَةُ الشَّمْسِ	۹۱
۳۰	۱۶۳۵	سُورَةُ اللَّيْلِ	۹۲
۳۰	۱۶۳۸	سُورَةُ الضُّحٰی	۹۳
۳۰	۱۶۴۰	سُورَةُ الشَّرْحِ	۹۴
۳۰	۱۶۴۲	سُورَةُ التِّيْنِ	۹۵
۳۰	۱۶۴۳	سُورَةُ الْعَلَقِ	۹۶

شماره پاره	صفحه	سورک ناو	شماره
۳۰	۱۶۴۷	سُورَةُ الْقَدْرِ	۹۷
۳۰	۱۶۴۸	سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ	۹۸
۳۰	۱۶۵۱	سُورَةُ الزَّلْزَالِ	۹۹
۳۰	۱۶۵۳	سُورَةُ الْعَادِيَاتِ	۱۰۰
۳۰	۱۶۵۴	سُورَةُ الْقَارِعَةِ	۱۰۱
۳۰	۱۶۵۵	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۱۰۲
۳۰	۱۶۵۷	سُورَةُ الْعَصْرِ	۱۰۳
۳۰	۱۶۵۹	سُورَةُ الْهُمَزَةِ	۱۰۴
۳۰	۱۶۶۰	سُورَةُ الْفِيلِ	۱۰۵
۳۰	۱۶۶۲	سُورَةُ قُرَيْشٍ	۱۰۶
۳۰	۱۶۶۳	سُورَةُ الْمَاعُونِ	۱۰۷
۳۰	۱۶۶۵	سُورَةُ الْكَوْثَرِ	۱۰۸
۳۰	۱۶۶۶	سُورَةُ الْكَافِرِيْنَ	۱۰۹
۳۰	۱۶۶۷	سُورَةُ النَّصْرِ	۱۱۰
۳۰	۱۶۶۸	سُورَةُ تَبَّتْ	۱۱۱
۳۰	۱۶۷۰	سُورَةُ الْاِخْلَاصِ	۱۱۲
۳۰	۱۶۷۲	سُورَةُ الْفَلَقِ	۱۱۳
۳۰	۱۶۷۳	سُورَةُ النَّاسِ	۱۱۴

إِنَّ وَزْلاَةَ الشُّؤْنِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْأَوْقَافِ وَالِدَعْوَةَ وَالْإِسْتِثْنَاءِ

في المملكة العربية السعودية

المشرفة على مجمع الملك فهد

لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة

إذيسرها أن يصدر المجمع هذه الطبعة من القرآن الكريم

وترجمة معانية إلى اللغة الكشميرية

تسأل الله أن ينفع بها الناس

وأن يحضري


خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أحسن الجزاء على جهوده العظيمة في نشر كتاب الله الكريم

والله ولي التوفيق

مملکت سعودی عرب وزارت برائے مذہبی امور، اوقاف، دعوت
 تہ ارشاد، نئس مدینہ منورس منز قرآن کریم چھاپن واپس شاہ فہد
 سندس مجمعس نگرانی چھہ کران، تھہ چھہ قرآن کریمس تھہ ایڈیشنس
 تہ ایمکس کاشرہ تفسیر کس اجراءس پیٹھ خوشی سپدان۔

بہ چھہ سہ اللہ تعالیٰ اس دعاء کران کہ امہ سیت واتن لوکن
 فائدہ تہ نفع۔ بہ دین خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز
 آل سعودن قرآن کریمس نشر و اشاعتس پیٹھ تہنزن عظیم کوشش
 ہندرت جزاء۔ اللہ تعالیٰ چھرت توفیق دہ وول۔




حَقُوقُ الطَّبَعِ مَحْفُوظَةٌ

الْمَجْمَعُ الْمَلِكِي فَهْدِي لِطَبَاعَةِ الْمُصَنَّفِ لِشَرِّهِمْ

ص. ب. ٦٢٦٢ - المدينة المنورة

www.qurancomplex.gov.sa

contact@qurancomplex.gov.sa



اللہ تعالیٰ سندہ مدد تہ
تہ توفیق سیت سپد مکمل یرہ قرآن کریمک
تہ املکہ تفسیرک چھاپ مجع شاہ فہد برائے
طباعہ قرآن کریم مدینہ منورس منور، زیر
نگرانی وزارت برائے مذہبی امور، اوقاف،
دعوت تہ ارشاد مملکت سعودی عرب
سنہ ۱۴۳۶ھ منور

حقوق طبع چھ محفوظ بنام
مجع شاہ فہد برائے طباعہ مصحف شریف

ص ب ۶۲۶۲ - مدینہ منورہ
www.qurancomplex.gov.sa
contact@qurancomplex.gov.sa

③ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٣٦ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكشميرية / مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف - ط ٢ - المدينة المنورة، ١٤٣٦ هـ

١٦٩٦ ص؛ ١٤ × ٢١ سم.

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨١٤٨-٧٩-٢

١- القرآن - ترجمة - اللغة الكشميرية أ. العنوان


ديوي ٢٢١،٤٩١٤٩٩ ١٤٣٥/٨٦٧٣

رقم الإيداع: ١٤٣٥ / ٨٦٧٣

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨١٤٨-٧٩-٢



9 786038 148792





١٤
٢

ردمك : ٢-٧٩-٨١٤٨-٦٠٣-٩٧٨

٣٠٥/٤٠٠ (٨) (٠١)

قرآن مجید
تئیک کاشر تفسیر

تلام و مین فر بیچین شیخ سلیمان بن عبدالعزیز آل سعود مدینه طریقی وقت
الله تعالی سزور شامدی حاصل کرد فیضیه
و بیگ کسین بیست و چهار
مشت قسم کرد فیضیه